

مظاہر حق

شرح (اُردو)

مشکوٰۃ شریف

جلد دوم

از مولانا

علامہ نواب محمد قطب الدین خان دہلوی
رحمۃ اللہ علیہ

مظاہر حق (کمپیوٹر)

شرح (اُردو)

مشکوٰۃ شریف

جلد دوم

از افادات: علامہ نواب محمد قطب الدین خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

ترتیب جدید: مولانا شمس الدین صاحب

ناشر

۱۸- اردو بازار ۵ لاہور ۵ پاکستان

37231788 - 37211788

مکتبۃ العلم

جملہ حقوق ملکیت بحق مکتبۃ العلم لاہور محفوظ ہیں

کاپی رائٹ رجسٹریشن

نام کتاب: ————— مظاہر حق (کمپیوٹر)

ازافادات: ————— علامہ نواب محمد قطب الدین خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

ترتیب جدید: ————— مہاتما سید الدین صاحب

طابع: ————— خالد مقبول

مطبع: ————— آر آر پرنٹرز

مصالحین

مولانا فرید بالا کوٹی صاحب

مولانا عبدالمنان صاحب

مولانا محمد حسین صاحب

لئے کے پتے

❖ مکتبہ رحمانیہ، اقراء سنٹر، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ 37224228

❖ مکتبہ علوم اسلامیہ، اقراء سنٹر، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ 37221395

❖ مکتبہ جویریہ ۱۸- اردو بازار، لاہور، پاکستان۔ 37211788

استدعا

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت

طباعت، تصحیح اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔

بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں تو ازراہ

کرم مطلع فرمادیں۔ ان شاء اللہ ازالہ کیا جائے گا۔ نشاندہی کے لئے ہم بے حد شکر

(ادارہ)

گزار ہوں گے۔

فہرست

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۴	نبی کریم ﷺ کی نزع کی کیفیت کا بیان	۳۱	یہ باب مریض کی عیادت اور بیماری کے ثواب کے بارے میں ہے
۴۵	مؤمن اور منافق کی زندگی کی حقیقت آپ ﷺ کی زبانی ..	۳۲	مسلمانوں کے مسلمانوں پر حقوق کا ذکر
۴۶	حدیث کی روشنی میں مؤمن اور منافق کی زندگی میں فرق ..	۳۳	مسلمانوں کے حقوق پر مشتمل دوسری روایت جس میں چھ چیزوں کا ذکر ہے
۴۷	بخاری پر آجر	۳۴	سات چیزوں کے کرنے اور سات چیزوں سے باز رہنے کا حکم
۴۸	اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ شفقت و ہمدردی کا معاملہ	۳۵	مریض کی عیادت کرنے پر انعام
۴۹	طاعون کی بیماری پر شہادت کا ثواب	۳۶	عیادت نہ کرنے پر خدا کی ناراضگی اور کرنے پر انعام کا ذکر
۵۰	شہداء کی اقسام	۳۷	بیماری کی فضیلت
۵۱	طاعون سے فرار اختیار کرنا منع ہے	۳۸	بیمار کے لیے دعائیں و کلمات
۵۲	طاعون کے بارے میں آپ ﷺ کی نصیحت	۳۹	پھوڑے پھنسی پر دم کرنے کا طریقہ
۵۳	بینائی کے ختم ہونے پر جنت کا وعدہ	۴۰	آیات قرآنیہ پڑھ کر دم کرنا مسنون ہے (حدیث سے ثابت ہے)
۵۴	مسلمان کی عیادت کرنے پر خدا کی طرف سے انعام	۴۱	دم کرنے کا مسنون طریقہ
۵۵	عیادت کے بارے میں دو مختلف روایات اور بہتر تطبیق	۴۲	جبریل علیہ السلام کا آپ ﷺ کو دم کرنا
۵۶	با وضو عیادت کرنے کی فضیلت	۴۳	تکلیف دہ چیزوں سے پناہ پکڑنے کا بیان
۵۷	بیمار کے لیے دعا کرنا مسنون ہے	۴۴	بھلائی امتحان کا سبب ہے
۵۸	بیمار کے لیے آپ ﷺ کی جامع دعا	۴۵	مصائب گناہوں کو مٹانے کا باعث ہوتے ہیں
۵۹	مریض کے لیے دعائیں الفاظ کہنے کا حکم	۴۶	شدت مرض پر شہرہ
۶۰	بندہ کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ	۴۷	آپ ﷺ کی شدت درد کا بیان
۶۱	دنیا کے مصائب و پریشانیاں گناہوں کا شہرہ ہوتا ہے		
۶۲	نیک لوگوں کی عزت افزائی		
۶۳	شہید کی اقسام		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۹	بخار کو برامت کہو یہ مسلمان کے لیے باعث رحمت ہے	۵۸	نیک لوگوں پر امتحانات و آزمائش کی بارش (یعنی بکثرت ہونا)
۷۰	بیماری میں خدا کی حکمت	۵۹	حضور اکرم ﷺ کی نزع کی کیفیت کا بیان
۷۱	مصائب کے بدلے بخشش کا وعدہ	۶۰	موت کی سختی کے وقت آپ ﷺ کا دعا پڑھنا
۷۲	حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنی بیماری پر اظہارِ افسوس	۶۱	گناہوں کی سزا دینے میں اللہ کی حکمت
۷۳	حضور اکرم ﷺ کا عیادت کا طریقہ	۶۲	امتحان پر صبر کرنے سے اللہ کی رضا مندی کا وعدہ
۷۴	مریض سے دعا کروانے کا حکم	۶۳	مومنوں پر آزمائش اور امتحانات
۷۵	مریض کے پاس اتنی اونچی آواز میں بولنا منع ہے جس سے مریض کو تکلیف پہنچے	۶۴	بندے کو درجاتِ عالیہ عطا فرمانے کا اللہ عزوجل کا انوکھا انداز
۷۶	مریض کے پاس کم بیٹھنے کا حکم	۶۵	ننانوے مہلک آزمائشیں
۷۷	مریض کی کھانے کی خواہش پوری کرنے کا حکم	۶۶	قیامت کے دن اہل عافیت کی آرزوئیں یعنی تمنائیں
۷۸	سفر جہاد کی موت گھر کی موت سے افضل ہے	۶۷	مومن بندے پر بیماری کے مثبت اثرات
۷۹	سفر جہاد بمنزلہ شہادت	۶۸	بیمار کو تسلی دینا مسنون ہے
۸۰	بیمار ہو کر مرنے پر شہادت کا ثواب	۶۹	پیٹ کی بیماری سے مرنے والا بھی شہید ہے
۸۱	طاہعون سے مرنے پر شہید کا حکم لگایا جائے گا	۷۰	غیر مسلم کی عیادت کرنا جائز ہے
۸۲	طاہعون سے بھاگنے کی ممانعت اور جبرے رہنے کی فضیلت	۷۱	بیمار کی عیادت پر اللہ کی طرف سے خوشنودی کا اعلان
۸۳	موت کی آرزو کرنے کے اور اس کو یاد کرنے کا بیان	۷۲	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضور ﷺ کی عیادت کرنا اور اچھی خبر دینا
۸۴	موت کی تمنا نہ کرو؛ نیکیوں کی زیادتی وازی عمر کے باعث ہے	۷۳	مرگی کی بیماری پر جنت کا وعدہ
۸۵	موت کی آرزو کرنا منع ہے	۷۴	بیماری کے ساتھ مرنا افضل ہے اور گناہوں سے دوری کا سبب ہے
۸۶	دنیا کی تکالیف پر موت مانگنے سے ممانعت	۷۵	بیماری کے بعد مریض کے لیے گناہوں کے ختم ہونے کی بشارت
۸۷	نزع کے عالم میں ملاقات کی محبت	۷۶	اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے گناہوں کو ختم کرنے کا طریقہ
۸۸	موت انسان کی نجات کا ذریعہ ہے	۷۷	آپ ﷺ کا بتایا ہوا بخار کے لیے عمل
۸۹	دنیا کی حیثیت مسافر خانے کی طرح ہے		
۹۰	اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان رکھنا		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۹۸	احوال پوچھنا.....	۸۴	اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے قیامت کے دن ملاقات کے بارے میں سوال.....
۹۹	کافر اور مؤمن کی نزع کی کیفیت کا بیان.....	۸۵	موت کو کثرت سے یاد کرو.....
۱۰۴	حضرت کعب بن علقمہ کا آخری وقت اور اتم بشرؓ کا سوال و جواب.....	۸۷	حقیقت حیا.....
۱۰۵	مؤمن کی روح کا مسکن.....	۸۸	مؤمن کے لیے موت باعث نعمت ہے.....
۱۰۶	باب ہے میت کے غسل اور اس کے کفن کے بارے میں.....	۸۹	موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا مؤمن کیلئے رحمت.....
۱۰۷	میت کو غسل دینے کا طریقہ.....	۸۹	نزع کے وقت بندہ مؤمن کی قلبی کیفیت.....
۱۰۷	حضور اکرم ﷺ کے کفن کا بیان.....	۸۸	موت کی تمنا کرنا منع ہے.....
۱۰۸	کفن بہتر ہونا چاہیے.....	۸۹	فکر آخرت پر آپ ﷺ کا وعظ.....
۱۰۹	حدیث مذکورہ میں کفن کا حکم صرف اسی کے ساتھ خاص تھا عام نہیں تھا.....	۹۰	حضرت خبابؓ کا اپنی مالی حالت کو بیان کرنا.....
۱۱۰	سفید کپڑے کی دوسرے کپڑوں پر فضیلت و برتری.....	۹۱	یہ باب اس شخص کے پاس پڑھنے کے بیان میں ہے جس کو موت حاضر ہو جائے.....
۱۱۰	کفن میں اسراف جائز نہیں ہے.....	۹۲	قریب المرگ کے لیے کلمہ طیب کی تلقین.....
۱۱۱	قریب المرگ کے لیے نئے کپڑے پہننا.....	۹۳	مریض یا میت کے پاس حاضری کے وقت اچھی دعا کرنا..
۱۱۳	شہداء کا پہنا ہوا لباس ان کا کفن ہے.....	۹۴	مصیبت پر صبر کرنے کا اچھا بدلہ.....
۱۱۳	جلیل القدر صحابہؓ کا مختصر کفن.....	۹۵	حضرت ابوسلمہؓ کی وفات کا واقعہ.....
۱۱۴	بدترین کافر کے ساتھ آپ ﷺ کا معاملہ.....	۹۶	وصال کے بعد آپ ﷺ پر یحییٰ چادر کا ڈالنا.....
۱۱۵	جنازے کے ساتھ چلنا اور اسکی نماز پڑھنا.....	۹۷	قریب المرگ کے پاس سورہ یسین پڑھنا.....
۱۱۶	صالح اور غیر صالح کے جنازے کا حکم اور اس کو جلدی کرنے کی حکمت.....	۹۸	میت کو بوسہ دینا جائز ہے.....
۱۱۷	تکریم میت ضروری ہے.....	۹۹	تلقین جلدی کرنے کا حکم.....
۱۱۸	نیک و برے کے جنازے کو جلدی لے جانے کی حکمت.....	۱۰۰	قریب الموت شخص کے لیے کلمات کی تلقین.....
۱۱۹	موت کی ہولناکی کی وجہ سے جنازے کی تکریم ضروری ہے.....	۱۰۱	فاسق اور مؤمن کے آخری وقت میں فرق.....
۱۲۰	نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کرنے پر عظیم اجر.....	۱۰۲	آپ ﷺ نے کافر کی روح کا ذکر کرتے ہوئے کراہت محسوس فرمائی.....
۱۲۱	آپ ﷺ کا نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا.....	۱۰۳	مؤمنوں کی ارواح کا بعد میں آنے والی روحوں سے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۱۸	مردوں کو اچھے الفاظ سے یاد کرو یعنی ان کی خوبیاں بیان کرو	۱۱۸	نماز جنازہ میں تکبیرات کا مسئلہ
۱۳۳	مرد اور عورت کے جنازے پر امام کے کھڑا ہونے کا بیان ..	۱۱۹	نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ
۱۳۴	جنازے کے احترام میں کھڑے ہونا ..	۱۳۰	آپ ﷺ کی ایک جنازے کے موقع پر جامع دُعا ..
۱۳۵	یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم ..	۱۳۱	مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا ثبوت ..
۱۳۶	جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے	۱۳۲	نماز جنازہ پڑھاتے وقت امام کہاں کھڑا ہو اس کے تعین کے بارے میں ائمہ کرام رحمہم اللہ کا اختلاف ..
۱۳۷	حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زبانی یہودی کے جنازے پر کھڑے ہونے کا سبب ..	۱۳۳	آپ ﷺ کا قبر پر نماز جنازہ پڑھنا ..
۱۳۸	فرشتوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا ..	۱۳۴	قبر کو منور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر پر نماز جنازہ پڑھنا ..
۱۳۹	جنازے کی تین صفوں پر بہشت کا وعدہ ..	۱۳۵	چالیس موحد آدمیوں کے جنازے میں حاضر ہونے کی فضیلت ..
۱۴۰	آپ ﷺ کا میت کے لئے جامع دُعا کرنا ..	۱۳۶	لوگوں کے تذکرے کی بنا پر میت کے ساتھ سلوک (جنت یا دوزخ) ..
۱۴۱	نابالغ کیلئے عذاب قبر سے پناہ مانگنا حدیث سے ثابت ...	۱۳۷	مؤمنوں کی گواہی پر جنت کا فیصلہ آپ ﷺ کی زبانی ..
۱۴۲	نماز جنازہ میں سورت فاتحہ پڑھنا اور نبالغ بچے کے لیے دُعا کرنا ..	۱۳۸	میت کو برا مت کہو ..
۱۴۳	نا تمام بچے پر شرعی احکامات (نہ نماز پڑھی جائے نہ وارث بنے نہ بنایا جائے) نافذ نہیں ہوتے ..	۱۳۹	تدفین کے وقت قاری قرآن کا اکرام ..
۱۴۴	یہ باب مردوں کے دفن کرنے کے بیان میں ہے ..	۱۴۰	جنازے کا ساتھ پیدل چلنا ..
۱۴۵	حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا مرتے وقت بھی حضور ﷺ کی اتباع کا شوق ..	۱۴۱	جنازے کے ساتھ چلنے کا طریقہ ..
۱۴۶	قبر میں بطور بستر کے چادر بچھنا ممنوع ہے ..	۱۴۲	جنازے سے آگے چلنے پر شیخین کا عمل ..
۱۴۷	حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی زبانی آپ ﷺ کی قبر کو ہان نہ تھیں	۱۴۳	جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے کیوں کہ وہ تابع نہیں ہے ..
۱۴۸	تصویر اور بلند قبر بنانے کی ممانعت ..	۱۴۴	میت کو کندھا دینے پر حقوق کی ادائیگی ..
۱۴۹	قبر پر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے کی ممانعت ..	۱۴۵	جنازے کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے ..
۱۵۰	قبر پر بیٹھنا کس قدر ناپسندیدہ عمل ہے ..	۱۴۶	میت کے لئے دُعا کرنے کا حکم ..
۱۵۱	بغلی قبر مسنون ہے ..	۱۴۷	میت کے لیے دُعا ..
۱۵۲	لحد کا لٹا مسنون ہے ..	۱۴۸	آپ ﷺ کا میت کے لیے مغفرت و رحمت کی دُعا کرنا ..

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۸ نہیں ہے	۱۳۵	قبر گہری اور صاف ہونی چاہیے
۱۵۹	غم کی وجہ سے آنسوؤں کا نکلنا		شہیدوں کی آخری آرام گاہیں ان کی شہید ہونے کی جگہیں
	نامعلوم بیماری پر آپ ﷺ کا پریشان ہو کر آنسوؤں کا جاری		ہیں
۱۶۰ ہو جانا	۱۳۷	میت کو قبر میں کیسے اتارا جائے
	مصیبت پر دوا دینا کرنا ممنوع ہے		میت کو قبلہ کی جانب سے قبر میں اتارنا مسنون ہے
۱۶۱	مصیبت کے وقت بے صبری کا مظاہرہ کرنا ممنوع ہے	۱۳۸	میت کو قبر میں اتارتے وقت کی دُعا
	حسب و نسب میں فخر کرنا ممنوع ہے		قبر پر پانی چھڑکنے اور سنگریزے رکھنے (بطور نشانی کے)
	آپ ﷺ کا ایک عورت کو مصیبت و پریشانی کے وقت صبری		کا ثبوت
۱۶۲	تلقین کرنا	۱۳۹	قبر کو سچ یعنی چونا کرنا منع ہے
۱۶۳	تین بیٹوں کے فوت ہونے پر ملنے والا اجر		حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کا آپ ﷺ کی قبر پر پانی کا
۱۶۴	اپنے پیارے کی وفات پر جنت کی ضمانت		چھڑکاؤ کرنا
۱۶۵	نوحہ سننا اور کرنا دونوں ممنوع ہیں	۱۵۰	قبر پر پتھر رکھنا بطور علامت کے مسنون ہے
	پریشانی اور خوشی کے وقت مؤمن کی قلبی کیفیت		قبر کی اونچائی بالشت کی بقدر اونچی ہونی چاہیے
۱۶۶	مؤمن کے فوت ہونے پر آسان وزمین بھی روتے ہیں	۱۵۱	میت کی بے اکرامی ممنوع ہے
	ثواب مصیبت و مشقت کے بقدر ہوتا ہے	۱۵۲	حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی تدفین کا بیان
۱۶۷	بیٹے کے فوت ہونے پر جنت میں بیت الحمد کی خوشخبری		حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا نزع کی حالت میں بیٹے کو
	تسل دینے والے کو اجر ملنا	۱۵۳	نصیحت کرنا
	بیٹے کی وفات پر عورت کو تسلی دینے کے باعث جنت کا لباس		میت کو جلدی دفن کرنے کا حکم
۱۶۸	پہنایا جائے گا	۱۵۴	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا میت کے منتقل کرنے کو ناپسند کرنا
	میت کے اہل والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا		امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میت کو قبر میں اتارنے کا
۱۶۹	نوحہ کرنے پر عذاب کی وعید	۱۵۵	طریقہ
	میت کو زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے	۱۵۶	قبر پر مٹی ڈالنے کا مسنون طریقہ
۱۷۰	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اونچی آواز سے رونے کو ناپسند کرنا		قبر پر تکیہ لگا کر بیٹھنے کی ممانعت
	آپ ﷺ نے میت پر بلند آواز سے رونے کو سختی سے منع کیا		میت پر رونے کا بیان
۱۷۲ ہے		غم کی وجہ سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا نبوت کے منافی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۸۸	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا زیارت قبور کے لیے دُعا کا پوچھنا ..	۱۷۳	نوح کرنا شیطانی عمل ہے ..
	قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے ..	۱۷۴	خوبیاں بیان کرنے سے ممانعت ..
۱۸۹	قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت ..		میت پر اس کی خوبیاں بیان کر کے روناسخت ممانعت ہے ..
	زیارت کرتے وقت میت کا لحاظ کرنا ضروری ہے ..	۱۷۵	حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کے بین کرنے کو منع کرنا ..
	کتاب الزکوۃ	۱۷۶	نزی کے ساتھ برائی منع کرو ..
۱۹۱	یہ کتاب زکوۃ کے بیان کے بارے میں ہے ..	۱۷۷	حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی کا اظہارِ افسوس کے لیے خیمہ کھڑا کرنا ..
۱۹۲	زکوۃ کے بنیادی احکام ..		بری رسوں کے اپنانے پر وعید ..
۱۹۵	زکوۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت وعید ..	۱۷۸	نوح کرنے والی کا جنازے کے ساتھ جانا منع ہے ..
۱۹۸	زکوۃ ادا نہ کرنے والے کے لیے وعید ..		چھوٹے بچوں کا فوت ہو جانا والدین کے لیے دخولِ جنت کا
۱۹۹	زکوۃ کی ادائیگی نہ کرنے والے پر سخت وعید ..		باعث ہے ..
	عالمین زکوۃ کو خوش کر کے بھیجو ..	۱۷۹	دو یا تین بچوں کی وفات پر جنت کا وعدہ ..
۲۰۰	زکوۃ کی ادائیگی کرنے والوں کیلئے آپ کا دُعا کرنا ..		نا تمام بچے کی پیدائش کی وجہ سے بھی ماں باپ کو جنت میں
	عامل زکوۃ کے لیے نصیحت ..		داخل کر دیا جائے گا ..
۲۰۱	عامل زکوۃ کا ہدیہ لینا جائز نہیں ہے ..		چھوٹے فوت شدہ بچے اپنے والدین کے لیے آگ سے
۲۰۳	عامل زکوۃ کے لیے دیانتداری کی ترغیب ..	۱۸۰	نجات کا ذریعہ ہو گئے ..
	زکوۃ مال کو پاک کرنے کا سبب ہے ..	۱۸۱	صدے کے ابتداء میں صبر کرنا دخولِ جنت کا باعث ہے ..
۲۰۵	عالمین زکوۃ کو خوش کرنے کا حکم ..	۱۸۲	مصیبت کا وقت یاد آنے پر کلمہ استرجاع پر ملنے والا ثواب ..
	زکوۃ لینے والوں کو ناراض نہ کرو اگرچہ وہ ظلم کریں ..		ادنیٰ مصیبت پریشانی کے وقت بھی کلمہ استرجاع کی تلقین
۲۰۶	مال زکوۃ سے چھپانا ممنوع ہے ..	۱۸۳	امت محمدیہ کی فضیلت ..
	عامل زکوۃ کے لیے نصیحت یا ہدایت ..		ابتداء اسلام میں تین مذکورہ چیزوں کی ممانعت بعد میں
۲۰۷	مال مستفاد کا حکم ..		رخصت دے دی گئی ..
۲۰۸	مدت پوری ہونے سے پہلے زکوۃ ادا کی جاسکتی ہے ..	۱۸۵	آپ ﷺ کا مال کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگنا ..
	یتیم کے مال کی حفاظتی تدبیر ..	۱۸۶	زیارت قبور کے وقت آپ ﷺ کا مسلمانوں کو دُعا سکھانا ..
	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا منکرین زکوۃ کے ساتھ لڑائی		قبرستان کے پاس گزرتے وقت کی مسنون دُعا ..
۲۰۹	کرنے کا ارادہ ..	۱۸۷	آپ ﷺ کا آخر شب میں قبرستان جانا ..

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۲۹	یہ باب صدقۃ الفطر کے بیان میں ہے.....	۲۱۰	اگر جمع شدہ مال پر زکوٰۃ ادا نہ کی گئی تو وہ قیامت کے دن گنجا سا بن جائے گا.....
۲۳۰	صدقۃ فطر کے احکام.....	۲۱۱	زکوٰۃ کے مال کو دوسرے مال کے ساتھ نہ ملاؤ.....
۲۳۱	کون کوئی چیزیں بطور فطرانہ کے دے سکتے ہیں؟.....	۲۱۲	یہ باب وجوب زکوٰۃ کے بارے میں ہے.....
۲۳۱	صدقۃ فطر کھجور، جو، گندم وغیرہ سے دیں.....	۲۱۳	مختلف نصابوں کی مقدار.....
۲۳۲	صدقۃ فطر کے فوائد.....	۲۱۴	گھوڑے اور غلام کے بارے میں زکوٰۃ کے احکامات.....
۲۳۲	صدقۃ فطر کی وجوہیت کا مسئلہ.....	۲۱۸	زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیل.....
۲۳۳	صدقۃ فطر گھر کے تمام افراد کی طرف سے دینا ہوگا، چھوٹے بڑے کی قید نہیں.....	۲۱۸	عشر کے احکام.....
۲۳۳	بنو ہاشم کے لیے صدقہ کھانے کی ممانعت.....	۲۲۰	زکا زکا حکم.....
۲۳۵	آپ ﷺ کا صدقہ کھانے سے اجتناب کرنا.....	۲۲۲	گھوڑوں اور غلاموں میں جب وہ تجارت کیلئے نہ ہوں زکوٰۃ واجب نہیں ہے.....
۲۳۶	نبی کریم ﷺ اور آل محمد ﷺ کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے آپ ﷺ صدقہ نہیں کھاتے تھے ہدیہ کھالیا کرتے تھے... حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں احکام.....	۲۲۳	امیر کا عامل زکوٰۃ کو ہدایات دینا.....
۲۳۸	آپ ﷺ صدقہ کا بدلہ دیا کرتے تھے.....	۲۲۳	زکوٰۃ میں واجب مقدار وصول کرنی چاہیے.....
۲۳۹	آپ ﷺ قیت کے ہدیے کو بھی قبول کر لیتے تھے.....	۲۲۴	زمینی پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہے.....
۲۳۹	مسکین کی تعریف.....	۲۲۵	انگوروں کی زکوٰۃ کا بیان.....
۲۴۰	بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ کا مال حلال نہیں ہے.....	۲۲۶	کھجور اور انگور کا اندازہ لگا کر زکوٰۃ دینا جائز ہے.....
۲۴۱	بنی ہاشم کے غلاموں کے لئے بھی صدقہ کے مال کی حرمت.....	۲۲۷	حدیث پاک سے کھجوروں کے اندازہ کرنے کا ثبوت.....
۲۴۱	صحت مند کے لئے زکوٰۃ کا مال لینا درست نہیں ہے.....	۲۲۸	شہد کی زکوٰۃ مختلف فیہ مسئلہ ہے.....
۲۴۳	پانچ صورتوں میں غنی کے لئے بھی زکوٰۃ کا مال حلال ہو جاتا ہے.....	۲۲۹	عورتوں کو زیورات سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم.....
۲۴۳	قرآن کی رو سے زکوٰۃ کے آٹھ مصارف.....	۲۳۰	زیورات میں زکوٰۃ دینے کا حکم.....
۲۴۳	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عمل.....	۲۳۱	سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ دینے کی تاکید.....
۲۴۳	جن لوگوں کو سوال کرنا جائز ہے اور جن کو جائز نہیں اُن کا بیان.....	۲۳۲	سامان تجارت میں زکوٰۃ کا حکم.....
۲۴۳	۲۳۳	کانوں کی پیداوار پر نصاب.....
		۲۳۴	عاریت کی چیزوں اور سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے.....
		۲۳۵	زکوٰۃ کے بارے میں وقص کا حکم.....

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۵	اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بدلہ	۲۳۵	اشد ضرورت کے تحت سوال کرنا جائز ہے
۲۳۶	مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو	۲۳۶	اپنے حال میں اضافہ کے لئے مانگنے پر وعید
۲۶۲	صدقہ دینے والے اور بخیل کی مثال	۲۳۷	بلا ضرورت مانگنے والوں کا قیامت کے دن حشر
۲۶۳	بخل سے بچو	۲۳۸	سوال ضرورت کے تحت کیا جائے
۲۶۳	صدقہ دینے کو غنیمت جانو	۲۳۸	محنت مزدوری کرنا دست سوال دراز کرنے سے بہتر ہے
۲۶۳	اپنے تقاضوں کو دباتے ہوئے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا افضل صدقہ ہے	۲۳۹	دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے
۲۶۳	مال جمع کرنے والے خسارے میں ہیں	۲۳۹	اللہ تعالیٰ سوال نہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے
۲۶۵	سخاوت کو بخل پر برتری حاصل ہے	۲۵۰	جو چیز بغیر لالچ اور خواہش کے ملے قبول کرنی چاہیے
۲۶۵	تندرستی میں مال خرچ کرنا مرتے وقت مال خرچ کرنے سے بدرجہا بہتر ہے	۲۵۱	سوال کرنے والوں کو تنبیہ
۲۶۶	زندگی میں خیرات کرنے پر زیادہ ثواب ملتا ہے	۲۵۱	بلا ضرورت مانگنے والوں کا حشر
۲۶۶	مومن مذکورہ دو خصصتوں کا حامل ہوتا ہے	۲۵۲	غنی کون کہلا سکتا ہے
۲۶۶	مکار اور بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا	۲۵۳	لوگوں سے بطریق الحاح نہ مانگا جائے
۲۶۷	حرص اور بزدلی بری خصصتیں ہیں	۲۵۵	انتہائی ضرورت کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا یا جائے
۲۶۷	آپ ﷺ کا خیرات کرنے والی کی طرف اشارہ کرنا	۲۵۵	لوگوں سے سوال کرنے کی ممانعت
۲۶۸	صدقہ و خیرات کے ضمن میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ	۲۵۶	ضرورت کے وقت سوال اچھے لوگوں سے کیا جائے
۲۶۹	خیرات کرنے کا دنیا میں ثمرہ	۲۵۷	بغیر مانگے اگر کوئی چیز مل جائے تو قبول کر لینی چاہیے
۲۷۰	انسان کو چاہیے کہ اپنے ماضی کو فراموش نہ کرے اور اللہ عزوجل کا شکر بجالائے	۲۵۸	غیر اللہ سے مانگنا بہت برا عمل ہے
۲۷۲	سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے	۲۵۸	طمع فقر ہے
۲۷۳	سائل کو واپس نہیں لوٹانا چاہیے	۲۵۹	انسانوں سے نہ مانگنے پر جنت کی ضمانت
۲۷۳	خدا کے نزدیک بدترین آدمی جو سائل کا سوال پورا نہ کرے	۲۶۰	ادنیٰ چیز کے لیے بھی سوال نہیں کرنا چاہیے
۲۷۴	حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا زہد و تقویٰ	۲۶۱	یہ باب ہے مال خرچ کرنے کی فضیلت اور بخل کی کراہت کے بارے میں
۲۷۵	دنیا کا مال اور اسباب قرب الہی میں رکاوٹ کا باعث ہے		آپ ﷺ کا جذبہ سخاوت
			سخی اور بخیل کے لیے فرشتوں کی دُعا
			اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرو

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۹۰	کنواں کھدوانا اور ضرورت مند کو ضرورت کی چیز مہیا کر دینا بھی صدقہ ہے.....	۲۷۵	دراشت کے مال کے بارے میں آپ ﷺ کا عمل.....
۲۹۱	ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے پر جنت کا وعدہ. زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں دوسروں کا حصہ ہے.....	۲۷۶	آپ نے آڑھے وقت (مشکل وقت) کیلئے مال بچا کر رکھنے کو ناپسند فرمایا ہے.....
۲۹۲	عام ضرورت کی چیزوں سے منع نہیں کرنا چاہیے..... خشک زمین کو آباد کرنا صدقہ ہے.....	۲۷۷	حی اور بخیل کو درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے.....
۲۹۳	کسی کو چیز عاریتاً دینا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے... آپ ﷺ کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قیمتی نصیحتیں.....	۲۷۸	صدقہ دینے سے آزمائش دور ہو جاتی ہیں.....
۲۹۵	صدقہ میں دی جانے والی چیز آخرت میں ملے گی..... اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کپڑا پہنانے پر انعام.....	۲۷۹	صدقات کی فضیلت کے بیان میں.....
۲۹۶	اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر..... اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور ناپسندیدہ لوگ.....	۲۸۰	صدقہ کا اجر و ثواب.....
۲۹۷	صدقہ کی برتری تمام مادی چیزوں پر..... اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کا حکم.....	۲۸۱	صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے.....
۲۹۸	عاشوراء کے دن اہل و عیال پر وسعت کرنا..... صدقہ کا ثواب کئی گنا ہوتا ہے.....	۲۸۲	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جامع الخصال تھے.....
۳۰۰	یہ باب بہترین صدقہ کے بیان میں ہے..... بہترین صدقہ کی صورت.....	۲۸۳	مسایوں کا خیال رکھو.....
۳۰۱	بیوی پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے بلکہ مقبول صدقہ ہے.. ثواب کی رو سے بڑا صدقہ.....	۲۸۴	حقیر چیز یعنی ادنیٰ چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی نیکی ہے.....
۳۰۲	اہل و عیال پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے..... اپنی اولاد پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے.....	۲۸۵	بطور شکر الہی کے ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے.....
۳۰۳	اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا وہ ہر ثواب ملتا ہے..... رشتے دراویں کو صدقہ دینا زیادہ ثواب ہے.....	۲۸۶	انسان کے ہر جڑ پر صدقہ واجب ہے.....
۳۰۴	قریب پڑوسی ہدیے کا زیادہ مستحق ہے.....	۲۸۷	تسبیحات پڑھنا بھی صدقہ ہے.....
		۲۸۸	بہترین صدقہ کی طرف نشاندہی.....
		۲۸۹	زراعت اور درخت لگانا صدقہ میں شامل ہے.....
			جانور پر احسان کرنے کی وجہ سے بدکار عورت کی بخشش.....
			چھوٹی سی برائی کو حقیر نہ جانو.....
			راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا دخول جنت کا باعث ہے.....
			تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا نفع سے خالی نہیں ہے..
			اخلاقی حسنہ کی تعلیم.....
			صدقہ رب کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے.....
			کسی مسلمان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا صدقہ ہے.....
			صدقہ کی تفصیل.....

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۱۵	صدقے کا مال واپس لینے کا ایک طریقہ..... کتاب الصوم	۳۰۵	ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو..... مال کی کمی باوجود صدقہ کرنا یہ افضل صدقہ ہے.....
۳۱۸	رمضان المبارک میں خدا کی رحمتیں.....	۳۰۶	صدقہ دیتے وقت رشتے دار کا خیال رکھنا چاہے دو ہر اثواب ملتا ہے.....
۳۱۹	روزے دار کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ ہوگا..... روزے کی مقبولیت کے لیے دو شرطیں: ① ایمان ② و احتساب.....	۳۰۷	مال خرچ کرنے کا طریقہ..... بدترین اور بہترین آدمیوں کی طرف نشاندہی.....
۳۲۰	اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا..... رمضان کی فضیلت کے بارے میں آپ ﷺ کا فرمان مبارک.....	۳۰۸	سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ..... اخلاقی حسنہ کی تعلیم.....
۳۲۱	مذکورہ حدیث بھی رمضان اور لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں ہے..... روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن سفارش کریں گے.....	۳۰۹	اللہ رب العزت سے صرف جنت کا سوال کرو..... محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا.....
۳۲۲	رمضان شریف کی رحمت سے محرومی بڑی نصیبی ہے..... آپ ﷺ کا شعبان کے آخری دنوں میں وعظ.....	۳۱۰	جاندار کو کھلانا بھی صدقہ ہے..... یہ باب اس چیز کے بارے میں ہے کہ خرچ کرے اپنے خاوند کے مال سے.....
۳۲۳	آپ ﷺ کا حسن سلوک رمضان کے مہینے میں..... رمضان کی آمد میں جنت کو مزین کیا جاتا ہے.....	۳۱۱	صدقہ کرنے والی عورت کے ثواب کا تذکرہ..... عورت کا خاوند کی اجازت کے بغیر صدقہ کرنے کا حکم.....
۳۲۴	رمضان کے آخر میں روزے دار کو پورا ثواب دے دیا جاتا ہے..... یہ باب (پہلی رات کے) چاند دیکھنے کے بیان میں ہے..	۳۱۲	داروغے کے اوصاف اور مالک کے حکم کی تعمیل..... میت کو صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے.....
۳۲۵	رمضان کا آغاز اور اختتام چاند دیکھ کر کرو..... ابر کی صورت میں شعبان کی گنتی پوری کرو.....	۳۱۳	خاوند کی اجازت کے بغیر ادنیٰ چیز بھی صدقہ نہیں کرنی چاہے تازہ چیزوں کو بغیر اذن کے استعمال کرتے ہیں اور ان کا کرنا بھی جائز ہے.....
۳۲۸	مہینے کے ایام کا حساب..... عید کے مہینوں کا ذکر.....	۳۱۴	مالک کی رضامندی سے خرچ کرو..... یہ باب اس کے شخص کے بارے میں ہے جو صدقہ دے کر واپس نہ لے نہ ہیئتہ اور نہ ہی صورتہ.....
۳۲۹	شعبان کو رمضان کے ساتھ نہ ملاؤ.....		صدقہ دے کر واپس نہیں لینا چاہے.....

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۳۰	دو معتبر صحابیوں سے کاذب جو نماز اور افطاری جلدی و تاخیر کرتے تھے	۳۳۰	نصف شعبان کے بعد نفلی روزہ نہ رکھیں
۳۳۲	سحری کا کھانا با برکت ہوتا ہے	۳۳۱	پے در پے دو مہینوں کے روزے نہ رکھیں جائیں
۳۳۳	مومن کی بہترین سحری کھجور سے ہے	۳۳۲	روزہ رکھنے میں آپ ﷺ کی اتباع ضروری ہے
۳۵۸	روزے کے پاک کرنے کے بیان میں	۳۳۲	فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی رمضان کے چاند میں
۳۵۹	روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنا چاہیے	۳۳۳	چاند دیکھنے کا ثواب
۳۶۰	روزے کی حالت میں بیوی سے بوس کنار کی اجازت ہے	۳۳۳	رمضان کی حفاظت کی خاطر شعبان کی کتنی پر خصوصی دیتے تھے
۳۶۰	غسل کیے بغیر روزہ رکھنے کی اجازت ہے	۳۳۵	چاند دیکھ کر روزہ رکھو
۳۶۰	روزے کی حالت میں بیٹگی لگوانے کی اجازت ہے	۳۳۵	روزوں کے متفرق مسائل کے بارے میں یہ باب قائم کیا گیا ہے
۳۶۰	اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیا تو معاف ہے	۳۳۶	سحری کھانے میں برکت ہے
۳۶۰	مذکورہ مسئلہ میں کفارہ اپنی ذات و اہل و عیال پر خرچ کرنا صحابی کی خصوصیت تھی	۳۳۶	سحری وقت کھانا نبی کریم ﷺ کی سنت ہے
۳۶۲	روزے کی حالت میں بیوی کی زبان چومنے کی اجازت ہے	۳۳۶	افطاری کرنے میں جلدی کرو
۳۶۲	جماع کے خوف کی وجہ سے جوان کو اجازت نہ ملی	۳۳۷	غروب آفتاب ہوتے ہی روزہ افطار کرنا چاہیے
۳۶۳	قصد آتے کرنے سے قضاء آتی ہے	۳۳۷	پے در پے روزے رکھنے کی ممانعت
۳۶۳	قصد آتے کر کے روزہ توڑ ڈالنے سے قضاء آتی ہے	۳۳۸	روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے
۳۶۴	روزے دار کو مسواک کرنی جائز ہے	۳۳۸	اذان سنتے ہی سحری کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ وقت کا خیال کرنا چاہیے
۳۶۵	روزے کی حالت میں سرمہ لگانے کی اجازت ہے	۳۳۹	افطار کرنے میں جلدی کرو کھجور سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے
۳۶۵	غسل بروقت جائز ہے	۳۴۰	کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے
۳۶۶	روزے کی حالت میں بیٹگی لگانے کی اجازت ہے	۳۴۰	افطاری کروانے اور جہاد پر بھیجنے والے کے لیے اجر
۳۶۶	رمضان کا روزہ قصداً افطار کرنے کا بہت بڑا نقصان ہے	۳۴۱	روزے کی افطاری کے وقت آپ ﷺ کی دعا مبارکہ
۳۶۷	روزہ رکھ کر رزائل اخلاق سے بچنا ضروری ہے ورنہ نقصان ہوگا	۳۴۱	روزہ افطار کرتے وقت مسنون دُعا
۳۶۷		۳۴۱	افطار کرنے میں جلدی کرنا چاہیے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۷۸	یہ باب نفلی روزے کے بیان میں ہے	۳۶۸	روزہ نہ توڑنے والی چیزوں کا ذکر
۳۷۹	آپ ﷺ کی عادت مبارکہ شعبان کے اکثر روزے رکھنے کی تھی	۳۶۹	روزہ دار کو پیچھے لگوانے کی اجازت ہے
۳۸۰	شعبان کے روزوں کے بارے میں آپ ﷺ کا معمول ..	۳۷۰	حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنا عمل سیکی لگوانے کے بارے میں مفطل کے چبانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا
۳۸۱	شعبان کے آخری دنوں کے بارے میں آپ ﷺ کی تاکید	۳۷۱	مسافر کے روزے کے بیان میں
۳۸۲	بہترین روزہ اور بہترین نماز	۳۷۲	سفر میں افطار کی اجازت ہے
۳۸۳	یوم عاشورہ کے روزے کی اہمیت	۳۷۳	روزے دار اور مفطر کا آپس میں عمدہ رویہ اور ایک دوسرے کا عیب نہ نکالنا
۳۸۴	عاشورہ کے روزے میں یہود و نصاریٰ کی مخالفت	۳۷۴	سفر میں افطار کرنے کی اجازت ہے
۳۸۵	حج کرنے والے کے لیے عرفہ کا روزہ مسنون نہیں ہے	۳۷۵	سفر میں افطار کرنے والوں کی حوصلہ افزائی
۳۸۶	عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کا مسئلہ	۳۷۶	حالت سفر میں روزہ توڑنے کی گنجائش ہے
۳۸۷	نفلی روزوں کے احکام اور آپ ﷺ کا عمل	۳۷۷	مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے
۳۸۸	سوموار کے دن کی اہمیت	۳۷۸	اگر سفر آرام دہ ہو تو روزہ رکھنا بہتر ہے
۳۸۹	مہینے کے تین روزوں کا ذکر	۳۷۹	آپ ﷺ کا رخصت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ناراض ہونا
۳۹۰	شوال کے روزوں کی فضیلت	۳۸۰	سفر میں روزہ رکھنے کو آپ ﷺ نے ناپسند کیا
۳۹۱	عید کے دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے	۳۸۱	سفر میں رخصت پر عمل کرنا بہتر ہے
۳۹۲	ایام تشریق میں روزے رکھنا منع ہیں	۳۸۲	یہ باب قضاء روزوں کے بیان میں ہے
۳۹۳	تہادان کا روزہ نہ رکھے بلکہ ایک دن اور ساتھ ملا لے	۳۸۳	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معمول کے قضاء روزوں کے بارے میں
۳۹۴	کسی دن کو عبادت کے لیے خاص کرنا منع ہے	۳۸۴	نفلی روزہ خاوند کی اجازت سے رکھنا چاہیے
۳۹۵	اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے کی فضیلت	۳۸۵	عورت کے ذمے روزے کی قضاء ہے نہ کہ نماز کی
۳۹۶	عبادت کرنے میں راہ اعتدال اختیار کرو	۳۸۶	در ثاء کی طرف سے قضا روزوں کا فدیہ ہے
۳۹۷	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بقول آپ ﷺ کا پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا معمول	۳۸۷	روزے کے فدیہ کا بیان
۳۹۸	اللہ رب العزت کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں ..	۳۸۸	کسی کی طرف سے نماز اور روزہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے
۳۹۹	ایام بیض کے روزے	۳۸۹
۴۰۰	آپ ﷺ کا معمول مہینہ کے تین روزہ رکھنے کا تھا	۳۹۰

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۰۵	طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو.....	۳۹۱	ہفتہ کے دنوں میں روزہ رکھنے کا آپ ﷺ کا معمول مبارک.....
۴۰۶	شب قدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے.....	۳۹۲	ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر اجر.....
۴۰۷	خصوصی طور پر طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو.....	۳۹۳	یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کی ممانعت.....
۴۰۸	اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے.....	۳۹۴	اکیلے ہفتہ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت.....
۴۰۹	شب قدر کو پانے کا طریقہ.....	۳۹۵	اللہ کے راستے میں رکھنے کا اجر.....
۴۱۰	رمضان شریف میں آپ ﷺ کا معمول مبارک.....	۳۹۶	سردیوں کے موسم میں روزہ رکھنا غنیمت ہے.....
۴۱۱	آخری عشرے میں آپ ﷺ کا عبادت میں خوب محنت کرتے.....	۳۹۷	عاشورہ کے روزہ رکھنے کی وجہ.....
۴۱۲	لیلۃ القدر میں مانگی جانے والی دعا کا ذکر.....	۳۹۸	ہفتہ اور اتوار کے دن روزہ رکھنے میں یہود و نصاریٰ کی مخالفت مقصود ہے.....
۴۱۳	طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم.....	۳۹۹	عاشورہ کے دن کی اہمیت.....
۴۱۴	شب قدر مختلف طاق راتوں میں آتی ہے یعنی ہر طاق راتوں.....	۴۰۰	آپ ﷺ کی چار چیزوں پر مداومت.....
۴۱۵	میں بدلتی رہتی ہے.....	۴۰۱	ایام بیض کے روزوں کے بارے میں آپ ﷺ کا معمول.....
۴۱۶	شب قدر متعین نہیں ہے.....	۴۰۲	خالص عمل کا اللہ کے نزدیک اجر.....
۴۱۷	رمضان شریف کا اہتمام کرنے والے کو مزدور کے ساتھ تشبیہ.....	۴۰۳	یہ باب پہلے بابوں کے متعلق متفرق مسائل کے بیان میں.....
۴۱۸	دی ہے.....	۴۰۴	نقلی روزہ کی نیت کا بیان.....
۴۱۹	رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی آپ ﷺ.....	۴۰۵	روزہ توڑنے کے لیے ضیافت عذر ہے یا نہیں.....
۴۲۰	کی عادت مبارکہ.....	۴۰۶	روزہ دار ضیافت کو قبول کرے.....
۴۲۱	آپ ﷺ کی سخاوت کا بیان.....	۴۰۷	نقلی روزہ رکھنے والا با اختیار ہوتا ہے.....
۴۲۲	آپ ﷺ کے اعتکاف کا معمول.....	۴۰۸	نقلی روزہ افطار کرنے پر قضاء لازم آتی ہے.....
۴۲۳	مسائل اعتکاف کا بیان.....	۴۰۹	روزہ دار کے پاس کھانے کی وجہ سے روزہ دار کو اجر.....
۴۲۴	اپنی نذروں کو پورا کرو.....	۴۱۰	روزے دار کو بہترین رزق جنت میں دیا جائے گا.....
۴۲۵	آپ ﷺ کے اعتکاف کا ذکر.....		
۴۲۶	آپ ﷺ کا اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ.....		
۴۲۷	اعتکاف کی حالت میں مریض کی عیادت کی جاسکتی ہے...		
۴۲۸	محظورات اعتکاف.....		
۴۲۹	اعتکاف کی حالت میں چار پانی پر بیٹھنے کا ثبوت اسطوانہ کا.....		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۳۸	فتنے سے بچاؤ کا باعث.....	۴۲۱	معنی ہے ستون.....
۴۳۹	سورۃ اخلاص کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے.....	۴۲۲	مختلف کا قیام.....
۴۴۰	سورۃ اخلاص سے محبت.....	۴۲۵	کتاب فضائل القرآن
۴۴۱	سورۃ اخلاص کے ساتھ دوستی دخول جنت کا باعث ہے...	۴۲۶	یہ کتاب فضیلت قرآن کے بارے میں ہے.....
۴۴۲	سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی خصوصیت.....	۴۲۷	لوگوں میں سے بہترین شخص قرآن سیکھے اور سکھانے والے ہیں.....
۴۴۳	سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ذریعے دم کرنا.....	۴۲۸	قرآن پاک سیکھنے کی فضیلت.....
۴۴۴	میدان حشر میں تین چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوں گی.....	۴۲۹	قرآنی آیات کی فضیلت.....
۴۴۵	قرآن کریم کو تر تیل سے پڑھنا چاہے حدیث سے ثبوت..	۴۳۰	انک انک کر پڑھنے والے کو دہرا اجر ملے گا.....
۴۴۶	قرآن کریم سے خالی دل ویران گھر کی طرح ہے.....	۴۳۱	حسد صرف دو چیزوں میں جائز ہے.....
۴۴۷	قرآن پاک میں مشغول ہونے والے کو مانگنے والے سے بہتر اجر ملتا ہے.....	۴۳۲	تلاوت قرآن کی اہمیت.....
۴۴۸	قرآن مجید کا صرف ایک حرف پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں	۴۳۳	قرآن لوگوں کے رفع درجات کا باعث ہے.....
۴۴۹	قرآن پر عمل باعث نجات ہے.....	۴۳۴	فرشتوں کا قرآن سننا.....
۴۵۰	قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے اُسکے والدین کو تاج پہنایا جائے گا.....	۴۳۵	تلاوت قرآن سے سکینہ نازل ہوتی ہے.....
۴۵۱	قرآن کریم معجزہ.....	۴۳۶	سورۃ فاتحہ کی فضیلت.....
۴۵۲	حافظ قرآن دس آدمیوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی.....	۴۳۷	سورۃ بقرہ کی فضیلت.....
۴۵۳	سورۃ فاتحہ کی اہمیت.....	۴۳۸	سورۃ بقرہ اور آل عمران ابر کے ٹکڑوں کی طرح ہیں.....
۴۵۴	قرآن کریم کو مشک سے تشبیہ دی گئی ہے.....	۴۳۹	آیت الکرسی کی شان.....
۴۵۵	سورۃ مؤمن اور آیۃ الکرسی کی فضیلت.....	۴۴۰	آیت الکرسی کی فضیلت.....
۴۵۶	لوح محفوظ میں زمین و آسمان پیدا ہونے سے دو ہزار سال قبل قرآن لکھا گیا.....	۴۴۱	سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کا آخری حصہ اللہ کی طرف سے دو نور ہیں.....
۴۵۷	سورۃ کہف کی آیات کی برکت سے پڑھنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا.....	۴۴۲	سورۃ بقرہ کی آخری آیات کی فضیلت.....
۴۵۸	سورۃ کہف کی پہلی دس آیات پڑھنے والے کیلئے دجال کے	۴۴۳	سورۃ کہف کی پہلی دس آیات پڑھنے والے کیلئے دجال کے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶۱	سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے.....	۳۵۰	سورۃ یٰسین کی فضیلت.....
۳۶۲	سورۃ آل عمران کی آخری آیات کی فضیلت.....		سورۃ طہ اور یٰسین کی فضیلت.....
	جمعہ کے دن آل عمران پڑھنے کی فضیلت.....	۳۵۱	حم الدخان کی فضیلت.....
۳۶۳	سورۃ بقرہ کی آخری آیات کی قدر و منزلت.....		جمعہ کی رات کو سورۃ الدخان پڑھنے کی فضیلت.....
	جمعہ کے دن سورۃ ہود پڑھو.....	۳۵۲	سمحات کی فضیلت کے بارے علماء کرام کے اقوال.....
	سورۃ کہف کی فضیلت.....		سورۃ الملک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی.....
	سورۃ الم تزل قاری کی شفاعت کرے گی اور جھگڑا کرے گی.....		
۳۶۴	۳۵۳	سورۃ الملک عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے.....
۳۶۵	سورۃ یٰسین کی فضیلت.....		الم تزل اور سورۃ الملک کی فضیلت.....
	مرمروں کے پاس سورۃ یٰسین پڑھنی چاہیے.....	۳۵۴	مذکورہ سورتوں کی فضیلت.....
۳۶۶	قرآن مجید کا خلاصہ.....		سورۃ حشر کی آخری تین آیات کی فضیلت.....
	سورۃ رحمن قرآن کی زینت ہے.....	۳۵۵	سورۃ اخلاص کی فضیلت.....
	سورۃ واقعہ کی فضیلت.....		سوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھنا.....
۳۶۷	آپ ﷺ کو سورۃ الاعلیٰ سے بہت زیادہ محبت تھی.....	۳۵۶	سورۃ اخلاص پڑھنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے.....
۳۶۸	سورۃ الزلزال ایک جامع سورت ہے.....		سوتے وقت ﴿قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ پڑھنے سے شرک سے بیزاری حاصل ہوتی ہے.....
۳۶۹	سورۃ نکاث ہزار آیتوں کے برابر ہے.....		سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ذریعے پناہ پکڑا کرو.....
	سورۃ اخلاص کے پڑھنے سے جنت میں محل ملے گا.....	۳۵۷	معوذتین کی فضیلت.....
۳۷۰	رات کے وقت قرآن پاک پڑھنے پر اجر و ثواب.....		سورۃ الفلق کی فضیلت و اہمیت.....
	باب	۳۵۸	قرآن کریم پر عمل کرنے کا حکم.....
۳۷۸	یہ باب متعلقات قرآن وغیرہ کے بیان میں ہے.....		قرأت قرآن کی افضلیت دوسرے اعمال پر.....
	قرآن کریم غفلت سے بھول جاتا ہے.....	۳۵۹	دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا زبانی پڑھنے سے زیادہ ثواب کا باعث ہے.....
	قرآن مجید کسی کسی حصے کو بھول جاتا ہے.....		دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے.....
۳۷۹	صاحب قرآن کی مثال اونٹ والے کی طرح ہے.....	۳۶۰	آیۃ الکرسی کی اہمیت و عظمت.....
	جب تک قرآن پڑھنے میں دل لگا رہے تو قرآن پڑھتے رہو.....		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۹۱	ترتیل و تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا اچھا ہے.....	۴۸۰	قراءت و تجوید کی رعایت کرنا نبی کریم ﷺ سے منقول ہے
	قرآن پاک کا صحیح حق ادا کرو.....		خوش الحالی سے قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے.....
۴۹۲	قرآن کریم کو سات قراءتوں میں پڑھنے کی اجازت ہے.....	۴۸۱	نبی کا خوش الحالی سے قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے.....
۴۹۳	قراءت میں اختلاف کرنے کی ممانعت.....		خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھنا مسنون ہے.....
۴۹۴	قرآن کریم کی مختلف قراءت کا مسئلہ.....		آپ ﷺ کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قراءت کا سننا.....
۴۹۵	اختلاف قراءت کا بیان.....	۴۸۲	آپ ﷺ کا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن پڑھنا.....
۴۹۶	قراءت کا مختلف ہونا آسانی کا باعث ہے.....		قرآن کریم کو لے کر دشمن ملک کی طرف سفر نہ کرو.....
۴۹۷	قرآن پڑھ کر لوگوں سے مانگنا منع ہے.....	۴۸۳	فقراء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے خوشخبری.....
۴۹۸	بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فائدہ.....		قرآن کریم کو خوش الحالی سے پڑھا کرو.....
	عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک شخص کا مکالمہ.....	۴۸۴	قرآن کو یاد کر کے بھول جانا بہت بڑا جرم ہے.....
	قرآن پاک جمع کرنے سے پہلے پتھر، کھجور کی چھال وغیرہ پر موجود تھا.....	۴۸۵	تین رات سے کم میں قرآن پاک ختم نہیں کرنا چاہیے.....
۴۹۹	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمات جمع قرآن کے بارے میں.....		قرآن پاک کو اونچی اور آہستہ آواز سے پڑھنے کی بہترین مثال.....
۵۰۱	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واضح کرنا کہ دونوں سورتیں علیحدہ علیحدہ ہیں.....	۴۸۷	جس شخص کو حلال و حرام کی تمیز نہیں گویا کہ اس کا قرآن پر عمل نہیں ہے.....
۵۰۳	ہم پر قرآن کریم کے حقوق.....	۴۸۸	آپ ﷺ کی قراءت کا بیان.....
۵۰۵	ایمان و تعظیم.....		آپ ﷺ سے ترتیل و تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا منقول ہے.....
۵۰۷	تلاوت و ترتیل.....		قرب قیامت میں لوگ دنیاوی مقاصد کے لیے قرآن پڑھیں گے.....
۵۱۱	تذکرہ تدبیر.....	۴۸۹	عرب کے لہجوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا پسندیدہ ہے.....
۵۱۴	حکم و اقامت.....		یہ کتاب دعاؤں کے بیان میں ہے.....
۵۱۹	تبلیغ و تبیین.....	۴۹۰	قیامت کے دن نبی کریم ﷺ امت کی شفاعت کریں گے
	کتاب الدعوات	۴۹۱	قرآن کو اچھی آوازوں کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے.....
۵۲۳	یہ کتاب دعاؤں کے بیان میں ہے.....		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۳۶	اللہ تعالیٰ سے کسی حقیر چیز کے مانگنے میں بھی شرم نہیں کرنی چاہیے.....	۵۲۴	نبی کریم ﷺ جہان والوں کے لئے رحمت بن کر آئے.....
۵۳۷	آپ ﷺ کا دعا وقت ہاتھ اٹھانے کا طریقہ.....	۵۲۵	دعا کرتے وقت خدا تعالیٰ پر پورا یقین ہونا چاہئے.....
۵۳۸	آپ ﷺ کا ہاتھ اٹھانے کا طریقہ.....	۵۲۶	دعا عزم بالجزم سے مانگو.....
۵۳۹	دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھرنا حضور ﷺ سے ثابت ہے.....	۵۲۷	اللہ تعالیٰ سے ناامید نہیں ہونا چاہیے.....
۵۴۰	دعا مانگنے کا طریقہ.....	۵۲۸	غائب کی دعا غائب کے لئے بہت جلد قبول ہوتی ہے.....
۵۴۱	ہاتھ اوپر اٹھانا باعتبار اختلاف حالات کے ہے.....	۵۲۹	بد دعا کرنے سے ممانعت.....
۵۴۲	کس کے لیے دعا مانگتے وقت اپنے آپ کو نہ بھولو.....	۵۳۰	ہر حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو.....
۵۴۳	اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک وہ گناہ کی وعادہ نہ کرے.....	۵۳۱	دعا عبادت کا مغز ہے.....
۵۴۴	پانچ آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی.....	۵۳۲	اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز دعا ہے..
۵۴۵	باب ذکر اللہ عزوجل والتعرب الی اللہ	۵۳۳	دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے.....
۵۴۶	یہ باب اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کا قرب حاصل کرنے کے بیان میں ہے.....	۵۳۴	اپنے اوپر دعا کو لازم نہ کرلو.....
۵۴۷	ذاکر بن کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں..	۵۳۵	انسانوں کو وہی چیز ملے گی جو اس کے مقدر میں ہے.....
۵۴۸	المفردوں کوں ہیں.....	۵۳۶	اللہ تعالیٰ سے فضل و مہربانی کا سوال کرو.....
۵۴۹	ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال.....	۵۳۷	ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو.....
۵۵۰	اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے بھولتا نہیں ہے.....	۵۳۸	بہترین دعا عافیت کی دعا ہے.....
۵۵۱	بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ پسند کرے گا اور اتنا ہی زیادہ قرب کرے گا.....	۵۳۹	اللہ تعالیٰ غافل کی دعا قبول نہیں کرتا.....
۵۵۲	اولیاء کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ یہ خدا کے ساتھ کھلم کھلی جنگ ہے.....	۵۴۰	دعا کسے مانگنی چاہیے.....
۵۵۳	اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے.....	۵۴۱	اللہ رب العزت کی کسی کی دعا رد نہیں کرتا.....
۵۵۴	دنیاوی مشغولیت کی وجہ سے قلبی کیفیت کا بدل جانا قابل.....	۵۴۲	دعا کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا اور چہرے پر پھیرنا حضور ﷺ سے ثابت ہے.....
۵۵۵		۵۴۳	جامع دعائیں آپ ﷺ کو زیادہ پسند تھیں.....
		۵۴۴	غائب کی دعا غائب کے لیے بہت جلد قبول ہوتی ہے.....
		۵۴۵	کسی کو دعا کے لئے کہنا مسنون ہے.....
		۵۴۶	مظلوم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے.....
		۵۴۷	باپ اور مسافر کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے.....

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۹۳	ابوموسیٰ اشعریؓ کو اسم اعظم کی خوشخبری سنانا	۵۴۸	معاف ہے
	بَابُ ثَوَابِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ	۵۴۹	ذکر الہی جہاد سے بہتر ہے
	وَالْتَكْبِيرِ	۵۵۰	سب سے بہتر عمل خدا کا ذکر ہے
۵۹۵	تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر کے ثواب کا بیان		ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں
	بہترین کلام چار کلمے ہیں	۵۵۱	ہر حال میں خدا کو یاد رکھنا چاہیے
۵۹۶	سبحان و بجمہ پڑھنے کی فضیلت		خدا کے ذکر بغیر مجلسِ نحوست سے کالی نہیں ہوتی
	صبح و شام کی بہترین ذکر		خسارے والی مجلس وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے بغیر ہو
۵۹۷	اللہ کے نزدیک دو محبوب کلمے	۵۵۲	نفع والی کلام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے
	ایک ہزار نیکیوں والا عمل		سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے
۵۹۸	فرشتوں کے لیے انتخاب کردہ کلمہ سبحان اللہ و بجمہ ہے	۵۵۳	انسان کا بہترین مال دل اور زبان ہے
	رسول خدا ﷺ کا محبوب ترین ذکر		عبادت میں مشقت و محنت اللہ کو بہت پسند ہے
۵۹۹	تسبیح مذکورہ سو غلاموں کے آزاد کرنے سے افضل ہے	۵۵۴	جامع اور آسان عمل
۶۰۰	نری کے ساتھ تکبیر پڑھنے کا حکم		اللہ رب العزت کہ کسرت سے یاد کرنا شہادت سے افضل
۶۰۱	جنت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے	۵۵۵	ہے
	اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم		غافل دل پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے
	افضل الذکر کا بیان	۵۵۶	ذکر کی فضیلت و اہمیت کا بیان
۶۰۲	خدا کی حمد شکر کی بنیاد ہے	۵۵۷	ذکر عذاب الہی سے نجات کا باعث ہے
	اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکریہ ادا کرنے پر انعام		ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مفیت نصیب ہوتی ہے
۶۰۳	لا الہ الا اللہ کی فضیلت		اللہ تعالیٰ کا ذکر خدا کے عذاب سے نجات دینے والا ہے
۶۰۴	مذکورہ تسبیحات کی فضیلت		کِتَابُ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰی
۶۰۵	تسبیحات کو گٹھلیوں پر شمار کرنا حدیث سے ثابت ہے	۵۵۸	اللہ تعالیٰ کے اسمائے مبارکہ
۶۰۶	مترق تسبیحات کے فضائل		اللہ عزوجل کے نانوے نام
۶۰۷	تسبیح و تحمید و تہلیل کی فضیلت	۵۹۱	اسم اعظم کی برکات
	خلوص سے لا الہ الا اللہ پڑھنا آسمان کے دروازوں کو کھول		اسم اعظم ان مذکورہ دو آیتوں میں موجود ہے
	دیتا ہے	۵۹۲	حضرت یونس علیہ السلام کی جامع دعا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۲۰	افضل الاستغفار کا ذکر	۶۰۸	جنت کے درختوں کی کیفیت
۶۲۱	مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا	۶۰۹	آپ ﷺ کا مذکورہ دعا کے پڑھنے کی تلقین کرنا
۶۲۲	اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے		تسبیحات گناہوں کو جھاڑ دیتی ہیں
	استغفار کی فضیلت		لا ولا حولہ الا باللہ کی برکت سے ستر قسم کی تکلیفیں اللہ تعالیٰ دور
۶۲۳	استغفار کرنے سے کثیر گناہ معاف ہو جاتے ہیں	۶۱۰	کر دیتا ہے
	بہترین خطا کا توبہ کرنے والے ہیں	۶۱۱	بہترین کلمہ جو عرش کے نیچے سے اترتا ہے
۶۲۳	گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے		بہترین کلمہ جو عرش کے نیچے سے اترتا ہے
	غرغرے کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی		خلوص دل کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے والے کو
۶۲۵	مرتے دم تک شیطان انسان کو گمراہ کرتا رہے گا	۶۱۲	فرمانبردار کا خطاب ملتا ہے
	توبہ کے دروازے کی مسافت کا ذکر		بَابُ الْاِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ
۶۲۶	توبہ کا دروازہ قیامت تک بند نہیں ہوگا		استغفار و توبہ کا بیان
	اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونا گناہ ہے	۶۱۳	آپ ﷺ کا استغفار کا ذکر
۶۲۷	خدا کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے		آپ ﷺ کا استغفار کے بارے میں معمول
	اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے وہ چھوٹے اور بڑے	۶۱۴	توبہ کرنے کی ترغیب
۶۲۸	گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے		حدیث قدوسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمدیت کا اظہار فرمایا
	اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ کا بیان		ہے
۶۳۰	اللہ تعالیٰ کو شرک ناپسند ہے	۶۱۶	صدق بنت سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے
	آپ ﷺ کی دعا کا ذکر	۶۱۷	اللہ تعالیٰ گنہگار بخشش مانگنے والے کو پسند کرتا ہے
	جو شخص اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکے		اللہ تعالیٰ کی رحمت توبہ کرنے والے کے لیے بڑی وسیع ہے
۶۳۱	سوال کو پورا کر دیتا ہے	۶۱۸	گنہگار کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرنا محبوب عمل ہے
	نیک آدمی کا درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے		توبہ کو لازم پکڑو مبادا کہ موت آجائے
	مردے کے لیے بہترین تحفہ استغفار ہے		اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا پر بہت خوش ہوتا ہے
۶۳۲	خوشحال شخص کا ذکر		اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے بندہ بار بار گناہ کرتا ہے اور
	آپ ﷺ کو استغفار کرنے والا شخص بہت پسند ہے	۶۱۹	پھر توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے
۶۳۳	اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ بڑی محبوب ہے	۶۲۰	اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۳۴	آپ ﷺ پر بندوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے	۶۳۴	گناہوں کے بعد بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا بہت
۶۳۵	اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر رحمت کا نزول.....	محبوب ہے
۶۳۶	نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے... ایام والا ہر حال میں جنتی ہے خواہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو... ﴿بَابُ مَا يَقُولُ عَبْدُ الصَّبَّاحِ وَالْمَسَاءِ وَالْمَغَامِرِ﴾	۶۳۵	لَا تَقْنَطُوا کی فضیلت.....
۶۳۷	صبح، شام اور سوتے وقت پڑھی جانے والی دُعاؤں کا بیان.	۶۳۶	شرک خدا کی رحمت اور بندے کے درمیان پردہ ہے.....
۶۳۸	آپ ﷺ سے منقول صبح و شام کی دعائیں.....	اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر گناہ معاف کر دے گا بشرطیکہ وہ شرک نہ کرتا ہو
۶۳۹	سو کر اٹھنے کی مسنون دعا.....	۶۳۷	شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.....
۶۴۰	سونے کا مسنون طریقہ.....	﴿بَابُ اسْتِغْفَارِ﴾
۶۴۱	سونے کے لیے بستر کو جھاڑنا مسنون ہے.....	۶۳۷	﴿بَابُ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾
۶۵۱	صبح و شام کی دعا.....	رحمت باری تعالیٰ کی وسعت کا بیان.....
۶۵۲	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تجویز کردہ وظیفہ.....	۶۳۸	اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے.....
۶۵۳	مذکورہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے حفاظت میں رکھتا ہے.....	اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوقات پر رحمتوں کی تقسیم کا بیان.....
۶۵۴	صبح و شام کی دعا.....	۶۳۹	اللہ تعالیٰ سے ناامید نہیں ہونا چاہیے.....
۶۵۵	آپ ﷺ اپنی بیٹیوں کو دعا سکھلاتے تھے جو کہ اوپر مذکور ہے.....	جنت اور دوزخ بہت زیادہ قریب ہیں.....
۶۵۶	مذکروں وظیفہ پڑھنے سے غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے.....	۶۴۰	اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے.....
۶۵۷	مذکورہ دعا پڑھنے کی برکت سے آگ سے خلاصی کا وعدہ.....	۶۴۱	اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے.....
۶۵۸	مذکورہ دعا پر آپ ﷺ کی مواعظت.....	قیامت کی نجات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگی.....
۶۵۹	مذکورہ کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.....	۶۴۲	اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخلہ ہوگا.....
		۶۴۳	یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب سات سو گنا تک بڑھا دیتا ہے.....
		محض نیکی کا ارادہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہے.....
		برائی کو تنگ زرہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے.....
		خدا سے ڈرنے والے کے لیے خوشخبری.....

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۷۱	مکان میں داخل ہوتے وقت کی دعا.....	۶۵۸	صبح و شام کے پڑھنے کا وظیفہ.....
۶۷۲	بچھو کے ڈسنے کی دعا.....		سوتے وقت نبی کریم ﷺ مسنون دعا.....
	سفر کی حالت میں سحری کے وقت خدا کی تعریف کرنا.....	۶۵۹	سونے کا مسنون طریقہ.....
۶۷۳	جہاد یا عمرہ سے واپس لوٹتے وقت کی دعا.....		سوتے وقت آپ ﷺ یہ مذکورہ دعا پڑھا کرتے تھے.....
	مشرکین کے خلاف بددعا.....	۶۶۰	استغفار کی فضیلت.....
۶۷۵	چاند دیکھتے وقت کی دعا.....		قرآن پاک کی سورت کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ
	مصیبت زدہ کو دیکھ کر مذکورہ دعا پڑھنی چاہیے.....		ایک فرشتہ مقرر فرمادیتے ہیں.....
۶۷۶	بازار میں داخل ہونے کی دعا.....	۶۶۱	نماز کے بعد اور سوتے وقت تسبیحات کا بیان.....
	جنت کا داخلہ پوری نعمت ہے.....	۶۶۲	صبح و شام کے وقت مذکورہ دعا پڑھنے کی فضیلت.....
۶۷۷	مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا.....	۶۶۳	بستر پر سوتے وقت کی دعا.....
۶۷۸	سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا.....	۶۶۴	سوتے وقت آپ ﷺ کا معمول مبارک.....
	مسافر کو رخصت کرنا مسنون عمل ہے.....		سوتے وقت آپ ﷺ کی جامع دعا.....
۶۷۹	مسافر کو الوداع کرنے کا طریقہ.....		آپ ﷺ صحابہ رضی اللہ عنہم کو صبح کے وقت مذکورہ دعا تلقین کیا
	اپنے اکابرین سے دعا کروانے کا ثبوت.....	۶۶۵	کرتے تھے.....
۶۸۰	مسافر کو نصیحت کرنا مسنون ہے.....	۶۶۶	انسان کو عافیت مانگنی چاہیے.....
	تکلیف دینے والی چیزوں سے پناہ مانگنا.....		صبح کے وقت کی دعا.....
۶۸۱	جہاد کے موقع پر آپ ﷺ کی دعا.....	۶۶۷	آپ ﷺ بعض وقت میں یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے.....
	دشمن سے خوف کے وقت کی دعا.....		بَابُ الدَّعَوَاتِ فِي الْأَوْقَاتِ
۶۸۲	گھر سے نکلتے وقت کی مسنون دعا.....	۶۶۸	مختلف اوقات کی دعاؤں کا بیان.....
	گھر سے نکلتے وقت جامع دعا.....		جماع کے وقت کی دعا.....
۶۸۳	گھر میں داخل ہونے کی دعا.....		فکر و غم کی شدت کے وقت مذکورہ دعا پڑھنی چاہیے.....
۶۸۴	نکاح کے وقت مبارک بار دینا مسنون ہے.....	۶۶۹	غصے کو دور کرنے کا وظیفہ.....
	اپنے اصل والوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنا.....	۶۷۰	شیطان سے پناہ مانگو.....
۶۸۵	غمرہ کی دعا.....		سفر کے وقت آپ ﷺ کی دعا.....
	قرض کی ادائیگی کی دعا.....	۶۷۱	حضور ﷺ سفر کی مشقتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے.....

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۹۸ سے پناہ پکڑنا:.....	۶۸۶	ادائیگی قرض کے لیے دعا.....
..... خلاصہ الحدیث.....	۶۸۷	مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا.....
۶۹۹	چاند کے غروب ہونے سے پناہ پکڑنا.....	چاند دیکھنے کی دعا.....
۷۰۰	مختصر اور جامع دعا کا بیان.....	۶۸۸	غم و فکر کے وقت کی دعا.....
..... تعویذ کا ثبوت نابالغ بچے کے لیے.....	بلندی پر چڑھتے وقت اور اترتے وقت کی دعا کا ذکر.....
۷۰۱	جنت کا سوال کرنا اور آپ ﷺ سے پناہ مانگی.....	۶۸۹	پریشانی کے وقت کی دعا.....
..... جادو وغیرہ سے بچنے کی دعا.....	خوف کے وقت کی دعا.....
۷۰۲	فرض نماز کے بعد وظیفہ پڑھنے کا ذکر.....	۶۹۰	بازار میں داخل ہونے کی دعا.....
۷۰۳	کفر اور قرض سے پناہ مانگو.....
..... باب جامع الدعاء.....
..... جامع دعاؤں کا بیان.....
..... جامع دعا.....	۶۹۱	آزمائش سے پناہ مانگنا.....
۷۰۴	دین و دنیا کی اصلاح کی دعا.....	اندیشہ اور غم سے نجات کے لیے جامع دعا.....
۷۰۵	ہدایت اور تقویٰ مانگنا.....	جامع دعا.....
..... افعال و گفتار کی درستگی کا سوال کرنا.....	۶۹۲	دنیا و برزخ میں لاحق ہونے والی پریشانیوں سے پناہ مانگنا.....
..... نئے مسلمان کو مذکورہ کلمات سکھایا کرتے تھے.....	۶۹۳	اچانک عذاب اور غضب خداوندی سے پناہ مانگنا.....
۷۰۶	دین و دنیا کی نعمتوں کا سوال.....	۶۹۴	آپ ﷺ کی ایک جامع دعا کا بیان.....
..... اللہ تعالیٰ سے کفار پر فتح کا سوال کرنا.....	چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا بیان.....
۷۰۷	اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو.....	۶۹۵	پانچ چیزوں سے پناہ پکڑنے کا بیان.....
۷۰۸	سب سے بہتر دعا عافیت مانگنا ہے.....	ذلت اور محتاجی سے پناہ مانگنے کا بیان.....
..... اللہ تعالیٰ سے محبت کا سوال کرنا.....	۶۹۶	اخلاق اور برے اخلاق سے پناہ مانگنے کی دعا.....
۷۰۹	ایک جامع دعا.....	بھوک اور خیانت سے پناہ مانگنے کا بیان.....
۷۱۰	علم کی زیادتی کا سوال کرنا.....	کوڑھ اور جذام اور دیوانگی سے پناہ مانگنے کا بیان.....
..... وحی کی کیفیت کا بیان.....	۶۹۷	برے عملوں اور اخلاقی سیئہ سے پناہ مانگنے کا بیان.....
۷۱۱	بنیائی کی محرومی پر صبر کرنے سے جنت کا وعدہ.....	جامع دعا.....
.....	زہریلے جانوروں اور اچانک اہلاک کر دینے والی چیزوں.....

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۲۷	آپ ﷺ کے عمروں کا بیان	۷۱۲	اللہ تعالیٰ سے محبت کا سوال کرنا
۷۲۸	آپ ﷺ کے عمروں کا ذکر	۷۱۳	جامع دعا
۷۲۹	حج سال میں ایک مرتبہ فرض ہے	۷۱۴	حج کی نماز کے بعد کی دعا
	حج کی فرضیت کے لیے شرائط		ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا خاص وظیفہ
۷۳۰	استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے پر وعید	۷۱۵	جسمانی و روحانی صحت کا سوال کرنا
۷۳۱	ارادہ حج کی تکمیل جلدی ہونی چاہیے		نفاق - ریاکاری - جھوٹ وغیرہ سے پناہ مانگنا
	حج قرآن کر د		صحابی کی دعا، حضور ﷺ کا دنیا و آخرت کی عافیت مانگنے کی نصیحت کرنا
۷۳۲	حج کن چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے	۷۱۶	بلاؤں میں گرفتار ہو جانا اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے مترادف ہے
	حاجی کی صفات کا بیان		ظاہر و باطن کی بہتری کے لیے دعا مانگنا
۷۳۳	حج بدل کا ثبوت		کتاب المناسک
	حج بدل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنا حج کرے	۷۱۷	یہ کتاب افعال حج کے بیان میں ہے
۷۳۴	اہل مشرق کی میقات	۷۱۸	حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے
	احرام کی جگہ کا تعین	۷۱۹	دوران حج معصیت سے پرہیز کرے
	حج انسان کے گناہوں کے بخشنے کا ذریعہ ہے	۷۲۰	ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کفارہ ہے
	سفر کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا توکل کے منافی نہیں ہے	۷۲۱	رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت
۷۳۵			نابالغ کو نفلی حج کا ثواب ملتا ہے
۷۳۶	عورتوں کا جہاد	۷۲۲	دوسرے کی طرف سے حج کرنے کا مسئلہ
	وسعت کے باوجود حج نہ کرنے پر وعید		حج بدل کا مسئلہ
	حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں	۷۲۳	عورت کے ساتھ سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے
۷۳۷	حاجی سے سلام و مصافحہ کا ثبوت		عورتوں کا جہاد حج ہے
	حج و عمرہ کرنے والے کو جہاد کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے	۷۲۴	عورت کو بغیر محرم سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے
۷۳۸		۷۲۵	موافقت حج
	باب الإحرام والتلبیۃ		میقات احرام کا بیان
	احرام باندھنے اور لبیک کے کہنے کا بیان	۷۲۷	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۶۲	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دخول مکہ کے وقت معمول	۷۳۸	احرام کی حالت میں خوشبو لگانے کا مسئلہ
۷۶۳	آپ ﷺ کے دخول مکہ کا ذکر	۷۳۹	بلند آواز سے تلبیہ کہنا
۷۶۳	طواف کرنے کے لیے پاکی شرط ہے	۷۴۰	بلند آواز سے تلبیہ کہنے کا ثبوت
۷۶۳	طواف کی کیفیت کا ذکر	۷۴۱	بلند آواز سے تلبیہ کہنا
۷۶۳	طواف میں چلنے کی کیفیت کا بیان	۷۴۲	حج کرنے والوں کی اقسام
۷۶۵	آپ ﷺ کا حجر اسود کو بوسہ دینا	۷۴۲	حج کو عمرے کے ساتھ داخل کرنا
۷۶۵	آپ ﷺ کا حجر اسود کو بوسہ دینے کا ذکر	۷۴۳	احرام میں سلعے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے
۷۶۶	آپ ﷺ حجن کے ساتھ بوسہ دیتے تھے	۷۴۳	تلبیہ کرنے کی اجازت ہے
۷۶۶	آپ ﷺ نے بیت اللہ کا طواف اونٹ پر سوار ہو کر کیا	۷۴۴	بلند آواز سے تلبیہ کہنا
۷۶۷	خدا ارکٹری کے سرے کو آپ ﷺ بوسہ دیتے تھے	۷۴۴	لیک کہنے والے کی عظمت
۷۶۸	مشرک کو خانہ کعبہ کے طواف کرنے کی ممانعت	۷۴۵	احرام باندھنے کے بعد آپ ﷺ کا معمول مبارک
۷۶۹	خانہ کعبہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی چاہیے	۷۴۵	اللہ تعالیٰ سے خوشنودی مانگنا اور معافی طلب کرنا
۷۷۰	خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھانا	۷۴۶	آپ ﷺ کا حج کے لیے اعلان کرنا
۷۷۰	طواف نماز کی طرح ہے	۷۴۶	مشرکوں کا تلبیہ پڑھنا
۷۷۱	حجر اسود جنت کا پتھر ہے	۷۴۷	بابُ قِصَّةِ حَبَّةِ الْوَدَاعِ
۷۷۱	حجر اسود قیامت کے دن گواہی دے گا	۷۴۷	یہ باب حجۃ الوداع کے قصے کے بیان میں ہے
۷۷۲	حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یا قوت ہیں	۷۴۷	حجۃ الوداع کا ذکر
۷۷۲	طواف کرتے واجبات و سنن و آداب کا لحاظ کرنا ضروری ہے	۷۴۸	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حج کا واقعہ طریقہ
۷۷۲	دونوں رکنوں کے درمیان پڑھنے والی دعا	۷۴۸	حدیث مذکورہ میں حضور ﷺ کے متمتع اور قارن ہونے کا ذکر
۷۷۳	سعی کی اہمیت	۷۴۹	حج کے مہینوں میں عمرے کا جواز
۷۷۳	نبی کریم ﷺ نے اونٹ پر سوار ہو کر سعی فرمائی	۷۵۰	احرام کی تبدیلی کا حکم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تاثر
۷۷۴	اضطباع کا طریقہ	۷۵۱	احرام کی تبدیلی کے حکم پر لوگوں کا متردد ہونا
۷۷۴	اضطباع کرنا سنت ہے	۷۵۱	بابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَالطَّوَافِ
		۷۵۱	مکہ میں داخل ہونے اور طواف کرنے کا بیان

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۸۷	مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو مزدلفہ میں جمع کرنا.....	۷۷۵	رکن یمانی اور حجر اسود کو ہاتھ لگانا.....
۷۸۷	مغرب اور عشاء کی نمازوں کو مزدلفہ میں جمع کرنا.....	۷۷۶	عذر کی وجہ سے سوار ہو کر طواف کرنے کی اجازت ہے.....
۷۸۸	مزدلفہ کی رات ضعیفوں کو پہلے بھیج دینا.....	۷۷۷	حجر اسود کو بوسہ نبی کریم ﷺ کی سنت ہے.....
۷۸۹	رمی جمار کے لیے کنکریاں مزدلفہ کے راستے سے اٹھائیں..	۷۷۸	رکن یمانی پر ستر فرشتے متعین کیے گئے ہیں.....
۷۹۰	میدان محرم میں آپ ﷺ اونٹنی تیز چلایا کرتے تھے.....	۷۷۹	طواف کی فضیلت.....
۷۹۰	آفتاب کو پگڑیوں کے ساتھ تشبیہ دینا.....	۷۸۰	باب الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
۷۹۱	رات میں رمی جائز نہیں.....	۷۸۱	وقوف عرفات کا بیان
۷۹۱	حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی مستدل حدیث اور اس کی تاویل.....	۷۸۲	عرفات کے دن بکبیر و تھلیل کہنا.....
۷۹۲	مقیم یا عمرہ کرنے والا حجر اسود کو بوسہ دے.....	۷۸۳	وقوف کے مقامات کا ذکر.....
۷۹۲	عرفات سے واپسی کا ذکر.....	۷۸۴	عرفہ کے دن کی فضیلت.....
۷۹۳	ظہر و عصر کی نماز جمع کرنا آپ ﷺ کی سنت ہے.....	۷۸۵	موقف عرفات کا ذکر.....
۷۹۳	باب رَمِي الْجِمَارِ	۷۸۶	موقوفوں کا بیان.....
۷۹۳	مناروں پر کنکریاں پھینکنے کا بیان.....	۷۸۷	سواری پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا جائز ہے.....
۷۹۳	حج کرنے سے پہلے حج کے احکامات سیکھنے ضروری ہیں.....	۷۸۸	بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے.....
۷۹۳	کنکریاں پھینکنے کا طریقہ.....	۷۸۹	عرفہ کے دن شیطان کی رسوائی.....
۷۹۳	چاشت کے وقت کنکریاں مارنا.....	۷۹۰	عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یعنی حاجیوں پر فخر کرتا ہے.....
۷۹۳	اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں پھینکنا.....	۷۹۱	اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ کو وقف عرفہ کا حکم فرمایا.....
۷۹۳	کنکریاں پھینکنے کا طریقہ.....	۷۹۲	آپ ﷺ کی دعاء امت کے حق میں قبول ہونے پر شیطان کا داویلا کرنا.....
۷۹۳	حضور ﷺ نے اونٹنی پر سوار ہو کر (جرۃ العقبہ کی) رمی فرمائی.....	۷۹۳	باب الدَّفْعِ مِنَ عَرَفَةَ وَالْمَزْدَلِفَةِ
۷۹۳	۷۹۴	عرفات اور مزدلفہ سے واپسی کا بیان.....
۷۹۳	۷۹۵	آپ ﷺ میدان عرفات سے کس طرح لوٹے تھے.....
۷۹۳	۷۹۶	اونٹوں کو تیز چلنے کے لیے مارنا منع ہے.....
۷۹۳	۷۹۷	آپ ﷺ ہمیشہ لبیک کہتے رہے.....
۷۹۳	۷۹۸
۷۹۳	۷۹۹
۷۹۳	۸۰۰
۷۹۳	۸۰۱
۷۹۳	۸۰۲
۷۹۳	۸۰۳
۷۹۳	۸۰۴
۷۹۳	۸۰۵
۷۹۳	۸۰۶
۷۹۳	۸۰۷
۷۹۳	۸۰۸
۷۹۳	۸۰۹
۷۹۳	۸۱۰
۷۹۳	۸۱۱
۷۹۳	۸۱۲
۷۹۳	۸۱۳
۷۹۳	۸۱۴
۷۹۳	۸۱۵
۷۹۳	۸۱۶
۷۹۳	۸۱۷
۷۹۳	۸۱۸
۷۹۳	۸۱۹
۷۹۳	۸۲۰
۷۹۳	۸۲۱
۷۹۳	۸۲۲
۷۹۳	۸۲۳
۷۹۳	۸۲۴
۷۹۳	۸۲۵
۷۹۳	۸۲۶
۷۹۳	۸۲۷
۷۹۳	۸۲۸
۷۹۳	۸۲۹
۷۹۳	۸۳۰
۷۹۳	۸۳۱
۷۹۳	۸۳۲
۷۹۳	۸۳۳
۷۹۳	۸۳۴
۷۹۳	۸۳۵
۷۹۳	۸۳۶
۷۹۳	۸۳۷
۷۹۳	۸۳۸
۷۹۳	۸۳۹
۷۹۳	۸۴۰
۷۹۳	۸۴۱
۷۹۳	۸۴۲
۷۹۳	۸۴۳
۷۹۳	۸۴۴
۷۹۳	۸۴۵
۷۹۳	۸۴۶
۷۹۳	۸۴۷
۷۹۳	۸۴۸
۷۹۳	۸۴۹
۷۹۳	۸۵۰
۷۹۳	۸۵۱
۷۹۳	۸۵۲
۷۹۳	۸۵۳
۷۹۳	۸۵۴
۷۹۳	۸۵۵
۷۹۳	۸۵۶
۷۹۳	۸۵۷
۷۹۳	۸۵۸
۷۹۳	۸۵۹
۷۹۳	۸۶۰
۷۹۳	۸۶۱
۷۹۳	۸۶۲
۷۹۳	۸۶۳
۷۹۳	۸۶۴
۷۹۳	۸۶۵
۷۹۳	۸۶۶
۷۹۳	۸۶۷
۷۹۳	۸۶۸
۷۹۳	۸۶۹
۷۹۳	۸۷۰
۷۹۳	۸۷۱
۷۹۳	۸۷۲
۷۹۳	۸۷۳
۷۹۳	۸۷۴
۷۹۳	۸۷۵
۷۹۳	۸۷۶
۷۹۳	۸۷۷
۷۹۳	۸۷۸
۷۹۳	۸۷۹
۷۹۳	۸۸۰
۷۹۳	۸۸۱
۷۹۳	۸۸۲
۷۹۳	۸۸۳
۷۹۳	۸۸۴
۷۹۳	۸۸۵
۷۹۳	۸۸۶
۷۹۳	۸۸۷
۷۹۳	۸۸۸
۷۹۳	۸۸۹
۷۹۳	۸۹۰
۷۹۳	۸۹۱
۷۹۳	۸۹۲
۷۹۳	۸۹۳
۷۹۳	۸۹۴
۷۹۳	۸۹۵
۷۹۳	۸۹۶
۷۹۳	۸۹۷
۷۹۳	۸۹۸
۷۹۳	۸۹۹
۷۹۳	۹۰۰
۷۹۳	۹۰۱
۷۹۳	۹۰۲
۷۹۳	۹۰۳
۷۹۳	۹۰۴
۷۹۳	۹۰۵
۷۹۳	۹۰۶
۷۹۳	۹۰۷
۷۹۳	۹۰۸
۷۹۳	۹۰۹
۷۹۳	۹۱۰
۷۹۳	۹۱۱
۷۹۳	۹۱۲
۷۹۳	۹۱۳
۷۹۳	۹۱۴
۷۹۳	۹۱۵
۷۹۳	۹۱۶
۷۹۳	۹۱۷
۷۹۳	۹۱۸
۷۹۳	۹۱۹
۷۹۳	۹۲۰
۷۹۳	۹۲۱
۷۹۳	۹۲۲
۷۹۳	۹۲۳
۷۹۳	۹۲۴
۷۹۳	۹۲۵
۷۹۳	۹۲۶
۷۹۳	۹۲۷
۷۹۳	۹۲۸
۷۹۳	۹۲۹
۷۹۳	۹۳۰
۷۹۳	۹۳۱
۷۹۳	۹۳۲
۷۹۳	۹۳۳
۷۹۳	۹۳۴
۷۹۳	۹۳۵
۷۹۳	۹۳۶
۷۹۳	۹۳۷
۷۹۳	۹۳۸
۷۹۳	۹۳۹
۷۹۳	۹۴۰
۷۹۳	۹۴۱
۷۹۳	۹۴۲
۷۹۳	۹۴۳
۷۹۳	۹۴۴
۷۹۳	۹۴۵
۷۹۳	۹۴۶
۷۹۳	۹۴۷
۷۹۳	۹۴۸
۷۹۳	۹۴۹
۷۹۳	۹۵۰
۷۹۳	۹۵۱
۷۹۳	۹۵۲
۷۹۳	۹۵۳
۷۹۳	۹۵۴
۷۹۳	۹۵۵
۷۹۳	۹۵۶
۷۹۳	۹۵۷
۷۹۳	۹۵۸
۷۹۳	۹۵۹
۷۹۳	۹۶۰
۷۹۳	۹۶۱
۷۹۳	۹۶۲
۷۹۳	۹۶۳
۷۹۳	۹۶۴
۷۹۳	۹۶۵
۷۹۳	۹۶۶
۷۹۳	۹۶۷
۷۹۳	۹۶۸
۷۹۳	۹۶۹
۷۹۳	۹۷۰
۷۹۳	۹۷۱
۷۹۳	۹۷۲
۷۹۳	۹۷۳
۷۹۳	۹۷۴
۷۹۳	۹۷۵
۷۹۳	۹۷۶
۷۹۳	۹۷۷
۷۹۳	۹۷۸
۷۹۳	۹۷۹
۷۹۳	۹۸۰
۷۹۳	۹۸۱
۷۹۳	۹۸۲
۷۹۳	۹۸۳
۷۹۳	۹۸۴
۷۹۳	۹۸۵
۷۹۳	۹۸۶
۷۹۳	۹۸۷
۷۹۳	۹۸۸
۷۹۳	۹۸۹
۷۹۳	۹۹۰
۷۹۳	۹۹۱
۷۹۳	۹۹۲
۷۹۳	۹۹۳
۷۹۳	۹۹۴
۷۹۳	۹۹۵
۷۹۳	۹۹۶
۷۹۳	۹۹۷
۷۹۳	۹۹۸
۷۹۳	۹۹۹
۷۹۳	۱۰۰۰

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	التَّشْرِيقِ وَالتَّوَدُّعِ		بَابُ الْهُدَى
	قربانی کے دن خطبہ کا بیان آیا مشرق میں رمی کرنا اور طواف		یہ باب ہدی کے بیان میں ہے
	وداع کے بیان میں	۷۹۷	ہدی کو قتلادہ پہنانا جائز ہے
۸۱۳	منیٰ کے مقام پر خطبہ	۷۹۸	ہدی کے گلے میں ہار ڈالنا جائز ہے
۸۱۵	رمی کے وقت کا بیان	۷۹۹	ہدی دینے کا جواز
۸۱۶	حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا کنکریاں مارنے کا طریقہ		بدنوں کو ہار پہنانا جائز ہے
۸۱۷	منیٰ میں رات ٹھہرنے کا حکم	۸۰۰	مطلق ہدی پر سوار ہونا ممنوع نہیں ہے
	آب زمزم پلانا ثواب ہے		ہدی پر سوار ہونے کا مسئلہ
۸۲۰	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے عمرۃ القضاء کا بیان	۸۰۱	قریب المرگ ہدی کا مسئلہ
	طواف وداع آفاقی کے لیے ضروری ہے	۸۰۲	نحر کرنے کا طریقہ
۸۲۱	حائضہ کے لیے طواف وداع کی ضرورت نہیں ہے	۸۰۳	گوشت، جھول وغیرہ اور چمڑہ کو صدقہ کرنا چاہیے
۸۲۲	حج اکبر کے دن کا ذکر		قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنا جائز ہے
۸۲۳	منیٰ میں آپ ﷺ نے سوار ہو کر خطبہ دیا	۸۰۴	ذبح ہونے والی ہدی کا حکم
۸۲۵	کنکریاں مارنے کے اوقات	۸۰۵	قربانی کے دن کی فضیلت
	بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحَرَّمُ	۸۰۶	قربانی کے گوشت کا مسئلہ
	ان چیزوں کا بیان میں جن سے محرم پرہیز کرے		بَابُ الْحُلُقِ
۸۲۶	محرم کن کن چیزوں سے پرہیز کرے؟		سرمنڈانے کا بیان
۸۲۷	محرم کے لیے رخصت کا ذکر	۸۰۷	سرمنڈانا افضل ہے
۸۲۸	محرم کو خوشبو لگانا منع ہے		سرمنڈانے والوں کے اللہ کے رسول ﷺ نے رحمت کی دعا
	محرم آدمی نکاح نہ کرے اور نہ کسی کا نکاح کرائے	۸۰۸	فرمائی
۸۲۹	حالت احرام میں ہم بستر ہونا ممنوع ہے	۸۰۹	نحر کے دن خوشبو کا استعمال
۸۳۰	حالت احرام میں سر دھونا جائز ہے	۸۱۰	عورت کو سرمنڈانا ممنوع ہے
	احرام کی حالت میں آنکھوں پر لیپ کرنے کی اجازت	۸۱۱	افعال حج میں تقدیم و تاخیر سے کوئی گناہ نہیں ہے
۸۳۱	ہے	۸۱۲	افعال حج میں تقدیم و تاخیر معاف ہے
۸۳۱	احرام کی حالت میں سورج کی گرمی سے سایہ کرنا جائز ہے		بَابُ مَخْطَبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ وَرَمَى أَمَامَ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۳۲	مجبوری کی بنا پر سرمنڈانا جائز ہے	۸۳۲	میں ہے
۸۳۳	عورت کے محظورات احرام	۸۳۳	احصار کا حکم
۸۳۴	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا احرام کی حالت میں منہ کھولنے کا طریقہ	۸۳۴	حدیبیہ کا واقعہ
۸۳۵	احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال ممنوع ہے	۸۳۵	احصار کی وجہ سے حج کی قضا کرے
۸۳۶	سلاہوا کپڑا پہننا محرم کے لیے منع ہے	۸۳۶	احصار کی وجہ سے احرام کھولنا جائز ہے
۸۳۷	حالات احرام میں سبکی لگوانا جائز ہے	۸۳۷	جانوروں کو بدلنے کا حکم
۸۳۸	احرام کی حالت میں پچھنے لگوانا	۸۳۸	احصار دشمن کے علاوہ بھی ممکن ہے
۸۳۹	حدیث مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے بغیر احرام کی حالت کے نکاح فرمایا	۸۳۹	حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہے
۸۴۰	حکم کے لئے شکار کی ممانعت کا بیان	۸۴۰	حرم مکہ کا بیان اللہ تعالیٰ اس کو آفات سے محفوظ رکھے
۸۴۱	احرام کی حالت میں گور خر کا ہدیہ قبول نہ کرنا	۸۴۱	حرم کے احرام کا بیان
۸۴۲	حنیفہ کا استدلال	۸۴۲	بغیر ضرورت کے مکہ مکرمہ میں ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے
۸۴۳	احرام کی حالت میں مذکورہ جانوروں کو مارنا گناہ نہیں ہے	۸۴۳	حرم پاک میں قصاص کا مسئلہ
۸۴۴	موزی جانوروں کو مارنے کا حکم	۸۴۴	دخول مکہ کے وقت آپ ﷺ سیاحہ عمامہ باندھے ہوئے تھے
۸۴۵	محرم کو شکار کرنے کا ممانعت	۸۴۵	تخریب کعبہ لشکر کا ذکر
۸۴۶	الجراد بمعنی نڈی	۸۴۶	خانہ کعبہ کی خرابی حبشی کے ہاتھوں میں ہوگی
۸۴۷	حملہ کرنے والے درندے کو مار ڈالنے کا حکم	۸۴۷	خانہ کعبہ کو خراب کرنے والے شخص کا ذکر
۸۴۸	چرخ کے شکار کا حکم	۸۴۸	حرم میں ذخیرہ اندوزی کی ممانعت
۸۴۹	چرخ کے شکار کرنے پر جزا	۸۴۹	مکہ کی فضیلت
۸۵۰	چرخ اور بھیڑیے کا مسئلہ	۸۵۰	زمین میں سب سے زیادہ محبوب مقام مکہ ہے
۸۵۱	محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کا حکم	۸۵۱	حرمت مکہ کا بیان
۸۵۲	باب الا حصار و قوت العجۃ	۸۵۲	تعظیم مکہ کا بیان
۸۵۳	یہ باب محرم کے روکنے اور حج کے فوت ہو جانے کے بارے	۸۵۳	یہ باب مدینہ کے حرم (مدینہ کے گرد) کے بارے میں ہے
۸۵۴		۸۵۴	اللہ اسکو محفوظ رکھے
۸۵۵		۸۵۵	احترام مدینہ کا بیان

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۷۹	مدینہ والوں سے مکرو فریب کرنا ناممکن ہے.....	۸۷۱	حرمت مدینہ کا بیان.....
	آپ ﷺ کو مدینہ بہت زیادہ محبوب تھا.....	۸۷۲	مدینہ منورہ کی سکونت کی فضیلت.....
۸۸۰	اُحد پہاڑ سے آپ ﷺ کا اظہار محبت.....	۸۷۲	نیک پھل دیکھ آپ ﷺ مدینہ کے لیے دُعا فرماتے.....
	حرمت مدینہ کا بیان.....	۸۷۳	حرمت مدینہ کا بیان.....
۸۸۱	مدینہ کے درخت کاٹنے کی ممانعت.....	۸۷۴	مدینہ منورہ کے درخت کاٹنے کی ممانعت.....
	مقام و ج کی فضیلت و اہمیت.....		مدینہ منورہ کے لیے برکت کی دُعا.....
۸۸۲	مدینہ میں مرنے کی فضیلت.....	۸۷۵	مدینہ کی وباء کا ذکر.....
۸۸۳	دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا.....	۸۷۶	حضور ﷺ کی اہل مدینہ کے بارے میں پیشینگوئی.....
۸۸۴	روضہ اطہر کی زیارت کی فضیلت.....		مدینہ منورہ کی دوسری بستیوں پر فضیلت.....
۸۸۵	بوجہ روضہ اطہر کے سرزمین مدینہ کی فضیلت.....	۸۷۷	مدینہ میں رہنا آپ ﷺ کو محبوب تھا.....
۸۸۵	وادی عقیق کی فضیلت.....	۸۷۸	مدینہ منورہ میں دجال اور طاعون کا داخلہ ممنوع ہے.....

کتاب الجنائز

بابُ عِیَادَةِ الْمَرِیضِ وَثَوَابِ الْمَرِیضِ

یہ باب مریض کی عیادت اور بیماری کے ثواب کے بارے میں ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنازہ کا لفظ جیم کے کسرہ اور فتح دونوں کے ساتھ مستعمل ہے لیکن کسرہ زیادہ فصیح ہے۔ اگر جیم پر فتح پڑھیں تو میت کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جنازہ بالکسر تخت اور چار پائی کو کہتے ہیں جس پر میت کو رکھا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے بالکل اس کے برعکس کہا ہے یعنی جیم بالفتح چار پائی کو اور جیم بالکسر میت کو کہتے ہیں۔ جناز میں جیم کا فتح ہے کسرہ درست نہیں ہے۔ (مرقات ص ۵)

الفصل الاول:

۱۱۲۲۳/۱ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمُوا الْجَائِعَ وَعَوَّدُوا الْمَرِیضَ وَفَكَرُوا الْعَانِيَّ - [رواه البخاری]

انعرجہ البخاری فی صحیحہ ۱۱۲/۱۰ حدیث رقم ۵۶۴۹۔ والدارمی ۲۹۴/۲ حدیث رقم ۲۴۶۵۔ واحمد فی المسند ۲۹۴/۴

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بھوکے کو کھلاؤ اور مریض کی عیادت کرو اور قیدی کو (دشمن کے ہاتھوں سے) رہائی دلاؤ۔ (بخاری)

تشریح ﴿﴾ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تین باتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ تینوں احکام وجوب علی الکفایہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ وجوب علی الکفایہ کا مطلب ہے اگر ایک آدمی نے بھی ادا کر دیا تو دوسروں کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے یعنی باقی حضرات گناہ گار نہیں ہونگے اور اگر ایک آدمی نے بھی ادا نہ کیا تو سب گناہ گار ہونگے۔ ان احکامات میں سے سب سے پہلا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: أَطْعَمُوا الْجَائِعَ: بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ صاحب مرقاۃ نے جائع کی تشریح (المضطر والمسکین والفقیر) کے ساتھ کی ہے۔ علامہ طبری نے المضطر کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ المضطر اضطرار سے مشتق ہے۔ کسی ضرورت سے مجبور و بے قرار ہونے کو اضطرار کہا جاتا ہے۔ اور وہ جب ہی ہوتا ہے

جب اس کا کوئی یار و مددگار اور سہارا نہ ہو۔

تو آپ ﷺ کے اس ارشاد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا سنت ہے اگر اس کی اضطراری کیفیت نہ ہو۔ اگر بھوکا آدمی مرنے کے قریب ہے یعنی اگر اس نے کھانا نہ کھایا تو موت واقع ہو جائے گی اور شہر یا بستی میں کھانا کھلانے کی طاقت رکھنے والے کئی آدمی موجود ہیں تو ان سب پر کھانا کھلانا فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک نے بھی کھلادیا تو سب کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی اگر کھانا کھلانے کی طاقت صرف ایک آدمی ہی رکھتا ہے تو اس کے لئے کھانا کھلانا فرض عین ہوگا۔

آپ ﷺ نے دوسرا حکم اس طرح ارشاد فرمایا کہ مریض کی عیادت کرو یعنی جب کوئی بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اس کے پاس جائے۔ اس کو تسلی دے کہ ان شاء اللہ آپ جلد صحت مند ہو جائیں گے اور اس کی مزاج پر سی کرے تاکہ اس کا غم و پریشانی کم ہو جائے۔ آپ ﷺ کا یہ فرمان بھی وجوب علی الکفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ وجوب علی الکفایہ کا مطلب پہلے حکم میں آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ اگر مریض کی عیادت کرنے والے اور بھی ہیں تو اس وقت ایک آدمی کے عیادت کرنے کی وجہ سے بقیہ سب سے حکم ساقط ہو جائیگا۔ اگر شہر و بستی میں کوئی عیادت (خبرگیری) کرنے والا نہیں ہے اس وقت تیمارداری کرنا واجب ہے۔

تیسرا حکم آپ ﷺ نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ قیدی کو رہا کرادو۔ یہ حکم بھی وجوب علی الکفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ یہاں قیدی سے مراد یا تو وہ قیدی ہے جس کو ناحق قید کیا گیا ہے اور یا وہ قیدی مراد ہے جس کا بادشاہ نے فدیہ لے کر آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ (بعض نے کہا ہے کہ اس سے وہ قیدی مراد ہے جو دشمن کے ہاتھوں قید ہو چکا ہو اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں عانی سے مراد رقیق اور غلام ہے۔ یعنی غلام کو آزاد کرو۔) (نفحات التشقیق)

قرآن کریم کی آیت کریمہ ﴿فَلْكَ رَقِیۡۃً﴾ [البعد: ۱۳] کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور ایک انسان کی زندگی کو بنادینا ہے۔ (معارف القرآن مفتی شفیع صاحب 'سورۃ البعد')

مسلمانوں کے مسلمانوں پر حقوق کا ذکر حدیث کی روشنی میں

۲/۱۳۳۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ - [متفق علیہ]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱۲/۳ - حدیث رقم ۱۲۴۰ - ومسلم فی صحیحہ ۱۷۰۴/۴ حدیث رقم (۴-۲۱۶۲)۔

وابوداؤد ۲۸۸/۵ حدیث رقم ۵۰۳۰ وابن ماجہ ۴۶۱/۱ حدیث رقم ۱۴۳۵

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں: ۱) سلام کا جواب دینا۔ ۲) مریض کی عیادت کرنا۔ ۳) جنازے کی پیروی کرنا۔ ۴) دعوت کا قبول کرنا۔ ۵) چھینک مارنے والے کا جواب دینا۔

تشریح: اس حدیث میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے جو فرض کفایہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ سلام کرنا سنت ہے۔ سلام کہنا بھی سلام کے حقوق میں سے ہے (لیکن مریض کی عیادت اور جنازے کی اتباع کے حکم سے روافض وغیرہ مستثنیٰ ہیں) چنانچہ سلام کا

جواب دینے میں تواضع و انکساری ہے اور واجب کو ادا کرنے کا سبب بھی ہے۔

بیمار کی بیمار پرسی کرنا (تا کہ اس کو تسلی ہو اور آپ کے آنے سے اس کا دل خوش ہو جائے اور قلبی طور پر فرحت محسوس کرے۔

(م۔س)

لیکن اہل بدعت اس سے مستثنیٰ ہیں یعنی روافض وغیرہ کی خبر نہیں پوچھنا چاہیے۔ (کیونکہ ان کی خبر گیری کرنے میں ان کی تکریم ہے اور اہل بدعت کی تکریم کرنا حدیث کی رو سے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ کا اس بارے میں ارشاد موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے۔ جس نے اہل بدعت کی عزت کی اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی۔ (م۔س)

جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا چاہیے۔ لیکن اہل بدعت کے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

چوتھا حق مسلمان کا مسلمان پر یہ ہے کہ جب کوئی دعوت دے تو قبول کرے۔ بشرطیکہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو اور امام غزالی نے لکھا ہے جو کھانا آپس میں فخر کرنے کے لیے اور نمود نمائش کے لیے پکایا جائے اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف و صالحین اس کو مکروہ سمجھتے تھے۔

چھینک مارنے والے کو چھینک کا جواب دینا۔ یعنی اگر وہ الحمد للہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ نواب صاحب شرح السنہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ سب اسلام کے حقوق ہیں ان میں سب مسلمان نیک اور بد برابر ہیں بدعتی نہ ہو اور اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ بشارت اور مصافحہ نیک مسلمان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے نہ کہ علی الاعلان گناہ کرنے والوں کے ساتھ۔

مسلمانوں کے حقوق پر مشتمل دوسری روایت جس میں چھ چیزوں کا ذکر ہے

۳/۱۴۲۵ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ قَبِيلَ مَا هُنَّ بَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ [رواه مسلم]

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۱۷۰۵/۴ حدیث رقم (۵-۲۱۶۲)۔ والنسائی ۵۳/۴ حدیث رقم ۱۹۳۸۔ وابن ماجہ ۴۶۱۱/۱ حدیث رقم ۱۴۳۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں: آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! وہ کون سے ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تو مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام کر اور جس وقت وہ تجھ کو بلائے تو دعوت قبول کر اور جب کوئی تجھ سے خیر خواہی چاہے تو خیر خواہی کر اور جب وہ چھینک مار کر الحمد للہ کہے تو تو اس کو جواباً یرحمک اللہ کہہ اور جب وہ بیمار ہو جائے تو تو اس کی عیادت کر اور جب وہ مر جائے تو اس کے پیچھے جا (یعنی نماز جنازہ و دفن کے لئے ساتھ جائے)۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بھی مسلمان کے چھ حقوق کا ذکر فرمایا ہے جن میں سے سب سے زیادہ مسلمان کی

خیر خواہی چاہتا ہے۔ حدیث پاک میں آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: الدین النصیحة۔ دین سراسر خیر خواہی ہے۔ جو شخص دوسرے بھائی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں رکھتا وہ دیندار نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں دوسروں کے لیے بہتری سوچنے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: خیر الناس من ینفع الناس۔ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ (مس) اور پر والی حدیث میں پانچ کا ذکر ہے اور بعد والی میں چھ کا ذکر ہے تعداد میں کوئی حصر نہیں ہے بلکہ حقوق مسلمانی بہت ہیں۔ موقع محل کے لحاظ سے کچھ ان میں سے بیان فرمائے ہیں۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ بتدریج نازل ہوئے ہوں۔ پہلے پانچ نازل ہوئے ہوں اور پھر چھ نازل ہوئے ہوں۔

سات چیزوں کے کرنے اور سات چیزوں سے باز رہنے کا حکم

۴/۱۱۳۲۶ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِبَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَابْتِرَارِ الْمُقْسِمِ وَتَصْرِ الْمَظْلُومِ وَنَهَانَا عَنْ خَاتِمِ الدَّهَبِ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالذَّبِيحِ وَالْيُمَيْرَةِ الْحَمْرَاءِ وَالْقَيْسِيَّ وَابْنَةَ الْفِضَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ.

[متفق علیہ]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱۲/۳۔ حدیث رقم ۱۲۳۹۔ ومسلم فی صحیحہ ۱۶۳۵/۳ حدیث رقم (۳-۲۰۶۶)۔

والترمذی فی السنن ۱۵۸/۵ حدیث رقم ۲۸۰۹۔ والنسائی ۵۴/۴ حدیث رقم ۱۹۳۹۔

ترجمہ: حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں سات چیزوں کا حکم فرمایا اور سات چیزوں سے منع فرمایا ہے اور جن سات چیزوں کا حکم فرمایا وہ سات چیزیں یہ ہیں: ﴿مریض کی عیادت کرنا﴾ ﴿جنازے کی اتباع کرنا﴾ ﴿چھینک مارنے والے کا جواب دینا﴾ ﴿سلام کا جواب دینا﴾ ﴿دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنا﴾ ﴿قسم کھانے والے کی قسم کو سچا کرنا﴾ ﴿مظلوم کی مدد کرنا اور آپ ﷺ نے ہمیں سات چیزوں سے منع فرمایا: ﴿سوئے کی انگلی پھینک دینا﴾ ﴿ریشم پہننے سے﴾ ﴿اور اطلس سے اور لائی سے﴾ ﴿الحریق والاستبوق والدیباچ﴾ یہ تینوں ریشمی کپڑے کی اقسام ہیں۔ ﴿اور زین پوش سرخ﴾ ﴿کپڑے﴾ کے پہننے سے اور قسی کے کپڑے پہننے سے اور چاندی کے برتن استعمال کرنے سے اور ایک روایت میں چاندی کے برتن میں پینے سے منع فرمایا ہے۔ اس لئے کہ جو شخص دنیا میں اس برتن سے پینے کا آخرت میں وہ اس برتن سے نہیں پینے گا۔ اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے

تشریح: ﴿آپ ﷺ نے سات چیزوں کے کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ جن میں سے پانچ کی تشریح پہلے ہو چکی ہے۔ چھ نمبر پر یہ ہے کہ قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنا۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی آئندہ کام پر قسم کھائے اور مخاطب اس پر قادر بھی ہو اور اس کام میں کوئی گناہ نہ ہو۔ تو اس کو وہ کام کر لینا چاہیے تاکہ اس کی قسم ٹوٹنے نہ پائے۔ بعض حضرات نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قسم دے کر کہتا ہے کہ فلاں کام کرو۔ مخاطب کو یہ کام پروردگار کی تعظیم کی خاطر کر لینا چاہیے۔ اگرچہ اس کا کرنا لازمی نہیں ہے۔

مظلوم کی مدد کرنا واجب ہے اس میں مسلمان اور ذمی دونوں برابر ہیں یہ مدد قول و فعل دونوں کے ساتھ ہو سکتی ہے۔
 میثورہ کا لغوی معنی روندنا ہے اور اصطلاح میں ایسے ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں جس میں روئی بھری ہوتی ہے عجیبوں کی عادت یہ ہے کہ وہ اس کو زین پر ڈال کر بیٹھتے ہیں تفاخر و تکبر کی وجہ سے اور ریشم کسی بھی رنگ کا ہو تو اس کا استعمال کرنا حرام ہے البتہ اگر ریشم نہ ہو بلکہ صرف سرخ رنگ کا لباس ہو تو اس کا استعمال مکروہ ہے اور قسی ایک کپڑے کا نام ہے جو ریشم اور کتان سے سیا جاتا ہے۔ یہ قس کی طرف منسوب ہے۔ قس مصر کی ایک بستی کا نام ہے جو ساحل سمندر پر واقع ہے۔ (مرقاۃ) آپ ﷺ نے سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بلکہ سونے کے برتن استعمال کرنے میں بہت زیادہ گناہ ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے جو دنیا میں چاندی کے برتن میں پینے کا آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ ایسے ہی ریشم پہننے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے: ((مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ)) ”جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔“ (صحیح بخاری جلد سوم حدیث نمبر: ۷۸۵)

قال ميرك: ميرك کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ان چاروں میں کیا فرق ہے؟ تو میں کہوں گا حریر عام ہے۔ دیباچ اس کی قسم ہے۔ اور استبرق دیباچ کی قسم ہے اور قسی وہ ہے جس کے ساتھ ریشم ملا ہوا ہو۔ (مرقاۃ کتاب البناؤ ص ۸)

مریض کی عیادت کرنے پر انعام

۵/۴۳۷ وَعَنْ قُتَيْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْقَةٍ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ۔ [رواه مسلم]

اخرجه مسلم في صحيحه ۱۹۸۹/۴۔ حدیث رقم (۴۱-۲۵۶۸)۔ والترمذی فی السنن ۲۹۹/۳ حدیث رقم ۹۶۷۔ وابن ماجہ ۴۶۳/۱ حدیث رقم ۱۴۴۲۔ واحمد فی المسند ۲۷۹/۵۔

ترجمہ: حضرت قُتَيْبَةُ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ اس وقت تک بہشت (جنت) کے میوے کھاتا رہتا ہے جب تک واپس نہ لوٹ آئے۔

تشریح: آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تک ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے میں اپنا وقت گزارتا ہے اس وقت تک وہ جنت کے پھل کھاتا ہے۔ یعنی وہ وہاں سے لوٹنے تک اللہ کی رحمتیں لوٹتا رہتا ہے۔ یہ نعمت اس کو انسانی ہمدردی کی بنا پر حاصل ہوتی ہے (کیونکہ اس نے بیمار کی عیادت کے لیے کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کو انعام سے نوازتے ہیں)۔

عیادت نہ کرنے پر خدا کی ناراضگی اور کرنے پر انعام کا ذکر

۶/۴۳۸ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرَضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوْ جَدْتَنِي عَنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطَعْتُمْكَ فَلَمْ تَطْعَمْنِي قَالَ يَارَبِّ

كَيْفَ أَطْعَمَكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فَلَانَ فَلَمْ تُطْعِمَهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَغْفِرُكَ فَلَمْ تَسْتَغْفِرْ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَغْفِرُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَغْفِرُكَ عَبْدِي فَلَانَ فَلَمْ تَسْغِرْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَغَرْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي۔

[رواہ مسلم]

اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۱۹۹۰/۱۴۔ حدیث رقم (۵۵۶۹-۴۳)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے۔ اے آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوا تو نے مجھ سے نہ پوچھا۔ بندہ کہے گا اے میرے رب! میں کس طرح پوچھتا تو تو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اور بیماری سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو نے نہیں جانا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی حالت دریافت نہیں کی۔ اگر تو اس کی حالت پوچھتا تو مجھ کو اس کے پاس پاتا (یعنی میری رضا مندی پالیتا) اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ آدمی کہے گا: اے میرے رب! میں کس طرح کھلاتا تو تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا تو تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا۔ تو مجھ سے اس کا ثواب حاصل کر لیتا۔ اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا بندہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کس طرح پلاتا۔ اور تو تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: اے میرے بندے فلاں آدمی نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس کا ثواب میرے پاس پالیتا (یعنی حاصل کر لیتا)۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں عیادت نہ کرنے والے پر ناراضگی و شکوہ کا اظہار فرمایا ہے۔ الغرض اس مذکورہ حدیث میں تین باتیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے مریض کی عیادت کرنے کی ترغیب دی ہے سوال و جواب کے انداز میں جو کہ سمجھنے والوں کے لیے بڑا موثر طریقہ ہے۔ دوسرے اور تیسرے نمبر پر کھانا کھلانے اور پانی پلانے پر زور دیا گیا ہے اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ مریض کی عیادت کرنے، کھانا کھلانے اور باقی کاموں کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے دنیا و آخرت کے کام بن جاتے ہیں گویا وہ من کان للہ کان اللہ لہ کا مصداق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنادے۔ آمین۔

بیمار کی فضیلت

۱۳۲۹/۷ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَغْرَابِيٍّ يَعُودُهُ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ كَلَّا بَلْ حُمِي تَقُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تَزِيرُهُ الْقُبُورُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَعَمْ إِذَا۔ [رواہ البخاری]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۲۳/۱۰ - حدیث رقم ۵۶۶۲ - واحمد فی المسند ۲۵۰/۳۔

ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک دیہاتی کی خبر گیری کے لیے تشریف لے گئے اور آپ ﷺ جب بیمار کے پاس حال پوچھنے کے لئے جاتے تو فرماتے بیماری سے غم نہ کھاؤ یہ پاک کرنے والی ہے اگر اللہ نے چاہا پس آپ ﷺ نے اعرابی کے لیے یہی الفاظ فرمائے اور فرمایا کوئی ڈر نہیں ہے بیماری پاک کرنے والی ہے اگر اللہ نے چاہا دیہاتی نے کہا ہرگز کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو بخار ہے جو بوڑھے آدمی پر جوش مارتا ہے اور یہ بخار اس کو قبر میں لے جائے گا (یعنی مار دے گا) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہاں! اسی طرح ہوگا (یعنی اگر تمہارا یہی خیال ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا) یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں ایک دیہاتی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ ﷺ نے یہ دعا پڑھی: لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔ اعرابی نے جواب دیا یہ تو بخار ہے جو قبر میں لے جائے گا۔ آپ ﷺ اس پر ناراض ہوئے اور فرمایا اچھا جو تیرا خیال ہے یعنی اب اسی طرح ہوگا۔ اس نے بیماری کی فضیلت کی نعمت کی ناشکری کی ہے اور جو اللہ رب العزت کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے وہ نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے: ﴿لَٰكِنُّ شَكَرْتُمْ لَّآزِيدَنَّكُمْ وَلَٰكِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (ابراہیم: ۷) اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بضرورت تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو لازماً ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہوگی۔ اس حدیث پاک سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ﷺ آدمی کی خبر گیری کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے اور امیر غریب اس معاملے میں سب برابر ہیں۔ (مس) آپ ﷺ کا اعرابی کی تیمارداری کے لیے جانا امت کو تعلیم دینے کے لئے تھا۔ تاکہ امت بھی اس کو اپنائے۔ احتمال ہے کہ دیہاتی کافر ہو لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ وہ کافر نہیں تھا بلکہ مسلمان تھا لیکن اجڈ بیوقوف تھا۔ سخت تکلیف کی وجہ سے اس نے یہ الفاظ کہے۔

بیمار کے لیے دُعا سیہ کلمات

۸/۳۳۰ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ

ثُمَّ قَالَ أَذْهَبِ الْبَاسُ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا [متفق علیہ]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳۱/۱۰ - حدیث رقم ۵۶۷۵ - ومسلم فی صحیحہ ۱۲۷۱/۴ - حدیث رقم (۴۶-۲۱۹۱)

وابوداؤد فی السنن ۲۱۷/۴ - حدیث رقم ۳۸۹۰ - والترمذی ۳۰۳/۳ - حدیث رقم ۹۷۳ - وابن ماجہ ۵۱۷/۱ - حدیث رقم

۱۶۱۹ واحمد فی المسند ۷۶/۱۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تو آپ ﷺ اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اے لوگوں کے (پروردگار) بیماری کو دور کر دے اور تو شفا دینے والا ہے شفا دیدے۔ تیری شفاء کے علاوہ کوئی شفاء نہیں ہے جو بیماری کو دور کر دے۔

تشریح: اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ ﷺ بیمار آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو کچھ

کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ دم کرنے کا ثبوت بھی اس حدیث سے ملتا ہے۔ آپ ﷺ بیمار آدمی پر یا درد والی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے۔ اے لوگوں کے پالنے والے! بیماری کو دور کر دے اور بیمار کو بیماری سے شفا بخش دے تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے کوئی ایسی شفا جو بیماری کو دور کر دے۔

پھوڑے پھنسی پر دم کرنے کا طریقہ

۹/۴۳۱ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاصْبِغُهُ بِسَمِ اللَّهِ تَرُبُّهُ أَرْضُنَا بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِأَذْنِ رَبَّنَا۔ [متفق علیہ]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۰۶/۱۰ حدیث رقم ۵۷۴۵۔ و مسلم فی صحیحہ ۱۷۲۴/۴ حدیث رقم (۵۴-۲۱۹۴)

وابوداؤد فی السنن ۲۱۹/۴ حدیث رقم ۳۸۹۵ وابن ماجہ ۱۱۶۳/۲ حدیث رقم ۳۵۲۱۔ واحمد فی المسند ۹۳/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے جب (کوئی) آدمی اپنے بدن کے کسی حصہ میں تکلیف کی شکایت کرتا تھا یا اس کے کسی عضو پر پھوڑا یا زخم ہوتا تھا تو نبی کریم ﷺ اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے فرماتے میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ برکت حاصل کرتا ہوں۔ یہ زمین کی مٹی ہمارے بعض (آدمیوں) کے لعاب کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تاکہ پروردگار کے حکم سے شفا ہو جائے۔ یہ بخاری اور مسلم سے روایت ہے۔

تشریح: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت ہے پھوڑے پھنسی پر دم کرنے کا آپ ﷺ کا طریقہ اس طرح ہوتا تھا کہ ہم میں سے جب کوئی آدمی پھوڑے پھنسی کی شکایت کرتا تو نبی کریم ﷺ اپنی انگلی رکھ کر یوں دعا فرماتے۔ بِسْمِ اللَّهِ تَرُبُّهُ أَرْضُنَا بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِأَذْنِ رَبَّنَا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ جو ہماری زمین کی مٹی ہے۔ ہم میں سے بعض کے تھوک سے ملی ہوئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیمار کو شفا ہو جائے۔

تھوک کا مزاج کی تبدیلی میں بڑا اثر ہوتا ہے اور آدمی کے اپنے وطن کی مٹی بھی مزاج کو برقرار رکھنے میں بڑی تاثیر رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ساتھ پانی نہیں لے جاسکتا تو کچھ مٹی لے جائے۔ اگر پانی موافق نہ آئے۔ تو مٹی پانی میں ڈال دے۔ تاکہ مزاج کی تبدیلی سے محفوظ رہے۔ شارحین نے اس کی اور بھی توجیحات بیان کی ہیں۔ یہ سب احتمالات ہیں حقیقت پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اشرف نے کہا کہ یہ حدیث دم و منتر کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ جب تک اس میں حرام چیزیں نہ ملی ہوئی ہوں۔ یعنی دم کرنے والا جادو کے (ٹوٹکے) اور کفریہ کلمات نہ کہے۔ منتر کسی بھی زبان کا ہو۔ (ہندی۔ ترکی۔ عربی) وغیرہ جب تک اس کے معنی معلوم نہ ہوں تو اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔

آیات قرآنیہ پڑھ کر دم کرنا مسنون ہے (حدیث سے ثابت ہے)

۱۰/۴۳۲ وَأَعْنَاهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ وَمَسَحَ

عَنْ يَدَيْهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تَوَفَّى فِيهِ كُنْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفُثُ وَأَمْسَحُ بِيَدِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (متفق علیہ وفی رواۃ لمسلم) قَالَتْ كَانَ إِذَا مَرَضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ نَفَثَ

عَلَيْهِ بِالْمَعْوِذَاتِ۔

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۰۶/۱۰۔ حدیث رقم ۵۷۴۵۔ ومسلم فی صحیحہ ۱۷۲۴/۴ حدیث رقم (۵۴-۲۱۹۴) وابوداؤد فی السنن ۲۱۹/۴ حدیث رقم ۳۸۹۵ وابن ماجہ ۱۱۶۳/۲ حدیث رقم ۳۵۲۱۔ واحمد فی المسند ۹۳/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب بیمار ہوتے تو اپنے اوپر معوذات پڑھ کر دم کرتے تھے اور اپنا ہاتھ اپنے جسم پر پھیرا کرتے تھے جہاں تک پہنچ سکتا۔ پس آپ ﷺ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو میں حضور ﷺ پر معوذات پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ آپ ﷺ پر معوذات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ میں نبی کریم ﷺ کے ہاتھ اس طرح (آپ کے بدن مبارک) پر پھیرتی کہ میں معوذات پڑھ کر آپ ﷺ کے ہاتھوں پر دم کر دیا کرتی تھی اور آپ ﷺ کے دونوں ہاتھوں کو آپ ﷺ کے بدن مبارک پر پھیرتی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم سے منقول ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت سے منقول ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب گھر والوں (اہل والوں) میں سے کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تو آپ ﷺ پر معوذات پڑھ کر دم فرماتے تھے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے قرآنی آیات کے ذریعے دم کرنے کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ ﷺ مریضوں پر بلکہ خود اپنے آپ پر معوذات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ معوذات سے مراد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معوذات کا اطلاق تو جمع پر ہوتا ہے جبکہ تعوذ کا معنی تو صرف دو سورتوں (یعنی سورۃ الفلق اور الناس) میں پایا جاتا ہے۔ لہذا جمع کا صیغہ لانا درست نہیں ہے۔ تو محدثین نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ جمع کا لفظ آیتوں کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ کیونکہ ان سورتوں میں آیتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس لئے ان کو معوذات کہا گیا ہے۔ یا دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ قل ہوائے کو معوذات میں تقلیداً داخل کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہاتھ پھیرنے کا ذکر نہیں آیا ہے۔ یہ احتمال ہاتھ پھیرنے کا بھی ہے لیکن ذکر اس لیے نہیں کیا کہ دم کرنے سے ہاتھ کا پھیرنا سمجھ میں آ جاتا ہے اور احتمال ترک کرنے کا بھی ہے کہ کبھی صرف دم کرنے پر ہی اکتفا کر لیتے تھے۔ اور اولویت دونوں کاموں میں ہے۔

دم کرنے کا مسنون طریقہ

۱۱۳۳۳/ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ شَكَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الْيَدِ يَأْتُمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ تَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَحْدُ وَأُحَادِرُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي۔

[رواہ مسلم]

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۱۷۲۸/۴۔ حدیث رقم ۶۷-۲۲۰۲۔ وابوداؤد فی السنن ۲۱۸/۴ حدیث رقم ۳۸۹۱۔

والترمذی ۳۵۵/۴ حدیث رقم ۲۰۸۰ وابن ماجہ ۱۱۶۳/۲ حدیث رقم ۳۵۲۲۔ واحمد فی المسند ۳۹۰/۶۔

ترجمہ: حضرت عثمان بن ابی العاصؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ سے درود کی شکایت کی جس کو وہ اپنے بدن کے اندر پارہے تھے (یعنی محسوس کر رہے تھے)۔ تو آپ ﷺ نے حضرت عثمان بن ابی العاصؓ سے ارشاد فرمایا کہ اپنا ہاتھ

درد والی جگہ پر رکھو اور تین بار بسم اللہ کہو اور سات بار یوں کہو میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس کی عزت کے ساتھ اور اس کی قدرت کے ساتھ اس چیز کی برائی سے (یعنی درد سے) جو میں اپنے بدن میں پاتا ہوں۔ اور میں ڈرتا ہوں اس کی (یعنی درد کی) زیادتی سے پس حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے یہ کام کیا تو اللہ رب العزت نے میری بیماری کو دور کر دیا۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ کے دم کرنے کا مسنون طریقہ بیان کیا گیا ہے اور حضرت عثمان بن ابی العاص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ سے درد کی شکایت کی۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: اپنی درد والی جگہ پر ہاتھ رکھو۔ اور بسم اللہ تین مرتبہ پڑھو اور سات مرتبہ دعا پڑھو جس کا ذکر حدیث پاک میں گزر چکا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ دعا پڑھ کر دم کیا تو اللہ رب العزت نے میری بیماری کو دور کر دیا۔ اس حدیث پاک سے بیماری کے لیے دم کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔

جبریل علیہ السلام کا آپ ﷺ کو دم کرنا

۱۲/۱۳۳۲ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اسْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْفَيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْفَيْكَ۔

اخرجه مسلم في صحيحه ۸۷۱۸/۴ حديث رقم (۴۰-۲۱۸۶)۔ وابن ماجه في السنن ۱۱۶۵۱۲ حديث رقم ۳۵۲۷۔

واحمد في المسند ۱۶۰/۶۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ جبریل نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے: کہ اے محمد! کیا آپ بیمار ہیں تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں! جبریل نے فرمایا میں اللہ کے نام ساتھ آپ ﷺ پر دم کرتا ہوں ہر ایسی چیز سے جو آپ ﷺ کو تکلیف پہنچائے ہر شخص کی برائی سے ہر تکلیف دینے والی چیز سے اور آدمی کی برائی سے یا حسد کرنے والے میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ ﷺ پر منتر (دم) پڑھتا ہوں۔ یہ روایت مسلم سے منقول ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے اور آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی! کیا آپ ﷺ بیمار ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جی ہاں میں بیمار ہوں۔ جبریل علیہ السلام فرمانے لگے میں آپ ﷺ پر اللہ کا نام لے کر ہر تکلیف دینے والی چیز سے اور آدمی کی برائی سے یا حسد کرنے والے سے دم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو شفا بخشے۔ اس حدیث پاک سے تیمارداری کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور فرشتے کا حضور ﷺ کی مزاج پرسی کرنا اور آپ ﷺ کو دم کرنے سے امت کو اس کام کی اہمیت بتلانا مقصود ہے۔ (م)

تکلیف دہ چیزوں سے پناہ پکڑنے کا بیان

۱۳/۱۳۳۵ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ أَعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَآمَةٍ وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمَا يَعُوذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ

وَأَسْحَاقُ۔ (رواہ البخاری وفی اکثر نسخ المصابیح بہما علی لفظ الثنبیة)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۰۸/۷۔ حدیث رقم ۲۳۷۱۔ والترمذی فی السنن ۳۴۶/۴ حدیث رقم ۲۰۶۰۔ وابن

ماجہ ۱۱۶۴/۲ حدیث رقم ۳۵۲۵۔ واحمد فی المسند ۲۷۰/۱۔ (۱) فی المخطوطہ (یکون)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ حضرت حسن اور حضرت حسینؓ کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے کہ تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ان کلمات کے ساتھ جو کہ پورے ہیں ہر شیطان کی برائی سے اور ہر زہرے جلائے جانور سے جو مار ڈالنے والا ہے اور ہر نظر لگا دینے والی آنکھ۔ آپ ﷺ ارشاد فرماتے تھے تمہارے باپ حضرت ابراہیمؑ حضرت اسماعیل اور اسحق علیہم السلام کو ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے اور مصابیح کے اکثر نسخوں میں بہما تفسیر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ آپ ﷺ حضرت حسن و حسینؓ کو ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی پناہ میں دیتے تھے کہ میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر سرکش اور حد سے تجاوز کر جانے والے کی برائی سے خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے یا جانوروں میں سے ہامہ۔ کالفظ وضاحت سے ذکر کرتے کیونکہ ہامہ سے مراد زہریلا جانور ہے جس کے ڈسنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے جیسے سانپ وغیرہ۔

وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَةٌ سے مراد نظر لگا دینے والی آنکھ یعنی بری نظر سے بھی آپ ﷺ نے پناہ مانگی ہے کیونکہ نظر کا برحق ہونا حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا والعین حق۔ نظر برحق ہے۔ نظر کس کو کہتے ہیں؟ صاحب مراقا نے نظر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے جب دیکھنے والا کسی چیز کو دیکھے اور اس کو اچھا سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے اور اس کی کاریگری کی طرف اس کی نظر نہ جائے۔ تو ناظر کی نظر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ منظور علیہ کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے (مراقا) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے باپ (یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام) اپنے بیٹوں حضرت اسحق اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو اس کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتے تھے اور مرجع سے دو کہیں مراد ہے جن پر من داخل ہے۔ علامہ طیبی نے کہا ہے کہ یہ کاتب کی غلطی ہے اور مفرد ضمیر صحیح ہے۔

بھلائی امتحان کا سبب ہے

۱۳/۱۳۳۶ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُؤَدِّ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِيبْ مِنْهُ.

[رواہ البخاری]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۰۳۱/۱۰۔ حدیث رقم ۵۶۴۵۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی (خیر) کا ارادہ کرتے ہیں اس کو بھلائی (خیر) کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ یہ روایت بخاری سے نقل کی ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مصیبت ہر ناپسندیدہ امر کو کہتے ہیں۔ مصیبت کا آنا دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو قہر (ناراضگی) کی وجہ سے ہوتا

ہے اور کبھی مہربانی و شفقت کی بنا پر آتی ہے اگر انسان مصیبت پر صبر کرے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ مصیبت پر صبر کرنا خدا کی رضا مندی اور مہربانی کی علامت ہے۔ اور اگر مصیبت پر جزع و فزع کرے تو یہ خدا کی ناراضگی کی علامت ہے یعنی قہر کی۔ مولانا محمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اچھی طرح واضح کیا ہے کہ اگر خدا سے خوف کی حالت میں انسان پر مصیبت آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ گناہ کم ہوتے ہیں اور درجات میں ترقی ہوتی ہے یعنی ایسی مصیبت انسان کے لیے باعث رحمت ہے۔ اگر انسان کفر و شرک و معاصی میں مبتلا ہے اور اس حالت میں انسان پر تکلیف آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذائقے کا لفظ بمعنی (چکھنا) استعمال فرمایا ہے اور ایمان والے کے لیے ابتلاء کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی آزمائش کے لیے فرمایا: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرہ: ۱۵۵] ”اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میوؤں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو (خدا کی خوشنودی کی) بشارت سنا دو۔“

(فتح محمد جالندھری)

مصائب گناہوں کو مٹانے کا باعث ہوتے ہیں

۱۵/۱۳۳۷ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ۔ [متفق علیہ]

اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۱۰۳/۱۰۔ حدیث رقم ۵۶۴۱۔ ومسلم فی صحیحہ ۱۹۹۲/۴ حدیث رقم (۲۵۷۳-۵۲)

والترمذی فی السنن ۲۹۸/۳ حدیث رقم ۹۶۶۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمان کو جو کوئی رنج و تکلیف، غم یا فکر پہنچتی ہے یہاں تک کہ اگر کٹنا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو جھاڑ (مٹا) دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو نقل کیا ہے۔

تشریح: اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ تکلیفیں انسان کے لیے رفع درجات کا سبب بنتی ہیں۔ محدثین کا کہنا ہے کہ لفظ ہم اور غم کا معنی آپس میں قریب قریب ہے بلکہ خفیف سا فرق ہے۔ ہم آئندہ پریشانی کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے اور غم گزشتہ کسی امر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی مسلمان کو کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ خاص طور پر صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ اگر کٹنا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نئے کے چھیننے کی وجہ سے بھی گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں۔

شدت مرض پر شمرہ

۱۶/ ۱۳۳۸ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسَسْتُهُ بِيَدَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكًا شَدِيدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلٌ لِّي أَوْ عَكٌ

كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قَالَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ فَقَالَ أَجَلٌ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ بِصِيئَةٍ أَذَى مِنْ مَرَضٍ لِمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا - [متفق عليه]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱۱/۱۰ - حدیث رقم ۵۶۴۸ - و مسلم فی صحیحہ ۱۹۹۲/۴ حدیث رقم (۴۵ - ۲۵۷۱) والدارمی فی السنن ۴۰۸/۲ - حدیث رقم ۲۷۷۱ - واحمد فی المسند ۳۸۱/۱ -

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ حضور ﷺ بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے آپ کو اپنا ہاتھ لگایا اور کہا اے اللہ کے نبی! آپ ﷺ کو تو سخت بخار ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جی ہاں مجھے تم میں سے دو شخصوں کے برابر بخار چڑھتا ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ یہ اس واسطے (اس لیے) ہے کہ آپ کو دو گنا ثواب ملے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑ (مٹا) دیتا ہے جیسا کہ درخت کے پتے گرتے ہیں۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ بخار میں مبتلا تھے میں نے نبی اکرم ﷺ کے جسم اطہر پر ہاتھ لگایا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ﷺ آپ کو بخار ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے بخار ہے اور میرا بخار دو آدمیوں کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آپ کو دو گنا ثواب دینے کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا جی ہاں پھر فرمایا جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کو پاک کر دیتے ہیں۔

آپ ﷺ کی شدت درد کا بیان

۱۷/۳۳۹ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَلْوَجَعُ عَلَيْهِ أَشَدُّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

[متفق عليه]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱۰/۱ - حدیث رقم ۵۶۴۶ - و مسلم فی صحیحہ ۱۹۹۰/۴ حدیث رقم (۴۴ - ۲۵۷۰) وابن ماجہ فی السنن ۵۱۸/۱ حدیث رقم ۱۶۲۲ واحمد فی المسند ۱۷۳/۶ -

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے آپ ﷺ کی (شدت) بیماری سے بڑھ کر کسی کی بیماری نہیں دیکھی۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ کی بیماری دوسرے لوگوں کی بیماری سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ شدت کی اصل وجہ دوسری روایات سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ ﷺ کو دو ہر آجرو دینا مقصود ہوتا تھا۔

نبی کریم ﷺ کی نزع کی کیفیت کا بیان

۱۸/۳۳۰ وَعَنْهَا قَالَتْ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَاقِنَتَيْ وَدَافِنَتَيْ فَلَا أَكْرَهَ شِدَّةَ الْمَوْتِ لَا أَحَدٌ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [رواه البخاری]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۰۳/۱۔ حدیث رقم ۵۶۴۳۔ ومسلم فی صحیحہ ۲۱۶۳/۴ حدیث رقم (۵۹-۲۸۱۰)۔

والدارمی فی السنن ۴۰۰/۲ حدیث رقم ۲۷۴۹۔ واحمد فی المسند ۴۵۴/۳۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے میرے سینے کے بالائی حصے اور میری ٹھوڑی کے درمیان وفات پائی۔ میں آپ ﷺ کی وفات کے بعد کسی کی موت کی شدت کو کمرودہ (ناپسند) نہیں سمجھتی۔ (بخاری)

تشریح: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے دنیا سے رحلت فرماتے وقت کی حالت کو بیان کرتی ہیں کہ جب آپ ﷺ پر نزع کی کیفیت طاری تھی تو آپ ﷺ میرے سینہ پر سہارا لگائے ہوئے تھے میں آپ ﷺ کی موت کی سختی کے بارے میں خوب آگاہ ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرا خیال یہ تھا کہ شاید موت (نزع) کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے تو جب میں نے نبی کریم ﷺ کی سختی کو دیکھا تو سمجھ گئی کہ موت کی سختی خاتمہ بالسوء کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ تو رفع درجات کے لئے ہے اور صحت و تندرستی کی وجہ سے بھی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے موت کی آسانی بزرگی کی دلیل نہیں ہے ورنہ آپ ﷺ کو بدرجہ اولیٰ موت کی آسانی حاصل ہوتی۔

مؤمن اور منافق کی زندگی کی حقیقت آپ ﷺ کی زبانی

۱۹/۱۳۴۱ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْحَمَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفَيْئُهَا الرِّيحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةٌ وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الْأُرْزَةِ الْمُجْدِيَةِ الَّتِي لَا يَصِيْبُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجَعَا فُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً۔ [متفق عليه]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۰۳/۱۰۔ حدیث رقم ۵۶۴۴۔ ومسلم فی صحیحہ ۱۱۶۳/۴ حدیث رقم (۵۸-۲۸۰۹)۔

والترمذی فی السنن ۱۳۸/۵ حدیث رقم ۲۸۶۶۔

ترجمہ: حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مؤمن کی مثال کھیتی کے (پھنے) (وتازہ) نرم و نازک شاخ کی طرح ہے ہوائیں اس کو جھکاتی (جھلاتی) ہیں کبھی اس کو گرا دیتی ہیں اور کبھی اس کو سیدھا (کھڑا) کر دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے۔ یعنی بعینہ اسی طرح مسلمان کو کبھی کمزوری اور بیماری کا حادثہ (واقعہ) گرا دیتا ہے۔ اور کبھی صحت و تندرستی اس کو سیدھا اور (چاق و چوبند) کر دیتی ہے اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے وہ سیدھا اور مستحکم (مضبوط) ہوتا ہے۔ اور زمین میں ثابت ہوتا ہے۔ اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ نہ جھکتا ہے نہ گرتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک بار اکھڑتا ہے۔ (اور زمین پر گر پڑتا ہے) اسی طرح منافق کی مثال ہے وہ ہمیشہ توانا و تندرست رہتا ہے اس کو کوئی بیماری اور کمزوری نہیں پہنچتی۔ وہ یکبارگی زمین پر گر کر مر جاتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مؤمن کی مثال کھیتی کی تروتازہ شاخ کی طرح ہے وہ شاخ اتنی نرم و نازک ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ اس شاخ کو ادھر ادھر جھلاتی ہے یعنی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مؤمن کی زندگی حوادث سے خالی نہیں ہوتی کبھی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ کبھی مال کی کمی آ جاتی ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں۔ اگر وہ صبر و شکر کرے اور خدا کی تقدیر پر راضی و خوش رہے تو کامیابی کی علامت ہے اس لیے

حدیث پاک میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ((الدُّنْيَا سَجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ)) ”دنیا مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے۔“ (صحیح مسلم: جلد سوم: حدیث نمبر ۲۹۱۸) دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے درجات بلند کرنے کے لئے ان کو تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے یہ سب کامیابی کی علامتیں ہیں۔

آپ ﷺ نے منافق کو صنوبر کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے صنوبر کے درخت کی جڑ زمین میں مضبوط ہوتی ہے سخت ہوائیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ آخر کار وہ ایک ہی دفعہ زمین سے اکھڑ جاتا ہے اسی طرح منافق کی مثال ہے وہ ہمیشہ تندرست و توانا رہتا ہے پھر بوجہ بیماری اور کمزوری کے ایک ہی بار گرتا ہے یعنی موت آ جاتی ہے۔ الغرض منافق اور فاسق کو مصائب و آلام کم ہی پیش آتے ہیں۔ تاکہ اس کو گناہوں کا کفارہ اور ثواب حاصل نہ ہو۔

حدیث کی روشنی میں مومن اور منافق کی زندگی میں فرق

۲۰/۱۳۳۲ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تَمِيلُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزَةِ لَا تَهْتَرُ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ۔

[متفق علیہ]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۰۳/۱۰۔ حدیث رقم ۵۶۴۴۔ و مسلم فی صحیحہ ۱۱۶۳/۴ حدیث رقم (۲۸۰۹-۵۸)

والترمذی فی السنن ۱۳۸/۵ حدیث رقم ۲۸۶۶۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال کھیتی کی مانند (طرح) ہے۔ باویں (ہوائیں) اس کو ہمیشہ جھکاتی رہتی ہیں اور مومن کو ہمیشہ بلائیں (آزمائشیں) پہنچتی رہتی ہیں منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے نہیں ہلتا (یعنی مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے) مگر اچانک اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح: آپ ﷺ نے اس حدیث پاک میں مومن اور منافق کی زندگی کو بہترین تمثیل کے ساتھ واضح کیا ہے مومن کی زندگی کو کھیتی کی تروتازہ شاخوں سے تشبیہ دی ہے۔ اور منافق کو صنوبر کے درخت کے ساتھ۔ جس کی تفصیل پہلی حدیث میں گزر چکی ہے۔

الغرض حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ مصائب و مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اور آخرت میں اس کے درجات بلند ہو جائیں منافق کو ان مذکورہ چیزوں یعنی مصیبتوں میں گرفتار نہیں کرتا یعنی منافقوں کو آزمائشوں میں مبتلا نہیں کرتا۔ تاکہ آخرت میں اس کا عذاب ہلکا نہ ہو۔

بخاری پر آجر

۲۱/۱۳۳۳ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ فَقَالَ مَا لَكَ تَرْفَرِينَ قَالَتْ الْهُمَى لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا فَقَالَ لَا تُسَبِّ الْهُمَى فَإِنَّهَا تَذْهَبُ خَطَا يَابِتِي أَدَمَ كَمَا يَذْهَبُ الْكِبَرُ خَبَتْ الْحَدِيدُ۔

[رواہ مسلم]

اخرجه البخاری مسلم فی صحیحہ ۱۹۹۳/۴ حدیث رقم (۵۳-۴۵۷۵)۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ اُمّ السائبؓ کے پاس تشریف لائے۔ اور ارشاد فرمایا کہ آپ کیوں کانپ رہی ہیں۔ اس نے کہا تپ (یعنی بخار ہے) کہ اس میں اللہ برکت نہ دے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بخار کو برا مت کہو۔ اس لیے کہ بخار بنی آدم (انسانوں) سے گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے بھی لوہے سے میل پکیل دور کرتی ہے۔

(مسلم)

تشریح: حدیث مذکورہ میں آپ ﷺ نے مؤمن آدمی کو بخار پر ملنے والے اجر و ثواب کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا بخار گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ خاص طور پر صغیرہ گناہوں کو زائل کر دیتا ہے۔ جیسے اُمّ السائبؓ کے واقعہ سے ظاہر ہے کہ آپ ﷺ صحابیہ کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے اور حال دریافت فرمایا۔ انہوں نے کہا مجھے بخار ہے اللہ اس میں برکت نہ دے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا بخار کو گالی مت دو۔ یہ تو آپ کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے اور ایک روایت میں اس طرح آیا ہے۔ جو ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات کا بخار ایک سال کا کفارہ ہے اور ایک روایت میں ہے: ان حمی امتی من جہنم میری امت کا بخار جہنم میں سے ہے۔

اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ شفقت و ہمدردی کا معاملہ

۲۲/۳۳۳ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَأَفَرَ كُتِبَ لَهُ بِمِثْلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا۔ [رواه البخاری]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳۶/۶۔ حدیث رقم ۲۹۹۶۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس وقت بندہ (انسان) بیمار ہوتا ہے یا اس کو سفر کرنا پڑتا ہے تو سفر کی وجہ سے اس کے نوافل اور ادو و طائف جو حضر میں کیا کرتا تھا فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے (مانند) برابر ثواب لکھ دیتے ہیں۔ جو گھر میں عمل کرتا تھا۔ (یعنی تندرستی کی حالت میں جو نوافل وغیرہ پڑھتا تھا۔ اس کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔)

تشریح: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ شفقت و ہمدردی کا معاملہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیماری کی وجہ سے وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا، جو صحت و تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی کی حالت میں عمل کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بے حد مہربان ہیں۔

اور اگر بندہ سفر کی وجہ سے نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو حضر میں نیک اعمال کرنے کی بقدر ثواب عطا فرمادیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی قدر کرتے ہیں اور نہایت شفقت و مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرمالے۔ آمین ثم آمین۔

طاعون کی بیماری پر شہادت کا ثواب

۲۳/۱۳۳۵ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ شَهَادَةٌ كُلِّ مُسْلِمٍ۔

[متفق علیہ]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۸۰/۱۰۔ حدیث رقم ۵۷۳۲۔ ومسلم فی صحیحہ ۱۵۲۲/۳۔ حدیث رقم (۱۶۶)۔

(۱۹۱۶) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: طاعون ہر مسلمان کی شہادت ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم نے نقل کی ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں طاعون کی بیماری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ طاعون کی بیماری میں جو شخص مبتلا ہو۔ اس پر صبر کرے اور راہ فرار اختیار نہ کرے اور اگر اسی بیماری میں وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے۔ طاعون ایک عام مرض اور وبا ہے جس کی وجہ سے ہوا، مزاج اور بدن کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور بعض حضرات نے کہا کہ طاعون مہلک قسم کی بیماری ہے جس کی وجہ سے بدن کے نرم حصوں پر زخم ہو جاتے ہیں۔ جیسے بگلیں وغیرہ اور گردن سیاہ یا سرخ، سیاہ یا سبزی مائل ہو جاتی ہے۔

شہداء کی اقسام

۲۳/۱۳۳۶ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمُطْعَمُونَ وَالْمَبْطُونُونَ وَالْعَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ [متفق علیہ]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۲/۶۔ حدیث رقم ۲۸۲۹۔ ومسلم فی صحیحہ ۱۵۲۱/۳۔ حدیث رقم (۱۶۶)۔ (۱۹۱۴)۔

والنسائی فی السنن ۹۹/۴۔ حدیث رقم ۲۰۵۴۔ والدارمی ۲۷۳/۲۔ حدیث رقم ۲۴۱۳۔ واحمد فی المسند ۴۸۹/۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: شہداء کی پانچ قسمیں ہیں: ۱) ایک طاعون زدہ (طاعون سے ہلاک ہونے والا)۔ ۲) جو پیٹ کی بیماری سے مرے (ہلاک ہو جائے) یعنی دستوں اور استقامت وغیرہ ما سے۔ ۳) بدوں اختیار پانی میں ڈوبنے والا۔ ۴) دیوار یا چھت کے نیچے دبنے والا۔ ۵) خدا کی راہ میں جان دینے والا۔

تشریح: اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے شہیدوں کی پانچ قسمیں بیان فرمائی ہیں: ۱۔ ڈوبنے والے کے بارے میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ کے ارادہ سے کشتی پر نہ بیٹھا ہو۔ حقیقی شہید آخری ہے یعنی باقی حکمی شہید ہیں یعنی ان کو بھی شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حکمی شہداء احادیث مشہورہ سے اور بھی ثابت ہیں جن کو علامہ سیوطی نے جمع کیا ہے پانچ تو اسی حدیث میں مذکور ہیں ذات الحب والا اور جو جل کر مر جائے اور عورت جو ولادت سے مر جائے یا باکرہ اور وہ عورت کہ جس کی حمل کی حالت میں موت واقع ہو جائے۔ جو عورت حاملہ ہونے کے بعد جننے کی مدت تک یا دودھ چھڑانے کی مدت تک مر جائے۔ اور اسلام کی سرحدوں کی حفاظت و نگہبانی کرنے والا۔ گڑھے میں گرنے والا جس کو درندے یعنی شیر وغیرہ کھا جائیں وہ بھی شہید ہے۔ اور جو شخص اپنے مال یا دین یا خون کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو مارا جائے

اور شہادت کی رغبت کرنے والا بستر پر فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ جس کو بادشاہ ظلماً قید کر لے اور وہ قید خانے میں مر جائے وہ بھی شہید ہے اور ظلماً مارا جائے اور اس مارے وہ مر جائے تو وہ بھی شہید ہے اور توحید کی گواہی دیتے ہوئے جس کی موت آجائے وہ بھی شہید ہے ایک مرفوع روایت کے مطابق جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بخار شہادت ہے۔ حضرت ابوعبیدہؓ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! شہیدوں میں اللہ کے نزدیک کون اچھا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ شخص کہ جو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے اور بادشاہ اس کو قتل کر ڈالے اور حضرت ابوموسیٰؓ سے روایت ہے جس کو گھوڑا یا اونٹ کچل (مار) ڈالے۔ یا زہر لے جانور کے کانٹے سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت جو شخص عشق و محبت میں گرفتار ہو کر بھی پرہیزگاری کی زندگی گزارتا رہا۔ حتیٰ کہ اس کو موت آگئی وہ بھی شہید ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس کو کشتی کی سواری کے دوران چکر اور تے آئے۔ تو اس کو بھی شہید کا اجر ملے گا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے مرفوع روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر غیرت لازم قرار دے دی ہے اور مردوں پر جہاد لازمی قرار دے دیا ہے۔ ان عورتوں میں سے جس نے اپنی سوکن کے ہونے پر صبر کیا اس کو بھی شہید کا ثواب ملے گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ سے ایک مرفوع روایت ہے۔ جس نے ایک دن میں پچیس مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ اللہم باریک لی فی الموت وفيما بعد الموت پھر وہ بستر پر فوت ہو گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ شہید کا ثواب عطا فرما میں گے۔ اور حضرت ابن عمرؓ سے ایک مرفوع روایت ہے کہ جس نے چاشت کی نماز پڑھی اور ہر مہینے میں تین روزے رکھے سفر اور حضر میں وتر نہ چھوڑے اس کو بھی شہید کا ثواب ملے گا۔ جو سنت کو امت کے فساد کے وقت مضبوطی سے پکڑنے والا ہو وہ بھی شہید ہے اور جس کو طلب علم میں موت آجائے اور طالب علم سے مراد یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو۔ تصنیف و تالیف کرنے میں مصروف ہو۔ وہ شہید ہے۔ جو مسلمانوں کو غلہ پہنچائے اور جو اپنی بیوی اولاد اور لونڈی غلام کے لیے کمائے پس وہ شہید ہے اور مرثیہ (جس کو زخمی حالت میں میدان جنگ سے اٹھایا جائے اور وہ کچھ فائدہ حاصل کر لے) بھی شہید ہے۔ اگر جنبی کزائی میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے اور شریق جس کے گلے میں پانی پھنس جائے اور دم گھٹ کر مر جائے وہ بھی شہید ہے اور حدیث میں آیا ہے جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں حضرت یونسؑ کی یہ دعا پڑھے: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (الانبیاء: ۸۷) چالیس مرتبہ پڑھے۔ پھر اپنے اسی مرض میں فوت ہو جائے۔ تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا اگر اس مرض میں صحت یاب ہو جاتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور سچا امانت دار تا جبر شہدائے ساتھ ہوگا اور جو کوئی شب جمعہ میں فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والا شخص اس شہید کی طرح ہے جو اپنے خون میں لوٹتا ہے (بہت پت ہو رہا ہے) اور جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور جو شخص مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سو مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے اور کوئی مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان براءت (یعنی نفاق سے خلاصی اور آگ سے خلاصی) لکھ دیتا ہے۔ نیز اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔

اور یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھے: اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان

الرحیم اور سورہ حشر کی تین آیات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ستر ہزار فرشتے متعین فرمادیتے ہیں جو اس کے لیے شام تک بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اگر اس دن اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہوا۔ شام کے وقت پڑھنے پر بھی یہی ثواب ملے گا۔ آپ ﷺ نے ایک شخص کو وصیت کی جب وہ سونے کے لیے جائے تو سورہ حشر کی آخری آیات پڑھے۔ اگر وہ مر گیا تو شہید ہوگا اور جو شخص مرگے سے فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہوگا اور جو کوئی حج وغیرہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ جس کی با وضو موت آجائے۔ جس کو رمضان کے مہینے میں موت آجائے وہ بھی شہید ہے یا بیت المقدس میں یا مکہ یا مدینہ میں موت آجائے تو وہ بھی شہید ہے اور بلا ہٹ کی بیماری سے فوت ہو جائے یا جس کو کوئی آفت پہنچے یا بڑی تکلیف تو وہ اس پر صبر کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص صبح و شام یہ دعا پڑھے گا: **عَقَلْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ**۔ حدیث میں اس کی فضیلت بکثرت آئی ہے وہ بھی شہید ہے۔ یا وہ نوے برس کا ہو کر دنیا سے رخصت ہو یا آسیب زدہ (جادو جنات) وغیرہ کی وجہ سے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے یا وہ اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس پر راضی ہوں اور نیک بیوی فوت ہو جائے اس حال میں کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو اور ایسے ہی عادل امام اور شرعی حاکم کا مسئلہ ہے جو حق بات کا حکم کرے اور جو شخص ضعیف مسلمان کی مدد کرے بات میں یا چلنے میں وہ بھی شہید ہے۔ (حاشیہ در مختار)

طاعون سے فرار اختیار کرنا منع ہے

۲۵/۱۳۳۷ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابٌ يُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمُوتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ۔ [رواه البخاری]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۹۲۱۰۔ حدیث رقم ۵۷۳۴۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے آپ ﷺ سے طاعون کی حقیقت کے بارے میں پوچھا۔ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس پر چاہے نازل فرمادے۔ یہ مؤمنوں کے لیے رحمت ہے جو صبر کرتے ہیں یعنی جو شخص طاعون والے شہر میں صبر کرتا ہوا ثواب کی خاطر ٹھہرے اور کوئی غرض نہ ہو اور اس کو یقین ہو کہ اسے وہ چیز پہنچ کر رہے گی جو اللہ نے اسکے لیے لکھ دی ہے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔

تشریح: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ سے طاعون کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے جواب دیا کہ بے شک وہ اللہ کا عذاب ہے لیکن مؤمنوں کے لیے رحمت ہے اگر وہ صبر کریں۔ صَابِرًا مُحْتَسِبًا ترکیب میں یہ دونوں حال واقع ہو رہے ہیں جن کا معنی یہ ہے کہ وہ طاعون سے بھاگنے پر قادر ہو لیکن نہ بھاگے اور ثواب کی نیت سے ٹھہرا رہے۔ کوئی اور غرض مقصود نہ ہو جیسے مال کی حفاظت وغیرہ۔ (مرقاۃ) اور اس کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ نے جو تکلیف اس کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ وہ تکلیف تو اس کو پہنچ کر رہے گی اور پھر وہ طاعون میں مبتلا ہو کر مر جائے تو اس آدمی کو شہید کے برابر ثواب ملے گا۔

طاعون کے بارے میں آپ ﷺ کی نصیحت

۲۶/۱۳۳۸ وَعَنْ أَسَمَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ رَجُزٌ أَرْسَلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَارِضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بَارِضٌ وَانْتُمُ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ - [متفق عليه]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۴۵۱۲۔ حدیث رقم ۲۹۷۴۔ و مسلم فی صحیحہ ۱۷۳۶/۴ حدیث رقم (۹۲-۲۲۱۸)

واحمد فی المسند ۱۸۲/۱۔

ترجمہ: حضرت اسامہ بن زیدؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ طاعون عذاب ہے یہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر بھیجا گیا تھا یا فرمایا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ راوی کو شک ہے کہ پہلی بات ارشاد فرمائی یا دوسری بات؟ جس وقت تم طاعون کے بارے میں سنو کہ وہ کسی زمین میں ہے۔ تو اس زمین کی طرف نہ جاؤ۔ جب تم ایک زمین میں ہو اور اس میں (یعنی اس علاقے میں) طاعون کی بیماری آجائے تو اس سے بھاگ کر نہ نکلو۔ اس کو بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس روایت میں آپ ﷺ نے طاعون کے بارے میں بتایا ہے کہ طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر نازل کیا گیا تھا جب ان کو حکم ہوا: ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ تو انہوں نے مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجُزًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ ابن مالکؒ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کی وبا بھیجی پس وہ آن کی آن میں سب مر گئے۔ جن کی تعداد چوبیس ہزار بوڑھے افراد پر مشتمل تھی تفاسیر میں اس کا مفصل بیان آیا ہے۔ طاعون والے علاقے میں جانے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہ ایسی وبا والے علاقے میں جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے اور بھاگنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ تقدیر سے بھاگنا ممکن نہیں ہے کہاں بھاگ کر جائے گا۔

لہذا اس کے بارے میں ضابطہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں یہ وبا پھیل چکی ہے تو وہاں جانا نہیں چاہیے وجہ پہلے بیان ہو چکی ہے اگر وہ کسی علاقے میں سکونت پذیر ہے اور وہاں طاعون پھیل گیا تو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ بھاگے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور بعض مقامات پر وبا سے بھاگنے کا بھی حکم ہے۔ جیسے کوئی گھر کے اندر موجود ہے کہ اچانک زلزلہ آجائے یا ٹیڑھی دیوار کے نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ گرنے کے بالکل قریب ہے وہاں سے بھاگنے کا حکم ہے یعنی ان مقامات میں ہلاکت کا خدشہ ہے تو بھاگنا جائز ہے۔

بینائی کے ختم ہونے پر جنت کا وعدہ

۲۷/۱۳۳۹ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتِهِ ثُمَّ صَبَرَ عَوَضْتُ مِنْهَا الْجَنَّةَ يُرِيدُ عَيْنِيهِ - [رواه البخاری]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱۶/۱۰۔ حدیث رقم ۵۶۵۳۔ و احمد فی المسند ۱۴۴/۳۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ ﷺ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند ہے جس وقت میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاریوں (آنکھوں) کے بارے میں مبتلا کرتا ہوں پھر

وہ صبر کرتا ہے تو میں ان دونوں کے عوض (بدلے) اسے بہشت عطا کرتا ہوں یعنی اس کو (جنت) داخل کروں گا۔ دو پیاریوں سے آپ ﷺ کی مراد اس کی دو آنکھیں ہیں۔ (اس حدیث کو بخاری نے نقل کیا ہے)۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے بندے سے جنت کا وعدہ کیا ہے جب وہ دونوں آنکھوں سے محروم ہو جائے اور بینائی کی محرومی پر صبر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو دونوں آنکھوں کے بدلے جنت عطا کروں گا اور خصوصی مرتبوں سے نوازوں گا۔ لہذا جو شخص اس میں مبتلا ہو جائے۔ اس کو صبر کرنا چاہیے اور دل و زبان سے اس کو برا نہ سمجھے۔ خدا کی ناشکری نہ کرے اور اس کا اندھا ہونا خدا کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ گناہوں کے کفارہ کے لیے ہے اور رفع درجات کے لیے ہے اور نظر بد سے حفاظت کے لیے ہے۔ ایک بزرگ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تو وہ فرمایا کرتے تھے جو تنہائی مجھے ساری عمر میسر نہ آئی وہ نابینا ہونے سے آتی ہے جس کی میں اپنی زندگی میں خواہش رکھتا تھا۔

الفصل الثالثی:

مسلمان کی عیادت کرنے پر خدا کی طرف سے انعام

۲۸/۱۳۵۰ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غَدُوَّةَ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمِيتَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةَ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ [رواه الترمذی وابو داؤد]

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۷۵/۳ حدیث رقم ۳۰۹۸۔ و الترمذی فی السنن ۳۰۰/۳ حدیث رقم ۹۶۹۔ وابن ماجہ ۴۶۳/۱ حدیث رقم ۱۴۴۲۔ واحمد فی المسند ۹۱/۱۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے اس کے لیے ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت فرماتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جائے اور جب زوال کے بعد اس کی عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے اور اس کے لیے جنت میں باغ ہوگا۔ (ترمذی ابو داؤد)

تشریح ﴿﴾ مذکورہ حدیث میں عیادت کرنے پر خدا کی طرف سے جو عیادت کرنے والے کو انعام ملتا ہے۔ اس کا ذکر فرماتا ہے۔ عیادت کرنے والے کے لیے ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ انعام اس کی صرف صبح کے وقت عیادت کرنے پر ملے گا۔ شام کے وقت عیادت کرنے پر بھی یہی انعام ملے گا۔ جنت میں ایک باغ عطا کیا جائے گا۔

عیادت کے بارے میں دو مختلف روایات اور بہتر تطبیق

۲۹/۱۳۵۱ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنَيْهِ۔

[رواه احمد وابو داؤد]

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۷۷/۳ حدیث رقم ۳۱۰۲۔ واحمد فی المسند (۴) ۳۷۵۔

ترجمہ: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے آنکھوں میں درد کی وجہ سے میری عیادت کی۔ اس روایت کو احمد اور ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنکھوں کی بیماری والے کی عیادت کرنا سنت ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ تین بیماریاں ایسی ہیں کہ ان میں مبتلا ہونے والے شخص کی عیادت نہ کی جائے اولاً جس کی آنکھیں دکھتی ہوں۔ ثانیاً ڈاڑھ کی درد والا ٹالٹا ڈنبل والا۔ (پھوڑا) یہ حدیث جامع صغیر میں موجود ہے لہذا ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے۔ ان روایات میں تطبیق اس طرح دی جائے گی کہ اگر بیمار کو عیادت کرنے والے کے لیے تکلیف کرنا پڑے اور اس کی طبیعت پر بوجھ ہو۔ جیسے آنکھ کی بیماری والے کو آنکھ کھولنے سے تکلیف ہوگی۔ ڈاڑھ کی درد والے کو بات کرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ اور پھوڑے والے کو بیٹھنے میں تکلیف ہوگی اور اگر بیمار کو تکلیف نہ ہو تو عیادت کرنے میں مضائقہ نہیں ہے۔ متن والی روایت جس کے اندر عیادت کرنے کی اجازت ہے۔ یہ محمول ہے آخری صورت پر اور جامع صغیر کی روایت محمول ہے پہلی صورت پر۔ اس تطبیق سے دونوں روایتوں کے مابین تعارض رفع ہو جائے گا اور دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ (مولانا عبدالعزیز عینی)

با وضو عیادت کرنے کی فضیلت

۳۰/۱۳۵۲ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوْعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ سِتِّينَ خَرِيفًا [رواه ابو داود]

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۷۵/۳ حدیث رقم ۳۰۹۷۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر محض ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کو دوزخ سے ساٹھ برس کی مسافت کی مقدار دور رکھا جائے گا۔ اس کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں با وضو عیادت کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ با وضو عیادت کرنا مسنون ہے۔ زین العرب کا کہنا ہے کہ شاید وضو کی حکمت یہ ہے کہ عیادت ایک عبادت ہے اور عبادت کی ادائیگی با وضو ہی اکمل طریقے سے ادا ہو سکتی ہے اور وضو کی حالت میں دعا کرے تو خوب قبول ہوتی ہے۔ اس لیے وضو عیادت سے قبل مستحسن ہے۔

بیمار کے لیے دعا کرنا مسنون ہے

۳۱/۱۳۵۳ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُودُ مُسْلِمًا فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِلَّا شَفِئِيَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ حَضَرَ أَجَلَهُ.

[رواه ابو داود والترمذی]

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۷/۹۳ حدیث رقم ۳۱۰۶۔ والترمذی ۴۱۰/۴ حدیث رقم ۲۰۸۰۔ واحمد فی المسند ۲۳۹/۱۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بیمار مسلمان کو پوچھے (حال دریافت کرے) پھر سات مرتبہ کہے کہ میں اللہ بزرگ پروردگار عرش والے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو شفا دے اسے شفا دی جاتی ہے مگر یہ کہ اس کی

موت حاضر ہو جائے یعنی مرض لاعلاج ہو جائے۔ ابو داؤد اور ترمذی نے اسکو روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث سے بیمار کے لیے دعا کرنا معلوم ہوتا ہے اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص مذکورہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمادیتے ہیں مگر یہ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہو۔

۳۲/۴۵۴ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْلَمُهُمْ مِنَ الْحُمَى وَمِنَ الْوَجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَرُوفٍ نَعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ.

(رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث ابراہیم بن اسماعیل وهو یضعف فی الحدیث)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴۰۲/۴ حدیث رقم ۲۰۷۵۔ وابن ماجہ ۱۱۶۵/۲ حدیث رقم ۳۵۲۶۔ واحمد فی المسند ۳۰۰/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ صحابہ کو بخار کے لیے دعا سکھاتے تھے۔ بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَرُوفٍ نَعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ۔ میں اللہ بزرگ و برتر کے نام سے برکت چاہتا ہوں اور میں اللہ بزرگ و برتر کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہر جوش مارنے والی رگ کی برائی سے اور آگ کی گرمی کی برائی سے۔ اس کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور یہ حدیث غریب ہے اور یہ حدیث ابراہیم بن اسماعیل سے ہی پہچانی جاتی ہے اور ان کو روایت حدیث میں کمزور سمجھا جاتا ہے

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی بیماری کے لیے دعا مانگنا مسنون ہے اور آپ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مذکورہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ جس کا مفہوم ترجمہ میں بیان ہو چکا ہے۔ خصوصاً جوش مارنے والی رگ سے پناہ مانگی ہے اس لئے کہ خون کے غلبے کی وجہ سے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے بخار اور دوسرے امراض پیدا ہوتے ہیں اور یہ حدیث ابن ابی شیبہ ترمذی ابن ماجہ ابن ابی الدنیا ابن سنی اور حاکم نے روایت کی ہے اور بیہقی نے دعوات میں اس کی توثیق کی ہے۔

بیمار کے لیے آپ ﷺ کی جامع دعا

۳۳/۴۵۵ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا أَوْ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحِمْتَكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْعِ كَثِيرًا. [رواہ ابو داؤد]

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۲۱۸/۴ حدیث رقم ۳۸۹۲۔ واحمد فی المسند ۲۱/۶۔

ترجمہ: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو یا تمہارا بھائی بیمار ہو۔ تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمارا رب ہے ایسا اللہ کہ اس کی رحمت آسمان میں ہے یا اس کا امر یا اس کی بڑی سلطنت (بادشاہت) آسمان میں ہے یا وہ ایسا ہے کہ اس کی آسمان میں عبادت کی جاتی ہے۔ جیسا کہ اس کی زمین میں عبادت کی جاتی ہے یعنی تیرا نام پاک ہے سب نقصانوں سے اور تیرا حکم مانا گیا ہے آسمان و زمین میں یعنی حکومت آسمان و زمین میں ہے۔ جیسا کہ تیری رحمت آسمان و زمین دونوں میں ہے اور تو زمین پر اپنی رحمت بخش دے اور رحمت کی برکت سے ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ تو پاکیزہ لوگوں کا رب ہے۔ (یعنی محب و کار ساز

ہے) تو اپنی رحمت عظیمہ میں سے رحمت نازل فرما جو ہر چیز پر پھیل رہی ہے اور اپنی شفاء میں سے اس بیماری سے شفاء نازل فرما تو وہ بیمار شفا یاب ہو جائے گا۔ یہ روایت ابوداؤد نے نقل کی ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ آسمان پر اور اس پر رہنے والوں پر محیط ہے۔ بخلاف زمین والوں کے بعضوں پر ہوتی ہے اور بعضوں پر نہیں۔ مومنوں پر نازل ہوتی ہے کافروں پر نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام سب پر ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ اور پاکیزوں سے مراد مومن ہیں جو شرک سے پاک ہیں یا متقی لوگ مراد ہیں جو برے افعال و اقوال سے پاک ہیں۔

مریض کے لیے دُعائیہ الفاظ کہنے کا حکم

۳۴/۴۵۶ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُوذُ مَرِيضًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأَنَّكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْسِشْ لَكَ إِلَى جَنَازَةٍ - [رواه ابوداؤد]

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۴۸۰/۳ حدیث رقم ۳۱۰۷۔ واحمد فی المسند ۱۷۲/۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت آدمی کسی مریض کی عیادت کرے اس کو کہنا چاہیے اے اللہ! اپنے بندے کو شفا عطا فرما کہ وہ تیری خاطر تیرے دشمن کو تکلیف پہنچائے اور اس کو قتل کر دے یا تیری خوشی کی خاطر جنازہ کی طرف چلے۔ یہ روایت ابوداؤد نے نقل کی ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی کسی بھائی کی عیادت کرے تو اس کو عیادت کرتے وقت دُعائیہ الفاظ کہنے چاہئیں جیسے مذکورہ حدیث میں الفاظ موجود ہیں: اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأَنَّكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْسِشْ لَكَ إِلَى جَنَازَةٍ: جس کے معنی یہ ہیں اے اللہ! اپنے بندے کو شفا بخش تا کہ وہ صحت مند ہو کر یا تو تیرے راستے میں جہاد کرے یعنی اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر کافروں سے لڑے۔ ان کو قتل کرے زخمی کرے یا تجھے خوش کرنے کے لیے نماز جنازہ میں شریک ہو۔

بندہ کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ

۳۵/۴۵۷ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّيَّةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخْفَوْهُ بَعْثًا يَسْئَلُكُمْ بِهِ اللَّهُ وَعَنْ قَوْلِهِ [وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ] فَقَالَتْ مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ مِنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذِهِ مُعَاتِبَةُ اللَّهِ الْعَبْدَ بِمَا بِصِيئَةٍ مِنَ الْحُمَى وَالنَّكْبَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةِ يَضَعُهَا فِي يَدِ قَلْبِهِ فَيَقْضِيهَا فَيَفْزَعُ لَهَا حَتَّى إِنَّ الْعَبْدَ لَيُخْرِجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَخْرِجُ التَّبَرُّؤَ الْأَحْمَرُ مِنَ الْكِبَرِ - [رواه الترمذی]

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۲۱/۵ حدیث رقم ۲۹۹۱۔ واحمد فی المسند ۲۱۸/۶۔

ترجمہ: علی بن زید تابعیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نقل کیا ہے امیہؓ سے امیہؓ نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے اس مذکورہ آیت کے معنی پوچھے کہ اگر تم ظاہر کرو اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے

گا اور اس آیت کے معنی بھی پوچھے جس کے الفاظ حدیث میں گزر چکے ہیں کہ جو شخص برا کام کرے چھوٹا ہو یا بڑا۔ اس کو عقی (آخرت) میں بدلہ دیا جائے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھ سے یہ مسئلہ کسی نے نہیں پوچھا جب سے میں نے نبی اکرم ﷺ سے پوچھا تھا۔ ان آیتوں میں جو الفاظ محاسبہ اور جزا کے مذکور ہیں یہ بطور عتاب خداوندی کے ہیں۔ (اس عتاب یعنی ناراضگی کی وجہ سے) اس کو بخار غم و فکر لاحق ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آدمی اپنے مال کو آستین میں رکھ کر بھول جاتا ہے پھر اس مال کے نہ ملنے پر غمگین ہو جاتا ہے اس پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ وہ بندہ گناہوں سے ایسے نکلتا ہے جیسے بھیٹی سے سونا اور آگ میں ڈالنے کی وجہ سے۔ (اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے)۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان مذکورہ آیات کے متعلق اشکال پیش آیا تو حضرت امیہؓ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ان کا مطلب پوچھا آپؓ نے ارشاد فرمایا آپ سے پہلے مجھ سے کسی نے یہ مسئلہ نہیں پوچھا۔ جان لیجئے کہ ان آیات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل کی باتوں کا بھی امتحان لے گا اور ان کے قلبی اندیشوں کے بارے میں بھی پوچھے گا اور ان گناہوں کی وجہ سے انسان کو قیامت کے دن جہنم میں داخل کرے گا۔ بلکہ محاسبہ جزا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اکثر طور پر گناہوں کی سزا بطور عتاب (سزا) کے دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ کبھی بخار کی صورت میں اور کبھی غم و پریشانی کی صورت میں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی انسان پر بہت بڑی شفقت و مہربانی ہے کہ میرا بندہ آخرت کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بیماری و پریشانی دے کر اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے اور صاف کر کے جنت میں لے جاتا ہے۔

علامہ صاحب نے عتاب کا معنی ایک تمثیل سے واضح کیا ہے کہ جیسے ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے کسی سوء ادبی (یعنی بے ادبی یا کسی اور غلطی کی وجہ سے ناراض ہو اور یہ ناراضگی ظاہر ہوتی ہے دلی طور پر اس سے ناراضگی نہیں ہوتی۔ بلکہ محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے گناہوں کی وجہ کی وجہ سے ظاہری طور پر ناراض ہوتا ہے اور ان کو مصائب میں مبتلا کر کے ان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ ایسے طریقہ سے ختم کرتا ہے۔ جیسے سونے چاندی کا ڈالا بھیٹی سے نکل کر صاف ہو جاتا ہے۔ بلکہ دوسری حدیث میں اس طرح بھی تشبیہ دی گئی ہے جیسے سفید کپڑے سے میل نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے اور رفع درجات کے لیے۔

دنیا کے مصائب و پریشانیاں گناہوں کا ثمرہ ہوتا ہے

۳۶/۱۳۵۸ وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُصِيبُ عَبْدًا نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلَّا بِذَنْبٍ وَمَا يَغْفِرُ اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرَ قَرَأَ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔

[رواہ الترمذی]

اخرجه الترمذی ی السنن ۴۷۷/۵ حدیث رقم ۳۲۵۲۔ واحمد فی المسند ۱۶۷/۶۔

ترجمہ: حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو تھوڑی بہت تکلیف پہنچتی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں سزا دیے بغیر معاف کر دیتا ہے اور یہ گناہ ان گناہوں سے زیادہ

ہوتے ہیں جن پر سزا ملتی ہے پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔ تو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا انسان پر دنیا میں جو مصیبتیں و پریشانیاں آتی ہیں یہ انسان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ ان کو دنیا میں ہلکی پھلکی مصیبتیں دے کر (بخار۔ تنگدستی وغیرہ) ان کو بڑی پریشانیوں سے بچالیتا ہے اور یہ مصیبت ان کے لیے رفع درجات کا باعث بنتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے جوتے کے تھے کو چوہا کتر گیا اور وہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرے گناہوں کی شامت کی وجہ سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھ (لگ) جائے اس کے لیے ایک درجہ لکھا جاتا ہے اور ایک گناہ مٹ جاتا ہے۔ گویا کہ مومن کی تکلیف قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کی وجہ سے بہت سے ایسے گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے جن کی تعداد ان گناہوں سے زیادہ ہوتی ہے جن پر سزا ثابت ہو چکی ہے۔

نیک لوگوں کی عزت افزائی

۳۷/۱۳۵۹ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرَّضَ قِيلَ لِلْمَلِكِ الْمُؤَكَّلِ بِهِ اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَّى أَطْلُقَهُ أَوْ اكْفَيْتَهُ إِلَى۔

اخرجه الدارمی فی السنن ۴۰۷/۲ حدیث رقم ۲۷۷۰۔ واحمد فی المسند ۲۰۳/۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جس وقت تک نیکی کے راستے پر گامزن رہتا ہے یعنی عبادت کرتا رہتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے اور عبادت پر قادر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں کہ تجھے نیکی لکھنے کے لیے متعین کر دیا ہے تو اس کے لیے نیکیوں کو لکھ اس عمل کے برابر جس کو وہ تندرستی میں کیا کرتا تھا اس وقت تک کہ میں اس کو تندرست کر دوں یا اس کو اپنے پاس نہ بلا لوں یعنی موت دے دوں۔

تشریح ﴿﴾ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بڑی عزت کرتے ہیں یہاں تک کہ نیک بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمادیتے ہیں اور اس کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھتے جاؤ۔ اس کے ان اعمال کے برابر جو صحت و تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اس وقت تک لکھو جب تک میں اس کو تندرستی نہ دے دوں یا اس کو اپنے پاس نہ بلا لوں۔ یعنی وہ فوت ہو کر میرے پاس آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت و شفقت کی واضح دلیل ہے۔

۳۸/۳۲۶۰ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُبْطِلَ الْمُسْلِمُ بِلَاؤٍ فِي جَسَدِهِ قِيلَ لِلْمَلِكِ اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فَإِنْ شَفَاهُ عَسَلَهُ وَجَهَرَهُ وَإِنْ قَبَضَهُ عَفَرَهُ وَرَحِمَهُ۔

اخرجه احمد فی المسند ۱۴۸/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے جب مسلمان بندے کو جسمانی بیماری پہنچتی ہے (یا مبتلا کر دیا جاتا ہے) تو نیکی لکھنے والے فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے وہ نیک اعمال لکھتا رہ جو یہ صحت کی حالت میں کرتا تھا اگر اللہ نے شفا دے دی تو اللہ تعالیٰ اس کو دھودیتے ہیں اور اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے تو اس کو بخش دیتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں علامہ بغوی نے شرح السنہ میں ذکر کی ہیں۔

تشریح: ✽ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عزت افزائی فرماتے ہیں اس کو بیماری کی حالت میں بھی وہ ثواب عطا فرماتے ہیں جو اس کو صحت مندی کی حالت میں نیک عمل کرنے پر ملا کرتا تھا۔ اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس پر رحم فرماتے ہیں۔

شہید کی اقسام

۳۹/۱۳۶۱ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَادَةُ سَبْعُ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْفَرِيقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ شَهِيدٌ۔

[رواه مالک و ابو داود والنسائی]

اخرجه ابو داود فی السنن ۴۸۲/۳ حدیث رقم ۳۱۱۱۔ والنسائی ۱۳/۴ حدیث رقم ۱۸۴۶۔ وابن ماجہ ۹۳۷/۲ حدیث رقم ۲۸۰۳۔ ومالک فی الموطأ ۲۳۳/۱ حدیث رقم ۳۶ من کتاب الجنائز۔

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: خدا کے راستے میں شہید ہو جانے کے علاوہ شہادتیں سات ہیں: ✦ جو وبا (طاعون) میں مرے وہ شہید ہے۔ ✦ جو ڈوب کر مرے وہ بھی شہید ہے۔ ✦ ذات الحبب والا بھی شہید ہے۔ ✦ اور پیٹ کی بیماری (یعنی استقاء اور اسہال) سے مرنے والا بھی شہید ہے۔ ✦ جو جل کر مرے وہ بھی شہید ہے۔ ✦ اور جو شخص دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ ✦ اور وہ عورت جو حمل کی وجہ سے فوت ہو جائے یا کنواری مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اس کو امام مالک اور ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ شہادت حکمیہ سات قسم کی ہیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں جو دوسری روایات سے معلوم ہوتی ہیں۔ شہادت حکمیہ کا مفصل بیان الشہداء خمسۃ والی حدیث میں گزر چکا ہے اور اس حدیث میں ایک مشہور بیماری کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ذات الحبب والا شہید ہے اس بیماری میں پسلی کے اندر کی طرف دل اور سینہ کے نزدیک پھنسیاں ہوتی ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ مریض کا سانس رکتا ہے اور اکثر طور پر بخار اور کھانسی ہوتی ہے۔ ذات الحبب کو اردو میں نمونیا کہتے ہیں۔

نیک لوگوں پر امتحانات و آزمائش کی بارش (یعنی بکثرت ہونا)

۴۰/۱۳۶۲ وَعَنْ سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَى النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلَا مَثَلَ يَتَكَلَّى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَاحٌ أَشَدُّ بَلَاءُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ هَوِّنَ عَلَيْهِ فَمَا زَالَ كَذَلِكَ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ مَا لَهُ ذَنْبٌ۔

[رواه الترمذی وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی هذا حديث حسن صحيح]

اخرجه الترمذی فی السنن ۶۰۱/۴ حدیث رقم ۲۳۹۸۔ وابن ماجہ ۱۳۳۴/۲ حدیث رقم ۴۰۲۳۔ والدارمی فی السنن ۴۱۲/۲ حدیث رقم ۲۷۸۳۔ واحمد فی المسند ۱۷۲/۱۔

ترجمہ: حضرت سعدؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ آدمیوں میں سے کن پر آزمائش (یعنی سخت و مصیبت) زیادہ آتی ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا انبیاء۔ پھر وہ جوانیاء کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھے۔ آدمی کو اپنے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے اگر دین میں مضبوطی ہوتی ہے تو اتنی ہی زیادہ آزمائش سخت ہوتی ہے۔ اگر اس کے دین میں نرمی ہوتی ہے تو اس کی آزمائش بھی کم ہوتی ہے۔ یعنی مضبوط دین والا ہمیشہ آزمائش میں گرفتار رہتا ہے اس کی امتحان کی وجہ سے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا ہے۔ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس کو امام ترمذی نے ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں آزمائش والوں کے درجے بتائے گئے ہیں کہ سب سے زیادہ امتحانات انبیاء ﷺ پر آتے ہیں اس لیے کہ ان کو آزمائشوں سے لذت محسوس ہوتی ہے جیسے دوسرے لوگ نعمتوں سے لذت محسوس کرتے ہیں۔ پھر بہت زیادہ مشابہت رکھنے والے ان کے ساتھ اولیاء اور صلحاء ہوتے ہیں جن پر آزمائشیں آتی ہیں لیکن انبیاء سے کم درجے کی ہوتی ہیں۔ پھر ان سے درجے میں جو کم ہوتے ہیں آزمائش میں بھی ان سے کم ہوتے ہیں اور مضبوط دین والے کی آزمائش بھی مضبوط ہوتی ہے اس لیے کہ وہ صبر و یقین کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اسی لائق ہوں اور جو دینی اعتبار سے کم درجے کا ہے۔ اس پر آزمائش کم آتی ہے تاکہ وہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے اور ایمان کی کمزوری کی بناء پر دین سے نہ پھر جائے۔

حضور اکرم ﷺ کی نزع کی کیفیت کا بیان

۴۱/۱۳۶۳ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا أَغْبَطُ أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ [رواه الترمذی والنسائی]

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۰۹/۳ حدیث رقم ۹۷۹۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ جب سے میں نے نبی کریم ﷺ کی موت کی سختی دیکھی ہے۔ اس کے بعد میں کسی کے لیے موت کی آسانی کی (آرزو) تمنا نہیں کرتی تھی۔ (ترمذی و نسائی)

تشریح: اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہؓ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ پہلے مجھے موت کی آسانی کی تمنا ہوا کرتی

تھی۔ جب میں نے نبی اکرم ﷺ کی موت کی سختی کو دیکھا تو مجھے بالکل تمنانہ رہی۔ معلوم ہوا کہ موت کی سختی عمدہ چیز ہے جب ہی تو آپ ﷺ پر سختی ہوئی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رائے تھی حالانکہ آپ ﷺ پر کوئی زیادہ سختی نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ ملک الموت نے نہایت نرمی سے روح مبارک کو قبض کیا تھا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ نے کوئی اضطراب نہیں فرمایا۔ صرف پیشانی پر پانی ملتے رہے اور وفات تک نماز کی وصیت فرماتے رہے اور آخری کلمہ کا ورد فرماتے رہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اللہم الحقی بالرفیق الاعلیٰ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو خیر میں نے موت کی سختی میں دیکھی ہے وہ موت کی آسانی میں نہیں ہے۔

موت کی سختی کے وقت آپ ﷺ کا دُعا پڑھنا

۳۲/۱۳۶۳ وَعَنْهَا قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدْ حُفِيَ فِيهِ مَاءٌ وَهُوَ يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ سَكْرَاتِ الْمَوْتِ۔

[رواه الترمذی وابن ماجہ]

احرجہ الترمذی فی السنن ۳۰۸/۱۳ حدیث رقم ۹۷۸۔ وابن ماجہ ۵۹۱/۱ حدیث رقم ۹۷۸۔ واحمد فی المسند ۶۴۱/۶۔
ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو آخری وقت میں دیکھا اور آپ ﷺ کے نزدیک ایک پیالہ تھا اور اس میں پانی تھا کہ آپ ﷺ اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں ڈالتے تھے اور پھر اپنے چہرہ مبارک پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ موت کی سختی پر تو میری مدد فرما۔ اس کو ابن ماجہ اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کی نزع کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں کہ جب آپ ﷺ پر نزع کی کیفیت طاری تھی تو آپ ﷺ کے پاس پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا اور آپ ﷺ اپنا ہاتھ بھگو کر اپنے چہرہ اقدس پر پھیر رہے تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ سَكْرَاتِ الْمَوْتِ۔ اور یہ ہاتھ بھگو کر پھیرنا موت کی شدت کی وجہ سے تھا۔ شارحین نے اس کی بہت سی وجوہات لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک امت کی تسلی کے لیے ہے۔ جب آپ ﷺ کی اس نزع کی کیفیت کو دیکھیں گے تو صبر کا مظاہرہ کریں گے اور جان نکلنے میں آسانی ہو جائے گی۔

گناہوں کی سزا دینے میں اللہ کی حکمت

۳۳/۱۳۶۵ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُؤَافِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [رواه الترمذی]

احرجہ الترمذی فی السنن ۶۰۱/۴ حدیث رقم ۲۳۹۶۔ واحمد فی المسند ۸۷/۴۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو گناہوں کی سزا دنیا میں جلدی دے دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ مہربانی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روک رکھتا ہے (اس کو دنیا میں سزا نہیں دیتا) یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو اس کے گناہوں کی پوری سزا دے گا۔ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا میں اس لیے سزا دے دیتا ہے کہ دنیا کی تکلیف عارضی ہے اور دنیا کی زندگی بھی بہت مختصر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ تاکہ میرا بندہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے اور گناہ گار آدمی کی سزا کو موقوف رکھتا ہے تاکہ اس کو یکبارگی آخرت کے عذاب میں مبتلا کرے اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔

امتحان پر صبر کرنے سے اللہ کی رضامندی کا وعدہ

۳۴/۱۳۶۶ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عَظِيمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَاءُ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ - [رواه الترمذی وابن ماجہ]

اخرجه ابن ماجہ ۳۳۸۱۲ حدیث رقم ۴۰۳۱۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بڑی جزا (یعنی بدلہ) بڑی بلا (یعنی آزمائش) کے ساتھ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے جو شخص بلا (یعنی آزمائش) کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے اللہ کی رضامندی اس کے لیے ملے ہو جاتی ہے اور جو شخص آزمائش سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کو ابن ماجہ اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کی رضامندی اور غصہ خدائے پاک کی رضامندی اور غصے کی علامت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کی رضا اور غصہ کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندے سے راضی ہے یا ناراض۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جواب دیتے تھے اگر بندہ خدا سے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے اور اگر بندہ خدا سے ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہے۔

مومنوں پر آزمائش اور امتحانات

۳۵/۱۳۶۷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ أَوْ الْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ -

(رواه الترمذی وروی مالک نحوه وقال الترمذی هذا حديث حسن صحيح)

اخرجه الترمذی فی السنن ۶۰۲/۴ حدیث رقم ۲۳۹۹۔ واحمد فی المسند ۲۸۷/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس کی ذات کو اس کے مال کو اور اس کی اولاد کو ہمیشہ تکلیف پہنچتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کر لیتا ہے۔ یعنی اس پر کوئی خطا نہیں ہوتی۔ آزمائشوں کی وجہ سے اس کی تمام خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور اسی طرح امام مالک نے بھی نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مومن بندہ مصائب و پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ کبھی اس کی ذات کو تکلیف پہنچتی ہے اور کبھی اس کے مال کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے اور

کبھی اس کی اولاد کو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے امتحانات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں گویا کہ یہ آزمائشیں انسان کے رفع درجات کے لیے ہیں۔ جیسا کہ پہلی حدیثوں میں گزر چکا ہے۔

بندے کو درجات عالیہ عطا فرمانے کا اللہ عزوجل کا انوکھا انداز

۴۶/۱۳۶۸ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنَزَلَةً لَمْ يَلْفُهَا بِعَمَلِهِ ابْتِلَاءُ اللَّهِ فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَلْفَهُ الْمَنَزَلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ۔ [رواه احمد وابو داود]

اخرجه ابو داود فی السنن ۴۷۰/۱۳ حدیث رقم ۳۰۹۰۔ واحمد فی المسند ۲۷۲/۵۔

ترجمہ: محمد بن خالد سلمیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے نقل کیا اپنے باپ سے اور ان کے باپ نے نقل کیا اس کے دادا سے یعنی اپنے باپ سے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جب بندے کے لیے ایک مرتبہ عالی (بلند درجہ) جنت میں مقدر (طے) کر دیا جاتا ہے اور وہ بندہ اپنے عمل سے اس مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال کو اور اس کی اولاد کو امتحان میں ڈال دیتا ہے پھر آزمائش پر اس کو صبر عطا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے طے کیا گیا تھا۔ اس کو ابو داؤد اور احمد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں پر صبر کرنے کی وجہ سے درجات عالیہ دینے کا ایک طریقہ بیان کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو اعلیٰ درجہ جنت میں دینا چاہتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے۔ یعنی اس کے لیے درجہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن اس کے اعمال اس قدر طاقت والے نہیں ہیں کہ اس کو اس درجہ تک پہنچا دیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس درجہ تک پہنچانے کے لیے عجیب انداز اختیار فرماتے ہیں کہ اس کو امتحان میں مبتلا کر دیتے ہیں اور وہ اس تکلیف پر صبر کرتا ہے اور صبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مرتبہ عالی عطا فرماتے ہیں۔ یہ درجہ اس کو طاعت اور عبادت کی وجہ سے نہیں ملتا بلکہ صبر کی بدولت نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بلاؤں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

ننانوے مہلک آزمائشیں

۴۷/۱۳۶۹ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْخٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ابْنِ آدَمَ وَالْأَمْرِ جَنِبُهُ يَسْعُ وَتُسْعُونَ مِثْلَهُ إِنْ أَخْطَأْتَهُ الْمَنَآيَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ حَتَّى يَمُوتَ۔ [رواه الترمذی وقال هذا حديث غريب]

اخرجه الترمذی فی السنن ۴۵۵/۱۴ حدیث رقم ۲۱۵۰۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن شخیخ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ابن آدم کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے پہلو کے قریب ننانوے آزمائشیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ اگر یہ آزمائشیں اس کو نہ پہنچیں تو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بلاؤں اور مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے اور مصیبتیں اس قدر ہیں

کہ ان سے خلاصی نہیں ہے اگر اتفاق سے خلاصی پا بھی لیتا ہے تو بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے جو ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جس کو اللہ رب العزت نے نئی عمر سے تعبیر کیا ہے۔ انسان اس میں بہت سے کام کرنے سے عاجز آ جاتا ہے اور اس میں آزمائشیں بکثرت واقع ہوتی ہیں۔ آخر کار اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے کہ مومن کے لیے یہی حکم ہے کہ خدا کی تقدیر پر راضی رہے اور اللہ کے حکم پر صبر کرے۔ حدیث قدسی میں بھی اسی قسم کا مضمون وارد ہوا ہے جو میری بلا پر صبر نہیں کرتا اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اور میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا اس کو میرے علاوہ خدا تلاش کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا کس قدر غصہ ہے بے صبرے اور ناشکرے پر جو اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا۔

اللہم احفظنا منه ووفقنا للصبر والشکر والرضا۔

قیامت کے دن اہل عافیت کی آرزوئیں یعنی تمنائیں

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِ الْقَوَابِ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرْصَتٍ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِ بِيضٍ -

[رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب]

اخرجه الترمذی فی السنن ۶۰۴/۴ حدیث رقم ۲۴۰۲۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اہل عافیت (سلامت رہنے والے) قیامت کے دن یہ تمننا کریں گے جبکہ آزمائشوں میں مبتلا ہونے والوں کو بہت ثواب دیا جائے گا۔ کہ کاش ان کے چمڑے قینچیوں سے کاٹ دیے جاتے تاکہ ان کو بھی ان کے برابر ثواب مل جاتا۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جن کو دنیا میں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی وہ نیک لوگوں کے ثواب کو جب دیکھیں گے تو تمننا کریں کہ کاش ہمیں بھی اتنی تکلیفیں پہنچائی جاتیں کہ ہمارے چمڑے قینچیوں سے کاٹ دیے جاتے تاکہ ہمیں بھی ان کے برابر ثواب مل جاتا۔ لیکن چونکہ دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ہوگا اس لئے ان کی یہ تمننا بے سود ہوگی۔ اس میں اللہ کے نیک بندوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور اشارۃً صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ (مس)

مومن بندے پر بیماری کے مثبت اثرات

عَنْ عَامِرِ الرَّامِ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْقَامَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ عَافَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرَضَ ثُمَّ أَعْفَى كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ أَرْسَلُوهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْأَسْقَامُ وَاللَّهِ مَا مَرَضْتُ قَطُّ فَقَالَ قُمْ عَنَّا فَلَسْتُ مِنَّا۔ [رواہ ابو داود]

اخرجه ابو داود فی السنن ۴۶۸۱/۳ حدیث رقم ۳۰۸۹۔

ترجمہ: حضرت عامر راضی سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بیمار یوں کا ذکر فرمایا پھر فرمایا کہ مومن کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے عافیت دے دیتا ہے تو اس کی وہ بیماری اس کے گزرے ہوئے (گزشتہ گناہوں) کا کفارہ بن جاتی ہے اس کے لیے نصیحت اور تنبیہ ہو جاتی ہے پس وہ آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہے اور پرہیز کرتا ہے اور جب منافق بیمار ہوتا ہے۔ پھر اس کو عافیت (تندرستی) دے دی جاتی ہے تو وہ باندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے کہ اس کے مالک نے اس کو باندھ کر چھوڑ دیا۔ پس اونٹ کو معلوم نہیں کہ مجھے کس لیے باندھا ہے اور کیوں چھوڑا ہے پس نبی کریم ﷺ سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! بیماری کیا چیز ہے؟ میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہمارے پاس سے اٹھ جا تو ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ روایت ابو داؤد نے نقل کی ہے۔

تشریح: حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن جب بیماری سے صحت یاب ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پچھلے گناہوں کا ثمرہ ہے۔ آئندہ میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچاؤں گا۔ گویا کہ نیک آدمی اس بیماری کے جھکے سے متاثر ہوتا ہے اور راہ راست پر آ جاتا ہے اور دل میں نادم ہوتا ہے۔

جب کہ منافق کا حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ ﷺ نے اس کی مثال اونٹ کے ساتھ دی جس کے مالک نے اس کو باندھا اور چھوڑ دیا اس کو کچھ خبر نہیں ہے کہ مالک نے کیوں باندھا اور کیوں چھوڑا۔ یعنی منافق نہ خبردار ہوتا ہے اور نہ نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اور نہ ہی اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے اس کی بیماری اس کے لیے گناہوں کا کفارہ نہیں بنتی اور نہ ہی آئندہ کے لیے نصیحت بلکہ اس کی مثال چوپاؤں کی سی ہے۔ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا: ﴿وَأُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمْ أَصْلًا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰطِلُونَ﴾ (الاعراف: ۱۷۹) آپ ﷺ نے ایسے شخص کے لیے ارشاد فرمایا جو زندگی بھر بیمار نہیں ہوا فرمایا تو ہم میں سے نہیں ہے یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے اس لیے کہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں مبتلا نہیں ہوا جس طرح ہم مبتلا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں پر صبر کرنے والا بنادے امین ثم امین۔

بیمار کو تسلی دینا مسنون ہے

۵۰/۱۳۷۲. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَزِدُّ شَيْئًا وَيَطْبِئُ بِنَفْسِهِ . (رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حديث غریب)

احرحہ الترمذی فی السنن ۴/۱۲۱۶ حدیث رقم ۲۰۸۷۔ وابن ماجہ ۱/۶۶۲۸ حدیث رقم ۱۴۳۸۔

ترجمہ: حضرت ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت تم بیمار پر داخل ہو (یعنی عیادت کے لیے جاؤ) پس تم اس کے غم کو دور کرو۔ زندگی کے بارے میں یعنی کہو کہ غم نہ کھاؤ کوئی ڈرنیسیں ہے شفا مل جائے گی اور عمر دراز ہوگی۔ اس لیے کہ ایسا کہنا مقدر شدہ چیز کو پھیر نہیں سکتا اور اس سے (عیادت کے یہ الفاظ کہنے سے) اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ ابن ماجہ اور ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے اور امام ترمذی کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: بعض حضرات کا کہنا ہے کہ نزع کے وقت مریض کے لیے مسواک کرنا مستحب اور اسی طرح خوشبو لگانا بھی مستحب ہے اور پاک کپڑے پہننا نماز پڑھنا، غسل کرنا یہ سب مستحبات میں سے ہیں۔ ان سے روح کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔

حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جائے تو اس کو تسلی دے اور کہے کہ ابھی تمہاری عمر بہت ہے۔ ایسا کہنے سے گو عمر جو مقدر سے بڑھ نہیں سکتی لیکن وہ شخص خوش ہو جاتا ہے اس کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے تم کو ان شاء اللہ شفاء ہوگی فکر نہ کرو۔

پیٹ کی بیماری سے مرنے والا بھی شہید ہے

۵۱/۱۳۷۳ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ بَطْنَهُ لَمْ يُعَدَّ بِمَيِّتٍ قَبْرِهِ۔

[رواہ احمد والترمذی وقال هذا حدیث غریب]

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۷۷/۳ حدیث رقم ۱۰۶۴۔ واحمد فی المسند ۲۶۲/۴۔

ترجمہ: حضرت سلیمان بن صرد سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو پیٹ کی بیماری سے مر گیا جیسے استقاء اور دستوں وغیرہ سے تو اس کو قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس کو احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: مرض کی سختی کی وجہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کو شہادت کا درجہ مل جاتا ہے جیسا کہ پہلی حدیثوں میں گزر چکا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہید کی ہر چیز سے بخشش ہو جاتی ہے مگر قرض سے نہیں۔ اس لیے کہ یہ بندے کے حقوق ہیں بندہ ہی معاف کرے گا تو معاف ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں۔

الفصل الثالث:

غیر مسلم کی عیادت کرنا جائز ہے

۵۲/۱۳۷۳ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَضَ فَاتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمَ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ أَطْعَ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ۔ [رواہ البخاری]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۱۹/۳۔ حدیث رقم ۱۳۵۶۔ وابوداؤد فی السنن ۴۷۴/۳۔ حدیث رقم ۳۰۹۵۔ واحمد

فی المسند ۲۲۷/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا حضور ﷺ کی خدمت کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تو نبی کریم ﷺ اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گیا چنانچہ آپ ﷺ اس کے سر ہانے بیٹھ گئے۔ پھر آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ مسلمان ہو جا۔ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی تھا۔ اس کے باپ نے کہا ابوالقاسم (ﷺ) کی اطاعت کرو۔ وہ اسلام لے آیا چنانچہ نبی کریم ﷺ یہ کہتے ہوئے اس کے پاس سے نکلے: میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں جس نے اس کو اسلام لانے کی وجہ سے آگ سے نجات عطا فرمائی۔ (بخاری)

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ عیادت کرتے وقت مریض کے سر ہانے کی طرف بیٹھنا چاہیے اور یہ مستحب ہے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کافر ذمی سے خدمت کروانا جائز ہے اور اس کی عیادت کرنا بھی جائز ہے اور

فاسق کی عیادت کے بارے میں اختلاف ہے اور صحیح قول یہی ہے کہ اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اور اس حدیث کا ظاہر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی تائید کرتا ہے کہ نابالغ لڑکے کا اسلام لانا درست ہے اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس لڑکے کا نام عبدالقدوس تھا۔

بیمار کی عیادت پر اللہ کی طرف سے خوشنودی کا اعلان

۵۳/۱۳۷۵ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبْتُ وَكَاتَبَ مُمْسَاكَ وَتَبَوُّتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا - [رواه ابن ماجه]

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۲۰/۱۴۔ حدیث رقم ۲۰۰۸۔ وابن ماجه ۴۶۴/۱۔ حدیث رقم ۱۴۴۳۔ واحمد فی المسند ۳۵۴/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے بیمار کی عیادت کی تو آسمان سے ایک پکارنے والا (فرشتہ) پکارتا ہے خوشی سے جیو یعنی (زندہ رہو) دنیا اور آخرت میں اور تیرا چلنا بہتر ہو دنیا اور آخرت میں اور جنت میں ایک بلند مرتبہ پائے۔ یہ ابن ماجہ نے نقل کی ہے۔

تشریح: اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عیادت کے لیے پیدل جانا افضل ہے۔ آسمان سے فرشتہ عیادت کرنے والے کے لیے پکار کر کہتا ہے کہ دنیا و آخرت میں خوشی کی زندگی گزارو۔ کہ تو نے بیمار کی عیادت کی ہے اس کی مزاج پرسی کی ہے اور شب و روز تیرا اچھا گزرے۔ اس سے بڑھ کر کیا انعام ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص سے خوش ہو کر فرشتے کے ذریعے اعلان کروا رہے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک مرتبہ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرنا اور اچھی خبر دینا

۵۳/۱۳۷۶ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوَفِّي فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا الْحَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِئًا -

[رواه البخاری]

اخرجه البخاری فی صحيحه ۵۷/۱۱۔ حدیث رقم ۶۲۶۶۔ واحمد فی المسند ۳۲۵/۱۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا اے ابوالحسن! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حال میں صبح کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں صبح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے اچھے ہونے والے ہیں۔ یعنی خدا کا شکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہے۔ اس کو بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے جب کبھی کوئی مریض کے بارے میں پوچھے تو اس کو چاہیے کہ اچھی خبر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے گمان کے موافق کہا یا بطور نیک فال کے اور ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیمار کا حال پوچھے تو اس کو اچھا جواب دینا چاہیے۔

مرگی کی بیماری پر جنت کا وعدہ

۵۵/۱۳۷۷ وَعَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السُّودَاءُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَأَدْعُ اللَّهَ لِي لِقَالِ إِنْ شِئْتَ صَبِرْتُ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكَ فَقَالَتْ أَصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَأَدْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا - [متفق عليه]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱۴/۱۰ - حدیث رقم ۵۶۵۲ - و مسلم فی صحیحہ ۱۹۹۴/۴ حدیث رقم (۲۵۷۶۰۵۴)

واحمد فی المسند ۳۴۶/۱

ترجمہ: حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ کیا میں آپ کو ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا ہاں یعنی دکھائیے۔ فرمایا کہ یہ کالی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول! میں مرگی میں مبتلا ہو جاتی ہوں اور بے خودی (یعنی غشی) کی حالت میں ستر کھل جانے کا خوف رہتا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے دعا فرمائیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہوگی اور اگر تو چاہے کہ تیرے لیے میں شفا کی دعا کروں تو دعا کر دوں گا۔ تو عورت نے کہا میں صبر کروں گی۔ البتہ عورت نے کہا میں ستر کے کھلنے سے ڈرتی ہوں لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ ایسی حالت میں میرا ستر نہ کھلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ستر نہ کھلنے کی دعا کر دی۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حدیث پاک میں جس عورت کا تذکرہ گزرا ہے اس کا نام سیمیرہ یا سکیمرہ تھا۔ سین مہملہ کے ضمہ کے ساتھ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کنگھی کرنے والی تھی۔ اس حدیث سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ دوا اور دعا دونوں کا استعمال جائز ہے۔ آزمائش پر صبر کرنے کی وجہ سے اور خدا کی تقدیر پر راضی ہونے کی وجہ سے بلکہ حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ بیماری کے ساتھ رہنا صبر کرتے ہوئے یہ عافیت سے افضل ہے۔ اگرچہ دوا کرنا مسنون ہے۔ ابی داؤد والی حدیث کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دوا کیا کرتے تھے اور امت کو بھی دوا کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی دوا موجود نہ ہو سوائے بڑھاپے کے کہ اس کی کوئی دوا نہیں ہے اور دوا تو کل کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ دوا میں اسباب کو اختیار کرنا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوا کیا کرتے تھے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوکلیں کے سردار ہیں اور باوجود اس بات کے دوا کو چھوڑنا تو کل کی وجہ سے ہے۔

بیماری کے ساتھ مرنا افضل ہے اور گناہوں سے دوری کا سبب ہے

۵۶/۱۳۷۸ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا جَاءَهُ الْمَوْتُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ هَيْنَا لَهُ مَاتَ وَلَمْ يَتَلَّ بِمَرَضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَحْكُ مَا يَذُرُكَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ ابْتَلَاهُ بِمَرَضٍ لَكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ - [رواه مالك مرسلًا]

اخرجه مالك فی الموطأ ۹۴۲/۲ حدیث رقم ۸ من کتاب العین۔

ترجمہ: یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں ایک شخص کو اچانک موت آگئی تو ایک شخص نے کہا کہ اس کو موت مبارک ہو کہ وہ بیماری کے اندر گرفتار نہیں ہوا۔ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے تجھے کیسے معلوم ہو گیا ہے؟ یعنی بیمار نہ ہونے کی تعریف مت کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو بیماری کے ساتھ موت دیتا تو اس کی برائیوں کو دور کر دیتا۔ اس کو مالک نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

تشریح: خلاصہ حدیث کا اس طرح ہے کہ آپ ﷺ کے زمانے میں ایک شخص فوت ہو گیا دوسرے شخص نے اس کو مبارک دی کہ یہ شخص بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہوا بلکہ کہتے ہیں کہ چلتا پھرتا دنیا سے چلا گیا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے بیمار نہیں ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے کہ یہ مبارک کا مستحق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو بیماری کے اندر مبتلا کرتا اور تکلیفیں اور آزمائشیں آتیں تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا۔ یہ تو کوئی مبارک والی بات نہیں ہے۔ یعنی کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے۔ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے بلکہ ختم کر دیتی ہے اور رفیع درجات کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

بیماری کے بعد مریض کے لیے گناہوں کے ختم ہونے کی بشارت

۵۷/۱۳۷۹ وَعَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ وَالصَّنَابِجِيِّ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى رَجُلٍ مَرِيضٍ يَمُودَانِهِ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَنْعِمَةَ قَالَ شَدَادُ أَتَشِيرُ بِكُفَّارَاتِ السَّنَاتِ وَحِطِّ الْخَطَايَا فَاثْنَيْ سِمْعَتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ إِذَا آتَا ابْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا فَعَمِدَنِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيْوَمَ وَلَدَنَّهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا وَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آتَا قِيدْتُ عَبْدِي وَابْتَلَيْتُهُ فَأَجْرُوا لَهُ مَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ. [رواه احمد]

اخرجه احمد في المسند ۱۲۳/۴

ترجمہ: شداد بن اوس اور صناجی سے روایت ہے کہ وہ دونوں ایک بیمار شخص کی عیادت کے لیے گئے انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے کس طرح صبح کی؟ اس نے کہا میں نے صبح کی اللہ کی نعمت کے ساتھ (یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی نعمت کو تسلیم کرتے ہوئے میں نے صبح کی) شداد نے کہا تمہیں گناہوں کے جھڑنے اور خطاؤں کے دور ہونے کی خوشخبری ہو اس لیے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مؤمن بندے کو مبتلا کرتا ہوں تو وہ مبتلا ہونے کی وجہ سے میری تعریف کرتا ہے وہ بیماری کے بعد اپنی خواہگاہ سے اٹھ کر اس طرح کھڑا ہوتا ہے (یعنی جس جگہ وہ بیمار پڑا تھا گناہوں سے پاک ہو کر) جس طرح اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے بندے کو قید کیا اور آزمایا لہذا اس کے وہی اعمال لکھتے رہو جن کو تم اس کی تندرستی کی حالت میں لکھا کرتے تھے۔

تشریح: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ شداد بن اوس اور صناجی ایک بیمار شخص کی عیادت کے لیے گئے۔ دونوں حضرات نے اس کی مزاج پرسی کی۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے ہم خدا کی رضا و قضا کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو گناہوں کے جھڑنے اور برائیوں کے معاف ہونے کی خوشخبری سنائی اور اسے حضور ﷺ کا یہ ارشاد مبارک سنایا کہ جب بندہ

بیماری سے صحت یاب ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے گناہوں کو ختم کرنے کا طریقہ

۵۸/۳۸۰ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَكْفِرُهَا مِنَ الْعَمَلِ ابْتَغَاهُ اللَّهُ بِالْحَزْنِ لِيُكَفِّرََهَا عَنْهُ۔ [رواه احمد]

اخرجه احمد في المسند ۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اور جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہوتا جو اس کے گناہوں کو ختم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو غم کی وجہ سے جھاڑ کر (ختم) کر دے۔ یہ احمد نے نقل کی ہے۔

تشریح: خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قلب غمگین کو اپنا دوست رکھتا ہے اور جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اسکے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہوتا ہے جو اس کے گناہوں کو مٹا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے کسی مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے گناہوں کو ختم کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے کے ساتھ نہایت درجے کی محبت کی دلیل ہے۔

۵۹/۳۸۱ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ الرَّحْمَةَ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا۔ [رواه مالك و احمد]

اخرجه مالك في الموطأ ۹۴۶/۲ حديث رقم ۱۷ من كتاب العين۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص بیمار کی عیادت کرتا ہے۔ تو وہ مسلسل رحمت کے دریا میں رہتا ہے اور جب وہ بیمار کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو رحمت کے دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ روایت امام احمد اور امام مالک نے نقل کی ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے عیادت کرنے والے کی فضیلت بیان کی ہے۔ عیادت کرنے والا جب تک مریض کے پاس بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک وہ رحمت کے دریا میں بیٹھا رہتا ہے۔ اس سے عیادت کرنے والے کی فضیلت ظاہر ہو جاتی ہے اسی کی تائید میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے جو شخص مریض کی عیادت کرے رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول! یہ عیادت کرنے والے کے لیے ہے اور مریض کے لیے کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں مزید برآں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب بندہ تین دن تک بیمار رہتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ (میرک)

آپ ﷺ کا بتایا ہوا بخار کے لیے عمل

۶۰/۳۸۲ وَعَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ الْحُمَّى فَإِنَّ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ فَلْيَسْتَنْفِضْ فِي نَهْرٍ جَارٍ وَلْيَسْتَقْبِلْ جَرِيَّتَهُ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ

اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِيقَ رَسُولِكَ بَعْدَ صَلَوةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلْيَتَغَمَّسْ فِيهِ ثَلَاثَ غَمَّسَاتٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي ثَلَاثٍ فَخُمْسٍ فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي خُمْسٍ فَسَبْعٍ فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي سَبْعٍ فَتِسْعٍ فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ تِسْعًا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - [رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب]

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۵۷/۴ حدیث رقم ۲۰۸۴ - واحمد فی المسند ۲۸۱/۵

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کسی کو بخار پہنچ جائے (ہو جائے) اور تحقیق تب (بخار) آگ کا ایک ٹکڑا ہے پس اس کو چاہیے کہ بخار کو پانی کے ساتھ بچھادے تو وہ جاری نہر میں داخل ہو جائے اور پانی کے بہاؤ کے سامنے گھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شفا طلب کرتا ہوں۔ یا اللہ! اپنے بندے کو شفا دے اور اپنے رسول کے قول کو سچا کر دے اور مجھ کو شفا دے یہ فعل صبح کی نماز کے بعد آفتاب (سورج) کے نکلنے سے پہلے کرے اور اس میں تین دن تین تین غوطے مارے۔ پس اگر تین دن میں اچھا نہ ہو۔ تو پھر نو (۹) دن کرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بخار نو دن سے تجاوز نہیں کرے گا۔ یعنی اس عمل کے بعد بخار جاتا رہے گا۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور فرمایا ہے یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اس عبارت کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ تین روز میں تین غوطے لگانا چاہئیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہر دن میں تین ہوں اور یہ علاج بخار کی بعض قسموں کے لیے مخصوص ہے۔ صفاوی مزاج والوں کے لیے جیسے یہ مزاج اہل حجاز والوں کا ہے۔ اس لیے کہ بعض قسموں میں غسل کرنا مضر ہوتا ہے اور ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے مگر تجربہ کار طبیب کے مشورہ کے ساتھ نقصان و ہلاکت سے بچاؤ ہو جاتا ہے اور خطاب نے کہا ہے کہ ایک شخص کو بخار تھا اس نے پانی کے اندر غوطہ مارا اور نہانے کی وجہ سے اس کی حرارت اندر ہی رک گئی اور سخت بیمار ہو گیا اور ہلاک ہونے کے قریب ہو گیا۔ جب تندرست ہوا تو اس نے حدیث کے بارے میں ایک بری بات منہ سے نکالی۔ اس وجہ سے کہ وہ حدیث کا معنی سمجھ نہ سکا کہ یہ حکم ہر طرح کے بخار کے لیے نہیں ہے۔

بخار کو برامت کہو یہ مسلمان کے لیے باعث رحمت ہے

۷۷۳۸۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ ذِكْرَتِ الْحُمَّى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّهَا رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسَبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْفِي الدُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ حَبَّ الْحَبْدِيدِ -

[رواه ابن ماجہ]

اخرجه ابن ماجہ فی السنن ۱۱۴۹/۲ - حدیث رقم ۳۴۶۹

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ بخار کو برامت کہو۔ اس لیے کہ بخار گناہوں کو دور کرتا ہے جیسے کہ آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مرض کی حالت میں بھی خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ مصیبت میں بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح نعمت کے ملنے پر خدا کا شکر کیا جاتا ہے۔ اس

لیے کہ آزمائش کے نازل کرنے میں بھی خدا تعالیٰ کی مٹھی مہربانی مقصود ہوتی ہے کیوں کہ روایات سے معلوم ہو چکا ہے کہ بیماری گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ بندے سے گناہوں کو ایسے دور کرتی ہے جس طرح بھٹی لوہے سے میل کو دور کر دیتی ہے۔

بیماری میں خدا کی حکمت

۶۳/۳۸۴ وَعَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ مَرِيضًا فَقَالَ أَبَشِّرْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ هِيَ نَارِي أَسْلَطْتُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا لِتَكُونَ حَقْظَةً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

[رواہ احمد وابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان]

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۵۹/۴ حدیث رقم ۲۰۸۸۔ مع اختلاف وابن ماجہ فی السنن ۱۱۴۹/۲۔ حدیث رقم ۳۴۷۰۔ واحمد فی المسند ۴۴۰/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے بیمار کی عیادت کی اور اس سے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ بخار میں میری آگ ہے میں اسے اپنے مؤمن بندے پر مسلط کرتا ہوں۔ تاکہ وہ بخار اس کے لئے قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے حصہ اور بدلہ ہو جائے اس کو احمد ابن ماجہ اور بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَاَرْدَٰهُ۔ جس کا ترجمہ یہ ہے ہر کوئی تم میں سے دوزخ میں داخل ہوگا قیامت کے دن اس لیے مؤمن کو جو بخار ہوتا ہے وہ قیامت کے دن ملنے والے عذاب کا بدلہ اور حصہ ہوتا ہے۔ اس بخار کی وجہ سے قیامت کے دن وہ امن میں رہے گا کیونکہ اس عذاب کے بدلے اس کو بخار پہنچ چکا ہے۔ داخلہ دوزخ میں سب کا ہوگا اس لیے کہ ہل صراط جہنم کے اوپر ہے۔ جس پر سے سب کو گزرنا ہے لیکن مؤمن کے ساتھ کامل کی قید لگانی چاہیے کیونکہ یہ بات کامل مؤمن کے لیے ہوتی ہے اس لیے کہ بعض مؤمن گنہگاروں کو عذاب ملے گا۔ وہ اس قید سے نکل جائیں گے۔

مصائب کے بدلے بخشش کا وعدہ

۶۳/۳۸۵ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّبَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أُخْرِجُ أَحَدًا مِنَ الدُّنْيَا أُرِيدُ أَغْفِرُ لَهُ حَتَّى اسْتَغْفِرَ كُلَّ خَطِيئَةٍ فِي عِقْبِهِ بِسَقَمٍ فِي بَدَنِهِ وَافْتِسَارٍ فِي رِزْقِهِ۔

رواہ رزین -

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور برتر ہیں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں کسی بندے کو دنیا سے نہیں نکالوں گا۔ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اس کو بخش دوں گا یہاں تک میں اس کے ہر گناہ کا بدلہ پورا دوں گا۔ اس کی بدنی بیماری کی وجہ سے اور اس کے رزق میں تنگی دے کر (اس کے گناہوں کو بخش دوں گا) اس روایت کو رزین نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کے ذمے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے۔

کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو بیمار کر دیتے ہیں اور کبھی رزق کی تنگی دے دیتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ مصائب و پریشانیوں کی وجہ سے گناہوں کا دور ہوتا متعدد احادیث سے معلوم ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے ان مسائل کی وجہ سے اس کے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ الحاصل یہ کہ فقر بیماری اور آزمائش گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جیسے طانی سفید کپڑے سے میل کچیل کو دور کر دیتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنی بیماری پر اظہارِ افسوس

۶۳/۳۸۶ وَعَنْ شَقِيقٍ قَالَ مَرَضَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَعَدَنَاهُ فَجَعَلَ يَبْكِي فَعُوبَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَبْكِي لِأَجْلِ الْمَرَضِ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَرَضُ كَفَّارَةٌ وَإِنَّمَا أَبْكِي أَنَّهُ أَصَابَنِي عَلَى حَالٍ فَتَرَوْهُ وَلَمْ يُصْنِنِي فِي حَالٍ اجْتِهَادٍ لِأَنَّهُ يَكْتَبُ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا مَرَضَ مَا كَانَ يَكْتَبُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْرُضَ فَمَنْعَهُ مِنْهُ الْمَرَضُ -

رواہ رزین -

ترجمہ: حضرت شقیق سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے۔ پس ہم نے ان کی عیادت کی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ بیماری یا زندگی کی محبت کی وجہ سے روتے ہیں۔ پس فرمانے لگے کہ میں بیماری کے سبب نہیں روتا اس لیے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے۔ آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ بیماری گناہ جمرے کا سبب ہے میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھ کو بیماری (یعنی بڑھاپے کی حالت) سستی میں پہنچی ہے۔ اور جوانی کی حالت میں مجھ کو بیماری نہیں پہنچی۔ اس لیے کہ جوانی میں بیماری پر بندے کے لیے ان تمام اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے جن کا بیماری سے پہلے لکھا جاتا تھا اور اس بیماری نے اُسے اس سے باز (روکے) رکھا۔ یہ رزین نے نقل کی ہے۔

تشریح: حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ بڑھاپے میں بیماری کے دوران روتے ہوئے فرمایا کرتے تھے۔ کہ مجھے تو بیماری بڑھاپے کی حالت میں پہنچی ہے۔ بڑھاپے میں بندہ کام کرنے سے عاجز آ جاتا ہے۔ کمزوری بڑھ جاتی ہے اور جوانی کی حالت میں انسان بہت سے کام کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے۔ جوانی کی حالت میں عبادت کرنا شیوہ پیغمبری ہے۔ بڑھاپے میں اعمال صالحہ کم ہوتے ہیں اور بیماری کی وجہ سے جب اعمال کم ہوں گے تو کم لکھے جائیں گے۔ کاش کہ جوانی میں بیمار ہوتا۔ تاکہ حالت صحت میں کئے جانے والے اعمال کا ثواب لکھا جاتا۔

حضور اکرم ﷺ کا عیادت کا طریقہ

۶۵/۳۸۷ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ -

[رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان]

ترجمہ: ابن ماجہ فی السنن ۶۶۲/۱ حدیث رقم ۱۴۳۷۔ والبیہقی فی شعب الایمان ۵۴۲/۶ حدیث رقم ۹۲۱۶۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ تین دن کے بعد مریض کی عیادت کرتے تھے۔ اس حدیث کو

ابن ماجہ نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ تین دن تک انتظار کرتے جب تین راتیں گزر جاتیں تو آپ ﷺ مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ عیادت کرنا زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے: عودوا المریض۔ مریض کی عیادت کرو۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں حضرت انسؓ کی یہ حدیث ضعیف ہے۔ ممکن ہے کہ یہ حدیث اس پر محمول ہو کہ آپ مجلس سے غیب ہونے والے کے بارے میں پوچھتے ہوں تین دن کے بعد اس آدمی کی بیماری کے متعلق علم ہونے کے بعد آپ ﷺ اس کی عیادت کرتے ہوں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جب میرا بندہ بیمار ہو اور اس نے تین دن سے قبل اس کو ظاہر کر دیا۔ فقد شکانی۔ پس اس نے میری شکایت کی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر مریض اپنے مرض پر تین دن تک صبر کرے اور ظاہر نہ کرے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حدیث موضوع ہے۔

مریض سے دُعا کروانے کا حکم

۶۶/۳۸۸ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرَّهُ بِدُعَاكَ فَإِنَّ دُعَاءَ الْمَلَائِكَةِ - [رواه ابن مالك]

انجرحہ ابن ماجہ ۴۶۳/۱ حدیث رقم ۱۴۴۱۔

ترجمہ: حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو تم اس کو اپنے لیے دعا کا کہو کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں مریض کی دعا کو فرشتوں کی دعا کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے اس لیے کہ بیمار آدمی گناہوں سے بچنے کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ کیونکہ جس طرح فرشتے گناہوں سے بچے رہتے ہیں اسی طرح بیمار آدمی بھی گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ یا جس طرح فرشتے ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بیمار آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہتا ہے اور خدا سے آہ و وزاری اور التجا کرنے میں ہمیشہ مصروف رہتا ہے۔ کیونکہ وہ بیماری کی وجہ سے ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ ہر گھڑی ہر آن وہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔

مریض کے پاس اتنی اونچی آواز میں بولنا منع ہے جس سے مریض کو تکلیف پہنچے

۶۷/۳۸۹ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ تَخْفِيفُ الْجُلُوسِ وَفَلَّةُ الصَّخَبِ فِي الْعِيَادَةِ عِنْدَ الْمَرِيضِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَ لَعَطُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ قَوْمُوا عَنِّي۔

رواہ رزین۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ مریض کے پاس کم بیٹھنا اور عیادت کرتے وقت بیمار کے پاس شور و غل (اونچی) باتیں کرنا ممنوع ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں جب غل زیادہ ہوا اور صحابہؓ کے مابین اختلاف ہوا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ یعنی کھڑے ہو جاؤ۔ یہ رزین نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مریض کے پاس اونچی بولنے اور زور و شور سے بحث و مباحثہ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کے انتقال کا وقت قریب تھا اور گھر میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ چنانچہ ان لوگوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا قلم اور دوات لے کر آؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک وصیت لکھ دوں۔ تاکہ تم گمراہ ہونے سے بچ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ﷺ پر بیماری غالب ہے اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ پس کتاب اللہ تم کو کافی ہے اور اہل بیت نے اختلاف کیا اور دوسرے لوگوں نے بھی بعض لوگ کہتے تھے کہ آپ ﷺ کے پاس دوات لے کر آؤ۔ تاکہ تمہارے لیے کچھ لکھ دیں اور بعض ان میں سے کہتے تھے جو کہ آپ ﷺ نے کہا ہے پس یہی کافی ہے اور جب آپ ﷺ کے پاس شور و غل زیادہ ہو گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں اختلاف فرمایا۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اس کو بخاریؒ اور مسلمؒ نے روایت کیا ہے۔ رافضی اس سے یہ بات نکالتے ہیں کہ آپ ﷺ خلافت کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا۔ اس کا جواب ابن حجرؒ نے بڑا بہترین دیا۔ کہ حضور ﷺ نے جب لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہؓ کے مابین اختلاف واقع ہوا۔ تو آپ ﷺ نے مصلحت لکھنا ترک کر دیا اور دل میں خیال آیا کہ لکھنے میں مصلحت نہیں ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ اگر لکھنے کا مصمم ارادہ کر لیتے تو کسی کی کوئی مجال نہ تھی حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کا بھی بس نہ چلتا اس واقعہ کے بعد آپ ﷺ تین دن زندہ رہے۔ ان دنوں میں اگر آپ ﷺ خلافت کے بارے میں لکھنے میں مصلحت دیکھتے تو ضرور لکھتے لیکن آپ ﷺ نے خلافت کے مقدمہ میں نص جلی پر استغنا کیا۔ یعنی آپ ﷺ کا اپنی بیماری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام بنانا اور اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے خطبہ پڑھا اور لوگوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے کو کہا اور فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا ہے۔ کیا ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی دنیا کے لیے پسند نہ کریں۔ نبی کریم ﷺ نے کسی آدمی کو بھیجا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور میں آپ ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آپ ﷺ مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس کے باوجود مجھے امام نہیں بنایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسی ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا ہے لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ ابوسفیان بن حرب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لڑائی کے لیے مدینہ کا میدان گھوڑوں اور پیادوں سے بھر دوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ غصہ ہوئے اور اس کو ڈانٹا اور برا بھلا کہا۔ تاکہ وہ اور تمام لوگ جان لیں۔ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے خلیفہ ہیں کہ حقیقت میں ان کی خلافت میں کوئی شک نہیں ہے۔

مریض کے پاس کم بیٹھنے کا حکم

۶۸/۱۳۹۰ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِبَادَةُ قَوَائِفُ نَاقَةٍ وَلَهُ رَوَاةُ سَعِيدِ بْنِ

المنسب مرسلا افضل العباداة سرعة القيام - (رواه البيهقي في شعب الایمان)

اخرجه البيهقي في شعب الایمان ۵۴۳/۶ حديث رقم ۹۲۲۲۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ عبادت کا افضل (بہترین) زمانہ اونٹنی کے

(دودھ) دہنے کے درمیانی وقفے کی مقدار ہے۔ سعید بن مسیب کی روایت میں بطریق ارسال نقل کیا گیا ہے کہ بہترین عیادت وہ عیادت ہے جس میں عیادت کرنے والا جلدی اٹھ جائے۔ اس کو بیعتی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح ❶ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مریض کے پاس کم مقدار میں بیٹھنا چاہیے اور بیمار کے پاس اس قدر بیٹھئے کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ مریض کے پاس بیٹھنے کی مقدار آپ ﷺ نے بیان فرمائی کہ اتنی مقدار مریض کے پاس بیٹھنا چاہیے جتنا اونٹنی کے دو مرتبہ دودھ دھونے کا درمیانی وقفہ ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ دیر بیٹھنے میں مریض کو تکلیف ہوگی۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ہم حضرت سری سقطیؒ کی عیادت کو گئے اور ان کے پاس دیر تک بیٹھے رہے۔ وہ مرض الموت میں مبتلا تھے ان کے پیٹ میں تکلیف تھی۔ ہم نے ان سے کہا ہمارے لیے دعا کرو۔ انہوں نے کہا یا الہی ان کو مریض کی عیادت کرنے کی کیفیت سکھا دیجئے گویا کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ مریض کے پاس کم بیٹھنا چاہیے جب اس کی عیادت کے لیے جائے اور جس وقت مناسب سمجھے کہ مریض زیادہ دیر بیٹھنے کو دوستی کی بنا پر یا تہم کا یا خدمت کے لیے بہتر سمجھتا ہے تو وہ مستثنیٰ ہے۔ یعنی اس صورت میں مریض کے پاس سے جلدی اٹھنا بہتر نہیں ہے۔

مریض کی کھانے کی خواہش پوری کرنے کا حکم

۶۹/۱۳۹۱ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ مَا تَشْتَهِي قَالَ أَشْتَهِي خُبْزَ بَرٍّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزٌ بَرٍّ فَلْيَبْعْهُ إِلَىٰ أَحِبِّهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَهَى مَرِيضٌ أَحَدَكُمْ شَيْئًا فَلْيَطْعَمْهُ۔ [رواہ ابن ماجہ]

اخرجه ابن ماجه في السنن ۶۶۳/۱ حديث رقم ۱۰۳۹۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ایک شخص کی عیادت کی پس آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کہ کس چیز کے کھانے کو دل چاہتا ہے۔ اس نے کہا گیہوں (گندم) کی روٹی کھانے کو دل چاہتا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس گیہوں (گندم) کی روٹی ہو پس چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی طرف بھیج دے پھر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت مریض کسی چیز کی خواہش کرے تو چاہیے کہ تم اس کو کھلا دو۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ❷ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مریض کی کھانے کی خواہش کو پورا کرنا چاہیے اس خواہش سے مراد خواہش صادق ہے اور وہ صحت کی نشانی ہے اور یہ بھی ہے کہ مریض کو کھانا نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ تقویت اور صحت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات ضروری ہے کہ اس کے کھانے سے مریض کو نقصان نہ ہو۔ کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکم کلی نہیں بلکہ جزئی ہے یعنی تمام حضرات کے لئے نہیں ہے بلکہ بعضوں کے لیے ہے اور علامہ طیبی نے کہا ہے یہ توکل پر مبنی ہے یا زندگی کی ناامیدی پر یعنی جس کے جینے کی توقع نہ ہو۔ اس کے لیے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو مانگے اس کو کھلا دو۔

سفر جہاد کی موت گھر کی موت سے افضل ہے

۷۰/۱۳۹۲ وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ تَوَفَّى رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وَلَدَتْ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قَالُوا وَلَمْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ فَيُنْسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطِعِ آثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ - [رواه النسائي وابن ماجه]

اخرجه النسائي في السنن ۷/۴ حديث رقم ۱۸۳۲۔ وابن ماجه ۵۱۵/۱ حديث رقم ۱۶۱۴۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص کی مدینہ منورہ میں وفات ہوگئی اور وہ مدینہ میں ہی پیدا ہوا تھا۔ تو آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا کاش کہ یہ اپنی پیدائش کی جگہ سے باہر فوت ہوتا (یعنی سفر وغیرہ میں) صحابہ نے عرض کیا کہ یہ کس لیے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت آدمی غیر وطن میں مرتا ہے اس کے وطن سے لے کر اس کے نقش قدم کے منقطع (ختم) ہونے تک ناپا جاتا ہے۔ (اس کو نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے)

تشریح: اس حدیث پاک میں سفر جہاد میں مرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جب آدمی سفر میں مرتا ہے تو وہ جگہ جہاں پر اس کی موت آئی ہے سے لے کر اپنے وطن تک اس مسافت کے مابین جتنی جگہ ہے اتنی مقدار میں جگہ اس کو جنت میں ملے گی اور اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے مراد سفر جہاد ہے کوئی دنیاوی سفر مراد نہیں ہے۔

سفر جہاد بمنزلہ شہادت

۷/۱۳۹۳ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ۔

[رواه ابن ماجه]

اخرجه ابن ماجه في السنن ۵۱۵/۱ حديث رقم ۱۶۱۳۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا مسافرت کی موت (یعنی سفر کی حالت میں مرنا) شہادت ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے اگر کوئی سفر کی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو جہاد کے لیے سفر کرتا ہے اس کو بھی شہادت کا ثواب ملے گا۔

بیمار ہو کر مرنے پر شہادت کا ثواب

۷/۱۳۹۴ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا وَوُفِيَ قِسْمَةُ الْقَبْرِ وَعُدِي وَرِخَ عَلَيْهِ يَوْمُ قَبْرِهِ مِنَ الْجَنَّةِ۔ [رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الایمان]

اخرجه ابن ماجه في السنن ۵۱۵/۱ حديث رقم ۱۶۱۵۔ والبيهقي في شعب الایمان ۱۷۴/۷ حديث رقم ۹۸۹۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص بیمار ہو کر فوت ہو جائے وہ شہید مرتا ہے اور اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس کو جنت سے صبح و شام ہمیشہ روزی دی جاتی ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور ترمذی نے شعب الایمان میں۔

تشریح: اکثر نسخوں میں لفظ مریض ہی واقع ہوا ہے۔ جو کہ درست ہے اور بعض نسخوں میں تغیر کر کے غریباً لکھ دیا ہے۔ لیکن صحیح ابن ماجہ میں مرابطاً ہے۔ اس لیے میرک نے اپنے نسخہ کے حاشیہ میں صواب مرابطاً لکھا ہے پھر اس کے نیچے لکھا ہے:

کذا فی سنن ابن ماجہ فی باب ماجاء مریضاً مات شہیداً۔ پھر بعضوں نے مرض سے عام مرض مراد لیا ہے اور بعضوں نے خاص مرض مراد لیا ہے۔ یعنی استقاء واسہال وغیرہ۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ان قیودات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں راوی نے غلطی کی ہے حفاظ کے اتفاق کے ساتھ جیسے حدیث میں: من مات مرا بطاعنہ کے من مات مریضاً ہے۔

حدیث کا خلاصہ یہ ہے جو شخص بیماری کی حالت میں فوت ہو جائے۔ وہ شہیدوں میں سے اٹھایا جائے گا اللہ رب العزت اس کو قبر کے فتنے سے بچالیں گے اور اس کو صبح و شام اللہ پاک اپنے خزانوں میں سے روزی عطا فرمائیں گے۔

طاعون سے مرنے پر شہید کا حکم لگایا جائے گا

۷۳/۱۳۹۵ وَعَنِ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْتَصِمُ الشَّهْدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ فِي الَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنَ الطَّاعُونَ فَيَقُولُ الشَّهْدَاءُ إِخْوَانُنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مَاتْنَا فَيَقُولُ رَبَّنَا انْظُرُوا إِلَيْنَا جَرَّاحَتِهِمْ فَإِنْ أَشْبَهَتْ جَرَّاحَتَهُمْ جَرَّاحَ الْمُقْتُولِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ فَإِذَا جَرَّاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جَرَّاحَتَهُمْ۔

[رواہ احمد والنسائی]

اخرجه النسائی فی السنن ۳۷/۶ حدیث رقم ۳۱۶۴۔ واحمد فی المسند ۱۲۸/۴۔

ترجمہ: حضرت عرباض بن ساریہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شہید اور وہ لوگ جو اپنے بستروں پر فوت ہوئے یعنی وہ حقیقی شہید نہیں اپنے رب کے پاس ان لوگوں کے بارے میں جو طاعون (وبا) سے مرے ہیں جھگڑا کریں گے۔ شہید ان لوگوں کے بارے میں کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے مشابہ ہیں تو ان کو بھی مرتبے میں ہمارے برابر ہونا چاہیے۔ مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی قتل کیے گئے اور ہم بھی قتل کیے گئے۔ اور طبعی وفات پانے والے کہیں گے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں یہ بھی اپنے بچھونوں پر فوت ہوئے جیسا کہ ہم بچھونوں پر فوت ہوئے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے زخموں کی طرف دیکھو اگر ان کے زخم مقتولین (یعنی جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں) کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں تو وہ ان میں سے ہیں یعنی ثواب میں ان کے ساتھ ملتی ہیں۔ یعنی حشر و نشر میں ان کے ساتھ ہوں گے اچانک دیکھیں گے تو ان کے زخم ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں گے۔ امام احمد اور نسائی نے اس کو نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ شہداء حقیقی اللہ کے دربار میں جھگڑا کریں گے۔ کہ طاعون کی بیماری سے مرنے والے بھی ہمارے بھائی ہیں جس طرح ہم زخمی ہو کر کفار کے ہاتھ سے شہید ہوئے ویسے یہ بھی جنات کے ہاتھ سے زخمی ہو کر مرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کسی نے ان کو نیزہ مارا ہے۔ اس لیے طاعون طعن سے بمعنی نیزہ مارنے کے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو طاعون کی وبا سے مرے گا شہیدوں میں سے اٹھایا جائے گا۔

طاعون سے بھاگنے کی ممانعت اور جمرے کی فضیلت

۷۳/۱۳۹۶ وَعَنِ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّخْفِ

وَالصَّابِرُ فِيهِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ - [رواہ احمد]

اخرجه احمد فی المسند ۳۲۴/۳۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے طاعون کی بیماری سے بھاگنے والا ایسا ہے جیسا کہ کفار کی لڑائی سے بھاگنے والا اور اس میں صبر کرنے والے کو شہید کا ثواب ملے گا۔ اس کو احمد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں طاعون کی بیماری سے بھاگنے سے منع فرمایا گیا ہے اور فرمایا: طاعون سے بھاگنے والا ایسا ہے جیسے کہ لڑائی سے بھاگنے والا ہے۔ جو کفار کے مقابلے میں لڑی جا رہی ہے۔ اگر وہ کفار سے لڑتا ہوا مارا گیا تو وہ شہید ہے اسی طرح اگر وہ طاعون کی مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا تو وہ بھی شہید ہے اور حدیث کے ظاہر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس بیماری پر صبر کرنے والے کو بھی شہید کا ثواب ملے گا اگرچہ وہ اس بیماری سے نہ مرے۔ علامہ طبیبی کا کہنا ہے کہ اس کی مشابہت گناہ کبیرہ کے ساتھ ہے۔ اگر اس کا اعتقاد ہے کہ اگر وہ بھاگے گا نہیں تو ضرور مر جائے گا اور اگر بھاگے گا تو بچ جائے گا تو یہ کفر ہے۔

﴿﴾ بَابُ تَمَنِّي الْمَوْتِ وَذِكْرِهِ ﴿﴾

موت کی آرزو کرنے کے اور اس کو یاد کرنے کا بیان

موت کی آرزو کرنا دنیا کی تکلیف کی وجہ سے اور مرض اور محتاجی وغیرہ کی وجہ سے مکروہ ہے۔ اس لیے کہ یہ بے صبری کی علامت ہے اور تقدیر الہی پر راضی نہ ہونے کی نشانی ہے جبکہ محبت الہی اور دیدار الہی کے شوق کی وجہ سے اور دنیا فانی سے خلاصی اور آخرت کی زندگی سے محبت اور اس کی نعمتوں کو پانے کی خاطر موت کی آرزو کرنا یہ ایمان اور کمال ایمان کی مثال ہے اور اسی طرح دینی نقصان کے خوف کی وجہ سے یاد کرنا مکروہ نہیں ہے اور موت کو یاد کرنا کنایہ ہے کہ وہ خوف الہی رکھے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے اور توبہ واستغفار کرے اور آخرت کے نفع کو مقدم رکھے۔ ورنہ موت کو بغیر عمل کے یاد کرنا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ دل کی سختی کا باعث ہے جیسا کہ غفلت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں۔

الفصل الاول:

موت کی تمنا نہ کرو نیکیوں کی زیادتی درازی عمر کا باعث ہے

۱۷۹۷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتَبَ - [رواہ البخاری]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۲۷/۱۰۔ حدیث رقم ۵۶۷۳۔ والنسائی فی السنن ۲/۴ حدیث رقم ۱۸۱۸۔ والدارمی

۴۰۳/۲ حدیث رقم ۲۷۵۸۔ واحمد فی المسند ۲۶۳/۲۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے اگر نیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ

(درازی عمر کی وجہ سے نیکیوں میں زیادتی کرے) اور اگر بدکار ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہے اور لوگوں کے حقوق ادا کر کے۔ اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ موت کی تمنا ہرگز نہ کرو کیونکہ زندگی نیکیوں کے بڑھنے کا باعث بنتی ہے۔ اگر وہ نیکو کار ہوگا۔ تو اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اگر وہ برائی کرنے والا ہوگا تو ممکن ہے زندگی کے کسی حصہ میں اس کو توبہ کی توفیق مل جائے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے پر قادر ہو جائے۔ اس طرح عمر دراز اس کے لیے باعث رحمت بن جائے گی۔

اگر اس کی عمر کم ہوئی تو نہ نیکیوں کے بڑھنے کی گنجائش رہے گی اور نہ ہی توبہ کی توفیق مل سکے گی۔ اسی حکمت کے پیش نظر آپ ﷺ نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہو تو موت کی تمنا کرنا محمود و مطلوب ہے۔ جیسے بعض اولیائے کرام کے بارے میں آتا ہے۔ وہ لقاء اللہ کا شوق رکھتے تھے۔ تو ان کے حضرات کے نزدیک موت محبوب سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے کہا کرتے ہیں۔ الموت جسر یوصل الحبيب الی الحبيب۔ کیونکہ اس میں اصل مقصود تو محبوب سے ملاقات ہے۔ موت ایک واسطہ و ذریعہ ہے۔

موت کی تمنا صرف ایک حالت میں جائز ہے جب دین کا نقصان ہو رہا ہو اور اس کی حفاظت ناممکن ہو جائے۔

موت کی آرزو کرنا منع ہے

۲/۱۳۹۸ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّي أَحَدُكُمْ الْيَمُوتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ أَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا عَمُورًا۔ [رواه مسلم]

اخرجه مسلم فی صحيحه ۲۰۶۵/۴ حدیث رقم (۱۳-۲۶۸۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے اور نہ ہی موت آنے سے پہلے موت کی دعا کرے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی (زیادہ نیکی کرنے کی) امید منقطع (ختم) ہو جاتی ہے کیونکہ مومن کی زندگی کی زیادتی نیکیوں کے بڑھنے کا باعث بنتی ہے۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ تمنا نہ دل سے ہونے ہی زبان سے کیونکہ عمر کی برکت سے ہی انسان نیکی کر سکتا ہے۔ کیونکہ جب عمر ختم ہو جاتی ہے۔ تو نیکی کرنے کی امید بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ نیکیوں کے بڑھانے کا سبب ختم ہو چکا ہے۔ حدیث پاک میں عمر کے بارے میں وارد ہوا ہے: طوبی لمن طال عمره وحسن عمله۔ یعنی نیک بخت ہے وہ انسان جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں اور دوسری روایت میں ہے: اعمال کے لحاظ سے طبعی عمروں والے تم سے بہتر اور اچھے ہیں۔ مومن کے زندہ رہنے سے اس کے اعمال نامے میں نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ کیونکہ وہ مصائب پر صبر کرتا ہے اور نعمتوں کی قدر دانی کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ الغرض وہ آزمائش کے گھر میں اپنے مولیٰ کی اطاعت و شکر گزاری کرتا رہتا ہے اور صبر کرتا رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔

دنیا کی تکالیف پر موت مانگنے سے ممانعت

۳/۱۳۹۹ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضَرِّ أَصَابَةٍ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاغْلِظْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَلَّيْنِي إِذَا كَانَتِ الْوُفَاةُ خَيْرًا لِي۔

[مضيق عليه]

اخرجه البعاری فی صحیحہ ۱۲۸/۱۰۔ حدیث رقم ۵۶۷۱۔ ومسلم فی صحیحہ ۲۰۶۴/۴۔ حدیث رقم (۱۰)۔

۲۶۸۰) وابوداؤد فی السنن ۴۸۰/۳۔ حدیث رقم ۳۱۰۸۔ والترمذی ۳۰۲/۳۔ حدیث رقم ۹۷۱۔ والنسائی ۳/۴۔ حدیث

رقم ۱۸۲۱۔ وابن ماجہ ۱۴۲۵/۲۔ حدیث رقم ۴۲۶۵۔ واحمد فی المسند ۱۰۱/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ضرر (تکلیف) کی وجہ سے کوئی آدمی مرنے

کی تمنا نہ کرے۔ خواہ وہ تکلیف مالی ہو یا بدنی ہو۔ پس اگر اس کو ضروری موت کی آرزو (تمنا) کرنی ہے تو یہ دعا پڑھے:

اے اللہ! مجھے زندہ رکھ۔ جب تک میری زندگی بہتر ہو اور مجھے موت دے دے جب موت میرے لئے جیسے بے یعنی زندہ

رہنے سے بہتر ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں موت کی تمنا کرنے کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ امام نوویؒ نے فتویٰ دیا

ہے کہ فتنہ دینی کے خوف کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اور اسی لیے امام شافعیؒ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہما

اللہ سے موت کی تمنا کرنا منقول ہے اور خدا کی راہ میں شہادت کی آرزو کرنا بھی مستحب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شہادت کی

موت مانگنا ثابت ہے۔

حضرت حماد رضی اللہ عنہ نے طاعون کی حالت میں موت کی تمنا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ طاعون کی بیماری میں شہادت کی تمنا

کرنا مستحب ہے اور مسلم میں ہے جس نے صدقہ دل سے شہادت کی دعا مانگی اس کی دعا قبول کی جائے گی اور اس کو شہادت کا

ثواب ملے گا۔ اگرچہ اس کو شہادت نہ ملی ہو اور مدینہ منورہ کی موت کی آرزو کرنا بھی مستحب ہے۔ اس لیے کہ بخاری شریف میں

ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دعا کی تھی: اللہم ارزقنی شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك اور زندہ

رہنا مرنے سے بہتر ہے جب اطاعت و فرمانبرداری گناہوں سے زیادہ ہو اور زمانہ فتنہ سے خالی ہو اور جب معاملہ اس کے

بالکل برعکس ہو۔ یعنی گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں اور زمانہ فتنہ و آزمائش سے خالی نہ ہو۔ تو زندگی سے موت بہتر ہے۔ خلاصہ

حدیث کا یہ ہے کہ اس حدیث میں موت کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے کہ زیادہ تکالیف و امتحانات پر مبر کرنا چاہیے۔

موت کی تمنا نہ کرے۔ موت کی آرزو صرف شہادت میں مستحب ہے۔ یا آپ ﷺ کے مبارک شہر مدینہ منورہ کی موت کی اور آخر

میں ایک ضابطہ بیان فرمادیا کہ اگر زندگی میں گناہ بڑھ رہے ہیں تو موت بہتر ہے۔ اگر نیکیاں بڑھ رہی ہیں تو زندگی افضل ہے۔

نزع کے عالم میں ملاقات کی محبت

۳/۸۵۰۰ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَ مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ لَقَالَتْ عَائِشَةُ أَرْبَعُ أَزْوَاجٍ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ

لِقَاءَهُ وَ مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ لَقَالَتْ عَائِشَةُ أَرْبَعُ أَزْوَاجٍ إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ

وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرُضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَ- [متفق عليه وفي رواية عائشة والموت قبل لقاء الله]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۵۷/۱۱۔ حدیث رقم ۶۵۰۷۔ ومسلم فی صحیحہ ۲۰۶۵/۴۔ حدیث رقم (۲۶۸۴/۱۵) والترمذی فی السنن ۴۸۰/۴۔ حدیث رقم ۲۳۰۹۔ والنسائی ۱۰/۴۔ حدیث رقم ۱۸۳۸۔ والدارمی ۴۰۲/۲۔ حدیث رقم ۲۷۵۶۔ ومالك فی الموطأ ۲۴۰/۱۔ حدیث رقم ۵۰۔ من کتاب الجنائز واحمد فی المسند ۱۰۷/۳۔

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کو دوست رکھے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے اور جو اللہ کی ملاقات کو ناخوش رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناخوش رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا آپ ﷺ کی بیویوں میں سے کسی نے کہا کہ ہم مرنے کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ لیکن مومن کو جب موت آتی ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں۔ کوئی چیز دنیا اور زینت دنیا سے پیاری نہیں ہے۔ (محبوب نہیں ہے) اس چیز کی بہ نسبت جو اس کے آگے ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک مرتبہ اور بزرگی کے۔ پس مومن اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور تحقیق کافر کو جب موت آتی ہے تو اس کو خدا کے عذاب کی خبر دی جاتی ہے۔ یعنی اس کو قبر اور دوزخ کے عذاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اس کے نزدیک (یعنی کافر کے نزدیک) اس سے زیادہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہوتی۔ پس کافر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے یعنی اس کو اپنی رحمت سے اور مزید نعمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ (متفق علیہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ موت اللہ کی ملاقات سے پہلے ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں نزع کے عالم میں ملاقات کی محبت اور کراہیت ملاقات مراد ہے۔ خدا کی ملاقات سے مراد موت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ملاقات سے مراد موت نہیں ہے۔ بلکہ آخرت کے گھر کی طرف لوٹنا اور اس چیز کا طلب کرنا ہے جو اس کے پاس ہے۔ جو شخص دنیا کی طرف مائل نہ ہو اور نہ ہی دنیا کی زندگی پر راضی ہو اس نے دنیا کی زندگی کو ترک کر دیا اور ناپسند کیا اور اللہ کی ملاقات کو پسند کیا اور جس نے دنیا کی زندگی کو اختیار کیا اور اس کی طرف مائل ہوا اور اللہ کی ملاقات کو ناپسند کیا پھر خدا کی ملاقات کی محبت موت کی محبت کو لازم کرنے والی ہے۔ موت خدا کی ملاقات کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث سے یہی سمجھی تھیں کہ خدا کی ملاقات سے مراد موت ہے۔

حضور ﷺ نے اس کو بیان فرمایا کہ: لیس الا مر كذلك۔ معاملہ اس طرح نہیں ہے یعنی خدا کی ملاقات سے مراد موت نہیں ہے اور یہ جلت طبعی (یعنی فطری تقاضے کے مطابق نہیں ہے) اور نہ ہی اس کی تمنا کرنی چاہیے بلکہ جو شخص خدا کی محبت کا طالب ہوتا ہے اور اس سے ملاقات کا خواہشمند ہوتا ہے اور موت کا اثر طبیعت کے تقاضے کے مطابق پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا: وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ۔ موت سے پہلے اللہ کی ملاقات ممکن نہیں ہے بلکہ موت کے بعد ہے اس لیے کہ جو خدا کی ملاقات کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت میں موت کو پسند کرتا ہے۔ بغیر موت کے خدا کی ملاقات ممکن نہیں ہے۔ اس میں اس بات پر دلالت موجود ہے کہ ملاقات موت کے بعد ہے یعنی موت کا وجود پہلے ہوگا۔ پھر ملاقات ممکن ہوگی۔

موت انسان کی نجات کا ذریعہ ہے

۵/۱۵۰۱ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مُسْتَرْيِعٌ أَوْ مُسْتَرَاخٌ مِنْهُ فَقَالُوا بَارَسُوهُ اللَّهُ مَا الْمُسْتَرْيِعُ وَالْمُسْتَرَاخُ مِنْهُ فَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرْيِعُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرْيِعُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالْأَنْبَاءُ - [متفق عليه]

اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۳۶۲/۱۱ حدیث رقم ۶۵۱۲۔ و مسلم فی صحیحہ ۶۵۶/۲ حدیث رقم (۶۱-۹۵۰) والنسائی فی السنن ۴۸/۴ حدیث رقم ۱۹۳۰ و مالک فی الموطأ ۲۴۱/۱ حدیث رقم ۵۴ من کتاب الجنائز و احمد فی المسند ۲۹۶/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس جنازہ لایا گیا پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ راحت پانے والا ہے۔ یا اوروں (یعنی دوسروں) کو اس سے راحت ہوئی۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! راحت پانے والا کون ہے اور وہ کون ہے جس سے دوسروں کو راحت ہوئی۔ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ مومن بندہ مرنے کی وجہ سے دنیا کے غم اور تکلیفوں سے راحت پاتا ہے اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے اور فاجر بندہ یعنی گنہگار اس سے بندے شہر اور درخت اور تمام جانور اس کے شر سے راحت پاتے ہیں۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تفسیر: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی موت کی وجہ سے نجات حاصل کرتا ہے۔ اگر بندہ مومن ہے تو وہ دنیا کے مصائب و پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے دنیا کی ایذا سے مراد گرمی اور سردی ہے یا اہل دنیا کی ایذا ہے۔ مسروقؓ نے کہا ہے مجھے کسی چیز پر اتنا شک نہیں آتا جتنا مومن بندے پر آتا ہے کہ اس کو قبر میں امن کی زندگی نصیب ہوتی ہے اللہ کے عذاب سے نجات اور دنیا سے راحت پاتا ہے اور ابو داؤد کا کہنا ہے کہ میں موت کو اللہ کی ملاقات کی خاطر دوست رکھتا ہوں اور مرض کو گناہوں کے کفارے کی خاطر دوست رکھتا ہوں اور فقر کو عجز و انکسار کی خاطر پسند کرتا ہوں اور گنہگار بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بندے اس سے راحت (موت کے بعد) حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ دنیا میں چلتے پھرتے اکثر اوقات غیر شرعی باتیں کرتا تھا اور جب لوگ اس کو منع کرتے تو وہ ان کو تکلیف دیتا اگر خاموش رہتے تو اپنے دین و دنیا کو اس سے نقصان پہنچاتے۔ اب جب یہ مر گیا تو اس سے دوسرے انسانوں نے راحت پائی اور سب خدا کا شکر ادا کریں گے اچھا ہوا آنکھوں سے دور ہوا۔ اس نے تو ہماری ناک میں دم کر رکھا تھا۔ (مس)

اور شہروں وغیرہ نے بھی اس گنہگار بندے سے راحت پائی۔ کیونکہ یہ ہر وقت گناہوں میں مشغول رہتا تھا اور ظلم و زیادتی اس کا پیشہ تھا۔ اس کی وجہ سے دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے اور ارکان دین میں خلل پیدا ہوتا ہے اور خدا کی زمین پر سب سے زیادہ یہ ناپسندیدہ ہے اور اس کی نحوست کی وجہ سے زمین کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ آسمان سے زمین پر بارش نازل نہیں ہوتی۔ جب یہ مر گیا تو زمین پر بارش برسی اور زمین نے اس کی تکلیف سے راحت حاصل کر لی اور زمین پر کھیتیں سرسبز و شاداب ہو کر لہرانے لگیں اور جانوروں وغیرہ نے بھی اس سے راحت حاصل کی الغرض زمین اور زمین والوں کو بھی اس سے راحت حاصل ہو گئی۔

دُنیا کی حیثیت مسافر خانے کی طرح ہے

۶/۱۵۰۲ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحِّكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ - [رواه البخاری]

احرجہ البخاری فی صحیحہ ۲۲۹/۱۱۔ حدیث رقم ۶۴۱۴۔ والترمذی فی السنن ۴۹۰/۴۔ حدیث رقم ۲۳۳۳۔ وابن

ماجہ ۱۳۷۸/۲۔ حدیث رقم ۴۱۱۴۔ واحمد فی المسند ۲۴۱/۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے میرا (موٹھا) کندھا ہاتھ میں لے لیا کہ گاہ کرنے کے لئے پکڑا اور پھر فرمایا تو دنیا میں ایسے ہو جیسے مسافر ہے بلکہ راہ گزر یعنی راستے کو عبور کرنے والا اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر اور جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر اور اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان۔ اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ انسان کو دنیا میں مسافر کی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ متن کے اندر بِمَنْكِبِي کا لفظ جو گزرا ہے یہ مفرد میں حرف ی کے سکون کے ساتھ ہے اور ایک نسخہ میں حرف ی کی تشدید کے ساتھ مثنویہ ہے۔ اس حدیث میں انسان کو دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تم دنیا کی طرف رغبت نہ کرو۔ اس لیے کہ تم آخرت کی طرف سفر کرنے والے ہو اس کو اپنا وطن نہ بناؤ۔ اس کی لذتوں سے محبت نہ کرو۔ اور لوگوں سے یکسوئی اختیار کرو اور ان کے ساتھ اختلاط کم سے کم رکھو۔ اس لیے کہ تم ان سے جدا ہونے والے ہو اور اپنی زندگی کی بقا کا خیال چھوڑ دو اور ایسی چیز کے ساتھ تعلق رکھو جس کے ساتھ مسافر اکثر طور پر تعلق نہیں رکھا کرتے۔ جب مسافر اپنے وطن جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو راستے میں مشغول نہیں ہوتا۔ بلکہ گزرنے والے کا لفظ زیادہ مناسب ہے اس لیے کہ مسافر بھی تو شہروں میں سکونت اختیار کر لیتا ہے بخلاف گزرنے والے کے کہ وہ سکونت اختیار نہیں کرتا اور جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر اور جب صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کرے عمل کرنے میں جلدی کرو تاخیر نہ کرو۔ دن کے عمل کو رات تک مؤخر نہ کرو اور رات کے عمل کو دن تک مؤخر نہ کرو۔

غنیمتے مہر اے شیخ وصل پر دانہ ☆ کاین معاملہ تا صمد نمود ماند

اور ظاہر کلام اس طرح ہے کہ یہ اور مابعد کا کلام موقوفاً حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ہے لیکن اس کو احیاء العلوم میں مرفوعاً ذکر کیا

ہے۔

بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو یعنی تندرستی میں جس قدر عمل ہو سکے کرو۔ تاکہ بیماری میں تمہیں ویسا ہی ثواب ملے اگرچہ بیماری میں عمل نہیں کر سکے گا۔ اور زندگی کو غنیمت سمجھو یعنی اس میں عمل کرو۔ تاکہ تمہیں موت کے بعد اپنے کیے ہوئے اعمال حسنہ کا ثواب مل سکے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے: الدنیا مزرعة الآخرة۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو تم بوؤ گے وہی کاٹو گے۔

غنیمت دان جو انا دولت حسن و جوانی را ☆ نہ پنداری کہ ایام جوانی جاوداں باشد

اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان رکھنا

۱۵۰۳/۷۱۵۰۳ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ۔ [رواه مسلم]

اخرجه مسلم في صحيحه ۲۲۰۵/۴ حديث رقم (۲۸۷۷-۸۱)۔ و ابو داؤد في السنن ۴۸۴/۳ حديث رقم ۳۱۱۳۔ وابن ماجه ۱۳۹۵/۲ حديث رقم ۴۱۶۷۔ واحمد في المسند ۲۹۳/۳۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے آپ کی وفات سے تین دن پہلے سنا۔ نہ مرے تم میں سے کوئی۔ مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان رکھتے ہوئے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تفسیر: اس حدیث پاک میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ مومن آدمی کو خدا کی مغفرت و کرم کا امیدوار رہنا چاہیے اور خدا کے وعدے پر بھروسہ کرے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ سعادت مندی کی علامت یہ ہے کہ زندگی میں اس پر اللہ تعالیٰ کا خوف غالب ہو اور جب قریب المرگ ہو تو امید غالب ہو اور یہ بھی لکھا ہے کہ نیک گمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کرے۔ یعنی اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرو۔ تاکہ خدا کے ساتھ تمہارا گمان موت کے وقت اچھا ہو جائے اس لیے کہ جس کے عمل موت سے پہلے برے ہونگے۔ اس کا گمان بھی موت کے نزدیک برا ہوگا اور یہ بھی لکھا ہے کہ امید کی حقیقت یہ ہے کہ عمل کرے اور خدا پر امید کامل رکھے اور دنیا کی خدمت کرنے سے گریز کرے اور خدا ہی سے امید رکھے کہ وہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ جھوٹی امید ہرگز نہ رکھے جو اس کو عمل سے باز رکھے اور گناہوں کا سبب ہو۔ وہ امید نہیں ہوتی بلکہ آرزو اور غرور ہوتا ہے حسن بصری کا کہنا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے کہے کہ میں خدا پر اچھا گمان رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ جھوٹ کہتا ہے اگر اس کا گمان خدا پر اچھا ہوتا تو وہ ضرور نیک عمل کرتا۔

اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے قیامت کے دن ملاقات کے بارے میں سوال

۱۵۰۴/۸۱۵۰۴ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَيْئًا أَنْبَأْتُكُمْ مَا أَوَّلُ مَا يَقُولُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا أَوَّلُ مَا يَقُولُونَ لَهُ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ هَلْ أَحْبَبْتُمْ لِقَائِي فَيَقُولُونَ نَعَمْ يَا رَبَّنَا فَيَقُولُ لِمَ فَيَقُولُونَ رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرَتَكَ فَيَقُولُ قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِي۔

[رواه في شرح السنه و ابو نعيم في الحلية]

اخرجه احمد في المسند ۲۳۸/۵۔

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں تم کو خیر دوں اس چیز کی کہ سب سے پہلے اللہ قیامت کے دن لوگوں سے کیا فرمائے گا اور اس چیز کی کہ مومن اللہ رب العزت کو کیا کہیں گے۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! جی ہاں بتائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تحقیق اللہ تعالیٰ مومنوں کو فرمائیں گے کہ کیا تم میری ملاقات کو دوست رکھتے تھے؟ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب! اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری ملاقات کو کیوں پسند کیا؟ وہ کہیں گے ہم آپ سے درگزر کرنے کی امید رکھتے تھے اور آپ سے بخشش کی امید رکھتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا

میری بخشش تمہارے لیے ثابت ہو چکی ہے اس کو شرح السنہ میں نقل کیا ہے اور ابو نعیم نے حلیہ میں ذکر کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے قیامت کے دن سوال کریں گے کہ تم کس وجہ سے میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ مؤمن عرض کریں گے یا الہی ہم تیری رحمت کے اور اپنے گناہوں کی بخشش کے امیدوار تھے اور بخشش کی امید رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تحقیق میری مغفرت تم پر واجب ہو چکی ہے۔ اس حدیث کا فائدہ بیان کرتے ہوئے نواب صاحب نے فرمایا کہ یہ بھی احتمال موجود ہے کہ ملاقات سے مراد آخرت کے گھر کی طرف رجوع کرنا مراد ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ ملاقات اور رویت باری تعالیٰ مراد ہو۔ ابن ملک نے لفظ کہے: لای سبب اذنبتم۔ یعنی تم گناہ کئے تھے اور صحیح یہ ہے کہ احببتم لقائی۔ تم نے میری ملاقات کو کیوں پسند کیا۔

موت کو کثرت سے یاد کرو

۹/۱۵۰۵ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبُّونَ مَا ذُكِرَ هَذِهِ اللَّذَاتِ الْمَوْتُ۔

[رواه الترمذی والنسائی وابن ماجہ]

اخرجه الترمذی فی السنن ۴۷۹/۴ حدیث رقم ۲۳۰۷۔ والنسائی ۴/۴ حدیث رقم ۱۸۲۴۔ وابن ماجہ ۱۴۲۲/۲

حدیث رقم ۴۲۵۸۔ واحمد فی المسند ۲۹۳/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس کو امام ترمذی نسائی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں موت کو یاد کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کیونکہ یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے اور موت کو یاد کرنے سے غفلت دور ہو جاتی ہے اور انسان دنیا میں مشغول رہنے سے رکا رہتا ہے اور اطاعت خداوندی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو کہ آخرت کا توشہ ہے اور امام نسائی نے یہ الفاظ بھی زیادہ کئے ہیں: فانہ لا یذکر کثیر الا قللہ ولا فی قلیل الا کثرہ۔ یعنی مالدار کی حالت میں موت یاد نہیں آتی اگر مالدار کی حالت میں موت یاد آئے تو زیادہ مال تھوڑا معلوم ہونے لگتا ہے مال سے بے رغبتی اور اس کے فانی ہونے کی وجہ سے وہ مال میں کمی محسوس نہیں کرتا۔ بلکہ اس کو زیادہ سمجھتا ہے جب دنیا کو فانی جانتا ہے تو تھوڑے مال پر قناعت کرتا ہے اور اسی پر ہی مبر و شکر کر کے اس مال کو کافی سمجھتا ہے۔

حقیقت حیا

۱۰/۱۵۰۶ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ اسْتَخِيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالُوا إِنَّا نَسْتَخِي مِنْ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنْ مَنِ اسْتَخَى مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَخَى مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ۔ [رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب]

اخرجه الترمذی فی السنن ۵۵۰/۴ حدیث رقم ۲۴۵۷۔ واحمد فی المسند ۳۸۷/۱۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک دن اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کا حق ہے۔ یعنی جس طرح واجب اور لائق ہے اور اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں اے اللہ کے نبی! ہم اللہ کے اوامر و نواہی بجالاتے ہیں اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس بات پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ صرف کہنے سے حیا نہیں ہوتی کہ ہم حیا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ حیا کا حق یہ ہے کہ سر اور سرین کی حفاظت کرے اور چاہیے کہ پیٹ کی حفاظت کرے اور جو پیٹ نے جمع کیا ہے اور چاہیے کہ وہ یاد کرے موت اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کو اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے۔ پس تحقیق جس نے یہ مذکورہ کام کیا۔ اس نے اللہ سے حیا کی جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ اس کو امام احمد نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اپنے سر کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرو۔ یعنی اپنے سر کو غیر اللہ کے سامنے مت جھکاؤ اور نہ لوگوں کے دکھانے کے لیے نماز پڑھو اور نہ کسی کو جھک جھک کر سلام مت کرو۔ یہ بہت برا ہے اور اپنے سر کو ازراہ تکبر بلند نہ کرو اور سر کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اپنے ناک، کان، زبان کو گناہوں سے بچا۔ کہ زبان سے غیبت اور جھوٹ نہ بولے اور آنکھ سے ناحرم اور گناہ کی چیزیں نہ دیکھے بلکہ بد نظری سے بچے اور ناحرم کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو پست کرے۔ تاکہ گناہ کبیرہ سے بچ جائے اور کان کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ کانوں سے غیبت اور جھوٹی کہانیاں نہ سنے۔

اور پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ حرام اور مشتبہ چیزوں سے اپنا پیٹ نہ بھرے اور وہ چیزیں جن کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے۔ ان کو گناہوں سے بچائے جیسے ستر ہاتھ اور دل۔ ستر سے حرام کاری نہ کرے۔ یعنی زنا میں مبتلا نہ ہو اور پاؤں سے گناہوں کے مقامات پر چل کر نہ جائے۔ ناچ گانے تماشے کی جگہوں سے بچے اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ حدیث پاک پر پورا پورا عمل کرے۔ جیسے کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور چوری بھی نہ کرے ناحرم کو ہاتھ نہ لگائے اور دل میں برا عقیدہ نہ رکھے۔ بلکہ اس سے بچے اور خدا کے علاوہ کسی کو یاد نہ کرے اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے سے ڈرے کہ ایک دن ہمیں قبر کے پیٹ میں جانا ہے ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور جو شخص دنیا کو فانی سمجھتا ہے وہ اس کی لذات و شہوات کو چھوڑ دیتا ہے اور جو شخص آخرت کی نعمتوں کو چاہتا ہے وہ دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں پوری پوری ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ یہاں تک کہ اولیاء کے اندر بھی نہیں۔

اور امام نووی کا کہنا ہے کہ اس حدیث کا کثرت سے بیان کرنا مستحب ہے کیونکہ اس کے ذکر سے دنیا و مافیہا سے نفرت اور آخرت کی فکر و رغبت نصیب ہوتی ہے۔

مؤمن کے لیے موت باعث نعمت ہے

۱۱۵۰۷/ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْقُقَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ۔

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

اخرجه البيهقي في شعب الايمان ١٧١/٧ حديث رقم ٩٨٨٤۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ موت مؤمن کا تحفہ ہے اس کو بیہقی نے شعب الايمان میں نقل کیا

ہے۔

تشریح: حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مؤمن آدمی کے لیے موت بطور سبب اور ذریعہ کے ہے کیونکہ اپنے ایمان و عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ موت اس کے لیے سبب اور ذریعہ بن جائے گی۔ جس کی وجہ سے وہ اپنے اعمال کا ثواب آخرت میں پائے گا۔

موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا مؤمن کے لیے رحمت ہے

۱۳/۱۵۰۸ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْتُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ .

[رواه الترمذی النسائی وابن ماجہ]

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۱۰/۳ حدیث رقم ۹۸۲۔ والنسائی ۶/۴ حدیث رقم ۱۸۲۹ وابن ماجہ ۴۶۷/۱ حدیث رقم

۱۴۵۲۔ واحمد فی المسند ۳۵۷/۵۔

ترجمہ: حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ مؤمن کو پیشانی کے پسینے کے ساتھ موت آتی ہے۔ اس کو امام ترمذی ابن ماجہ اور نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا نزع کی شدت سے کنایہ ہے۔ اس کی وجہ سے گناہ چھڑتے ہیں اور درجے بلند ہوتے ہیں اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ مشقت سے کنایہ ہے کہ مؤمن طلب حلال میں مشقت اٹھاتا ہے اور ہمیشہ عبادت میں ریاضت کرتا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے موت کی وجہ سے مؤمن آدمی پر سوائے پیشانی پر پسینہ آنے کے کوئی مشقت اور شدت نہیں آتی۔

۱۳/۱۵۰۹ وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتُ الْفَجَاءَةِ اخْذَةُ الْأَسَفِ .

[رواه ابو داود وزاد البيهقي في شعب الايمان ورزين في كتابه اخذة الاسف للكافور رحمة للمؤمن]

اخرجه ابو داود في السنن ۴۸۱/۳ حدیث رقم ۳۱۱۰ واحمد فی المسند ۴۲۴/۳۔

ترجمہ: حضرت عبید اللہ بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ناگہانی (اچانک) مرنا غضب کی پکڑ (یعنی غصے سے پکڑنا) ہے اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور بیہقی نے شعب الايمان میں اور زرین نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ غضب کا پکڑنا کافر کے لیے ہے اور مؤمن کے لیے رحمت ہے۔

تشریح: اخذَةُ الْأَسَفِ: شدید غم کو کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں اس سے مراد اچانک موت ہے۔ اچانک موت کا آنا خدا کی ناراضگی کی نشانی ہے اور اس میں انسان کے لیے مہلت ہے۔ تاکہ وہ سفر آخرت کی تیاری کرے۔ یعنی توبہ اور اعمال صالحہ اختیار کرے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ بات کافروں کے لیے ہے اور یہ ان کے لیے اس لیے ہے کہ وہ راہ راست پر نہیں ہیں۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ اچانک موت کا آنا نیکو کاروں کے لیے نیک ہے اور برے آدمیوں کے لیے برا ہے۔

نزع کے وقت بندہ مؤمن کی قلبی کیفیت

۱۵۱/۱۴ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَابٍ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ أَرْجُو اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ عَبْدٌ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطَنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِنَّا بِخَافٍ۔

[رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حديث غريب]

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۱۱/۳ حدیث رقم ۹۸۳۔ وابن ماجہ ۱۴۲۳/۲ حدیث رقم ۴۲۶۱۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک جوان کے پاس تشریف لائے اس حالت میں کہ وہ جوان نزع کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ آپ ﷺ نے پوچھا تو اپنے آپ کو اس وقت کس طرح پاتا ہے؟ آیا تو خدا کی رحمت کی امید رکھتا ہے یا اس کے غضب سے ڈر رہا ہے کہ میں اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہوں اور اس کے باوجود میں اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بندے کے دل میں (اس وقت) دو چیزیں جمع نہیں ہوتیں۔ مگر اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا کر دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے یعنی رحمت اور امن دے دیتا ہے اس چیز سے کہ جس چیز سے وہ ڈرتا ہے یعنی عذاب سے۔ اس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں ایک نو جوان کا واقعہ بیان کر کے مؤمن آدمی کی نزع کے وقت قلبی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ بندہ مؤمن عین نزع کی حالت میں اللہ سے رحمت کا امیدوار بھی ہوتا ہے اور اس کے غضب سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے حدیث میں ہذا الموطن مراد سکرات الموت ہے یا اس وقت سے وہ حالت مراد ہے کہ آدمی حکماً موت کے کنارہ پر ہو۔ جیسے قتال کے وقت کہ انسان لڑائی کے وقت عین موت کے کنارہ پر ہوتا ہے اور اسی طرح قصاص کے وقت موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہوتی ہے۔

الفصل الثالث:

موت کی تمنا کرنا منع ہے

۱۵۱/۱۵ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمَنَّوْا الْمَوْتَ فَإِنَّ هَوَلَ الْمُطَّلَعِ شَدِيدٌ وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولَ عُمُرُ الْعَبْدِ وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا نَابَهُ۔ [رواه احمد]

اخرجه احمد فی المسند ۳۳۲/۳۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مرنے کی آرزو (تمنا) نہ کرو۔ کہ جانکی (جان نکلے) کا وقت سخت ہے اور تحقیق نیک بختی (خوش قسمتی) ہے کہ بندے کی عمر دراز (لمبی) ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی طرف رجوع نصیب فرمائے۔ (احمد)

تشریح: اس حدیث پاک میں موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ مطلع کہتے ہیں بلند جگہ پر چڑھ کر کسی چیز کو دیکھنا اور مطلع سے مراد یہاں سکرات الموت اور اس کے شہادت ہیں۔ موت سے قبل اس میں آدمی گرفتار ہو جاتا ہے۔ حدیث کا

خلاصہ یہ ہے کہ موت کی تمنا کرنا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ بندہ جو اکثر طور پر موت کی تمنا کرتا ہے بے صبری، غم، تنگی دلی کی بنا پر کرتا ہے دنیا کے مصائب و پریشانیوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو موت کے وقت تکلیفیں اور دلی تنگی زیادہ ہوگی۔ بلکہ اس موقع پر تو غضب الہی کا بھی مستحق ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے موت کی تمنا کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ بے صبری اور تنگ دلی کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا منع ہے۔

اگر موت کی تمنا دیدار الہی کے شوق اور آخرت سے محبت کی بنا پر ہو تو جائز ہے۔ دوسری وجہ سے اس لیے منع ہے کہ دنیا چند روز کی زندگی ہے اور موت خود بخود آنے والی ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے: الدنيا مزرعة الاخرة۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اگر یہاں بوئے گا تو آخرت میں کانٹے گا۔

فکرِ آخرت پر آپ ﷺ کا وعظ

۱۹/۱۵۱۲ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ جَلَسْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا وَرَقْنَا فَبَكَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَاسْتَفْهَمَ الْبُكَاءَ فَقَالَ يَا لَيْتَنِي مِثُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَعْدُ أَعِنْدِي تَمَنَّى الْمَوْتِ فَرَدَّدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ إِنْ كُنْتَ خُلِفْتَ لِلْجَنَّةِ فَمَا طَالَ عُمْرُكَ وَحَسُنَ مِنْ عَمَلِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ [رواه احمد]

اخرجه احمد في المسند ۲۶۷/۵

ترجمہ: حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے۔ پس آپ ﷺ نے ہمیں نصیحت کی اور ہمارے دلوں کو فکرِ آخرت پر وعظ کر کے نرم کیا۔ پس سعد بن ابی وقاصؓ بہت روئے۔ پھر فرمایا کاش کہ میں لڑکپن (جوانی) میں مر جاتا اور گنہگار نہ ہوتا اور آخرت کے عذاب سے نجات پالیتا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد! کیا تو میرے سامنے مرنے کی تمنا کرتا ہے پھر اس کو تین بار دہرایا۔ پھر فرمایا اے سعد اگر تمہیں اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے تو جس قدر تمہاری عمر لمبی ہوگی اور تمہارے اعمال بھی اچھے ہوں گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ (احمد)

تفسیر: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو موت کی آرزو کرنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا میرے ہوتے ہوئے موت کی آرزو کرنا کسی بھی طرح بہتر نہیں ہے۔ کیونکہ میرے جمال باکمال کا نظارہ کرنا اور میری محبت کا شرف حاصل کرنا تمہارے لیے ہر نعمت سے بہتر ہے۔ تو پھر تم کیونکر موت کی تمنا کرتے ہو۔ اگرچہ تمہیں مرنے کے بعد درجات اور نعمتیں حاصل ہوں۔

الغرض میرے چہرہ مبارک کی طرف دیکھنے کو کوئی نعمت نہیں پہنچ سکتی کہ یہ دنیا میں ایک نقد جنت ہے ایک درویش سے کسی نے پوچھا کہ مؤمن کو جینا بہتر ہے یا مرنے؟

اس نے کہا زمانہ نبوت میں جینا بہتر تھا اور اب اس کے بعد یعنی آپ ﷺ کی وفات کے بعد مرننا بہتر ہے اور آخری جملے کے بعد تردید کی شق محذوف ہے وہ یہ کہ: وان كنت خلقت للنار فلا خير في موتك ولا يحسن الا سراة الیہ۔ یعنی اگر تو آگ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو مرنے میں کوئی خیر نہیں ہے اور تیرا موت کے لیے جلدی کرنا بھی اچھا نہیں ہے یعنی

تیرے حق میں بہتر نہیں ہے۔

حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا اپنی مالی حالت کو بیان کرنا

۱۷/۱۵۱۳ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ وَكَدِ التَّوَلَّى سَبْعًا فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَمَنَّي أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لَعَمْرِي لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَمْلِكُ دِرْهَمًا وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِي الْآنَ لَأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ ثُمَّ أُنِى بِكَفِّهِ فَلَمَّا رَأَاهُ بَكَى وَقَالَ لَكِنْ حِمَزَةٌ لَمْ يُوْجَدْ لَهُ كَفَنٌ إِلَّا بِرُدَّةٍ مَلْحَاءُ إِذَا جُعِلْتُ عَلَى رَأْسِهِ فَلَصْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَإِذَا جُعِلْتُ عَلَى قَدَمَيْهِ فَلَصْتُ عَنْ رَأْسِهِ حَتَّى مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ إِلَّا ذِيحَرَ۔

[رواه احمد والترمذی إلا أنه لم يذكر ثم أتى بكففيه إلى آخره]

اخرجه احمد في المسند ۱۱/۱۵

ترجمہ: حضرت حارثہ بن مضربؓ سے روایت ہے کہ میں حضرت خبابؓ کے پاس اس حال میں گیا کہ ان کے بدن پر سات جگہ داغ تھے کہنے لگے اگر میں نے نبی کریم ﷺ سے نہ سنا ہوتا کہ کوئی تم میں سے مرے کی آرزو نہ کرے البتہ میں اس کی آرزو کرتا اور ایک وقت تھا کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس تھا۔ کہ میں ایک درہم کا بھی مالک نہیں تھا اور اب میرے گھر میں چالیس ہزار درہم ہیں پھر حضرت خبابؓ کے پاس کفن لایا گیا۔ بڑائیس کفن تھا۔ پس کفن کو دیکھ کر رونے لگے اور فرمانے لگے۔ اگرچہ ایسا کفن جائز ہے لیکن حمزہؓ کا کفن صرف سیاہ سفید خطوں والی چادر تھی۔ جس وقت آپ کے سر پر ڈالی جاتی۔ تو آپ کے قدم ننگے ہو جاتے اور جس وقت قدموں پر ڈالی جاتی تو سر پر کم رہ جاتی یہاں تک کہ چادر کو کھینچ کر ان کے سر پر کر دیا گیا اور پاؤں پر آخر گھاس رکھ دی گئی۔ اس کو امام احمد اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔ لیکن ترمذی نے ثم اتیٰ بكففيه آخر تک ذکر نہیں کیا۔

تشریح: اس حدیث پاک میں حضرت خبابؓ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت خباب بن ارت صحابی قدیم الاسلام ہیں۔ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کی وجہ سے سب سے پہلے ان کو تکالیف پہنچائی گئیں۔ جنگ بدر میں حاضر ہوئے اور اکثر جنگوں میں شرکت کی۔ بدن پر داغ لگوانے سے منع بھی کیا گیا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ منع اس لیے ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ یہ بطور سبب کے ہے اور اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا نہی اس بات پر محمول ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور حضرت خبابؓ نے شدید مرض سے بے قرار ہو کر موت کی تمنا کی تھی۔ یا بالمداری کے خوف کی وجہ سے کہ ان کی وجہ سے میں قیامت کے دن گرفتار نہ ہو جاؤں۔ دوسری بات زیادہ بہتر ہے کیونکہ مابعد کا جملہ اس کا ہی مؤید ہے جیسے ولقد رأتی الخ۔ حضرت حمزہؓ، حضرت عبدالمطلب کے بیٹے تھے ان کو سید الشہداء کا لقب ملا اور نبی کریم ﷺ کے چچا تھے اتنا قریبی رشتہ ہونے کی بنا پر بھی تکفین کے وقت حالت یہ تھی کہ کفن بھی پورا نہیں تھا۔ اگر سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے اور اگر پاؤں کی طرف کھینچتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ تو پھر آپ کے پاؤں پر آخر گھاس رکھ دی گئی یا آخر گھاس سے ڈھانپ دیا گیا۔

اذخر ایک خوشبودار گھاس ہے جس کو چھتوں پر بچھاتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فقیر صابر غنی شاکر سے یعنی مالدار شکرگزاری کرنے والے سے بہتر ہے۔ اس لیے ایک بڑے صحابی نے اپنی حالت کا اظہار افسوس کیا۔

بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ

یہ باب اُس شخص کے پاس پڑھنے کے بیان میں ہے جس کو موت حاضر ہو جائے علماء نے لکھا ہے کہ موت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ پاؤں ست ہو جاتے ہیں ان کے اندر بالکل طاقت نہیں رہتی۔ اگر کھڑے کرنا چاہیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے اور ناک کا بانساڑ جاتا ہے اور کن پٹیاں اندر کو دھنس جاتی ہیں اور خصیتیں کا گوشت لٹک جاتا ہے اور جو چیزیں میت کے پاس پڑھی جائیں ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں: ﴿۱﴾ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا۔ ﴿۲﴾ انا للہ پڑھنا۔ ﴿۳﴾ دعائے خیر کرنا اور ﴿۴﴾ سورۃ یٰسین کا پڑھنا یا اس کے مثل کوئی اور چیز جس کا تذکرہ حدیثوں کے اندر موجود ہے۔

الفصل الاول:

قریب المرگ کے لیے کلمہ طیبہ کی تلقین

۱/۱۵۱۳ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ مُرَيْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - [رواه مسلم]

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۶۳۱/۲ حدیث رقم (۹۱۶/۱)۔ و ابو داؤد فی السنن ۴۸۷/۳ حدیث رقم ۳۱۱۷۔ و الترمذی فی السنن ۳۰۶/۳ حدیث رقم ۹۷۶۔ و النسائی ۵/۴ حدیث رقم ۱۸۲۶۔ و ابن ماجہ ۴۶۴/۱ حدیث رقم ۱۴۴۵۔ و احمد فی المسند ۳/۳۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو اشخاص مرنے کے قریب ہوں۔ ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہو تو اس کے پاس کلمہ طیبہ پڑھا جائے تاکہ وہ سن کر پڑھنا شروع کر دے۔ تلقین کے معنی سمجھانا اور یہاں مراد پڑھنا ہے کہ قریب المرگ کے پاس پڑھے اور جمہور علماء کے نزدیک تلقین کرنا مستحب ہے۔

مریض یا میت کے پاس حاضری کے وقت اچھی دعا کرنا

۲/ ۱۵۱۵ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمُنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ - [رواه مسلم]

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۶۳۳/۲ حدیث رقم (۶-۹۱۹)۔ وابوداؤد فی السنن ۴۸۶/۳ حدیث رقم ۴۱۱۵۔ والترمذی فی السنن ۳۰۷/۳ حدیث رقم ۹۷۷۔ والنسائی ۴/۴ حدیث رقم ۱۸۲۵۔ وابن ماجہ ۴۶۵/۱ حدیث رقم ۱۴۴۷۔ واحمد فی المسند ۳۰۶/۶۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت تم مریض کے پاس یا قریب الموت کے پاس حاضر ہو تو اس کے لیے بھلائی کی بات کہو۔ اس لیے کہ فرشتے تمہارے کہنے پر آمین کہتے ہیں۔ یعنی تم جو بھلی (اچھی) دعا کرو یا پری دعا کرو۔ اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کو مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں مریض یا میت کے پاس حاضر ہو کر دعا کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب تم ان کے لئے اچھی یا پری دعا کرو گے تو فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ میت دو حال سے خالی نہیں ہوگی۔ یا تو میت حکمی ہو گی جیسے قریب المرگ شخص یا حقیقی ہوگی۔ اگر عبارت سے میت حکمی مراد ہے۔ تو یہ شک راوی ہے اور اگر میت حقیقی مراد ہے۔ تو یہ تنویج کے لیے ہے اور فَقُولُوا خَيْرًا کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے اچھے کلمات کہو۔ اپنے لیے اچھی دعا کرو اور بیمار کے لیے شفا کی دعا کرو اور میت کے لیے مغفرت مانگو یہ بہترین طریقہ ہے۔

مصیبت پر صبر کرنے کا اچھا بدلہ

۳/۱۵۱۲ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ إِنْ أَلَّ اللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ اللَّهُمَّ اجْزِنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوَّلَ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ [روہ مسلم]

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۶۳۱/۲ حدیث رقم (۳-۹۱۸)۔ وابوداؤد فی السنن ۴۸۸/۳ حدیث رقم ۳۱۱۹۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو حوڑی ہو یا زیادہ پس اس کو وہ چیز پڑھنی چاہئے کہ جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے یعنی یوں کہنا چاہیے: اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاغِبُونَ۔ یا اللہ! میری مصیبت کی وجہ سے مجھے ثواب عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر بدلہ دے جو چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں پس جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو میں نے کہا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کون مسلمان بہتر ہوگا کہ وہ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے خاندان کو لے کر نبی کریم ﷺ کی طرف ہجرت کی۔ پھر میں نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ مجھے ابو سلمہ کے عوض (بدلے) نبی کریم ﷺ عطا کیے۔ یعنی حضور ﷺ کے نکاح میں آئی۔

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاغِبُونَ کا معنی یہ ہے کہ ہم اور جو چیز اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے وہ سب خدا کی ملک ہے اور ہم اسی خداوند کریم کی طرف لوٹنے والے ہیں پس اس آیت میں تسلیم و اقرار ہے کہ ہم اور جو چیزیں ہماری ملک میں ہیں اور جو چیزیں ہماری طرف منسوب ہیں یہ سب عاریتاً ہیں۔ مالک حقیقی اور خالق حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی کی طرف ہماری ابتداء اور انتہا ہے۔ جب انسان اپنے قلب و دماغ میں یہ مضمون جمالے

تو مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور الفاظ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ جزع فزع بھی کرتا ہے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اس کے پڑھنے کا حکم کہاں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصیبت کے وقت کلمہ استرجاع پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور دوسرا یہ کہ حدیث پاک میں پڑھنے والے کی فضیلت بیان فرمائی ہے گویا کہ یہ حکم ہی ہے۔

لفظ اجرنی امزہ کے زبر کے ساتھ اور جیم کے پیش کے ساتھ اور امزہ کے زبر کے ساتھ اور جیم کے زیر کے ساتھ منقول ہے دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ جب ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے یہ حدیث نبی ﷺ سے سن رکھی تھی جب ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے سامنے وفات پائی تو میں حضور ﷺ کا حکم بجالانے کے لیے اور فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یہی کلمات پڑھنا چاہے لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو میرا خاوند بن سکتا ہے؟ اس کے بعد ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی۔ کہ ابوسلمہ رضی اللہ عنہ ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے عیال سمیت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ حضور ﷺ کے دودھ شریک رضاعی بھائی تھے اور حضور ﷺ کے پھوپھی کے بیٹے بھی تھے پھر اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس خلیجان کے باوجود میں نے یہی کلمات پڑھے۔ اس کی وجہ سے میں حضور کے نکاح میں آئی جو کہ سید البشر ہیں۔

حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ

۴/۱۵۱۷/ وَعَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَصَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا تَذْعُوا عَلَيَّ أَنْفُسَكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهْدِيَيْنِ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَائِبِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَتَوَرَّ لَهُ فَيُودٍ [رواه مسلم]

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۶۳۴۱۲ حدیث رقم (۷-۹۲۰)۔ وابدأؤد فی السنن ۴۸۷/۳ حدیث رقم ۳۱۱۸۔ وابن ماجہ

۴۶۷/۱ حدیث رقم ۱۴۵۴۔

ترجمہ: انہیں سے روایت ہے یعنی اُم سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ ابوسلمہ رضی اللہ عنہ پر اس حال میں داخل ہوئے کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ پس آپ ﷺ نے ان کی آنکھوں کو بند کیا اور پھر فرمایا۔ جب روح قبض کی جاتی ہے تو بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان کے اہل و عیال ان کی وفات پر رونے لگے۔ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اپنے نفسوں کے خلاف دعا نہ کرو مگر بھلائی کے ساتھ یعنی واویلا اور بددعا نہ کرو۔ اس لیے کہ فرشتے تمہارے کہنے پر آمین کہتے ہیں۔ خواہ تمہاری دعا بھلی ہو یا بری۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا یا اہل ابوسلمہ کی بخشش فرما اور اس کا درجہ بلند کروے ہدایت یا فتوں کے درمیان اور پس ماندوں (یعنی پیچھے رہنے والوں) کا کارساز ہو جا۔ اے جہانوں کے پروردگار ہماری بخشش فرما اور اس کی قبر کشادہ کر دے اور روشن کر دے۔ اس کو مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو جسم کا ہر حصہ بے جان ہو جاتا ہے حتیٰ کہ آنکھوں سے بینائی بھی چلی جاتی ہے جب بینائی چلی گئی۔ تو آنکھیں کھلی رہنے دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے روح نکلنے کے بعد آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ الغرض روح کا نکلنا آنکھیں بند کرنے کی علت ہے۔

وصال کے بعد آپ ﷺ پر یمنی چادر کا ڈالنا

۵/۱۵۱۸ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَوَفَّيْتُ سَجَّيَ بِرُودٍ حَبْرَةٍ - [متفق علیہ]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱۳/۳ - حدیث رقم ۱۲۴۱ - و مسلم فی صحیحہ ۶۵۱/۲ - حدیث رقم (۴۸ - ۹۴۲) -
وابوداؤد فی السنن ۴۸۹/۳ - حدیث رقم ۳۱۲۰ - واحمد فی المسند ۱۵۳/۶ -

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کی وفات ہوئی تو آپ ﷺ پر یمنی چادر ڈالی گئی۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کے دنیا فانی سے رحلت فرمانے کے بعد آپ ﷺ پر یمنی چادر ڈال دی گئی۔

الفصل الثانی:

۶/۱۵۱۹ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ -

[رواه ابو داود]

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۸۶/۳ - حدیث رقم ۳۱۱۶ -

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس کی آخری کلام لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو آخری وقت میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھے گا جنت میں داخل ہوگا۔ یا تو عذاب سے پہلے دخول خاص ہوگا یا گناہوں پر عذاب دیئے جانے کے بعد جنت میں دخول ہوگا اور پہلا قول زیادہ ظاہر ہے۔ تاکہ یہ دوسرے مؤمنین سے ممتاز ہو سکے جن کا آخری کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نہ تھا۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ کلمہ زبان سے کہے یا دل سے کہے ثواب ملے گا اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دل و زبان سے کہنا افضل ہے۔

قریب المرگ کے پاس سورہ یسین پڑھنا

۷/۱۵۲۰ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ بَسَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُوا سُورَةَ يَسِينَ عَلَى مَوْتَاكُمْ -

[رواه احمد و ابو داود وابن ماجہ]

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۸۹/۳ - حدیث رقم ۳۱۲۱ - وابن ماجہ ۴۶۶/۱ - حدیث رقم ۱۴۲۸ - واحمد فی المسند ۲۶۶/۵ -

ترجمہ: حضرت معاذ بن بشارؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا سورہ یسین اپنے مردوں پر پڑھو۔ اس کو ابو داؤد احمد اور ابن ماجہ نے نقل کیا۔

تشریح: اس حدیث پاک میں قریب المرگ شخص کے نزدیک سورہ یسین پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہاں مردوں سے مراد قریب المرگ ہے۔ شاید اس کے پڑھنے میں یہ حکمت ہے کہ قریب المرگ شخص سورہ یسین کے پڑھنے سے یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور احوال قیامت اور بعث بعد الموت۔ دعوت کی کیفیت۔ توحید کا اثبات سابقہ امتوں کے حالات۔ حساب اور جزا وغیرہ

سے لذت حاصل کرے۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے حقیقی مردے مراد ہوں۔ دفن سے پہلے ان کے گھروں میں پڑھے۔ یا دفن کرنے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر پڑھے۔ ایک اور حدیث کے حوالے سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اگر کسی میت یعنی قریب المرگ شخص کے پاس یا حقیقی میت کے پاس سورہ یٰسین پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر آسانی کر دیتا ہے۔ ابن عدی وغیرہ نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ جو شخص ہر جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے یا ان میں سے ایک کی یعنی ماں کی یا باپ کی ہر جمعہ میں۔ پھر قبر کے نزدیک کھڑا ہو کر سورہ یٰسین پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سورہ یٰسین کے حرفوں کی بقدر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جمعہ سے مراد جمعہ کا دن ہے یا پورا ہفتہ ہے۔

میت کو بوسہ دینا جائز ہے

۸/۱۵۴۱ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَطْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي حَتَّى سَالَ دُمُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهِ عُثْمَانَ۔ [رواه ابو داود والترمذی وابن ماجه]
اخرجه ابو داود فی السنن ۵۱۳/۳ حدیث رقم ۳۱۶۳۔ والترمذی ۳۱۴۱/۳ حدیث رقم ۹۸۹۔ وابن ماجه ۴۶۸۱/۱ حدیث رقم ۱۴۵۶۔ واحمد فی المسند ۴۳/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت عثمان بن مظعون کی میت کو بوسہ دیا اور آپ ﷺ رو پڑے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے آنسو حضرت عثمان بن مظعون کے چہرے پر گرے۔ (ابوداؤد ترمذی وابن ماجہ)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو بوسہ دینا جائز ہے۔ مہاجرین میں سے سب سے پہلے انتقال مدینہ منورہ میں حضرت عثمان مظعون رضی اللہ عنہ کا ہی ہوا ہے اور سب سے پہلے جنت البقیع میں انہیں کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد جنت البقیع کو قبرستان بنادیا گیا اور آپ نے سب سے پہلے اپنے دست مبارک سے پھراٹھا کر بطور نشانی کے حضرت عثمان بن مظعون کی قبر پر رکھا اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو بوسہ دینا اور اس پر آنسوؤں سے رونادرست ہے۔ واویلا کرنا جائز نہیں ہے۔

۹/۱۵۴۲ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ۔

[رواه الترمذی وابن ماجه]

اخرجه البیہاقی فی صحیحہ ۶/۳۔ حدیث رقم ۱۲۴۲۔ والترمذی فی السنن ۳۱۵۳/۳ حدیث رقم ۹۸۹۔ والنسائی ۱۱/۴ حدیث رقم ۱۸۴۰۔ وابن ماجه ۴۶۸۱/۱ حدیث رقم ۱۴۵۷۔ واحمد فی المسند ۵۵/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کو بوسہ دیا اس حال میں آپ ﷺ کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حدیث کا خلاصہ ظاہر ہے۔ آپ ﷺ کے رحلت فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کو بوسہ دیا۔ اس حال میں کہ آپ ﷺ کو نیا وفانی سے کوچ کر چکے تھے۔

تلقین میں جلدی کرنے کا حکم

۱۰/۱۵۲۳ وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرَّضَ فَاتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوذُهُ فَقَالَ إِنِّي لَأَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ بِهِ الْمَوْتُ فَادْنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُنِي لِحَقِيقَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرِي أَنِّي أَهْلُهُ - [رواه ابو داود]

المعرجہ ابو داؤد فی السنن ۵۱۰/۳ حدیث رقم ۳۱۵۹۔

ترجمہ: حضرت حصین بن وحوح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ طلحہ ابن براء رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو نبی کریم ﷺ ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور فرمایا کہ ”میرا خیال ہے کہ طلحہ کی موت قریب ہے لہذا جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے ان کے انتقال کی اطلاع کر دینا (اور ایک روایت میں ہے کہ ”تاکہ میں ان کی نماز پڑھنے کے لئے آسکوں“) اور تم (خمس دینے) تجبیر و تلقین اور تدفین میں (جلدی کرنا کیونکہ مسلمان میت کو اسکے اہل خانہ کے پاس روکے رکھنا مناسب نہیں۔) (ابوداؤد)

الفصل الثالث:

قریب الموت شخص کے لیے کلمات کی تلقین

۱۱/۱۵۲۴ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لِلْأَحْيَاءِ قَالَ أَحْجُودٌ وَأَجُودٌ - [رواه ابن ماجه]

المعرجہ ابن ماجہ فی السنن ۴۶۵/۱ حدیث رقم ۱۴۴۶۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اپنے قریب المرگوں کو یہ کلمات تلقین کرو: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ جو بار بار بزرگ ہے۔ اللہ بڑے عرش کا پروردگار ہے سب تعریفیں عالموں کے پروردگار کے واسطے ہیں۔ صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ! تندرستوں کو سکھانا کیسا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا بہتر اور بہتر ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ نے نقل کی ہے۔

تشریح: ابن عبد اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ فرماتے تھے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو ان کلمات کو اپنی وفات کے وقت پڑھ لے جنت میں داخل ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ تین مرتبہ۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تین مرتبہ۔ اس کے بعد تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

فاسق اور مومن کے آخری وقت میں فرق

۱۲/۱۵۲۵ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيتَ تَحْضَرُهُ الْمَلَائِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوا أُخْرِجِي أَيْتَهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ أَخْرِجِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي

بِرُوحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضَبَانَ فَلَا تَزَالُ يَقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا فَيَقَالُ مَنْ هَذَا فَيَقُولُونَ فَلَانٌ فَيَقَالُ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اذْخُلِي حَمِيمَةً وَابْشِرِي بِرُوحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضَبَانَ فَلَا تَزَالُ يَقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءَ قَالَ اخْرُجِي أَيْتُهَا النَّفْسُ الْغَبِيَّةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْغَبِيثِ اخْرُجِي ذَمِيمَةً وَابْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَاقٍ وَآخِرُ مَنْ شَكَلَهُ أَزْوَاجٌ لَمَّا تَزَالُ يَقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ إِلَى السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا فَيَقَالُ مَنْ هَذَا فَيَقَالُ فَلَانٌ فَيَقَالُ لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْغَبِيَّةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْغَبِيثِ اذْخُلِي ذَمِيمَةً فَإِنَّهَا لَا تَفْتَحُ لِكَ أَبْوَابِ السَّمَاءِ فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ تُصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ۔ [رواه ابن ماجہ]

اخرجه ابن ماجہ فی السنن ۱۴۲۳/۲ حدیث رقم ۴۲۶۲۔ واحمد فی المسند ۳۶۴/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب کوئی قریب الموت ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ جب آدمی نیک ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اے پاک جان! پاک بدن سے نکل اس حالت میں کہ خدا اور مخلوق کے سامنے تیری تعریف کی گئی ہے اور جنت میں راحت اور پاک رزق کی اور اپنے رب کی ملاقات کی جو تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ پس اسے مسلسل یہی بات کہی جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر باہر نکلتی ہے۔ پھر اس کو فرشتے آسمان کے کھلوانے کے بعد یا پہلے ہی سے کھولا جاتا ہے لے جاتے ہیں۔ پھر آسمان کے دربان کہتے ہیں یہ شخص کون ہے؟ روح کو لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے یعنی فلاں آدمی کی روح ہے۔ اس کا نام و نشان ذکر کرتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے خوش بختی ہے پاک جان کے لیے۔ کہ جو پاک بدن میں تھی۔ اس حالت میں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کو راحت اور پاک رزق کی خوشخبری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس حالت میں کہ وہ غمے نہیں ہے۔ پھر جان کو بدستور اسی طرح کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جس آسمان میں خدا کی خاص رحمت ہوتی ہے جب آدمی برا ہوتا ہے (یعنی کافر) ملک الموت کہتا ہے اے بری جان تو نکل جو برے بدن میں تھی۔ اس حال میں نکل کہ برائی کی گئی ہے اور خوشخبری ہو تجھے گرم پانی اور پیپ اور طرح طرح کے عذابوں کی جو مذکور ہو چکا ہے۔ پھر جان کو بدستور کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کراہت کے ساتھ نکلتی ہے۔ پھر فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کی ذلت کو ظاہر کرنے کے لیے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھلوائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ناپاک جان کے لیے ناخوشخبری ہو۔ جو ناپاک بدن میں تھی۔ لوٹ جا اس حال میں کہ برائی کی گئی ہے۔ تیرے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے پس آسمان سے چھوڑ دی جاتی ہے اور قبر کی طرف لوٹ آتی ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان قریب المرگ ہوتا ہے تو اس کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں یعنی رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ مرنے والا نیک آدمی ہے۔ تو رحمت کے فرشتے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ کام کی تفصیل حدیث کے متن میں مذکور ہو چکی ہے۔ اگر مرنے والا برا آدمی ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اس کی تفصیل بھی حدیث پاک میں مذکور ہو چکی ہے اور صالح آدمی

سے مراد یا تو مؤمن ہے۔ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے اور فاسق کے بارے میں سکوت اختیار کیا گیا ہے۔ یعنی اس کا ذکر نہیں کیا جیسا کتاب و سنت کا طریقہ ہے تاکہ وہ خوف ورجا کے درمیان رہے اور اس کی روح پھر قبر کی طرف لوٹ آتی ہے اور پھر اس کو افضل السالکین میں قید کر دیا جاتا ہے۔ بخلاف مؤمن کی روح کے وہ آسمان و زمین میں سیر کرتی ہے۔ وشرح فی الجنة حيث شاء وناوی الی قنادیل تحت العرش اور وہ جنت میں سیر کر رہی ہوتی ہیں جہاں چاہے اور عرش کے نیچے قدیلوں میں ٹھکانہ پکڑتی ہے اور اس کا کلی طور پر قبر میں جسد خاکی سے تعلق ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ وہ قبر میں قرآن پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ وینام کنوم العروس اور دلہن کے سونے کی طرح سو جاتا ہے اور وہ اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے جنت کے مرتبوں کے نظارے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر لے۔ (مرقات)

پس روح احوال برزخ اور آخرت کا امر یہ سب خرق عادت ہے۔ پس مؤمن آدمی اس کو مشکل نہ سمجھے۔ اللہ رب العزت کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

آپ ﷺ نے کافر کی روح کا ذکر کرتے ہوئے کراہت محسوس فرمائی

۱۳/۱۵۲۶ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلْقَاهَا مَلَكَانِ يَضَعَانِهَا قَالَ حَمَادٌ فَذَكَرَ مِنْ طِيبٍ رِيحُهَا وَذَكَرَ الْمُسْكُ قَالَ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتَ تَعْمُرُ بِنَهْ فَيُنْطَلِقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ ثُمَّ يَقُولُ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ قَالَ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ قَالَ حَمَادٌ وَذَكَرَ مِنْ نَسِئِهَا وَذَكَرَ لَعْنًا وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ فَيَقَالُ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِبْطَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا۔ [رواه مسلم]

اخرجه مسلم فی صحيحه ۲۲۰۲/۴ حدیث رقم (۷۵-۲۸۷۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس وقت مؤمن کی روح نکلتی ہے اس کو دو فرشتے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ (اس کو حمادؓ نے کہا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں۔۔۔ پس حضور ﷺ نے یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی خوشبو یا مشک کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس سے مشک کو بو آتی ہے۔ اس طرح اس لیے کہا کہ راوی کو الفاظ نبوی ﷺ یاعینہ یاد نہ رہے ہوں) پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اور آسمان والے کہتے ہیں کہ پاک روح زمین کی طرف سے آتی ہے۔ اس کے بعد روح کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اور اس جسم پر بھی اللہ کی رحمت ہو کہ تو اس کو آباد رکھتی تھی پھر اس کو پروردگار کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو قیامت تک مہلت دے دی جائے۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے حماد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی بدبو کا ذکر کیا اور اس کی لعنت کا اور آسمان والے کہتے ہیں کہ ناپاک روح زمین کی طرف سے آئی ہے۔۔۔ پھر کہا جاتا ہے اس کو لے جاؤ اور قیامت تک مہلت دے دو۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں۔ آپ ﷺ پر چادر تھی آپ ﷺ نے اپنی ناک پر اس طرح سے چادر کو رکھا۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث میں مؤمن اور کافر کی روح کا ذکر کرتے ہوئے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ مؤمن کی روح کو لے جاؤ تا کہ یہ جنت میں قیام کرے یا اس کے نزدیک ایک مدت تک رہے پھر اس نے ہمارے پاس آنا ہے۔ یہاں اجل سے مراد مدت برزخ ہے، برزخ اس مدت کو کہتے ہیں جو مرنے اور قیامت کے مابین درمیانی وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ناک پر چادر رکھ کر بتایا کہ آپ ﷺ نے کافر کی روح کا ذکر کرتے ہوئے اپنی ناک پر چادر اس طرح رکھی تھی اور حضور ﷺ کو بطور مکاشفہ کے کافر کی روح معلوم ہوئی اور اس کی بدبو آئی۔ اس لیے چادر کا کونا رکھا۔

مؤمنوں کی ارواح کا بعد میں آنے والی روحوں سے احوال پوچھنا

۱۳/۱۵۲۷ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ آتَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِخَيْرِيَّةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ أُخْرِجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكَ إِلَى رُوحِ اللَّهِ وَرِيحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضَبَانَ فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ حَتَّى آتَهُ لِيَنَاولَهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَأْتُوا بِهِ أَبْوَابَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ بِهَ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ قَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدُمُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فَلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فَلَانٌ فَيَقُولُونَ دَعَاهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي عَمِّ الدُّنْيَا فَيَقُولُ قَدْ مَاتَ أَمَا أَتَاكُمْ فَيَقُولُونَ قَدْ ذَهَبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَآوَةِ فَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتَضَرَ آتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمَسْحٍ فَيَقُولُونَ أُخْرِجِي سَاحِطَةً مَسْحُوطًا عَلَيْكَ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَخْرُجُ كَأَتْنٍ رِيحٍ جِيفَةٍ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ إِلَى بَابِ الْأَرْضِ فَيَقُولُونَ مَا أَتَتْنَ هَذِهِ الرِّيحُ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ - [رواه احمد والنسائي]

اخرجه النسائي في السنن ۸/۴ حدیث رقم ۱۸۳۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت مؤمن کو موت آتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید کپڑے لے کر آتے ہیں۔ پھر روح کو خطاب کر کے کہتے ہیں۔ تو نکل اس حال میں کہ تو راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی کیا گیا ہے۔ خدا کی رحمت اور خوب رزق کی طرف اور اپنے اس پروردگار کی طرف جو تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ پس روح بہترین مشک کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے یہاں تک کہ بعض فرشتے بعضوں سے بطور تعظیم و تکریم کے روح کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کو آسمان کے دروازوں تک لے آتے ہیں پس فرشتے آپس میں کہتے ہیں کیا خوب خوشبو ہے جو تم کو زمین کی طرف سے پہنچی پھر اس کو مؤمنوں کی ارواح کی طرف لے جاتے ہیں جہاں مؤمنوں کی روہیں رہتی ہیں۔ علین میں یا جنت میں یا جنت کے دروازے پر یا عرش کے نیچے ان کے مرتبے کے حساب سے پس وہ روہیں اس روح کے آنے کی وجہ سے بہت خوش ہوتی ہیں۔ جیسے تم میں سے کوئی غائب شخص سفر سے واپس آتا ہے اور اس کے گھر والے نہایت خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح اس مؤمن کی روح جانے کی وجہ سے دوسری روہیں خوش ہوتی ہیں پھر مؤمنوں کی روہیں اس روح سے پوچھتیں ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا؟ فلاں نے کیا کیا ہے؟ فلاں نے فلاں نے مصلحتوں کا کیا حال ہے؟ یعنی نام لے کر احوال پوچھتے ہیں ان آشناؤں کا کہ جن کو دنیا میں چھوڑ کر فوت ہو گئے تھے پھر روہیں آپس میں کہتی ہیں کہ ان کو چھوڑ دو۔ وہ تو دنیا کے غم میں ہیں۔ جب راحت حاصل کریں گے تب پوچھنا پس یہ روح راحت حاصل

کرنے کے بعد کہتی ہے کہ فلاں آدمی مر گیا جس کے تم احوال پوچھتے تھے۔ کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ پس روحمیں کہتی ہیں کہ اس کو دروزخ کی آگ کی طرف لے گئے ہیں اور جب کافر کی موت آتی ہے تو فرشتے اس کے پاس عذاب کے ٹاٹ لے کر آتے ہیں پھر فرشتے کافر کی روح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں نکل تو اللہ کے عذاب کی طرف ناخوش ہے اور ناخوشی یعنی ناراضگی کی گئی تھی پر پھر روح مردار بدبودار کی طرح نکلتی ہے پھر اس کو زمین کے دروازوں کی طرف لایا جاتا ہے پس فرشتے کہتے ہیں کس قدر بری ہے یہ بدبو۔ یہاں تک کہ اس کو کفار کی روحوں کی طرف لایا جاتا ہے۔ اس کو امام احمد اور امام نسائی رحمہما نے نقل کیا ہے۔

تشریح ۛ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ فرشتے جو ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اس میں روح کو لپیٹ کر لے جاتے ہیں اور مردے بعد میں آنے والی روحوں سے عزیز و اقرباء اور جان پہچان والوں کا حال پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی کا کیا حال ہے؟ اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس کی دیداری اور اطاعت و فرمانبرداری پر خوش ہوتی ہیں تو ان کے لیے اسقامت کی دعا کرتی ہیں۔ اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو روحمیں ان پر غمگین ہوتی ہیں اور بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ زمین کے دروازوں سے مراد آسمان کے پہلے دروازے ہیں اس پر اوپر کی حدیث دلالت کرتی ہے: ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ اور یہ بھی احتمال ہے کہ دروازے سے زمین مراد ہو اور اس روح کو اسفل السافلین کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ یہی بہتر ہے اور کفار کی روحوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔ جہنم کی ایک گہری جگہ کا نام ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین۔

کافر اور مومن کی نزاع کی کیفیت کا بیان

۱۵۱۵۲۸/ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَتَيْنَاهُ إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّا عَلَى رُءُوسِ الطَّيْرِ وَفِي يَدِهِ عُوْدٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّهُمْ شَمْسُ السَّمَاءِ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ أَخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ فَتَخْرُجُ تَسِيلٌ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنَ السَّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَذْغُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةً عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطِيبِ نَفْحَةٍ مِنْ سَلَكٍ وَجَدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ فَيُصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَأَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الْبُرُوحُ الطَّيِّبُ فَيَقُولُونَ فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهَوْا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيَفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَبِّعُهُمْ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مَقْرُبُوها إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يَنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيْنِ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَتُعَادُ

رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِي الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَعَثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا عِلْمُكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَقْتُ فَيَنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبُسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطِبْهَا فَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الْوِثَابِ طَيِّبُ الرَّيْحِ فَيَقُولُ أَبَشِّرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحِ فَيَقُولُ رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي قَالَ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَقْبَالَ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمُ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ آيَتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ أَخْرَجْنِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ قَالَ فَتَفَرَّقَ فِي جَسَدِهِ فَيَنْزِعُهَا كَمَا يَنْزِعُ السَّقُودُ مِنَ الصُّوفِ وَالْمَبْلُولُ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَانَتِي رِيحٌ جَيِّفَةٌ وَجَدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَأَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ فَيَقُولُونَ فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ بَاقِبِحَ أَسْمَانِيهِ الَّتِي كَانَ يُسَمِّي بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يَفْتَحُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْتَحْ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْجَأَ الْجَمَلُ فِي سِمِ الْخِيَاطِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سَجِينٍ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى فَتَطْرَحُ رُوحُهُ طَرَحًا ثُمَّ قَرَأَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَعَثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أَدْرِي فَيَنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الْوِثَابِ مُتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبَشِّرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثِ فَيَقُولُ رَبِّ لَا تَقِمِ السَّاعَةَ [وَفِي رَوَايَةٍ نَحْوَهُ زَادَ فِيهِ] إِذَا خَرَجَ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ يُعْرِجَ بِرُوحِهِ مِنْ قَبْلِهِمْ وَتَنْزِعُ نَفْسُهُ يَعْنِي الْكَافِرَ مَعَ الْعُرُوقِ فَيَلْعَنُهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَتُعْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ لَا يُعْرِجَ رُوحُهُ مِنْ قَبْلِهِمْ - [رواه أحمد]

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار کے ایک شخص کے جنازے کے لیے نکلے۔ ہم قبر کے پاس پہنچے اور (ابھی تک) ان کو دفن نہیں کیا گیا تھا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے۔ گویا کہ ہمارے سروں پر جانور بیٹھے ہوتے تھے۔ یعنی سر جھکا کر چپکے سے بیٹھے تھے اور دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی۔ اس کے ساتھ زمین کو کیدتے اور خط کھینچتے تھے جیسے متفکر (اور گہری سوچ میں ڈوبنے والے) کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور دو یا تین مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے: ”لوگو! اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو“ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤمن بندہ دنیا کے انقطاع (آخری وقت) میں پہنچتا ہے یعنی مرنے کے قریب پہنچتا ہے۔ تو اس کی طرف آسمان سے نہایت روشن فرشتے مثل آفتاب کے اترتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کے ریشمی کپڑوں میں سے کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہوتی ہے۔ یعنی جنت کا مشک عطر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے سامنے بڑے ادب سے بیٹھ کر روح کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاک جان تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی خوشنودی کی طرف نکل پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر جان لیسی ہوئی نکلتی ہے۔ جیسے پانی کا قطرہ محک میں سے بہتا ہے۔ یعنی سہولت و نرمی کے ساتھ۔ پس دوسرے فرشتے روح کو ملک الموت کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں پلک جھپکتے ہوئے سب اشتیاق اور درگت کے ساتھ اس کو لے لیتے ہیں اور کفن اور خوشبو میں رکھتے ہیں اور اس کی روح سے روئے زمین کی بہترین محک کی خوشبوؤں کی طرح خوشبو نکلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پس فرشتے اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعت پوچھتی ہے کہ یہ پاک روح کون ہے؟ چنانچہ روح کو لانے والے فرشتے کہتے ہیں فلاں بیٹا فلاں کا ہے۔ یعنی اس روح کے بہترین نام و لقب سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دنیا والے اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ آپس میں سوال و جواب کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرشتے اس کو لے کر پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر فرشتے اس کے لیے دروازہ کھلاتے ہیں پھر اس کے ساتھ دوسرے آسمان کے مقرب مل جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کو ساتویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عزت و بزرگی والے ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں رکھ دو۔ پھر اس کو زمین کی طرف لے جاؤ۔ یعنی اس کے بدن کی طرف جو کہ زمین میں مدفون ہے تاکہ وہ بدن کے ساتھ مل جائے اور سوال و جواب کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے کہ میں نے بنی آدم کو زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور پھر زمین کی طرف ان کے بدنوں اور روحوں کو بھیجتا ہوں اور اسی سے دوسری مرتبہ نکالوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر روح اس کے بدن میں دوبارہ داخل کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے (منکر نکیر) آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں پھر اس کو کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ پس وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر اس کو کہتے ہیں یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تو نے کیسے پہچانا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ پس وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اور میں اس پر ایمان لایا ہوں اور دل سے تصدیق کی۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا معلوم ہو گیا۔ پھر آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی زبانی کہ یہ میرا بندہ سچا ہے اس کے لیے جنت کے پھونے بچھا دو اور اس کو جنت کے لباس پہناؤ اور اس کے لیے بہشت کی طرف

دروازہ کھول دو۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس کو جنت کی طرف سے ہوا اور خوشبو آتی ہے اور پھر اس کی قبر کو حدنگاہ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا پھر اس کے پاس ایک خوبرو (خوبصورت چہرے والا) اچھے کپڑے پہنے ہوئے خوشبو لگائے ہوئے ایک شخص آتا ہے۔ پس وہ کہتا ہے کہ خوشخبری ہے تیرے لیے اس چیز کے ساتھ جو تمہیں خوش کرے۔ یعنی تمہارے لیے وہ نعمتیں میسر ہیں کہ ان کو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کان نے سنا۔ یہ وہ دن ہے کہ تجھ سے اس کے بارے میں دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا۔ مرنے والا انسان اس سے پوچھتا ہے پھر تو کون ہے کہ تیرا چہرہ اتنا حسن و جمال والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں جو خوبصورت شکل میں تیرے پاس آیا ہوں۔ پھر میت کہتی ہے اے میرے رب! قیامت قائم کر دے اے میرے رب! قیامت قائم کر دے۔ تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جاؤں اور بے شک کافر بندہ جب دنیا کے ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے اور آخرت کی تیاری میں ہوتا ہے تو کالے چہروں والے عذاب کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے اس کے سامنے ٹاٹ بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آکر اس کے سر ہانے کی طرف بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خبیث جان اللہ کے عذاب کی طرف نکل۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا پھر جان کافر کے بدن میں پھیل جاتی ہے خدا کے خوف سے بھاگتی ہے۔ اور نکلنا نہیں چاہتی اور عذاب کے آثار دیکھتی ہے۔ بخلاف مؤمن کی روح کے کہ وہ اللہ کے انوار و کرم دیکھ کر خوشی سے جلدی نکل آتی ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح کو تختی کے ساتھ اور دروازے کے ساتھ کھینچتا (نکالتا) ہے جیسے ترصوف سے آئینہ کھینچا جاتا ہے۔ کھینچتے وقت ترصوف سے اس کو کچھ لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح کافر کی روح کھینچی جاتی ہے رگوں کی انتہا سے تختی اور قوت کے ساتھ تو ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے رگوں کے ساتھ کچھ نکل آیا ہے پس ملک الموت اس کو لے لیتا ہے پھر فرشتے اس کے ہاتھ میں ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑتے یہاں تک کہ اس کو ان ٹائوں کے درمیان میں رکھتے ہیں اور روح سے نہایت گندی بدبو مردار کی طرح نکلتی ہے اس طرح کی بدبو نے زمین پر نہیں پائی جاتی۔ پھر وہ اس کو لے کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور اس کو لے کر فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں یہ ناپاک روح کون ہے؟ پس روح کو قبض کرنے والے فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ بدترین وصفوں کے ساتھ جن ذکر کرتے ہیں۔ جس کا ذکر دنیا میں کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کو آسمان دنیا تک پہنچا دیا جاتا تھا پس اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ ﷺ نے بطور سند کے آیت تلاوت فرمائی۔ یعنی کافروں کے لیے آسمان کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو گئے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جس طرح یہ امر مشکل ہے ایسے ہی کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ بالکل محال ہے۔ اس کو تعلیق بالحال کہتے ہیں پس اللہ عزت اور بزرگی والا ارشاد فرماتا ہے اس کا نامہ اعمال صحیحین میں لکھو۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے جو ساتویں زمین کے نیچے کی زمین ہے۔ پھر اس کی روح کو پھینکا جاتا ہے اور پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ کہ جو شخص خدا کے ساتھ شریک کرے گویا کہ وہ آسمان سے منہ کے بل گرا۔ یعنی ایمان و توحید کی بلندی سے کفر و شرک کی پستی میں گر پڑا پس پرندے اس کو اچک لیتے ہیں یعنی ہلاک ہو جاتا ہے یا ہوا اس کو دور مکان میں پھینک دیتی ہے۔ یعنی وہ خدا کی رحمت سے دور ہوتا ہے پھر اس کے بدن میں روح ڈال دی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں پھر اس کو کہتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ پس وہ کہتا ہے ہا ہا ہا.....! میں نہیں جانتا۔ پھر اس کو کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہا ہا ہا.....! میں نہیں جانتا۔ پھر اس کو کہتے ہیں یہ شخص کون ہے جو

تمہارے پاس بھیجا گیا ہے؟ پس وہ کہتا ہے ہا ہا ہا.....! میں نہیں جانتا۔ پھر پکارنے والا آسمان کی طرف سے پکارتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ اس کے لیے آگ کا پھوٹنا بچھا دو اور دوزخ کی طرف اس کا دروازہ کھول دو۔ پس اس کو گرمی اور اس کی گرم ہوا پہنچتی ہے اور اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کی پسلیاں قبر میں ادھر ادھر نکل آتی ہیں (یعنی ایک دوسرے میں دھنس جاتی ہیں اور اس کے پاس ایک شخص بد شکل (بد صورت) برے کپڑے پہنے ہوئے آتا ہے اس سے بدبو آتی ہے پس وہ کہتا ہے۔ خوشخبری ہو۔ تجھے اس چیز کی جو راضی نہ کرے تجھ کو۔ آج وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پس مردہ اس کو کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرا چہرہ نہایت برا ہے۔ تو برائی کے ساتھ آیا ہے۔ پس وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں پھر مردہ کہتا ہے۔ اے میرے پروردگار تو قیامت قائم نہ کر اور ایک روایت میں اسی طرح کا مضمون اور اضافے کے ساتھ ہے کہ جس وقت مومن کی روح نکلتی ہے تو ہر فرشتہ جو آسمان و زمین کے درمیان میں ہے اور ہر فرشتہ جو آسمان میں ہے اس پر رحمت بھیجتا ہے۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر دروازے والے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اس کی روح کو ان کی طرف سے چڑھا دیا جائے۔ تاکہ وہ ان کے ساتھ چل کر عزت و اکرام حاصل کریں اور کافر کی جان رگوں سے نکال لی جاتی ہے۔ پس تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین اور آسمان دنیا میں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیئے جاتے ہیں اور آسمان دنیا کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو آسمان کی طرف نہ چڑھایا جائے (یعنی ہماری طرف سے لے جایا جائے)۔ (احمد)

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن آدمی کی جان آسانی سے نکلتی ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ مومن پر بڑی سختی ہوتی ہے بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ان میں تطبیق اس طرح سے دی جائے گی کہ سختی روح نکلتے سے پہلے ہوتی ہے اور روح کے نکلتے وقت مومن پر آسانی کا معاملہ ہوتا ہے۔

بخلاف کافر کے اس کو دونوں وقت میں دشواری اور مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر فرشتے کافر کی روح کو قبض کر کے جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ جہنم کے اندر ایک گڑھے کا نام ہے جو ساتویں زمین کے نیچے ہے اس میں جہنمیوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں اور اس بات میں اس طرف اشارہ موجود ہے کہ دوزخ ساتویں زمینوں کے نیچے ہے۔ فی مکان حق سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان نے اس کو گمراہی میں پھینک دیا ہے اور اللہ کے قرب سے دور چلا گیا ہے۔

فِي سَجِينٍ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى فَتَطْرَحُ رُوحُهُ طَرَحًا۔ اس میں کافر کی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کو جہنم میں پھینکا جاتا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب منکر تکبیر سوال کرتے ہیں تو مردہ ہا ہا کرتا ہے۔ یہ ہا ہا وہ کلمات ہیں جو ایک تھیر (حیران کن) آدمی بولا کرتا ہے۔ یعنی جیسے اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے اور قبر کافر آدمی کو اس طرح پہنچتی ہے۔ (یعنی مردے کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں) اور مومنوں کے لیے یعنی اللہ کے اولیاء کو قبر کی زمین اس طرح ملتی ہے جیسے ماں بچے کو بڑے اشتیاق سے گلے لگاتی ہے یعنی اس کے ساتھ محبت و شفقت کا معاملہ کرتی ہے۔

حدیث پاک میں کافر کی روح کے نکالنے کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے کہ کافر کی روح رگوں سے بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے۔ اس کی روح کو بدن کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے اور وہ جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتی اس لئے اسے کھینچ کر سختی کے ساتھ

نکالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔

حضرت کعب بن العنبرؓ کا آخری وقت اور اُمّ بشرؓ کا سوال و جواب

۱۶/۱۵۲۹ وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ كَعْبًا الْوَفَاةَ أَتَتْهُ أُمُّ بَشْرٍ بِنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَرْوَرٍ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي لَقِيتُ فَلَانًا فَأَقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ فَقَالَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أُمَّ بَشْرٍ نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ خَضِرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى قَالَتْ فَهَوُ ذَاكَ۔

[رواه ابن ماجة والبيهقي في كتاب البعث والنشور]

اخرجه ابن ماجة ۴۶۶۱/۱ حديث رقم ۱۴۴۹۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن کعبؓ اپنے والد حضرت کعبؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ان کے والد حضرت کعبؓ کو موت آئی۔ تو ان کے پاس براء بن معرور کی بیٹی اُمّ بشرؓ آئی اور کہنے لگی اے ابو عبدالرحمن (کعبؓ کی کنیت ہے) اگر تو مرنے کے بعد فلاں آدمی سے ملاقات کرے۔ تو اس کو میری طرف سے سلام کہنا۔ کعبؓ نے فرمایا۔ اے اُمّ بشر! اللہ تجھ کو بخشے (معاف فرمائے) ہم تو اس سے بہت زیادہ مشغول ہو گئے۔ اُمّ بشر کہنے لگی اے ابو عبدالرحمن کیا تو نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے نہیں سنا۔ تحقیق مومنوں کی روہیں ہبز جانوروں (یعنی پرندوں) کے قابلوں (جسوں) کی طرح بہشت کے درختوں کے میوے کھائیں گی۔ فرمایا ہاں سنا ہے فرمانے لگی یہ وہی ہے۔ یعنی یہ وہی فضل و عنایت ہے جس کی امید رکھی جاتی ہے۔ (اس کو ابن ماجہ اور بیہقی نے البعث والنشور کی کتاب میں روایت کیا ہے)۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ مومن جب فوت ہوتا ہے تو پہلے پہنچنے والی روحوں سے ملاقات کرتا ہے وہ روہیں بقیہ دنیا والوں کے بارے میں نام لے لے کر حالات پوچھتی ہیں۔ ان کے بارے میں سوال و جواب کرتی ہیں جیسے کہ اوپر والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے جیسے اُمّ بشرؓ حضرت کعبؓ کو مرنے کے بعد روحوں کو اپنی طرف سے سلام بھیج رہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحوں کی روحوں سے ملاقات ہوتی ہے حضرت عبدالرحمنؓ بزرگ تابعین میں سے تھے اور ان کے باپ حضرت کعبؓ بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور حضرت براء بن معرور بھی انصاری صحابی تھے۔ اُمّ بشرؓ ان کی بیٹی تھیں۔ انہوں نے کعبؓ کو وفات کے وقت پیغام دیا اگر فلاں آدمی سے تیری ملاقات ہو تو اس کو میری طرف سے سلام عرض کرنا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے براءؓ کا یا بشرؓ کا نام لیا ہوگا۔ پس کعبؓ نے کہا کہ اللہ تجھ کو بخشے یہ بات تو وہاں کہنی چاہیے جہاں کسی سے ایسی بات سنتے ہیں۔ حضرت کعبؓ فرمانے لگے تم کیسی بات کرتی ہو۔ ہم تو اپنے کام میں بہت زیادہ مشغول ہوں گے۔ ہمیں سلام کی کیا خبر۔ اس کی تائید قرآن مجید کی آیت کریمہ سے ہوتی ہے: ﴿لِكُلِّ أُمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ (عبس: ۳۷) یعنی اس دن ہر آدمی کے لیے ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گی۔ اس دن انسان کو اپنی بھی خبر نہ ہوگی چہ جائیکہ دوسرے کی خبر گیری کرے۔ اس پر اُمّ بشرؓ نے ان کے عذر کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوگا جس کا حال آپ نے سنایا ہے۔ آپ تو مومنوں میں سے ہو گئے۔ جن کے بارے میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ نہایت خوشحال ہو

نگے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے مؤمنوں کی روہیں سبز پرندوں کے جسموں میں ہوگی جنت میں سیر کرینگی اور وہاں کے پھل کھائیں گی اور پانی پئیں گی اور عرش کے نیچے سونے کی قدیلوں میں قرار پکڑیں گی اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کی روہیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوگی جو جنت کے پتوں کے ساتھ معلق ہوگی۔

مؤمن کی روح کا مسکن

۱۷/۱۵۳۰ وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ تَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ۔

[رواہ مالک و النسائی و البیہقی فی کتاب البعث و النشور]

اخرجه النسائی فی السنن ۱۰۸/۴ حدیث رقم ۲۰۷۳۔ وابن ماجہ ۱۴۲۸/۲ حدیث رقم ۴۲۷۱۔ و مالک فی الموطأ ۲۲۴۰/۱ حدیث رقم ۴۹ من کتاب الجنائز۔ واحمد فی المسند ۴۵۵/۳۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمنؓ سے روایت ہے وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ بے شک مؤمن کی روح پرندے کے قالب میں ہوتی ہے اور جنت کے درختوں کے میوے کھاتی ہے پھر اللہ قیامت کے دن اس کی روح کو دوبارہ اس کو جسم کے اندر لے آئے گا۔ اس روایت کو امام مالک نسائی اور بیہقی نے کتاب بعث و نشور میں ذکر کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ مؤمن کی روح کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھا جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی کی روح کو جانور کے بدن میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بحیثیت انسان کے کم ہو گیا اور وہ آدمی سے جانور بن گیا۔ اس سے تو قلب حقیقت لازم آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روح کو جانور کے بدن کے ساتھ ایسا تعلق نہیں جیسا انسانی بدن کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ روح اس میں تصرف کرتی ہے۔ بلکہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہیرے موتی جواہرات صندوق میں محفوظ رکھ دیتے ہیں۔ اس میں بھی انسان کی تعظیم و تکریم ہے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ صرف شہداء کے لیے ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ عام مؤمنوں کے لیے ہے حدیث کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

۱۸/۱۵۳۱ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَمُوتُ فَقُلْتُ اقْرَأْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ۔ [رواہ ابن ماجہ]

اخرجه ابن ماجہ فی السنن ۴۶۶/۱ حدیث رقم ۱۴۵۰۔

ترجمہ: حضرت محمد بن منکدرؓ سے روایت ہے کہ میں جابر بن عبد اللہؓ کے پاس گیا اور وہ مرنے کے قریب تھے۔ پس میں نے کہا میرا حضور ﷺ کو سلام کہنا۔ یہ روایت ابن ماجہ نے نقل کی ہے۔

تشریح: حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مرنے والا بندہ کسی شخص کا سلام مرے ہوئے کو پہنچا سکتا ہے جیسا کہ مذکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے اور پر والی حدیث میں بھی یہی مضمون وارد ہوا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں جابر بن عبد اللہؓ کی موت کے وقت موجود تھا۔ میں نے ان سے کہا میرا سلام حضور ﷺ کو عرض کر دینا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کو سلام کا ہدیہ پیش کیا جا سکتا ہے۔

بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَ تَكْفِينِهِ

یہ باب میت کے غسل و کفن کے بارے میں ہے

اس باب میں میت کے نہلانے اور کفن کرنے کے آداب مذکور ہیں اور میت کا نہلانا فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے تمام علماء کے نزدیک اگر بعض آدمی نہلا دیجئے تو سب آدمیوں کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ ورنہ سب گنہگار ہوں گے اور اس میں اختلاف ہے۔ میت کے غسل میں نیت شرط ہے یا نہیں۔ شیخ ابن ہمام نے کہا ہے ظاہر تو یہی ہے کہ نیت شرط ہے۔

الفصل الاول:

میت کو غسل دینے کا طریقہ

۱۱۵۳۲/ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتَ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنِ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَّغْتِ فَاذْنِي فَلَمَّا فَرَّغْنَا أَذْنَاهُ قَالَ لِي الْيَنَّا حَقْوَةً فَقَالَ اشْعُرْنَهَا أَيَّاهُ وَلِي رَوَايَةٌ اغْسِلْنَهَا وَثَرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَابْدَأِي بِمِائِمِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَقَالَتْ فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ فَلَا لَقِينَاهَا خَلْفَهَا۔ [متفق عليه]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳۰۱۳۔ حدیث رقم ۱۲۵۴۔ ومسلم فی صحیحہ ۶۴۶/۲ حدیث رقم (۳۶-۹۳۹)۔
وابوداؤد فی السنن ۵۰۳/۳ حدیث رقم ۳۶۴۲۔ والترمذی ۳۱۵/۳ حدیث رقم ۹۹۰۔ والنسائی ۲۸۱/۴ حدیث رقم ۱۸۸۱۔ وابن ماجہ ۴۶۸/۱ حدیث رقم ۱۴۵۸۔ ومالك فی الموطأ ۲۲۲/۱ حدیث رقم ۲ من كتاب الحناظر۔ واحمد فی المسند ۸۴/۵۔

ترجمہ: حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی حضرت زینبؓ کو غسل دے رہی تھیں کہ آپ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے (پردے کی اوٹ سے) ارشاد فرمایا کہ اس کو پانی اور پیری کے چوں کے ساتھ تین مرتبہ نہلاؤ۔ یا پانچ مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ نہلاؤ۔ اگر ضرورت محسوس کرو۔ یعنی پانی میں چوں کو جوش دلاؤ اور اس سے نہلاؤ کہ اس سے خوب پاکی اور صفائی ہوتی ہے اور فرمایا آخری مرتبہ کا فور یا فرمایا کسی قدر کا فور ڈال لو۔ پس جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتلاؤ پس جب ہم فارغ ہوئیں تو ہم نے آپ ﷺ کو اطلاع کی تو آپ ﷺ نے اپنا تہہ بند دیا کہ اس کو بدن سے لگا دو۔ یعنی اس کو کفن کے نیچے رکھ دو۔ اس طرح کہ بدن سے لگا رہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو طاق بار (مرتبہ) غسل دو۔ تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ اور اس کے دائیں طرف شروع کرو اور وضو کے اعضاء سے اور اُمّ عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم نے ان کے بالوں کی تین چوٹیاں گوندھیں (یعنی بٹیں) پھر ہم نے ان کو ان کے پیچھے ڈال دیا اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں غسل کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اوکا لفظ اس میں ترتیب کے لیے یا تخیر کے لیے ہے۔ اگر پہلے غسل میں پاک ہو جائے۔ تو تین بار نہلانا مستحب ہے اور اس سے تجاوز کرنا مکروہ ہے۔ اگر دو بار یا تین بار میں پاک ہو تو مستحب ہے کہ پانچ مرتبہ غسل دے ورنہ سات مرتبہ اور سات بار سے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اگر اس پر زیادتی کریں تو مکروہ ہے جیسے ابن مالک اور قاضی وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دو بار پھری کے پتوں اور کافور کے پانی کے ساتھ نہلائے۔ جیسا کہ ہدایہ کی کتاب سے ظاہر ہوتا ہے اور ابو داؤد و شریف میں ہے کہ ابن سیرین نے اُمّ عطیہؓ سے غسل سیکھا تھا۔ وہ پیری کے پتوں کے ساتھ دو مرتبہ یا تین مرتبہ نہلایا کرتی تھیں اور شیخ ابن ہمام نے کہا کہ کافور کو پانی میں ملا کر استعمال کرے۔ چنانچہ جمہور علماء کا مسلک یہی ہے اور کوفیوں کا کہنا ہے کہ کافور کو میت کی خوشبو میں ڈالے اور نہلانے اور بدن خشک کرنے کے بعد بدن کو لگا دے اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کافور نہ ملے تو مشک کو اس کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں اور پیری کے پتوں سے میل خوب دور ہو جاتا ہے اور مردے کی صورت نہیں بگڑتی۔ پیری کے پتوں کے استعمال اور کافور کے لگانے سے موذی جانور دفع ہو جاتے ہیں۔

اور حضور ﷺ نے اپنی بیٹی کے لیے تہہ بند عنایت کی۔ تاکہ اس کو برکت حاصل ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صالحین کے لباس سے برکت حاصل کرنا مستحب ہے جیسا کہ موت سے پہلے صالحین کے لباس سے برکت حاصل کرنا۔ لیکن یہ کپڑا کفن کے کپڑوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور غسل کی ابتداء دائیں طرف سے کرے یعنی دائیں ہاتھ پہلو اور پاؤں سے ابتداء کرے۔ اور مواضع الوضو میں واؤ مطلق جمع کے لیے ہے پس وضوء کے اعضاء پہلے دھونے چاہئے پھر دوسرے اعضاء دھوئے اور وضوء کے اعضاء سے مراد وہ اعضاء ہیں جن کا دھونا فرض ہے۔ کلی کروانا اور ناک میں پانی ڈالنا ہمارے نزدیک ضروری نہیں ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ نہلانے والا اپنی انگلی پر کپڑا لپیٹ لے اور اس سے دانتوں کو اور تالو کو اور دونوں کانوں کو اندر سے ملے اور نتھنوں کو (یعنی ناک کو) صاف کرے اس پر اب بھی لوگوں کا عمل ہے اور مختار عمل یہ ہے کہ سر پر مسح کرے۔ غسل کے بعد پاؤں کو نہیں دھونا چاہے۔ بلکہ دوسرے اعضاء وضو کو دھوتے وقت پاؤں بھی دھو لینے چاہئیں اور میت کے پہلے ہاتھ نہ دھوئے جائیں۔ بلکہ منہ سے شروع کرے بخلاف جنبی کے۔ کیونکہ جنبی آدمی اعضاء دھونے کے لیے پہلے ہاتھ صاف کرتا ہے اور میت کو دوسرے کے ہاتھ سے نہلایا جاتا ہے۔ اس لیے میت کے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک عورت کے بال کھلے رہنے دینے چاہیے گوندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

حضور اکرم ﷺ کے کفن کا بیان

۲/۱۵۳۳ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بَيْضِ سَحُوبِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ۔ [متفق عليه]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳۵۰۳۔ حدیث رقم ۱۲۶۴۔ ومسلم فی صحیحہ ۶۴۹۱۲ حدیث رقم (۴۵-۹۴۱)۔
وابوداؤد فی السنن ۵۰۶۳۳ حدیث رقم ۳۱۵۱۔ والترمذی ۳۲۱۱۳ حدیث رقم ۹۹۶۔ والنسائی ۳۵۰۴ حدیث رقم ۱۸۹۸ وابن ماجہ ۴۷۲۱۱ حدیث رقم ۱۴۶۹۔ ومالک فی الموطأ ۲۲۳۱۱ حدیث رقم ۵ من کتاب الجنائز۔ واحمد فی

المسند ۹۳/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا جو یمنی اور حوّل کی بنی ہوئی روئی کے تھے اور ان میں سلا ہوا کرتا اور پگڑی نہیں تھی۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے کفن کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ آپ ﷺ کا کفن صرف تین کپڑے تھے جن میں سلا ہوا کرتا نہیں تھا اور نہ ہی پگڑی تھی اس کے معنی یہ ہیں کہ حضور ﷺ کے کفن میں عمامہ اور کرتا بالکل نہیں تھا بعضوں نے اس کا یہ مطلب اخذ کیا ہے کہ کرتا اور عمامہ تین کپڑوں میں نہ تھے بلکہ تین کپڑوں کے علاوہ تھے۔ تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ آپ ﷺ کے کفن میں پانچ کپڑے تھے۔ لیکن پہلے معنی واضح ہیں کہ آپ ﷺ کے کفن میں تین کپڑے تھے اور اسی پر علماء کا اختلاف مترتب ہوتا ہے کہ کیا کفن میں قمیص اور عمامہ مستحب ہے یا نہیں۔ اس میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد نے کہا ہے کہ تین لفافے ہوں ان میں قمیص اور عمامہ نہ ہو اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ تین کپڑے ہوں ازار یعنی لنگی اور قمیص یعنی کفن اور لفافہ یعنی پوٹ کی چادر پس حدیث پاک میں جو قمیص کی نفی ہے وہ اس میں یہ تاویل کرتے ہیں کہ سلا ہو قمیص نہ تھا۔ بغیر سلا تھا۔ جس کو کفنی کہتے ہیں انتہی اور حوّل یہ حوّل کی طرف منسوب ہے اور حوّل ایک بستی کا نام ہے جو یمن میں واقع ہے۔

کفن بہتر ہونا چاہیے

۳/۱۵۳۴ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ۔ [رواہ مسلم]

اخرجه مسلم فی صحيحه ۶۵۱/۲ حدیث رقم (۴۹-۹۴۳)۔ وابوداؤد فی السنن ۵۰۵/۳ حدیث رقم ۳۱۴۸۔
والترمذی ۳۲۰/۳ حدیث رقم ۹۹۵۔ وابن ماجہ ۴۷۳/۱ حدیث رقم ۱۴۷۴۔ والنسائی فی السنن ۳۳/۴ حدیث رقم ۱۸۹۵۔ واحمد فی المسند ۲۹۵/۳۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اس کو چاہیے اچھا کفن دے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اپنے مردوں کو اچھے کفن دو۔ اس لیے کہ وہ قبر میں آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کفن پورا ہو۔ لطیف و سفید ہو۔ اس میں فضول خرچی نہ کی گئی ہو۔ اچھے سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ ناموری اور تکبر کی خاطر کفن دیا جائے تاکہ لوگوں کے اندر اس کا نام ہو۔ ایسا کرنا حرام ہے کفن میں نیا کپڑا ہو یا دھلا ہوا دونوں برابر ہیں اور علامہ تورپشتی رضی اللہ عنہ نے کہا کفن میں فضول خرچی کرنا شریعت میں منع ہے کہ بہت زیادہ قیمتی کپڑے میں کفن نہیں دینا چاہیے۔ یہ مال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے اور مال کا ضیاع بہت بری چیز ہے اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔

حدیث مذکورہ میں کفن کا حکم صرف اسی کے ساتھ خاص تھا عام نہیں تھا

۴/۱۵۳۵ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُخْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمْسُوهُ

بَطِيبٌ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلْبِيًا۔

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳۷/۳ حدیث رقم ۱۲۶۷۔ و مسلم فی صحیحہ ۸۶۵/۲ حدیث رقم (۹۳-۱۲۰۶)۔
و الترمذی فی السنن ۲۸۶/۳ حدیث رقم ۹۵۱۔ والنسائی ۳۹/۴ حدیث رقم ۱۹۰۴۔ وابن ماجہ ۱۰۳۰/۲ حدیث رقم ۳۰۸۴۔ والدارمی ۷۱/۲ حدیث رقم ۱۸۵۲۔ واحمد فی المسند ۲۱۵/۱۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس تھا پس اونٹنی نے اس کی گردن توڑ دی اور وہ حالت احرام میں تھا اور اسی حالت میں فوت ہو گیا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس کو پانی اور بیری کے ساتھ غسل دو اور اس کو اس کے دو کپڑوں میں کفن دو۔ اور خوشبو نہ لگاؤ اور نہ اس کا سر ڈھاٹو۔ پس وہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم نے نقل کی ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم اگر مر جائے تو اس کو کفن محرموں والے لباس میں دینا چاہیے اور خوشبو نہ لگانی چاہیے۔ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کا یہی مذہب ہے اور امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ رحمہما اللہ کے نزدیک محرم اور غیر محرم دونوں برابر ہیں۔ مگر اس صحابی کو دو کپڑوں میں دفنانا ضرورت کی بنا پر تھا کیونکہ اس کے پاس ان دو کپڑوں کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ خوشبو لگانے اور سر ڈھاٹنے سے جو منع کیا گیا تھا وہ خاص اسی کے لیے تھا۔ یہ سب کے لیے حکم نہیں ہے واللہ اعلم۔
غفریب ہم خبابؓ کی حدیث جس کا آغاز یہ ہے۔ مصعب بن عمیرؓ کا قتل جامع مناقب کے باب میں ہم ذکر کریں گے۔

ان شاء اللہ۔

الفصل الثانی:

سفید کپڑے کی دوسرے کپڑوں پر فضیلت و برتری

۵/۱۵۳۶ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُسُومُ مِنْ رِيَابِكُمْ الْبَيْضُ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ رِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ وَمِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمْ الْإِنْمِدُ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ۔

[رواه ابو داود و الترمذی و روى ابن ماجه الى مَوْتَاكُمْ]

اخرجه ابو داود فی السنن ۳۳۲/۴ حدیث رقم ۴۰۶۱۔ و الترمذی ۳۱۹/۳ حدیث رقم ۹۹۴۔ والنسائی ۳۴/۴ حدیث رقم ۱۸۹۶۔ وابن ماجہ ۴۷۳/۱ حدیث رقم ۱۴۷۲۔ واحمد فی المسند ۲۴۷/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم سفید کپڑے پہنو اس لیے کہ وہ تمہارے کپڑوں میں سے بہتر کپڑے ہیں اور اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفن دو اور اٹھو تمہارے سرموں سے بہتر ہے اس لیے کہ ہلکوں کے بالوں کو جلاتا ہے اور بینائی کو روشن کرتا ہے اور اس کو ابو داود اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور ابن ماجہ نے لفظ مَوْتَاكُمْ تک روایت کی ہے۔

تشریح: آپ ﷺ کے اس ارشاد مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سفید کپڑوں کو بقیہ کپڑوں پر فضیلت و برتری حاصل ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں امر استحباب کے لیے ہے ابن ہمامؒ نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہننا اور ان میں کفن دینا اولیٰ ہے اور محرموں کو یمنی اور کتان کی چادر میں کفن دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور عورتوں کو ریشمی زعفرانی اور سرخ رنگ کے

کپڑوں میں کفن دینا جائز ہے۔ اس کے لیے ایک ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے وہ ضابطہ یہ ہے کہ جن کپڑوں کو زندگی میں پہننا جائز ہے ان کو زندگی کے بعد استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ یعنی ان کپڑوں کا کفن بنانا بھی جائز ہے۔ اور اٹھ سرے کو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ اس کو نبی کریم ﷺ کی اتباع کرتے ہوئے لگائے۔ کیونکہ سونے کے وقت اٹھ سرے خوب تاثیر کرتا ہے۔

کفن میں اسراف جائز نہیں ہے

۶/۱۵۳۷ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغَالُوا فِي الْكُفَنِ فَإِنَّهُ يُسَلَبُ سَلْبًا سَرِيعًا۔

[رواہ ابو داود]

اخر جہ ابو داؤد فی السنن ۵۰۸/۳ حدیث رقم ۳۱۵۴۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کفن کو بہت مہنگا کپڑا نہ لگاؤ۔ کیونکہ وہ بہت جلد چھینا جاتا ہے یعنی بہت جلد خراب ہو جاتا ہے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفن میں اسراف درست نہیں ہے اور گراں قیمت کا کفن نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ جلد پرانا اور خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے گراں قیمت کے کفن سے منع کیا گیا ہے اور اوسط درجے کا کفن دینا مستحب ہے۔

قریب المرگ کے لیے نئے کپڑے پہننا

۱/۱۵۳۸ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِيَّتَابٍ جَدِيدٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ أَلَمِيتُ يَبُعثُ فِي بِيَّتَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا۔ [رواہ ابو داود]

اخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴۸۵/۳ حدیث رقم ۳۱۱۴۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نئے کپڑے منگوائے۔ پھر ان کو پہنا اور فرمانے لگے کہ میں نے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میت کو انہی کپڑوں میں اٹھایا جاتا ہے جن میں اس کو موت آتی ہے اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوسعید خدریؓ نے جو نئے کپڑے حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے پہنے۔ اس سے مراد ظاہری معنی ہے کہ مردہ کپڑوں میں اٹھے گا۔ لیکن یہ مشکل ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں انھیں گے۔ علماء نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ کپڑوں سے مراد وہ اعمال ہیں جس کو کرتے ہوئے آدمی کی موت آتی ہے۔ عرب لوگ اعمال کا لفظ کپڑوں پر بھی استعمال کرتے تھے اس لیے کہ جس طرح کپڑے بدن سے لگے ہیں۔ اسی طرح اعمال بھی بدن سے متعلق ہوتے ہیں۔

چنانچہ بعض حضرات نے اسکی تاویل اعمال سے کی ہے کہ اپنے اعمال کو درست کرو اور ابوسعید خدریؓ نے جو نئے کپڑے پہنے تھے صفائی اور طہارت کی خاطر پہنے تھے۔ اس وقت انکو حضور ﷺ کی حدیث بھی یاد آگئی اور انہوں نے حدیث بھی بطور دلیل

پیش کردی اور یا حدیث کا یہ مطلب ہے کہ قبر سے کپڑے پہنے ہوئے انھیں گے اور محشر میں ننگے ہوں گے۔

۸/۱۵۳۹ وَعَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْكُفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الْأُصْحِيَةِ الْكُشْبُ الْأَقْرَنُ - [رواہ ابو داود ورواہ الترمذی وابن ماجہ عن ابی امامہ]

اخرجه ابو داود في السنن ۵۰۹۳ حديث رقم ۳۱۵۶۔

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا بہترین کفن حلہ ہے اور بہترین قربانی سینگوں والا دنبہ ہے۔ اس کو ابو داؤد نے ترمذی نے اور ابن ماجہ نے ابوامامہ سے نقل کیا ہے۔

تشریح: حدیث کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا بہترین کفن حلہ ہے۔ یعنی بہترین کفن لنگی اور چادر ہے۔ یعنی کفن کے اوپر اور یہ کفن سنت ہے۔ یا پھر بغیر قمیص کے مراد ہوں اس صورت میں یہ معنی ہو گئے کہ ایک کپڑے پر اکتفاء نہ کرے بلکہ دو کپڑے بہتر ہیں۔ دو کپڑوں میں کفن کافی ہوتا ہے اور یہ ادنیٰ درجہ ہے اگر تین کپڑوں میں کفن دیں تو یہ سنت اور کمال مرتبہ ہے اور سینگوں والا دنبہ اکثر فریبہ اور قیمتی ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو پسند فرمایا ہے۔

شہداء کا پہنا ہوا لباس ان کا کفن ہے

۹/۱۵۴۰ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِي أُحَدِّثُ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَكِبَابِهِمْ - [رواہ ابو داود وابن ماجہ]

اخرجه ابو داود في السنن ۴۹۷۳ حديث رقم ۳۱۳۴۔ وابن ماجہ ۴۸۵۱۱ حديث رقم ۱۰۱۰۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حکم ارشاد فرمایا کہ شہداء احد کے جسموں سے لوہا (یعنی زرہیں) اور ہتھیار اور چمڑے وغیرہ اتار دو اور انہیں ان کے خون اور خون میں بھرے ہوئے کپڑوں سمیت ہی دفن کر دو۔ اس کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے شہدائے احد کے کفن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا لباس ہی ان کا کفن جو انہوں نے پہن رکھا ہے۔

اس حدیث میں شہداء کے غسل اور نماز کے بارے میں امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہما کا اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ شہید کے لیے غسل نہیں ہے اور نہ ہی نماز ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک غسل ضروری نہیں ہے۔ لیکن نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔

الفصل الثالث:

جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم کا مختصر کفن

۱۰/۱۵۴۱ عَنْ سَعْدِ بْنِ ابِرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ابْنِي بَطْعَامٍ وَكَانَ صَانِمًا فَقَالَ قِيلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ لَهُمْ خَيْرٌ مِنِّي كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِنْ غُطِيَ رِجْلَاهُ بَدَتْ رَأْسُهُ

وَأَرَاهُ قَالَ وَقِيلَ حَمْزَةٌ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ بَسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بَسِطَ أَوْ قَالَ أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا وَلَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتِنَا عَجَلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ۔ [رواه البخاری]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۵۳/۷۔ حدیث رقم ۴۰۴۵۔

ترجمہ: حضرت سعد بن ابراہیمؓ سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عوفؓ کے پاس (افطار کے وقت) کھانا لایا گیا اور وہ روزے سے تھے۔ پس وہ کہنے لگے۔ حضرت مصعب بن عمرؓ ہمارے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے اور ایک چادر میں کفنائے گئے۔ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا۔ تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے۔ اگر پاؤں ڈھانکے جاتے تھے تو ان کا سر کھل جاتا تھا۔ تو پھر سر کو ڈھانک دیا گیا اور پاؤں پر اذخر رکھ دی گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ حضرت عبدالرحمنؓ نے یوں بھی فرمایا: کہ حمزہؓ ہمارے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ یعنی ان کا کفن بھی ایسا ہی تھا۔ جیسا کہ اوپر حدیث میں مذکور ہوا ہے۔ پھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی۔ اس قدر کشادہ کی گئی۔ یعنی ہمیں دنیا اس قدر دے دی گئی کہ ہم ڈرتے تھے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا ثواب جلدی نہ دے دیا گیا ہو۔ پھر اسی ڈر کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ کھانا چھوڑ دیا۔ اس کو بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں صحابہ کرامؓ کی شان بیان کی ہے اور فرمایا کہ کس قدر جلیل القدر عظمت والے صحابہ تھے اور ان کو کس قدر مختصر کفن دیا جا رہا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی طرف دیکھو کہ وہ عشرہ مبشرہؓ میں سے ہیں اور حضرت مصعب بن عمیرؓ کس قدر جلیل القدر فضلاء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور جنگ احد میں شہید ہوئے اور حالت کفر میں بڑی وسعت والے تھے۔ جب مسلمان ہوئے نہایت زہد و فقر اختیار کر لیا۔ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ کے پاس حاضر ہوئے۔ کمر میں تسمہ باندھے ہوئے تھے۔ حضور ﷺ نے صحابہؓ کو فرمایا اس شخص کو دیکھو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل ایمان سے روشن کر دیا ہے میں نے اس کو مکہ میں دیکھا کہ اس کے ماں باپ اس کو اچھا کھانا کھلاتے تھے۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ دوسو درہم کا لباس پہنتا تھا۔ خدا اور رسول کی محبت میں اس حال میں پہنچ گیا اور حضرت حمزہ بن عبد المطلبؓ نبی کریم ﷺ کے چچا تھے اور حضور ﷺ نے ان کو سید الشہد اکا لقب دیا تھا اور حضرت حمزہؓ اہل بدر و شہدائے احد میں سے ہیں اور اس کے باوجود اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم ان لوگوں میں داخل نہ ہو جائیں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (الاسراء: ۱۸) یعنی جو شخص دنیا کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو جلدی عطا کر دیتے ہیں۔ جو چیز ہم اس کے لیے چاہتے ہیں پھر ہم اس کو روزخ والوں میں شمار کرتے ہیں اور وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس میں دنیا چاہنے والوں کی برائی کو بیان کیا گیا یعنی روندا ہوا ہوتا ہے چنانچہ خدا کی رحمت سے دور کیا گیا اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ پر خوف نمایاں تھا کہ کہیں میں بھی ان میں داخل نہ ہو جاؤں۔ الحاصل بات یہ ہے کہ یہ آیت بڑے طالب دنیا کے حق میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ ایسے نہیں تھے لیکن خدا کا ڈر غالب تھا کہ اس مالدار کی وجہ سے میں بھی کہیں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں اس وجہ سے کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ باوجودیکہ روزے سے ہونے کی وجہ سے کھانے کی سخت ضرورت اور احتیاج تھی یہ ہے صحابہؓ کا خوف خدا۔ جب خوف کا غلبہ ہوتا ہے تو آدمی لذتوں سے کوسوں دور رہتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ

ضرورت کے وقت جس قدر کفن میسر ہو وہی مسنون ہے۔

بدترین کافر کے ساتھ آپ ﷺ کا معاملہ

۱۱۵۴۲/ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَعْدَ مَا أَدْخَلَ خُفْرَتَهُ فَأَمَرَهُ بِه
فَأَخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَفُتَّ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَالْبَسَهُ قِمِيصَهُ قَالَ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قِمِيصًا [متفق عليه]
اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۶۶۱/۱۰۔ حدیث رقم ۵۷۹۵۔ ومسلم فی صحیحہ ۲۱۴۰/۴۔ حدیث رقم (۲۷۷۳-۲)۔

والنسائی فی السنن ۳۷/۴۔ حدیث رقم ۱۹۰۱۔ واحمد فی المسند ۳۸۱/۳۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ تشریف لائے اس وقت جب عبداللہ بن ابی کو قبر میں رکھ دیا گیا تھا (یعنی اتار دیا گیا تھا) آپ ﷺ نے اس کے نکالنے کا حکم صادر فرمایا چنانچہ اسے نکالا گیا تو آپ ﷺ نے اپنے گھٹنوں پر رکھا اور اس کے منہ میں لعاب دھن ڈالا اور اس کو اپنا کرتہ پہنایا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے آپ ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کرتہ پہنایا تھا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا اور اس کے مرنے کے بعد آپ ﷺ نے اس کے ساتھ جو معاملہ فرمایا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر اتفاق رکھتا تھا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جو حضور اکرم ﷺ کے چچا تھے جنگ بدر میں قید کر کے لایا گیا تھا تو وہ اس وقت نگے تھے اور کسی کا کپڑا اُن کو پورا نہ آتا تھا۔ اور عبداللہ بن ابی دراز قد تھا۔ اس نے اپنا کرتہ آپ ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پہنایا تو آپ ﷺ نے اپنے چچا کا بدلہ اتارنے کے لیے اپنا کرتہ اس کو پہنایا تاکہ منافق کا احسان آپ ﷺ پر نہ رہ جائے اور اس میں ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم ﷺ کو منع فرمایا ہے کہ منافقوں کے لیے دعا نہ کرو۔ یعنی نماز جنازہ نہ پڑھو اس کے باوجود آپ ﷺ منافق کی قبر پر تشریف لے گئے اس کو کرتہ بھی پہنایا اور لعاب دھن بھی اس کے منہ میں ڈالا۔ علماء کرام نے اس کا جواب یوں لکھا ہے یہ واقعہ آیت اترنے سے پہلے کا تھا اور آپ ﷺ کو فقط بدلا اتارنا تھا۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہو چکا ہے اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بیٹے کی خاطر داری کے لیے یہ کام کیا تھا۔ حقیقت میں اس کا بیٹا مومن تھا۔ نفاق سے پاک تھا اور بھی بہت سے جوابات لکھے گئے ہیں۔ جو دوسری شروحات میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَازَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا

باب ہے جنازے کے ساتھ چلنے اور اس کی نماز پڑھنے کے بارے میں

جنازے کے ساتھ پیدل چلنا یا سوار ہو کر چلنا دونوں جائز ہیں لیکن پیدل چلنا افضل درجہ رکھتا ہے اور سوار کو چاہیے کہ جنازے کے پیچھے چلے۔ اور پیدل چلنے والے کے لیے دونوں طرح جائز ہے۔ لیکن پیچھے چلنا زیادہ افضل ہے اور نماز جنازہ

کا حکم یہ ہے کہ اگر بعض حضرات پڑھ لیں گے تو سب کے ذمے سے فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ اگر کسی نے بھی نہ پڑھی تو سب گناہ گار ہونگے اور نماز جنازہ کی صحت کے لیے شرط یہ ہے کہ میت مسلمان ہو اور پاک بھی ہو۔ میت جنازہ پڑھنے والے کے آگے ہونی چاہیے اس قید کی رو سے غائب کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے اور اس پر بھی نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں جو سواری کی پیٹھ پر ہو یا لوگوں کے کندھے پر ہو اور نمازی کی پیٹھ کے پیچھے نہ ہوں۔ اگر غسل دینے کے بغیر دفن کر دیا گیا اور قبر کھودنے بغیر اس کو باہر نکالنا بھی ممکن نہ ہو۔ تو پھر اس سے طہارت کی شرط ساقط ہو جائے گی اور بغیر غسل کے اس کی قبر پر نماز ادا کی جائے گی۔ اگر نکالنا ممکن العمل ہو تو اس کو نکال کر غسل دیں اور نماز پڑھیں اور اگر جان بوجھ کر بغیر غسل دیئے دفن دیا اور نماز پڑھی پھر قبر کھودنے کے بعد نکال کر غسل دیا۔ تو پھر دوبارہ نماز پڑھیں۔

الفصل الاول:

صالح اور غیر صالح کے جنازے کا حکم اور اس کو جلدی کرنے کی حکمت

۱/۱۵۴۳ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنَّ تَكَّ صَلَاحَةٍ فَخَيْرٌ تَقْدِمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكَّ سِوَايَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ - [متفق عليه]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۸۲/۳ - حدیث رقم ۱۳۱۵ - و مسلم فی صحیحہ ۶۵۱/۲ حدیث رقم (۹۴۴-۵۰)۔

والترمذی فی السنن ۳۳۵/۳ حدیث رقم ۱۰۱۵ وابن ماجہ ۴۷۴/۱ حدیث رقم ۱۴۷۷ - واحمد فی المسند ۲۴۰/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جنازے میں جلدی کرو۔ اگر میت نیک ہے تو اس کے لیے بھلائی اور بہتری ہے کہ اس کو بھلائی کی جانب جلد پہنچاؤ۔ اگر اس کے علاوہ ہے یعنی برا شخص ہے تو اس کو اپنی گردنوں سے جلدی اتارو۔

تشریح: اس حدیث پاک میں جنازے کو جلدی لے جانے کا حکم دیا گیا ہے کہ جنازے کو جلدی لے کر چلو اور جلدی چلنے سے دوڑنا مراد نہیں ہے بلکہ درمیانی چال چلے اور جلد جلد قدم اٹھائے اور قریب قریب قدم رکھے الحاصل یہ کہ چال معمولی سے زیادہ اور دوڑنے سے کم ہونی چاہیے آگے جلدی چلنے کا فائدہ بیان فرمایا ہے اگر نیک ہے تو اس کو اس کے مقام کی طرف جلدی لے جانا چاہیے تاکہ آخرت کے انعام و اکرام کو جلدی حاصل کر لے۔

اگر وہ برا ہے تب بھی جلدی چلو تاکہ تم جلد از جلد اپنی گردنوں سے اس برے کا بوجھ اتار سکو۔ یہ ہے جنازے میں جلدی چلنے کی حکمت۔

صالح اور غیر صالح میت کی پکار

۲/۱۵۴۴ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاحَةً قَالَتْ قَدِمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَلَاحَةٍ قَالَتْ لَا هَلْهَا يَا وَبَلْهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْنَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَبِقَ - [رواه البخاری]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۸۱/۳ - حدیث رقم ۱۳۱۴ - والنسائی فی السنن ۴۱۱/۴ حدیث رقم ۱۹۰۹ - واحمد فی

المسند ۴۱/۳

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں اور اگر وہ نیک بخت ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو۔ یعنی میری منزل کی طرف اور اگر برا ہوتا ہے یعنی بد بخت تو وہ اپنے لوگوں کو کہتا ہے ہائے مصیبت مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی یہ آواز ہر چیز سنتی ہے سوائے آدمی کے اگر اس آواز کو انسان سن لے تو وہ بیہوش ہو جائے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ جنازے کو جلدی لے جانا چاہیے کیونکہ مؤمن آدمی جلدی چلنے کو کہتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جنت کی نعمتیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی طرف لپکتا ہے اور رغبت کرتا ہے جو چیزیں انسان کو بھلی لگیں وہ اسی طرف بھاگتا ہے۔ یہ انسانی فطرت بھی ہے۔

اور بد بخت آدمی عذاب کو دیکھ کر شور مچاتا ہے اور واویلا کرتا ہے کیونکہ اس کی آخرت (یعنی آنے والا جہان) بے آباد ہوتا ہے اس لیے وہ اس کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ اور میت حقیقت میں کلام کرتی ہے اگرچہ روح نکل جائے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے جس طرح قبر میں سوال کے لیے زندہ کیا جاتا ہے۔

تکریم میت ضروری ہے

۳/۱۵۳۵ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوَضَّعَ. [متفق عليه]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۷۸۱۳۔ حدیث رقم ۱۳۱۰۔ و مسلم فی صحیحہ ۶۶۰۱۲ حدیث رقم (۷۷-۹۶۹)۔ و ابوداؤد فی السنن ۵۱۸/۳ حدیث رقم ۳۱۷۳ و الترمذی ۳۶۰۱۳ حدیث رقم ۱۰۴۳۔ و ابن ماجہ ۴۹۲/۱ حدیث رقم

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ یعنی جو شخص جنازے کے ساتھ نماز کے لیے جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے جنازہ کے رکھنے سے پہلے زمین پر نہ بیٹھے۔ یعنی جب تک میت لوگوں کے کندھوں سے اتار کر زمین پر نہ رکھ دی جائے یا جب تک قبر میں نہ اتاری جائے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں میت کی تعظیم و تکریم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب جنازہ گھر سے نکلے تو میت کے احترام کے لئے اور عظمت ایمان کی وجہ سے کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہونے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ یہ وقت بے پرواہ ہونے کا نہیں ہے بلکہ بیقرار ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور ان کے غم میں شریک ہو جائے اور جب تک زمین پر جنازے کو نہ رکھا جائے تو بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ کندھا دینے کے لیے ساتھ موجود رہے اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب جنازے کے ساتھ جانے کا ارادہ نہ ہو تو اٹھ کر کھڑا ہونا مکروہ ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے چاہے کھڑا ہو چاہے بیٹھا رہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں عمل مستحب ہیں اور جمہور علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیثیں منسوخ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ساتھ جو آگے آرہی ہے۔

موت کی ہولناکی کی وجہ سے جنازے کی تکریم ضروری ہے

۱۵۴۶/۳ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ فَرَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا۔ [متفق علیہ]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۷۹/۳۔ حدیث رقم ۱۳۱۱۔ ومسلم فی صحیحہ ۶۶۰/۲ حدیث رقم (۷۸۔ ۹۶۰) وابوداؤد فی السنن ۵۱۹/۳ حدیث رقم ۳۱۷۴۔ والنسائی ۴۵/۴ حدیث رقم ۱۹۲۲۔ وابن ماجہ ۴۹۲/۱۔ حدیث رقم ۱۵۴۳ واحمد فی المسند ۳۱۹/۳۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جنازہ گزرا اور آپ ﷺ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ کھڑے ہوئے پس ہم نے کہا اے رسول خدا! یہ تو یہودیہ کا جنازہ ہے یعنی یہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے جس کی تکریم و تعظیم کی جائے۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا موت ڈر اور گھبراہٹ کی جگہ ہے۔ پس جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اگرچہ کافر ہی کا جنازہ کیوں نہ ہو اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنازے کی ہر لحاظ سے تکریم و تعظیم ضروری ہے۔ چاہے کافر ہی کا جنازہ کیوں نہ ہو۔ آپ ﷺ نے اس کی وجہ بیان فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ موت ڈر اور گھبراہٹ کا مقام ہے۔ اس لیے جب جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔

۱۵۴۷/۵ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدَ نَا يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ۔

(رواه مسلم وفي رواية مالك وابي داود قام في الجنائزة ثم قعد بعد)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۷۹/۳۔ حدیث رقم ۱۳۱۱۔ ومسلم فی صحیحہ ۶۶۰/۲ حدیث رقم (۷۸۔ ۹۶۰) وابوداؤد فی السنن ۵۱۹/۳ حدیث رقم ۳۱۷۴۔ والنسائی ۴۵/۴ حدیث رقم ۱۹۲۲۔ وابن ماجہ ۴۹۲/۱۔ حدیث رقم ۱۵۴۳ واحمد فی المسند ۳۱۹/۳۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے اور آپ ﷺ بیٹھے تو ہم بھی بیٹھ گئے۔ یعنی جنازے کو دیکھ کر۔ اس کو مسلم نے نقل کیا ہے۔ اور امام مالک کی روایت کے مطابق کہ آپ ﷺ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوئے پھر اس کے بعد بیٹھ گئے۔

تشریح: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ جنازے کی تکریم و تعظیم کی خاطر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ پہلی روایت کے دو معنی لیے جاسکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہیں کہ آپ ﷺ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوئے ہم بھی کھڑے ہو گئے اور جب نظر سے غائب ہو گیا تو حضور ﷺ بیٹھے اور ہم بھی بیٹھ گئے۔

دوسرے معنی کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پہل آپ ﷺ تھوڑی دیر کے لیے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے اور بعد میں آپ ﷺ کا یہ معمول تھا کہ آپ ﷺ جنازہ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ بیٹھ رہتے تھے لہذا کھڑے ہونا آپ ﷺ کے فعل اخیر کے ساتھ منسوخ کیا۔ منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم پہلے تھا اب نہیں ہے اور دوسری روایت کے مطابق یہی دونوں معنی ہیں اور دوسرے معنی بالکل ظاہر ہیں۔

نمازِ جنازہ اور تدفین میں شرکت کرنے پر عظیم اجر

۶/۱۵۳۸ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيَقْرَأَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ - [متفق عليه]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۹۷/۶ - حدیث رقم ۳۲۰۴ - ومسلم فی صحیحہ ۶۵۶/۲ - حدیث رقم (۶۲ - ۹۵۱) - وابوداؤد فی السنن ۵۴۱/۳ - حدیث رقم ۳۲۰۴ - والترمذی ۳۴۲/۳ - حدیث رقم ۱۰۲۲ - والنسائی ۷۲/۴ - حدیث رقم ۱۹۸۰ - وابن ماجہ ۴۶۰/۱ - حدیث رقم ۱۵۳۴ - ومالك فی الموطأ ۲۲۶/۱ - حدیث رقم ۱۴ من كتاب الحناظر - واحمد فی المسند ۲۸۱/۲ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص مسلمان کے جنازے کے ساتھ ایمان اور ثواب کے طلب کرنے کی نیت سے جائے اور اس کے ساتھ نمازِ جنازہ تک رہے اور اس کو دفن کر کے فارغ ہونے تک ساتھ رہے۔ تحقیق وہ دو قیراط اجر لے کر واپس لوٹتا ہے۔ ہر قیراط اچھاڑ کے برابر ہوتا ہے اور جو شخص نمازِ جنازہ پڑھ کر دفن کرنے سے پہلے لوٹ جائے تو ایک قیراط ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں نمازِ جنازہ میں شرکت کرنے اور اس کی تدفین میں شامل ہونے پر اجر عظیم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو مسلمان یہ دونوں کام کرے اس کو دو قیراط کا ثواب ملے گا۔ شارح نے لکھا ہے قیراط دینار کے بارہویں حصے کو کہتے ہیں اور یہاں قیراط سے مراد عظیم حصہ ہے یعنی بڑا ڈھیر۔

اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو جنازے کے ساتھ چلا اور دفن کر کے واپس آیا اس کو تین قیراط ثواب ملے گا۔ (مرقاۃ) ایک قیراط نماز کے لیے یعنی نمازِ جنازہ پڑھنے پر اور تدفین کے لیے۔

آپ ﷺ کا نجاشی کی غائبانہ نمازِ جنازہ پڑھنا

۷/۱۵۳۹ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمَصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ - [متفق عليه]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۹۷/۶ - حدیث رقم ۳۲۰۴ - ومسلم فی صحیحہ ۶۵۶/۲ - حدیث رقم (۶۲ - ۹۵۱) - وابوداؤد فی السنن ۵۴۱/۳ - حدیث رقم ۳۲۰۴ - والترمذی ۳۴۲/۳ - حدیث رقم ۱۰۲۲ - والنسائی ۷۲/۴ - حدیث رقم ۱۹۸۰ - وابن ماجہ ۴۶۰/۱ - حدیث رقم ۱۵۳۴ - ومالك فی الموطأ ۲۲۶/۱ - حدیث رقم ۱۴ من كتاب الحناظر - واحمد فی المسند ۲۸۱/۲ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس دن نجاشی مرا تو نبی کریم ﷺ نے اس کے مرنے کی خبر لوگوں تک پہنچائی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر عید گاہ کی طرف نکلے پھر ان کے ساتھ صف باندھی اور چار تکبیریں کہیں۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے نجاشی کی غائبانہ نمازِ جنازہ پڑھی۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا

لقب تھا اور اس نجاشی کا نام جس پر آپ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھی احمہ تھا۔ پہلے وہ عیسائیوں کے دین پر تھا۔ پھر حضور ﷺ پر ایمان لے آیا اور ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خوب خدمت کی۔ پس جب وہ فوت ہوا تو آپ ﷺ نے لوگوں کو بتایا اور عید گاہ جا کر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اور ہدایہ میں لکھا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھی جائے پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔ جو کوئی مسجد میں نماز جنازہ پڑھے گا۔ اس کو اجر نہیں ملے گا۔ یعنی وہ اجر سے محروم رہے گا اور ابن ہمام نے خلاصہ میں لکھا ہے کہ میت اور قوم مسجد میں ہوں اور اس حالت میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے یا میت مسجد سے باہر ہو اور ساری قوم یا بعض قوم مسجد میں ہو اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس صورت میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ جب میت مسجد سے باہر ہو اور بعض نے کہا ہے۔ مکروہ تحریمی ہے اور بعضوں نے اس کو تنزیہی کہا ہے اور اس حدیث کی روشنی میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ غائب پر جائز ہے اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک جائز نہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ اس میں احتمال ہے کہ نجاشی کا جنازہ حضور ﷺ کے سامنے آ گیا ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ درمیان میں حاکم رکاوٹوں کو مٹانے پر قادر ہے اور حضور ﷺ سامنے جنازے کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ خصوصیت حضور ﷺ کو حاصل ہوئی ہے دوسروں کو نہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے نجاشی کا جنازہ آپ ﷺ پر ظاہر کر دیا گیا اور آپ ﷺ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔

نماز جنازہ میں تکبیرات کا مسئلہ

۸/۱۵۵۰ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ يَكْبِرُ عَلَى جَنَازِنَا أَرْبَعًا وَآلَهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ خَمْسًا فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْبِرُهَا۔ [رواہ مسلم]

اخرجه مسلم فی صحيحه ۶۵۹/۲ حد ۵ رقم (۷۲-۹۵۷)۔ وابوداؤد فی السنن ۵۳۷/۳ حدیث رقم ۳۱۹۷۔ والترمذی فی السنن ۳۴۳/۳ حدیث رقم ۱۰۲۳۔ والنسائی ۲۷/۴ حدیث رقم ۱۹۸۲۔ وابن ماجہ ۴۸۲/۱ حدیث رقم ۱۵۰۵۔ واحمد فی المسند ۳۶۷/۴۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی ہمارے جنازوں پر چار تکبیریں کہا کرتے تھے اور ایک جنازے پر انہوں نے پانچ تکبیریں کہیں۔ پس ہم نے پوچھا کہ آپ تو ہمیشہ چار تکبیریں کہتے تھے۔ آج پانچ کیوں کہیں تو وہ فرمانے لگے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی پانچ تکبیریں کہتے تھے۔ اس کو مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں نماز جنازہ کی تکبیرات کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ آیا تکبیروں کی تعداد پانچ ہے یا چار۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تکبیرات چار ہیں۔ اس پر اجماع ہے کہ پانچ تکبیریں کبھی کبھار کہی گئی ہیں۔ یا ابتداء میں کبھی تھیں اور حضور ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ بھی منقول ہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ آخر الامر آپ ﷺ سے چار ہی ثابت ہوتی ہیں۔ جو چار کے علاوہ منقول ہیں وہ منسوخ ہیں اور اگر زید بن ارقم صحابی نسخ کے قائل نہ ہوں۔ تو ان کی وجہ سے اجماع میں کچھ ضرر واقع نہیں ہوتا۔

نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ

۹/۱۵۵۱ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ فَابْتَحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ - [رواه البخاری]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۰۳/۳ - حدیث رقم ۱۳۳۵ - وابوداؤد فی السنن حدیث رقم ۳۱۹۸ والترمذی فی السنن حدیث رقم ۳۴۵۰۳ - النسائی حدیث رقم ۷۵۱۴ وابن ماجہ ۴۷۹/۱ حدیث رقم ۱۴۹۵ -

ترجمہ: حضرت طلحہ بن عبد اللہ بن عوف تابعیؓ سے کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ کے پیچھے جنازہ کی نماز پڑھی۔ تو انہوں نے تکبیر اولیٰ کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کے بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک سنت سے مراد یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کا نماز جنازہ میں پڑھنا واجب نہیں ہے انتہی۔ اگر سورۃ فاتحہ پڑھی جائے تو یہ سنت کے قائم مقام ہوتی ہے اور ابن ہمامؒ نے کہا ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ مگر ثناء کی نیت سے پڑھے۔

اور حضور اکرم ﷺ سے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ثابت نہیں ہے چنانچہ ابن عمرؓ اس کو جنازہ میں نہیں پڑھتے تھے۔ انتہی اور امام شافعیؒ کے نزدیک پڑھنا واجب ہے پس ان کے نزدیک سنت سے مراد طریقہ ہے۔ پس اس تاویل سے وجوب کی نفی نہ ہوئی۔

آپ ﷺ کی ایک جنازے کے موقع پر جامع دُعا

۱۰/۱۵۵۲ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَاَرْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاَعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ لُزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالْقَلْحِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الْقُوبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِزَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِي رَوَايَةٍ وَفِيهِ فَتَنَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُ النَّارِ قَالَ حَتَّى تَمَيَّنْتُ اَنْ اَكُونَ اَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتُ - [رواه مسلم]

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۶۶۲/۲ حدیث رقم (۱۵۰ - ۹۶۳) - والنسائی فی السنن ۸۳/۴ حدیث رقم ۱۹۸۳ - وابن ماجہ ۴۸۱/۱ حدیث رقم ۱۵۰۰ -

ترجمہ: حضرت عوف بن مالکؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک جنازہ پر نماز پڑھی۔ پس میں نے نبی کریم ﷺ کی دعایا ذکر لی۔ یعنی آپ ﷺ تیسری تکبیر کے بعد فرماتے تھے اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ اس کی نیکیوں کو قبول کر اور اس کو کمزور ہاتھ سے نجات عطا فرما اور اس کی تقصیرات کو معاف فرما اور جنت میں اس کی مہمانی بہتر کر دے اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے اس کو پانی بریف اور اولے کے ساتھ پاک اور اس کو گناہوں سے پاک کر دے جیسا کہ تو

سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے اور دنیا کے گھر سے بہتر گھر بدلہ میں اور بہتر اہل عطا فرما دینا کے اہل والوں سے یعنی (خادموں) سے اور دنیا کی بیوی سے بہتر بیوی عنایت فرما اور اس کو جنت میں داخل کر دے (ابتدا) اور اس کو عذاب قبر سے پناہ دے یا فرمایا دوزخ کے عذاب سے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کو قبر کے فتنہ سے بچا یعنی فرشتوں کے جواب میں پریشانی ہے اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے جب میں نے یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میت کے بارے میں سنی تو مجھے رشک آنے لگا۔ یہاں تک کہ میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میں اس مرنے والے کی جگہ میں ہوتا۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ دعا کا خلاصہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کے لیے دعا فرمائی یا الہی! اس کو دنیا کی عورتوں سے بہتر بیوی یعنی حور عین عنایت فرما۔ پس اس بات میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ دنیا کی عورتیں حوروں سے افضل ہوگی۔ نماز روزے کی وجہ سے جیسے کہ حدیث میں وارد ہو چکا ہے اور منیہ میں لکھا ہے کہ اس دعا کو آہستہ پڑھنا مستحب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے پکار کر پڑھی ہے۔ یہ دعا نسائی اور ترمذی نے بھی روایت کی ہے اور امام بخاری نے لکھا ہے جو دعا میں میت کے لیے حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ ان میں یہ دعا سب سے بہتر ہے۔

مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا ثبوت

۱۱۵۵۳/۱ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا تَوَقَّي سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ أَدْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أَصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِي بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سَهْلًا وَآخِيَهُ۔ [رواہ مسلم]

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۶۶۹/۲ حدیث رقم (۱۰۱-۹۷۳)۔ وابوداؤد فی السنن ۵۳۱/۳ حدیث رقم ۳۱۹۰۔
ترجمہ: ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں کہ ان کو مسجد میں داخل کرو۔ تاکہ میں بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکوں۔ تو لوگوں نے مسجد میں داخل کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں۔ البتہ تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹوں کی مسجد میں نماز جنازہ پڑھی تھی یعنی سہل اور اس کے بھائی کی۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں ائمہ کرام رحمہم اللہ کا اختلاف ہے اور امام شافعی کے نزدیک مذکورہ حدیث کی رو سے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمہم اللہ کے نزدیک مکروہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فرمان کا انکار کر دیا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا نہیں تھا۔ چنانچہ مسجد کے قریب ایک جگہ مقرر تھی۔ وہاں نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی اور ابو داؤد و شریف میں ممانعت کی حدیث بھی موجود ہے کہ جو کوئی مسجد میں نماز جنازہ پڑھے گا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو جواز کی روایت پیش کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی۔ یہ عذر کی بنا پر تھا کہ بارش برس رہی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں صراحتاً آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف تھے اس لیے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی۔

نمازِ جنازہ پڑھاتے وقت امام کہاں کھڑا ہو اس کے تعین کے بارے میں ائمہ

کرامِ مسلم کا اختلاف

۱۲/۱۵۵۳ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَا تَتَّ فَمِنْ نَفَاسِهَا لَقَامَ وَسَطَکَهَا۔ [متفق علیہ]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۰۱/۳۔ حدیث رقم ۱۳۳۱۔ ومسلم فی صحیحہ ۶۶۴/۲ حدیث رقم (۸۷-۹۶۴)۔
وابوداؤد فی السنن ۵۳۶/۳ حدیث رقم ۳۱۹۵۔ والترمذی ۳۵۳/۳ حدیث رقم ۱۰۳۵۔ والنسائی ۷۰/۴ حدیث رقم ۱۹۷۶۔ وابن ماجہ ۴۷۹/۱ حدیث رقم ۱۴۹۳۔ واحمد فی المسند ۱۴۱۵۔

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ میں نے ایک عورت کے جنازے کے موقع پر جو نفاس کی وجہ سے فوت ہو گئی تھی نبی کریم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی۔ پس آپ ﷺ اور میان میں کھڑے ہوئے۔ (بخاری اور مسلم)

تشریح: حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نمازِ جنازہ پڑھاتے وقت امام کہاں کھڑا ہو اس کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف احوال ہیں۔

امام شافعیؒ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام عورت کے کولہوں کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے اور مرد کے سر کے سامنے کھڑا ہو۔ یہ حدیث دلیل ہے عورتوں کی نماز کے لیے اور دوسری بات دوسری حدیث سے ثابت ہے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو خواہ مرد ہو یا عورت۔ شیخ ابن ہمام نے کہا ہے کہ حدیث سینے کے سامنے کھڑے ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سینہ تمام اعضاء کے درمیان میں ہوتا ہے اوپر سر اور ہاتھ ہوتے ہیں۔ نیچے پیٹ اور پاؤں ہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ آپ ﷺ سینے کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں کولہوں کی طرف مائل ہوں۔ راوی نے دونوں چیزوں کی قربت کی وجہ سے گمان کیا آپ ﷺ اس کے درمیان کولہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہوں۔

اور شمشی نے کہا ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ سے مروی ہے کہ امام عورت کے کولہوں کے سامنے کھڑا ہو۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی حد مقرر نہیں ہے جس جگہ بھی کھڑا ہو جائے درست ہے۔

آپ ﷺ کا قبر پر نمازِ جنازہ پڑھنا

۱۳/۱۵۵۵ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرِ دُفْنٍ لَيْلًا فَقَالَ مَتَى هَذَا قَالُوا الْبَارِحَةَ قَالَ أَفَلَا آذِنْتُمُونِي قَالُوا دَفَنَاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ فَقَامَ فَصَفَّقْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ۔ [متفق علیہ]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱۷۱/۳۔ حدیث رقم ۱۲۴۷۔ ومسلم فی صحیحہ ۶۵۸/۲ حدیث رقم (۶۹-۹۵۴)۔
وابن ماجہ ۴۹۰/۱ حدیث رقم ۱۵۳۰۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا گزر ایک قبر پر سے ہوا جس میں مردے کو رات کے وقت دفن کیا گیا تھا۔ پس آپ ﷺ نے پوچھا کہ دفن کیا گیا تھا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا آج۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پس تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ کہ ہم نے اس کو اندھیری رات میں دفن کیا تھا۔ پس ہم نے آپ ﷺ کو جگانا پسند سمجھا۔ پھر آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھی پھر اس پر نماز پڑھی۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ بعد از تدفین قبر پر نماز جنازہ پڑھی جاسکتی ہے جیسا کہ آپ ﷺ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے آپ ﷺ نے طلحہ بن براء بن عمیر کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔

قبر کو منور کرنے کے لیے آپ ﷺ کا قبر پر نماز جنازہ پڑھنا

۱۵۵۶/۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقِمُ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًا فَقَفَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ أَذْنُبُونِي قَالَ فَكَانَتْهُمْ صَغُرًا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ دُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ فَلَتَوَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَنْوِرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ۔ [متفق علیہ ولفظہ لمسلم]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۰۴۱۳۔ حدیث رقم ۱۳۳۷۔ و مسلم فی صحیحہ ۶۵۹۲/۲ حدیث رقم (۷۱-۹۵۶)۔
وابن ماجہ ۴۹۰۱/۱ حدیث رقم ۱۵۳۳۔ واحمد فی المسند ۳۸۸۱/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کالے رنگ کی عورت مسجد (نبوی) میں جھاڑو دیتی تھی یا ایک تو جوان تھا جو جھاڑو دیا کرتا تھا۔ پس نبی کریم ﷺ نے اس کو موجود نہ پایا تو آپ ﷺ نے صحابہ سے اس عورت یا جوان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں گیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا مر گئی یا مر گیا ہے۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا تاکہ میں بھی نماز جنازہ پڑھتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ صحابہ نے حقیر جانا (کم جانا) اس عورت کو یا اس شخص کو کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس شخص کے لیے آپ کو تکلیف دیں۔ حقیقت میں آپ ﷺ کی تعظیم مقصود تھی۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتادو پھر آپ ﷺ کو اس کی قبر کے بارے میں بتایا گیا۔ آپ ﷺ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی اور ارشاد فرمایا کہ قبر تاریکیوں سے بھری ہوتی ہے میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے قبر کو روشن کر دیتا ہے۔ جو اس پر میں نے نماز پڑھی۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ اس کے لفظ مسلم کے ہیں۔

تشریح: اس روایت میں راوی کو شک ہے کہ عورت جھاڑو دیتی تھی یا مرد جھاڑو دیتا تھا اور ان قبروں سے مراد وہ قبریں ہیں جن پر آپ ﷺ کا نماز جنازہ پڑھنا ممکن تھا اور اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے کہ آیا قبروں پر نماز جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ پڑھنا شروع ہے خواہ پہلے پڑھ چکے ہوں یا نہ پڑھ چکے ہوں۔

ابراہیم نخعی ابو حنیفہ اور امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ اگر پہلے نماز جنازہ نہ پڑھی ہو تو پڑھنا درست ہے۔ اگر پہلے پڑھ چکے

ہوں تو پڑھنا درست نہیں ہے لیکن امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک شرط یہ ہے کہ اگر میت قبر میں پھٹی نہ ہو تو نماز پڑھنا درست ہے۔ اگر پھٹ گئی ہے تو درست نہیں ہے بعضوں نے اس بات کا اندازہ تین دن سے کیا ہے اگر دفن کرنے کے بعد تین دن نہیں گزرے تو سمجھ لیجئے کہ مردہ نہیں پھٹا اگر تین دن یا زیادہ گزر چکے ہوں تو جان لیجئے کہ وہ پھٹ چکا ہوگا اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ قبروں پر نماز جنازہ پڑھ لیا کرتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے جو کہ دوسرے لوگوں کے لئے حکم نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے نورانی ہونے کے لیے پڑھتے تھے اور مطلقاً درست نہیں ہے۔

چالیس موحد آدمیوں کے جنازے میں حاضر ہونے کی فضیلت

۱۵/۱۵۵۷ وَعَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ بِقُدَيْدٍ أَوْ بَعْضَانِ فَقَالَ يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَخَرَجْتُ فَإِذَا أَنَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أُخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يَشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ - [رواه مسلم]

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۶۵۵/۲ حدیث رقم (۵۹-۹۴۸)۔ وابن ماجہ ۴۷۷/۱ حدیث رقم ۱۴۸۹۔ واحمد فی المسند ۲۷۷/۱۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت کریم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا مقام قدید میں یا عسفان میں فوت ہو گیا۔ یہ دونوں جگہوں کے نام ہیں اور مکہ کے قریب ہیں پس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کی نماز جنازہ کے لیے کس قدر لوگ جمع ہیں۔ کریم نے کہا میں نکلا تو دیکھا بہت زیادہ لوگ جمع ہو چکے تھے۔ میں نے آکر ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ کیا تیرے گمان کے مطابق چالیس آدمی ہو گئے۔ کہا ہاں۔ ابن عباس نے ارشاد فرمایا جنازہ کو کالو۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان مر جائے اور اس کی نماز جنازہ میں چالیس آدمی شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرماتے ہیں۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

۱۶/۱۵۵۸ وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَلْفُونَ مِائَةَ كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ - [رواه مسلم]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۲۸/۳۔ حدیث رقم ۱۳۶۷۔ ومسلم فی صحیحہ ۶۵۵/۲ حدیث رقم (۶۰-۹۴۹)۔ والترمذی فی السنن ۳۷۳/۳۔ حدیث رقم ۱۰۵۹۔ والنسائی ۴۹/۴ حدیث رقم ۱۹۳۲۔ واحمد فی المسند ۲۸۱/۳۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں جب میت کی نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت پڑھے جن کی تعداد سو کو پہنچ جائے۔ تو سب اس کے لیے شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت میت کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿۱﴾ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے جنازے میں سو آدمی شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سو آدمیوں کی شفاعت کو میت کے حق میں قبول فرمالیے ہیں۔

اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر چالیس (۴۰) آدمی شریک ہو جائیں جو خدا کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت بھی میت کے حق میں قبول فرمالیے ہیں۔

ممکن ہے کہ پہلے سو کی فضیلت اُتری ہو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حال پر فضل و کرم فرماتے ہوئے چالیس ۴۰ کے جمع ہونے کی فضیلت اتاری ہو۔ احتمال ہے کہ دونوں عددوں سے کثرت مراد ہے نہ کہ خاص عدد۔

لوگوں کے تذکرے کی بنا پر میت کے ساتھ سلوک (جنت یا دوزخ)

۱۵۵۹/۱۷ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَتَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَتَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ مَا وَجَبَتْ فَقَالَ هَذَا أَتَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَتَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ (متفق عليه وفي رواية) الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ - [متفق عليه]

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک جنازے پر گزرے۔ پس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ کیا تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا واجب ہوئی۔ پھر وہ دوسرے جنازے پر گزرے پس انہوں نے اس کا برائی کے ساتھ تذکرہ کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا واجب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا واجب ہوئی؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت اور جس شخص کا تم نے برائی کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہے۔ پس تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو جاؤ۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ مؤمن زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔

تشریح ﴿۲﴾ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوگ مرنے والے کا تذکرہ فرمائیں گے اسی طرح کامیت کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت نے جس میت کا اچھا تذکرہ فرمایا۔ تو آپ ﷺ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جنت واجب ہو چکی ہے اور جس میت کا برا تذکرہ فرمایا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم واجب ہو چکی ہے۔ مؤمن زمین میں بطور اللہ کے گواہ کے ہیں۔

اور مظہر نے کہا ہے یہ حکم عام نہیں ہے کہ جس شخص کے حق میں ایک جماعت گواہی دیدے خیر یا شرکی۔ تو پہلے کے لیے جنت کی امید کی جاسکتی ہے اور دوسرے کے لیے دوزخ کا خوف مراد ہو سکتا ہے باقی یہ بات کہ آپ ﷺ نے جو دوزخ اور جنت کے واجب ہونے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مطلع کر دیا ہو۔ بلکہ زین العرب نے کہا ہے کسی کا بھلائی اور برائی کے ساتھ ذکر کرنا اس کے جنت اور جہنم کے واجب ہونے کو ثابت نہیں کرتا۔ بلکہ یہ جنتی اور دوزخی ہونے کی علامت ہے۔ کسی نیک آدمی کی تعریف کرنا اپنی ذاتی خواہش کے بغیر اور کسی کو برا کہنا یہ علامت تو ہو سکتی ہے جنتی اور دوزخی ہونے کی۔ ورنہ اگر کوئی فاسق شخص اٹھ کر۔ اہل فسق کی تعریف کرے۔ یا ایک نیک جنت

آدی کی تعریف بیان کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ باقی حدیث میں جو آیا ہے کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ یہ اکثریت کے اعتبار سے فرمایا ہے کہ بندہ جیسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی بندوں سے کہلواتا ہے اور یہ کہنا کہ جنتی اور جہنمی ہونے کی علامت ہے یہ بات ہرگز نہیں ہے جو کچھ صحابہ کرام یا مومن کہہ دیں۔ ان کے کہنے سے جنتی نہیں ہو جائیگا اور نہ ان کے کہنے سے دوزخی بن جائے گا۔ بلکہ اس کو جنتی کہنا اور کسی کو جہنمی کہہ دینا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے لیے کثیر جماعت گواہی دے۔ بلکہ اس کے لیے جنت کی امید کی جاسکتی ہے کہ اس کے لیے ایک جماعت نے بھلائی (نیکی) کی گواہی دی ہے اور اگر اس کے لیے ایک کثیر جماعت نے برائی کی گواہی دی ہے۔ تو دوزخ کے عذاب کا خوف کیا جاسکتا ہے قطعی طور پر جنتی اور جہنمی ہونے کی گواہی نہیں دی جاسکتی۔ واللہ اعلم۔

مؤمنوں کی گواہی پر جنت کا فیصلہ آپ ﷺ کی زبانی

۱۷/۱۵۲۰ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ قُلْنَا قَالَتْ ثَلَاثَةٌ قُلْنَا وَالْإِنْسَانِ قَالَ وَالْإِنْسَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ۔ [رواه البخاری]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۲۹/۳ حدیث رقم ۱۳۶۸۔ والنسائی فی السنن ۵۰/۴ حدیث رقم ۱۹۳۴۔ واحمد فی المسند ۲۲/۱۔

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کے حق میں چار شخص بھلائی کی گواہی دیں اللہ تعالیٰ اس کو بہشت (جنت) میں داخل کرے گا۔ ہم نے کہا اگر تین شخص گواہی دیں تو پھر بھی جنت میں داخل کرے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا اگر تین آدمی بھی گواہی دیں تب بھی داخل کریگا اور ہم نے کہا اگر دو آدمی گواہی دیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا دو بھی پھر ہم نے ایک شخص کی گواہی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ بندے کو اس کی نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مؤمنوں کا اس پر گمان درست ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے کہ یہ صالح انسان ہے جیسے کہ کہا گیا ہے: السنة الخلق اقلام الحق۔ یعنی مخلوق کی زبانیں حق کے قلم ہیں۔

میت کو برامت کہو

۱۹/۱۵۶۱ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا۔ [رواه البخاری]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۵۸/۳۔ حدیث رقم ۱۳۹۳۔ والنسائی فی السنن ۵۳/۴ حدیث رقم ۱۹۳۶۔ والدارمی ۳۱۱/۲ حدیث رقم ۲۵۱۱۔ واحمد فی المسند ۱۸۰/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا مردوں کو برامت کہو۔ تحقیق وہ اس چیز کا بدلہ پالیں گے جو انہوں نے آگے بھیجی ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے مردوں کو برا کہنے سے اور لعن کرنے اور گالیاں وغیرہ دینے سے سختی سے منع فرمایا ہے اگرچہ وہ کافرو عاجز ہی کیوں نہ ہو۔ مگر جس کا کفر پر مرنا یقیناً ثابت ہو چکا ہے تو اس کو برا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے فرعون۔ ابولہب ابوجہل وغیرہ۔ اس لیے کہ جیسا انہوں نے دنیا میں کام کیا۔ اس کا بدلہ پالیا اگر مرنے والا نیک آدمی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ثواب پایگا اور جنت حاصل کرے گا۔ اس کو برا نہیں کہنا چاہیے اگر بدکار ہے شاید کہ مرنے کے بعد اللہ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہو۔ اگر نہ بھی بخشا ہو تو تمہیں اس کی برائی کرنے میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد مردے کو گالی مت دو۔ یعنی اس کو برا نہ کہو۔ کیونکہ وہ اعمال کا بدلہ آخرت میں حاصل کر لے گا۔

تدفین کے وقت قاری قرآن کا اکرام

۲۰/۱۵۲۳ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخَذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِيَدَيْهِمْ وَكَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَكَمْ يُغْسَلُونَ [رواه البخاری]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۱۲/۳۔ حدیث رقم ۱۳۴۷۔ والترمذی فی السنن ۳۵۴/۳۔ حدیث رقم ۱۰۳۶۔ والنسائی ۶۲/۴۔ حدیث رقم ۱۹۵۵۔ وابن ماجہ ۴۸۵/۱۔ حدیث رقم ۱۰۳۶۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ شہزادے اُحُد میں سے دو شخصوں کو ایک کپڑے میں جمع کرتے تھے پھر فرماتے تھے کہ ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ جب اشارے سے آپ ﷺ کو ایک کے بارے میں بتا دیا جاتا تو اس کو قبر میں آگے کر دیتے یعنی قبلہ کی جانب گویا کہ وہ قاری ہونے کی وجہ سے امام ہو جاتا اور فرماتے کہ میں قیامت کے دن کو اسی دوں گا کہ یا اللہ تیرے راستے میں مارے گئے اور پھر آپ ﷺ نے ان کو ان کے خون سمیت دفن کرنے کا حکم فرمایا اور نہ ان پر نماز پڑھی اور نہ ہی ان کو غسل دیا۔ اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ عرب میں کپڑے کی قلت کی وجہ سے ایک کپڑے میں دو کو دفن کیا گیا۔ علامہ طبریؒ نے لکھا ہے فی ثوب واحد سے مراد فی قبر واحد ہے یعنی اس سے مراد ہے کہ دو آدمیوں کو ایک قبر میں اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شہید کے لیے نہ غسل ہے نہ نماز۔ شہید کو غسل نہ دینے پر تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے اور نماز نہ پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہے امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھے اور امام اعظم ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے ان کی دلیل بہت زیادہ حدیثوں پر مشتمل ہے۔

جنازے کے ساتھ پیدل چلنا

۲۱/۱۵۲۳ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَرَسٍ مَعْرُورٍ فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ اللَّحْدِاحِ وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ [رواه مسلم]

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۶۶۴/۲۔ حدیث رقم (۸۹-۹۶۵)۔ وابوداؤد فی السنن ۵۲۱/۳۔ حدیث رقم ۳۱۷۸۔ والترمذی ۳۳۴/۳۔ حدیث رقم ۱۰۱۳۔

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کے پاس بغیر زین کے گھوڑا لایا گیا۔ پس نبی کریم ﷺ اس پر سوار ہوئے اس وقت کہ جب ابن دحراح کے جنازے سے لوٹے اور ہم حضور ﷺ کے گرد چل رہے تھے اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنازے کے ساتھ پیدل چلنا چاہیے۔ نبی کریم ﷺ ابن دحراح رضی اللہ عنہ کے جنازے کے ساتھ پیدل چلے اور فرمایا کہ ملائکہ پیدل چلتے ہیں۔ سوار ہونا مناسب نہیں سمجھا اور جب جنازے سے واپس ہوئے تو سوار ہوئے پس اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جنازے سے لوٹتے ہوئے سوار ہونا مکروہ نہیں ہے۔

الفصل الثانی:

جنازے کے ساتھ چلنے کا طریقہ

۲۲/۱۵۶۳ وَعَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّكَّابُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمَشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا وَالسَّقَطُ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيَدْعُو لَوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ (رواه ابو داود وفي رواية احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه) قَالَ الرَّكَّابُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَفِي الْمَصَابِيحِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زَيْدٍ -

اخرجه ابو داود في السنن ۵۲۲/۳ حديث رقم ۳۱۸۰ - والترمذي في السنن ۳۴۹ حديث رقم ۱۰۳۱ - والنسائي ۵۵/۴

حديث رقم ۱۹۴۲ - وابن ماجه ۴۷۵/۱ حديث رقم ۱۴۸۱ - واحمد في المسند ۲۴۷/۴

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سوار جنازے کے پیچھے چلے اور پیدل چلنے والا اس کے پیچھے چلے اور آگے چلے اور اس کے دائیں بائیں چلے اور کچے بچے (یعنی ناتمام بچے) کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے ماں باپ کے لیے اگر دونوں مسلمان ہوں بخشش و رحمت کی دعا کی جائے۔ اس کو ابو داود نے نقل کیا ہے۔ احمد ترمذی اور نسائی ابن ماجہ کی ایک روایت کے اندر اس طرح ہے فرمایا سوار جنازے کے پیچھے چلے اور پیادہ (پیدل چلنے والا) جس طرف چاہے چلے اور لڑکا مر جائے تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے اور مصابیح میں روایت مغیرہ بن زید سے ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ سوار جنازے کے پیچھے چلے۔ یہ عذر پر محمول ہے یا جواز پر اور ہمارے نزدیک پیدل چلنے والے کے لیے پیچھے چلنا افضل ہے اور امام شافعی کے نزدیک آگے چلنا افضل ہے اور جنازے کے دائیں بائیں چلنا جائز ہے اور چاروں طرف چلنے میں بہتر یہ ہے کہ وہ جنازے کے قریب رہے۔ تاکہ بوقت ضرورت معین و مددگار رہے۔ اور ناتمام بچے پر ہمارے اور امام شافعی کے نزدیک نماز جنازہ پڑھی جائے گی جب پیدا ہوتے وقت زندگی کی کوئی علامت پائی جائے۔ یعنی بچے کی پیدائش کے وقت عضو اس کا کوئی حرکت کرے اور اس کے بعد مر جائے۔

اور امام احمد کے نزدیک اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے جب وہ چار مہینے اور دس دن کے بعد پیدا ہو۔ اگرچہ آواز کا ٹکنا معلوم نہ ہو اور ابن ہمام نے کہا ہے کہ اس میں بہتر یہ ہے کہ اس کا اکثر حصہ نکل چکے اور وہ زندہ ہو۔ یعنی اگر آدھے سے زیادہ نکل

آیا اور حرکت بھی کرتا ہے تو نماز پڑھی جائے اور اگر کم نکلا ہے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی اور اس کے ماں باپ کے لیے دعا کی جائے اور ہمارے نزدیک مستحب یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک پڑھے اور دوسری تکبیر کے بعد دور و شریف پڑھے۔ جو التحیات میں پڑھتے ہیں اور تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر لحینا اور لڑکے کے جنازے پر اللہم اجعلہ لنا فرطاً واجعلہ لنا ذخراً واجعلہ لنا شافعاً ومشفعاً پڑھے اور دوسری روایت میں لفظ سقط کی بجائے لکفل واقع ہوا ہے مراد دونوں سے ایک ہی ہے (یعنی ناتمام بچہ) لڑکے پر نماز پڑھنے کے بارے میں کلام ہے اور مصابیح میں مغیرہ بن زیاد ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ معلوم نہیں کہ یہ تحریف کیونکر واقع ہوئی ہے۔ اس لیے کہ مغیرہ بن زیاد نہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں اور نہ ہی تابعین رضی اللہ عنہم میں سے ہیں اور یہ حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔

جنازے سے آگے چلنے پر شیخین کا عمل

۲۳ / ۱۵۶۵ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ

يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ - (رواه احمد و ابوداد وابن ماجة وقال الترمذی و اهل الحديث کانهم یرونہ مرسلًا)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۵۲۲/۳۔ حدیث رقم ۳۱۷۹۔ و الترمذی فی السنن ۳۲۹/۳ حدیث رقم ۱۰۰۷۔ والنسائی

۵۶/۴ حدیث رقم ۱۹۴۴۔ و ابن ماجة ۴۷۵/۱ حدیث رقم ۱۴۸۲۔ و مالک فی الموطأ ۲۲۵/۱ حدیث رقم ۸ من

کتاب الجنائز۔ و احمد فی المسند ۸/۲۔

ترجمہ: زہری سے روایت ہے کہ سالم نے نقل کی اور انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا۔ یعنی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے

فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ جنازے کے آگے چلتے تھے۔ اس کو امام

احمد ابوداؤد و ترمذی اور نسائی ابن ماجہ اور امام ترمذی اور اہل حدیث اس کو مرسل جانتے ہیں۔

تشریح: حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ وہ جنازے

کے آگے چلا کرتے تھے اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی جنازے کے آگے چلتے تھے۔

یہ حدیث امام شافعی اور امام احمد کی دلیل ہے ان حضرات کے نزدیک جنازے کے آگے چلنا افضل ہے اور امام اعظم

ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے مابعد حدیث پر عمل کر کے کہا ہے کہ پیچھے چلے یہ مناسب ہے۔ لوگ جنازے کو دیکھ کر عبرت پکڑتے ہیں اور

جنازے کو کندھا دینے کے لیے مستعد رہتے ہیں اور پیچھے چلنے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ لوگ رخصت کرنے والوں کی طرح ہیں

جس طرح مہمان کو رخصت کرتے ہیں۔ جنازے کے ساتھ چلنے والے کے لیے کلام کرنا اور بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ ہے اور

قرآن پڑھنا بھی مکروہ ہے بلکہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرے اور اہل حدیث اس حدیث کو مرسل کہتے ہیں۔ اس کا راوی زہری

ہے یا سالم جو کے تابعین میں سے ہیں حقیقت میں یہ حدیث مرفوع ہے کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابی ہیں ان سے مروی ہے۔

جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے کیوں کہ وہ تابع نہیں ہے

۲۳ / ۱۵۶۶ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَازَةُ مَتَّبِعَةٌ وَلَا تَتَّبِعُ

لَيْسَ مَعَهَا مِنْ تَقَدَّمَهَا - رواه الترمذی وابو داود وابن ماجه قال الترمذی وابو ماجه الراوی رجل مجهول

اخرجه ابو داود فی السنن ۵۲۵/۳ حدیث رقم ۳۱۸۴ - والترمذی ۳۳۲/۳ حدیث رقم ۱۰۱۱ - وابن ماجه ۴۷۶/۱ حدیث رقم ۱۴۸۴ - واحمد فی المسند ۴۱۵/۱ -

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جنازہ تابع کیا گیا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں اور وہ خود تابع نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے پیچھے رہے۔ وہ شخص جنازے کے ساتھ نہیں جو آگے بڑھ جائے۔ (یعنی اس کو ساتھ چلنے کا ثواب نہیں ملتا) اس کو امام ترمذی اور ابو داود اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے امام ترمذی نے کہا ہے۔ ابو ماجہ راوی مجهول ہے۔

تشریح: یہ حدیث ہمارے مسلک کی تائید کرتی ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے اور جو پہلی حدیث گزری ہے۔ اس میں احتمال ہے کہ وہ بیان جواز کے لیے ہو اور ابو ماجہ مجهول راوی ہیں راوی کا متاخر ہونا مجتہد کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے یعنی ابو ماجہ امام اعظم سے پیچھے ہیں ان کا مجهول ہونا معزز نہیں ہے۔ کیونکہ ان تک پہنچنے والے تمام راوی اچھے ہیں۔

میت کو کندھا دینے پر حقوق کی ادائیگی

۲۵/۱۵۶۷ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ قُضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا [رواه الترمذی] وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَى فِي شَرْحِ السُّنَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ جَنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ -

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۵۹/۳ حدیث رقم ۱۰۴۱ - شرح السنۃ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص جنازے کے ساتھ چلے اور اس کو تین بار اٹھائے۔ پس اس نے اس کا حق ادا کر دیا جو اس پر تھا۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور تحقیق شرح السنۃ اس روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دو لکڑیوں کے درمیان سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا۔

تشریح: اس حدیث میں جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ جنازے کو اٹھانے والے کی مدد کرے پھر چھوڑ دے تاکہ اٹھانے والا راحت پکڑے پھر اٹھالے تھوڑی دیر راستے میں پھر چھوڑ دے۔ اس طرح تین بار کرے اور اس نے مؤمن کا حق جو اس پر تھا ادا کر دیا۔

اور دو لکڑیوں سے اٹھانے کا طریقہ یہ امام شافعی کا ہے کہ جنازے کو تین آدمی اس طرح اٹھائیں۔ کہ ایک آدمی جنازے کے آگے کھڑا ہو۔ دو لکڑیوں کے درمیان۔ یعنی دونوں ڈنڈوں کے درمیان اور دو آدمی اس کے پیچھے اور ہر ایک اپنے کندھے پر لکڑی رکھے پھر اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ جو چاہے اس کی مدد کرے۔

اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک افضل تر بیع ہے۔ یعنی چار آدمی جنازے کو اٹھائیں اور اس کی لکڑیوں کو کندھے پر رکھیں۔ اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور احتمال ہے کہ تین آدمیوں کی روایت جو اٹھانے کی ہے کسی خاص وقت

کے لیے ہو یا مکان کی تنگی کی وجہ سے ہو یا اٹھانے والوں کی قلت کی وجہ سے ہو۔

جنائزے کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے

۲۶/۱۵۶۸ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا فَقَالَ أَلَا تَسْتَحْيُونَ أَنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ۔

[رواه الترمذی وابن ماجہ وروی ابو داؤد نحوہ وقال الترمذی وقد روی عن ثوبان مو قوفا]

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۵۲۱/۳۔ حدیث رقم ۳۱۷۷۔ والترمذی ۳۳۳/۳۔ حدیث رقم ۱۰۱۲۔ ابن ماجہ ۴۷۵/۱۔ حدیث رقم ۱۴۸۰۔

ترجمہ: حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ پس لوگوں کو سوار دیکھا تو فرمایا۔ کیا تم حیا نہیں کرتے کہ خدا کے فرشتے اپنے قدموں پر ہیں۔ (یعنی پیدل چل رہے ہیں) اور تم جانوروں کی پیٹھوں (یعنی پشتوں) پر سوار ہو۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ اور اسی طرح کی روایت ابو داؤد سے بھی ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا ہے۔ ثوبانؓ سے یہ موقوف روایت کی گئی ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ مطلقاً جنازے کے پیچھے سوار ہو کر چلنا منع ہے اور اوپر ایک حدیث میں گزرا کہ سوار آدمی جنازے کے پیچھے چلے۔ پس ان دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح دی جائے گی کہ جنازے کے پیچھے سوار ہو کر چلنا جائز ہے۔ لیکن یہ معذور بیمار یا لنگڑے کے حق میں ہے یا اس کے علاوہ کوئی عذر رکھتا ہو اور جو شخص معذور نہیں ہے اس کے لیے جنازے کے پیچھے سوار ہو کر چلنا جائز نہیں ہے اور حدیث غیر معذور کے حق میں ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ضرورت محسوس کرے تو سوار ہو کر چلنا بلا کراہت جائز ہے اور موقوفاً کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول حضرت ثوبانؓ کا ہے۔ حضور ﷺ کی یہ حدیث نہیں ہے لیکن یہ بھی مرفوع کے معنی میں ہے اس لیے کہ وہ آپ ﷺ سے سنے بغیر نہیں بتا سکتے۔

۲۷/۱۵۶۹ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ۔

[رواه الترمذی وابن ماجہ وابی داؤد]

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۴۵/۳۔ حدیث رقم ۱۰۲۶۔ وابن ماجہ ۴۷۹/۱۔ حدیث رقم ۱۴۹۵۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے جنازے پر سورت فاتحہ پڑھی۔ اس کو امام ترمذی ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے جنازے پر سورہ فاتحہ پڑھنا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ابن عباسؓ کی حدیث میں گزرا ہے۔ آپ ﷺ نے جنازے پر نماز کے بعد سے پہلے بطور تبرک کے پڑھی اور امام ترمذی نے کہا ہے اس کی اسناد قوی نہیں ہیں۔

اس حدیث کا راوی منکر الحدیث ہے جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے یہ ابن عباسؓ کا قول ہے۔ نماز جنازہ میں فاتحہ کی قراءت مسنون ہے اور علماء نے جو لکھا ہے یہ صریح نہیں ہے یعنی کہ اس قول سے یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ حضورؐ نے سورہ فاتحہ پڑھی۔

میت کے لئے دُعا کرنے کا حکم

۲۸/۱۵۷۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا

لَهُ الدُّعَاءَ - [رواه ابو داود وابن ماجه]

اخرجه ابو داود في السنن ۵۳۸/۳ حديث رقم ۳۱۹۹۔ وابن ماجه ۴۸۰/۱ حديث رقم ۱۴۹۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میت پر نماز پڑھو تو خالص اس کے لیے دعا کرو۔ یعنی کسی کے دکھاوے کے لیے نہ ہو اور خالصتاً اللہ کی خوشنودی مقصود ہو اور دل سے دعا کرو۔ اس کو ابو داود اور ابن ماجہ نے نقل کیا۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ میت کے لیے خلوص دل سے دعا کرنی چاہیے۔ خلوص دل کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ ہو اور خالصتاً اللہ کی رضا مقصود ہو۔ لوگوں میں ناموری اور ریاکاری کے لیے نہ ہو۔

میت کے لیے دُعا

۲۹/۱۵۷۱ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا

وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرْنَا أَوْ أَنْفَانَا اللَّهُمَّ مِنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ

وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ (رواه احمد وابو داود

والترمذی وابن ماجه ورواه النسائی) عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ عَنْهُ قَوْلُهُ وَأَنْفَانَا

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَفِي آخِرِهِ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ۔

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۴۴/۳ حديث رقم ۱۰۲۴۔ وابن ماجه ۴۸۰/۱ حديث رقم ۱۴۹۸۔ واحمد فی المسند

۳۶۸/۲ اخرجہ ابو داود فی السنن ۵۳۹/۳ حديث رقم ۳۲۰۱۔ والترمذی ۷۴۰/۴ حديث رقم ۱۹۸۶۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ جس وقت جنازے کی نماز پڑھتے تھے تو فرماتے اے الہی!

ہمارے زندوں ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ! جس کو تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ اور جس کو تو

موت دے تو ایمان پر موت دے اے اللہ! تو ہمیں اس کے ثواب سے محروم نہ کر جو مصیبت کی وجہ سے ہم کو ملا ہے اور اس

کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈال۔ اس کو امام احمد اور ابو داود ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور امام نسائی نے ابراہیم اشہلی سے

روایت کی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے نقل کی ہے اور اس کی روایت لفظ اثنا تک پوری ہو چکی ہے اور ابو داود کی

روایت میں ہے کہ اس کو ایمان پر زندہ رکھ اور اسلام پر اس کو موت دے اور اس کے آخر میں یہ ہے اور اس کے پیچھے ہمیں

گمراہ نہ کر۔

تشریح: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ میت کے لیے جنازے میں دعا کرتے تو زندوں اور مردوں کے

لیے مردوں اور عورتوں کے لیے ایمان اور سلامتی کی دعا فرماتے اور کہتے کہ اے اللہ! مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے جو اجر و

ثواب ملنے والا ہے اس پر محروم نہ فرمائیے۔

آپ ﷺ کا میت کے لیے مغفرت و رحمت کی دُعا کرنا

۳۰/۱۵۷۲ وَعَنْ وَاللَّهِ بْنِ الْأَسْفَعِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانًا بَنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلٍ جَوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ [رواه ابو داود وابن ماجه]

اخرجه ابو داود في السنن ۵۴۰۱۳ حديث رقم ۳۲۰۲۔ وابن ماجه ۴۸۰/۱۱ حديث رقم ۱۴۹۹۔

حضرت ابن اسحق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ہمارے ساتھ ایک مسلمان شخص پر نماز پڑھی۔ پس میں نے حضور ﷺ سے سنا کہ آپ ﷺ فرماتے تھے اے اللہ فلاں ابن فلاں (یعنی فلاں کا بیٹا فلاں) تیری امان میں ہے اس لیے کہ تجھ پر ایمان رکھتا تھا اور قرآن کو چنگل مار کر پکڑنے والا ہے۔ (مضبوطی سے پکڑنے والا ہے) کیونکہ وہ امن دینے والا ہے اس کو قبر کے فتنے سے بچا (یعنی قبر کے عذاب سے) اور آگ کے عذاب سے۔ تو وفادار ہے یعنی جو بندوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ تو پورا کرتا ہے اور تو حق والا ہے جو کہتا ہے پورا کرتا ہے اے اللہ تو اس کی بخشش کر دے اور اس پر رحم فرما۔ تحقیق تو بخشنے والا مہربان ہے اس کو ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے مغفرت و بخشش کی دعا جن الفاظ کے ساتھ مانگی ہے ان کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔

ملا علی قارئ لفظ حبیل کے معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حبیل کا معنی عہد و پیمان ہے اور لفظی معنی رستی کے بھی ہیں لیکن آخری معنی جو زیادہ مناسب ہے وہ چنگل مارنے کے ہیں یعنی مضبوطی سے پکڑنا اور لفظ حبیل سے مراد قرآن پاک ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [آل عمران: ۱۰۳] یعنی چنگل مارو اللہ کی کتاب کے ساتھ اور جواز کے لفظ سے مراد قرآن کریم ہے اس میں اضافت بیان یہ ہے۔ یعنی قرآن کو چنگل مار کر پکڑو اور مل کر پکڑو۔ ایمان امان اور معرفت الہی کا سبب بنتا ہے۔

مردوں کو اچھے الفاظ سے یاد کرو یعنی ان کی خوبیاں بیان کرو

۳۱/۱۵۷۳ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ

مَسَاوِيهِمْ۔ [رواه ابو داود والترمذی]

اخرجه ابو داود في السنن ۲۰۶۱۵ حديث رقم ۴۹۰۰۔ وخرجه الترمذی ۳۳۹/۳ حديث رقم ۱۰۱۹۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کی نیکیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیاں کرنے سے باز رہو۔ اس کو ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ تم اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کیا کرو۔ کیونکہ نیک لوگوں کا

مردے کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا اور اس کی خوبیوں کو بیان کرنا۔ اس کے لئے نزولِ رحمت کا باعث ہے اور اس حدیث میں امرِ استحباب کے لیے ہے اور مردوں کی برائیاں ذکر کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس میں امر و جواب کے لیے ہے یعنی برائی کو ذکر نہ کرنا واجب ہے جیسے کہ حجۃ الاسلام نے فرمایا ہے کہ میت کی غیبت کرنا زندہ کی غیبت سے زیادہ سخت ہے اس لیے کہ زندہ سے تو دنیا میں بخشوانا ممکن ہے بخلاف میت کے کہ اس سے بخشوانا ممکن نہیں ہے۔

اور بعض علماء نے کتاب الاذکار میں لکھا ہے کہ اگر غسل دینے والا میت میں کوئی اچھی چیز دیکھے مثلاً چہرے کا روشن ہونا اور اس سے خوشبو آنا۔ تو اس کو بیان کرنا مستحب ہے اور اگر اس میں کوئی بری چیز دیکھے جیسے کہ مردے سے بو آتی ہو یا اس کا چہرہ کالا ہو جائے یا بدن میں کوئی اور عیب ظاہر ہو جائے تو اس کو بیان کرنا حرام ہے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔

مرد اور عورت کے جنازے پر امام کے کھڑا ہونے کا بیان

۳۲/۱۵۷۲ وَعَنْ نَافِعِ أَبِي غَالِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَهُ رَأْسَهُ ثُمَّ جَاءُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا يَا أَبَا حُمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ حِيَالَهُ وَسَطِ السَّرِيرِ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ ابْنُ زَيْدٍ هَلْ كُنَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مَقَامَ مَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ. [رواه الترمذی وابن ماجہ وفی رواية ابی داود نحو مجمع زیارة فقام عند عجیزة المرأة]

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۵۳۳/۳ حدیث رقم ۳۱۹۴۔ والترمذی ۳۵۲/۳ حدیث رقم ۱۰۳۴۔ وابن ماجہ ۴۷۹/۱۔ حدیث رقم ۱۴۹۴۔

ترجمہ: حضرت نافع رضی اللہ عنہ جن کی کنیت ابی غالب ہے کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے سر کے مقابل کھڑے ہوئے۔ پھر لوگ قریش کی ایک عورت کا جنازہ لے کر آئے اور کہنے لگے اے ابو حمزہ! (انس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے) اس عورت کی بھی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ پس آپ تخت کے درمیان کھڑے ہوئے اس پر حضرت علاء بن زیاد نے کہا کہ ہم نے نبی کریم ﷺ کو اسی طرح جنازے پر کھڑے ہوئے دیکھا ہے یعنی جس طرح آپ عورت کے جنازے کے درمیان میں کھڑے ہوئے اور مرد کے جنازے کے سر کے مقابل کھڑے ہوئے اس کو ابن ماجہ اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور ابو داؤد کی ایک روایت میں بھی اسی طرح مذکور ہے لیکن اس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ آپ ﷺ عورت کے کولہے کے پاس کھڑے ہوئے۔

تشریح: امام کو جنازہ پڑھاتے وقت میت کے کس مقام پر کھڑا ہونا چاہیے اس میں ائمہ کرام کا اختلاف پہلی فصل میں مذکور ہو چکا ہے۔

الفصل الثالث:

جنازے کے احترام میں کھڑے ہونا

۳۳/۱۵۷۵ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حَنْفٍ وَفَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ

فَمَرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَا فَقِيلَ لَهُمَا أَنَّهُمَا مِنَ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ الْيَسْتُ نَفْسًا - [متفق عليه]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۱۴/۳ حدیث رقم ۱۳۱۲۔ والبخاری فی صحیحہ ۲۱۴/۳۔ حدیث رقم ۱۳۱۲۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ کہل بن حنیف اور قیس بن سعد رضی اللہ عنہما قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو دونوں حضرات کھڑے ہو گئے۔ ان سے کہا گیا کہ یہ جنازہ ذی کا ہے۔ پس دونوں صحابیوں نے کہا۔ کہ آپ ﷺ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا آپ ﷺ کھڑے ہو گئے۔ آپ ﷺ کو بتایا گیا کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا یہ جاندار نہیں ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ جنازے کے گزرنے پر کھڑے ہونے میں مسلم اور غیر مسلم دونوں برابر ہیں۔ حدیث پاک میں جو اہل الارض کا لفظ آیا ہے اس سے مراد زمیندار ہے یعنی ذمی مراد ہے ان کو زمیندار کینگی اور رتبہ کم ہونے کی وجہ سے کہا گیا ہے یا اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے ان کو زمین پر مقرر کر رکھا ہے اور ان سے خراج وصول کرتے ہیں جب آپ ﷺ یہودی کے جنازے کے گزرنے پر کھڑے ہوئے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتایا۔ کہ یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ ﷺ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ کیا یہ جاندار نہیں ہے کہ اس کی موت سے انسان ڈرے اور عبرت حاصل کرے۔

الحاصل یہ کہ موت ڈر اور مقام عبرت ہے اس لیے وہ دونوں صحابہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق جنازے کے گزرنے پر کھڑا ہونا منسوخ ہو چکا ہے چنانچہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں صحابہ کو منسوخ ہونے کا علم نہ ہوا ہو۔

یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم

۳۳/۱۵۷۶ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَعَ جَنَازَةً لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تَوْضَعَ فِي اللَّحْدِ فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ لَهُ إِنَّا هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ خَالِفُوهُمْ -

[رواه الترمذی و ابو داود وابن ماجہ و قال الترمذی هذا حدیث غریب و بشر بن رافع الراوی لیس بالقوی]

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۵۲۰/۳ حدیث رقم ۳۱۷۶۔ والترمذی ۳۴۰/۳ حدیث رقم ۱۰۲۰۔ وابن ماجہ ۴۹۳/۱ حدیث رقم ۱۰۴۵۔

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جس وقت کسی جنازے کے ساتھ جاتے تو اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک اس کو قبر میں نہیں اتار دیا جاتا تھا۔ پس آپ ﷺ کے سامنے یہودیوں کا ایک عالم آیا اور اس نے آپ ﷺ سے کہا کہ اے محمد! ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت تک ہم بھی کھڑے رہتے ہیں۔ جب تک مردے کو قبر میں نہ رکھا جائے۔ پس راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ بیٹھ گئے اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اس کو امام ترمذی اور ابوداؤد و ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے

اور بشر بن رافع اس حدیث کا راوی قوی نہیں ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر حال میں یہودی یعنی غیر مسلمان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ آپ ﷺ کا طرز عمل جو یہودیوں کی مخالفت کے بارے میں ہے اس حدیث پاک میں نمایاں معلوم ہو رہا ہے۔

جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے

۳۵/۱۵۷۷ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ. [رواه احمد]

اخرجه احمد في المسند ۸۲/۱۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جانے کا حکم فرمایا پھر بعد میں بیٹھے رہے (یعنی پھر جنازے کو دیکھ کر قیام فرمانا چھوڑ دیا) اور ہمیں بیٹھ رہنے کا حکم فرمایا۔ اس کو امام احمد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ حدیث پاک کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونا مکروہ ہے۔ یہ امر بطور احتیاط کے ہے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ امر اباحت کے لیے ہے۔

۳۶/۱۵۷۸ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ إِنَّ جَنَازَةَ مَوْتٍ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ الْحَسَنُ أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَنَازَةِ يَهُودِيٍّ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ جَلَسَ۔ [رواه النسائي]

بخرجه النسائي في السنن ۴۶/۴ حدیث رقم ۱۹۲۴۔

ترجمہ: محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جنازہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا۔ پس حضرت حسن کھڑے ہوئے اور ابن عباس بیٹھ گھڑے نہ ہوئے اس پر حضرت حسنؓ نے کہا کیا نبی کریم ﷺ یہودی کے جنازے کے لئے کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں کھڑے ہوئے تھے لیکن پھر بیٹھ گئے تھے۔ اس کو امام نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث کا خلاصہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضور ﷺ جنازوں کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے اور اس کے بعد بیٹھ جاتے اور پھر اٹھتے نہیں تھے پھر کھڑا ہونا منسوخ ہو گیا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو منسوخی کا علم نہ ہوگا اس لیے انکار کیا۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زبانی یہودی کے جنازے پر کھڑے ہونے کا سبب

۳۷/۱۵۷۹ وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ جَالِسًا فَمَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ النَّاسُ حَتَّى جَاوَزَتِ الْجَنَازَةَ فَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّمَا مَرَّ بِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى طَرَفِهَا جَالِسًا وَكَرِهَ أَنْ تَعْلُوا رَأْسَهُ جَنَازَةَ يَهُودِيٍّ فَقَامَ۔ [رواه النسائي]

اخرجه النسائی فی السنن ۴۷/۴ حدیث رقم ۱۹۲۷۔

ترجمہ: حضرت جعفر بن محمد (یعنی جعفر صادق علیہ السلام) سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ محمد بن باقر سے نقل کیا ہے کہ حسن بن علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے قریب سے ایک جنازہ گزرا۔ پس لوگ کھڑے ہوئے یعنی وہ لوگ جن کو منسوخی کا علم نہ تھا۔ یہاں تک کہ جنازہ گزر گیا۔ پس حضرت حسن نے کہا۔ کہ جب یہودی کا جنازہ گزرا تھا۔ تو آپ ﷺ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ﷺ نے ناپسند کیا کہ یہودی کا جنازہ آپ ﷺ کے سر سے بلند ہو۔ اس لیے آپ ﷺ کھڑے ہوئے اس کو امام نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے اس لیے ہوئے تھے کہ اس کا جنازہ آپ ﷺ کے سر مبارک سے اونچا نہ ہو۔

پہلی حدیث میں حضرت حسن نے لوگوں کے جنازے پر کھڑے ہونے پر اعتراض کیا جبکہ اس سے پہلی حدیث میں آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر اس طرح کیا تھا۔ کہ وہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے پس ہو سکتا ہے کہ یہودی کے جنازے میں کھڑے ہونے والی حدیث میں تحقیق و تلاش سے یہ بات ثابت ہوگئی ہو کہ حضور ﷺ کا جنازہ کے لیے کھڑا ہونا کسی سبب کی وجہ سے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا ہوگا اور کھڑے ہونے کے اسباب مختلف تھے۔ کبھی تو ڈرنے کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور کبھی ملائکہ کی تعظیم کی خاطر کھڑے ہو جاتے اور کبھی یہودی کے جنازے کے بلند ہونے کی وجہ سے کہ کہیں میرے سر مبارک سے یہودی کا فر کا جنازہ بلند نہ ہو جائے اس سبب سے بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔

اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منقطع ہے اس لیے کہ امام محمد باقر حضرت حسن علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے۔

فرشتوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا

۳۸/۱۵۸۰ وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتْ بِكَ جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ فَقُومُوا لَهَا فَلَسْتُمْ لَهَا تَقُومُونَ إِنَّمَا تَقُومُونَ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ۔ [رواه احمد]

اخرجه احمد فی المسند ۳۹۱/۴۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تجھ پر (تیرے پاس سے) یہودی یا نصرانی کا جنازہ گزرے تو کھڑے ہو جاؤ۔ اس لیے کہ تم اس جنازے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ تم فرشتوں کے لیے کھڑے ہوتے ہو جو جنازہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کو امام احمد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کے اسباب مختلف تھے۔ چنانچہ ان کا بیان اوپر والی حدیث کی شرح میں مذکور ہو چکا ہے اور اس میں وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ کھڑے ہونے کا حکم پہلے تھا۔ اب منسوخ ہو چکا ہے اور منسوخی کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔

۳۹/۱۵۸۱ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَنَازَةَ مَرْتٍ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ فَقَالَ إِنَّمَا قُمْتُ لِلْمَلَائِكَةِ۔ [رواه النسائی]

هذا الحديث ساقط من مخطوطة المشكاة وكذلك من المرقاة. ولذا لم بشرحه الامام ملاعلی۔ وقد اثبت في نسخة المشكاة المطبوعة [مشكاة المصابيح ۵۳۰/۱ طبعه المكتب الاسلامی۔ تحقیق ناصر الدین الالبانی] وقد اثبت الحديث اتصافاً للفائدة. وحافظ على ترتيبه كما جاء في النسخة المطبوعة۔ فهو مثبت في المتن فقط دون الشرح۔ وهو في معنى الحديث السابق [۱۶۸۵] والله تعالى اعلم۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ ﷺ کھڑے ہو گئے۔ آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں ملائکہ کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔

جنازے کی تین صفوں پر بہشت کا وعدہ

۴۰/۱۵۸۲ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجِبَ فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقْلَّ أَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَاءَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ [رواه ابوا داؤد وفي رواية الترمذی قال كان مالك ابن هبيرة اذا صلى على جنازة] فَقَالَ النَّاسُ عَلَيْهَا جَزَاءَهُمْ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ أَوْجِبَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ .

اخرجه ابوداؤد في السنن ۵۱۴/۳ حديث رقم ۳۱۶۶ والترمذی في السنن ۳۴۷/۳ حديث رقم ۱۰۲۸۔ وابن ماجه ۴۷۸/۱ حديث رقم ۱۴۹۰۔

ترجمہ: مالک بن ہبیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس پر مسلمانوں کی تین صفیں نماز جنازہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت (جنت) اور مغفرت واجب کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت مالک رضی اللہ عنہ جب اہل جنازہ کو کم خیال کرتے تو اس حدیث کی وجہ سے لوگوں کو تین صفوں میں تقسیم کر دیتے تھے اس حدیث کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے اور ترمذی کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت مالک بن ہبیرہ جب کوئی نماز جنازہ پڑھاتے اور لوگوں کو کم خیال کرتے تو ان کو تین حصوں میں تقسیم کر دیتے اور فرماتے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے جس شخص کے جنازے میں تین صفیں شامل ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ ابن ماجہ نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔

تشریح: اس حدیث کا خلاصہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جنت کو واجب کرنا یہ عقائد کا مسئلہ ہے کہ جس شخص کے جنازے میں تین صفیں ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت و مغفرت اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے اور یہاں اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہشت کو واجب کرتے ہیں ظاہر ان دونوں باتوں میں منافات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدائے عزوجل کا اپنے اوپر کسی چیز کا واجب کر لینا یہ اس کی مہربانی اور وعدے کی بنا پر ہے۔ کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ رب العزت وعدے کو پورا نہ کریں۔ اس طرح کے واجب کرنے کو واجب الغیرہ کہتے ہیں اور واجب لذات حق تعالیٰ کے حق میں ممنوع ہے۔ علامہ کرمائی کا کہنا ہے کہ نماز جنازہ میں سب صفوں سے بہتر پچھلی صف ہے تو اضع کی وجہ سے۔ اس لیے کہ پچھلی صف ہونے سے عجز و انکساری نصیب ہوتی ہے اور جنازہ کے علاوہ دوسری نمازوں میں افضل پہلی

صف میں کھڑے ہونا ہے اور جنازے کے بعد میت کے لیے دعائے کرے کیونکہ یہ نماز جنازہ میں ایک قسم کی زیادتی ہے جو کہ منع ہے۔ اس لیے کہ نماز جنازہ خود ایک مستقل اور جامع دعا ہے۔ جس کے پڑھ لینے کے بعد کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے آمین۔ (م س)

آپ ﷺ کا میت کے لئے جامع دُعا کرنا

۳۱/۱۵۸۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جَنَّا شَفَعَاءَ فَأَغْفِرْ لَكُ [رواه ابو داود]

اخرجه ابو داود في السنن ۵۳۸/۳ حديث رقم ۳۲۰۰ واحمد في المسند ۴۵۸/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اے اللہ! تو اس کو پالنے والا ہے اور تو نے اس کو پیدا کیا ہے اور تو نے اس کو اسلام کی طرف ہدایت دی ہے اور تو نے ہی اس کی روح کو قبض کیا ہے اور تو اس کے باطن کو خوب جانتا ہے اور ہم سفارش کرنے کے لئے آئے ہیں۔ اے اللہ! تو اس کو بخش دے۔ اس کو ابو داود نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے ایک جنازے کے موقع پر میت کے لیے جامع دعا فرمائی ہے۔ جس کا ترجمہ مذکور ہو چکا ہے۔ جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے یا الہی تو ہی اس بندے کو پالنے والا ہے اور پیدا کرنے والا ہے اور تیرے کرم کی بارش سے اس کو اسلام کی دولت ملی ہے اور تو ہی اس کو دنیا میں بھیجنے والا ہے اور تو ہی اپنے پاس بلانے والا ہے یا الہی! یہ ہر لحاظ سے تیرا بندہ ہے (اور نہایت ہی گندا ہے) یا اللہ تو اس کے باطن کو خوب جانتا ہے اور اس کے ظاہر کا بھی خوب علم رکھتا ہے اور ہم تو اس کے سفارشی بن کر آئے ہیں یا الہی! ہماری سفارش کو قبول فرما کر اس کی بخشش فرما اور ہماری دعا کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔

نابالغ کے لیے عذابِ قبر سے پناہ مانگنا حدیث سے ثابت ہے

۳۲/۱۵۸۴ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خُطْبَةً قَطُّ فَمَسَمَعْتُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔ [رواه مالك]

اخرجه مالك في الموطأ ۲۲۸/۱ حديث رقم ۱۸ من كتاب الجنائز۔

ترجمہ: حضرت سعید بن المسیبؓ سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک ایسے لڑکے کی نماز جنازہ پڑھی کہ جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ پس میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نماز میں کہتے ہوئے سنا۔ کہ یا الہی! اس کو عذابِ قبر سے پناہ عطا فرما۔ اس کو امام مالکؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: علامہ ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ: لَمْ يَعْمَلْ خُطْبَةً قَطُّ۔ لفظ ”صَبِيٍّ“ کے لئے صفت کا صیغہ ہے اس لیے کہ

نابالغ کا گناہ کرنا مقصود نہیں ہو سکتا اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ عذاب قبر سے جو پناہ مانگی گئی ہے اس یہاں عقوبت (سزا) اور قبر کا سوال و جواب مراد نہیں ہے بلکہ قبر کی وحشت اور ضغطہ قبر مراد ہے۔ اور ان چیزوں سے بالغ و نابالغ ہر دو کو سابقہ پڑے گا۔ اس کو علامہ سیوطی نے ذکر کیا ہے اور علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ نابالغ سے قبر میں سوال و جواب ہوگا یا نہیں، بعض علماء کا کہنا ہے کہ بچوں سے قبر میں سوال نہیں ہوگا یہی درست ہے اس لیے کہ غیر مکلف کو عذاب ہونا یہ شریعت کے قاعدے کے خلاف ہے۔ واللہ اعلم۔

نمازِ جنازہ میں سورت فاتحہ پڑھنا اور نابالغ بچے کے لیے دُعا کرنا

۴۳/۱۵۸۵ وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيْقًا قَالَ يَقْرَأُ الْحَسَنُ عَلَى الْوَلَدِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَيَقُولُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا وَآخِرًا - [بخاری تعلیقاً]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۰۳/۱۳ تعلیق باب قراءة الفاتحة من كتاب الجنائز۔

ترجمہ: حضرت امام بخاریؒ سے تعلیقاً روایت ہے یعنی حدیث کے ترجمہ الباب میں یہ حدیث بغیر سند کے مذکور ہے کہ حسن بصریؒ بچے کے جنازے پر سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے یعنی تکبیر اولیٰ کے بعد سبحانک اللہم کی جگہ اور تیسری تکبیر کے بعد کہتے تھے یا الہی تو اس کو ہمارے لیے پیشوا (امام) اور پیش رو (اور آگے بڑھنے والا) اور باعث ثواب اور ذخیرہ بنا۔

تشریح: اس حدیث پاک میں حضرت حسن بصریؒ کا عمل بیان کیا گیا ہے کہ وہ نمازِ جنازہ میں سورت فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد یہ مذکورہ دعا پڑھتے جو پڑھنے والے کے لیے نفع سے خالی نہیں ہے۔ یعنی بچے کے وارث کے لیے اس میں آخرت کے منافع مضمر ہیں۔ یعنی ماں باپ کے لیے وہ فوت ہونے والا پیشوا بنے گا۔ ثواب اور ذخیرہ کا باعث بنے گا۔ جس طرح جمع کیا ہو مال انسان کے کام آتا ہے۔ اس طرح یہ بچہ بھی قیامت کے دن اس کے کام آئے گا۔ جس کی ہولناکی قرآن پاک میں بیان کر دی گئی اس آڑھے وقت میں یعنی مشکل وقت میں یہ بچہ تیرے لیے باعث غنیمت بن جائے گا۔ حقیقت میں اس کا مقصد ولوا حقین کو آخرت کی نعمتیں یاد رکھ کر تسلی و تشفی دینا مقصود ہے کہ بچے کے فوت ہونے پر صبر کا مظاہرہ کریں۔

(مس)

نا تمام بچے پر شرعی احکامات (نہ نماز پڑھی جائے نہ وارث بنے نہ بنایا جائے) نافذ نہیں ہوتے

۴۴/۱۵۸۶ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهْلَ - [رواه الترمذی وابن ماجہ الا انه لم يذكر ولا يورث]

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۵۰/۱۳ حدیث رقم ۱۰۳۲۔ وابن ماجہ ۴۸۳/۱ حدیث رقم ۱۰۳۲۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ نا تمام بچے پر نماز نہ پڑھی جائے اور نہ وہ کسی کا وارث ہو اور نہ ہی اس کو وارث بنایا جائے جب تک کہ پیدائش کے وقت کوئی آواز نہ آئے۔ یعنی جب تک زندگی کی علامت ظاہر نہ ہو۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے مگر ابن ماجہ نے وَلَا يورث کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔



تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ ناقم بچے کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے جب تک زندگی کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو جائے اور نہ وہ کسی کا وارث بنے اور نہ ہی بنایا جائے۔

۳۵/۱۵۸۷ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ

شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ يَعْنِي أَسْفَلَ مِنْهُ۔ [رواه الدار قطنی فی المحتجبی فی کتاب الجنائز]

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۳۹۹/۲ حدیث رقم ۵۹۷۔ والدار قطنی ۸۸/۲ حدیث رقم ۱ من باب نہی رسول اللہ ان يقوم الامام فوق شیء۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید انصاریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے امام کو تنہا کسی چیز کے اوپر کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے جبکہ اور لوگ اس کے پیچھے ہوں یعنی اس سے نیچے ہوں۔ اس حدیث کو دارقطنی نے مجتبیٰ میں کتاب الجنائز میں روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام فقط نیچے کھڑا ہو اور لوگ اونچے کھڑے ہوں تو بطریق اولیٰ منع ہوگا اور یہ حکم سب نمازوں کے لیے ہے۔ نماز جنازہ کی خصوصیت نہیں ہے اور حدیث کا لفظ بھی مخصوص نہیں ہے لیکن اس حدیث کو نماز جنازہ پر محمول کر کے اس باب میں لائے ہیں کیونکہ حدیث اس باب میں یعنی کتاب الجنائز میں آتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی یہ عادت ہو کہ نماز جنازہ میں اس طرح کرتے ہوں پس ان کو اس طریقے سے منع کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

بَابُ دَفْنِ الْمَيِّتِ

یہ باب مردوں کے دفن کرنے کے بیان میں ہے

الفصل الاول:

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کا مرتے وقت بھی حضور ﷺ کی اتباع کا شوق

۱/۱۵۸۸ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ فِي مَرَجِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ الْحَدُودُ

لِي لَحْدًا وَالنَّصَبُ أَعْلَى اللَّيْنِ نَصَبًا كَمَا صَنَعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ [رواه مسلم]

اخرجه مسلم فی صحيحه ۶۶۵/۲ حدیث رقم (۹۰-۹۶۶)۔ والنسائی ۸۰/۴ حدیث رقم ۲۰۰۷۔ وابن ماجہ ۴۹۶/۱ حدیث رقم ۱۵۵۶۔

ترجمہ: حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاصؓ نے اپنے مرض الوفا میں فرمایا کہ مجھے دفن کرنے کے لیے لحد بناؤ اور میرے اوپر کچی اینٹیں کھڑی کرو۔ جیسے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یعنی جس طرح حضور ﷺ کی قبر پر کیا گیا تھا۔ اس کو مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اپنی قبر بھی حضور ﷺ کی قبر کے مشابہ کرنا چاہتے ہیں یعنی صحابہ کو

آپ ﷺ کی کامل اتباع کا شوق ہوا کرتا تھا اور فرمایا کہ میری قبر کو بغلی بناؤ۔ حدیث پاک میں بھی لحد کی فضیلت آئی ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللّٰهُدُنَا وَالشَّقُّ لَغَيْرِنَا۔ لحد ہمارے لیے ہے اور شق (یعنی درمیان سے کھودنا) ہمارے غیر کے لیے ہے اور ابن ہمام کا کہنا ہے کہ لحد سنت ہے اور اگر زمین نرم ہو اور لحد کے گرنے کا خوف ہو تو پھر شق کرے یعنی درمیان سے کھودے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں قبریں بنتی ہیں اور مجھ پر کچی اینٹیں کھڑی کر دو۔ یعنی اینٹوں سے لحد کو بند کر دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ ﷺ کی قبر مبارک کی لحد کو اینٹوں سے بند کیا گیا تھا۔

قبر میں بطور بستر کے چادر بچھانا ممنوع ہے

۲/۱۵۸۹ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ خَمْرَاءُ۔ [رواہ مسلم]

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۶۶۵/۲ حدیث رقم (۹۱-۹۶۷)۔ والترمذی فی السنن ۳۶۵/۳ حدیث رقم ۱۰۴۸۔ والنسائی ۸۱/۴ حدیث رقم ۲۰۱۲۔ واحمد فی المسند ۳۵۵/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کی قبر مبارک میں (لوئی) سرخ چادر ڈالی گئی تھی۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حضرت شقران نے صحابہؓ کے مشورے کے بغیر ہی آپ ﷺ کی قبر مبارک میں لوئی یعنی سرخ چادر بچھادی تھی اور شقران فرماتے ہیں میں نے اس کو ناپسند کیا کہ اس کو آپ ﷺ کے بعد کوئی استعمال کرے اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ لوئی کا رکھنا آپ ﷺ کے خصائص میں سے تھا اور بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے قبر میں لوئی یعنی سرخ چادر رکھنے کی وجہ سے شقران سے جھگڑا کیا اور ابن عبدالبر نے کتاب الاستیعاب میں لکھا ہے کہ چادر کو قبر میں مٹی ڈالنے سے پہلے نکال لیا گیا تھا اور علماء نے مردے کے نیچے کپڑا بچھانا مکروہ قرار دیا ہے اس لیے کہ یہ اسراف اور مال کو ضائع کرنا ہے۔ اور چادر رکھنے کی اور بھی وجوہات بیان کی گئی ہیں اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ زمین تر تھی اس وجہ سے چادر بچھائی گئی تھی۔

آپ ﷺ کی قبر کو ہان نما تھی

۳/۱۵۹۰ وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّمَرِيِّ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنَمًا۔ [رواہ البخاری]

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۰۰/۳ حدیث رقم ۱۳۹۰۔

ترجمہ: حضرت سفیان ثمری (یعنی کھجور فروش) سے روایت ہے کہ کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کی قبر کو دیکھا جو اونٹ کے کوبان کی طرح تھی۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک کو ہان نما تھی اور امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے اس حدیث کو دلیل بنایا ہے اور دوسری صحیح احادیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قبر کو بطور کوبان کے بنانا افضل ہے اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ مسطح بنانا افضل ہے۔

تشریح ﴿۱۰﴾ اس حدیث پاک میں تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے: ﴿۱﴾ قبر کو گچ کرنے سے اور ﴿۲﴾ اس پر عمارت بنانے سے اور ﴿۳﴾ قبر پر بیٹھنے سے اور ازہار میں لکھا ہے کہ قبروں پر گچ کی ممانعت کراہت کی بنا پر ہے اور یہ کراہت دونوں صورتوں کو شامل ہے خواہ چٹائی سے کرے یا قبر کے اوپر گچ کرے اور قبر پر عمارت بنانا درست نہیں ہے اور اس کا گرا دینا واجب ہے اگرچہ وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ علامہ تورپشتی نے کہا ہے کہ عمارت بنانے میں دونوں چیزوں کا احتمال ہے۔ خواہ قبر پر مکان وغیرہ سے بنائے خواہ خیمہ وغیرہ کھڑا کرے۔ دونوں ممنوع ہیں۔ کیونکہ ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے اور تورپشتی کا کہنا ہے کہ یہ جاہلیت کا فعل ہے اور کافر میت پر ایک سال تک سایہ کیا کرتے تھے اور قبر پر بیٹھنا اس لیے منع ہے کہ یہ مؤمن کے اکرام کے منافی ہے اس میں میت کا حقیر جاننا لازم آتا ہے اور بعض حضرات نے کہا کہ بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ غم کی وجہ سے قبر پر ہی بیٹھا رہے اور اپنا کام کاج چھوڑ دے اور فقیر بن کر بیٹھ جائے۔ اس لیے منع فرمایا گیا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ خیمہ لگائے ہوئے اپنے بھائی عبدالرحمن کی قبر پر بیٹھا ہوا ہے۔ پس آپ ﷺ نے فرمایا اے غلام اس کو اتارو۔ اس کو اس کا عمل سنا کر رہا ہے اور ہمارے علماء میں سے بعض شراح نے کہا ہے کہ مال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے اور بعض پہلے لوگوں نے مشائخ اور علماء مشہورین کی قبر پر عمارت بنانے کو مباح قرار دیا ہے تاکہ لوگ زیارت کے لیے آئیں تو بیٹھ کر راحت حاصل کر سکیں۔ زائرین کے لیے نہ کہ مردوں کے لیے یعنی قبر والوں کے لیے نہیں۔ (مرقات)

۶/۱۵۹۳ وَعَنْ أَبِي مَرْثَدَةَ الْغَنَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تَصَلُّوا إِلَيْهَا۔ (رواہ

[مسلم]

الترمذی ۳۶۷۳۔ حدیث رقم ۱۰۵۰۔ والنسائی ۶۷/۲ حدیث رقم ۷۶۰۔ وابوداؤد فی السنن ۵۵۴/۳ حدیث رقم ۳۲۲۹۔

ترجمہ: حضرت ابو مرثدہ غنویؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قبروں پر مت بیٹھو اور نہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حدیث پاک کا خلاصہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں قبروں پر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور علامہ ابن ہمامؒ کا کہنا ہے کہ قبر پر بیٹھنا مکروہ ہے اور قبر کو روندنا بھی مکروہ ہے اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب کوئی ان کا عزیز و اقارب قبر میں مدفون ہوتا ہے۔ تو اس کی قبر تک پہنچنے کے لیے قبروں کو روندتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں یہ مکروہ ہے اور ضرورت کی خاطر روندنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے قبر کھودنے کے لیے جانا جائز ہے اور مستحب یہ ہے کہ ننگے پاؤں قبروں میں داخل ہو۔ جیسے کہ شرعۃ الاسلام میں ہے۔ قبر کے نزدیک سونا اور نکیہ لگانا مکروہ ہے اور قبر کے پاس استنجا کرنا نہایت مکروہ ہے اور ہر وہ چیز کراہت میں داخل ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مگر قبر کی زیارت اور دعا کرنا مکروہ نہیں ہے جیسا کہ آپ ﷺ کا عمل تھا۔ آپ ﷺ جنت البقیع میں تشریف لے جاتے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے: السلام علیکم دار قوم مؤمنین۔ وانا ان شاء اللہ بکم لا حقون۔ اسأل اللہ لی ولکم العافیۃ۔ اور قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو۔ اگر وہ قبر یا قبر والے کی تعظیم کی خاطر پڑھتا ہے۔ تو یہ صریح کفر ہے ورنہ مکروہ تحریمی ہے اور اگر جنازہ سامنے رکھا ہو۔ تو اس میں کراہت زیادہ ہے۔ اہل مکہ اس طرح کرتے تھے کہ اپنے جنازے اپنے سامنے رکھ دیتے تھے اور پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتے۔

اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ملا علی قاریؒ نے جو ضابطہ بیان کیا ہے کہ وہ چیز مکروہ ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے مگر زیارت اور دعا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قراءت قرآن بھی قبر پر سنت نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے باوجود اس کے کہ اکثر احادیث اور آثار سے قبر پر قرآن پڑھنا ثابت ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیسری فصل میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث کی شرح کرتے ہوئے ذکر کیا ہے اس اشکال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی قراءت کرنا دعا میں داخل ہے۔ یعنی وہ بھی حکماً دعا ہے لہذا مکروہ نہیں ہے۔

قبر پر بیٹھنا کس قدر ناپسندیدہ عمل ہے

۱۵۹۳/۷ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ

فَتُحْرِقَ نَبَاتُهُ فَتُخْلَصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ - [رواه مسلم]

اخرجه مسلم في صحيحه ۶۶۷/۲ حديث رقم (۹۶ - ۹۷۱) - وابوداؤد في السنن ۵۵۳/۳ حديث رقم ۳۴۲۸ -

والنسائي ۹۵/۴ حديث رقم ۲۰۴۴ - وابن ماجه ۴۹۹/۱ حديث رقم ۱۵۶۶ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم میں کوئی شخص آگ کے انگارے پر بیٹھے اور وہ آگ اس کے کپڑے جلادے اور وہ آگ جلد تک پہنچ جائے بہ نسبت اس کے کہ کوئی قبر پر بیٹھے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: آپ ﷺ نے قبر پر بیٹھنے کی شاعت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور قبر پر بیٹھنے کو آگ پر بیٹھنے سے زیادہ ضرور الاشارہ کرو اور فرمایا کہ آگ پر بیٹھنا قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ یعنی قبر پر بیٹھنے کا ضرور زیادہ ہے نسبت آگ پر بیٹھنے کے۔

الفصل الثانی:

بغلی قبر مسنون ہے

۱۵۹۵/۸ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ وَالْآخَرُ لَا يَلْحَدُ فَقَالُوا أَيُّهُمَا جَاءَ

أَوَّلًا عَمِلَ عَمَلَهُ فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رواه في شرح السنة)

اخرجه البغوی فی شرح السنة ۳۸۸/۵ حديث رقم ۱۵۱ -

ترجمہ: عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں دو شخص (قبر کھودنے والے تھے ایک ان میں سے ابو طلحہ انصاری تھے جو لحد بناتے تھے یعنی بغلی قبر اور دوسرے ابو عبیدہ بن الجراح جو لحد نہیں کرتے تھے بلکہ شق کرتے تھے۔ جیسے یہاں قبریں بنتی ہیں۔ پس حضور ﷺ کی وفات کے بعد صحابہؓ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ان میں سے جو سنا پہلے آجائے اپنا کام کرے یعنی اگر لحد والا پہلے آئے تو لحد کھودے اور شق والا پہلے آئے تو شق کھودے۔ پس وہ شخص آیا جو لحد کھودا کرتا تھا۔ تو پھر نبی کریم ﷺ کے لیے لحد کھودی گئی شرح السنہ میں یہ روایت موجود ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ لحد شق سے افضل ہے اور شق بھی مشروع ہے۔ کیونکہ اگر شق مشروع نہ ہوتی تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح مشہور صحابی رسول ﷺ شق کیوں کھودا کرتے۔

لحد نکالنا مسنون ہے

۱۵۹۶/۹ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَدُّ لَنَا وَالشَّقُّ لِبَنِي نَدٍ -

[رواه الترمذی وابو داؤد والنسائي وابن ماجه ورواه احمد عن جرير بن عبد الله]

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۵۴۴/۳ حديث رقم ۳۲۰۸ - والترمذی فی السنن ۳۶۳/۳ حديث رقم ۱۰۴۵ - والنسائي ۸۰/۴ -

حدیث رقم ۲۰۰۹۔ وابن ماجہ ۴۹۶۶/۱ حدیث رقم ۱۵۵۴۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ہر شاد فرمایا کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شق ہمارے غیروں کے لئے ہے۔ اس کو امام ترمذی ابوداؤد و نسائی ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے اور امام احمد نے یہ روایت جریر بن عبداللہ سے کی ہے۔

تشریح: علماء حدیث نے اس کے کئی معنی لکھے ہیں لیکن ظاہری معنی یہ ہیں کہ لحد ہمارے واسطے ہے اور شق ہمارے غیر کے لیے ہے یعنی لحد نکالنا انبیاء کی سنت ہے۔ اس حدیث پاک میں لحد کو شق پر ترجیح دی گئی ہے۔

قبر گہری اور صاف ہونی چاہیے

۱۰/۱۵۹۷ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ اخْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَأَذْفِنُوا الْإِنْسِينَ وَالْفَلَائَةَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قَرَأْنَا۔

[رواہ احمد و الترمذی و ابو داؤد و النسائی وری ابن ماجہ الی قوله واحسنوا]

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۵۴۷/۳ حدیث رقم ۳۲۱۵۔ و الترمذی ۱۸۵۱۴ حدیث رقم ۱۷۱۳۔ و النسائی۔

ترجمہ: حضرت ہشام بن عامرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا قبریں کھودو اور فراخ کرو اور گہرا کرو اور قبروں کو اچھا کرو۔ یعنی ہموار اور کوڑے کرکٹ سے صاف کرو اور (مردوں کو) دفن کرو، آدھیوں کو اور تین کو ایک قبر میں۔ قبلے کی جانب سب سے پہلے اس شخص کو رکھو جس کو قرآن زیادہ یاد ہو۔ یہ احمد اور ترمذی و نسائی نے روایت کی ہے اور ابن ماجہ نے لفظ احسنوا تک روایت کی ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں قبر کی نوعیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قبر گہری صاف ستھری ہونی چاہیے۔ احد کے دن جب جنگ ہو چکی اور شہداء کو دفن کرنے کا ارادہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ قبریں کھودو یہ امر وجوب کے لیے اور باقی بطور احتیاج کے ہیں اور قبروں کو گہرا کرنے کے بارے میں آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے قبر کو گہرا کرنا سنت ہے اس لیے کہ اس سے میت درندوں وغیرہ سے محفوظ رہتی ہے اور مظہر نے کہا ہے کہ قبر اتنی گہری ہونی چاہیے کہ اگر آدمی کھڑا ہو کر ہاتھ اونچا کرے تو انگلیوں کے سرے قبر کے کنارے کے برابر ہوں اور ایک قبر میں دو تین آدمیوں کو دفن کرنا ضرورت کی وجہ سے ہے اور بلا ضرورت درست نہیں ہے اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو قبر میں پہلے رکھو۔ اس سے عالم باعمل کی تعظیم کا درس ملتا ہے عالم کا اکرام اس کی زندگی میں بھی کیا جائے اور مرنے پر بھی اس کے اکرام کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور ایک نماز جیسے ایک میت پر ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی زیادہ میتوں پر بھی ادا کی جاسکتی ہے جب ایک وقت میں کئی جنازے جمع ہو جائیں تو اگر چاہے تو علیحدہ علیحدہ میت پر نماز پڑھے اور چاہے تو سب کو ایک جگہ جمع کر کے نماز پڑھ لے۔ پھر آگے رکھنے میں چاہے۔ آگے پیچھے رکھیں قبلے کی جانب اور چاہے قطار باندھ کر طول میں رکھیں اور بہتر یہ ہے امام قریب کھڑا ہو۔

شہیدوں کی آخری آرام گاہیں ان کی شہید ہونے کی جگہیں ہیں

۱۱/۱۵۹۸ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جَاءَتْ عَمِّي بِأَبِي لَدَفْنَهُ فِي مَقَابِرِ نَا فَتَادَى مَنَادَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللہ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدُّوا الْقَتْلَى إِلَى مَصَاجِعِهِمْ۔ (رواہ احمد والترمذی وابوداؤد والنسائی والداؤمی ولفظہ للترمذی)

اخرجہ ابوداؤد فی السنن ۵۱۴/۳ حدیث رقم ۳۱۶۵۔ والترمذی ۱۸۷/۴۰ حدیث رقم ۱۷۱۷۔ والنسائی ۷۹/۴ حدیث رقم ۲۰۰۴۔ وابن ماجہ ۴۸۶/۱ حدیث رقم ۱۵۱۶۔ والدارمی ۳۵/۱ حدیث رقم ۴۵۔ واحمد فی المسند

۲۹۷/۳۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد کا دن ہوا تو میری پھوپھی میرے باپ کو لائیں۔ تاکہ ان کو ہمارے مقبرے میں دفن کریں لیکن آپ ﷺ کی طرف سے ندادینے والے نے ندادی۔ یعنی پکارنے والے نے پکارا کہ شہیدوں کو ان کے شہید ہونے کی جگہ کی طرف لے جاؤ۔ اس کو امام احمد اور ترمذی اور ابوداؤد اور نسائی اور دارمی نے روایت کیا اور اس کے الفاظ ترمذی کے ہیں۔

تشریح: اس حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد کا واقعہ پیش آیا اور بعض مسلمان شہید ہو گئے اور میرا باپ بھی شہید تھا۔ تو میری پھوپھی میرے باپ کو لے کر آئی۔ تاکہ اس کو بھی جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ آپ ﷺ کی طرف سے کسی آواز دینے والے نے آواز دی کہ جہاں وہ شہید ہوئے ہیں وہاں ہی دفن کرو اور اس طرح جو کوئی کسی شہر میں فوت ہو جائے۔ اس کو دوسرے شہر کی طرف منتقل نہ کیا جائے۔ یہ ہمارے بعض علماء کا کہنا ہے اور ازہار میں لکھا ہے کہ میت کی نقل مکانی کی حرمت کے بارے میں یہ حدیث ایک مضبوط دلیل ہے اور ظاہر بات یہی ہے کہ یہ نبی شہداء کے ساتھ خاص ہے اور اس نبی کو اس پر محمول کیا جاسکتا ہے کہ شہداء کو دفن کرنے کے بعد نقل کرنا منع ہے یا دفن کرنے کے بعد بغیر عذر کے نقل کرنا منع ہے۔ علامہ طبری نے فرمایا ہے اگر ضرورت ہو تو میت کو نقل کرنا جائز ہے اور بلا ضرورت نقل کرنا درست نہیں ہے اور شیخ ابن الہمام نے کہا ہے۔ اگر مردے کو دفن کرنے سے پہلے یا قبر کی درستگی کی خاطر ایک دو کوس تک لے جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے اس لیے کہ قبرستان اتنی دور ہوا ہی کرتے ہیں مستحب ہے کہ اس کو اسی قبرستان میں دفن کیا جائے جس شہر میں اس کو موت آئی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکرؓ ایک منزل پر تھے وہاں ان کو موت آگئی اور ان کے جنازے کو مکہ مکرمہ لایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی زیارت کو آئیں تو فرمانے لگیں۔ اگر میں موت کے وقت موجود ہوتی تو کبھی بھی آپ کے جنازے کو منتقل نہ کرتی اور اسی جگہ دفن کرتی جہاں موت آئی تھی۔ دفن کرنے کے بعد اور مٹی ڈالنے کے بعد قبر کھودنا درست نہیں ہے مگر کسی عذر کی وجہ سے مدت کی کمی و بیشی کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور عذر یہ ہے کہ غصب کی زمین ہو یا شفع اس کو لے جائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کتنے ہی ایسے تھے جو کفرستان کی زمین میں دفن کیے گئے اور ان کو وہاں سے منتقل نہیں کیا گیا۔ اگر زمین کا مالک چاہے کہ وہ اپنی زمین کو ہموار کرے اور وہاں زراعت کرے اس کو کھودنے کا حق پہنچتا ہے اور ایک عذر یہ بھی ہے کہ دفن کرتے وقت لحد میں کسی کا کپڑا یا مال رہ جائے تو اس کو نکالنے کے لیے بھی کھودنا جائز ہے اور شیخ ابن الہمام نے کہا اگر کسی عورت کا بیٹا دوسرے شہر میں مر جائے اور اس کو وہاں دفن کر دیا جائے اور عورت وہاں موجود نہ ہو اور بے صبری کا مظاہرہ کر رہی ہو اور اس کو نقل کرنا چاہتی ہو تو نقل کرنے میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور بعض متاخرین کا اس کو جائز رکھنا معتبر نہیں ہے۔ اور صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ جب کوئی کسی شہر میں مر جائے تو اس کو دوسرے شہر کی طرف نقل کرنا مکروہ ہے اس لیے کہ

اس میں یعنی نعش کی منتقلی میں مشغول ہونا بے فائدہ بات ہے اور دفن کرنے میں تاخیر ہوتی ہے اگر بغیر غسل کے یا بغیر نماز کے دفن کر دیا جائے تو اس کو بالاتفاق دوبارہ نکالا نہیں جائے گا اور میت کو گھر میں دفن نہ کیا جائے۔ جس گھر میں وہ قیام پذیر ہے اس لیے کہ گھر میں مدفون ہونا انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے۔

میت کو قبر میں کیسے اتارا جائے

۳۱/۵۹۹ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ۔ (رواہ الشافعی)

البیہقی فی السنن والشافعی فی مسنده ص ۳۶۰۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کو سر کی طرف سے قبر میں اتارا گیا۔

تشریح: علماء کرام اس کی صورت یوں بیان فرماتے ہیں۔ جب آپ ﷺ کو قبر میں اتارا گیا جنازہ قبر کی پائنتی کی طرف لے جایا گیا۔ وہاں سے آپ ﷺ کے سر مبارک کو اٹھا کر قبر میں اتارا گیا۔ شوافع میت کو قبر میں اس طرح ہی اتارتے ہیں اور ہمارے نزدیک میت کو قبلہ کی جانب رکھا جاتا ہے اور اس کو اٹھا کر قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور ہمارے نزدیک یہی مسنون ہے اور حضور ﷺ اسی طرح مردے کو رکھتے تھے جیسا کہ آئندہ حدیث میں آ رہا ہے کہ حضور ﷺ کو جو اس طریقے سے قبر میں اتارا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ حجرہ مبارک میں اس قدر وسعت نہ تھی کہ قبلہ کی جانب سے اتارتے اس لیے آپ ﷺ کی قبر مبارک دیوار سے ملی ہوئی تھی۔ حنفیہ کی طرف سے اس روایت کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ حضور ﷺ کو قبر میں اتارنے کے بارے میں اضطراب آیا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قبر میں قبلہ کی جانب اور سر ہانے کی طرف سے داخل کیا گیا اور ابن ماجہ نے بھی اسی طرح کی روایت کی ہے۔ جب دونوں حدیثوں میں تعارض پیش آیا تو دونوں ساقط ہو گئیں۔

میت کو قبلہ کی جانب سے قبر میں اتارنا مسنون ہے

۱۳/۲۰۰ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا فَأَسْرَجَ لَهُ بَسْرَاجًا فَأَخَذَ مِنْ قَبْلِ

الْقَبْلَةِ وَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ إِنَّ كُنْتَ لَا وَاهَا تَلَاءَ لِلْقُرْآنِ۔ (رواہ الترمذی وقال فی شرح السنة استاده ضعیف)

اعرجہ الترمذی فی السنن ۲۷۳/۳ حدیث رقم ۱۰۵۷۔ والبعوی فی شرح السنن ۳۹۸/۵ حدیث رقم ۱۰۱۴۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ رات کو ایک شخص کو دفن کرنے کے لیے قبر میں داخل ہوئے پس آپ ﷺ کے لیے چراغ روشن کیا گیا آپ ﷺ نے میت کو قبلہ کی جانب سے لیا اور فرمایا۔ تجھ پر اللہ رحمت کرے تحقیق تو اللہ کے خوف کی وجہ سے بہت رونے والا تھا اور قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کرنے والا تھا۔ یعنی ان دونوں چیزوں کی وجہ سے رحمت و مغفرت کا مستحق ہوگا۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور شرح السنہ میں کہا گیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے یعنی اس کی اسناد ضعیف ہیں۔

تشریح: امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس بارے میں جاہل اور

یزید بن ثابتؓ سے بھی حدیث آئی ہے اور اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کو دفن کرنا مکروہ نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض حضرات نے لکھا ہے اور یہ حنفیہ کی دلیل ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک قبلہ کی طرف سے میت کو اتارنا مسنون ہے۔

میت کو قبر میں اتارتے وقت کی دعا

۳۷/۱۲۰۱ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

[رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ وروی ابو داؤد الثانیة]

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۵۴۶/۳ حدیث رقم ۳۲۱۳۔ والترمذی فی السنن ۳۶۴/۳ حدیث رقم ۱۰۴۶۔ وابن ماجہ ۴۹۴/۱ حدیث رقم ۱۵۵۰۔ وأحمد فی المسند ۲۷/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جس وقت آپ ﷺ میت کو قبر میں رکھا کرتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ رکھتا ہوں اور اللہ کے حکم کے ساتھ اور رسول اللہ ﷺ کی شریعت کے ساتھ اور ایک روایت میں آیا کہ رسول اللہ ﷺ کے طریقے پر رکھتا ہوں اس کو احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد نے دوسری روایت کی ہے۔

تشریح: اس حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے میت کو قبر میں اتارتے وقت دعا فرمائی۔ وہ دعا یہ ہے: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ۔ یعنی ایک روایت میں سنت کی بجائے ملت کا لفظ ارشاد فرمایا ہے۔

قبر پر پانی چھڑکنے اور (بطور نشانی کے) سنگریزے رکھنے کا ثبوت

۱۵/۱۲۰۲ وَعَنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عَلَى الْمَيِّتِ ثَلَاثَ حَفَيَاتٍ بِيَدَيْهِ حَمِيمًا وَأَنَّهُ رَشَّ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ۔

[رواہ فی شرح السنة وروی الشافعی من قوله رش]

اخرجه البغوی فی شرح السنة ۴۰۱/۵ حدیث رقم ۱۵۱۵۔

ترجمہ: امام جعفر صادقؓ جو امام محمدؓ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ سے یعنی امام باقرؓ سے بطریق ارسال کے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے تین لپیں (مٹھیاں) ڈالیں اور آپ ﷺ نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا اور نشانی کے طور پر سنگریزے رکھے۔ اس کو شرح السنہ میں نقل کیا ہے اور امام شافعیؒ نے لفظ رش سے روایت کیا ہے (یعنی لفظ رش سے لے کر آخر تک روایت امام شافعیؒ کی ہے)۔

تشریح: مذکورہ روایت کو امام احمدؒ نے اسناد ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یعنی آپ پہلی لپ بھر کر یہ دعا پڑھتے تھے: منها خلقنکم اور دوسری لپ کے ساتھ: وفيها نعید کم اور تیسری لپ کے ساتھ: ومنها نخرجکم تارة اخرى اور ابن ملک کا کہنا ہے کہ قبر پر میت کے ساتھ حاضر ہونا کہ لپ بھر کر مٹی ڈال سکے اور پانی چھڑکنا مسنون ہے۔

ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص کو خواب میں مرنے کے بعد پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے میری نیکیوں کا وزن کیا تو میری برائیاں نیکیوں پر غالب آ گئیں۔ تو اچانک نیکیوں کے پلوے میں ایک تھیلی گری جس کی وجہ سے میری نیکیوں کا پلڑا جھک گیا۔ جب میں نے اس تھیلی کو کھولا تو تھیلی کے اندر ایک مٹھی مٹی کی تھی۔ جو کہ میں نے ایک مسلمان کی قبر پر ڈالی تھی۔ اس حدیث کو مواہب نے ذکر کیا ہے۔

قبر کو گچ یعنی چونا کرنا منع ہے

۱۶/۱۶۰۳ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْصَصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ تُوَطَّأَ - (رواه الترمذی)

اندرجہ الترمذی فی السنن ۳۶۸/۳ حدیث رقم ۱۰۵۲۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے قبروں کو گچ کرنے، ان پر لکھنے اور ان کو روندنے سے منع فرمایا۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں قبر کی تزئین کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے: القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار۔ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس کو ظاہری زیبائش کی ہرگز ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ظاہری نمود و نمائش سے میت کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اس سے گریز بہتر ہے۔ (م)

باقی حدیث کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ قبر کو گچ بھی نہ کیا جا۔ اور نہ ہی اس پر لکھا جائے اور نہ ہی پاؤں سے اس کو رونداجائے۔

گچ کرنے سے آپ ﷺ نے اس لیے منع فرمایا کہ یہ ایک قسم کی زینت اور تکلف ہے جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے اور مٹی سے لپ کرنا جائز ہے اور اللہ و رسول کا نام اور قرآن کا لکھنا مکروہ ہے۔ تاکہ وہ پامال نہ ہوں اور حیوان وغیرہ ان پر پیشاب نہ کریں اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام اور قرآن مسجد کی دیواروں پر لکھنا بھی مکروہ ہے اور پتھر کا کتبہ لکھ کر لگانا بھی مکروہ ہے اور بعض حضرات نے صالح میت کے لئے مشروع کر دیا ہے کہ اس کا نام پتھر پر لکھ کر لگایا جاسکتا ہے تاکہ ایک لمبی مدت کے گزرنے کے بعد بھی لوگ اس کو پہچان سکیں۔

حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کا آپ ﷺ کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا

۱۷/۱۶۰۳ وَعَنْهُ قَالَ رَسَّ قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الدِّى رَسَّ الْمَاءِ عَلَى قَبْرِهِ بِلَالُ بْنُ رِبَاحٍ بِقُرْبَةِ بَدَأٍ مِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى رِجْلَيْهِ - (رواه البيهقي في دلائل النبوة)

رواه البيهقي في دلائل النبوة

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی قبر پر پانی چھڑکا گیا۔ وہ شخص جس نے آپ ﷺ کی

قبر مبارک پر پانی چھڑکاؤ کیا وہ حضرت بلال بن رباحؓ تھے انہوں نے مشک کے ساتھ سرہانے کی طرف سے چھڑکنا شروع کر دیا اور پاؤں تک چھڑکا۔ اس کو تہمتی نے دلائل النبوة میں روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿ حدیث کا خلاصہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حدیث شریف میں قبر پر پانی چھڑکنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جس کی تفصیل ضمناً گزر چکی ہے۔

قبر پر پتھر رکھنا بطور علامت کے مسنون ہے

۱۸/۱۲۰۵ وَعَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَقَدْ فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمَلَهَا لِقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ قَالَ الْمُطَّلِبُ قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِي أَنْظُرَ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ أَعْلَمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَذِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي۔ (رواہ ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۵۴۳/۳ حدیث رقم ۳۲۰۶۔

ترجمہ: حضرت مطلب بن ابی وداعہؓ سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان بن مظعونؓ کا جنازہ نکالا گیا (یعنی اٹھایا گیا) اور ان کو دفن کیا تو نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ایک بڑا پتھر لے کر آؤ تاکہ بطور علامت (نشانی) کے رکھا جائے۔ پس وہ شخص اس پتھر کو نہ اٹھا سکا پھر اس کی طرف نبی کریم ﷺ کھڑے ہوئے اور دونوں آستینیں اوپر چڑھائیں۔ راوی کا کہنا ہے کہ اس شخص نے مجھے بتایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے دونوں ہاتھوں کی سفیدی کو دیکھا۔ جب آپ ﷺ نے دونوں ہاتھوں کو ہولا۔ پھر پتھر کو اٹھایا اور حضرت عثمانؓ کی قبر کے سرہانے رکھ دیا اور فرمایا کہ میں نے اس کے ساتھ اپنے بھائی کی قبر کا نشان کیا ہے اور میں اپنے گھروالوں میں سے جو وفات پائے گا اسے اس کے قریب دفن کروں گا۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث میں راوی مطلب بن وداعہ صحابی رسول ہیں۔ جو فتح مکہ کے دن مشرف باسلام ہوئے انہوں نے صحابی سے روایت کی ہے خود موجود نہ ہونے کی وجہ سے اور حضرت عثمان بن مظعونؓ حضور ﷺ کے دودھ شریک بھائی تھے۔ تیرہ (۱۳) آدمیوں کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور جنگ بدر میں حاضر ہوئے اور مہاجرین میں سے مدینہ منورہ میں انہوں نے سب سے پہلے وفات پائی اور ان کے پاس سب سے آپ ﷺ کے صاحبزادے ابراہیمؓ مدفون ہوئے اور ازہار میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر پر پہچان رکھنے کے لیے نشانی رکھنی مستحب ہے۔ تاکہ اعزہ و اقارب کو ایک جگہ دفن کر سکیں۔

قبر کی اونچائی بالشت کی بقدر اونچی ہونی چاہیے

۱۹/۱۲۰۶ وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّاهُ أَكُثِّفُنِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةَ وَلَا لَا طِنَةَ مَبْطُوحَةٍ بِيْطَحَاءِ الْعُرْصَةِ الْحَمْرَاءِ۔

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۵۴۹/۳ حدیث رقم ۳۲۲۰۔

ترجمہ: حضرت قاسم بن محمدؒ سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کے پاس گیا۔ میں نے کہا۔ اے میری ماں! رسول مقبول ﷺ اور ان کے پیاروں (یعنی ابوبکر و عمر) کی قبر میرے لئے کھول دیجئے۔ پس انہوں نے میرے لیے تینوں قبریں کھول دیں۔ نہ تو بہت بلند تھیں اور نہ ہی وہ زمین کے ساتھ ملی ہوئی تھیں۔ بلکہ بقدر بالشت بلند تھیں۔ میدان کی سرخ ننگریاں ان پر بھیجی ہوئی تھیں جو مدینہ منورہ کے ارد گرد ہیں۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے مترشح ہوتا ہے کہ قبروں کی اونچائی ایک بالشت سے اونچی نہ ہو اور نہ ہی زمین کے ساتھ ملی ہوئی بلکہ بالشت کی مقدار اونچی ہو جیسے کہ آپ ﷺ کی قبر مبارک اور شیخینؓ کی قبریں ہیں۔ یہ قبریں جن کا تذکرہ ابھی حدیث میں گزرا ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کے حجرہ مبارک میں تھیں اور جب حجرے کا دروازہ کھلا ہوتا تھا۔ تو دروازے پر پردہ پڑا رہتا تھا جب صحابہؓ چاہتے تو اندر تشریف لے جاتے۔

۲۰/۱۲۰۷ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يَلْحَدُ بَعْدَ فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقَبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ۔

(رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ وزاد فی اخرہ کان علی رؤسنا الطیر)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۵۴۶/۳ حدیث رقم ۳۲۱۲۔ والنسائی ۷۸/۴ حدیث رقم ۲۰۰۱۔ وابن ماجہ ۴۹۴/۱ حدیث

رقم ۱۵۴۹۔ واحمد فی المسند ۲۸۷/۴۔

ترجمہ: حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ انصار میں سے ایک شخص کے جنازے کے لیے نکلے۔ ہم قبر کے پاس پہنچے اور ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا گیا تھا یعنی ابھی تک اس کی قبر نہیں کھدی تھی پس نبی کریم ﷺ قبلہ کی طرف بیٹھے اور ہم بھی آپ ﷺ کے پاس بیٹھ گئے۔ یعنی آپ ﷺ کے ارد گرد۔ اس کو ابو داؤد۔ نسائی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے اس کے آخر میں یہ بات بھی زیادہ کی ہے کہ ہم اس طرح بیٹھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ یعنی نہایت خاموش اور سر جھکائے بیٹھے تھے۔

نوٹ: اس حدیث کی مکمل تفصیل باب مَا يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ کی تیسری فصل میں گزر چکی ہے اور وہ

اس سے لمبی حدیث ہے۔

میت کی بے اکرامی ممنوع ہے

۲۱/۱۲۰۸ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كُفْرٌ حَيًّا۔

(رواہ مالک و ابو داؤد وابن ماجہ)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۵۴۳/۳ حدیث رقم ۳۲۰۷۔ وابن ماجہ ۵۱۶/۱ حدیث رقم ۱۶۱۶۔ ومالک فی الموطأ

۲۳۸/۱ حدیث رقم ۴۰ من کتاب الجنائز۔ واحمد فی المسند ۱۶۸/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مردے کی ہڈی کو توڑنا زندہ کی ہڈی کو

توڑنے کی طرح ہے۔ یعنی توڑنا گناہ ہے۔ اس کو امام مالک ابو داؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔
 تشریح: حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ میت کی حقارت کرنا ممنوع ہے جیسا کہ زندہ کی حقارت کرنا ممنوع ہے کیونکہ میت کو بھی زندہ کی طرح ایذا اور تکلیف محسوس ہوتی ہے۔

الفصل الثالث:

حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی تدفین کا بیان

۲۲/۱۶۰۹ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُدْفَنُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ قَرَأْتُ عَنْهُ تَذْمَعَانِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يَقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَأَنزِلْ فِي قَبْرِهَا فَتَزَلْ فِي قَبْرِهَا۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۵۱۳ حدیث رقم ۱۲۸۵۔ واحمد فی المسند ۱۲۶/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اس وقت حاضر تھا۔ جب آپ ﷺ کی بیٹی اور حضرت عثمان کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو دفن کیا جا رہا تھا۔ آپ ﷺ کے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے حضور ﷺ کی آنکھیں دیکھیں کہ آنسو بہا رہی تھیں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے آج رات اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو۔ پس ابو طلحہ نے کہا کہ میں ہوں۔ فرمایا پس تو ان کی قبر میں اتر پھر حضرت ابو طلحہ قبر میں اترے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں آپ ﷺ کی بیٹی کی تدفین کا بیان ہے دفن کے وقت آپ ﷺ نے پوچھا۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج رات عورت سے صحبت نہ کی ہو۔ حضور ﷺ نے ارادہ پوچھا کہ آیا حضرت عثمان نے کسی عورت سے صحبت کی ہے یا نہیں۔ پس حضرت عثمان نے انکار نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی کسی باندی یا بیوی سے صحبت کی تھی اور اس میں ایک نکتہ بھی ہے کہ آپ ﷺ نے یہ اس لیے پوچھا کہ صحبت کرنا اگرچہ ممنوع نہیں ہے لیکن صحبت نہ کرنے میں فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے اور حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے عنقریب صحبت نہ کی ہو وہ دفن کرے۔ ابو طلحہ جنبی صحابی ہیں انہوں نے قبر میں اتارنا یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے۔ یا ان کا قبر میں اتارنا بیان جواز کے لیے تھا۔ ابن ہمام کا کہنا ہے کہ عورت کو قبر میں اتارنے کا کام مردوں کا ہی ہے اس لیے اجنبی مرد کا عورت کو چھونا بوقت ضرورت اس کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی جائز ہے۔ لیکن درمیان میں کپڑا حائل ہونا چاہیے۔ پس جب عورت فوت ہو جائے اور کوئی محرم موجود نہ ہو کہ اس کو دفن کرے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ معرینک بخت تلاش کیا جائے۔ تاکہ اس کو دفن کرے اگر ضعیف یعنی معمر شخص نہ ہو تو نیک بخت جوان سے یہ تدفین کا کام لیا جاسکتا ہے۔

اگر محرم ہو خواہ دودھ کی وجہ سے ہو یا سرال کا ہو تو وہ اتر کر دفن کرے۔ اگر کوئی کہے کہ خاوند اور محارم نیک بخت لوگوں سے اولیٰ ہیں جیسے کہ علماء کرام کا فرمانا ہے۔ تو پھر ان کو حضور ﷺ اور حضرت عثمان نے کیوں نہیں دفن کیا۔ تو اس کا جواب اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ حضرت محمد ﷺ کو اور حضرت عثمان کو کچھ عذر ہوگا۔ اس لیے قبر میں نہیں اترے۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا نزع کی حالت میں بیٹے کو نصیحت کرنا

۲۳/۱۶۱۰ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لَا يَنْبَغُ وَهُوَ فِي سَيَاقِ الْمَوْتِ إِذَا آتَا مِثْلَ فَلَا تَصْحَبْنِي نَاحِيَةً وَلَا نَارَ فَإِذَا دَلْتُمُونِي فَكُنْتُوْا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنَا نَمَّ أَقْبِمُوا حَوْلَ قَبْرِى قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقَسَّمُ لِحْمُهَا حَتَّى اسْتَأْذِنَ بِكُمْ وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّى - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۱۱۲/۱ حدیث رقم (۱۹۲-۱۶۱)۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نزع کی حالت میں اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ جس وقت میری موت آجائے۔ میرے پاس کوئی نوحہ کرنی والی نہ ہو اور نہ ہی میرے پاس آگ ہو اور جب میرے دفن کا ارادہ کرو۔ تو مجھ پر سہولت کے ساتھ (آرام کے ساتھ) مٹی ڈالو پھر میری قبر کے پاس دعا کے لیے اتنا وقت کھڑے رہو کہ اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جائے یہاں تک کہ میں تمہارے ٹھہرنے کی وجہ سے آرام حاصل کروں اور میں جان لوں کہ میں اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیسے جوابات کے ساتھ واپس کرتا ہوں۔ اس کو امام مسلمؒ نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں میت کے ساتھ آگ وغیرہ لے کر جایا کرتے تھے۔ فخر دیا کاری کے لیے تاکہ خوشبو جلائیں اور ضرورت کے وقت اس کو کام میں لائیں۔ اس سے منع فرمایا۔ جیسے یہاں بعض لوگ کرتے ہیں کہ جنازوں کے ساتھ موم بتیاں مشعلیں اور بیخ شاخے وغیرہ لے جاتے ہیں یا کٹڑ والے اپنے ساتھ آگ لے کر چلتے ہیں یہ ممنوع ہے اور تمہیں ان خرافات میں نہیں پڑنا چاہیے بلکہ میت کے لیے دعا استغفار قرآن اور اذکار وغیرہ میں مشغول ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ابوداؤد شریف کی ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ جب دفن سے فارغ ہو جاتے تو کھڑے ہو جاتے یعنی ٹھہر جاتے اور فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو تاکہ وہ سوال و جواب کے وقت کا میاب ہو جائے۔

میت کو جلدی دفن کرنے کا حکم

۲۳/۱۶۱۱ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْسَبُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْبَقْرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقْرَةِ -

(رواه البيهقي في شعب الإيمان والصحيح أنه موقوف عليه)

رواه البيهقي في شعب الإيمان۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے فرماتے ہیں جس وقت کوئی آدمی تم میں سے فوت ہو جائے پس اس کو رو کے نہ رکھو اور اس کو اس کی قبر کی طرف جلدی پہنچاؤ اور اس کے سر کے قریب یعنی سرہانے کھڑے ہو کر سورۃ بقرہ کا ابتدائی حصہ مفلحون تک تلاوت کرو اور اس کے پاؤں کے پاس کھڑے ہو کر سورۃ بقرہ کا آخری حصہ یعنی اَمِنْ الرَّسُولِ آخر تک پڑھو۔ بیہقی نے شعب الايمان میں روایت کی ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن عمرؓ پر موقوف ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ میت کو دفن کرنے میں بغیر عذر کے تاخیر نہ کرو اور ابن ہمامؒ کا کہنا ہے میت کو تیار کرنے میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ وَأَسْرِعُوا وَلَا جَمْلَةَ اس کے لیے تاکید ہے۔ یا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جنازے کو لے کر جلدی چلنا سنت ہے یعنی درمیانی چال چلے دوڑے نہیں اور نہ ہی آہستہ چلے اور دفن کرنے کے بعد میت کے سر ہانے کھڑے ہو کر سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات منقولہ تک اور میت کے پاؤں کے پاس کھڑے ہو کر سورۃ بقرہ کا آخری حصہ ”أَمَّنَ الرَّسُولُ“ سے لے کر آخر تک تلاوت کرے اور امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں جب تم قبرستان میں داخل ہو تو سورۃ فاتحہ اور معوذتین کی تلاوت کرو اور قل ھو اللہ احد اور ان کا ثواب اہل مقابر کو پہنچاؤ اور زیارت قبور کا مقصد یہ ہے کہ زیارت کرنے والے عبرت پکڑیں اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ اس کی دعا سے فائدہ اٹھائیں۔ اتھی اور حضرت علیؓ سے بطریق مرفوع روایت ہے تم میں سے جو بھی کسی قبرستان پر گزرے وہ قل ھو اللہ گیارہ مرتبہ پڑھے۔ پھر اس کا ثواب مردوں کو بخشے ان کو اس کا ثواب قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو کوئی قبرستان میں داخل ہو پھر سورۃ فاتحہ اور قل ھو اللہ اور الھکم التکاثر پڑھے اور کہے کہ میں نے اس کلام کا ثواب مؤمنین اور مومنات کے لیے بخشا ہے۔ تو مردے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرتے ہیں اور حمدائیؒ نے کہا ہے میں ایک رات قبرستان کی طرف نکلا میں اپنا سر ایک قبر پر رکھ کر سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان والے حلقہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا قیامت ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ لیکن ایک شخص نے ہمارے بھائیوں میں قل ھو اللہ پڑھی ہے اور اس کا ثواب ہمیں بخشا ہے ہم ایک برس سے اس کو بانٹ رہے ہیں اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جو کوئی قبرستان میں داخل ہو کر سورۃ یسین کی تلاوت کرے۔ اللہ رب العزت ان سے عذاب ہلکا کر دیتا ہے اور اس کے لیے مردوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ علامہ سیوطیؒ نے شرح الصدور میں میت کو قرآن پاک کا ثواب پہنچنے کے بارے میں اختلاف کیا ہے پھر جمہور سلف یعنی صحابہ کرامؓ اور ائمہ ثلاثہؓ فرماتے ہیں کہ مردوں کو ثواب پہنچتا ہے اور امام شافعیؒ اس میں اختلاف کرتے ہیں اتھی۔ امام شافعیؒ نے اپنے مسلک کے ثبوت کے لیے جو دلائل پیش کئے ہیں۔ علامہ سیوطیؒ نے ان دلائل کے متعدد جوابات دیے ہیں اور فرمایا کہ عبادت بدنی کا ثواب پہنچتا ہے جو ان جوابات کو دیکھنا چاہتا ہے شرح الصدور یا مرقات میں دیکھ لے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا میت کے منتقل کرنے کو ناپسند کرنا

۲۵/۱۶۱۲ وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ لَمَّا تَوَفَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِالْحَبَشَةِ وَهُوَ مَوْضِعٌ لِحِمْلِ إِلَى مَكَّةَ فَدَفِنَ بِهَا فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ :

وَكُنَّا كَنَدْمَانِي جَدِيمَةً حَقَبَةً ☆ مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قَبِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَانِي وَمَالِكَا ☆ لَطُولِ اجْتِمَاعِ لَمْ نَبْتَ لَيْلَةً مَعَا

نُمْ قَالَتْ وَاللَّهِ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتُ إِلَّا حَيْثُ مِتُّ وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ۔ [رواه الترمذی]

ترجمہ: ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب عبدالرحمن بن ابی بکر کی وفات حبشی کے مقام پر ہوئی تو ان کو مکہ کی طرف لایا گیا اور مکہ میں دفن کیا گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حج کے لیے (مکہ) تشریف لائیں تو عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس آئیں وہاں یہ اشعار پڑھے۔ جن کا ترجمہ یہ ہے: ہم دونوں جزیرہ کے دو ہم نشینوں کی طرح تھے۔ جو ایک لمبی مدت تک آپس میں جدا نہ ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ کہا گیا۔ وہ دونوں ہرگز جدا نہ ہو گئے پس جب ہم دونوں جدا ہوئے گویا میں اور مالک باوجود لمبا عرصہ ساتھ رہنے کے پھر ہم نے ایک رات بھی اکٹھے نہیں گزاری۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کی قسم! اگر میں تیرے مرنے کے وقت حاضر ہوتی تو تو وہاں ہی دفن ہوتا جس جگہ تجھے موت آتی تھی موت کی جگہ پر دفن کرنا سنت اور افضل ہے اور اگر میں تیرے پاس تیرے مرنے کے وقت حاضر ہوتی تو میں تیری زیارت نہ کرتی۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فرمان سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ میت کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر تدفین کے لیے منتقل کرنا منع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کی منتقلی کو ناپسند فرمایا اور حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کی وفات حبشی مقام پر ہوئی تھی۔ حبشی مکہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے اور بعضوں نے کہا ہے مکہ سے ایک منزل کا نام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کی جدائی میں دوا اشعار پڑھے اور وہ دونوں شعر تیس بن نویرہ کے ہیں جو انہوں نے اپنے بھائی مالک بن نویرہ جن کو خالد بن ولید نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہلاک کر دیا تھا کے مرچے میں پڑھے تھے۔

ترجمہ اشعار: ”تمیم کہتے ہیں ہم تھے جزیرہ کے دو ہم نشینوں کی طرح ایک لمبے زمانے سے۔ جزیرہ ایک بادشاہ کا نام تھا جو عراق اور جزیرہ عرب میں حکومت کرتا تھا اور اس بادشاہ کے دو ہم نشین تھے مالک اور عقیل۔ یہ چالیس سال تک اس کے ہم نشین رہے اور ان کو نعمان نے قتل کیا تھا اور ان کے قتل کا بھی عجیب قصہ ہے جو مقامات حریری میں مذکور ہے پس تمیم اپنے بھائی سے مرچے میں کہتا ہے کہ میں اور تو جزیرہ کے دو ہم نشینوں کی طرح اکٹھے رہتے تھے آپس میں محبت کرتے تھے۔ ایک لمبی مدت تک۔ لوگ میں مشہور ہو گیا تھا۔ کہ ان کی آپس میں جدائی نہیں ہوگی۔ پھر تمیم کہتا ہے کہ ہم ایسے جدا ہوئے یعنی میں اور مالک یعنی مالک کے ہلاک ہونے کی وجہ سے۔ ایک مدت تک۔ ایسے لگتا تھا کہ کبھی ہم دونوں ایک رات بھی اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔

اور حدیث پاک میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں تیری قبر کی زیارت نہ کرتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت ہے کیونکہ میں نے تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے میں تیری قبر کی زیارت کرنے کو آئی ہوں۔ تاکہ ملاقات کے قائم مقام ہو جائے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک میت کو قبر میں اتارنے کا طریقہ

۲۶/۲۱۱۳ وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ سَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدًا وَرَشَّ عَلَى قَبْرِه مَاءً۔

(رواہ ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو رافع سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے سعد کو جنازے (میت کی چار پائی) سے سر کی طرف سے نکالا اور ان کی قبر پر پانی چھڑکا اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کی لغوی تشریح اور وضاحت دوسری فصل کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما (۱۳/۱۶۰۰) میں گزر چکی

ہے۔

قبر پر مٹی ڈالنے کا مسنون طریقہ

۲۷/۱۶۱۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَحَنَى عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا . (رواه ابن ماجه)

اخرجه ابن ماجه في السنن ۴۹۹/۱ حديث رقم ۱۰۶۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک جنازے پر نماز پڑھی۔ پھر قبر کے پاس تشریف لائے۔ پھر آپ ﷺ نے تین لپیں (تین مٹھیاں) اس پر سر کی طرف سے ڈالیں۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں مٹی ڈالنے کا مسنون طریقہ بتایا گیا ہے کہ تین مٹی کے لپیں یعنی مٹھیاں بھر کر قبر پر ڈالی جائیں اور پھر دعا پڑھی جائے۔ مٹی ڈالتے وقت کی دعا پہلی حدیث میں گزر چکی ہے۔

قبر پر تکیہ لگا کر بیٹھنے کی ممانعت

۲۸/۱۶۱۵ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَكِنًا عَلَى قَبْرِ فَقَالَ لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ أَوْ لَا تُؤْذِهِ . (رواه احمد)

رواه احمد

ترجمہ: عمرو بن حزم سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ کو قبر پر تکیہ لگانے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ قبر والے کو تکلیف نہ دو یا فرمایا اس کو ایذا نہ دو۔ یہ امام احمد نے روایت کی ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ قبر پر سہارا لگا کر بیٹھنا منع ہے یہ شاید اس وجہ سے ہے کہ تکیہ یا سہارا لگا کر بیٹھنے سے میت کی روح ناخوش ہوتی ہے۔ اس لیے بھی کہ اس میں اس کی حقارت لازم آتی ہے۔ اس لیے آپ ﷺ نے منع فرمایا

ہے۔

بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

میت پر رونے کا بیان

فائدہ: ۱) مردے پر بغیر نوحہ اور چلانے کے رونا جائز ہے نوحہ اور چلانا مکروہ ہے اور میت کی بڑھ چڑھ کر تعریف کرنا

مکروہ ہے۔ جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا۔ میت کی خوبیوں کا ذکر کرنا اور تعریف کرنا مکروہ نہیں ہے اور تعزیت کرنا مستحب ہے اور تعزیت کے معنی ہیں کہ مصیبت زدہ کو صبر کی تلقین کرے اور تسلی دے اور تعزیت ایک سے زیادہ بار نہیں کرنی چاہیے اور تیسرے روز رشتہ داروں وغیرہ کا جمع ہونا اور تکلفات کرنا اور ناحق مال ضائع کرنا اور یتیموں کا مال وصیت کے بغیر کھانا بدعت ہے اور حرام ہے اور قاموس کے مصنف مجدد الدینؒ نے اپنی کتاب سفر السعادة میں لکھا ہے کہ آپ ﷺ کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جنازے کے علاوہ جمع ہونے کی عادت نہیں تھی کہ جمع ہو کر قرآن پڑھیں اور ختمات پڑھیں۔ نہ قبر پر اور نہ قبر کے علاوہ پر یہ سب بدعت ہیں اتنی۔ گھر میں یا مسجد میں بیٹھنا جائز ہے اس لیے کہ جب آپ ﷺ کو جعفر زید اور ابن رواحہ کی خبر پہنچی تو آپ ﷺ مسجد میں غمگین بیٹھے اور لوگ تعزیت کے لئے آتے تھے لیکن اس طرح سے تعزیت نہ کرتے تھے جس طرح اب متعارف ہے اتنی اور اکثر علماء کے نزدیک میت والے کے نزدیک جمع ہونا مکروہ ہے اور سخت مکروہ ہے کہ گھر کے باہر بیٹھ جائیں اور لوگ جمع ہو کر تعزیت کریں اس لیے کہ یہ جاہلیت کا فعل ہے بلکہ جب دفن سے فارغ ہو جائیں تو متفرق ہو جائیں اور اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہو جائیں اور صاحب میت کو بھی چاہیے کہ اپنے کام میں مشغول ہو جائے اور قبر کے گرد حلقہ باندھ کر قرآن پڑھنا مکروہ ہے۔ (حق فی الترجمة سفر السعادة)

فائدہ : (۱) میت زدہ کی تعزیت کرنا اچھی بات ہے اور تعزیت کا وقت مرنے سے تین دن تک ہے اور اس کے بعد مکروہ ہے اگر تعزیت کرنے والا غائب ہو یا مصیبت زدہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے جب ملے تعزیت کر لے۔ دفن کے بعد تعزیت کرنا اولیٰ ہے۔ یہ تب ہے اگر وہ بہت زیادہ جزع و فزع نہ کریں۔ اگر دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ جزع و فزع کرتے ہیں تو دفن کرنے سے پہلے ہی تعزیت متاخرین کے نزدیک بہتر ہے اور مستحب ہے کہ عام تعزیت کرے۔ میت کے تمام چھوٹوں اور بڑوں سے مردوں اور عورتوں سے تعزیت کرے۔ اگر عورت جوان ہو تو اس سے تعزیت صرف محرم ہی کرے۔

اور تعزیت کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے اللہ تعالیٰ تیری میت کو بخشے اور اس سے درگزر کرے اور اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور اس کی مصیبت پر تمہیں صبر نصیب کرے اور اس کے مرنے پر تجھے ثواب عطا فرمائے اور تعزیت کے بہترین الفاظ یہ ہیں جو آپ ﷺ نے بیان فرمائے ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں: ((ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى و کل شیء عندہ باجل مسمی)) یعنی اللہ کی ہی کی ملک ہے وہ چیز جو اس نے لی اور اسی کی لیے وہ چیز ہے جو اس نے عطاء کی اور ہر چیز کا اس کے پاس وقت مقرر ہے۔ اگر کافر مر جائے اور قریبی اس کا مسلمان ہو تو وہ یوں تعزیت کرے۔ اللہ تجھے بہت ثواب عطا فرمائے اور تجھے اچھی تسلی دے اور تیری میت کو بخشے اور اگر میت مسلمان ہو اور اس کا قریبی غیر مسلم ہو تو یوں تعزیت کرے اللہ تعالیٰ میت کی بخشش فرمائے اور تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو بہت ثواب دے اور عجم کے شہروں میں جو رسم و رواج ہے کہ سڑکوں اور بازاروں میں بچھونے بیٹھتے ہیں اور راستے بندے کر دیے جاتے ہیں راہ گیروں کو تکلیف ہوتی ہے یہ بہت بری رسم ہے اور مصیبت کے لیے تین دن تک بیٹھنا جائز ہے اور اس کا ترک کرنا اولیٰ ہے اور مردوں کے لیے کوئی مضائقہ نہیں ہے اور چہرہ کالا کرنا اور گر بیان چاک کرنا اور منہ کا نوچنا اور بالوں کا بکھیرنا اور سر پر مٹی ڈالنا اور ہاتھوں اور سینے کا پیٹنا اور قبروں پر آگ روشن کرنا۔ جاہلیت کی رسوم ہیں اور کھانا پکا کر میت والے کے گھر بھیجنا مکروہ نہیں ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری)

فائدہ : (۲) لوگ جو تیسرے دن تکلفات کرتے ہیں بچھونے بچھاتے ہیں خیمے کھڑے کرتے ہیں اور خوشبوئیں تقسیم کرتے

ہیں یہ سب بدعت کے کام ہیں اور نامشروع ہیں کذا نقلہ الشیخ عن مطالب المؤمنین اور نصاب میں لکھا ہے کہ لوگوں نے جو تیسرے روز خوشبو لگانے کی عادت مقرر کر رکھی ہے اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے کہ وہ تیسرے روز سوگ اتارنے کے لیے خوشبو لگاتی ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پرہیز خوشبو کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ اس وجہ سے ہے کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے اور تعزیت کے آداب یہ ہیں کہ صاحب مصیبت سے مصافحہ کرے اور تواضع اختیار کرے اور زیادہ کلام نہ کرے اور نہ ہی مسکرائے۔ شیخ الاسلام۔

الفصل الاول:

غم کی وجہ سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا نبوت کے منافی نہیں ہے

۱/۱۶۱۶ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفِ الثَّقَفِيِّ وَكَانَ ظَنُورًا لِأَبِرَاهِيمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَابِرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذَرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اتَّبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۷۲/۳ حدیث رقم ۱۳۰۳۔ ومسلم فی صحیحہ ۱۸۰۷/۴ حدیث رقم (۶۲)۔ (۲۳۱۵)۔

وابوداؤد فی السنن ۲۹۳/۳ حدیث رقم ۳۱۲۶۔ وابن ماجہ ۵۵۶/۱ حدیث رقم ۱۰۵۸۹۔ واحمد فی المسند ۱۹۴/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ابوسیف لوہار کے گھر گئے۔ (جو کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی دایہ کا شوہر تھا) پس نبی کریم ﷺ نے ابراہیم کو لیا ان کا بوسہ لیا اور ان کو سونگھا یعنی اپنی ناک رکھی اور اپنا منہ ان کے منہ پر رکھا۔ جیسے کوئی بوسو گھتا ہے اور پھر ہم ان کے پاس چند روز کے بعد گئے اس حال میں کہ ابراہیم نزع کی حالت میں تھے پس حضور ﷺ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے حضور ﷺ سے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ ﷺ رو رہے ہیں؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے عوف کے بیٹے یہ رحمت ہے پھر اس رونے کے بعد پھر روئے۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے اور ہم باوجود اس کے نہیں کہتے مگر وہ چیز کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اے ابراہیم! ہم تیری جدائی کے غم سے روتے ہیں اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

(متفق علیہ)

تشریح: اس حدیث پاک میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس ابوسیف کا جو نام آیا ہے۔ اس کا اصل نام براء تھا لوہار کا کام کرتے تھے اور ان کی بیوی کا نام خولہ بنت منذر انصاریہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی دایہ تھیں اور حضرت ابراہیم حضور ﷺ کے صاحبزادے تھے سولہ (۱۶) یا سترہ (۱۷) مہینے کی عمر میں وفات پائی۔

اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نزع کی حالت میں ان کے پاس تشریف لے گئے اور پیار کیا اور رو پڑے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے پوچھا یا رسول اللہ لوگ تو روتے ہیں اور آپ بھی روتے ہیں بڑی شان معرفت کے باوجود۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا رونا رحمت ہے یعنی اس کو اس حال میں مبتلا دیکھ کر رحم آرہا ہے یہ رونا اس کا اثر ہے نہ کہ بے مبری کی وجہ سے جیسا کہ تو نے خیال کیا ہے اور دل غمگین ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر ایسے موقع پر بھی کسی کا دل غمگین نہ ہو تو یہ اس شخص کی سنگدلی اور رحمت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے لہذا یہ غم کی وجہ سے رونا اہل کمال کے نزدیک بہت زیادہ کمال ہے نسبت اس شخص کے حال سے جس کا بیٹا فوت ہو جائے اور وہ ہستار ہے پس انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق دے۔

غم کی وجہ سے آنسوؤں کا نکلنا

۲/۲۱۷۷ وَعَنْ أَسَمَةَ بِنِ زَيْدٍ قَالَتْ أَرْسَلَتْ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ أَنَّ ابْنًا لِي قَبِضَ فَأَتَيْتَا فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آخِطَى وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَنْصَبُوا وَلْتَحْتَسِبُوا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لِيَأْتِيَنِيهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبِيُّ بَنٍ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيَّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعَّقُ لِقَاضَتِ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ فَإِنَّمَا يَرَحِمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۵۱۱۳۔ حدیث رقم ۱۲۸۴۔ ومسلم فی صحیحہ ۶۳۵۱۲ حدیث رقم (۱۱-۹۲۳)۔

وابوداؤد فی السنن ۴۹۲۱۳ حدیث رقم ۳۱۲۵۔ والنسائی ۲۱۱۴ حدیث رقم ۱۸۶۸۔ واحمد فی المسند ۲۰۴۱۵۔

ترجمہ: حضرت اُسامہ بن زیدؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی بیٹی یعنی حضرت زینبؓ نے حضور ﷺ کو اپنے بیٹے کی وفات کی خبر بھیجی آپ نے اس کو سلام بھیجا اور کہلا بھیجا کہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو چیز اس نے لی اور اس کی ہے جو چیز اس نے دی یعنی اولاد وغیرہ ان کے حلاک ہونے کی وجہ سے جزع فرغ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ وہ اپنی امانت لے لیتا ہے اور ہر چیز اس کے نزدیک مدت معین کے ساتھ ہے۔ یعنی تیرے بیٹے کی زندگی بھی اتنی ہی ہے جتنی اس کے مقدر میں تھی پس چاہیے کہ تو صبر کرے اور ثواب پائے۔ پھر دوبارہ حضور ﷺ کی بیٹی نے آدمی بھیجا اور حضور ﷺ کو قسم دی کہ ضرور تشریف لائیں چنانچہ حضور ﷺ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی کعب اور زید بن ثابتؓ اور دوسرے صحابہ کرامؓ بھی ہوئے۔ پس لڑکے کو آپ ﷺ کی گود میں دے دیا گیا جو نزع کی کیفیت سے دوچار تھا۔ پس حضور ﷺ کی دونوں آنکھیں بنے لگیں پھر سعدؓ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی ﷺ یہ کیا ہے۔ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ یہ رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف انہیں پر رحمت کرتا ہے جو اس کے بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ اس کو بخاری اور مسلمؒ نے نقل کیا۔

تشریح ☉ اس حدیث پاک میں حضرت زینبؓ کے بیٹے کی وفات کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ ﷺ نے اپنے نواسے کو نزع کی حالت میں اٹھایا اور رو پڑے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعدؓ نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ تو رحمت ہے اور آنسوؤں کا جاری ہو جانا حرام نہیں ہے۔

حضرت سعدؓ کا گمان تھا کہ شاید آنسوؤں کی تمام اقسام حرام ہیں اور آپ ﷺ بھول کر روتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے امت کو آگاہ کر دیا کہ آنسوؤں سے رونا حرام نہیں ہے۔ بلکہ وہ رحمت ہے لیکن نوحہ کرنا اگر بیان چاک کرنا چہرے کو پیٹنا حرام ہے۔

نامعلوم بیماری پر آپ ﷺ کا پریشان ہو کر آنسوؤں کا جاری ہو جانا

۳/۱۶۱۸ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَاتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَاشِيَةٍ فَقَالَ قَدْ قُضِيَ قَالُوا لَا يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بَكَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا فَقَالَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعَذِّبُ بِذَمِّ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ أَلَمِيَّتَ يُعَذِّبُ بِبَكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ۔

(متفق علیہ)

اخر جرحہ البخاری فی صحیحہ ۱۷۵۱۳۔ حدیث رقم ۱۳۰۴۔ و مسلم فی صحیحہ ۶۳۶۱۲۔ حدیث رقم (۱۲)۔ (۹۲۴)۔
 حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے فرمایا حضرت سعد بن عبادہؓ بیمار ہوئے معلوم نہیں کہ کونسی بیماری تھی پس نبی کریم ﷺ حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ اور سعد بن ابی وقاصؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ کی معیت میں ان کی عیادت کرنے کو آئے تو جب ان کے پاس گئے۔ تو ان کو بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ آپ ﷺ نے صحابہؓ کو ارشاد فرمایا کہ کیا وہ فوت ہو گئے ہیں صحابہؓ نے کہا یا رسول اللہ! نہیں پھر آپ ﷺ اس کو دیکھ کر ازراہ مہربانی کے روئے اس پر صحابہؓ بھی رو پڑے پس آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ اور دل کے غم کی وجہ سے عذاب نہیں کرتا۔ لیکن اس چیز کے ساتھ اللہ عذاب دیتا ہے اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور تحقیق مردے کو لوگوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔

تشریح ☉ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے بلند آواز سے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور اس لیے واویلا کرنا نوحہ کرنا اور چہرہ کو پیٹنا ان تمام چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ تمام چیزیں بے صبری کی علامت ہیں اور اس کی مزید تحقیق تیسری فصل میں آجائے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

مصیبت پر واویلا کرنا ممنوع ہے

۴/۱۶۱۹ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ

الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۶۳/۳ - حدیث رقم ۱۲۹۴ - ومسلم فی صحیحہ ۹۹/۱ حدیث رقم (۱۶۵ - ۱۰۳) -
والترمذی فی السنن ۳۲۴/۳ حدیث رقم ۹۹۹ - والنسائی ۲۰/۴ حدیث رقم ۱۸۶۲ - وابن ماجہ ۵۰۴/۱ حدیث رقم ۱۵۸۴ - واحمد فی المسند ۴۳۲/۱ -

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو رخسار کو پٹے اور گریباں پھاڑے اور جاہلیت کی طرح پکارے یعنی رونے کے وقت ایسے الفاظ کہے جو او دایلا اور نوحہ کی طرز پر ہوں وہ شرعاً جائز نہیں ہیں۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو رخساروں کو پٹے اور اپنے گریبان کو پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرح پکارے، پگڑی پھینکے، سر پٹے، بال نوچے یہ سب چیزیں شرعاً ممنوع ہیں اور بے صبری کی علامت ہیں اور اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہیں۔

مصیبت کے وقت بے صبری کا مظاہرہ کرنا ممنوع ہے

۵/۱۲۲۰ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَغْمَى عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ تَصِيحُ بِرَنَةٍ ثُمَّ أَتَاكَ فَقَالَ أَلَمْ تَعْلَمِي وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ خَلَقَ وَصَلَّقَ وَخَرَّقَ - (متفق علیہ ولفظہ لمسلم)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۶۵/۳ - حدیث رقم ۱۲۹۶ - ومسلم فی صحیحہ ۱۰۰/۱ حدیث رقم (۱۶۷ - ۱۰۴) -
والنسائی فی السنن ۲۰/۴ حدیث رقم ۱۸۶۳ - وابن ماجہ ۵۰۵/۱ حدیث رقم ۱۵۸۶ -

ترجمہ: حضرت ابی بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیہوش ہو گئے۔ تو ان کی بیوی ام عبداللہ نے چلا کر رونا شروع کر دیا۔ پھر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ہوش میں آئے پس فرمایا کیا تو نے نہیں جانا اور نبی کریم ﷺ کی حدیث بیان کرنے لگے کہ آپ ﷺ نے فرمایا میں اس شخص سے بیزار ہوں کہ جو مصیبت کے وقت سر کے بال منڈائے، چلا کر روئے اور اپنے کپڑے پھاڑے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور اس کے واسطے مسلم کے لفظ ہیں۔

تشریح: اس حدیث میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ مصیبت کے وقت بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ رونا چلانا سر کے بال منڈا دینا یہ سب ممنوع ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کے افعال تھے اور اکثر عورتوں سے سر زد ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ آپ ﷺ اس سے بیزار ہوتے ہیں۔

حسب و نسب میں فخر کرنا ممنوع ہے

۶/۱۲۴۱ وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ فِيْ أُمَّتِيْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتَرَكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالْبِيَاحَةُ وَقَالَ النَّاسِخَةُ إِذَا لَمْ تَتَّبِ قَبْلَ مَوْتِهَا تَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قِطْرَانٍ وَدَرْعٌ مِنْ جَرَبٍ - (رواه مسلم)

آخر حرجہ مسلم فی صحیحہ ۶۴۴/۲ حدیث رقم (۲۹-۹۳۴)۔ واحمد فی المسند ۳۴۲/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو مالک اشعریؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا چار چیزیں میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں یعنی اکثر لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ۱) حسب میں فخر کرنا۔ ۲) نسب میں طعن کرنا۔ ۳) ستاروں کے ذریعے پانی طلب کرنا۔ ۴) اور نوحہ کرنا اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا نوحہ کرنے کی والی عورت جس وقت وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو قیامت کے دن موقف (میدان حشر) میں کھڑی کی جائے گی اور اس پر قطر ان کا گرتا ہوگا اور خارش کا کرتہ ہوگا۔ اس کو امام مسلمؒ نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ۱) آپ ﷺ نے اس حدیث مبارکہ میں چار چیزوں کو زمانہ جاہلیت میں سے شمار کیا ہے: ۱) حسب کہتے ہیں آدمی اپنے اندر موجود خوبیوں کو اچھا سمجھے جیسے بہادری اور فصاحت وغیرہ۔ ۲) لوگوں کے نسب میں طعن کرے۔ کہ فلا نے آدمی کا باپ برا تھا دادا برا تھا ان دونوں چیزوں میں اپنی تعظیم اور لوگوں کی حقارت لازم آتی ہے اس لیے یہ دونوں مذموم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور کفر کی وجہ سے دوسرے کو حقیر جانے یہ تو جائز ہے اور باقی ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا کہ اگر فلاں ستارہ فلاں جگہ پر ہوگا تو بارش برے گی۔ الحاصل یہ اعتقاد رکھنا حرام ہے اور بندے پر واجب ہے کہ وہ اعتقاد رکھے کہ بارش اللہ تعالیٰ ہی نازل کرتے ہیں اور نوحہ کرنے سے بھی ممانعت ہے۔ جس کی تفصیل پہلی حدیثوں میں گزر چکی ہے اور میت کو اچھی خوبیوں کے ساتھ یاد کرنا کہ بڑا بہادر تھا اور ایسا تھا جب نوحہ کرنے والی نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو حدیث پاک میں بڑی سخت وعید نازل ہوئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو قطر ان کا لباس پہنائے گا۔

قطر ان ایک بدبو والی، لیس دار دوا ہے۔ جو ”اہبل“ نامی درخت سے نکلتی ہے ہندی میں اس کو ہویر کہتے ہیں اور یہ خارجی اونٹوں کو ملا کرتے ہیں آگ اس کو بہت جلد پکڑتی ہے اسی سے فرنیچر کے لئے ”وارنش“ اور ”گونڈ“ بھی تیار کی جاتی ہے یہ لوہے کو زنگ سے بچانے کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے: ﴿سَرَّابِلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ﴾ [ابراہیم: ۵۰] پس اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس پر خارش مسلط ہوگی اور اس پر قطر ان ملیں گے تاکہ تکلیف زیادہ پہنچے والعیاذ باللہ۔ (بمجم)

آپ ﷺ کا ایک عورت کو مصیبت و پریشانی کے وقت صبر کی تلقین کرنا

۷/۶۲۲ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَرْأَةُ تَبَكِّيْ عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِيْ قَالَتْ إِنَّكَ عِنِّيْ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّ بِمُصِيبَتِيْ وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَائِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْأُولَى۔ (متفق علیہ)

آخر حرجہ البخاری فی صحیحہ ۱۴۸۳۔ حدیث رقم ۱۲۸۳۔ و مسلم فی صحیحہ ۶۳۷/۲ حدیث رقم (۱۵-۹۲۶)۔ و ابوداؤد فی السنن ۴۹۱/۳ حدیث رقم ۳۱۲۴۔ والنسائی ۲۲/۴ حدیث رقم ۱۸۶۹۔ و الترمذی ۳۱۳/۳ حدیث رقم ۹۸۷۔ وابن ماجہ ۵۰۹/۱ حدیث رقم ۱۵۹۶۔ واحمد فی المسند ۱۳۰/۳۔

ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک عورت کے پاس سے گزرے کہ وہ آواز نکال کر رو رہی تھی۔ پس آپ ﷺ نے فرمایا خدا کے عذاب سے ڈرو اور نوحہ مت کرو۔ ورنہ عذاب ہوگا اور صبر کرو اور عورت نے کہا تو ایک طرف ہو جا اس لیے کہ تو مجھ جیسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوا اور اس عورت نے آپ ﷺ کو نہ پہنچانا۔ پھر اس کو بتایا گیا کہ یہ تو نبی کریم ﷺ تھے پھر وہ نبی کریم ﷺ کے دروازے پر آئی۔ پس اس نے آپ ﷺ کے دروازے پر کسی دربان کو نہ پایا جیسا کہ بادشاہوں اور امیروں کے دروازوں پر دربان ہوتے ہیں۔ پس اس نے کہا کہ میں نے آپ ﷺ کو نہیں پہنچانا تھا۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ صبر تو پہلے صدمہ کے وقت ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح: آپ ﷺ نے اس حدیث پاک میں مصیبت و پریشانی کے وقت صبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا۔ کہ صبر وہ ہے۔ جب سب سے پہلے انسان کو مصیبت پہنچے تو وہ اس پر صبر کرے یہ صبر نہیں ہے کہ پہلے واہلا کر لے نوحہ کر لے اور بعد میں تھک ہار کر کہے کہ میں نے صبر کیا۔ یہ صبر نہیں ہے صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔

اس حدیث میں جو عورت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس نے آپ ﷺ کو پہنچانے بغیر جواب دیا پھر پریشان ہو گئی کیونکہ اس سے غافل تھی۔ کسی نے کہا کہ کلام کی طرف دیکھو کہنے والے کی طرف نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔

صبر کامل اور پسندیدہ صبر وہی ہے جس پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ پہلے صدمے کے وقت صبر کرنے پر ہی ملتا ہے ورنہ تھک ہار کر خود بخود صبر آ جاتا ہے اور ان مندرجہ بالا احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے نوحہ کرنا میت کی بھلائیوں کو شمار کرنا مثلاً کیا کڑیل جوان تھا اور پکار پکار کر رونا چہرے کا پھینکا، گریبان پھاڑنا، بالوں کا بکھیرنا، بالوں کا نوچنا، کالا منہ کرنا، سر پر مٹی ڈالنا اور اس طرح کے بے مبری کام کرنے ممنوع ہیں۔

تین بیٹوں کے فوت ہونے پر ملنے والا اجر

۸/۲۳۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَلَئِنْ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۴۱/۱۱۔ حدیث رقم ۶۶۵۶۔ و مسلم فی صحیحہ ۲۰۲۸/۴۔ حدیث رقم (۱۵۰۔ ۲۶۳۲) والترمذی فی السنن ۳۷۴/۳۔ حدیث رقم ۱۰۶۰۔ اخرجہ النسائی ۲۵/۴۔ حدیث رقم ۱۸۷۵۔ وابن ماجہ ۵۱۲/۱۔ حدیث رقم ۱۶۰۳۔ ومالك فی الموطأ ۲۳۵/۱۔ حدیث رقم ۳۸ من کتاب الجنائز۔ واحمد فی المسند ۲۳۹/۲۔

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ اس کے تین بیٹے فوت ہو جائیں اور وہ جہنم میں داخل ہو۔ مگر قسم پوری کرنے کے لیے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مریم: ۷۱] تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اگرچہ وہ ایک گھڑی کے لیے ہی جائے تمام لوگ پل صراط سے گزریں گے۔ نیک لوگ بجلی اور ہوا کی طرح گزر جائیں گے اور بد لوگ کو تکلیف دی جائے گی۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس کے تین بیٹے فوت ہو جائیں وہ دوزخ میں داخل نہیں ہونگے مگر اتنی مقدار میں کہ قسم پوری ہو جائے صرف پل صراط سے گزریں گے اور وہ عذاب

سے محفوظ رہیں گے۔ عرب لوگ کہتے تھے کہ میں نے یہ تمام محض قسم پوری کرنے کے لیے کہا ہے یعنی قسم کو اپنے ذمے سے ساقط کرنے کے لیے قسم پورا کرنے کے لیے ادنیٰ فعل بھی کافی ہے۔

۹/۱۲۳۳ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسُوْرَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ كُنَّ ثَلَاثَةً مِّنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ إِنْسَانٍ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوْ إِنْسَانٍ۔

(رواه مسلم وفي رواية لهما ثلاثة لم يبلغوا الحنث)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۸۸۳/۳ حدیث رقم ۱۳۸۱ و مسلم فی صحیحہ ۲۰۲۸/۴ حدیث رقم (۱۰۱-۲۶۳۲)۔
والترمذی فی السنن ۳۷۳/۳ حدیث رقم ۱۰۵۹۔ والنسائی ۲۵/۴ حدیث رقم ۱۸۷۳۔ وابن ماجہ ۵۱۲/۱ حدیث رقم ۱۶۰۴۔ ومالك فی الموطأ ۲۳۵/۱ حدیث رقم ۳۹ من كتاب الحناظر۔ واحمد فی المسند ۵۱۰/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے انصار کی عورتوں سے ارشاد فرمایا: تم میں سے جس کے تین بیٹے فوت ہو جائیں تو وہ ثواب پائے گی اور جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے ان میں سے کہا اے اللہ کے رسول! اگر دو بیٹے فوت ہو جائیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تین کی خصوصیت نہیں ہے اگر دو بھی فوت ہو جائیں تو یہی بشارت ہے۔ اس کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اور ایک روایت بخاری اور مسلم کی میں یوں ہے کہ اگر تین بیٹے فوت ہو جائیں اور وہ بلوغ تک نہ پہنچے ہوں۔ تو وہ بھی مذکورہ ثواب حاصل کریں گے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے بیٹوں کی وفات پر عورت کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے کہ وہ عورت جس کے تین بیٹے فوت ہو جائیں تو وہ صبر و شکر سے کام لے جزع و فزع نہ کرے اور ثواب کی طالب رہے۔ یعنی نوحہ نہ کرے اور انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھے تو بغیر عذاب کے صبر یا شفاعت کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگی اور دو کے بارے میں احتمال ہے وحی آگئی ہو کہ آپ ﷺ کے حضور متوجہ ہو کر دعا کرنی ہوگی اور وہ قبول ہوگی اور دوسری روایت میں غیر بالغ کی قید بڑوں کی نسبت اس لیے لگائی کہ چھوٹے لڑکوں کے ساتھ عورتوں کو محبت بہت ہوتی ہے اور ان کے مرنے کا بہت رنج ہوتا ہے چھوٹے بچے والدین کے ساتھ زیادہ مانوس ہوتے ہیں۔

اپنے پیارے کی وفات پر جنت کی ضمانت

۱۰/۱۲۳۵ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبِضْتُ صَفِيَّةً مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ أَحْتَسِبُهُ إِلَّا الْجَنَّةَ۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۴۱۱/۱۔ حدیث رقم ۶۴۲۲۔ والنسائی ۲۳/۴ حدیث رقم ۱۸۷۱۔ واحمد فی المسند ۴۱۷/۲۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ مؤمن بندے کے لیے میرے پاس بدلہ ہے۔ جس وقت اس کے پیارے کی دنیا سے روح قبض کر لیتا ہوں۔ پھر وہ ثواب کا طالب رہے تو بہشت عطا کروں گا۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ اگر کسی شخص کا کوئی محبوب شخص باپ یا بیٹا ہو وفات پا جائے یا اس کے

علاوہ کوئی دنیا سے وفات پا جائے اور وہ اس کو پسند کرتا ہے تو بہت زیادہ ثواب پائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے اور خدا کا راضی ہونا سب سے افضل ہے۔ اہل دنیا کی قید سے پتہ چلتا ہے کہ پیارا اہل آخرت میں سے ہوگا تو اس کے مرنے پر صبر کرنے کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے۔

الفصل الثانی:

نوحہ سننا اور کرنا دونوں ممنوع ہیں

۱/۲۳۶ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الثَّانِيَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ (رواہ ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۴۹۴/۳ حدیث رقم ۳۱۲۸۔ واحمد فی المسند ۱۶۵/۳۔

ترجمہ: حضرت ابو خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی پر لعنت کی ہے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس مضمون کی تفصیل پہلی حدیثوں میں گزر چکی ہے اب اس مذکورہ حدیث کے خلاصے پر ہی فقط اکتفا کیا جاتا ہے کہ نوحہ کرنے والی وہ عورت ہے جو کسی کی موت پر اس کی بھلائیاں یاد کر کے روئے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ نوحہ کرنے والی وہ عورت ہوتی ہے جو مصیبت پر بلند آواز کے ساتھ روئے اور نوحہ سننے والی وہ عورت ہے جو قصد انوحہ سننے اور اس پر راضی ہو۔

پریشانی اور خوشی کے وقت مومن کی قلبی کیفیت

۲/۲۳۷ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبٌ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ فَحَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ فَالْمُؤْمِنُ يُوجَرُ فِي كُلِّ أَمْرٍ حَتَّى فِي الْقَفَمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَيَّ فِي أَمْرَاتِهِ (رواہ البيهقي فی شعب الايمان)

اخرجه احمد فی المسند ۱۸۲/۱ والبيهقي فی شعب الايمان ۱۸۹/۹ حدیث رقم ۹۹۵۱۔

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے مومن کا عجب حال ہے کہ اگر اس کو کوئی نیکی پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر ادا کرتا ہے۔ اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے پس مومن کو اس کے ہر کام پر ثواب ملتا ہے۔ یعنی صبر و شکر وغیرہ کے یہاں تک کہ لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے (اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے)۔ اس کو نبیؐ نے شعب الايمان میں روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مباح چیزوں میں نیکی کی نیت کرے گا تو ثواب ملے گا۔ چنانچہ اگر اس نے بیوی کے منہ میں نوالہ ڈالا اور یہ نیت کی کہ اس کا حق مجھ پر واجب ہے اور حق کی ادائیگی کے لیے یہ میں نے کام کیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہوں تو اس کو ثواب ملے گا۔

مؤمن کے فوت ہونے پر آسمان وزمین بھی روتے ہیں

۱۳/۱۶۲۸ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَهُ بَابَانِ بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ فَإِذَا مَاتَ بَنِيَا عَلَيْهِ فَلَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى لَمَّا بَنَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ -

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۵۴۱۵ حدیث رقم ۳۲۵۵

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مؤمن کے لیے دو دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے اس کے اعمال چڑھتے ہیں اور ایک دروازے سے روزی باترقی ہے پس جب وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس پر دونوں دروازے روتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس قول سے سمجھی جاسکتی ہے۔ پس کافروں پر آسمان وزمین نہ روئے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ مؤمن کے فوت ہونے پر آسمان وزمین کے دروازے روتے ہیں۔ ایک دروازے سے نیک اعمال آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور اعمال نامے میں ان کے اعمال لکھے جاتے ہیں اور ایک دروازے سے آسمان سے رزق اترتا ہے اور جس جس کے مقدر میں ہوتا ہے اس کو پہنچتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو دونوں دروازے روتے ہیں کیونکہ ایک دروازے سے اس کے نیک اعمال اوپر چڑھتے تھے اور دوسرے دروازے سے رزق اترتا تھا اور وہ دونوں نیک عمل پر مدد و معاون تھے اور اب مؤمن کے فوت ہونے پر اس سعادت سے محروم ہو گئے اور مذکورہ آیت کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ کافروں کے مرنے پر نہ آسمان روتا ہے اور نہ ہی زمین روتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر مؤمن کے مرنے پر یہ دونوں روتے ہیں۔

ثواب مصیبت و مشقت کے بقدر ہوتا ہے

۱۳/۱۶۲۹ وَعَنْ أَبِي عُبَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ فَرْطَانِ مِنْ أُمَّتِي آذَحَلَّهُ اللَّهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرْطٌ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرْطٌ مُوَفَّقَةٌ فَقَالَتْ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرْطٌ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ فَإِنَّا فَرْطُ أُمَّتِي لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي - (رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۷۶۱۳ حدیث رقم ۱۰۶۲۱۔ واحمد فی المسند ۳۳۴۱۱

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے وہ شخص جس کے دو بیٹے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو چکے ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ان دونوں کی وجہ سے بہشت میں داخل کرے گا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے لگیں اور آپ ﷺ کی امت میں سے جس کا ایک بیٹا فوت ہو جائے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بیٹا فوت ہونے پر بھی وہی حکم ہے۔ اے موفّقہ! اے توفیق دی گئی پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں کہ وہ شخص جس کا ایک بھی بیٹا نہ ہوا ہو تو آپ ﷺ نے فرمایا میں اپنی امت کا میرا منزل ہوں۔ ان کو میری مصیبت کی طرح کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی یعنی آپ ﷺ نے فرمایا میرا دنیا سے رحلت فرما جانا ہی ان کے لیے بڑی مصیبت ہوگی۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں ”فرطان“ کا لفظ آیا ہے۔ یہ فرط کا تثنیہ ہے۔ فرط اس کو کہتے ہیں جو منزل پر پہنچ کر قافلے کے جانے سے پہلے پانی، خوراک وغیرہ کا قافلے کے لیے انتظام کرتا ہے اور یہاں فرط سے مراد وہ اولاد ہے جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے۔ اس کو فرط اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جا کر نعمتوں کی درنگی کرتا ہے یعنی ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا اور یَا مُؤَلَّفَةً کا خطاب حضور ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل و کمالات کی بنا پر یَا مُؤَلَّفَةً سے خطاب کیا۔ کیونکہ آپ نیک اور بھلی باتوں کو پوچھنے والی تھیں۔

اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں میر منزل ہوں۔ یعنی میں ان سے پہلے جاؤں گا اور شفاعت کر کے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اس لیے بندے کو جو ثواب ملتا ہے بقدر مشقت کے ملا کرتا ہے تو میرا دنیا سے اٹھ جانا ان کے لیے سب مصیبتوں سے بڑھ کر مصیبت ہوگی۔ اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔

بیٹے کے فوت ہونے پر جنت میں بیت الحمد کی خوشخبری

۱۵/۱۶۳۰ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فَوَادِهِ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ حَمْدَكَ وَاسْتَزَجَعَ فَيَقُولُ اللَّهُ ابْنُ الْعَبْدِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ۔

(رواہ احمد و الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۴۱۳ حدیث رقم ۱۰۲۱۔ واحمد فی المسند ۴۱۵۱۴۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس وقت کسی بندہ مؤمن کا فرزند (بیٹا) فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو یعنی ملک الموت اور اس کے تابعداروں کو کہتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی۔ پس فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں! پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے دل کے میوے کو قبض کر لیا؟ پس فرشتے کہتے ہیں جی ہاں! پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ تیری تعریف کی اور انا اللہ وانا الیراجعون پڑھا پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کہ میرے بندے کے لیے بہشت میں ایک بڑا گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اس کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں خلاصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کی اولاد کا فوت ہو جانا حقیقت میں اس کے لیے بڑا غم ہوتا ہے اور جتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے اتنا بڑا انعام بھی ملا کرتا ہے اس گھر کا نام بیت الحمد اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ حمد و تسلیم کے بدلے میں ملتا ہے جو اس نے مصیبت کے وقت کی تھی۔

تسلی دینے والے کو اجر ملنا

۱۶/۱۶۳۱ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَزَى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ (رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعاً الا من حدیث علی ابن عاصم الراوی وقال وراہ بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الا سناد موقوفاً۔)

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۸۵ حدیث رقم ۱۰۷۳۔ وابن ماجہ ۵۱۱/۱ حدیث رقم ۱۶۰۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو شخص مصیبت زدہ کو تسلی دے تو اس کو بھی اس کی طرح (یعنی مصیبت زدہ کی طرح) ثواب ملتا ہے اس کو ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے ہم اس کو مرفوع نہیں جانتے مگر علی بن عاصم راوی کی حدیث سے اور امام ترمذی نے کہا ہے اس کو بعض محدثوں نے محمد بن سوہ سے روایت کیا ہے۔ یہ روایت اسی سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مصیبت زدہ کو تسلی دینے والے کو بھی اس کے برابر ثواب ملتا ہے جتنا مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملتا ہے۔ تسلی دینے والا خواہ اس کے پاس جا کر تسلی دے یا لکھ کر بھیجے۔ تو اس کو بھی اسی طرح ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ یہ صبر کا باعث ہے۔ جیسے الدال علی الخیر کفاعله: جو نیکی کا راستہ بتاتا ہے اس کو بھی نیکی کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث سے اس کو مزید تاکید حاصل ہوتی ہے وہ حدیث یہ ہے:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلْلِ الْكُرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ [ابن ماجہ: ح: ۱۶۰۱] ”جو کوئی مسلمان اپنے بھائی کی تعزیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بزرگی کے جوڑے پہنائے گا۔ اس کی سند حسن و مرفوع ہے اور مکررات ۳ مرتبہ ہے۔“

بیٹے کی وفات پر عورت کو تسلی دینے کے باعث جنت کا لباس پہنایا جائے گا

۱۷/۱۲۳۲ وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَزَّى تَكْلِي كُتْسَى بُرْدًا فِي

الْجَنَّةِ۔ [رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب]

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۸۸/۳ حدیث رقم ۱۰۷۶۔

ترجمہ: حضرت ابو بزرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص اس عورت کو تسلی دے جس کا بیٹا فوت ہو چکا ہو اس کو جنت میں اچھا لباس پہنایا جائے گا۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی عورت کے بیٹے کی وفات پر جس نے اس عورت کو تسلی دی اس کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ صرف تسلی دینے پر کتنی عظیم نعمت حاصل کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی و شفقت کی دلیل ہے۔

میت کے اہل والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا

۱۸/۱۲۳۳ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْنَعُوا لِإِل

جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ آتَاهُمْ مَا يَشْفُلُهُمْ۔ (رواه الترمذی و ابو داود وابن ماجہ)

اخرجه ابو داود فی السنن ۴۹۷/۳ حدیث رقم ۳۱۳۲۔ و الترمذی ۳۲۳/۳ حدیث رقم ۹۹۸۔ وابن ماجہ ۵۱۴/۱

حدیث رقم ۱۶۱۰۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ جب جعفرؓ کے مرنے کی خبر پہنچی تو آپ ﷺ نے اہل بیت کو

ارشاد فرمایا کہ حضرت جعفرؓ کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ تحقیق ان کے پاس وہ چیز آئی ہے۔ جو کھانا پکانے سے روک دیتی ہے۔ (یعنی حضرت جعفرؓ کے مرنے کی خبر)۔ اس کو امام ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتے داروں اور ہمسایوں کے لیے مستحب ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجیں اور کھانا اس قدر ہو کہ پیٹ بھر کر کھالیں اور ایک رات و دن کے لیے کافی ہو جائے اور بعضوں نے کہا ہے کہ تین دن تک کھانا بھیجنا چاہیے کیونکہ ایام تعزیت تین دن ہیں اور ان کے علاوہ کے لیے (یعنی میت کے اہل خانہ کے علاوہ کے لئے) کھانے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے یعنی میت کے اہل والوں کے علاوہ کہ ان کو کھانا کھانا چاہیے یا نہیں اور ابو القاسم نے کہا ہے کہ کوئی مضائقہ نہیں ہے اس لیے کہ دوسرے لوگ میت کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہونگے جب اہل میت کے لیے کھانا پکایا جائے تو اہل میت کو اصرار کر کے کھانے پر لایا جائے تاکہ ان کو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ضعف نہ ہو جائے۔ ان کا کھانا نہ کھانا حیاء کی وجہ سے یا غم کی زیادتی کی وجہ سے ہے اور کھانا کھانا نوہ کرنے والی عورتوں کے لیے سخت حرام ہے اس لیے کہ گناہ پر ان کی مدد کرنی لازم آتی ہے۔ اہل میت کا لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھانا بدعت و مکروہ ہے۔ حضرت جریرؓ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم اس کو نیاحت (یعنی نوہ کرن سے) سے شمار کرتے تھے اور اس سے اس کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے اور امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا بھی مکروہ ہے ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں جب یتیم یا غائب شخص کا مال نہ ہو۔ اگر یتیم یا غائب کا مال ہوگا تو اس کا کھانا بلا خلاف حرام ہے۔

الفصل الثالث:

نوہ کرنے پر عذاب کی وعید

۹/۱۲۳۴ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رُبِحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَانِيحٍ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۶۰۱۳۔ حدیث رقم ۱۲۹۱۔ و مسلم فی صحیحہ ۶۴۳/۲ حدیث رقم (۲۸)۔ (۹۳۳)۔
والترمذی فی السنن ۳۲۴/۳ حدیث رقم ۱۰۰۰۔ واحمد فی المسند ۶۱/۲۔

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریمؐ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ فرماتے تھے جس پر نوہ کیا جاتا ہے اس کو قیامت کے دن نوہ کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اس کو بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ نوہ کرنے کو آپ ﷺ نے سخت ناپسند کیا ہے اور اس پر عذاب کی وعید بھی سنائی ہے کہ جس پر نوہ کیا جائے گا اس کو قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔

میت کو زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے

۲۰/۱۲۳۵ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَذَكَرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِكُفٍّ الْحَيِّ عَلَيْهِ تَقُولُ يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَا

٢١/٢٣٦ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تَوَفَّيْتُ بِنْتَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ فَجِئْنَا لِنُشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَلِأَنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِعُمَرَوِ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوْاجِهُهُ الْآتِيهِ عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضُ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ فَقَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا

كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ فَإِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ إِذْهَبْ فَاَنْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرَّكْبُ فَتَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ قَالَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَدْعُهُ فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ فَلَمَّا أَنْ أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ وَالْأَخَاهُ وَأَصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بِيْغَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ لَا وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبِيْغَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلَكِنْ إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبِيْغَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ وَلَا تَزِرُوا زِرَّةً وَزَرَ أُخْرَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ وَاللَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ فَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۰۱۳/۱۲۸۶ و مسلم فی صحیحہ ۶۴۱۳/۲۳-۹۲۷۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہؓ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفانؓ کی بیٹی مکہ میں وفات پا گئی۔ ہم اس کے نماز جنازہ اور دفن میں حاضر ہونے کے لیے آئے اور جنازے میں حاضر ہونے کے لیے عبداللہ بن عمر اور ابن عباسؓ بھی تشریف لائے۔ پس میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ پس عبداللہ بن عمرؓ نے عمر بن عثمانؓ کو کہا جو ان کے سامنے تھے۔ کیا تم اپنے گھر والوں کو رونے سے منع نہیں کرتے ہو؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ پس ابن عباسؓ نے کہا کہ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ اس میں عام رونا معلوم ہوتا ہے اور وہ خاص رونے کو منع کرتے تھے جو آواز اور نوحہ کے ساتھ ہو۔ پھر ابن عباسؓ نے حدیث بیان کی کہ میں حضرت عمرؓ کے ساتھ مکہ سے لوٹا۔ یہاں تک کہ ہم بیداء مقام پر پہنچے۔ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ پس اچانک حضرت عمرؓ ایک کیکر کے درخت کے نیچے قافلے سے ملے پھر ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے مجھے کہا۔ جا کر دیکھو اس قافلہ میں کون ہیں؟ پس میں نے دیکھا کہ وہ صہیبؓ امیر تھے اور ان کے ہمراہی تھے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو خبر دی۔ پھر حضرت عمرؓ نے کہا اس کو بلاؤ! میں صہیبؓ کے پاس گیا اور کہا کہ چلے امیر المؤمنین حضرت عمرؓ سے ملاقات کرو۔ جب عمرؓ زخمی ہوئے تو حضرت صہیبؓ روتے ہوئے داخل ہوئے اور کہنے لگے اے میرے بھائی! اے میرے صاحب! حضرت عمرؓ نے کہا اے صہیبؓ! کیا تو مجھ پر آواز کے ساتھ رویا ہے اور پیغمبرؐ نے ارشاد فرمایا تحقیق مردہ یا قریب المرگ کو اس کے اہل والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے جو آواز اور نوحہ کے ساتھ ہو۔ پس ابن عباسؓ نے کہا کہ جب حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی میں نے ان کا یہ قول حضرت عائشہ صدیقہؓ کے سامنے پیش کیا پس حضرت عائشہؓ فرماتے لگیں اللہ تعالیٰ حضرت عمرؓ پر رحم فرمائے۔ کہ خدا کی قسم! آپ ﷺ نے اس طرح نہیں فرمایا کہ میت کو اہل والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ نہ مطلق رونے سے اور نہ بعض رونے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے کافر کو عذاب زیادہ دیتا ہے اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں قرآن تم کو کافی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اس آیت کے قریب یہ مضمون بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنسنا اور

رلاتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کچھ نہیں کہا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد کے محراب میں زخمی ہوئے اور ان کو گھراٹھا کر لایا گیا اور لوگ ان کی خبر کو گئے۔ تو ان میں صہیبؓ بھی موجود تھے۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگے اے میرے بھائی! اے میرے صاحب! اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نوحہ ہے۔ اس لیے کہ نوحہ وہ ہوتا ہے جو بلند آواز سے ہو اور یہ ایسا نہیں تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر رونے سے منع فرمایا کہ کہیں یہ حد سے نہ بڑھ جائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو نفی کی ہے وہ اس مفہوم کی نفی کی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھے ہیں بلاشبہ حدیث صحیح ہے اختلاف صرف مفہوم کے بارے میں۔ عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مومن اور کافر کو لواحقین کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ کافر کے حق میں ہے۔ کافر عذاب کے اندر ہی مبتلا ہوتا ہے چاہے اہل و عیال والے روئیں یا نہ روئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کافر کے اہل والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب میں زیادتی کر دیتا ہے اور کافر کو اس کے اہل کے رونے کی وجہ عذاب ہوتا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ کافر ان کے رونے پر راضی ہوتا ہے اور بعض رونے اور نوحہ کی وصیت کر کے جاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے دلیل پکڑی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ کسی کا گناہ کسی پر نہیں لکھا جاتا۔ پس رونا اور نوحہ کرنا تو اہل میت کا ہے میت کو عذاب میں کیوں مبتلا کیا جائے گا۔ آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کلام کی تائید کی ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے مذہب کی نفی کی ہے رونا اور ہنسنا غم اور خوشی یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ تو اس بات کو عذاب میں کیا دخل حاصل ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس بات پر اعتراض وارد ہوتا ہے یوں تو سارے افعال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بندہ اس کو کرتا ہے اور اس کو ثواب و عذاب دیا جاتا ہے۔ ہنسنا و حال سے خالی نہیں ہے یا تو مسلمان بھائی کو دیکھ کر ہنستا ہے تو وہ ثواب پاتا ہے اور اگر بطور تمسخر کے ہنستا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے اسی طرح غم اور خوشی ہیں کبھی اچھے ہوتے ہیں تو ثواب دیا جاتا ہے اگر برے ہوتے ہیں تو ان کو عذاب دیا جاتا ہے اس بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول اس طرح ہوگا کہ جب ہنسنا اور رونا بے اختیاری ہو اور جب اختیاری ہوگا تو ثواب و عذاب پائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول سن کر خاموش رہنا قبو لیت پر دلالت نہیں کرتا کہ انہوں نے بات مان لی ہے۔ بلکہ جھگڑے کو ختم کر دیا ہے جیسے کہ معرفت والوں کی شان کے لائق ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر بلند آواز سے رونے کو سختی سے منع کیا ہے

۲۲/۲۳۷ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعَفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرِفُ فِيهِ الْحُزْنَ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَانِرِ الْبَابِ تَعْنِي شِقَ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعَفَرٍ وَذَكَرَ بَغَاءَ هُنَّ قَامَرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ فَذَهَبٍ ثُمَّ أَتَاهُ الْغَائِيَةُ لَمْ يَطْعَنَهُ فَقَالَ انْهَيْتِ فَأَتَاهُ الْغَائِيَةُ قَالِ وَاللَّهِ عَلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ فَاحْتُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ أَرَعَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِنْعَاءِ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۶۶/۳ حدیث رقم ۱۲۹۹۔ و مسلم فی صحیحہ ۶۴۴/۲ حدیث رقم (۳۰۔ ۹۳۵)۔

والنسائی فی السنن ۱۴/۴ حدیث رقم ۱۸۴۷۔ واحمد فی المسند ۵۹/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کے پاس زید ابن حارثہ اور جعفر اور ابن رواحہ کی غزوہ موتہ میں شہادت کی خبر آئی تو آپ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضور ﷺ کے چہرہ مبارک پر غم تھا۔ میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی۔ پس حضور ﷺ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت جعفر کی عورتیں ایسے ایسے کر رہی ہیں ہیں اور ان کے رونے کا ذکر کیا۔ پس حضور ﷺ نے حکم فرمایا کہ ان کو منع کرو۔ وہ شخص پھر گیا اور پھر دوبارہ حضور ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ عورتوں نے کہنا نہیں مانا پھر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو منع کرو۔ پھر حضور ﷺ کے پاس تیسری مرتبہ آیا۔ یعنی گیا اور منع کیا اور انہوں نے نہ مانا۔ پھر تیسری بار آ کر کہا کہ اللہ کی قسم عورتوں نے ہم پر غلبہ پالیا ہے۔ پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گمان کیا کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ان کے منہ میں مٹی ڈالو۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا خاک آلود ہو تیری ناک۔ تو کیوں نہیں حکم مانتا جو آپ ﷺ حکم کرتے ہیں اور تو نے نبی کریم ﷺ کو رنج پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کو بخاری اور مسلم روایت کیا ہے۔

تشریح: آپ ﷺ نے عورتوں کو میت پر بلند آواز کے ساتھ رونے کو سختی سے منع فرمایا۔ آپ ﷺ کے منع کرنے پر بھی جب وہ عورتیں منع نہ ہوئیں تو آپ ﷺ نے فرمایا ان کے منہ میں مٹی ڈالو۔ اس بات سے مراد یہ ہے کہ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ ان کو نصیحت کوئی نفع نہیں دے گی اور لفظ ارغم اللہ سے آخر تک کا حاصل یہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خدا تجھ کو ذلیل و رسوا کرے کہ تو نے آپ ﷺ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ حضور ﷺ کو رنج ہو رہا ہے کہ باوجود منع کرنے کے باز نہیں آ رہی ہیں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہیں اور تو نے ان کو کیوں نہیں ڈانٹ ڈپٹ کر منع کیا کہ بار بار تیرے آنے کی وجہ سے حضور ﷺ کو تکلیف نہ ہوتی۔

نوحہ کرنا شیطانی عمل ہے

۲۳/۲۳۸ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَأَلْتُ لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ غَرِيبٌ وَفِي أَرْضٍ غَرِيبَةٍ لَا بَنِيَّهَ بَكَاءَ يَتَعَدَّلُ عَنْهُ لَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ إِذَا أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْنَنَا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ وَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَهْلِكْ۔

(رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۶۳۵/۲ حدیث رقم (۱۰-۹۲۲)۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ جب ابو سلمہ کی وفات ہوئی (جو ام سلمہ کے خاندان اول تھے)۔ میں نے کہا کہ ابو سلمہ مسافر اور مسافرت کی زمین میں تھے البتہ میں ان پر رونا روؤں گی ایسا رونا کہ میرا رونا (بطور مثال کے) نقل کیا جائے گا۔ پس میں نے ان پر رونے کی تیاری کی اچانک ایک عورت آئی جو میرے ساتھ رونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ (یعنی میرے رونے میں شریک ہونا چاہتی تھی) پس اس کے سامنے نبی کریم ﷺ تشریف لائے۔ پس آپ ﷺ نے فرمایا کہ تو شیطان کو اس گھر میں داخل کرنا چاہتی ہے کہ جس کو اللہ نے اس گھر سے دور تہ نکالا ہے تو میں رونے سے باز آگئی اور نوحہ کر کے نہ روئی۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں نوحہ کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ اس عورت نے نوحہ کرنے کی تیاری کی یعنی دف کا قصد کیا اور اسباب مہیا کئے سیاہ کپڑے پہنے اور شاید کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ نوحہ کرنا حرام عمل ہے اور دوبار سے مراد یہ ہے ایک بار تو جب مسلمان ہوئے اور دوسری بار جب کہ دنیا سے نکلے یا دوبار سے مراد یہ ہے کہ ایک بار جب مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور دوسری بار جب کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔

خوبیاں بیان کرنے سے ممانعت

۲۳/۱۲۳۹ وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَطْعِمَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةَ تَبْكِي وَاجْتَلَاهُ وَاجْتَلَاهُ وَاجْتَلَاهُ لَقَالَ حِينَئِذٍ مَا قُلْتَ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي أَنْتَ كَذَلِكَ زَادَ لِي رِوَايَةً فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكْ عَلَيْهِ۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۱۶۷/۷ حدیث رقم ۴۲۶۷۔

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن رواحہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کی بہن عمرہ نے رونا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کیا افسوس! اے ایسے اور ایسے اور کتنی شروع کر دی یعنی ان کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔ جب عبد اللہؓ کو ہوش آئی تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ تو نے میرے لئے کہا وہ مجھے بطور تنبیہ کہا گیا ہے کہ کیا تو ایسا ہی ہے (یعنی اگر تو نے واجتلاہ کہا ہے تو مجھے کہا گیا کہ کیا تو پہاڑ ہے کہ تیرے ساتھ پناہ پکڑتے ہیں) اور اور ایک روایت میں زیادہ کیا گیا ہے پس جب عبد اللہ بن رواحہ فوت ہوئے تو بہن نہیں روئی۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن رواحہ جب ایک دفعہ بیمار ہوئے اور ان پر بے ہوشی کا غلبہ ہوا اور قریب المرگ ہو گئے تو ان کی بہن نے ان کے لئے واجتلاہ وغیرہ کے الفاظ کہنے شروع کئے جب انہیں افاقہ ہوا تو اپنی بہن سے کہنے لگے کہ تو نے واجتلاہ کے الفاظ کیوں کہے کہ مجھ سے سرزنش کی گئی کہ تو واقع میں پہاڑ ہے لوگ تیری طرف پناہ پکڑتے ہیں یہ ان کو بطور تحکم اور وعید کے کہا گیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ میت یا قریب المرگ شخص کی خوبیاں بیان نہیں کرنی چاہئیں۔

میت پر اس کی خوبیاں بیان کر کے زونا سخت منع ہے

۲۵/۱۲۴۰ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بِأَكْبَهُمْ فَيَقُولُ وَاجْتَلَاهُ وَاسْتِغَاةُ وَنَحْوَ ذَلِكَ إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكَ يُلْهِيهِمْ وَيَقُولَانِ أَهْلَكَا كُنْتَ۔

(رواه الترمذی قال هذا حدیث غریب حسن)

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۲۶۱/۳ حدیث رقم ۱۰۰۳۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ جب کوئی میت دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ تو ان میں سے اس پر کھڑا ہو کر رونے والا کہتا ہے کہ اے پہاڑ کی طرح اور اے سردار! اللہ تعالیٰ اس

کے کہنے کی وجہ سے میت پر دو فرشتے متعین کر دیتا ہے وہ فرشتے اس کے سینے پر کے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تو ایسا ہی تھا۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث غریب حسن ہے۔

تشریح ﴿اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِمِغَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ﴾ میں علماء نے جو اختلاف کیا ہے اس کی تشریح میں اس اختلاف کو بیان کیا گیا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ میت کو رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے اس میں کئی مذاہب ہیں:

۱۔ ایک مذہب تو یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے مطلق ہے مقید نہیں ہے یعنی اس میں وصیت یا کافر وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے اور بہر کیف پکار کر رونے اور نوحہ کرنے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ مذہب عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ہے۔

۲۔ روئے سے مطلقاً عذاب نہیں ہوتا۔

۳۔ عذاب کا تعلق مردے کی حالت ہوتا ہے۔ یعنی رونے کی وجہ سے اس پر عذاب نہیں ہوتا۔ گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

۴۔ یہ کافر کے حق میں ہے اور یہ دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول ہیں۔

۵۔ یہ وعید اس شخص کے حق میں ہے جس کے یہاں نوحہ کا رسم و رواج ہو اور یہی امام بخاری کا مذہب ہے۔

۶۔ یہ اس شخص کے حق میں ہے جو وصیت کر کے جائے کہ میرے بعد نوحہ کرنا روتا۔ اس کو بھی عذاب ہوگا۔ کیونکہ یہ اس کا فعل ہے۔

۷۔ یہ اس شخص کے حق میں ہے جو مرتے وقت وصیت نہ کرے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ میرے بعد نوحہ کریں گے پھر بھی ان کو نوحہ سے منع نہ کرے۔

۸۔ میت کو ان کی باتوں کے بیان کر کے رونے کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کہتے تھے اے عورتوں کو بیوہ کرنے والے اور اے اولاد کو یتیم کرنے والے! اے گھروں کو خراب کرنے والے!

۹۔ عذاب ہونے کا معنی ملائکہ کا غصہ کرنا ہے جب اس کے گھر والے بین کر کے بیان کرتے ہیں جو اوپر مذکور ہوا ہے۔

۱۰۔ نوحہ کرنے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اتنی اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان کے برارونے کی وجہ سے میت رنج و غم میں مبتلا ہو جاتی ہے ان کی گناہوں کی باتیں سننے کی وجہ سے اس کو رنج ہوتا ہے اور اچھے اعمال سننے کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے۔

۱۱۔

الحاصل یہ ہے اگر میت اس گناہ کا سبب ہے یعنی اس نے نوحہ کرنے کی وصیت کی ہے یا وہ اس پر راضی ہوگا۔ تو عذاب حقیقت پر محمول ہوگا۔ ورنہ وہ نزع کے وقت یا مرنے کے بعد رنج و غم میں مبتلا ہوگا اور اس میں کافر اور مؤمن برابر ہیں اور اس بات سے آیت ﴿وَلَا تَذَرُوا زُجْرًا وَلَا نِجْرًا ۚ وَذُرُوا الْآخِرَىٰ﴾ [الانعام: ۱۶۶] سے احادیث مطلقہ سے تطبیق حاصل ہو جاتی ہے جو اس باب میں مذکور ہوئی ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عورتوں کے بین کرنے کو منع کرنا

۲۶/۲۴۱ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَاتَ مَيِّتٌ مِنْ آلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ

عَلَيْهِ لَقَامَ عَمْرٍأُ يَنْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُنَّ يَا عَمْرُؤُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ مُصَابٌ وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ۔ (رواه احمد والنسائی)

اخرجه النسائی فی السنن ۱۹/۴ حدیث رقم ۱۸۵۹۔ وابن ماجہ ۵۰۵/۱ حدیث رقم ۱۵۸۷ واحمد فی المسند ۴۴۴/۲۔ (۱) راجع الحدیث رقم (۱۷۲۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی اولاد میں کوئی (یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہا) فوت ہو گئیں (جیسا کہ مابعد والی روایت میں ان کا نام صراحاً مذکور ہے) پس اس پر عورتیں جمع ہو کر رونے لگیں۔ حضرت عمرؓ کھڑے ہوئے اور ان کو (یعنی اجنبیوں کو) منع کرتے اور مارتے۔ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے عمر! ان کو چھوڑ دو اس لیے کہ آنکھیں روتی ہیں اور دل مصیبت زدہ ہے اور مرنے کا وقت نزدیک ہے۔ اس کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

تبصریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورتیں کچھ آواز سے روتی ہوں گی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو منع فرمایا۔ کہ ایسے نہیں کرو۔ یہ نہ ہو کہ نوحہ جو شرعاً ممنوع ہے وہ کرنے لگ جائیں پس حضورؐ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا اور ان کا عذریان کیا اور فرمایا کہ غلبہ حزن کے وقت رونے میں ممانعت نہیں ہے اور خالی رونا بالاجماع مکروہ نہیں ہے۔ کیونکہ رونے کا صدور آپ ﷺ سے بھی ہوا ہے اپنے بیٹے ابراہیم کی موت پر حدیث پاک میں جو رونے کی ممانعت آتی ہے وہ براہِ وارونہ پر ہے۔

نرمی کے ساتھ برائی سے منع کرو

۲۷/۱۴۳۲ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا تَنَزَّيْتُ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَّتِ النِّسَاءُ فَجَعَلَ عَمْرٌو يَضْرِبُهُنَّ بِسَوْطِهِ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبَيَّهَ وَقَالَ مَهْلًا يَا عَمْرُؤُ ثُمَّ قَالَ إِيَّاكُنَّ وَيَعْنِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا كَانَا مِنَ الْعَيْنِ وَمِنَ الْقَلْبِ لَمِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ الرَّحْمَةِ وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَمِنَ اللِّسَانِ لَمِنَ الشَّيْطَانِ۔ (رواه احمد)

اخرجه احمد فی المسند ۳۳۵/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی بیٹی زینبؓ کی وفات ہوئی تو عورتیں رونے لگیں۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے کوڑے کے ساتھ مارنا شروع کیا۔ پس نبی کریم ﷺ نے ان کو ہاتھ سے پیچھے کیا اور فرمایا: اے عمر! نرمی اختیار کرو۔ پھر عورتوں کو ارشاد فرمایا اپنے آپ کو شیطان کی آواز سے دور رکھو۔ یعنی چلا کر اور بین کر کے نہ روئیں۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو آنکھ اور زبان سے ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے (یعنی آنسو اور غم) اور جو ہاتھ اور زبان سے ہو۔ وہ شیطان کی طرف سے ہے اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

تبصریح: اس حدیث کا خلاصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا چہرہ کو پینٹنا کپڑے پھاڑنا اور بال نوچنا اور زبان سے چلا نا نوحہ کرنا باتیں کرنا رت کو سخت ناپسند ہے۔ پس وہ شیطان کی طرف سے ہیں اور شیطان ان کو پسند کرتا ہے۔

حسن بن علیؑ کی بیوی کا اظہارِ افسوس کے لیے خیمہ کھڑا کرنا

۲۸/۱۶۳۳ وَعَنِ الْبَخَارِيِّ تَعْلِيْقًا قَالَ لَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ صَرَّيَتْ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً ثُمَّ رَفَعَتْ فَسَمِعَتْ صَالِحًا يَقُولُ الْآهْلُ وَجَدُوا مَا لَقَدُوا فَاجَابَهُ آخَرُ بَلْ يَسُؤُوا فَانْقَلَبُوا۔

اخرجه احمد في المسند ۳۳۵/۱۔

ترجمہ: یہ روایت امام بخاریؒ سے بطریق تعلیق (یعنی بغیر سند کے منقول ہے) کہ جب حسن بن علیؑ کے بیٹے کی وفات ہوئی جن کا نام بھی حسن ہی تھا۔ ان کی بیوی نے ان کی قبر پر ایک برس تک خیمہ کھڑا کیا پھر اس کے بعد اٹھایا تو اس نے غیب سے آواز سنی۔ کہ کیا انہوں نے گمشدہ چیز کو پایا ہے؟ دوسرے ہاتھ غیبی نے جواب دیا بلکہ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔

• تشریح: اس حدیث پاک میں حسنؑ کی بیوی کے اظہارِ غم کا ایک انداز بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنے شوہر کی وفات پر خیمہ کھڑا کیا اور خود بھی وہیں ٹھہریں اور دردمندی اور غم فراق تازہ کرتی رہیں اور ظاہر ہے کہ انہوں نے خیمہ اس لیے کھڑا کیا ہو گا کہ حسنؑ کے دوست احباب قراءت قرآن و ذکر کے لئے جمع ہوں اور دعائے مغفرت و رحمت کریں۔

بُری رسموں کے اپنانے پر وعید

۲۹/۱۶۳۴ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِي بَرْزَةَ قَالََا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى قَوْمًا قَدْ طَرَحُوا أَرْدِيَّتَهُمْ يَمْشُونَ فِي قُمَصٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْغُلِ الْجَاهِلِيَّةُ تَأْخُذُونَ أَوْ بَصِيغِ الْجَاهِلِيَّةِ تَشْبَهُونَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعُو عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُونِ فِي غَيْرِ صُورِكُمْ قَالَ فَآخُذُوا أَرْدِيَّتَهُمْ وَلَكُمْ يَوْمَ الدِّينِ (رواه ابن ماجه)

اخرجه ابن ماجه في السنن ۴۷۶/۱ حديث رقم ۱۴۸۵۔

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین اور ابو بزرہ سے روایت ہے کہ دونوں نے کہا۔ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک جنازے کے لیے نکلے ہم نے کئی آدمیوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی چادریں پھینک دی تھیں اور اپنے کرتوں میں چل رہے تھے۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جاہلیت کے فعل پر عمل کرتے ہو یا جاہلیت کے کام کے ساتھ مشابہت رکھتے ہو؟ میں نے ارادہ کیا کہ تم پر بددعا کروں تاکہ تم اپنے گھروں کو اپنی صورتوں کے علاوہ یعنی بندر اور سور وغیرہ بن کر جاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی چادریں لے لیں اور دوبارہ ایسا کام نہیں کیا۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ رسم تھی کہ چادر کو اوڑھا کرتے تھے اور جاہلیت کی رسم یہ تھی کہ جب جنازے پر جاتے تو چادر نہیں اوڑھتے تھے۔ کہ یہ پریشانی کی طرف اشارہ تھا۔ علامہ طبری نے کہا ہے کہ جب اتنے سے تغیر پر شدید وعید نازل ہوتی ہے تو بُری رسموں کے اپنانے پر کیا حال ہوگا۔

نوحہ کرنے والی کا جنازے کے ساتھ جانا منع ہے

۳۰/۱۶۳۵ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُتَبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَا رَأَتْهُ۔

(رواہ احمد وابن ماجہ)

اخرجه ابن ماجه في السنن ۵۰۴/۱ حديث رقم ۱۵۸۳۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا ہے جس کے ساتھ نوحہ کرنے والی ہو۔ اس کو امام احمد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جنازے کے ساتھ چلنا سنت ہے لیکن برے فعل کو ترک کرے اور اسی طرح اگر کوئی اور چیز بری ہو تو اس کو بھی چھوڑنا ضروری ہے اور یہ حدیث اصلاً مضبوط ہے اور اس سے ایک یہ بات بھی نکلتی ہے جس مجلس یا دعوت میں خلاف شرع بات ہو۔ تو اس دعوت کو قبول نہ کرے اگرچہ دعوت کو قبول کرنا سنت ہے لیکن برے فعل کی وجہ سے اس کو ترک کرنا اولیٰ ہے۔

چھوٹے بچوں کا فوت ہو جانا والدین کے لیے دخول جنت کا باعث ہے

۳۱/۱۶۳۶ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ مَاتَ ابْنِي فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ هَلْ سَمِعْتُ مِنْ خَلِيلِكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا يَطِيبُ بِنَفْسِنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَغَارُهُمْ دَعَا مِصْصُ الْجَنَّةِ يُلْقِي أَحَدَهُمْ أَبَاهُ فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ نَوْبِهِ فَلَا يَقَارِفُهُ حَتَّى يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ۔

(رواہ مسلم واحمد واللفظ له)

اخرجه مسلم في صحيحه ۲۰۲۹/۴ حديث رقم (۱۵۴-۲۶۳۵) واحمد في المسند ۴۸۸/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میرا چھوٹا بیٹا مر گیا پس میں نے اس پر غم کیا ہے کیا تم نے اپنے دوست (یعنی آپ ﷺ) سے اللہ کی رحمتیں اور اللہ کا سلام ان پر ہو کوئی ایسی چیز سنی ہے کہ جو ہمارے دلوں کو ہمارے مردوں کی طرف سے خوش کر دے یعنی جو ہماری اولاد سے چھوٹے بچے مر گئے کہ آیا وہ کچھ کام آئیں گے یا نہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے پیغمبر ﷺ سے سنا ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے لڑکے دریا کے جانور کی طرح ہونگے۔ بہشت میں وہ اپنے باپ سے ملیں گے اور اس کے کپڑے کا کونا پکڑیں گے اور اس سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ وہ اس کو بہشت میں داخل کر دیں گے۔ اس کو مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ انہی کے ہیں۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ چھوٹا بچہ جو فوت ہو گیا ہو گا وہ اپنے والد کو قیامت کے دن بہشت میں لے جائے گا اور حدیث میں جو لفظ دعا میں آیا ہے اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ یہ دعویٰ کی جمع ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے جو پانی میں غوطہ مارتا رہتا ہے اور پھر نکل آتا ہے اور دعویٰ اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو بادشاہ اور امرا کے کاموں مشغول ہوتا ہے۔ اس طرح یہ لڑکے جنت میں سیر کرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ ان کو کسی جگہ جانے سے کوئی منع نہیں کرتا جیسے دنیا کے بچے کو کسی گھر میں جانے سے نہیں روکا جاتا اور نہ ان سے پردہ کیا جاتا ہے اور اس میں باپ کا ہی ذکر کیا ماں کا نہیں

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ماں کو بھی اسی طرح جنت میں لے جایگا۔ چنانچہ بعض احادیث میں ماں اور باپ دونوں مذکور ہوئے ہیں۔

دو یا تین بچوں کی وفات پر جنت کا وعدہ

۳۲/۱۴۷۷ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تَعْلَمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ فَقَالَ اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانٍ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمِعْنَ فَاتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ امْرَأَةٌ تَقْدِمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوِ الثَّيْنِ فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَالثَّيْنِ وَالثَّيْنِ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۹۵۱/۱ - حدیث رقم ۱۰۱ - و مسلم فی صحیحہ ۲۰۲۸/۴ حدیث رقم (۱۵۲ - ۲۶۳۳) - و احمد فی المسند ۷۲/۳ -

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم کے پاس آئی کہنے لگی اے اللہ کے نبی ﷺ! مرد حضرات آپ ﷺ کی حدیثوں سے فیض یاب ہوتے ہیں تو ایک دن ہمارے لیے بھی مقرر کر دیجئے ہم آپ ﷺ کے پاس اس دن حاضر ہو جائیں۔ تاکہ آپ ﷺ ہم کو وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ ﷺ کو سکھایا ہے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم فلاں دن میں فلاں جگہ جمع ہو جاؤ یعنی مسجد میں یا گھر میں اور فلاں جگہ میں یا مکان کے آگے کی جانب حضور ﷺ نے فرمایا پھر عورتیں جمع ہوئیں۔ پس آپ ﷺ نے ان کو سکھایا جو اللہ پاک نے آپ کو سکھایا۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا جب کسی عورت کی اولاد میں سے تین لڑکے یا لڑکیاں فوت ہو جائیں تو اس کے لیے آگ سے پردہ ہوگا۔ پس ایک عورت نے ان میں سے کہا۔ اے اللہ کے رسول! اگر دو بچے ہوں تو.....! یہ بات دوبار کہی۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا دو بچے ہوں یا دو یا دو۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ عورتوں کو بھی علم دین سے حصہ دیا کرتے تھے اور ان کو علم دین سکھانے کے لیے وقت نکالتے تھے اور ان کو جمع کر کے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ کہ فلاں جگہ جمع ہو جاؤ۔ مسجد میں یا کسی گھر میں یا مکان کے آگے کی جانب یا آخر کی جانب۔ تو پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس کے دو یا تین بچے فوت ہو جائیں تو وہ بچے اس کے لیے آگ سے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ! جس کے دو بچے فوت ہو جائیں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔

نا تمام بچے کی پیدائش کی وجہ سے بھی ماں باپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا

۳۳/۱۴۳۸ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَتَوَلَّى لُحْمَا ثَلَاثَةً إِلَّا أَذْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوِ الثَّانِ قَالَ أَوِ الثَّانِ قَالُوا أَوْ وَاحِدٍ قَالَ أَوْ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ السِّفْطُ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرِّهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ -

(رواه احمد وروی ابن ماجہ من قوله والذي نفسي بيده)

اخرجه ابن ماجه ۵۱۲/۱ حديث رقم ۱۶۰۵ - واحمد في المسند ۲۴۱/۵ -

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمانوں یعنی ماں اور باپ کے تین فرزند یعنی تین بیٹے فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنی رحمت کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا۔ پس صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیے۔ یادو آپ ﷺ نے فرمایا ہاں دو اور عرض کیا یا ایک آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک بھی پھر آپ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تحقیق کچا حل یعنی ناقص بچہ گرتا ہے۔ البتہ وہ اپنی ماں کو بہشت کی طرف انول نال کے ذریعے کھینچے گا۔ جب کہ وہ اس کی ماں اس کے مرنے کو اپنے حق میں ثواب سمجھے۔ اس کو امام احمد نے نقل کیا ہے اور ابن ماجہ نے جو روایت کیا ہے وہ: قوله والذی نفس بیدہ ہے۔

تشریح: اس حدیث مبارک میں یہ بتایا گیا کہ ناقص بچہ بھی اپنے والدین کو بہشت میں لے جائے گا۔ جب ایسا بچہ جس کے ساتھ ماں کے دل کا تعلق نہیں ہے یعنی وہ اپنی ناقصیت کی وجہ سے محبت قلبی سے خالی ہوتا ہے جب اس بچے کا اتنا ثواب ہے۔ تو کامل بچے کے فوت ہونے پر کتنا ثواب ملے گا۔

حدیث میں جو انول نال کا لفظ آیا ہے۔ اس سے مراد وہ نال ہے جو پیدائش کے وقت بچے کی ناف کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ پیدائش کے بعد دالی اس کو کاٹ دیتی ہے۔

قیامت کے دن انول نال رتی بن جائے گی اور بچہ اس رسی کے ذریعے سے ماں کو کھینچ کر بہشت میں لے جائے گا۔

چھوٹے فوت شدہ بچے اپنے والدین کے لیے آگ سے نجات کا ذریعہ ہونگے

۳۴/۱۶۳۹ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَلَّحَ فَلَاةً مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَلْفُوا الْحِجْنَ كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ فَلَّحْتُ النِّسْنِ قَالَ وَالنِّسْنِ قَالَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ أَبُو الْمُنْذِرِ سَيِّدُ الْقُرَاءِ فَلَّحْتُ وَاحِدًا قَالَ وَوَاحِدًا - (رواه الترمذی وابن ماجه وقال الترمذی هذا حديث غریب)

اخرجه الترمذی في السنن ۳۷۰/۳ حديث رقم ۱۰۶۱ - وابن ماجه ۵۱۲/۱ حديث رقم ۱۶۰۶ -

واحمد في المسند ۳۷۰/۱ -

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے عین بچے اپنی اولاد میں سے آگے بھیجے ہوں (یعنی وہ حد بلوغ کو نہ پہنچے ہوں اور اس کے مرنے سے پہلے مر گئے ہوں) اس کے لیے دوزخ کی آگ سے مضبوط پتھار ہو گئے۔ پس ابو ذرؓ نے فرمایا میں نے دو آگے بھیجے ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا دو کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ ابی بن کعبؓ جن کی کنیت ابوالمزہر ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بھیجا ہے یہ قاریوں کے سردار ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک کے لیے بھی یہی حکم ہے (یعنی ایک بھی آگ سے بچا ہوگا)۔ اس کو امام ترمذی ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث کا مضمون پہلے بھی روایات میں گزر چکا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے فوت شدہ بچے ماں باپ کے لیے سفارشی بنتے ہیں۔ ایک بچے سے لے کر تین بچوں تک حدیث میں صراحت آتی ہے جن کے فوت ہو جائیں تو وہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے آگ سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب کہ ناقص بچہ اپنی ماں کو کھینچ کر بہشت میں لے جائے گا۔ تو کامل بچہ

جب فوت ہو جائے گا تو وہ بدرجہ اولیٰ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا اور ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا اور آخری وقت تک اپنے ماں باپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا جب تک جنت میں داخل نہ کر دے گا۔

۳۵/۲۵۰ وَعَنْ قُرَّةَ الْمُزَنِيَّ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَعْبُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَبَّكَ اللَّهُ كَمَا أَحْبَبَهُ اللَّهُ فَقَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ ابْنُ فُلَانٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَعْبُهُ أَنْ لَا تَأْتِيَ أَبَاكَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَهُ خَاصَّةٌ أَمْ لِكُلِّنَا قَالَ بَلَى لِكُلِّكُمْ۔ (رواه احمد)

اخرجه احمد في المسند ۳۵۱۵۔

ترجمہ: ”اور حضرت قرہ مزنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا جو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے اس سے فرمایا کہ ”کیا تم اسے عزیز رکھتے ہو؟“ اس نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپ سے ایسی محبت کرے جیسا کہ میں اپنے اس بچے سے کرتا ہوں۔“ کچھ عرصہ کے بعد نبی کریم ﷺ نے اس بچہ کو نہیں پایا تو پوچھا کہ ”فلاں شخص کے بیٹے کو کیا ہوا؟“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! اس کا لڑکا مر گیا۔“ اس کے بعد جب وہ شخص حاضر ہوا تو اس سے آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کل قیامت کے روز تم جنت کے جس دروازے پر بھی جاؤ وہاں اپنے بچے کو اپنا منتظر پاؤ ایک شخص نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! یہ بشارت بطور خاص اسی شخص کے لئے ہے یا سب کے لئے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا سب کے لئے۔“ (احمد)

۳۶/۲۵۱ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ السَّقَطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ إِذَا ادْخَلَ أَبُوهُ النَّارَ فَيَقَالُ أَيُّهَا السَّقَطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ ادْخُلْ أَبُوكَ الْجَنَّةَ فَيَجْرُ هُمَا بِسَرِّهِ حَتَّى يَدْخُلَهُمَا الْجَنَّةُ۔

(رواه ابن ماجه)

اخرجه ابن ماجه في السنن ۵۰۹۱ حدیث رقم ۱۵۹۷۔

ترجمہ: ”اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جب اللہ تعالیٰ ”سقط کے والدین کو دوزخ میں داخل کرے گا تو وہ اپنے پروردگار سے جھگڑے گا چنانچہ اس سے کہا جائے گا کہ ”پروردگار سے جھگڑنے والے اے ناتمام بچے اپنے والدین کو جنت میں لے جاؤ۔“ لہذا وہ ناتمام بچہ اپنے والدین کو اپنی آنول نال کے ذریعہ کھینچے گا یہاں تک کہ انہیں جنت میں لے جا کر ہی چھوڑے گا۔“ (ابن ماجہ)

صدے کے ابتداء میں صبر کرنا دخول جنت کا باعث ہے

۳۷/۲۵۲ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّلَاةِ الْأُولَى لَمْ أَزِمْ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ۔ (رواه ابن ماجه)

اخرجه ابن ماجه في السنن ۵۱۳۱ حدیث رقم ۱۶۰۸۔

ترجمہ: حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے! اگر تو مصیبت پر صبر کر لے اور پہلے صدمہ کے وقت ثواب طلب کرے تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ کسی ثواب پر راضی نہیں ہوتا۔ (یعنی میں اس کے بدلے بہشت میں داخل کروں گا)۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مصیبت کے وقت صبر کرنے پر جنت کی خوشخبری سنارہے ہیں۔ جو ابتداء صدمے کے وقت صبر کرتا ہے۔ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور اس سے راضی ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی معیت اس بندے کے ساتھ ہوگی۔

مصیبت کا وقت یاد آنے پر کلمہ استرجاع پر ملنے والا ثواب

۳۸/۱۶۵۳ وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرَهَا وَإِنْ طَالَ عَهْدُهَا فَيُحَدِّثَ لِدَالِكَ اسْتِرْجَاعًا إِلَّا جَدَّدَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ لِقَا عَطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا۔ (رواه احمد والبيهقي في شعب الايمان)

اخرجه احمد في المسند ۲۰۱/۱

ترجمہ: حسین بن علیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ کوئی مسلمان مرد اور کوئی مسلمان عورت ایسی نہیں کہ اس کو مصیبت پہنچے اگرچہ مصیبت کا وقت طویل ہو چکا ہو پھر وہ مصیبت کو یاد کرے ان اللہ وانا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی ثواب عطا کر دیتا ہے جتنا ثواب مصیبت کے وقت دیا گیا تھا۔ اس کو امام احمد اور بیہقی نے شعب ایمان میں روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس تکلیف پر وہ صبر کرتا ہے تو جب بھی اس کو وہ مصیبت کا وقت یاد آجائے اور وہ ان اللہ..... پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں جو اس کو مصیبت کے وقت دیا گیا تھا۔

ادنی مصیبت و پریشانی کے وقت بھی کلمہ استرجاع کی تلقین

۳۹/۱۶۵۴ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْقَطَعَ شَيْءٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَسْتَرْجِعْ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَصَابِ۔

رواهما البيهقي في شعب الايمان

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کسی ایک کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کو چاہیے کہ ان اللہ وانا الیہ راجعون پڑھے۔ اس لیے کہ یہ بھی مصیبتوں میں سے ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ ادنی مصیبت پر بھی ان اللہ وانا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ الحاصل اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو ان اللہ وانا الیہ راجعون پڑھے اور آپ ﷺ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ﷺ چراغ کے بجھ

جانے پر بھی کلمہ استرجاع پڑھا کرتے تھے۔

امت محمدیہ کی فضیلت

۴۰/۱۲۵۵ وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ يَا عِيسَى ابْنِي بَارِعُثْ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةٌ إِذَا أَصَابَهُمْ مَا يُجِبُونَ حَمْدُوا اللَّهَ وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ فَقَالَ يَارَبِّ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ قَالَ أُعْطِيَهُمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي۔ (رواهما البيهقي في شعب الایمان)

اخرجه البيهقي في شعب الایمان ۱۹۰/۱۹ حديث رقم ۹۹۵۳۔

ترجمہ: ام درداء سے روایت ہے کہ میں نے ابو درداءؓ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ میں نے ابو القاسمؓ سے سنا ہے فرماتے تھے تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا۔ میں تیرے پیچھے ایک امت کو پیدا کروں گا۔ جس وقت ان کو کوئی نعمت پہنچے گی وہ خدا کا شکر ادا کریں گے اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچے گی یعنی کوئی مصیبت پہنچے گی تو وہ ثواب کی امید رکھیں گے اور صبر کریں گے اور اس حال میں کہ نہ بردباری ہوگی نہ عقل ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے رب! کیسے ہوگا؟ جب کہ ان کے لیے حلم و عقل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں ان کو اپنے حلم میں سے دوں گا اور اپنے علم میں سے دوں گا۔ یہ دونوں شعب الایمان میں روایت کی ہیں۔

تشریح: اس حدیث پاک میں جس امت کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد حضور ﷺ کی امت کے صلحاء ہیں۔ بردباری اور عقل نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت کی وجہ سے بردباری اور عقل جاتی رہے گی۔ اس کے باوجود صبر کریں گے اور ثواب کی امید رکھیں گے۔ یہ دونوں صفتیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے آدمی جزع فزع کرنے سے باز رہتا ہے اور نفع اور ضرر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتا ہے۔ ان کے نہ ہونے کے باوجود صبر کرنا بڑی عجیب بات ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جب ان کے اندر بردباری اور عقل نہیں ہوگی تو صبر کیسے کریں گے؟ اور ثواب کی امید کیسے رکھیں گے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کو ان کے صبر کرنے کی وجہ سے اور ثواب کی امید رکھنے کی وجہ سے اپنے پاس سے علم و حلم دوں گا۔

بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

یہ باب قبروں کی زیارت کرنے کے بیان میں ہے۔ اس کے عنوان کے تحت وہ احادیث مبارکہ لائی جائیں گی جن کے اندر قبروں پر جانے کے فضائل اور ان کے آداب اور مقاصد کو بیان کیا گیا ہے۔

الفصل الاول:

ابتدائے اسلام میں تین چیزوں کی ممانعت کرنے اور پھر رخصت دینے کا بیان

۱/۱۲۵۶ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهَا

وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَصَاغِي فَوْقَ ثَلَاثٍ فَلَا تُسَكَّرُ مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ السَّيِّدِ إِلَّا فِي سَقَاءٍ
فَأَشْرَبُوا فِي الْأَسْفِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۶۷۲/۲ حدیث رقم (۱۰۶-۹۷۷)۔ وخرجه ابوداؤد فی السنن ۹۸/۴ حدیث رقم ۳۶۹۸۔

والنسائی فی السنن ۸۹/۴ حدیث رقم ۲۵۳۲۔ واحمد فی المسند ۱۴۵/۱۔

ترجمہ: حضرت بریدہ سے روایت ہے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ پس ان کی زیارت کرو اور میں نے تم کو منع کیا تھا تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے۔ اب رکھو جب تک تم چاہو۔ میں نے تم کو کھٹک کے علاوہ دیگر برتنوں میں نیبڈ بنانے سے منع کیا تھا اور اب تم تمام برتنوں میں پیو لیکن نشہ آور چیز نہ ہو۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ابتدائے اسلام میں حضور ﷺ نے تین مذکورہ چیزوں سے منع کیا تھا۔ وہ تین مذکورہ چیزیں یہ ہیں: (۱) قبروں کی زیارت کرنے سے (۲) قربانی کے گوشت کو جمع کرنے سے (۳) نیبڈ بنانے سے) لیکن بعد میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کو تینوں چیزوں کی اجازت دے دی ہے۔

۱۔ قبروں کی زیارت کرنے سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ جاہلیت کا زمانہ قریب تھا کہیں لوگ قبروں پر جا کر کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ پس جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ دلوں کے اندر اسلام مضبوط ہو چکا ہے۔ تو آپ ﷺ نے اجازت دے دی۔
تو اب تمام علماء کے نزدیک قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے۔ اس لیے کہ زیارت کرنے سے دل نرم ہوتا ہے موت یاد آ جاتی ہے اور دنیا کے خالی ہونے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور بھی بہت زیادہ فوائد ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے دعا اور استغفار ہوتی ہے اور یہ سنت ہے آپ ﷺ جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تھے اور مردوں پر سلام بھیجتے تھے اور ان کے لئے استغفار کرتے تھے اور علماء نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ آیا عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنی چاہیے یا نہیں۔ درست بات یہ ہے کہ عورتیں آپ ﷺ کے روضہ مبارک کے علاوہ دوسری قبروں کی زیارت نہ کریں۔ چنانچہ یہ مسئلہ باب مواضع الصلوٰۃ میں حدیث کے فائدہ کے ضمن میں مذکور ہو چکا ہے۔ جس میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لعن رسول اللہ ﷺ زائرات القبور..... مفضل روایات فقہیہ کے ساتھ درج ہے جو چاہے وہاں دیکھ لے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زیارت کی کئی قسمیں ہیں:

زیارت کی ایک قسم تو موت اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے ہے اس کے لیے توفیق قبروں کا دیکھنا ہی کافی ہے۔

دوسری قسم زیارت کی یہ ہے کہ دعا وغیرہ کے لیے قبرستان جائے اور یہ مسنون ہے تیسری قسم زیارت کی حصول برکت کے لیے ہے۔ یہ نیک لوگوں کی قبروں کی زیارت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے اس لیے کہ ان کے لیے قبروں میں تصرفات و برکات بے شمار ہوتی ہیں اور جو بھی قسم دوستی اور رشتے داری کا حق ادا کرنے کے لیے قبر کی زیارت کی جاتی ہے جیسا کہ ابو نعیم کی حدیث (جس کو بیہقی نے شعب الایمان میں بطریق ارسال روایت کیا ہے) میں آیا ہے جو کوئی ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے یا جعدہ کے دن قبر پر جاتا ہے۔ تو اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے اور پانچویں قسم زیارت کی یہ ہے کہ زیارت مہربانی اور انسیت کی خاطر ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص اپنے مؤمن بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور سلام کرتا ہے تو وہ اس

زیارت کرنے والے کو پہچانتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔

قبر کی زیارت کرنے کے آداب:

قبر کی طرف منہ کرے اور پیٹھ قبلہ کی طرف کر کے میت کے منہ کے سامنے کھڑا ہو اور سلام کرے اور قبر کو ہاتھ نہ لگائے اور چومے نہیں اور جھکے نہیں اور چہرے پر خاک نہ ملے۔ یہ عیسائیوں کی عادت ہے اور قبر کے پاس قرآن کریم پڑھنا مکروہ نہیں ہے اور مستحب امر یہ ہے کہ زیارت کرتے وقت سورہ اخلاص سات مرتبہ پڑھے اور اس کا ثواب میت کو بخشے اور جمعہ کے دن قبرستان جانا دوسرے دنوں سے افضل ہے۔ چنانچہ حرمین شریفین میں یہی معمول ہے۔ جمعہ کے دن محلّی اور قبیح میں زیارت کے لیے جاتے ہیں اور یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ میت کو بقیہ ایام کی نسبت جمعہ کے دن زیادہ علم و ادراک سے نوازا جاتا ہے اور وہ دوسرے دنوں کی بنسبت جمعہ کے دن زیادہ زیارت کرنے والوں کو پہچانتا ہے اور قبروں کو بغیر ضرورت رو نہ تا مکروہ ہے اور مستحب یہ ہے کہ میت کی طرف سے اللہ کے نام پر سات دن تک کچھ خرچ کیا جائے۔

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں نے ابتدائے اسلام میں تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا۔ کیونکہ لوگ محتاج تھے۔ ہر آدمی قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے آپ ﷺ نے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا اور محتاجوں کو دینے کا حکم فرمایا۔ جب لوگوں پر فراخی ہو گئی اور ان کو ضرورت نہ رہی تو آپ ﷺ نے قربانی کے گوشت کو رکھنے کی اجازت دے دی اور ارشاد فرمایا کہ جتنے دن چاہو رکھو۔

اور میں نے تمہیں مشک کے علاوہ کسی دوسرے برتن میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا نبیذ اس کو کہتے ہیں جو بھجور یا انگور کو پانی میں بھگو کر بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو پیتے ہیں یہ حلال ہے۔ جب تک نشہ کرنے والی نہ ہو۔ حضور ﷺ نے ابتدائے اسلام میں فرمایا تھا کہ نبیذ کو مشک میں رکھا جائے۔ اس لیے کہ مشک پتلی ہوتی ہے اور جلدی گرم ہو کر نشہ نہیں پیدا کرتی۔

آپ ﷺ کا ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگنا

۲/۲۵۷ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبَكَى مِنْ حَوْلِهِ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّيَ فَيَا أَنَا اسْتَغْفِرُ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فَيَا أَنَا أَزُورُ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَوُودُوا الْقُبُورَ فَأَنَافَتْ تَذَكُّرُ الْمَوْتَ۔

اخرجه مسلم فی صحيحہ ۶۷۱/۲ حدیث رقم (۱۰۸-۹۷۶)۔ وابوداؤد فی السنن ۵۵۷/۳ حدیث رقم ۳۲۳۴۔

والنسائی ۹۰/۴ حدیث رقم ۲۰۳۴۔ وابن ماجہ ۵۰۱/۱ حدیث رقم ۱۵۷۲۔ واحمد فی المسند ۴۴۱/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اور خود بھی روئے اور ان لوگوں کو بھی رلایا جو آپ ﷺ کے گرد تھے پھر فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی تھی۔ کہ میں اس کے لئے بخشش کی دعا کروں۔ پس مجھے اجازت نہ دی گئی اور میں نے پرواگی (اجازت) مانگی تھی کہ اس کی قبر کی زیارت کروں تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ پس قبروں کی زیارت کرو کیونکہ قبروں کی زیارت کرنا موت کو یاد دلاتا ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ حضور ﷺ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ تھا۔ حضور ﷺ چھ برس کی عمر کو پہنچے تو وہ حضور ﷺ کو لے کر اپنے نخیال کے لوگوں سے ملاقات کی غرض سے مدینہ گئیں۔ وہاں سے پھر مکہ کو آ رہی تھیں۔ جب ابواء کے مقام پر پہنچی تو وہاں ہی آپ کا انتقال ہوا اور اسی جگہ پر آپ کی قبر بنی۔ جب ایک دفعہ حضور ﷺ ان کی قبر پر پہنچے تو بہت روئے اور لوگوں کو بھی رلایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کی والدہ ماجدہ حالت میں کفر میں فوت ہوئیں تھیں یہ متقدمین کا مذہب ہے اور متاخرین کا مذہب یہ ہے کہ آپ ﷺ کے والدین نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر اس کی تین صورتیں بیان کرتے ہیں: ۱۔ ایک صورت تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر تھے۔ ایام فترت میں تھے کہ ان کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اور زمانہ نبوت سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا حضور ﷺ کی دعا سے پھر وہ ایمان لائے اگرچہ یہ حدیث آپ ﷺ کے والدین کے ایمان لانے کی ضعیف ہے لیکن تعدد طرق کے اعتبار سے تصحیح و تحسین کے لائق ہے۔ گویا کہ بات متقدمین سے چھپی ہوئی تھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متاخرین پر ظاہر کر دی اور علامہ جلال الدین سیوطی نے اس بارے میں رسالے تصنیف کئے ہیں اور اس کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کے شبہات کے جوابات دیے ہیں جو دیکھنا چاہے۔ وہاں سے مطالعہ کرے اور بہتر اس مسئلے کے بارے میں یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے۔

زیارتِ قبور کے وقت آپ ﷺ کا مسلمانوں کو دُعا سکھانا

۳/۱۶۵۸ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَنَا إِنِ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ۔

(رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۶۷۱/۲ حدیث رقم (۱۰۴-۹۵۷)۔ وابن ماجه فی السنن ۴۹۴/۱ حدیث رقم ۱۵۴۷۔

واحمد فی المسند ۳۵۳/۵۔

ترجمہ: حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ مسلمانوں کو سکھاتے تھے کہ جب قبرستان کی طرف نکلیں تو کہیں اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والو تم پر سلام ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم تمہارے ساتھ ملیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت مانگتے ہیں (یعنی مکروہات (ناپسندیدہ) کاموں سے خلاصی مانگتے ہیں)۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں قبروں کی جگہ کو آپ ﷺ نے گھر فرمایا ہے اس لیے کہ ان میں مردے رہتے ہیں اور جس طرح زندہ گھروں میں رہتے ہیں من المؤمنین، اهل الدیار کا بیان ہے اور المؤمنین من المؤمنین تاکید ہے۔

الفصل الثانی:

قبرستان سے گزرتے وقت کی مسنون دُعا

۳/۱۶۵۹ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورٍ بِالْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ

اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ یَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ یَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاٰثَرِ۔

(رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۹۶۹/۳ حدیث رقم ۱۰۵۳۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے قبرستان کے پاس سے گزرے پس آپ ﷺ اپنے چہرے کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے اے قبروں والو! تم پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بخش دے اور تمہیں بھی بخش دے تم ہم سے پہلے پہنچ چکے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آرہے ہیں۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک کا مفہوم اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے سلام کرتے وقت اپنا چہرہ میت کے چہرے کی طرف کرے اور دعا کرنے میں بھی اسی طرح کہے اور ابن حجر کے علاوہ تمام مسلمانوں کا اسی پر عمل ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک سنت یہ ہے کہ دعا کی حالت میں قبلہ کی طرف منہ کرے اور مظہر نے کہا ہے کہ میت کی زیارت اس کی حالت حیات میں زیارت کی طرح ہے۔ اگر زندگی میں اس سے ملا کرتا تھا اور اس کے عظیم القدر ہونے کی وجہ سے دور ہو کر بیٹھا تھا۔ پس اسی طرح اس کی زیارت میں کھڑا رہے یا اس سے دور بیٹھے اور اگر حالت حیات میں اس کے قریب بیٹھا کرتا تھا۔ تو زیارت کے وقت بھی اس کے قریب بیٹھے۔

اور جب زیارت کرے تو سورہ فاتحہ پڑھے اور قل ھو اللہ احد تین مرتبہ پھر اس کے لیے دعا کرے اور قبر کو ہاتھ نہ لگائے اور نہ اس کو بوسہ دے۔ کیونکہ یہ عیسائیوں کی علامت ہے۔ عظیم القدر سے مراد یہ ہے یا تو وہ رشتے میں بڑا ہو والدین کی طرح یا وہ دین میں بڑا ہو استاد کی طرح۔

الفصل الثالث:

آپ ﷺ کا آخر شب میں قبرستان جانا

۵/۱۲۶۰ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ اخِيرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَيْعِ لِقَبُولِ السَّلَامِ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوَعَدُونَ عَذَابًا مُّوجِلُونَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حِقْقُونَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَ اَهْلِ الْبَيْعِ الْفَرَقِدِ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحہ ۶۶۹/۲ حدیث رقم (۱۰۲-۹۷۴)۔ والنسائی فی السنن ۹۳/۴ حدیث رقم ۲۰۳۹۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رات کو ان کی باری ہوتی تو نبی کریم ﷺ آخر شب میں مدینہ کے قبرستان کی طرف نکلتے۔ پھر فرماتے سلام ہو تم پر اے مؤمنین کی قوم اور تمہارے پاس وہ چیز آئی ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا (یعنی ثواب وعذاب کا) قیامت کے دن تک تمہیں ڈھیل دی گئی ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ملے والے ہیں۔ اے اللہ بیعت غرقہ والوں کو بخش دے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے۔ آپ ﷺ ہرات کے آخری حصے میں مدینہ منورہ کے باہر غرقہ کے مقام

پر تشریف لے جاتے۔ اس میں مدینہ والوں کی قبریں تھیں اور غرقہ کی وجہ تسمیہ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ غرقہ ایک درخت کا نام تھا جو وہاں بکثرت پائے جاتے تھے اس لیے اس کو قلع غرقہ کہا گیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا زیارت قبور کے لیے دُعا کا پوچھنا

۶/۲۲۱ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعْنِي فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ قَالَ قُولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأَخِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلْآ حَقُونَ۔

اخر جہ مسلم فی صحیحہ ۶۶۹/۲ حدیث رقم (۱۰۳-۹۷۴)۔ واعر جہ النسائی ۹۳/۴ حدیث رقم ۲۰۳۸۔
ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! میں کس طرح کہوں؟ یعنی میں قبروں کی زیارت کو جاؤں تو کیا کہوں؟ (یعنی میں کیا دعا کروں؟) فرمایا کہو کہ مومنوں کے گھر والوں اور مسلمانوں کے گھر والوں کو سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے کرنے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر رحم کرے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جب کوئی مسلمان اپنے ایسے مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے جو دنیا میں اس کو جانتا تھا پھر وہ اس کو سلام کرے تو وہ فوت ہونے والا اس کو سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور پہچانتا بھی ہے۔

۷/۲۲۲ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ لَهُ بِرًّا۔ (رواه البيهقي في شعب الایمان مرسلًا)

رواہ البیہقی فی شعب الایمان
ترجمہ: حضرت محمد بن نعمان سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی طرف پہنچاتے تھے (یعنی نسبت کرتے تھے) آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص ہر جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اعمال نامے میں اس کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ اس کو نبی نے شعب الایمان میں بطریق ارسال روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی۔ اس کو ایسے شام کیا جائے گا جیسے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے۔ جب فوت ہونے کے بعد فقط قبر کی زیارت کرنے پر اتنا ثواب ہے۔ تو حالت حیات میں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا کس قدر ثواب ہوگا اور ایک روایت کے مطابق تو ماں باپ کی حالت حیات میں زیارت کرنے پر حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔

قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے

۸/۲۲۳ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تَزِيدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ۔ (رواہ ابن ماجہ)

اخر جہ ابن ماجہ ۵۰۱/۱ حدیث رقم ۱۰۷۱۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ پس بے شک قبروں کی زیارت کرنا تمہیں دنیا سے بے رغبت کر دے گا اور آخرت کو یاد دلانے کا۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: قبروں کی زیارت کرنے سے انسان کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کا انجام یہ ہے تو اس میں دل لگانا بے جا ہے اور اس سے انسان آخرت کو یاد کرتا ہے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس جہاں کے علاوہ دوسرا جہان بھی ہے جہاں پر انسان کو جانا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبروں میں جا کر انسان انہیں عبرت کی نگاہ سے دیکھے اور موت کو یاد کرے اور موت کو یاد کرنا لذتوں کو توڑ دیتا ہے۔

قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت

۹/۴۳۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ (رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح وقال قدارای بعض اهل العلم ان هذا كان قبل ان یرخص النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فی زیارة القبور قلما یرخص دخول فی رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم انما كره زیارة القبور للنساء لقله صبرهن وكثرة جزعهن تم كلامه)۔

اخر جہ الترمذی فی السنن ۳۷۱/۳ حدیث رقم ۱۰۵۶۔ والنسائی ۹۴/۴ حدیث رقم ۲۰۴۳۔ وابن ماجہ ۵۰۲/۱ حدیث رقم ۱۰۷۵۔ واحمد فی المسند ۴۴۲/۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والی ہیں۔ اس کو امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا کہ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں یہ لعنت کا کرنا آپ ﷺ کے اجازت دینے سے قبل تھا۔ پس جب آپ ﷺ نے اجازت دے دی تو اس میں مرد اور عورت دونوں داخل ہو گئے اور بعض علماء نے کہا کہ آپ ﷺ نے عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنے کو بے صبری اور بہت زیادہ جزع و فزع کرنے کی وجہ سے ناپسند قرار دیا ہے۔ امام ترمذی کا کلام پورا ہوا۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ کیونکہ یہ بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور بہت زیادہ جزع و فزع کرنے والی ہیں۔

زیارت کرتے وقت میت کا لحاظ کرنا ضروری ہے

۱۰/۲۶۵ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِي الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي وَاجِعُ نَفْسِي وَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَإِنِّي فَلَمَّا دُفِنَ عَمْرُومَهُمْ قَوْلَ اللَّهِ مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَا مُشْدُودَةٌ عَلَى نَيْبِي حَيَاءً

مِنْ عُمَرَ - (رواہ احمد)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳/۳۵۷۔ حدیث رقم ۱۴۹۶۔ ومسلم فی صحیحہ ۵۰/۱ حدیث رقم (۲۹-۱۹)۔
وابوداؤد فی السنن ۲/۲۴۲ حدیث رقم ۱۵۸۴۔ والترمذی فی السنن ۲۱/۳ حدیث رقم ۶۲۵۔ والنسائی حدیث
رقم ۲۵۲۲۔ وابن ماجہ ۵۶۸/۱ حدیث رقم ۱۷۸۳۔ والدارمی فی السنن ۴۶۱/۱ حدیث رقم ۱۶۱۴۔ واحمد فی
المسند ۲۳۳/۱۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں داخل ہوتی تھی کہ جس میں نبی کریم ﷺ اور حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ بھی مدفون تھے۔ اس حالت میں کہ میں اپنا کپڑا (یعنی چادر) اُتار دیتی تھی اور میں اپنے دل میں کہتی تھی کہ کوئی
مضائقہ نہیں ہے کہ اس میں میرے خاوند اور میرے والد حضرت ابو بکر مدفون ہیں۔ یہ دونوں میرے لئے اجنبی نہیں ہیں۔
پس جب عمر رضی اللہ عنہ کو میرے گھر میں ان کے ساتھ دفن کر دیا گیا تو خدا کی قسم پھر میں اس مکان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حیاء
کی وجہ سے کپڑا اوڑھے بغیر داخل نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ (میرے لئے) اجنبی تھے۔ اس کو احمد نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ زیارت کرتے وقت میت کا لحاظ کرنا چاہیے جس طرح اس کی
زندگی میں لحاظ کیا کرتے تھے۔ شرح الصدور میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، فرماتے ہیں مجھے یہ
بات زیادہ پسند ہے کہ میں آگ پر پاؤں رکھوں یا تیز تلوار پر کٹ جاؤں اس چیز سے کہ میں کسی شخص کی قبر پر چلوں اور فرمایا
میرے نزدیک قبروں پر بول و براز کرنا اور لوگوں کے سامنے کرنا برابر ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور ابن ابی دنیا سلیم بن عقبہ
سے روایت کرتے ہیں ان کا گزر ایک مقبرے پر ہوا اس حال میں ان کو زور کا پیشاب آیا ہوا تھا۔ پس لوگوں نے ان کو کہا کہ اتر کر
پیشاب کرلو۔ کہنے لگے خدا کی قسم میں مردوں سے ایسے حیا کرتا ہوں جیسے زندوں سے کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم
سے کتاب الصلوٰۃ پوری ہو چکی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین ولا حول ولا قوۃ الا
باللہ العلیٰ العظیم۔

کِتَابُ الزَّكَاةِ

یہ کتاب زکوٰۃ کے بیان کے بارے میں ہے

❁ زکوٰۃ کا ثبوت:

زکوٰۃ کا حکم قرآن پاک میں نماز کے حکم کے ساتھ یہاں تک پر مذکور ہے۔ یہ نماز اور زکوٰۃ دونوں کے کمال اتصال کی دلیل

ہے۔

❁ زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی؟

زکوٰۃ ہجرت کے دو سال بعد فرض کی گئی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو اور روزہ بھی ہجرت کے دوسرے سال فرض کیا گیا۔ لیکن ملا علی قاریؒ کے مطابق زکوٰۃ پہلے فرض ہوئی اور روزہ بعد میں۔ ملا علی قاریؒ زکوٰۃ کی فرضیت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اجمالاً مکہ میں فرض ہوئی اور اس کا نصاب اور مقادیر کی تفصیل مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔

❁ کیا انبیاء علیہم السلام پر زکوٰۃ فرض ہے؟

انبیاء علیہم السلام پر بالا جماع زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کے میل پیمیل کے ازالے کے لیے مشروع ہوئی ہے اور یہ بات واضح ہے کہ انبیاء علیہم السلام میل و کدورت سے پاک ہیں اور جو قرآن میں آیا ہے: وَأَوْصِنِي بِالْصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ..... (مریم: ۳۱) اس زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ النفس ہے۔

❁ زکوٰۃ کی لغوی تشریح اور وجہ تسمیہ:

زکوٰۃ کا لغوی معنی بڑھنا اور پاک کرنا اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے اور پاک ہوتا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور زکوٰۃ پر لفظ صدقہ کا بھی اطلاق ہوتا ہے اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے صدق ایمان پر دلیل ہے۔

❁ زکوٰۃ کا حکم:

زکوٰۃ کا منکر کافر ہوتا ہے اور اس کو ترک کرنے والا سخت گنہگار ہوتا ہے اور منکر زکوٰۃ کو قتل کرنے کا حکم ہے یہ محیط السرخسی

میں مذکور ہے اور یہ فی الفور سال کے اختتام پر واجب ہوتی ہے اور اس کو جان بوجھ کر مؤخر کرنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے اور امام رازیؒ کی روایت کے مطابق زکوٰۃ علی التراخی واجب ہوتی ہے اس لیے مؤخر کرنے والا موت کے نزدیک گنہگار ہوگا۔

❁ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟

زکوٰۃ مسلمان عاقل بالغ آزاد پر فرض ہے وہ مال اس کی ملکیت میں ایک سال تک رہا ہو اور اس کی ضرورت اصلیه سے زائد ہو اور مال نامی یعنی بڑھنے والا ہو۔ غیر نامی نہ ہو۔ خواہ مال نامی حقیقہ ہو یا تقدیراً ہو اور ملک اس میں کامل ہونی چاہیے۔ پس کافر پر اور غلام و دیوانے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

زکوٰۃ قرض دار پر فرض نہیں ہے مال قرض سے زیادہ ہو اور نصاب کو پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی اور قرض میں یہ بھی قید ہے کہ بندوں میں سے اس کا کوئی مطالب ہو۔ پس نذر اور کفارات اور فطرہ اور ان کی مانند جو چیزیں ہیں وجوب زکوٰۃ میں مانع نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ان میں بندوں کی طرف سے کوئی مطالب نہیں ہے اور زکوٰۃ کا جو فرض ہے حاکم اس کا ظاہری مال میں مطالبہ کر سکتا ہے یعنی مویشی اور مال تجارت میں خواہ وہ مال شہر میں لے آئے یا لے کر جائے دوسرا نقدی اور مال تجارت میں کہ شہر میں تجارت کرتا ہے تو کوئی مطالبہ نہیں ہے پہلی صورت مانع وجوب زکوٰۃ ہے اور دوسری صورت مانع نہیں ہے اگر عورت مہر کا تقاضا کرتی ہے تو زکوٰۃ مانع ہے ورنہ نہیں اور بحر الرائق وغیرہ میں ہے۔

معتمد مذہب کے مطابق دین (قرض) زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے لیے مانع ہے۔

اور مطلق قرض مانع ہے خواہ وہ قرض مہل ہو یا مؤجل۔ اگرچہ وہ بیوی کا طلاق تک یا موت تک مہر مؤجل ہو اور بعضوں نے کہا کہ مہر مؤجل مانع نہیں ہے کہ اس کا کوئی عاقل مطالبہ نہیں کرتا بخلاف مہر معجل کے اور بعض حضرات نے کہا کہ اگر خاوند ادا کا ارادہ رکھتا ہے تو مانع زکوٰۃ ہے ورنہ نہیں۔ اس لیے کہ وہ قرض شمار نہیں ہوتا۔ کذا فی غایۃ البیان اور عورت کو مہر کی وجہ سے غنیہ شمار کیا جاتا ہے۔ جب خاوند مال دار ہو تو یہ صاحبین کے نزدیک ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مہر کی وجہ سے غنیہ شمار نہیں ہوتی۔ یہ اختلاف مہر معجل کی صورت میں ہے اور مہر مؤجل کی وجہ سے کوئی اختلاف نہیں ہے بالاتفاق غنیہ شمار کی جاتی ہے

❁ نصاب کی تفصیل:

نصاب کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ وہ مال حوائج اصلیه سے فارغ ہو۔ یعنی ضروریات زندگی سے خالی ہو جیسے اصلی گھر جو اپنی رہائش کے لیے ہوتا ہے اور بدن کے کپڑے اور گھر کا سامان اور سواری کا جانور اور خدمت کے لیے غلام اور استعمال کا ہتھیار اور اہل علم کی کتابیں اور صنعت و حرفت کے اوزار۔ مثلاً اگر کسی نے تجارت کی نیت سے مکان خریدا اور پھر اس میں رہنے لگا۔ تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور اگر مکان تجارت کی نیت سے لے اور رہائش سے فارغ ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے اسی طرح اور چیزوں کو سمجھ لیجئے گا۔ اگر مکان یا غلام وغیرہ اس کی حاجت اصلیه سے فارغ ہوں اور ان میں تجارت کی نیت بھی نہ ہو تو زکوٰۃ اس میں واجب نہیں ہے۔

اور یہ جو ملکیت کے کامل ہونے کی شرط لگائی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا اصل میں اس چیز کا مالک بھی ہو اور اس مال میں حق تصرف بھی رکھتا ہو۔ اس وجہ سے مکاتب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔

۸۔ ضماں کی تفصیل! مال ضماں اس کو کہتے کہ جس تک آدمی نہ پہنچ سکے اور ایسے مال کی کئی اقسام ہیں:

۱۔ ایک تو وہ مال جو ضائع ہو جائے۔ ۲۔ دوسرا وہ جس کو آدمی جنگل میں رکھ کر بھول جائے۔ ۳۔ تیسرا یہ کہ وہ دریا میں ڈوب جائے۔ ۴۔ چوتھا یہ کہ کوئی اس کو غضب کر لے اور اس پر کوئی گواہ موجود نہ ہو اور ۵۔ پانچواں نمبر یہ ہے کہ ظالم نے ظلماً لے لیا ہو۔ ۶۔ اور چھٹا یہ کہ وہ کوئی قرض لے کر منکر ہو گیا ہو اور کوئی گواہ نہ ہو۔ اگر ان مالوں میں کسی قسم کا مال مل جائے۔ تو اس پر سابقہ ایام کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے بخلاف اس مال کے جو گھر میں دفن کر کے بھول گیا تھا اس پر اس کو بقیہ ایام کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ بخلاف اس قرض کے کہ قرض لینے والا اقرار کرتا ہو۔ خواہ لینے والا مالدار ہو یا مفلس یا انکار کرتا ہو۔ لیکن اس کے گواہ موجود ہوں اور قاضی اس کو جانتا ہو تو اسے مال میں زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اس تفصیل کے تحت کہ اگر وہ قرض مال تجارت کے بدلے ہو تو جب وہ مال نصاب کے پانچویں حصے کو پہنچے گا تو بقیہ ایام کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔

اگر قرض مال تجارت کے بدلے نہ ہو تو جیسے گھر میں پہننے والے کپڑے بیچے یا خدمت کا غلام بیچا یا رہنے والا گھر بیچا اور خریدنے والے کے ذمے قرض ہے پس اس میں پچھلے ایام کی زکوٰۃ دینا اسی وقت واجب ہوگا جب بقدر نصاب وصول ہو جائے۔

اور جو قرض ایسا ہو کہ مال کے بدلے میں نہ ہو جیسے مہر وصیت اور بدل خلع وغیرہ۔ جب اس میں زکوٰۃ دینی ہوگی تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بقدر نصاب کے ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو سابقہ ایام کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی۔ بلکہ اسی سال کی جس سال اس کا قبضہ رہا ہوگا اور یہ حکم تب ہے کہ وہ پہلے سے صاحب نصاب نہ ہو اور اگر وہ پہلے سے صاحب نصاب ہو تو اس کے حق میں یہ مال مال مستفاد ہے تو پہلے مال کے ساتھ اس کی بھی زکوٰۃ دے گا۔ اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔

۹۔ زکوٰۃ کی شرائط:

زکوٰۃ ادا کرنے کی شرط یہ ہے کہ ادا کرتے وقت یہ نیت کرے کہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں یا مال سے زکوٰۃ نکالتے وقت نیت کرے اور اگر سارا مال اللہ کے راستے میں دے دے اور زکوٰۃ کی نیت نہ کرے۔ تو زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔

بشرطیکہ کسی اور واجب کی نیت سے نہ دے۔ اگر تھوڑا مال دیا ہے تو جتنا دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ امام محمدؒ کے نزدیک ادا ہو جائے گی اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک ادا نہیں ہوگی اور زکوٰۃ کو ساقط کرنے کے لیے حیلہ کرنا مکروہ ہے۔ اگر تجارت کے لیے غلام خریدا پھر خدمت لینے کی نیت کی تو وہ تجارت کا نہ رہا بلکہ خدمت کے لیے ہو گیا۔ تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے اگر خدمت کی نیت سے خریدا اور پھر تجارت کی نیت کی تو تجارت کے لیے نہیں ہوگا۔ جب تک اس کو بیچے نہیں۔ جب بیچے گا تو اسکی قیمت میں زکوٰۃ دینی ہوگی اور زکوٰۃ کا نصاب اسقدر مال کو کہتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ دینا واجب ہو جائے اور اس سے کم میں نہ ہو۔ مثلاً چاندی یا مال تجارت ۲۰۰ دوسودرہم کی بقدر ہو چنانچہ آگے سب کے نصاب حدیثوں میں مذکور ہیں اور نصاب کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ نامی اور ۲۔ غیر نامی۔

نامی کہتے ہیں بڑھنے والے مال کو اور غیر نامی نہ بڑھنے والا مال۔ پھر نامی دو قسم پر ہے: ۱۔ حقیقی اور ۲۔ تقدیری۔ حقیقی مال یہ ہے کہ نفع سے بڑھتا ہے اور جانور بچوں کی وجہ سے بڑھتے ہیں۔ ۲۔ اور مال تقدیری وہ ہے جو ظاہر میں

بڑھتا نہیں ہے لیکن بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور غیر نامی جیسے مکان اسباب وغیرہ جو اصل ضرورت کے علاوہ ہوں۔
نصاب نامی اور غیر نامی میں فرق یہ ہے کہ نصاب نامی کے مالک پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا نذر کا
وصول کرنا اور صدقات واجبہ کا لینا درست نہیں ہوتا اور صدقہ فطر اور قربانی کرنی واجب ہو جاتی ہے اور نصاب غیر نامی کے مالک
پر صرف زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی بقیہ احکام اس کے نصاب نامی کے مالک والے ہیں۔ ملتی الا بحر و بحر در مختار
و عالمگیری و مولانا۔

الفصل الاول

زکوٰۃ کے بنیادی احکام

۱/۶۶۶ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا
أَهْلَ كِتَابٍ فَأَعْلِمُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ هُمْ
أَطَاعُوا لِلذِّكْرِ فَاعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ
فَاعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ
فَأَيَّامَكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَآتَى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳ حدیث رقم ۱۴۰۲ قسماً منہ۔ و اخرجہ مسلم كاملاً فی صحیحہ ۶۸۰/۲ حدیث رقم
(۲۴-۹۸۷)۔ و ابو داؤد فی السنن ۳۰۲/۲ حدیث رقم ۱۶۵۸۔ و الدارمی فی السنن ۴۶۲/۱ حدیث رقم ۱۶۱۷۔
و احمد فی المسند ۴۸۹/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف امیر یا قاضی بنا کر
بھیجا اور فرمایا تم اہل کتاب کی ایک قوم یعنی یہود و نصاریٰ کے پاس جا رہے ہو پس ان کو اس بات کی طرف دعوت دو کہ وہ
گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اگر انہوں نے یہ بات مان
لی تو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان پر دن و رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر انہوں نے اس بات کو مان لیا تو ان کو بتاؤ کہ
اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقیروں کو دی جائے پس اگر وہ یہ بات مان لیں تو
تم ان کے اچھے مال لینے سے بچو۔ یعنی چھانت کر مال نہ لو۔ بلکہ ان کے مال کے تین حصے کرو۔ اچھا برا اور درمیانہ اور زکوٰۃ
میں درمیان کا مال وصول کرو اور مظلوم کی بددعا سے بچو اور زکوٰۃ میں وہ چیز وصول نہ کرو جو اس پر واجب نہیں ہے یا اس کو
زبان سے تکلیف نہ دو۔ تاکہ وہ بددعا نہ کرے۔ کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس کو امام بخاری
اور مسلم رحمہما نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو مذکورہ بالا
نصیحتوں سے نوازا اہل کتاب کے ہاں مشرک اور ذمی بھی تھے مگر اہل کتاب کا غلبہ تھا۔ اس لیے ان ہی کو ذکر کیا ہے۔ ابن ملک کا
کہنا ہے یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کفار کو لڑائی سے پہلے اسلام کی طرف بلانا واجب ہے بشرطیکہ ان کو اسلام کی

دعوت نہ پہنچی ہو اگر ان کو اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہو۔ تو ان کو اسلام کی طرف بلانا مستحب ہے۔

زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت وعید

۲/۱۶۶۷۷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَانِخٌ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِي عَلَيْهِمَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا رُدَّتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَىٰ سَبِيلَهُ أَمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا بَلَّ قَالَ وَلَا صَاحِبٌ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمَنْ حَقَّهَا حُلْبُهَا يَوْمَ وَرَدَهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَطَحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ أَوْ قَرَمًا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فِصِيلًا وَاحِدًا تَطَّاهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعْقُصُهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَىٰ سَبِيلَهُ أَمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالنَّعَمُ قَالَ وَلَا صَاحِبٌ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَطَحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءٌ وَلَا جُلْحَاءٌ وَلَا عُصْبَاءٌ تَنْطَحُهُ بِقُرُورِهَا وَتَطَّاهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَىٰ سَبِيلَهُ أَمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْخَيْلُ قَالَ ثَلَاثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وَذُرْوَاهُ لِرَجُلٍ سِتْرٌ هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ قَامًا أَلْتِي هِيَ لَهُ وَزُرٌّ لِرَجُلٍ رِبَاءٌ وَفَخْرٌ وَنَوَاءٌ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ وَزُرُوءٌ أَمَّا أَلْتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَجُلٌّ رِبَطُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي طُحُورِهَا وَلَا رِكَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ أَمَّا أَلْتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَجُلٌّ رِبَطُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلْتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عِدَّةٌ مِمَّا أَكَلْتَ حَسَنَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ عِدَّةٌ أَرْوَاهَا وَأَبْوَالُهَا حَسَنَاتٍ وَلَا تَقْطَعُ طَوْلُهَا فَاسْتَنْتَ شَرْفًا أَوْ شَرْفَيْنِ إِلَّا كُتِبَ اللَّهُ لَهُ عِدَّةٌ أَتَارِهَا وَأَرْوَاهَا حَسَنَاتٍ وَلَا مَرْبِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا كُتِبَ اللَّهُ لَهُ عِدَّةٌ مِمَّا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحُمْرُ قَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَىٰ فِي الْحُمْرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَادَةُ الْجَامِعَةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔

(رواہ مسلم)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳ حدیث رقم ۱۴۰۲ قسماً منه۔ واخرجه مسلم كاملاً فی صحیحہ ۶۸۰/۲ حدیث رقم

(۲۴-۹۸۷)۔ وابوداؤد فی السنن ۳۰۲/۲ حدیث رقم ۱۶۵۸۔ والدارمی فی السنن ۴۶۲/۱ حدیث رقم ۱۶۱۷۔

واحمد فی المسند ۵۴۸۹/۲

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی سونا اور چاندی رکھنے والا اس کا حق ادا نہ کرے یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا۔ ان کے لیے آگ کے تختے بنائیں جائیں گے۔ یعنی وہ تختے سونے چاندی کے ہوں گے۔ لیکن آگ میں گرم کیے جائیں گے۔ گویا کہ وہ آگ کے ہوں گے۔ پس ان کو دوزخ کی آگ سے گرم کیا جائے گا اور ان تختوں کے ساتھ اس کے پہلو اس کی پیشانی اور اس کی پیٹھ کو داغ دیا جائے گا۔ جب وہ تختے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تو گرم کرنے کے لیے آگ میں ڈالیں جائیں گے اور نکال کر پھر داغ دیے جائیں گے ہمیشہ یوں ہی کرتے رہیں گے۔ اس دن تک جس دن کی مقدار پچاس ہزار برس ہے۔ اس کو بندوں کے سامنے حکم کیا جائے گا۔ پس وہ اپنا راستہ جنت یا دوزخ کی طرف دیکھ لے گا۔ کہا گیا اے اللہ کے رسول! یہ حکم تو نقدی کا ہے اور اونٹوں کا کیا حکم ہے؟ یعنی ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو کیا عذاب ہوگا۔ فرمایا جب کسی اونٹ کے مالک نے ان کا حق ادا نہ کیا یعنی زکوٰۃ نہ دی۔ تو قیامت کے دن اس کو منہ کے بل اونٹوں کے سامنے ہموار میدان میں ڈالا جائے گا۔ اس حالت میں کہ اونٹ گنتی میں بھی مکمل ہونگے اور موٹا ہونے میں بھی تاکہ ان کے روندنے میں تکلیف زیادہ ہو اور اس کو اپنے پاؤں کے ساتھ چلیں گے اور اس کو اپنے دانتوں سے کاٹیں گے اور اونٹوں کی ایک جماعت ان پر گزرے گی تو وہ دوسری جماعت بھی ان کے پیچھے آئے گی۔ یعنی اس طرح سے اس کو کچلا جائے گا۔ ایک قطار کے بعد دوسری قطار اونٹوں کی کچلے گی اس دن جس دن کی مقدار پچاس ہزار برس ہے یہاں تک کہ اس کو بندوں کے سامنے حکم کیا جائے گا۔ پس وہ بہشت (جنت) یا دوزخ کی طرف اپنا راستہ دیکھے گا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول! گاؤں کے مالک اور بکریوں کے مالک کا کیا حال ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا: جب گاؤں اور بکریوں کا مالک ان کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کو ہموار میدان میں ڈالا جائے گا اور اس سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی اور ان میں کوئی گائیں بکری ایسی نہیں ہوگی جن کے مڑے ہوئے سینگ ہوں نہ منڈی ہوئی اور نہ سینگ ٹوٹی ہوئی۔ یعنی تمام کے سینگ سلامت ہونگے۔ پھر ان کو اپنے سینگوں کے ساتھ خوب سینگ ماریں گے اور اس کو اپنے کھروں کے ساتھ کچلیں گے۔ جب ایک جماعت گزر جائیگی تو دوسری جماعت لائی جائے گی۔ اس دن کہ جس دن کی مقدار پچاس ہزار برس کے برابر ہوگی یہاں تک کہ اس کو بندوں کے سامنے حکم دیا جائے گا۔ پس وہ اپنا راستہ جنت یا دوزخ کی طرف دیکھ لے گا۔ آپ ﷺ سے گھوڑوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ گھوڑوں کا کیا حکم ہے؟ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا گھوڑے تین طرح کے ہوتے ہیں ایک تو آدمی کے لیے گناہ کا سبب ہوتے ہیں اور دوسرے آدمی کے لیے پردہ ہوتے ہیں اور تیسرے آدمی کے لیے بطور ثواب کے ہوتے ہیں۔ پس وہ گھوڑے جو گناہ کا سبب بنتے ہیں۔ اور وہ گھوڑے جو اس کے لیے پردہ ہیں وہ جن کو فخر دیا کاری کے لیے اور اہل اسلام سے دشمنی کے لیے باندھا گیا ہے۔ پس یہ گھوڑے اس کے لیے گناہ کا سبب بنتے ہیں وہ ہیں پس وہ گھوڑے اس شخص کے ہیں جنہیں آدمی نے اللہ کے راستے میں باندھا پھر وہ ان کی پیٹھوں (یعنی پشتوں) پر سوار ہو کر اور گردنوں پر سوار ہو کر اللہ رب العزت کی اطاعت کو نہیں بھولا۔ تو وہ گھوڑے اس کے لیے پردہ ہیں اور وہ گھوڑے جو باعث ثواب ہیں تو وہ گھوڑے اس شخص کے ہیں کہ جس نے ان کو سربز چراگاہ میں اہل اسلام کے لیے خدا کے راستے میں باندھا ہے۔ تو جب بھی وہ اس چراگاہ اور سبزے سے کھاتے ہیں۔ اس کے لیے ان چیزوں کے کھانے کی بقدر نیکیاں لکھی جاتی ہیں یعنی گھاس دانہ وغیرہ۔ اس کے لیے ان کی لید اور پیشاب کی بقدر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ گھوڑے اپنی رس کو توڑتے ہیں پھر وہ ایک یا دو میدانوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے

ان کے نقش قدم کے برابر اور ان کی لید کے برابر نیکیاں لکھ لیتا ہے۔ جو اس حالت میں کرتے ہیں اور جب ان کا مالک ان کو نہر پر سے لے کر گزرتا ہے تو وہ اس سے پیتے ہیں حالانکہ اس کا پانی پلانے کا ارادہ نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے پانی پینے کی بقدر نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول گدھوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا گدھوں کے بارے میں مجھ پر کچھ نازل نہیں ہوا۔ مگر ایک جامع آیت جو سب نیکیوں اور بندگیوں کے لیے جامع ہے جو شخص ایک ذرے کے برابر بھلائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ایک ذرہ کے برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے کہ وہ دن جس کی مقدار پچاس ہزار برس کی ہوگی۔ یعنی کافروں کو وہ دن پچاس ہزار برس کا معلوم ہوگا اور باقی گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی بقدر دراز معلوم ہوگا اور کامل مؤمنین کو وہ دن دو رکعتوں کی بقدر معلوم ہوگا اور وہ اپنا راستہ بہشت کی طرف دیکھ لے گا بشرطیکہ اس کے ذمہ اور کوئی گناہ نہ ہو اور یہ عذاب ترک زکوٰۃ کے گناہ کو جھاڑ دے گا اور وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اگر اس کے ذمے اس کے علاوہ اور گناہ ہوں گے یا اس عذاب سے ترک زکوٰۃ کا گناہ مکمل طور پر نہیں جھڑے گا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور اسے عذاب دیا جائے گا اور باقی مخلوق حساب میں مشغول ہوگی۔ عرب لوگوں کے ہاں دستور تھا کہ وہ اپنے اونٹوں کو تیسرے یا چوتھے دن پانی پلانے کے لیے لے جاتے تھے اور لوگ پانی پر جمع ہوتے تھے اور اونٹوں کے مالک ان کا دودھ دودھ کر ایک دوسرے کو پلایا کرتے تھے اگرچہ اونٹوں کے بارے میں وجوبی حکم زکوٰۃ ہی ہے لیکن منجملہ اونٹوں کے حقوق سے مستحب امر یہ بھی ہے کہ جس دن اونٹ پانی پینے کے لیے جائیں تو مستحب یہ ہے کہ دودھ دھو کر مسکینوں کو پلائے لیکن یہ مروت اور خدائے تعالیٰ کے شکر کی بنا پر ہے حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ گھوڑوں کو پانی پلانے کی نیت نہیں رکھتا تھا بلا قصد کے گھوڑوں نے پانی پیا اس کو تو یہ ثواب حاصل ہوگا اور اگر قصد اُپلایا گیا تو کچھ اور ثواب حاصل کرے گا۔ حضور ﷺ نے علی اسلوب الحکیم ارشاد فرمایا کہ گھوڑوں کے وجوبی حق کا حال مت پوچھو بلکہ اس کے بارے میں بھی پوچھو جو نفع اور ضرر ان کے پالنے والے کو ہوتا ہے اور ایک وہ گھوڑے ہوتے ہیں جو ان کے لیے پردہ ہوتے ہیں ان سے آدمی کا پردہ ڈھکا رہتا ہے اور لوگ نہیں جانتے کہ فقیر محتاج ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سوال کرنے سے محفوظ رکھتا ہے اور حاجت پیش کرنے سے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ اس کی وجاہت و حشمت کو دیکھ کر مرعوب ہوں اور جان لیں کہ یہ مجاہد ہے اور حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔

اور فخر سے مراد یہ ہے کہ وہ اس نیت سے گھوڑا پالے کہ اپنے سے ادنیٰ آدمی پر فخر بیان کر دے گا اور دوسری قسم میں جو راہ خدا کا لفظ آیا ہے اس سے مراد جہاد نہیں ہے اور مراد یہ ہے کہ وہ اچھی نیت سے باندھے کہ اللہ کی اطاعت میں کام آئے۔ یعنی اپنی سواری کے لیے باندھے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سوار ہو اور اپنے فقر و ضرورت کو لوگوں سے مخفی رکھے۔ جیسا کہ روایت میں آیا ہے: ”رَبَطَهَا تَغْنِيَا وَتَعْفُفًا“ یعنی گھوڑے باندھے مال حاصل کرنے کے لیے اور مانگنے سے بچنے کے لیے یعنی سواری پر سوار ہو کر تجارت کے لیے یا کھیتی باڑی کے لیے جائے تو اس وقت یہ سوال سے محفوظ رہے گا تو خدا کی راہ سے مراد یہ ہے تاکہ تکرار لازم نہ آئے۔ تیسری قسم میں خدا کی راہ سے مراد جہاد ہے۔ یعنی سواری پر سوار ہو کر بھی اللہ کے حقوق کو بھی نہ بھلایا اور

اگر کسی نے سواری کے طور پر مانگایا گھوڑیوں پر چھوڑنے کے لیے شوافع کا کہنا ہے گھاس و دانہ وغیرہ کے ساتھ ان کے خبر گیری کرے اور ان سے ضرر کو دور کرے اور یہ اختلاف اس لیے ہے کہ ہمارے نزدیک گھوڑوں میں زکوٰۃ ہے پھر گھوڑوں والوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ گھوڑے کے پیچھے ایک دینار دے۔ یا قیمت معین کرے ان کی اوپر دوسو درہموں کے پیچھے پانچ درہم دے جیسا کہ زکوٰۃ کا حساب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور صاحبین کے نزدیک گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے غلام اور گھوڑے میں صدقہ نہیں ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر جنگل میں چرنے والے گھوڑے کے لیے ایک دینار ہے اور گھوڑے کی قیمت کے تعین کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جو حدیث روایت کی ہے غازی کے گھوڑے پر محمول ہے کہ وہ اس پر سوار ہوتا ہے اور ایسے ہی خدمت کرنے والا غلام اور خدا کے راستے میں اہل اسلام کے لیے جہاد کرے اور مسلمانوں کو دے تاکہ سوار ہو کر جہاد کریں اگر کسی کو سواری کے لیے گدھادے۔ کسی نیکی کے کام کے لیے تو ثواب حاصل کرے گا اگر وہ سواری گناہ کے لیے استعمال ہوگی تو گناہ گار ہوگا۔

زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے لیے وعید

۳/۱۶۶۸ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَا لَا فَلََمْ يُؤَدِّرْ كَاتَهُ مِثْلُ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعًا لَهُ رَيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزٍ مَتِيهِ يَعْنِي شِدْقِيهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكُ أَنَا كُنْتُ لَكَ ثُمَّ تَلَا وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳/ حدیث رقم ۱۴۰۳۔ والنسائی ۳۸/۵ حدیث رقم ۲۴۸۱۔ ومالک فی الموطأ ۲۵۶/۱

حدیث رقم ۲۲ من کتاب الزکاة واحمد فی المسند ۳۵۵/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ نے مال دیا ہو۔ پس اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی پس اس کے لیے اس کا مال گنجا سانپ بنا دیا جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں دوسیاہ نقطے ہو گئے، قیامت کے دن وہ سانپ بطور طوق کے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا پھر اس کے منہ کی دونوں طرفوں کو (یعنی اس کی دونوں باجھوں کو) پکڑے گا۔ پھر کہے گا میں تیرا مال ہوں۔ تیرا گنچ ہوں۔ (یعنی خزانہ ہوں) پھر یہ آیت تلاوت فرمائی اور وہ لوگ گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں۔ آخر آیت تک۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کا مال اس کے لیے گنجا سانپ بن کر سامنے آئے گا۔ گنجا سانپ وہ ہے جس کے سر پر بال نہ ہوں یہ اس کے بہت زیادہ زہر لیے ہونے کی علامت ہوتی ہے اور اس کی لمبی عمر کی علامت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل کے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ سنو اللہ تعالیٰ بھی اس طرح ارشاد فرماتے ہیں پوری آیت اس طرح سے ہے:

﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ يَسُوؤُا لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (ال عمران: ۱۸۰)

”جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کجی کو اپنے لئے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لئے بدتر ہے عنقریب قیامت والے دن یہ اپنی کجی کی ہوئی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لئے ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔“

زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والے پر سخت وعید

۴/۱۶۶۹ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أَتَىٰ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسَمَنَهُ تَطَافُهَا بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَارَتْ أُخْرَاهَا رَدَّتْ عَلَيْهِ أَوْ لَاَهَا حَتَّىٰ يَقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲/۱۳ - حدیث رقم ۱۴۶۰ - و مسلم فی صحیحہ ۶۸۶/۲ حدیث رقم (۳۰ - ۹۹۰) - والنسائی فی السنن ۲۹/۵ حدیث رقم ۲۴۵۶ - وابن ماجہ ۵۶۹/۱ حدیث رقم ۱۷۸۵ - واحمد فی المسند ۳۲۱/۳ - ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے فرمایا جب کسی شخص کے پاس اونٹ، گائے یا بکری ہوں اور وہ ان کا حق (زکوٰۃ) ادا نہ کرے قیامت کے دن ان کو لایا جائیگا اس حال میں کہ وہ بہت بڑے ہوں گے اور بہت زیادہ موٹے ہو گئے اور وہ اپنے پاؤں سے اپنے مالک کو کچلیں گے اور اس کو اپنے سینگوں کے ساتھ ماریں گے۔ جب ان کی آخری جماعت گزر جائے گی تو ان کی پہلی جماعت کو دوبارہ لایا جائے گا۔ یہاں تک کہ اس کو آدمیوں کے سامنے لایا جائے گا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما اللہ نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ پہلے بیان ہو چکا ہے اگر صاحب نصاب نے زکوٰۃ ادا نہ کی۔ تو وہ مال یا خزانہ اس کے لیے گنجا سانپ بن جائے گا اور اگر جانور ہیں تو وہ بندے کو اپنے سینگوں کے ساتھ ماریں گے اور اپنے کھروں سے روندیں گے یہاں تک کہ چل کر رکھ دیں گے۔ جماعت در جماعت اس کے اوپر سے روندتی ہوئی گزر جائے گی۔ پھر آخر کار اللہ تعالیٰ اس کے جہنم کی طرف جانے کا فیصلہ کریں گے۔

عالمین زکوٰۃ کو خوش کر کے بھیجو

۵/۱۶۷۰ وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاكُمْ الْمُصَدِّقُ فَلْيُصْذِرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۶۸۶/۲ - حدیث رقم (۲۹ - ۹۸۹) - والترمذی فی السنن ۳۹/۳ حدیث رقم ۶۴۷ - وابن ماجہ ۵۷۶/۱ حدیث رقم ۱۸۰۲ - والدارمی ۴۸۴/۱ حدیث رقم ۱۶۷۰ - واحمد فی المسند ۳۶۵/۴ -

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس کوئی (امام کی طرف سے) زکوٰۃ لینے والا آئے جس کو سامعی اور عامل کہتے ہیں وہ تم سے اس حالت میں لوٹ کر جائے کہ وہ تم سے راضی ہو۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ (رواہ مسلم)

تشریح ﴿ اس حدیث پاک کا خلاصہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے ساعیوں کا احترام کرو اور ان کو زکوٰۃ پوری ادا کرو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں حیلے بہانے سے گریز کرو جو مالک زکوٰۃ اکثر زکوٰۃ ساقط کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ایسا کرنا مکروہ ہے۔

زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے آپ ﷺ کا دُعا کرنا

۶/۱۶۷۱ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فَلَانٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى (متفق عليه) وفي رواية إذا أتى الرجل النبي ﷺ بصدقته قال اللهم صل عليه -

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۶۸۳/۳ - حدیث رقم ۱۴۹۷ - ومسلم فی صحیحہ ۷۵۶/۲ حدیث رقم (۱۷۶) -
۱۰۷۸ (ابوداؤد فی السنن ۲۴۶/۲ حدیث رقم ۱۵۹۰ والنسائی فی السنن ۳۱/۵ حدیث رقم ۲۴۵۹ - وابن ماجہ ۵۷۲/۱ حدیث رقم ۱۷۹۶ واحمد فی المسند ۳۵۵/۴ -

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب کوئی قوم نبی کریم ﷺ کے پاس زکوٰۃ لے کر آتی تو آپ ﷺ فرماتے - اے اللہ! فلاں شخص پر رحمت بھیج۔ پس حضور ﷺ کے پاس میرا پاس زکوٰۃ لے کر آیا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ اے اللہ! ابواوفی کی آل پر رحمت بھیج۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما اللہ نے نقل کیا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح بھی آیا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص زکوٰۃ لے کر آتا تو آپ ﷺ فرماتے اے اللہ! اس پر رحمت بھیج۔ (متفق علیہ)

تشریح ﴿ اس حدیث پاک کا خلاصہ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ لفظ صلوٰۃ کے ساتھ کسی انسان کے لیے دعا کرنا درست نہیں ہے۔ سوائے نبی کے اور نبی کسی پر صلوٰۃ بھیجے تو درست ہے پس حضور ﷺ جو زکوٰۃ لانے والوں پر صلوٰۃ بھیجا کرتے تھے۔ یہ حضور ﷺ کی خصوصیت تھی اور کسی دوسرے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔

عامل زکوٰۃ کے لیے نصیحت

۷/۱۶۷۲ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقُمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَانْكُمُ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَسَبَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمَثَلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ أَمَا شِعْرْتُ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُوْا أَبِيهِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۳۱/۳ - حدیث رقم ۱۴۶۸ - ومسلم فی صحیحہ ۶۸۶/۲ حدیث رقم (۱۱) - (۹۸۳) -
ابوداؤد فی السنن ۳۷۳/۲ حدیث رقم ۱۶۲۳ - والنسائی ۳۳/۵ حدیث رقم ۲۴۶۴ - واحمد فی المسند ۳۲۲/۲ -

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عامل زکوٰۃ بنا کر بھیجا پس کسی نے بتایا ابن جمیل اور خالد بن ولید اور حضرت عباسؓ نے زکوٰۃ نہیں دی۔ پس نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ابن جمیل نے خدا کی نعت کا

انکار نہیں کیا۔ کیونکہ وہ فقیر تھا پس اس کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے غنی کر دیا اور خالد بن ولیدؓ پر تم ظلم کرتے ہو یعنی اس لیے نہیں کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ اس نے اپنی زرہیں اور لڑائی کا سامان (یعنی ہتھیار اور جانور اور لڑائی کا سامان اللہ کے راستے میں) وقف کر رکھا ہے اور تم اس کو مال تجارت سمجھتے ہو اور حضرت عباسؓ کی زکوٰۃ میرے ذمے ہے۔ اس کی مثل اس کے ساتھ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمرؓ کیا تم نہیں جانتے آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے پس حضرت عباسؓ کو میرے باپ کے مقام پر سمجھ کو ان کی تعظیم کرو اور ان کو تکلیف مت دو۔ اس کو امام بخاری اور مسلمؒ نے روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿ ابن جمیل پہلے منافق تھا پھر مسلمان ہوا اور محتاج تھا۔ اس نے حضور ﷺ سے دعا کروائی کہ اگر میں دولت مند ہو جاؤں تو میں خدا کی شکر گزاری کروں گا۔ پس حضور ﷺ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور وہ غنی ہو گیا پس اس کو چاہیے تھا کہ خدا کا شکر ادا کرے۔ اس نے نعمت خداوندی کی ناشکری کی اور زکوٰۃ کا بھی انکار کر دیا اور حضور ﷺ نے اس پر بطور زجر کے کلام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو غنی کیا۔ یعنی غنا کی نسبت اپنی طرف کی اس لیے کہ وہ آپ کی دعا سے غنی ہوا تھا اور حضرت عباسؓ حضور ﷺ کے چچا تھے آپ ﷺ نے ان کی زکوٰۃ اپنے ذمے لے لی تھی اس کا سبب یہ تھا کہ حضور ﷺ نے ان سے دگنی زکوٰۃ لے لی تھی ایک تو اسی سال کی۔ جس کی مانگتے تھے اور دوسری آئندہ سال کی جیسے کہ فرمایا مِثْلَهَا مَعَهَا۔ یعنی آئندہ سال کی زکوٰۃ۔

عامل زکوٰۃ کا ہدیہ لینا جائز نہیں ہے

۸/۱۶۷۳ وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِّنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي فَخَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي اسْتَعْمِلُ رَجُلًا لَا مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِّمَّا وَلَا يَبِي اللَّهَ فَيَأْتِي أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِّنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرًا لَهُ خَوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُقْرَةَ إِبْطِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُكَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُكَ (متفق عليه) قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَفِي قَوْلِهِ هَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُّهُدَى لَهُ أَمْ لَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ يَتَدَرَّعُ بِهِ إِلَى مَحْظُورٍ فَهُوَ مَحْظُورٌ وَكُلُّ دَخِيلٍ فِي الْعُقُودِ يُنْظَرُ هَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ عِنْدَ الْإِنْفِرَادِ كَحُكْمِهِ عِنْدَ الْإِفْتِرَانِ أَمْ لَا هَكَذَا فِي شَرْحِ السُّنَنِ.

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۲۰۱۵۔ حدیث رقم ۲۵۹۷۔ ومسلم فی صحیحہ ۱۴۶۳/۳ حدیث رقم (۲۶-۱۸۳۲)۔

وابوداؤد فی السنن ۳۵۴۱۳ حدیث رقم ۲۹۴۶۔ واحمد فی المسند ۴۲۳/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو حمید ساعدیؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے قوم ازد کے ایک شخص کو عامل مقرر کیا اس کا نام ابن

تنبیہ تھا جب ابن تلبیہ مدینہ میں آیا اور کہا کہ اتنی مقدار میں زکوٰۃ کا مال تمہارے لیے ہے یعنی تم اس کے مستحق ہو اور اتنی مقدار میں مجھے بطور تحفہ کے دیا گیا ہے پس نبی کریم ﷺ نے خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اس کی تعریف کی پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں تم میں سے کسی شخص کو عامل مقرر کرتا ہوں ان کاموں کے اوپر جن کاموں پر اللہ نے مجھے حاکم کیا ہے۔ پھر ان میں سے ایک شخص آتا ہے اس کام سے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے اور یہ مجھ کو تحفہ دیا گیا ہے پس وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا۔ پھر دیکھتے کہ اس کو بدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر اس میں سے کوئی لے گا۔ تو اس کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اگر اونٹ ہوگا تو اس کے لیے بھی ایک آواز ہوگی۔ اگر بیل ہوگا تو اس کے لیے بھی ایک آواز ہوگی۔ اگر بکری ہوگی تو اس کے لیے بھی ایک آواز ہوگی پھر آپ ﷺ نے دونوں دست مبارک اٹھائے۔ یہاں تک کہ ہم نے آپ ﷺ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ یعنی بہت اونچے اٹھائے پھر فرمایا یا اے اللہ! کیا میں نے پہنچا دیا ہے جو آپ نے فرمایا تھا۔ اے اللہ! کیا میں نے پہنچا دیا ہے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما اللہ نے روایت کیا۔

تفسیر: اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عامل زکوٰۃ کو بدیہ وصول نہیں کرنا چاہیے یہ تحفہ اس کو عامل کی وجہ سے ملا ہے اگر وہ گھر بیٹھے رہتا تو اس کو تحفہ ہرگز نہ ملتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر عامل کا دوست یا قریبی رشتے دار اس کو پہلے سے تحفہ بھیجا کرتا تھا تو لینا جائز ہے اور ابن الملک نے کہا ہے کہ اگر کوئی عامل کو اس لیے تحفہ دیتا ہے کہ وہ زکوٰۃ میں سے کچھ چھوڑ دے گا تو یہ جائز نہیں ہے۔

قال الخطابی: خطابی نے کہا کہ وہ عامل اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھا پس دیکھتے کہ اس کو کیسے تحفہ بھیجا جاتا ہے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ حرام چیز کے لیے جس چیز کو وسیلہ پکڑا جائے تو وہ وسیلہ بھی حرام ہے اور جو عقد عقدوں میں داخل ہو۔ جیسے ہبہ اور نکاح وغیرہ تو دیکھا جائے گا کہ ان کا الگ الگ حکم ایک دوسرے سے متعلق ہونے کے حکم کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر موافق ہے تو درست ہے اگر موافق نہیں تو درست نہیں۔ اسی طرح شرح السنہ میں مذکور ہے۔

وسیلہ کے حرام ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس میں وہ قرض بھی داخل ہے کہ اس قرض کو نفع کی خاطر حاصل کرے اور گروی پر رکھ لے۔ پھر اس کے اندر بغیر کرائے کے رہے اور جانور سواری کے لیے لے اور اس پر بغیر عوض کے سوار ہو۔ دوسرے قاعدے کی مثال یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ کوئی چیز دس روپے کی سو روپیہ میں بیچتا کہ بیچنے والا اس کو ایک ہزار روپیہ قرض دے اور اس قرض کا نفع اس چیز کے ثمن میں سمجھ لے۔ پس یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ اگر وہ فقط چیز ہی بیچتا تو وہ کس لیے لاتا اس نے وہ چیز قرض کے لالچ سے لی ہے گویا اس نے وہ قرض اس چیز کے مول میں ادا کیا اور جہاں دو عقد ایسے جمع ہو جائیں کہ ایک کو دوسرے سے الگ کریں تو بھی جائز اور درست ہوں۔ مثلاً اسی صورت مذکورہ میں دس روپے کی چیز دس روپیہ میں ہی بیچتا۔ اور یہ دونوں قاعدے علامہ خطابی نے حدیث سے نکالے ہیں۔ پہلا قاعدہ تو ہمارے مذہب اور امام شافعی کے مذہب کے موافق ہے۔

اس لیے کہ یہ قاعدے وضابطے مقرر ہیں کہ وسائل مقاصد کا حکم رکھتے ہیں پس نیکی کا وسیلہ عین نیکی ہے اور معصیت کا وسیلہ عین معصیت ہے۔

اور دوسرا قاعدہ امام مالکؒ اور امام احمدؒ کے مذاہب کے مطابق ہے کہ وہ حیلوں کو ناپسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ربا وغیرہ نکلتا ہے

اور امام ابوحنیفہؒ اور شافعیؒ وغیرہا ان کو مباح سمجھتے ہیں پس وہ اس قاعدے کے قائل نہیں ہیں اور اس سے ہر گز کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ مسئلہ جو بطور مثال ذکر کیا گیا، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک درست ہے بلکہ یہ ان کے نزدیک بھی درست نہیں۔

عامل زکوٰۃ کے لیے دیانتداری کی ترغیب

۹/۱۶۷۳ وَعَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا هُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكُنْتُمْ مَخِيضًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَا بَنِي بَهْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۱۴۶۵/۳ حدیث رقم (۳۰-۱۸۳۳)۔ و ابو داؤد فی السنن ۳۵۳/۳ حدیث رقم ۲۹۴۳۔

واحمد فی المسند ۱۹۲/۴۔

ترجمہ: حضرت عدی بن عمیرہؓ سے روایت ہے جس کو تم میں سے ہم کسی کام پر عامل بنائیں پھر وہ سوئی کی مقدار کے برابر کوئی چیز چھپالے اور وہ چیز سوئی سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ یہ چھپانا خیانت ہوگا اور قیامت کے دن اس کو ازراہ فضیحت کے (یعنی شرمندگی کے) لائے گا۔

تشریح: اس حدیث کا خلاصہ پہلی روایات میں بھی مذکور ہو چکا ہے۔ عامل زکوٰۃ کو دیانتداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایک سوئی کے برابر بھی اس کو خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر سوئی کے برابر بھی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اس کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرے گا اور قیامت کے دن اس کو پیش کرنا ہوگا۔

الفصل الثانی:

زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کا سبب ہے

۱۰/۱۶۷۵ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ أَنَا أَفْرَجُ عَنْكُمْ فَأَنْطَلِقُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيَّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِثَ وَذَكَرَ كَلِمَةً لِيَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ فَقَالَ فَكَبُرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مَا يَكْتِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۰۵/۲ حدیث رقم ۱۶۶۴۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور جو لوگ کہ سونا اور چاندی جمع کرتے

ہیں۔۔۔۔۔ مسلمانوں پر یہ آیت بہت بھاری ہوئی (یعنی گراں گزری) عمرؓ نے کہا میں تم سے اس فکر کو کھول دوں گا۔ پس عمر آئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی! آپ کے صحابہ پر یہ آیت بھاری ہو گئی ہے۔ فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے تاکہ تمہارے مال میں سے جو چیز باقی ہے اس کو پاک کر دے اور اللہ نے میراث مقرر کی ہے اور ایک کلمہ ذکر کیا تاکہ میراث اس شخص کے لیے ہو جائے جو تمہارے پیچھے ہے۔ پس ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ نے اس مشکل کے حل ہونے کی وجہ سے خوشی کے باعث اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ ﷺ نے حضرت عمرؓ کے لیے فرمایا کہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں ایسی بہترین چیز کے بارے میں جس کو آدمی جمع کرے؟ وہ نیک بخت عورت ہے۔ جب دیکھے اس کی طرف وہ اس کو خوش کرے جب اس کو حکم کرے تو اس کی فرمانبرداری کرے۔ جب اس سے غائب ہو تو اس کی حفاظت کرے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں جس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ پوری اس طرح سے ہے: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَنَجْزِيَنَّهُمْ عَذَابَ أَلِيمٍ﴾ (التوبہ: ۳۴) یعنی جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے پس ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یعنی ان کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کے پہلو اور ان کی پٹھیں داغیں گے۔ پس جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر گراں گزرا۔ اس لیے کہ وہ آیت کے ظاہر سے یہ سمجھے کہ مطلق مال کا جمع کرنا منع ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ مذکورہ آیت آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم پر گراں گزری ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ نے زکوٰۃ تو اس لیے فرض کی ہے کہ باقی مال پاک ہو جائے جب زکوٰۃ دینے سے بقیہ مال پاک ہو جائے گا تو باقی مال کے جمع کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے آیت مذکورہ میں جو وعید آئی ہے وہ تو اس وقت مال جمع کرنے کے بارے میں ہے جب آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اگر زکوٰۃ دے کر مال جمع کرے تو وہ اس وعید کے تحت داخل نہیں ہے اور وہ ذکر کلمۃ: یہ راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ حضور ﷺ نے: انما فرض الموارث کے بعد ایک کلمہ ذکر کیا جو مجھے یاد نہیں ہے مجھے صرف اسی قدر یاد رہا کہ اللہ تعالیٰ نے میراث اس لیے فرض کی ہے کہ میراث طیب تمہارے پچھلوں کے لیے ہے جو وارث بنیں گے۔ اگر مال مطلق جمع کرنا مانع ہوتا تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ اور میراث کو بیان نہ کرتا پھر حضور ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بیان کیا کہ مال کا جمع کرنا منع نہیں ہے جب تک زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔

صحابہؓ یہ سن کر خوش ہوئے۔ آپ ﷺ نے ان کی دوسری رغبت کے لئے فرمایا کہ مال جمع کرنے سے بہتر چیز نیک بخت خوبصورت عورت ہے کیونکہ سونا چاندی تیرے ہاتھ سے نکلنے کے بعد نفع نہیں دیتا۔ بخلاف بیوی کے جب تک وہ تیرے پاس رہتی ہے وہ تیری رفیق حیات بن کر رہے گی۔ وہ تجھے خوش کرے گی اور تیری حاجت روائی کرتی رہے گی اور تیری فرمانبرداری کے اندر مشغول رہے گی اور تیرے پیچھے گھر کے مال کی حفاظت کرے گی اور اولاد کی دیکھ بھال کرے گی اور اس کے اولاد پیدا ہوتی ہے جو بعد میں تیری قوت بازو بنے گی اور تیرے مرنے کے بعد تیری جانشین ہوگی اور بہت کام آئے گی اور ایک مرفوع روایت میں آیا ہے کہ جس نے نکاح کیا اس نے دو تہائی اپنا دین مضبوط کر لیا۔

عالمین زکوٰۃ کو خوش کرنے کا حکم

۱۱/۱۶۷۶ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِيَكُمْ رُكَيْبٌ مُبْعُضُونَ فَإِنْ جَاءَ وَكُمْ فَرَحِبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَعُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلَا تَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهِمْ وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلْيَدْعُوا لَكُمْ۔ (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۲۴۵/۲ حدیث رقم ۱۵۸۸

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس ایک چھوٹا قافلہ آئے گا (یعنی زکوٰۃ لینے کے لیے عامل آئیں گے) ان کے ساتھ دشمنی کی جائے گی۔ (یعنی لوگ اپنی طبیعت کے مطابق ان سے دشمنی رکھیں گے۔ اس لیے کہ وہ مال لینے کو آتے ہیں) پس جو جس وقت وہ تمہارے پاس آئیں۔ تو تم ان کو مر جا کہو اور ان کے آنے پر خوش ہو جاؤ اور زکوٰۃ کا مال ان کے سامنے پیش کر دو۔ کوئی چیز مال اور ان کے درمیان حائل نہ رکھو۔ اگر وہ زکوٰۃ لینے میں عدل کریں گے تو اس کا ثواب پائیں گے اور اگر تم پر ظلم کریں گے تو ظلم کا وبال ان پر پڑے گا اور زکوٰۃ لینے والوں کو راضی کر دو۔ اس لیے کہ تمہاری پوری زکوٰۃ ان کی رضا مندی ہے اور چاہیے کہ عامل تمہارے لیے دعا کریں۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اگر عامل زکوٰۃ وصول کرنے میں تم پر ظلم کریں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر چہ اعتقاد کے اعتبار سے ظالم جانو اگر حقیقتاً ظلم کریں تو پھر یہ بات آپ نے بطور مبالغہ کے فرمائی ہے کیونکہ ظالم کو کیسے راضی کیا جاسکتا ہے اور راضی کرو یعنی ان کو راضی کرنے میں خوب کوشش کرو۔ یہاں تک کہ ان کو زکوٰۃ واجب بغیر حیل و حجت اور خیانت کے دو۔ اگر چہ زکوٰۃ مال کے ادا کرنے سے ادا ہو جاتی ہے اور راضی کرنا اس کا کمال ہے اور زکوٰۃ لینے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے دعا کرے۔

زکوٰۃ لینے والوں کو ناراض نہ کرو اگر چہ وہ ظلم کریں

۱۲/۱۶۷۷ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ يَعْينِي مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيُظْلَمُونَ فَقَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ ظَلَمُونَا قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ وَإِنْ ظَلِمْتُمْ۔ (رواه ابو داود)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۶۸۵/۲ حدیث رقم (۲۹۰ - ۹۸۹)۔ و ابو داؤد فی السنن ۲۴۶/۲ حدیث رقم ۱۵۸۹۔

والنسائی ۳۱/۵ حدیث رقم ۲۴۶۰۔ واحمد فی المسند ۳۶۲/۴۔

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ غنواروں (دیہاتیوں) میں سے نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے لوگ زکوٰۃ لینے والوں میں سے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ لینے والوں کو راضی کر دو۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! اگر چہ وہ ہم پر ظلم کریں؟ آپ ﷺ

نے فرمایا اپنے زکوٰۃ لینے والوں کو راضی کرو اگرچہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔
 تشریح: خلاصۃ الحدیث یہ ہے کہ عالمین کو راضی کر کے بھیجو اور ان کو خوش کرو اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملو اور اگرچہ وہ تم پر ظلم بھی کریں تب بھی تم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔

مال زکوٰۃ سے چھپانا ممنوع ہے

۱۳/۱۶۷۸ وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ قُلْنَا إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَنْفُسَكُمْ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ قَالَ لَا (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۲۴۴/۲ حدیث رقم ۱۵۸۶۔

ترجمہ: بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ زکوٰۃ لینے والے ہم پر زیادتی کرتے ہیں۔ (یعنی واجب مقدار سے زیادہ وصول کرتے ہیں) کیا ہم اپنے مالوں کو ان سے چھپالیں جس قدر کہ وہ زیادتی کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔
 تشریح: حضور ﷺ نے ان کو مال چھپانے کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ حقیقت میں معاملہ ایسا نہ تھا وہ اپنے گمان کے مطابق زیادتی سمجھتے تھے حقیقت میں وہ زیادتی نہیں تھی۔

۱۳/۱۶۷۹ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْعَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ (رواه ابو داود والترمذی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۴۸/۳ حدیث رقم ۲۹۳۶۔ والترمذی ۳۷/۳ حدیث رقم ۶۴۵ وابن ماجہ ۵۷۸/۱ حدیث رقم ۱۸۰۹۔ واحمد فی المسند ۱۴۳/۴۔

ترجمہ: حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا عامل زکوٰۃ غازی کی طرح ہے وہ خدا کے راستے میں ہے یہاں تک کہ لوٹ کر اپنے گھر کی طرف آئے۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔
 تشریح: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے اس میں عامل زکوٰۃ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا غازی کی مانند ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اس کو بھی اس کے صدق و اخلاص کی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے جب تک وہ گھر واپس لوٹ کر نہ آجائے۔

عامل زکوٰۃ کے لیے نصیحت یا ہدایت

۱۵/۱۶۸۰ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ وَلَا تَوَخُّدُ صَدَقَاتِهِمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ۔ (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۲۵۰/۲ حدیث رقم ۱۵۹۱۔ واحمد فی المسند ۲۱۵/۲۔

ترجمہ: عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے۔ اس نے اپنے دادا سے نقل کیا ہے اس

نے نبی کریم ﷺ سے نقل کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عامل زکوٰۃ موسیٰ بن کو منگوائے اور نہ ہی موسیٰ بنوں والا مکانوں سے دور جا کر رہے اور وہ یعنی عامل موسیٰ بنوں کی زکوٰۃ مکانوں سے دور وصول نہ کرے۔

تشریح ✽ اس حدیث پاک میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کی تشریح اس طرح سے کی گئی ہے کہ جلب سے مراد یہ ہے کہ عامل زکوٰۃ دینے والوں کے مکان سے دور اترے اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے وہاں ہی جانور منگوائے یہ مالکوں کے لئے باعث مشقت اور تکلیف ہوگی۔ یہ ناجائز ہے اور جب یہ ہے کہ موسیٰ بن والا اپنے مکان سے دور جا کر رہے اور عامل تکلیف اٹھا کر وہاں جائے ان دونوں باتوں سے منع کیا گیا ہے اس لیے کہ پہلی صورت میں تکلیف زکوٰۃ دینے والے کو ہوتی ہے اور دوسری صورت میں زکوٰۃ لینے والے کو اس لئے جائز نہیں ہے آنے والا جملہ اسی کی تاکید ہے۔ الحاصل یہ کہ زکوٰۃ دینے والا بھی دور نہ جائے اور نہ ہی زکوٰۃ لینے والا دور اترے بلکہ زکوٰۃ دینے والوں کے قریب اترے اور ان کے گھروں میں جا کر باری باری زکوٰۃ لے لیا کرے۔

مال مستفاد کا حکم

۱۶/۱۶۸۱ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ۔ (روہ الترمذی و ذکر جماعة انهم وقفوه على ابن عمر)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۶/۳ حدیث رقم ۶۳۲۔

ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص مال حاصل کرے تو اس مال میں زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر ایک سال گزر جائے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے ایک جماعت کو ذکر کیا ہے کہ تحقیق انہوں نے اس حدیث کو ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف کیا ہے۔

تشریح ✽ اس حدیث میں مال مستفاد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ابن عمر کا قول ہے اور ابن ملک نے کہا ہے کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جس مال پر زکوٰۃ فرض ہو اور درمیان سال میں کچھ اور مال اس کے ہاتھ آجائے اور وہ اسی جنس کا ہو تو جب تک اس پر ایک سال نہ گزرے تو زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔

اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک سال گزرنا اصل مال پر ہے چاہے مال مستفاد پر سال گزرے یا نہ گزرے۔ مثلاً ایک شخص کے پاس اسی بکریاں تھیں ان پر چھ ماہ گزر گئے۔ پھر اکتالیس بکریاں وراثتاً اور کسی وجہ سے اس کے ہاتھ آئیں تو اکتالیس بکریوں پر زکوٰۃ امام شافعی رحمہ اللہ اور احمد کے نزدیک واجب نہیں ہے یہاں تک کہ تمام مال پر خرید کے وقت سے یا ارث کے وقت سے سال گزر جائے۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک کے نزدیک مال مستفاد یعنی جو کچھ پیچھے ہاتھ لگا اصل مال کے تابع ہے۔ پس اسی بکریوں پر ایک سال گزر جائے تو تمام بکریوں پر دو بکریاں واجب ہو گئی اس لیے کہ بکریوں کا نصاب ۴۰ ہیں یعنی اسی میں دو بکریاں واجب ہوں گی چالیس بکریوں میں ایک بکری دینی آتی ہے ایک سو بیس (۱۲۰) تک اور ایک سو اکیس ہوں تو دو بکریاں دینی آتی ہیں۔ تو جب اصل اور مستفاد ملا کر ایک سو اکیس بکریاں ہو گئیں تو پس ہمارے (احناف کے) نزدیک اس

حدیث کا معنی یہ ہے جو کوئی مال پائے یا ہلاک کرے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے جب تک سال پورا نہ ہو۔ پس مال سے مال مستفاد مراد نہیں ہے۔

مدت پوری ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جاسکتی ہے

۱۷/۱۶۸۲ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ۔ (رواہ ابو داؤد و الترمذی وابن ماجہ و الدارمی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۲۷۵/۲ حدیث رقم ۱۶۲۴۔ و الترمذی ۶۳/۳ حدیث رقم ۶۷۸۔ وابن ماجہ ۵۷۲/۱ حدیث رقم ۱۷۹۵۔ و الدارمی ۴۷۰/۱ حدیث رقم ۱۶۳۶ و احمد فی المسند ۱۰۴/۱۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں پوچھا۔ پس آپ ﷺ نے ان کو اجازت دے دی۔ اس کو ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ (رواہ ابو داؤد و الترمذی وابن ماجہ و الدارمی)

تشریح: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ احتاف کے نزدیک اور دیگر ائمہ کرام کے نزدیک سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جاسکتی ہے بشرطیکہ نصاب کی مقدار کا مالک ہو۔

یتیم کے مال کی حفاظتی تدبیر

۱۸/۱۶۸۳ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

(رواہ الترمذی وقال فی اسنادہ مقال لا ن المثنی ابن الصباح ضعیف)

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۲/۳ حدیث رقم ۶۴۱۔

ترجمہ: حضرت عمرو و شعیب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے اپنے باپ (یعنی شعیب سے) سے نقل کی اور انہوں نے اپنے دادا (یعنی عبداللہ) سے نقل کی کہ نبی کریم ﷺ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا خبردار جو شخص کسی یتیم کا والی ہو اور یتیم کے لیے بقدر نصاب مال ہو۔ پس چاہیے کہ وہ اس کے مال کی تجارت کرے اور اس کو بغیر تجارت کے نہ چھوڑے کہ کہیں اس کے مال کی زکوٰۃ دیتے دیتے مال ہی ختم نہ ہو جائے۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔

تشریح: لڑکے کے مال میں زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں ائمہ کرام نے اختلاف کیا ہے۔ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک نابالغ لڑکے کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ مکلف ہونے کا قلم تین شخصوں سے اٹھالیا گیا ہے سونے والے سے یہاں تک کہ جاگ جائے اور دوسرے نابالغ لڑکے سے۔ اور تیسرے دیوانے سے یہاں تک کہ چاق و چوبند ہو جائے۔ یہ حدیث ابو داؤد و نسائی اور حاکم نے روایت کی ہے اور حاکم نے اس حدیث کی تصحیح بھی کی ہے۔

الفصل الثالث:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا منکرین زکوٰۃ کے ساتھ لڑائی کرنے کا ارادہ

۱۹/۱۶۸۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تَوَفَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَا أَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ۔

(متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحيحه ۲۶۲۳۔ حدیث رقم ۱۳۹۹۔ وابوداؤد فی السنن ۱۹۸۳ حدیث رقم ۱۵۵۶۔ والنسائی ۵/۶ حدیث رقم ۳۰۹۱۔ واحمد فی المسند ۱۹/۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے اور کچھ لوگوں نے اہل عرب میں سے کفر اختیار کیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کافروں کے ساتھ لڑنے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا تم اہل ایمان سے کیسے لڑو گے حالانکہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑائی کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ یعنی اسلام لے آئیں پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اس نے مجھ سے اپنا مال اور جان بچالی۔ مگر اسلام کے حق کے ساتھ اور اس کا حساب اللہ پر ہے پس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم! میں لڑوں گا، اس شخص سے جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے جیسے نماز نفس کا حق ہے پس اللہ کی قسم اگر مجھ کو کبریٰ کا بچہ نہیں دینگے جو نبی کریم ﷺ کو ادا کیا کرتے تھے میں ان کے نہ دینے کی وجہ سے لڑائی کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل لڑائی کے لئے کھول دیا ہے۔ پس میں نے جانا کہ لڑنا برحق ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں منکرین زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ بلکہ حکم فرمایا کہ جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا۔ میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ قبیلہ غطفان اور بنی سلیم کے لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو کافر کہا یا تو اس لیے کہ انہوں نے وجوب زکوٰۃ کا انکار کیا۔ پس کفر سے مراد کفر حقیقی ہوگا۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کا وجوب قطعی ہے پس اس کا انکار کفر ہے یا اس لیے کافر کہا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ پس کفر کا اطلاق بطور تغلیظ اور تشدید کے ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ لڑنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی ظاہری صورت حال دیکھ کر تامل کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا آخر کار جب حقیقت حال معلوم ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ موافق ہو گئے اور حضرت ابو بکر

صدیق رضی اللہ عنہ کے حق پر ہونے کو تسلیم کر لیا اور فرمانے لگے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حق پر ہیں اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا مراد اس سے کلمہ توحید ہے اس بات پر اجماع موجود ہے کہ فقط لا الہ الا اللہ کہنا اسلام میں معتبر نہیں ہے۔ اسلام کے حق کے ساتھ اگر دیت کسی پر لازم ہوگی یا کسی پر کچھ آتا ہوگا تو اس سے مال لیا جائے گا اور اس کو قصاص وغیرہ میں قتل کریں گے اور اس کا حساب اللہ پر ہوگا۔ جو کوئی ظاہر الا الہ الا اللہ پڑھے اور اسلام کو ظاہر کرے تو ہم اس پر اسلام کا حکم لگائیں گے اور اس سے لڑنا بند کر دیں گے اور اس کے باطن کی تفتیش نہیں کریں گے کہ آیا وہ باطناً مخلص ہے یا نہیں۔ اس کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیں گے وہ اللہ خود سمجھ لے گا۔ اگر اس نے منافقوں کی طرح دل سے کلمہ نہ پڑھا ہوگا۔ منافقوں کی طرح اور نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا کہ نماز کے وجوب کا تو قائل ہو اور زکوٰۃ کے وجوب کا منکر ہو یعنی نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے۔ عناق بکوی کے ایسے بچے کو کہتے ہیں جو دس دن سے کم ہو یہ حق واجب کو طلب کرنے کے لیے ازراہ مبالغہ کے کہا ہے اس کی حقیقت مراد نہیں ہے اس لیے کہ بکری کا بچہ زکوٰۃ میں نہیں دیا جاتا اور نہ ہی بچوں میں زکوٰۃ ہے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک سال کے ہوں۔ اگر بچے بڑوں کے ساتھ ہو گئے تو زکوٰۃ دینی آئے گی بہر حال مسنہ ہی دینا چاہیے۔ ایسا ہی حال گاؤں اور اونٹوں کا ہے اور گائیں میں مسنہ دو برس کا ہوتا ہے اور اونٹ میں پانچ برس کا ہوتا ہے اور فرمایا۔ جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس سے کفر کی وجہ سے یا مرتد ہونے کی وجہ سے لڑائی کروں گا۔ اگر وجوب زکوٰۃ کے منکر نہ ہوں محض زکوٰۃ ادا نہ کر رہے ہوں تو شعار اسلام کی حفاظت کی خاطر اور فتنہ کو بند کرنے کے لیے میں ان سے لڑائی کروں گا۔

اور دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی منع کیا کہ عہد خلافت کی ابھی ابتداء ہے اور مخالفت بہت ہے مبادا کہ اسلام میں کہیں فتور نہ پڑ جائے اس لیے ابھی ٹھہر جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر سب لوگ ایک طرف ہوں اور میں تنہا ایک طرف ہو جاؤں تب بھی میں ان سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمال درجے کی شجاعت تھی۔

اگر جمع شدہ مال پر زکوٰۃ ادا نہ کی گئی تو وہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن جائے گا

۲۰/۱۶۸۵ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعُ يَفْرُ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أَصَابِعَهُ (رواه احمد)

اخرجه أحمد في المسند ۵۳۰/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ تم میں سے ایک آدمی کا گنج (خزانہ) قیامت کے دن گنجا سانپ بن جائے گا۔ اس کا مالک اسے اس سے بھاگے گا اور وہ (سانپ) اس کو ڈھونڈتا ہوگا۔ یہاں تک کہ اس کی انگلیوں کو لقمہ بنا لے گا۔ اس کو احمد نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ گنج سے مراد وہ مال ہے کہ جو جمع کر کے رکھا جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اور تمام قسم کے حرام مال بھی اسی کے حکم میں ہیں اور آخر کی عبارت کے معنوی طور پر دو احتمال ہیں ایک تو یہ ہے کہ سانپ مال کے مالک کی انگلیوں کو لقمہ بنا لے گا۔ اس لیے کہ وہ ہاتھ سے کما کر جمع کر کے رکھا کرتا تھا اور زکوٰۃ ادا نہ کرتا تھا اور اس

صورت میں لفظ اصابعہ ضمیر سے بدل ہوگا اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ مال کا مالک سانپ کے منہ میں اپنی انگلیاں دے گا۔ جیسے کہ سانپ سے شدید خوف کے وقت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سانپ کے منہ میں انگلیاں دے دیتے ہیں لیکن دوسرے معنی مراد لینے میں کلام ہے۔

۲۱/۱۶۸۶ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ شُجَاعًا ثُمَّ قَرَأَ مُصَدَّقُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الْآيَةَ - (رواه الترمذی والنسائی وابن ماجہ)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۱۶/۵ حدیث رقم ۳۰۱۲۔ والنسائی ۱۱/۵ حدیث رقم ۲۴۴۱۔ وابن ماجہ ۵۶۸/۱ حدیث رقم ۱۷۸۴۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی گردن میں سانپ لٹکائے گا۔ پھر کتاب اللہ سے اس کی مصداق آیت پڑھی کہ وہ لوگ گمان نہ کریں جو بخیلی کرتے ہیں، جن کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے آخر آیت تک۔ اس کو ترمذی نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کی تشریح پہلی روایات میں مفصلاً گزر چکی ہے۔

زکوٰۃ کے مال کو دوسرے مال کے ساتھ نہ ملاؤ

۲۲/۱۶۸۷ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالًا قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَكُمْ - (رواه الشافعی والبخاری فی تاریخہ والحمیدی وزاد قال یکون قد وجب عليك صدقة فلا تخرجها فیهلك الحرام الحلال وقد احتج به من یری تعلق الزکاة بالعين هکذا فی المنتقى وروی البيهقی فی شعب الایمان عن احمد بن حنبل باسناده الى عائشة وقال احمد فی خالطت تفسیره ان الرجل یاخذ الزکاة وهو مو سر او غنی وانما هی للفقراء۔)

اخرجه الشافعی فی مسنده ص ۹۹۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب زکوٰۃ کسی مال میں مل جاتی ہے تو وہ اس کو ہلاکت کر دیتی ہے یہ امام شافعی نے روایت کی ہے اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے اور حمیدی نے مزید کہا ہے کہ امام بخاری نے فرمایا کہ جب تجھ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور نہیں نکالتا اور زکوٰۃ مال کے ساتھ ملی رہے تو حرام مال حلال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ زکوٰۃ کا تعلق عین مال سے ہے انہوں نے اس حدیث کو مذکورہ تفسیر کے ساتھ اپنی دلیل بنایا ہے اسی طرح متقی میں ہے اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اپنی اسناد کے ساتھ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچی ہے اور امام احمد نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ ایک شخص زکوٰۃ وصول کرتا ہے اور وہ دولت مند غنی ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے اگر زکوٰۃ کے مال کے ساتھ دوسرا مال مل جائے تو وہ مال ہلاک ہوتا

ہے۔ یعنی دوسرا مال بھی ہلاک ہو جاتا ہے یعنی وہ مال ضائع ہو جاتا ہے یا اس میں نقصان آ جاتا ہے اور برکت جاتی رہتی ہے یا قابل انتفاع نہیں رہتا اس لیے کہ شرعاً حرام مال قابل نفع نہیں ہوتا۔ امام شافعیؒ اور امام محمدؒ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا تعلق عین مال کے ساتھ ہے ذمے نہیں ہے۔ یعنی جس مال کی زکوٰۃ دے تو اسی مال میں سے اس کی قیمت دینی جائز نہیں ہے پس انہوں نے یہ بات لفظ خاطط سے نکالی ہے اور امام اعظمؒ کے نزدیک زکوٰۃ دینے پر ہے اس کا تعلق عین مال کے ساتھ نہیں ہے اور یا غنی کا شک ہے لفظ موسر کہا یا غنی کہا اور جان لینا چاہے کہ حدیث کے معنی دو بیان ہوئے ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ نہ دے اور زکوٰۃ کو مال میں ملارہے دے۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ نصاب کا مالک ہو کر زکوٰۃ لے۔ تو دونوں صورتوں میں زکوٰۃ کا مال دوسرے مال کو ہلاک کر دیتا ہے اور استدلال مذکورہ پہلے ہی معنوں پر مبنی ہے۔ مذکورہ مسئلہ میں جو علماء نے اختلاف کیا ہے ملا علی قاریؒ اور حضرت شیخؒ نے خوب وضاحت سے لکھی ہیں۔ طوالت کے خوف سے اس کتاب میں درج نہیں ہیں۔ جو چاہے ان کی شروحات کا مطالعہ کر لے۔

بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

یہ باب وجوب زکوٰۃ کے بارے میں ہے

تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بارے میں چار پایوں میں یعنی اونٹ گائیں اور بکری اور دنبہ اور بھینس خواہ نر ہوں یا مادہ ہوں اور ان کے علاوہ جانوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے لیکن گھوڑے میں امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک زکوٰۃ ہے اور آئندہ اس کی تحقیق آ جائے گی۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بارے میں ائمہ کرام کا اتفاق ہے اور جو چیز تجارت کے لیے ہو اور اختلاف ہے ساگون اور سبزیوں اور پھلوں میں جو پک رہیں دیگر ائمہ کے نزدیک ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور کھجور اور کشمش میں زکوٰۃ واجب ہے جب کہ وہ پانچ وقت جو پہنچ جائیں اس سے کم میں نہیں اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک عشر یعنی دسواں حصہ واجب ہے ہر چیز میں سے جو زمین کی پیداوار سے ہو اور وقت کے معنی آئندہ حدیث کے فائدہ میں لکھیں گے اور زمین کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں جو عشر ہے ان میں سال گزرنے کی قید نہیں ہے جب پیداوار ہوگی تو دینا ہوگا اور اموال میں جب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جب مال نصاب کو پہنچ جائے گا اور اس پر ایک سال بھی گزر جائے گا۔ ما اخرجہ الارض ففیہ العشر

الفصل الاول:

مختلف نصابوں کی مقدار

۱/۱۶۸۸ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمُسَةٍ

أَوْسَىٰ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةً وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمُسٍ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمُسٍ دَوْدٌ
مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ. (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۲۳/۳۔ حدیث رقم ۱۴۵۹۔ ومسلم فی صحیحہ ۶۷۳/۲ حدیث رقم (۹۷۹/۱)۔
وابوداؤد فی السنن ۲۰۸/۳ حدیث رقم ۱۵۵۸ والترمذی ۲۲/۳ حدیث رقم ۶۲۶۔ والنسائی ۱۷/۵ حدیث رقم
۲۴۴۵۔ وابن ماجہ ۵۷۱/۱۔ حدیث رقم ۱۷۹۳۔ والدارمی ۴۶۹/۱ حدیث رقم ۱۶۳۳۔ ومالك فی الموطأ ۲۴۴/۱
حدیث رقم ۲ من کتاب الزکاة۔ واحمد فی المسند ۶۰/۳۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کھجوروں میں پانچ وسق سے کم میں زکوٰۃ
نہیں ہے اور چاندی کے پانچ اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور پانچ اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کو امام بخاری
اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں چاندی، کھجور اور اونٹوں کی زکوٰۃ کے بارے میں نصاب بیان کیا گیا ہے کھجوروں کے
بارے میں یہ نصاب بتایا گیا ہے کہ پانچ وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور ایک وسق بمطابق دہلی کے حساب سے ساٹھ (۶۰)
صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع آٹھ رطل کا اور رطل آدھ سیر کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے پانچ وسق تیس (۳۰) من کے ہوتے
ہیں۔ تیس (۳۰) من کھجوروں میں دسواں حصہ دینا ہوگا۔ یعنی تین من دینا واجب ہوتا ہے اور اگر اس سے اگر کم کھجوریں پیدا
ہوں۔ تو ان میں دسواں حصہ اس حدیث کی رو سے واجب نہیں ہے اور یہ مسلک امام شافعی اور صاحبین رحمہم علیہم کا ہے۔

امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اس میں کوئی اندازہ مقرر نہیں ہے جس قدر پیداوار ہو اس کا دسواں حصہ دے
مثلاً دس سیر ہو تو ایک سیر دے۔ اگر دس پیسہ بھر ہو تو ایک پیسہ بھر دے اور یہی حکم کھیتیوں اور غلوں کا یعنی گیہوں جو چنے اور سب
نباتات وغیرہ کا یہی حکم ہے۔

امام اعظم رحمہ اللہ نے اس حدیث میں یہ تاویل کی ہے کہ اس سے مراد مال تجارت کی زکوٰۃ ہے اس لیے کہ لوگ وسقوں کے
ساتھ خرید و فروخت کرتے تھے اور وسق کی قیمت چالیس (۴۰) درہم ہوتے تھے۔ لہذا پانچ وسق کی قیمت دو سو درہم ہوئے اور
اوقیہ جمع اوقیہ کی ہے اور اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے پانچ اوقیہ کے دو سو درہم ہوئے۔

یہ نصاب چاندی کی زکوٰۃ کے بارے میں ہے اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور جب اس قدر ہو تو پانچ درہم واجب
ہوتے ہیں اور سوائے درہم کے اور چاندی بغیر سکہ کے ہو۔ زیور وغیرہ کی قسم سے ہو۔ یا روپے کسی سکہ کے ہوں۔ تو اسی پر قیاس کر
کے زکوٰۃ دے۔ چاندی کی زکوٰۃ کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ ایک درہم تین ماشے اور ایک رتی اور رتی کا پانچواں حصہ ہو
تا ہے دو سو درہم میں چاندی ۶۳۰ ماشے ہوتی ہے اور ان پر زکوٰۃ پانچ درہم آتی ہے اور پانچ درہم میں چاندی پندرہ ماشے چھ
رتی ہے۔

نوٹ: مسئلہ مذکورہ میں اگرچہ کافی تفصیل مظاہر حق (قدیم) میں بیان کی گئی تھی لیکن چونکہ اب چاندی یا سونے کے سکہ
راج نہیں اس لئے ان کی تفصیل لکھنا ضروری معلوم نہیں ہوا۔ اگر پھر بھی ان سکوں کے متعلق کوئی تفصیل جاننے کا خواہش مند
ہو تو ہمارے ہی ادارے ”مکتبۃ العلم“ کی شائع کردہ ”بہشتی زیور مکمل و مدلل“ کا مطالعہ از حد مفید مطلب رہے گا۔

گھوڑے اور غلام کے بارے میں زکوٰۃ کے احکامات

۲/۱۶۸۹ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لَيْسَ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۲۷/۳ - حدیث رقم ۱۴۶۴ - و مسلم فی صحیحہ ۶۷۵/۲ حدیث رقم (۸-۹۸۲) - و ابو داؤد فی السنن ۲۵۱/۳ حدیث رقم ۱۵۹۵ - و الترمذی ۲۳/۳ حدیث رقم ۶۲۸ - و النسائی ۳۵۵ حدیث رقم ۲۴۶۷ - و ابن ماجہ ۵۷۹/۱ حدیث رقم ۱۸۱۲ - و الدارمی ۴۶۹/۱ حدیث رقم ۱۶۳۲ - و مالک فی الموطأ ۲۷۷/۱ حدیث رقم ۳۷ من کتاب الزکاة و احمد فی المسند ۲۴۲/۲ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مسلمان کے غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں اور نہ اس کے گھوڑے میں زکوٰۃ فرض ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کے غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے مگر صدقہ فطر اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ان کی زکوٰۃ کے بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ اور صاحبین رحمہم کا مذہب!

ان حضرات کا مسلک یہ ہے جو گھوڑے اور غلام تجارت کے لیے نہ ہوں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو گھوڑے اور گھوڑیاں سارا سال جنگل میں جا کر گزارا کرتی ہوں۔ ان کی فی راس جانور ایک دینار دیدے یا اس کی قیمت متعین کر کے دوسود رہوں میں سے پانچ درہم دے۔ فتاویٰ عالمگیری اور فتاویٰ قاضی خان اور درمختار میں لکھا ہے کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے کہ ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔

زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیل

۳/۱۶۹۰ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ قَرِيبَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطَهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بَنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بَنْتُ لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حَقَّتَانِ طَرُوقَتَانِ الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ

خَمْسِينَ حَقَّةً وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فِيهَا شَاةٌ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حَقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحَقَّةُ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتِيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَ تَالَهُ أَوْ عَشْرَيْنِ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحَقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عَشْرَيْنِ دِرْهَمًا أَوْ شَاتِيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بَنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بَنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطَى شَاتِيْنِ أَوْ عَشْرَيْنِ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بَنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حَقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحَقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عَشْرَيْنِ دِرْهَمًا أَوْ شَاتِيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بَنْتُ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بَنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بَنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطَى مَعَهَا عَشْرَيْنِ دِرْهَمًا أَوْ شَاتِيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بَنْتُ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بَنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عَشْرَيْنِ دِرْهَمًا أَوْ شَاتِيْنِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ بَنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَقَبْلُ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَلَا تَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلَا يَفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشْيَةِ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خِلَاطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا۔

اخرجه البخاری مقطوعاً فی ثمان امکنۃ فی الجزء الثالث فی الاماکن التالية۔ الحديث رقم ۱۴۵۴۔ الحديث رقم ۱۴۵۳۔

والحديث رقم ۱۴۴۸ والحديث رقم ۱۴۵۵ و ۱۴۵۰۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کو بحرین کی طرف بھیجا تو ایک حکم نامہ ان کے نام لکھا۔ بحرین ایک جگہ کا نام ہے جو بصرہ کے قریب ہے میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو رخصت اور رحیم ہے۔ یہ صدقہ فرض کا بیان ہے اس کو نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے اور اس صدقے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول ﷺ کو کیا ہے اور جس مسلمان سے قاعدہ کے مطابق زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے تو وہ ادا کرے اور جس سے زیادہ کا مطالبہ ہو وہ ادا نہ کرے اور زکوٰۃ چوبیس اونٹوں یا چوبیس سے کم اونٹوں میں بکریاں ہیں۔ اس طرح کہ ہر پانچ میں ایک بکری واجب ہے۔ جب ان کی تعداد پچیس سے پینتیس تک پہنچ جائے تو اس میں ایک بنت مخاض واجب ہوگی۔ جو ایک سال کی ہو اور جس وقت تعداد ۳۶ سے پینتالیس (۳۵) تک پہنچ جائے تو اس میں مادہ بنت لبون ہوگی۔ جس کی عمر دو سال ہوگی اور جس وقت ان کی تعداد چھپالیس (۳۶) سے ساٹھ (۶۰) تک پہنچ جائے۔ تو ان میں ایک حقہ یعنی تین برس کی اونٹنی ہے۔ اونٹ سے جختی کے قابل ہو۔ جس وقت اونٹوں کی تعداد اکٹھ سے پچھتر تک پہنچ جائے۔ تو ان میں ایک

جذع ہے جس کی عمر چار برس ہوتی ہے اور پانچویں برس میں لگی ہو اور جس وقت ان کی تعداد پچھتر (۷۶) سے نوے (۹۰) تک پہنچ جائے۔ ان میں دو بنت لبون ہیں دو برس کی۔ اور جس وقت ۹۱ سے ۲۰۱ تک پہنچ جائے۔ تو ان میں دو انثیاں دینی ہوگی جو تین برس کی ہوں اور اونٹ سے جفتی کے قابل ہوں اور جس وقت وہ ۱۲۰ سے زیادہ ہو جائیں۔ تو ہر چالیس (۴۰) میں دو برس کی اونٹنی ہے اور ہر پچاس (۵۰) اونٹوں میں تین سال کی اونٹنی دینی ہوگی۔ اور وہ شخص جس کے پاس صرف چار اونٹ ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے مگر اس کا مالک بطور نفل کے دے سکتا ہے پس جس وقت پانچ اونٹ ہوں تو ان میں ایک بکری ہے اور وہ آدمی جس کے پاس اونٹ ہیں اتنی مقدار میں کہ ان میں ایک اونٹنی چار برس کی دینی آتی ہے اور وہ پانچویں میں لگی ہو اور یہ اکٹھ سے پچھتر (۷۵) میں دینی آتی ہے اور اس کے پاس چار برس کی اونٹنی نہ ہو اور اس کے پاس صرف تین برس کی اونٹنی ہو۔ تو اس سے تین برس کی ہی قبول کر لی جائے اور زکوٰۃ دینے والا اس کے ساتھ دو بکریاں دے اگر اس کو میسر ہوں ورنہ ۲۰ درہم دے دے۔ اور جس شخص کے پاس اس قدر اونٹ ہوں کہ اس شخص پر تین برس کی اونٹنی واجب ہو یعنی چھیالیس (۴۶) سے ساٹھ تک میں دینی آتی ہو اور اس کے پاس تین برس کی اونٹنی کے علاوہ نہ ہو اور اس کے پاس چار برس کی اونٹنی ہو تو اس سے چار برس کی ہی قبول کر لی جائے اور زکوٰۃ لینے والا اس کو دو بکریاں یا بیس (۲۰) درہم دے۔ یعنی واپس کرے اور جس کے پاس اس قدر اونٹ ہوں کہ ان میں تین برس کی اونٹنی ہو اور اس کے پاس دو برس کی ہو۔ تو اس سے دو برس کی قبول کر لی جائے اور زکوٰۃ دینے والی دو بکریاں یا بیس (۲۰) درہم دے اور جس شخص کے پاس اس قدر اونٹ ہوں کہ ان میں دو برس کی اونٹنی واجب ہو چھتیس (۳۶) سے پینتالیس (۴۵) اور اس کے پاس تین برس کی اونٹنی میسر ہو تو اس سے تین برس کی قبول کر لی جائے اور زکوٰۃ دینے والا اس کو بیس درہم یا دو بکریاں دے اور جس شخص کے پاس اس قدر اونٹ ہوں کہ ان میں دو برس کی اونٹنی واجب ہے اور اس کے پاس ایک سال کی اونٹنی ہو تو اس سے ایک سال کی اونٹنی قبول کر لی جائے اور زکوٰۃ دینے والا اس کو بیس (۲۰) درہم یا دو بکریاں دے جس کے پاس اس قدر اونٹ ہوں کہ ان میں ایک برس کی اونٹنی واجب ہو جو پچیس (۲۵) سے پینتیس (۳۵) تک میں دینی آتی ہے اور اس کے پاس دو برس کے علاوہ نہیں ہے تو اس سے دو برس کی قبول کر لی جائے اور زکوٰۃ دینے والا اس کو بیس (۲۰) درہم یا دو بکریاں دے اور اگر اس کے پاس ایک برس کی اونٹنی دینے والا نہ ہو اور اس کے پاس دو برس کا اونٹ ہو پس اس کو قبول کر لیا جائے اور اس کے ساتھ کوئی چیز واجب نہیں ہے نہ لینی اور نہ دینی اور چرنے والی بکریوں کی زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ ان کی تعداد چالیس (۴۰) سے ۱۲۰ تک ہو۔ تو ایک بکری واجب ہوتی ہے اور جس وقت ۱۲۰ سے زیادہ ہو جائیں اور دو سو (۲۰۰) تک پہنچ جائیں۔ تو ان میں بکریاں دینی ہوں گی۔ اگر دو سو سے بڑھ کر تین سو (۳۰۰) تک ہو جائیں تو تین بکریاں دینی ہوں گی اور اگر تین سو (۳۰۰) سے بڑھ جائیں تو پھر سو (۱۰۰) میں ایک بکری دینی ہوگی اور جب چرنے والی بکریوں کی تعداد چالیس (۴۰) سے کم ہو۔ یعنی اگر ایک بھی کم ہو تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے مگر اس کا مالک بطور نفل دے اور زکوٰۃ میں نہ دے بڑھیا عمدہ اور نہ ہی عیب والی خواہ اونٹنی ہو یا بکری ہو یا گائے ہو اور نہ بھوک لے ہاں اگر زکوٰۃ لینے والا کسی مصلحت کی خاطر بھوک لے تو درست ہے اور نہ متفرق جانوروں کو جمع کیا جائے اور نہ اکٹھوں کو جدا کیا جائے زکوٰۃ کے خوف سے اور جس نصاب میں دو آدمی شریک ہوں پس وہ برابری میں ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کریں اور چاندی میں چالیسواں (۴۰) حصہ دینا فرض ہے اور اگر اس کے پاس ۱۹۰ درہم کے علاوہ نہیں ہے تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہوگی مگر اس کا مالک بطور نفل دے۔ اس

کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ✽ اس حدیث میں بتایا گیا ہے جو صدقات و زکوٰۃ کی زیادتی کا سوال کرے اس کو زیادہ نہ دو۔ اوپر والی حدیث میں گزرا ہے اپنے زکوٰۃ لینے والوں کو راضی کرو۔ اگرچہ تم پر ظلم کیا جائے۔ پس وہ حدیث میں جو زکوٰۃ لینے والے صحابہؓ تھے وہ ظلم کرنے والے نہ تھے اور ظلم کی نسبت زکوٰۃ دینے والوں کے گمان کی وجہ سے تھی۔ اگر اس حدیث سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ اور لوگ مراد لیے جائیں تو پھر کوئی منافات نہیں ہے قاضی نے کہا کہ یہ حدیث عدد مذکور سے تجاوز کرنے کے بعد استقرار اور حساب پر دلالت کرتی ہے۔ جب اونٹوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو از سر نو حساب شروع کیا جائے اور یہی مذہب ہے اہل علم کا۔ امام بخاریؒ اور ثوریؒ اور امام اعظم ابو حنیفہؒ نے از سر نو حساب شروع کیا پس جب ایک سو بیس (۱۲۰) سے زیادہ ہو جائیں تو دو حقے اور ایک بکری لازم ہوگی پھر ہر پانچ میں بکری چوبیس (۲۴) تک پھر پہلی ترتیب کے مطابق بنت مخاض وغیرہ ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ اونٹ جب زیادہ ہو جائیں ایک سو بیس (۱۲۰) پر تو زکوٰۃ از سر نو شروع کی جائے اور طرح حضرت علیؓ سے بھی منقول ہے اور اونٹوں میں مادہ واجب ہے یا اس کی قیمت بخلاف گائیں اور بکریوں کے اس میں نر اور مادہ برابر ہیں حدیث میں جو دینے کے قابل کہا ہے۔ اس میں تین احتمال ہیں۔ ابن الملک کے مطابق ایک احتمال یہ ہے کہ اس کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے ایک سال کی اونٹنی نہ ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ایک سال کی اونٹنی تو ہو لیکن وہ حد درجہ کمزور و بیمار ہو یعنی نہ ہونے کے برابر ہو اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ وہ اوسط درجے کی نہ ہو۔ بلکہ نہایت موٹی تھلی ہو۔ تو اس صورت میں اس سے ایک ابن لبون لے لیا جائے گا اور اس کے ساتھ کچھ جبر و نقصان کے لیے لینا دینا نہیں آئے گا۔

حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ چرنے والی ہوں یعنی زکوٰۃ ان جانوروں میں ہے جو اکثر برس یعنی آدھے سال سے زیادہ جنگل میں چر کر گزارہ کرتی ہوں اور اگر اکثر سال گھر سے کھلانا پڑے تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور جب بکریاں چالیس (۴۰) سے کم ہوں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور جب چالیس (۴۰) ہو جائیں تو ان میں ایک بکری واجب ہوتی ہے اور جب چالیس (۴۰) سے بڑھ کر ۱۲۰ تک ہو جائیں تو ایک ہی بکری واجب ہے اور آگے تین سو (۳۰۰) تک کا حال مفصلاً مذکور ہے اور جب تین سو (۳۰۰) سے زیادہ ہو جائیں یعنی چار سو (۴۰۰) ہو جائیں تو چار بکریاں دینی ہوگی۔ اکثر اہل علم کا یہی قول ہے۔ اور حسن بن صالح کا کہنا ہے اگر تین سو (۳۰۰) پر ایک بھی بڑھ گئی۔ تو چار بکریاں دینی آئیں گی اور عیب والی بھی نہ لے لے یہ ناممکن ہے کہ اس کا سارا مال بے عیب ہو۔ اگر سارا مال عیب دار ہوگا۔ تو اس کو چاہے کہ وہ اوسط درجے کی بکری لے۔ اور بوک نہ لے اور بوک لینے کو اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے مالک کو نقصان ہوتا ہے اور بوک بچے لینے کے لیے ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کا گوشت بدبودار ہوتا ہے۔

ولا یجمع بین متفرق۔

اس میں امام شافعیؒ اور امام اعظم ابو حنیفہؒ میں مالکوں کے بارے میں اختلاف ہے مذہب شافعیہ میں گلے پر زکوٰۃ ہوتی ہے اور مالکوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور مذہب احناف کے مطابق مالکوں کا اعتبار کیا جائے گا گلے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مثلاً ایک شخص کے پاس دو گلوں میں اسی (۸۰) بکریاں ہیں تو امام شافعیؒ کے مسلک کے مطابق تو دو بکریاں لی جائیں گی۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک گلے کا اعتبار ہے اور امام صاحب کے نزدیک ایک بکری دینی ہوگی۔ کیونکہ مالک ایک ہے۔

پس لا یجمع بین متفرق۔ امام شافعیؒ کے نزدیک یہ نبی مالک کے لیے ہے۔ مثلاً اگر چالیس (۴۰) بکریاں ایک شخص کی ہوں اور چالیس (۴۰) دوسرے کی۔ تو زکوٰۃ کو کم کرنے کے لیے نہ ملائے۔ یعنی اگر دو گلے چالیس (۴۰) چالیس (۴۰) کے ہونگے تو دو بکریاں آئیں گی اور اگر ملائے گا تو ایک بکری آئے گی۔ پس یہ کام نہ کرے اور بیس (۲۰) بکریوں کو جو دوسری بیس (۲۰) بکریوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوں زکوٰۃ کو ساقط کرنے کے لیے الگ الگ نہ کرے اور امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہ نبی ساعی کے لیے ہے یعنی زکوٰۃ لینے والے کے لیے کہ متفرق کو جمع نہ کرے۔ مثلاً دو شخصوں کے پاس نصاب سے کم بکریاں ہوں تو ان کو زکوٰۃ لینے کے لیے جمع نہ کرے۔ اور نہ ہی اکٹھی کو جدا کرے۔ مثلاً ایک شخص کے پاس اسی بکریاں ہیں چالیس (۴۰) ایک جگہ پر ہیں اور چالیس (۴۰) دوسری جگہ پر ہیں تو ان کو دو نصاب شمار نہ کرے کہ ان کو دو نصاب شمار کر کے دو بکریاں لے بلکہ ایک بکری لے اس لیے کہ ملک ایل ہے اور جو نصاب نہ ہو۔ وما کان من خلیطین۔ اس جملے کو مثال سے سمجھایا ہے کہ مثلاً دو آدمی دوسو (۲۰۰) بکریوں میں شریک ہیں ایک آدمی کی چالیس (۴۰) بکریاں ہیں اور دوسرے آدمی کی ۱۶۰ بکریاں ہیں تو پہلے پر بھی ایک بکری واجب ہوگی اور دوسرے پر بھی ایک بکری یہ نہیں ہوگا کہ پہلے پر ایک بکری کا اور دوسرے پر دو خمس واجب ہو۔ یعنی زکوٰۃ لینے والا ایک ایک بکری ہر شریک سے لے گا۔ پھر وہ آپس میں برابری کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کریں گے۔ یعنی چالیس (۴۰) بکریوں والا اپنی بکری کے تین خمس اپنے شریک سے وصول کرے جس کی ایک سو ساٹھ بکریاں ہیں پس چالیس (۴۰) والے پر اس کے حصے کے موافق دو خمس پڑیں گے اور باقی دوسرے پر اس کے حصے کے موافق پندرہ اجعان بَیْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ کے یہی معنی ہیں۔

عشر کے احکام

۴/۱۶۹۱ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَوْ كَانَ عَقْرًا الْعَشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نَصْفُ الْعَشْرِ۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۴۷/۳۔ حدیث رقم ۱۴۸۳۔ وابوداؤد فی السنن ۲۵۲/۳۔ حدیث رقم ۱۵۹۶۔
والترمذی ۳۱/۳ حدیث رقم ۶۳۹۔ والنسائی ۴۱/۵ حدیث رقم ۲۴۸۸۔ وابن ماجہ ۵۸۰/۱ حدیث رقم ۱۸۱۶۔
ومالک فی الموطأ ۲۷۰/۱ حدیث رقم ۳۳ من کتاب الزکاة۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس چیز کو آسمان نے یعنی بارش نے اور چشموں نے پانی پلا دیا ہو یا خود زمین تر و تازہ ہو تو دسواں حصہ واجب ہوتا ہے اور وہ زمین کہ جس کو تیل یا اونٹ کے ساتھ کنوئیں کے پانی سے پلایا گیا ہو تو اس میں بیسواں حصہ ہوگا۔ اس کو امام بخاریؒ نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں عشر کے احکام ذکر کیے گئے ہیں یعنی جس زمین کو بارش نالوں اور نہروں کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہو تو اس کی پیداوار زمین میں دسواں حصہ بطور زکوٰۃ دینا ہوگا اور عذری زمین اس کو کہتے ہیں جس کو عاثر کے ساتھ پانی دیا جائے عاثر گھرے کو کہتے ہیں جو زمین میں کھودا جاتا ہے اور تالاب کی طرح ہوتا ہے اور اس سے پانی کھیتوں کو پہنچایا جاتا

ہے اور بعض حضرات نے عشری کی تعریف اس طرح کی ہے کہ عشری کھتی کو کہتے ہیں جو پانی کے قریب رہنے کی وجہ سے تروتازہ رہتی ہے۔

رکاز کا حکم

۵/۱۶۹۲ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبُشْرُ جُبَارٌ وَالْمُعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۶۴۳۔ حدیث رقم ۱۴۹۹ و مسلم فی صحیحہ ۱۳۳۴/۳ حدیث رقم (۴۵۰-۱۷۱۰)۔
وابوداؤد فی السنن ۷۱۵/۴ حدیث رقم ۴۵۹۲۔ والترمذی ۳۴۱۳ حدیث رقم ۶۴۲۔ والنسائی ۴۴۱۵ حدیث رقم ۲۴۹۵ وابن ماجہ ۸۹۱/۲ حدیث رقم ۲۶۷۳۔ والدارمی ۴۸۳/۱ حدیث رقم ۱۱۶۸ و مالک فی الموطأ ۸۶۸/۲ حدیث رقم ۱۲ من کتاب العقول۔ واحمد فی المسند ۲۲۸/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جانور کا کسی کو زخمی کر دینا معاف ہے کنواں کھودتے وقت کوئی گر کر مر جائے تو وہ معاف ہے کان کھدواتے وقت اگر کوئی مر جائے تو وہ معاف ہے اور رکاز میں پانچواں حصہ ہوتا ہے اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے اگر جانور یعنی گھوڑا یا بیل وغیرہ اگر کسی کو زخمی کر دے یا کوئی چیز ضائع کر دے یا کسی کو مار ڈالے اس پر کوئی سوار نہ ہو۔ یا اس کو کوئی کھینچنے والا یا ہانکنے والا نہ ہو اور دن کا وقت ہو۔ اس کا کسی کو زخمی کر دینا اور تلف کر دینا معاف ہوگا۔ یعنی اس کے مالک پر کچھ ضمان نہیں آئے گا اگر اس جانور کے ساتھ کوئی ہانکنے والا یا کھینچنے والا موجود ہو یا سوار ہو اس صورت میں وہ کسی چیز کو تلف کر دے یا زخمی کر دے تو ضمان لازم ہوگا۔ اس لیے کہ اس میں اس کی تقصیر ہے۔ اسی طرح اگر جانور رات کو چھوٹ جائے اور کسی کو زخمی کر دے یا کسی چیز کو ضائع کر دے تو بھی بدلہ دینا ہوگا کیونکہ قصور مالک کا ہے۔ اس لیے اس کو تاوان دینا ہوگا۔ اس حدیث میں اگرچہ حکم عام ہے۔ لیکن یہ قیودات دوسری حدیثوں سے لی گئی ہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی مزدور کو کنواں کھودنے پر لگایا اور وہ کھودتے ہوئے گر کر مر گیا تو مالک پر کوئی ضمان نہیں آئے گا۔

اسی طرح اگر اس نے کنواں اپنی ملک میں کھودایا بنجر زمین میں جس کا مالک معلوم نہ ہوا اگر اس میں کوئی آدمی جانور گر کر مر جائے تو ضمان نہیں آئے گا۔

اگر اس نے راستہ میں کسی کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر کنواں کھودایا اور اس میں اگر کوئی گر کر مر گیا تو ضمان آئے گی۔ اسی طرح کا حکم اس پر بھی ہے جو سونا چاندی فیروزہ یا مٹی وغیرہ نکالنے کے لیے جگہ کھدوائے۔
عائق: آدمی اگر فوج میں ملازم ہو تو اس کے عائد فوج کے سب سپاہی ہیں اگر وہ فوج وغیرہ کا ملازم نہ ہو تو تمام قبیلے کے لوگ اس کے عائد ہیں۔

اور رکاز سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک کان ہے اور اہل حجاز کے نزدیک اہل جاہلیت کا دھینہ ہے اور پہلا معنی حدیث کے سیاق کے مطابق زیادہ مناسب ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ ﷺ سے رکاز کے بارے میں پوچھا گیا

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا سونا اور چاندی اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی تھی اس وقت سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جاننا چاہیے کہ کان میں جو چیزیں نکلتی ہیں وہ تین قسم کی ہیں:

① ایک تو جچی ہوئی ہوتی ہے جو پکھلنے اور منطبع ہونے کے لائق ہوتی ہے۔ یعنی جس پر سکے وغیرہ کا نقش ہو سکے جیسے سونا چاندی اور لوہا وغیرہ اور اس کے مانند چیزیں۔

② دوسری وہ چیزیں جو جچی ہوئی نہیں ہوتیں۔ جیسے پانی، تیل، رال، گندھک وغیرہ۔

③ تیسری وہ جو منطبع نہ ہو سکیں جیسے چونا اور ہڑتال اور پتھر یا قوت وغیرہ۔

ان میں صرف پہلی قسم میں خُس واجب ہے اور اس میں ایک سال کا گزرنا شرط نہیں ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک سونے چاندی میں خُس واجب ہے۔ دوسری چیزوں میں نہیں ہے یعنی معدنیات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

الفصل الثانی:

گھوڑوں اور غلاموں میں جب وہ تجارت کیلئے نہ ہوں زکوٰۃ واجب نہیں ہے

۶/۱۶۹۳ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَقَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خُمُسَةٌ دَرَاهِمٌ. رواه الترمذی و ابو داود وفي رواية لابی داود عن الحارث الا عور عن علی قال زهیر احسبه عن النبی ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ هَا تَوَارِيعُ الْعُسْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَمَّ مَا نَتَى دِرْهَمٌ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتِي دِرْهَمٍ فَفِيهَا خُمُسَةٌ دَرَاهِمٌ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ فَلثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةً فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ وَفِي الْأَرْبَعِينَ مِائَةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْغَوَامِلِ شَيْءٌ۔

اخرجه ابو داود فی السنن ۲۳۲/۲ حدیث رقم ۱۰۷۴۔ و الترمذی ۱۶/۳۔ حدیث رقم ۶۲۰۔ و النسائی ۳۷/۵ حدیث

رقم ۲۴۷۷۔ و ابن ماجہ ۵۷۰/۱۔ حدیث رقم ۱۷۹۰۔ و الدارمی ۴۶۷/۱۔ حدیث رقم ۱۶۲۹۔ و احمد فی المسند ۹۲/۱۔

و اخرجه ابو داود الروایة الثانية ۲۲۸/۲ حدیث رقم ۱۰۷۲۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو گھوڑے اور غلام تجارت کے لئے نہ ہوں، ان سے زکوٰۃ معاف کر دی ہے جو اور گھوڑوں کے بارے میں اوپر اختلاف بیان ہو چکا ہے اور چاندی کے ہر چالیس درہم میں زکوٰۃ ادا کرو۔ جب وہ مقدار نصاب کو پہنچ جائیں۔ اس کا نصاب دو سو (۲۰۰) درہم ہیں اور ایک سونوے (۱۹۰) میں زکوٰۃ نہیں ہے یعنی دو سو (۲۰۰) سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور جب نصاب دو سو درہم کو پہنچ جائے تو ان میں پانچ درہم

دینے ہو گئے۔ اس کو ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ایک روایت ابو داؤد شریف میں حارث اعمور سے ہے جو حضرت علیؓ سے منقول ہے کہ زہیر نے کہا اس کے راوی میرے گمان کے مطابق حارث ہیں حارث نے کہا کہ حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ہر سال چالیس حصے دو۔ ہر چالیس (۴۰) درہم میں سے ایک درہم اور اس وقت تک تم پر کوئی چیز نہیں ہے جب تک درہموں کی تعداد دو سو (۲۰۰) درہم نہ ہو جائے۔ جب ان کی تعداد دو سو (۲۰۰) درہموں تک پہنچ جائے تو ان میں پانچ درہم زکوٰۃ واجب ہوگی اور بکریوں میں ہر چالیس (۴۰) بکریوں میں ایک بکری ہے ایک سوئیں تک جب ان پر ایک بھی زیادہ ہو جائے پس دو بکریاں دینی ہوں گی۔ دو سو (۲۰۰) تک اور جس وقت دو سو (۲۰۰) پر ایک بھی زیادہ ہو جائے۔ تو پھر تین بکریاں دینی ہوں گی تین سو (۳۰۰) تک جب تین سو (۳۰۰) سے زیادہ ہو جائیں چار سو (۴۰۰) تک تو پھر ہر سو میں ایک بکری دینی ہوگی۔ اگر بکریاں انتالیس (۳۹) ہوں تو ان پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ اور تیس گائے (۳۰) میں ایک سال کا ایک بیل دینا ہوگا اور چالیس (۴۰) گائے میں دو سال کی گائے دینی ہوگی اور کام کرنے والے بیل وغیرہ جس سے کھیتی باڑی کرتے ہوں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہیں۔

تشریح ﴿صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ جب درہموں کی تعداد دو سو (۲۰۰) درہم سے زیادہ ہو جائے تو اس کا حساب کر کے چالیسواں (۴۰) حصہ زکوٰۃ کا دینا چاہیے اور امام اعظمؒ کے نزدیک جس وقت دو سو (۲۰۰) درہموں سے تعداد بڑھ جائے اور چالیس (۴۰) تک ہو جائیں تو ان میں زکوٰۃ واجب ہے اگر ان کی تعداد چالیس (۴۰) درہم تک نہ پہنچے تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے صرف دو سو (۲۰۰) درہم ہی میں زکوٰۃ دے انہوں نے اس حدیث کو محمول کیا ہے اس پر کہ مراد زیادہ ہونے سے دو سو (۲۰۰) درہم پر زیادہ ہونا چالیس (۴۰) درہموں کا زیادہ ہونا ہے تاکہ سب حدیثوں میں تطبیق ہو جائے۔

ایک سال کے بیل کے بارے میں جو آیا ہے اس میں زراور مادہ برابر ہیں چاہے بیل دے چاہے گائے جیسا کہ آنے والی روایت میں آیا ہے اور ابن حجر نے کہا ہے اگر بیل یا گائے چالیس (۴۰) سے زیادہ ہوں تو ان میں کچھ بھی دینا نہیں آئے گا یہاں تک کہ ساٹھ ہوں۔ یعنی جب ساٹھ ہو گئے تو دو بیع ایک ایک سال کے بیل یا گائیں دینے لازم آئیں گے۔ پھر ہر چالیس (۴۰) میں ایک منہ یعنی گائیں یا بیل دو دو سال کے اور ہر تیس میں ایک تمبیعہ دینا آئے گا۔ مثلاً ستر (۷۰) ہو گئے تو ایک منہ اور ایک تمبیعہ اور جب اسی (۸۰) ہوں تو دو منہ جب نوے ہوں تو تین بیع۔ جب سو ہوں تو دو بیع اور ایک منہ دے۔ اس طرح ہر تیس میں ایک تمبیعہ اور ہر چالیس میں ایک منہ دیا کرے انتہی۔ اگر چالیس (۴۰) سے زیادہ ہوں تو ان میں کچھ دینا نہیں آتا۔ یہ صاحبین کا مذہب ہے اور امام اعظمؒ کے نزدیک جتنی چالیس (۴۰) سے زیادہ ہوگی ساٹھ تک ان کا بھی حساب کر کے زکوٰۃ دی جائے گی۔ جب ساٹھ (۶۰) ہوگی تو دو بیع دیئے یا باقی بدستور باقی رہے گا۔ پس چالیس ہر ایک پر ایک زیادہ ہوگی تو چالیسواں حصہ منہ کا دیں گے۔ یا تیسواں حصہ تمبیعہ کا یعنی ان کی قیمت کا چالیسواں یا تیسواں حصہ دیں گے۔ اسی طرح دوسری زیادتی کو سمجھ لیجئے ہمارے مذہب میں معتبر روایت صاحب ہدایہ اور تابعین سے یہی ہے اور جھینس کی زکوٰۃ گائے کی طرح ہے اور بھیڑ دنبہ کی زکوٰۃ بکری کی زکوٰۃ کی طرح ہے اور کام کرنے والے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے یعنی جو جانور کام میں آئیں مثلاً بیل بل چلانے یا کنویں سے پانی نکالنے یا لادنے کے کام آتا ہے۔ اگرچہ یہ کام کرنے والے نصاب کو پہنچ جائیں۔ ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے ایسے ہی حکم اونٹ وغیرہ کا ہے اور تینوں اماموں کا یہی مذہب ہے۔ لیکن امام مالکؒ کے نزدیک ان میں بھی زکوٰۃ ہے۔

امیر کا عامل زکوٰۃ کو ہدایات دینا

۸/۱۶۹۳ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ

ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً (رواه ابو داود والترمذی والنسائی والدارمی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۲۲۶/۲ حدیث رقم ۱۵۷۸۔ والترمذی ۲۰/۳ حدیث رقم ۶۲۳۔ والنسائی ۲۶/۵ حدیث رقم ۴۵۰۔ وابن ماجہ ۵۷۶/۱ حدیث رقم ۱۸۰۳۔ والدارمی ۴۶۵/۱ حدیث رقم ۱۶۲۴۔

ترجمہ: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جب ان کو یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا تو ان کو حکم کیا کہ ہر تیس (۳۰) گایوں میں سے ایک سال کا تیل یا ایک سال کی گائے بطور زکوٰۃ لیں اور ہر چالیس گایوں میں سے ایک دو سال کی گائے یا دو سال کا تیل لیں۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کی تفصیل پہلی حدیثوں میں گزر چکی ہے۔

باقی اس حدیث میں نبی کریم ﷺ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف عامل بنا کر بھیج رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں کہ اتنی مقدار میں زکوٰۃ وصول کرنی ہے۔ جس کی تفصیل اوپر ذکر کر دی گئی ہے۔ واللہ اعلم۔

زکوٰۃ میں واجب مقدار وصول کرنی چاہیے

۸/۱۶۹۵ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَا نِعَهَا۔

(رواه ابو داود والترمذی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۲۴۳/۲ حدیث رقم ۱۵۸۵۔ والترمذی فی السنن ۳۸/۳ حدیث رقم ۶۴۶۔ وابن ماجہ ۵۷۸/۱ حدیث رقم ۱۸۰۸۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ لینے میں زیادتی کرنے والا یعنی جو مقدار واجب سے زیادہ وصول کرے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کی طرح ہے یعنی جیسے زکوٰۃ نہ دینے والا گناہ گار ہوتا ہے ایسے ہی مقدار واجب سے زیادہ لینے والا بھی گناہ گار ہے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کی ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عامل زکوٰۃ کو چاہیے مقدار واجب وصول کرے۔ زیادہ وصول نہ کرے اگر زیادہ وصول کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جیسے زکوٰۃ نہ دینے والا گناہ گار ہوتا ہے۔

۹/۱۶۹۶ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي حَبٍ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ

حَتَّى يَبْلُغَ خُمُسَهُ أَوْ سَقَى۔ (رواه النسائی)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۶۷۴/۲ حدیث رقم ۹۷۹/۵۔ والنسائی فی السنن ۴۰/۴ حدیث رقم ۲۴۸۵۔ واحمد فی المسند ۵۰۲/۳۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: غلہ اور کھجور میں زکوٰۃ نہیں ہے جب تک وہ پانچ وقت کو نہ پہنچ جائیں۔ اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث کا خلاصہ بھی اس باب کی پہلی حدیث میں بیان ہو چکا ہے۔ مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔

زمینی پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہے

۱۰/۱۶۹۷ وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرِ مُرْسَلٌ - (رواه في شرح السنة)

اخرجه احمد في المسند ۲۲۸/۵ - والدارقطني في السنن ۹۶/۲ حديث رقم ۸۔

ترجمہ: حضرت موسیٰ بن طلحہؒ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس حضرت معاذ بن جبلؓ کا خط ہے جو انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے یہ کہ معاذؓ نے کہا ہے۔ آپ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ گیہوں (یعنی گندم) جو اور انگور اور کھجور میں سے زکوٰۃ لیں۔ یہ حدیث مرسل ہے اس کو شرح السنہ میں روایت کیا گیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمینی پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہے اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ صرف ان چاروں چیزوں میں ہی زکوٰۃ واجب ہے بلکہ امام شافعیؒ کے نزدیک ہر اس چیز میں زکوٰۃ واجب ہے جو زمین سے پیدا ہو اور وہ قوت ہو اور ہمارے نزدیک قوت کا ہونا ضروری نہیں ہے ان چار چیزوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ چار چیزیں وہاں کثرت سے ہوتی تھیں۔

انگوروں کی زکوٰۃ کا بیان

۱۱/۱۶۹۸ وَعَنْ عَتَابِ بْنِ أُسَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ أَنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تَوَدَّى زَكَاةُ زَيْبٍ كَمَا تَوَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا - (رواه الترمذی وابو داود)

اخرجه ابو داود في السنن ۲۵۷/۲ - والترمذی في السنن ۳۶/۳ حديث رقم ۶۴۴ - والنسائی في السنن ۱۰۹/۵ حديث رقم ۲۶۱۸ - وابن ماجه ۵۸۲/۱ حديث رقم ۱۸۱۹۔

ترجمہ: حضرت عتاب بن اسیدؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انگوروں کی زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا: انگوروں کا اندازہ کیا جائے گا جیسا کہ کھجوروں کا اندازہ کیا جاتا ہے پھر ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے اس حال میں کہ انگور خشک ہوں جیسے کہ کھجوروں کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اس حال میں کہ کھجوریں خشک ہوں۔ یہ ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کی ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں انگور اور کھجور کی زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جب انگور اور کھجوریں پیدا ہوں اور ان میں مٹھاس پیدا ہو جائے تو ایک ماہر شخص اندازہ کرے کہ جب یہ خشک ہو جائیں تو کتنی مقدار میں ہوں گی۔ جب خشک ہو جائیں تو دسواں حصہ دیں۔ امام صاحب کے نزدیک جس قدر بھی ہوں ان کا دسواں حصہ دے اور صاحبین اور شوافع کے نزدیک اگر وہ نصاب کو پہنچ جائیں یعنی پانچ وسق کو پہنچ جائیں تو دسواں حصہ دے۔

کھجور اور انگور کا اندازہ لگا کر زکوٰۃ دینا جائز ہے

۱۲/۱۶۹۹ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَصْتُمْ

فَخُذُوا وَذَعُوا الْفُلْتَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الْفُلْتَ فَذَعُوا الرُّبْعَ۔ (روہ الترمذی و ابوداؤد والنسائی)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۲۵۸/۲ حدیث رقم ۱۶۰۵۔ و الترمذی ۳۵۱۳ حدیث رقم ۶۴۳۔ و النسائی ۴۲/۵ حدیث

رقم ۲۴۹۱۔ و الدارمی ۳۵۱/۲ حدیث رقم ۳۶۱۹ و احمد فی المسند ۴۴۸/۳۔

ترجمہ: حضرت سہل بن ابی حمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فرماتے تھے جس وقت کھجور اور انگور کا اندازہ کرو تو فخذوا و ذعوا الفلّ فان لم تدعوا الفلّ فذعوا الربع۔ (روہ الترمذی و ابوداؤد والنسائی نے روایت کی ہے۔)

تشریح: اس حدیث پاک میں زکوٰۃ لینے والوں کو خطاب ہے جب زکوٰۃ کی مقدار معین کرلو۔ تو اس میں دو تہائی لے لو اور باقی مالک کے لئے چھوڑ دو۔ یہ بطور احسان کرنا ہے تاکہ وہ ہمسایوں اور راغبیوں کو کھلا سکے۔ یہ امام شافعی کا قدیم قول ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک کا بھی یہی مسلک ہے اور امام شافعی کا جدید قول یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا جائے اور حدیث کی تاویل کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ﷺ نے یہ یہودیوں کے بارے میں فرمایا تھا۔ آپ ﷺ نے ان کے ساتھ مساقات کی تھی اس بات پر کہ آدھی کھجوریں وہ لیں اور آدھی آپ ﷺ کے لیے چھوڑیں۔ چنانچہ آپ نے اندازہ کرنے والے کو حکم دے رکھا تھا کہ تقسیم سے پہلے کھجور کی ایک تہائی یا ایک چوتھائی یہودیوں کو بطور احسان دے اور باقی تقسیم کر دے آدھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیدے اور آدھی ان کو۔

حدیث پاک سے کھجوروں کے اندازہ کرنے کا ثبوت

۱۳/۱۷۰۰ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودَ

فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ تَطْيُبُ قَبْلَ أَنْ يُكَلَّ مِنْهُ۔ (رواہ ابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۲۶۰/۲ حدیث رقم ۱۶۰۶۔ و ابن ماجہ ۵۸۲/۱ حدیث رقم ۱۸۲۰۔ و مالک فی الموطأ

۷۰۳/۲ حدیث رقم ۱ من کتاب المساقاة و احمد فی المسند ۲۴/۲۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ عبد اللہ بن رواحہ کو خیبر کے یہودیوں کی طرف بھیجتے پس وہ کھجوروں میں منھاس پیدا ہونے اور کھانے کے لائق ہونے سے قبل سے پہلے کھجوروں کا اندازہ کرتے تھے۔ اس کو ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ (رواہ ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث میں بھی کھجوروں کی زکوٰۃ نکالتے وقت اندازہ کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ ﷺ عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو خیبر کی طرف بھیجتے تھے اور وہ کھجوروں کا اندازہ کرتے تھے۔ اس کی تفصیل پہلی حدیثوں میں ذکر ہو چکی ہے۔

شہد کی زکوٰۃ مختلف فیہ مسئلہ ہے

۱۳/۱۷۰۱ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزْقِي زَقِي

(رواہ الترمذی وقال فی اسنادہ مقال ولا یصح عن النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فی هذا الباب کثیر شیء)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۴۱۳ حدیث رقم ۶۲۹۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے شہد کی زکوٰۃ کے بارے میں بیان فرمایا کہ شہد کی دس (۱۰)

مٹکوں میں سے ایک مٹک بطور زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ اس کی اسناد میں کلام ہے

اور آپ ﷺ سے اس باب کے بارے میں زیادہ روایات نہیں ملتیں اور نہ ہی وہ درست ہیں۔

تشریح: اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک شہد میں زکوٰۃ نہیں ہے اور امام اعظم ابو

حنیفہؒ کے نزدیک اس میں دسواں حصہ دینا ہوگا۔ بشرطیکہ وہ شہد عشری زمین سے حاصل ہو اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے جو

آپ ﷺ نے بیان فرمائی ہے۔

ما اخرجته الارض فعلیہ العشر۔ اور جو شہد پہاڑوں میں ہو امام صاحب کے نزدیک اس میں بھی عشر ہے۔

عورتوں کو زیورات سے زکوٰۃ نکالنے کا حکم

۱۵/۱۷۰۲ وَعَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ

النِّسَاءِ قَصِّدْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواہ الترمذی)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۲۸۳۔ حدیث رقم ۱۴۶۶۔ والترمذی فی السنن ۲۸۱۳ حدیث رقم ۶۳۵۔ والنسائی

۹۲/۵ حدیث رقم ۲۵۸۳۔ والدارمی ۴۷۷/۱ حدیث رقم ۱۶۵۴۔ واخرجه احمد المسند ۵۰۲/۳۔

ترجمہ: حضرت زینب جو عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا

اے عورتو! مال کی زکوٰۃ نکالو اگرچہ وہ اپنے زیورات سے ہو۔ اس لیے کہ قیامت کے دن تم میں سے اکثر دوزخ میں جاؤ گی۔

اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔

تشریح: آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں دنیا کی محبت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی کیونکہ یہ دنیا ترک زکوٰۃ کا

باعث ہے عورتوں کے زیورات کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک مطلق زیورات میں

زکوٰۃ ہے اور امام شافعیؒ کا قدیم قول بھی یہی ہے امام مالکؒ اور احمدؒ کا کہنا ہے کہ جو زیورات جس کا استعمال مباح ہے اس میں زکوٰۃ

نہیں ہے جن زیورات کا استعمال کرنا حرام ہے۔ ان ائمہ کرام کے نزدیک ان کی بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور امام شافعیؒ کا جدید

قول بھی یہی ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہؒ کی دلیل یہ حدیث بھی ہے اس کے علاوہ دوسری احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ مباح اور غیر مباح زیورات

کے بارے میں تفصیل کتب شافعیہ میں موجود ہے۔ جو چاہے وہاں سے دیکھ لے۔

زیورات میں زکوٰۃ دینے کا حکم

۱۶/۷۰۳ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَمْرَاتَيْنِ اتَّارَسُوهُنَّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا تَوَدَّيَانِ زَكَاتَهُ قَالَتَا لَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَتَا لَا قَالَ فَأَدِيَا زَكَاتَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَى الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَ هَذَا وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهْيَعَةَ يَضَعِفَانِ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ۔

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۲۱۲/۲ حدیث رقم ۱۵۶۳۔ والترمذی ۲۹/۳ حدیث رقم ۶۳۷ والنسائی فی السنن ۳۸/۵ حدیث رقم ۲۴۷۹۔ واخرجه احمد فی المسند ۱۷۸/۲۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے نقل کی کہ نبی کریم ﷺ کے پاس دو عورتیں آئیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے دو کڑے تھے حضور ﷺ نے ان دونوں کو کہا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ دونوں نے کہا نہیں۔ نبی کریم ﷺ نے ان دونوں کو کہا۔ کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے دو کڑے پہنائے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا ان کی (یعنی سونے کی) زکوٰۃ دو۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث ثنی بن صباح کی روایت ہے۔ جو انہوں نے عمرو بن شعیب سے اس طرح روایت کی ہے اور ثنی بن صباح اور لہیعہ وہ بھی اس حدیث کا راوی ہے حدیث کی روایات میں یہ دونوں ضعیف شمار ہوتے ہیں اور نبی کریم ﷺ سے اس کے بارے میں درست روایات مروی نہیں ہیں۔

تشریح: یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس پر کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے اور بہت سی حدیثیں اس بارے میں صحت کو پہنچی ہیں۔ چنانچہ مرقات میں مذکور ہیں جو چاہے وہاں سے دیکھ لے۔

سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ دینے کی تاکید

۱۷/۷۰۴ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْ ضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُنْزُ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ أَنْ تَوَدِّيَ زَكَاتَهُ فَرُجْتَنِي فَلَيْسَ بِكُنْزٍ (رواه مالك وابو داود)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۲۱۲/۲ حدیث رقم ۱۵۶۴۔ ومالك فی الموطأ ۲۴۸/۱ حدیث رقم ۸ من كتاب الزكاة۔ والدارقطنی ۱۰۵/۲ حدیث رقم ۱ من باب من ادی زکاتہ فلیس بکنز۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں سونے کی ایک وضع پہنتی تھی۔ جو ایک زیور کا نام ہے۔ پس میں نے کہا اے اللہ کے رسول! کیا یہ خزانہ ہے؟ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو اس مقدار کو پہنچے کہ اس میں زکوٰۃ دی گئی ہو۔ یعنی حد نصاب کو پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو پس وہ کنج (خزانہ) نہیں ہے اس کو امام ابو داؤد اور امام مالک نے روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اشکال پیدا ہوا کہ کہیں وضع بھی خزانے میں نہ آجائے کیونکہ کلام اللہ میں مال جمع کرنے پر شدید وعید آئی ہے: ﴿هُوَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَشْرَهُمْ بَعْدَ الْيَوْمِ﴾ [التوبة: ۳۴] تو انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ بھی اس میں داخل ہو جائے۔ آپ ﷺ نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا جب مال حد نصاب کو پہنچ جائے اور اس میں زکوٰۃ دے دی گئی ہو۔ تو اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس مال کے جمع کرنے پر وعید آئی ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اور وہ بغیر زکوٰۃ کے جمع کرتا رہے۔

سامان تجارت میں زکوٰۃ کا حکم

۱۸/۱۷۰۵ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعْدُ لِلْبَيْعِ - (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۲۱۱/۲ حدیث رقم ۱۵۶۲۔

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ ہمیں حکم کیا کرتے تھے کہ ہم اس چیز کی زکوٰۃ نکالیں جس کو ہم نے بیچنے کا ارادہ کیا ہو۔ یعنی (مال تجارت) وغیرہ۔ اس کو ابو داود نے روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سامان تجارت کی زکوٰۃ دیا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ برتنوں میں زکوٰۃ نہیں ہے مگر جو تجارت کے لیے ہوں ان میں زکوٰۃ دینی لازم ہوگی۔

کانوں کی پیداوار پر نصاب

۱۹/۱۷۰۶ وَعَنْ رِبْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ لَيْلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَزْنِيِّ مَعَادِنَ الْقَلْبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ تَأْخِيَةِ الْفُرْعِ فَلَكَ الْمَعَادِنُ لَا تَوْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ -

اخرجه ابو داود فی السنن ۴۴۳/۳ حدیث رقم ۳۰۶۱۔

ترجمہ: حضرت ربیعہ بن ابی عبد الرحمنؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت بلال بن حارث مزنیؓ کو قلبیہ کی کانیں بطور جاگیر دے دی تھیں اور یہ قلبیہ فرع کی جانب ہے پس ان کانوں سے زکوٰۃ کے علاوہ آج تک کچھ نہیں لیا جاتا۔ اس کو ابو داود نے روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے قلبیہ کی کانیں حضرت بلال بن حارث مزنیؓ کو بطور جاگیر کے عطا کر دیں تھیں کہ ان سے جو نکلے اپنی معاشی ضروریات پوری کریں اور قلبیہ قبل کی طرف منسوب ہے قبل ایک جگہ کا نام ہے جو فرع کے مقامات میں سے ہے اور فرع بھی ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے ان کانوں سے زکوٰۃ کا چالیسواں حصہ وصول کیا جاتا ہے یعنی خمس نہیں لیا جاتا جیسا کہ کانوں کا حکم ہے اور ایک قول کے مطابق یہ مذہب امام مالکؒ اور امام شافعیؒ کا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک اور امام شافعیؒ کے ایک قول کے مطابق کانوں میں خمس ہے اور

تیسرا قول امام شافعی کا یہ ہے کہ:

اگر اس کو محنت و مشقت کرنی پڑے تو چالیسواں حصہ دے ورنہ خمس دے خفی حضرات اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے اس طرح حکم صادر فرمایا ہو۔ یہ بطور اجتہاد کے حاکموں کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم دلیل پکڑتے ہیں کتاب اللہ سنت صحیحہ اور قیاس سے۔ جو تفصیل کا طالب ہو چاہیے کہ وہ مرقات کا مطالعہ کرے۔

الفصل الثالث:

عاریت کی چیزوں اور سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے

۲۰/۱۷۰۷ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي الْخَضِرِ أَوَاتٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خَمْسِيَّةٍ أَوْ سُنِّي صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ قَالَ الصَّفَرُ الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَالْبَعَالُ وَالْعَيْدُ - (رواهما الدارقطني)

اخرجه الدارقطني في السنن ۹۴/۲ حديث رقم ۱ من باب ليس في الخضراوات صدقة۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ترکاریوں (سبزیوں) میں اور عاریت کے درختوں میں زکوٰۃ نہیں ہے اور پانچ وقت سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور کام کرنے والے جانوروں میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے اور جہہ میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ صقراوی نے کہا ہے کہ جہہ سے مراد گھوڑا، اونٹ اور غلام مراد ہے اس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ترکاریوں کی زکوٰۃ کا بیان باب کے شروع میں ہو چکا ہے اور عاریت کی جمع ہے اور عریۃ کھجور کے ان درختوں کو کہتے ہیں جن کو مالک ضرورت مندوں کو عاریتاً دے دیتا ہے اور اس کی تمام سال کھجوریں اس کی ملکیت میں کر دیتا ہے پس ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ زکوٰۃ کے وجوب سے پہلے ہی مالک کی ملکیت سے نکل جاتی ہیں اور اس جملہ کے بعد جو چیزیں مذکور ہیں ان کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔

زکوٰۃ کے بارے میں قص کا حکم

۲۱/۱۷۰۸ وَعَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَيْبَى بَوْلَقِ الْبَقَرِ فَقَالَ لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ -

(رواه الدارقطني والشافعي وقال القوص ما لم يبلغ الفريضة)

اخرجه الدارقطني في السنن ۹۹/۲ حديث رقم ۲۱ من باب ليس في الخضراوات صدقة۔

ترجمہ: حضرت طاووسؓ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس قص گاؤں لائی گئیں تاکہ آپ ان کی زکوٰۃ وصول کر لیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے اس کے بارے میں کسی چیز کا یعنی ان میں زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم نہیں دیا۔ روایت کیا ہے اس کو دارقطنی نے اور شافعی نے فرمایا کہ قص وہ جانور ہے جو فرض نصاب کو نہ پہنچے یعنی نہ پہلے نصاب کو اور نہ ہی دوسرے نصاب کو۔

تشریح: علامہ طبری کہتے ہیں کہ قص قاف کے کسرہ کے ساتھ ہے یہ وہ جانور ہیں جو فرض نصاب کو نہ پہنچے ہوں۔ نہ

ابتداءً نہ درمیان میں یعنی دو فریضوں کے درمیان ابتداء کی مثال یہ ہے کہ گائیں تیس (۳۰) سے کم ہوں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے اور دو فریضوں کی مثال یہ ہے کہ تیس (۳۰) گائیں بیل پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور جب تیس (۳۰) سے بڑھ کر چالیس تک نہ پہنچیں تو ان کی درمیانی تعداد کو بھی قص کہتے ہیں۔ تو قص میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ جب چالیس (۴۰) ہو جائیں تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اگر چالیس (۴۰) سے بڑھ کر ساٹھ (۶۰) ہو جائیں تب بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ان کی درمیانی مقدار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

اسی طرح ساٹھ (۶۰) سے بڑھ جائیں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب پورے ستر (۷۰) ہو جائیں۔ تو ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح ہر دس کے بعد حکم بدل جاتا ہے اسی طرح دو درمیانی عشروں کی تعداد کو قص کہتے ہیں ان کے درمیان جتنے بیل گائیں ہوں ان کو قص کہتے ہیں اور مراد اس سے قسم اول ہے یعنی تیس (۳۰) سے کم۔ اس لیے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس جو نصاب لایا گیا تھا وہی تھا۔ واللہ اعلم۔

صاحبین کے نزدیک دو فریضوں کے درمیان زکوٰۃ دینی مطلقاً واجب نہیں ہے اور امام صاحب کے نزدیک چالیس (۴۰) سے ساٹھ تک کے مابین زکوٰۃ لازم ہے اور باقی میں نہیں اس کی تحقیق دوسری فصل کی پہلی حدیث میں گزر چکی ہے اور میرک نے کہا ہے کہ اس کی اسناد منقطع ہے اس لیے کہ طاؤس کی معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

یہ باب صدقۃ الفطر کے بیان میں ہے

الفصل الاول:

صدقۃ فطر کے احکام

۱/۱۷۰۹ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۶۷/۳۔ حدیث رقم ۱۵۰۳۔ و مسلم فی صحیحہ ۶۷۷/۲ حدیث رقم (۱۲۔ ۹۸۴)۔ و ابوداؤد فی السنن ۲۶۳/۲۔ حدیث رقم ۱۶۱۲۔ و الترمذی ۶۱/۳ حدیث رقم ۶۷۶۔ و النسائی ۴۸/۵ حدیث رقم ۲۵۰۴۔ و ابن ماجہ ۵۸۴/۱ حدیث رقم ۱۸۲۶۔ و الدارمی ۴۸۰/۱ حدیث رقم ۱۶۶۱۔ و مالک فی الموطأ ۲۸۴/۱۔

حدیث رقم ۵۲ من کتاب الزکاة۔ و احمد فی المسند ۱۰۲/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ کھجور کے ایک صاع سے فرض کی۔ یا جو کے ایک صاع سے غلام پر اور آزاد مرد و عورت پر اور چھوٹے اور بڑے پر۔ اس حال میں کہ وہ مسلمان ہوں اور عید الفطر کے صدقہ کا حکم فرمایا کہ لوگوں کے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے دیا جائے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے

تشریح ﴿﴾ امام شافعیؒ کے نزدیک عید الفطر کا صدقہ فرض ہے اور امام احمدؒ کے نزدیک اور امام مالکؒ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے اور امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک واجب ہے۔ پس اس حدیث میں جو لفظ فرض آیا ہے امام شافعیؒ اور احمدؒ اس کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں اور امام مالکؒ اس کا معنی مقرر کرنے کا لیتے ہیں اور حنفی کہتے ہیں اس کا ثبوت دلیل قطعی سے نہیں ہے پس یہ فرض علی الکفایہ ہے اعتقادی نہیں ہے یعنی نہ واجب نہ فرض اور امام شافعیؒ کے نزدیک صدقہ فطر اس پر فرض ہے جو ایک دن کا کھانا رکھتا ہے اپنا اور ان لوگوں کا جن کا نفقہ اس کے اوپر فرض ہے اور صدقہ فطر کی بقدر زیادہ بھی رکھتا ہے اگر زائد ہوگا تو تب ہی صدقہ فطر دے سکے گا۔ امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک غنی ہونا ضروری ہے ضروریات اصلیہ کے علاوہ اور ساڑھے باون تولہ چاندی کے بقدر اسباب کا مالک ہو اور صدقہ فطر عید کے دن طلوع فجر کے وقت واجب ہو جاتا ہے۔ جو شخص طلوع فجر سے پہلے فوت ہو جائے یا طلوع فجر کے بعد اسلام لے آئے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے اور صاع کی مقدار تقریباً چار سیر غلہ ہوتا ہے اگر خدمت کے لیے غلام رکھتا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے اور تجارت کے غلام کے لیے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے اور بھگڑے غلام کا بھی فطرانہ واجب نہیں ہے اگر واپس آجائے تو پھر دینا واجب ہے اگر چھوٹا بچہ مال نہ رکھتا ہو تو اس کی طرف سے باپ پر صدقہ فطر واجب ہے۔

اگر بیٹا مالدار ہو تو باپ پر اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے بلکہ اس کے مال میں سے دے اور بڑا بیٹا دیوانہ ہے تو لڑکے کی طرح ہے اور اسی طرح ہوشیار کا فطرانہ باپ کی طرح ازراہ احسان ہے اور اسی طرح بیوی کا فطرانہ خاوند پر واجب نہیں ہے مگر ازراہ احسان کے دیگا تو ادا ہو جائے گا۔ علامہ طیبیؒ نے کہا کہ لفظ من المسلمین لفظ عید اور اس کے مابعد کے لفظوں سے حال ہے۔ مسلمان پر کافر غلام کا فطرانہ واجب نہیں ہوگا اور صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ اس کا بھی واجب ہوتا ہے اور ایک حدیث بھی روایت کی ہے جو چاہے ہدایہ یا مرقعات میں دیکھ لے اور عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا مستحب ہے۔ اگر اس سے پہلے دے دے تو بھی درست ہے اور تاخیر سے ساقط نہیں ہوتا۔ ملتقی الابحر۔

کون کونسی چیزیں بطور فطرانہ کے دے سکتے ہیں؟

۲/۱۷۱۰ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نَخْرُجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۷۱/۳۔ حدیث رقم ۱۰۰۶۔ ومسلم فی صحیحہ ۶۷۸/۲ حدیث رقم (۹۸۵/۱۷)۔
وابوداؤد فی السنن ۲۶۶/۲ حدیث رقم ۱۶۱۴۔ والترمذی فی السنن ۵۹/۳ حدیث رقم ۶۷۳۔ والنسائی ۵۱/۵ حدیث رقم ۲۵۱۲۔ وابن ماجہ ۵۸۵/۱ حدیث رقم ۱۸۲۹۔ والدارمی ۴۸۱/۱ حدیث رقم ۱۶۶۴۔ ومالک فی الموطأ ۲۸۴/۱ حدیث رقم ۵۳ من کتاب الزکاة۔

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ہم صدقہ فطر ایک صاع کھانے سے یا ایک صاع جو سے یا ایک صاع کھجور سے یا ایک صاع قروط سے یا ایک صاع خشک انگور سے نکالا کرتے تھے۔ یہ امام بخاری اور مسلمؒ نے روایت کی ہے۔

تشریح ﴿ علامہ طیبیؒ نے کہا ہے کہ طعام سے مراد گیہوں ہے اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ طعام سے مراد غلہ ہے سوائے گندم کے پس اس میں عطف الخاص علی العام ہے اور قروط اس کو کہتے ہیں کہ دہی کو کپڑے میں باندھ کر لٹکا دیتے ہیں اور اس سے پانی ٹپک ٹپک کر مثل بنیر کے رہ جاتا ہے اور خشک انگور امام صاحب کے نزدیک گندم کی طرح ہیں یعنی آدھا صاع دینا چاہیے اور صاحبین کے نزدیک جو کی طرح ہیں ایک صاع دینا چاہیے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے حسن رحمہ اللہ سے یہی روایت کی ہے۔ ملتقى الابحر۔

الفصل الثانی:

صدقہ فطر کھجور جو گندم وغیرہ سے دیں

۳/۱۷۱۱ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّدَقَةُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرًا أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ذَكَرَ أَوْ أَنْفَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ . (رواه ابو داود والنسائی)

اخرجه ابو داود فی السنن ۲۶۲۲/۲ حدیث رقم ۱۶۲۲۔ والنسائی ۵۰۱۵ حدیث رقم ۲۵۰۸۔
ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رمضان کے آخر میں روزے کی زکوٰۃ نکالو۔ یعنی فطرانہ دو۔ نبی کریم ﷺ نے یہ صدقہ ایک صاع کھجور سے یا جو سے یا آدھا صاع گندم سے ہر آزاد مرد و عورت پر غلام ہو یا لونڈی چھوٹا ہو یا بڑا پر واجب کیا ہے۔ یہ ابو داود اور نسائی نے روایت کی ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک کا خلاصہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ صدقہ فطر کو روزے کی زکوٰۃ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے مفصل احکامات وجوب اور عدم وجوب کے بہت روایات میں گزر چکے ہیں۔ امام اعظم رحمہ اللہ اس حدیث کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ گیہوں آدھا صاع دینے چاہئیں۔

صدقہ فطر کے فوائد

۳/۱۷۱۲ وَغَنَهُ قَالَ قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ . (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۲۶۲۲/۲ حدیث رقم ۱۶۰۹۔ وابن ماجہ ۵۸۵۱/۱ حدیث رقم ۱۸۲۷۔
ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے (زکوٰۃ فطر) یعنی صدقہ فطر کو بیہودہ اور برے کلمات سے روزے کو پاک کرنے کے لئے اور مسکینوں کو کھلانے کے لئے لازم قرار دیا ہے۔ اس کو ابو داود نے روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ صدقہ فطر اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ گناہوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے جو روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے اور غلط پڑ جاتا ہے اس سے وہ غلط جاتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ قبولیت کے

لائق ہو جاتا ہے اور یہ اس لیے واجب ہوا ہے کہ مسکین کھا کر بے پرواہ ہوں جائیں۔ یعنی سوال کرنے سے باز آجائیں۔ دارقطنی نے ایک بات اور مزید بیان کی ہے کہ جو شخص فطرانہ نماز سے پہلے ادا کرے۔ پس وہ صدقہ مقبول ہو جاتا ہے اور جو شخص نماز کے بعد اس کو ادا کرے تو وہ صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔

الفصل الثالث:

صدقہ فطر کی وجوبیت کا مسئلہ

۵/۱۷۱۳ عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادٍ يَأْخُذُ بِمِخْطَمٍ أَوْ سِوَاهُ أَوْ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ - (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۶۰/۱۳ حدیث رقم ۶۷۴۔ والدارقطنی فی السنن ۱۴/۱۲ حدیث رقم ۱۴ من باب زکاة الفطر۔
ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے نقل کی کہ نبی کریم ﷺ نے مکہ کے کوچوں (گلیوں) میں ڈھنڈوریا (آواز لگانے والے) کو بھیجا تا کہ وہ کہے خبردار صدقہ فطر ہر مسلمان مرد ہو یا عورت آزاد ہو یا غلام چھوٹا ہو یا بڑا پر واجب ہے۔ گندم یا اس کے علاوہ مثلاً کشمش کے دو مد یا ایک صاع کھانے سے ہو۔

تشریح: اس حدیث پاک میں صدقہ فطر کی مقدار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ صدقہ فطر دو مد ہونے چاہئیں یعنی آدھا صاع۔ ایک صاع ساڑھے تین سیر کا ہوتا ہے لہذا نصف صاع پونے دو سیر ہوا پس گندم پونے دو سیر دے اور آٹا اور ستوبھی گندم کی مثل ہے اس میں بھی پونے دو سیر دے۔

صدقہ فطر گھر کے تمام افراد کی طرف سے دینا ہوگا، چھوٹے بڑے کی قید نہیں

۶/۱۷۱۳ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ النَّاسِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَمَّا غَنِيكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَعْطَاهُ - (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۲۷۰/۲ حدیث رقم ۱۶۱۹۔
ترجمہ: عبد اللہ بن ثعلبہ یا ثعلبہ بن عبد اللہ بن ابی صعب نے اپنے باپ سے نقل کی کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک صاع برے (یعنی گندم سے) یا کنج سے یعنی دونوں سے آدھا صاع یعنی ہر ایک کی طرف سے آدھا صاع دو۔ خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ آزاد ہوں یا غلام مرد ہوں یا عورت رہا تمہارا غنی تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرتا ہے اور بہر کیف تمہارا فقیر تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیتا ہے اس چیز سے کہ جو اس نے صدقہ کے طور پر دی۔

تشریح: مشکوٰۃ کے نسخوں میں راوی کا نام کچھ اس طرح سے لکھا ہے اور بہتر یہ ہے کہ یوں لکھے عبد اللہ بن ثعلبہ بن

صیر ابی صیر عن ابیہ اور ثعلبہ صحابی ہیں۔ حدیث کے آخری جملہ کے معنی یہ ہے کہ غنی بھی فطرانہ ادا کرے اور فقیر بھی فطرانہ ادا کرے۔ غنی کا مال پاک ہو جائے گا اور فقیر کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا کہ اس نے دیا ہے اور یہ بات غنی کے لیے بھی ہوتی ہے لیکن فقیر کی تخصیص اس کو شوق اور رغبت دلانے کے لیے ہے تاکہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب پیدا ہو جائے۔

بَابُ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے کہ اس کے لیے زکوٰۃ کا مال حلال نہیں ہے۔ یعنی کس کو زکوٰۃ لینی اور کھانی چاہیے اور کس کے لیے درست ہے اور کس کے لیے درست نہیں ہے۔

۱) مسائل زکوٰۃ

آدمی زکوٰۃ اپنی اصل کو نہ دے یعنی ماں اور باپ دادا اور دادی نانا اور نانی اسی طرح ان کے اوپر کے بزرگ۔ خواہ وہ ماں کی طرف سے ہوں یا باپ کی طرف سے۔ ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ کا مال دینا درست نہیں ہے۔

۲) اور اپنی فروغ کو بھی زکوٰۃ ادا نہ کرے:

یعنی بیٹا اور بیٹی۔ پوتا اور پوتی اور پروتا اور پرتی اور نواسا اور نواسی اور نہ ہی ان کی اولاد کو دے اور میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہ دے اور نہ بیوی اپنے میاں کو زکوٰۃ دے۔ امام اعظمؒ کے نزدیک اور صاحبینؒ کے نزدیک اگر بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے تو جائز ہے اور باقی رشتے داروں کو زکوٰۃ دینی درست ہے بشرطیکہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ یعنی غنی، سید ہاشمی اور کافر نہ ہوں بلکہ بہتر ہے کہ زکوٰۃ کا مال نسبت غیروں کے اپنے مستحق رشتہ داروں کو دیں۔

۳) اپنے رشتے داروں کو دینے کی ترتیب:

اس کی بہتر ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے بہن بھائی کو دے۔ پھر ان کے بعد ان کی اولاد کو پھر چچا اور پھوپھی کو۔ پھر ان کی اولاد کو پھر ماموں خالہ کو۔ پھر ان کی اولاد کو پھر جو خونی رشتہ ہو۔ پھر ہمسائے کو جو اجنبی ہو۔ پھر اپنے ہم پیشہ کو اور پھر ہم وطنوں کو اور اسی طرح صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا حکم ہے کہ ترتیب مذکورہ سے دینا افضل ہے اگر اجنبی کو دے تو تب بھی درست ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے رشتے داروں کو دے۔

۴) اپنی لونڈی اور غلام کو زکوٰۃ دینی درست نہیں ہے:

اور یہ ان ہی کے حکم میں ہے اور ام ولد۔ یعنی جس سے اولاد پیدا ہوئی ہے مالک کا اس کو بھی زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔

۵) جو رشتے سسرال کی طرف سے ہوں ان کو زکوٰۃ دینا درست ہے:

اسی طرح ساس، سسر، سالہ سالی اور جوان کے رشتے دار ہوں اور اسی طرح سے داماد بہو کو زکوٰۃ دینا درست ہے اور اسی طرح سوتیلی دادی کو بھی زکوٰۃ دینا درست ہے۔

﴿۶﴾ زکوٰۃ کا مال غیر کو دینا درست نہیں ہے :

جو بقدر نصاب مال کا مالک ہو۔ خواہ مال نامی ہو یا غیر نامی۔ نامی مال اُسے کہتے ہیں جو مال تجارت سے بڑھتا ہو اور نقدی روپیہ پیسہ وغیرہ سونا چاندی اور سونا چاندی کا زیور یہ شارع کے حکم مطابق بڑھوتری کا حکم رکھتے ہیں اور تجارت کے لیے مولیٰ ہوں یا نسل کو بڑھانے کے لیے یہ تمام حقیقہ مال نامی ہے۔

اور غیر نامی وہ مال ہوتا ہے جو بڑھتا نہ ہو۔ جیسے حویلی اور کپڑا اور برتن وغیرہ اگر یہ چیزیں ضرورتِ اصلیہ سے زائد ہوں اور نصاب کی بقدر ہوں اور فرض سے فارغ ہوں تو بھی زکوٰۃ لینی جائز نہیں ہے اور رہنے کے لیے حویلی ہو اور پہننے کے لیے کپڑے ہوں اور پکانے کے برتن ہوں اور پڑھنے کے لیے کتابیں ہوں اور سپاہی کے ہتھیار ہوں اور کاریگروں کے اوزار ہوں یہ سب حوائجِ اصلیہ میں شمار ہوتے ہیں۔

﴿۷﴾ ہاشمی کو زکوٰۃ دینا درست نہیں اور ہاشمی یا بیچ شخصوں کی اولاد ہے :

﴿۱﴾ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد۔ ﴿۲﴾ دوسری حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد۔ ﴿۳﴾ تیسری عقیل کی اولاد۔ ﴿۴﴾ اور چوتھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد۔ ﴿۵﴾ اور پانچویں حارث بن عبد المطلب کی اولاد ان حضرات کے غلاموں اور لونڈیوں کو بھی زکوٰۃ دینی درست نہیں ہے جب ان کے غلام اور لونڈیاں آزاد ہو جائیں تو پھر بھی ان کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔

﴿۸﴾ کافر کو بھی زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے خواہ وہ حربی ہو یا ذمی۔

﴿۹﴾ اگر غلطی سے کسی ہاشمی یا غنی کو یا کافر کو زکوٰۃ دے دی یا اپنے باپ کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنی بیوی کو زکوٰۃ دیدی پھر بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی تو یہ صورت حال ہے تو زکوٰۃ مالک کے ذمہ سے ادا ہوگئی۔

﴿۱۰﴾ زکوٰۃ کا مال مسجد کو دینا یا کفن میت کے لیے یا میت کا قرض اتارنے کے لیے دینا جائز نہیں ہے۔

مستحقین زکوٰۃ:

زکوٰۃ کے مستحق فقیر ہیں اور فقیر کی حد یہ ہے کہ وہ نصاب سے کم مال کا مالک ہو اور زکوٰۃ کا مستحق مسکین بھی ہے اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور زکوٰۃ کا مستحق وہ بھی ہے کہ وہ حاکم کی طرف سے زکوٰۃ لینے پر عامل ہو۔ اگرچہ وہ خود غنی ہو اور ہاشمی کو زکوٰۃ کے مال کا پیسہ لینا درست نہیں ہے اور زکوٰۃ کے مستحق وہ بھی ہیں جو جہاد کے لیے یا حج کے لیے جائیں اور ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہوں اگرچہ اس کے پاس حضرت میں مال موجود ہے۔ اسی طرح کسی مسافر کو بھی زکوٰۃ دینی درست ہے اگرچہ اس کے پاس وطن میں مال ہو اور جس شخص کے پاس ایک دن کی خوراک ہو اس کے لیے سوال کرنا درست نہیں ہے۔

الفصل الاول:

بنو ہاشم کے لیے صدقہ کھانے کی ممانعت

۱/۱۷۱۵ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمَرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونُ

مِنَ الصَّدَقَةِ لَا كُنْتَهَا۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۹۳۴/۴۔ حدیث رقم ۲۰۵۰۔ ومسلم فی صحیحہ ۷۵۲/۲ حدیث رقم ۱۶۴۔

(۱۰۷۱)۔ وابوداؤد فی السنن ۳۰۰/۲ حدیث رقم ۱۶۵۲۔ واحمد فی المسند ۲۹۱/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا گزر کعبہ کے پاس سے ہوا جو راستے میں پڑا ہوا تھا پس فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا یہ زکوٰۃ کی کعبہ ہے تو میں اس کو (اللہ کی نعمت کی تعظیم کی خاطر) کھا لیتا۔

اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے حضور ﷺ کے لیے زکوٰۃ کا مال کھانا حرام تھا اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ ﷺ کو مطلقاً کھانا حرام تھا خواہ واجب ہو یا نفل اور بنو ہاشم کو صدقہ واجب کھانا حرام ہے نفلی نہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ راستے میں گری ہوئی چیز کا کھانا جائز ہے جبکہ وہ چیز تھوڑی ہو اور اس بات کا یقین ہو کہ اس کا مالک اس کو تلاش نہیں کرے گا اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشتبہات جس میں حرمت کا شبہ ہو سے بچنا چاہیے۔

آپ ﷺ کا صدقہ کھانے سے اجتناب کرنا

۲/۱۷۱۶ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَخْ كَخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتُ أَنَا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۵۴/۳۔ حدیث رقم ۱۴۹۱۔ ومسلم فی صحیحہ ۷۵۱/۲ حدیث رقم (۱۶۱۱-۱۰۶۹)۔

والدارمی فی السنن ۴۵۲/۱ حدیث رقم ۱۵۹۱۔ واحمد فی المسند ۲۰۰/۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کی کعبہ میں سے ایک کعبہ اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دور کرو دور کر یعنی نکال دو۔ یعنی اس کو پھینک دو۔ پھر فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ ہم بنو ہاشم صدقہ نہیں کھاتے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ✽ اَمَا شَعَرْتُ کالفاظ ایک واضح امر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ مخاطب اس کو نہ جانتا ہو۔ یعنی اتنی واضح بات کا تمہیں علم نہیں ہے باوجود اس کے ظاہر ہونے کے اور حضرت امام حسنؓ کو کم سنی کے باوجود اس طرح خطاب کیا۔ تاکہ لوگ اس کا حکم سن لیں اور باخبر ہو جائیں اور اس سے معلوم ہوا کہ باپ کے لیے ضروری ہے اپنی اولاد کو خلاف شرع باتوں سے منع کرے اس لئے ہمارے علماء نے فرمایا ہے ماں باپ کے لیے حرام ہے کہ اپنے لڑکے کو ریشم اور سونے چاندی کا زیور پہنائیں۔

نبی کریم ﷺ اور آل محمد ﷺ کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے

۳/۱۷۱۷ وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ

إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ۔ (روہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۷۵۳/۲ حدیث رقم (۱۶۷-۱۰۷۲)۔ والنسائی فی السنن ۱۰۵/۵ حدیث رقم ۲۶۰۹۔
واحمد فی المسند ۱۶۶/۴۔

ترجمہ: حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ آدمیوں کی میل ہے اور محمد ﷺ کے لیے اور محمد ﷺ کی اولاد کے لیے یعنی بنی ہاشم کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں زکوٰۃ کی وضاحت کرتے ہوئے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ صدقات و زکوٰۃ انسانوں کے میل پکیل ہوتے ہیں جس طرح میل کے اتارنے سے انسان کا بدن صاف ہو جاتا ہے ویسے ہی زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال اور جانیں پاک ہو جاتی ہیں اور اس میں دلیل موجود ہے کہ آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کی اولاد کو زکوٰۃ کا مالی لینا حرام تھا۔ خواہ وہ زکوٰۃ کے عامل ہوں یا محتاج ہوں۔ ہمارے مذہب میں یہی روایت صحیح ہے اور اسی پر ہمارا عمل ہے۔

آپ ﷺ صدقہ نہیں کھاتے تھے ہدیہ کھالیا کرتے تھے

۴/۱۷۱۸ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهْدِيَتْهُ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لَا صُحَابِهِ كُلُّوْا وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۰۳/۵۔ حدیث رقم ۲۵۷۶۔ ومسلم فی صحیحہ ۷۵۶/۲ حدیث رقم (۱۷۵-۱۰۷۷)۔
والترمذی فی السنن ۴۵/۳ حدیث رقم ۶۵۶۔ والنسائی ۱۰۷/۵ حدیث رقم ۲۶۱۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس جب کھانا لایا جاتا۔ تو آپ اس کے بارے میں پوچھتے کہ آیا یہ ہدیہ ہے یعنی تحفہ ہے یا صدقہ؟ اگر کہا جاتا ہے کہ صدقہ ہے تو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرماتے کہ کھاؤ اور آپ ﷺ خود نہ کھاتے اور اگر کہا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو دراز کرتے یعنی اپنا ہاتھ بڑھاتے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ کھاتے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جو بطور شفقت و مہربانی کے فقیروں کو دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آخرت کے ثواب کا بھی ارادہ کیا جاتا ہے صدقہ میں لینے والے کو ایک قسم کی ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ اس لیے حضور ﷺ پر حرام تھا اور ہدیہ تعظیم و تکریم کے لئے دوسرے شخص کو دیا جاتا ہے۔ ہدیے اور صدقے میں ایک واضح فرق یہ بھی ہے کہ ہدیے کا اکثر طور پر بدل ہدیہ بھی دیا جاتا ہے اور صدقے کا بدلہ بالکل نہیں دیا جاتا ہے اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔

حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں احکام

۵/۱۷۱۹ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سَنٍ إِحْدَى السَّنِ أَنَّهَا عَقَّتْ فَنَحَرَتْ فِي رَوْحِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَالْبُرْمَةُ تَفُورٌ يَلْحَمُ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَذَمٌ مِنْ أَدَمَ النَّبِيِّ فَقَالَ أَلَمْ أَرِ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةٍ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ (متفق علیہ)

اعرجہ البخاری فی صحیحہ ۴۰۴/۹۔ حدیث رقم ۵۲۷۹۔ و مسلم فی صحیحہ ۱۱۴۴/۲ حدیث رقم (۱۴)۔ (۱۵۰۴)۔ والنسائی فی السنن ۱۰۷/۵ حدیث رقم ۲۶۱۴۔ وابن ماجہ ۶۷۱/۱ حدیث رقم ۲۰۷۶۔ والدارمی ۲۲۲/۲ حدیث رقم ۲۲۸۹۔ ومالك فی الموطأ ۵۶۲/۲ حدیث رقم ۲۵ من کتاب الطلاق۔ واحمد فی المستند ۲۸۱/۱۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت بریرہ کے لیے تین احکام ہیں۔ ایک حکم یہ ہے کہ جب وہ آزاد ہوئیں تو ان کو اپنے خاوند کے ساتھ نکاح کو برقرار رکھنے کا اختیار دیا گیا اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا آزادی کا حق اس شخص کے لیے جس نے آزاد کیا اور آپ ﷺ گھر تشریف لائے۔ ہانڈی گوشت کے پکنے کے ساتھ جوش مار رہی تھی۔ پس حضور ﷺ کے سامنے گھر کے سانوں میں سے ایک سالن لایا گیا پس فرمایا کہ میں نے ہانڈی میں گوشت دیکھا ہے۔ گھروالوں نے عرض کیا کہ ایسے ہی ہے لیکن ہانڈی میں جو گوشت کے طور پر حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو صدقہ دیا گیا ہے اور آپ ﷺ صدقہ نہیں کھاتے فرمایا کہ وہ گوشت اس پر صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما نے روایت کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تین شرعی احکام وارد ہوئے ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کی باندی تھیں جب وہ آزاد ہوئیں تو اس کو اختیار دیا گیا کہ چاہے تو وہ اپنے خاوند کے نکاح میں رہے اور چاہے جدا ہو جائے اس کو علماء خیار حق کہتے ہیں اور وہ یہ کہ لونڈی جب کسی کے نکاح ہو اور جب وہ آزاد ہو جائے تو اس کو اختیار ہے چاہے وہ اس کے نکاح میں رہے یا نہ رہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر خاوند کسی کا غلام ہو۔ تب اسے اختیار ہے ورنہ نہیں اور امام صاحب کے نزدیک خواہ خاوند غلام ہو یا آزاد ہو۔ یعنی دونوں صورتوں میں اختیار حاصل ہے اور حضرت بریرہ کے خاوند کا نام مغیث تھا اور وہ غلام تھا۔ بریرہ نے آزاد ہونے کے بعد اس کو قبول نہ کیا اور مغیث ان کے عشق و فراق میں روتا اور فریاد کرتا پھرتا تھا۔

اور دوسرا حکم بریرہ کے لیے وارد ہوا۔ ولاء کا یعنی لونڈی کی میراث اس شخص کے لیے ہوگی جس نے آزاد کیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے حضرت بریرہ ایک یہودی کی باندی تھیں اس نے ان کو مکاتب بنادیا تھا اور یہ کہا تھا اتنے درہم دے دو تو تم آزاد ہو جب وہ درہم دینے سے عاجز آ گئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور عرض کرنے لگیں کہ اگر آپ دے دیں تو میں اپنے مالک کو دے کر آزاد ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اپنے مالکوں سے بات کرو۔ اگر وہ تجھے بیچیں تو میں لے لیتی ہوں۔ پس وہ چلی گئی اور ان سے جا کر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بیچ دیں گے بشرطیکہ ولاء یعنی میراث اس کی ہمارے لیے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور سے عرض کیا کہ یہود اس طرح کہتے ہیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ غلط اور یہود کہتے ہیں اس لیے کہ ولاء اس کے لیے ہے جو آزاد کرے۔ اے عائشہ! خرید و اور آزاد کرو اس کی ولاء تیرے لیے ہوگی ان کا شرط لگانا باطل ہے۔

اور تیسرا حکم حدیث کے آخر میں ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی فقیر کو زکوٰۃ دے اور وہ فقیر اس شخص کو دے جس کے

لیے زکوٰۃ کا مال جائز نہیں ہے تو وہ اس کے لیے حلال ہے اس لیے کہ وہ مال فقیر کا ہے اور اسی کی ملکیت میں ہے۔ جس کو دے درست ہے۔

آپ ﷺ تحفہ کا بدلہ دیا کرتے تھے

۶/۱۷۲۰ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُنِيبُ عَلَيْهَا. (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵ حدیث رقم ۲۵۸۵۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ تحفہ قبول کرتے تھے اور اس کا بدلہ دیتے تھے۔ یہ امام بخاری نے روایت کی ہے۔

تشریح: تحفہ کا بدلہ دینا آپ ﷺ سے ثابت ہے کیونکہ صرف ہدیے کا ہی بدلہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہدیہ بندے کو ازراہ تعظیم و تکریم کے دیا جاتا ہے اس لیے اس کا بدلہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن صدقہ کا بدلہ نہیں دیا جاسکتا۔ اس لیے کہ صدقات آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے دیئے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل پہلی روایات میں گزر چکی ہے۔

آپ ﷺ کم قیمت کے ہدیے کو بھی قبول کر لیتے تھے

۷/۱۷۲۱ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى مَكْرَاجٍ لَا جَبْتُ وَلَوْ أَهْدَى إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۹۹/۵۔ حدیث رقم ۲۵۶۷۔ واحمد فی المسند ۴۲۴/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے بکری کی کراع (یعنی پنڈلی) کی طرف بلایا جائے تو میں قبول کروں۔ اگر میری طرف بکری کا ایک دست بھیجا جائے تو بھی قبول کر لوں گا۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کی وضاحت کچھ یوں ہے کراع بکری کی پنڈلی کو کہتے ہیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اگر کوئی شخص بکری کی پنڈلی کے ساتھ میری دعوت کرے یعنی ایک حقیر چیز کی تو میں اس کو قبول کر لوں گا۔ اگر بکری کا دست بھیجے تو میں قبول کر لوں گا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضور ﷺ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے۔ اس حدیث میں تحفہ کو قبول کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی تحفہ میں ادنیٰ چیز بھی دے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے یہ طریقہ آپ ﷺ سے ثابت ہے۔

مسکین کی تعریف

۸/۱۷۲۲ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرَدُّهُ اللَّفْظَةُ وَاللَّفْظَتَانِ وَالْتِمَرَةُ وَالتَّمَرَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطِنُ بِهِ

كَيْصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ - (متفق عليه)

اخرجه البعاری فی صحیحہ ۳۴۱/۳ - حدیث رقم ۱۴۷۹ - واخرجه مسلم فی صحیحہ ۷۱۹/۲ حدیث رقم (۱۰۱) - (۱۰۳۹) - وابوداؤد فی السنن ۲۸۳/۲ حدیث رقم ۱۶۳۱ - والنسائی فی السنن ۸۴۱/۵ حدیث رقم ۲۵۷۱ - والدارمی فی السنن ۴۶۲/۱ حدیث رقم ۱۶۱۵ - ومالك فی الموطأ ۹۲۳/۲ حدیث رقم ۷ من كتاب صفة النبي ﷺ - واحمد فی المسند ۳۸۴/۱

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ شخص نہیں ہے کہ جو لوگوں کے پاس ایک تلمی یا دو تلمی یا ایک کھجور یا دو کھجوروں کے لئے جاتا ہے لیکن مسکین وہ شخص ہے کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جو اس کو مستغنی کر دے اور اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ محتاج ہے یا نہیں (یعنی حال کے ظاہر نہ ہونے کی بنا پر اس کی احتیاج کا پتہ نہیں چلتا کہ اس پر صدقہ کیا جائے) اور لوگوں سے مانگنے کے لیے گھر سے نہیں نکلتا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما نے نقل کیا ہے۔ (متفق علیہ)

تفسیر: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مسکین وہ نہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ صرف مسکین وہ ہی نہیں ہے جس کو لوگ مسکین سمجھتے ہیں کہ کسی کے دروازے پر جا کر روٹی کے ٹکڑے کے لیے کھڑا ہو کر مانگنا شروع کر دیا۔ بلکہ مسکین کامل وہ ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ یعنی اس کے پاس اتنا مال نہ ہو۔ جو اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے اور وہ اپنی مسکنت لوگوں پر ظاہر نہ کرے اور نہ لوگوں سے لپٹ کر سوال کرے۔ جس کو قرآن پاک میں الحافا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے متبعین کا مسلک یہ ہے کہ مسکین وہ ہے جو کسی چیز کا مالک نہ ہو اور یہ فقیر سے زیادہ بری حالت ہے کیونکہ فقیر کے پاس بقدر کفایت مال ہوتا ہے۔

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلِيمًا وَالْمَوْلُفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ -

الفصل الثاني:

بنو ہاشم کے غلاموں کے لیے زکوٰۃ کا مال حلال نہیں ہے

۹/۱۷۲۳ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ أَضْحَيْتَنِي كَيْ مَا تُصِيبَ مِنْهَا فَقَالَ لَا حَتَّىٰ أَهْبِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلَهُ فَاَنْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلَهُ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوَالِي الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ -

(رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۲۹۸/۲ حدیث رقم ۶۱۵۰ - والترمذی ۴۶/۳ حدیث رقم ۶۵۷ - والنسائی ۱۰۷/۵ حدیث رقم ۲۶۱۲ - واحمد فی المسند ۱۰/۶

ترجمہ: حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے بنو مخزوم کے ایک شخص کو زکوٰۃ لینے کے لئے

بھیجا۔ اس نے ابورافع رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ اس میں سے تمہیں بھی کچھ حصہ مل جائے ابو رافع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ابھی نہیں جاؤں گا پہلے نبی کریم ﷺ سے جا کر پوچھتا ہوں کہ میں اس شخص کے ساتھ زکوٰۃ لینے جاؤں یا نہیں! چنانچہ وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ سے اپنے جانے کے بارے میں پوچھا آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ ہمارے لئے حلال نہیں ہے اور موٹی اسی آزاد کرنے والی قوم کے حکم میں ہے۔“

(ترمذی ابوداؤد و نسائی)

تشریح ﴿﴾ حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے چنانچہ آپ ﷺ نے انہیں زکوٰۃ کا مال لینے سے منع فرمایا کہ جس طرح ہمیں زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے اسی طرح تمہارے لئے بھی زکوٰۃ کا مال حلال نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ بنی ہاشم کے غلاموں کو بھی زکوٰۃ کا مال لینا درست نہیں ہے خواہ غلام ان کی ملکیت میں ہوں خواہ آزاد ہو گئے ہوں۔

بنی ہاشم کے غلاموں کے لئے بھی صدقہ کے مال کی حرمت

۱۰/۱۷۲۳ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا

لِلدِّي مِرَّةً سَوِيًّا۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد و الدارمی و رواہ احمد و النسائی و ابن حبانہ عن ابی ہریرۃ)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۲۸۵/۲ حدیث رقم ۱۶۳۴۔ و الترمذی ۴۲/۳ حدیث رقم ۶۵۲۔ و الدارمی ۴۷۲/۱ حدیث رقم ۱۶۳۹۔ و احمد فی المسند ۳۸۹/۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہ تو غنی کے لئے زکوٰۃ کا مال لینا حلال ہے اور نہ تندرست و توانا کے لئے ترمذی ابوداؤد دارمی اور احمد نسائی و ابن ماجہ نے اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔“

تشریح ﴿﴾ غنی تین طرح کے ہوتے ہیں اول تو وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے گویا وہ شخص نصاب نامی کا مالک ہو اور اس کے نصاب پر ایک سال گزر گیا ہو دوم وہ شخص جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتا اور اس پر صدقہ فطر و قربانی کرنا واجب ہوتا ہے گویا وہ شخص کہ جس کے پاس ضرورت اصلہ کے علاوہ بقدر نصاب یعنی ساڑھے باون تو لے چاندی کے برابر مال ہو وہ شخص جس کے لئے صدقہ کا مال تو حلال ہو لیکن اسے دست سوال دراز کرنا حرام ہو گویا وہ شخص جو ایک دن کے کھانے اور ستر پوشی کے بقدر کپڑے کا مالک ہو اس شخص کے لئے زکوٰۃ حرام و ناجائز ہے جو تندرست و توانا ہو یعنی اس کے اعضاء صحیح و سالم اور قوی ہوں نیز وہ اتنا کمال پر قادر ہو کہ اس کے ذریعے اپنے اہل و عیال کا پیٹ پال سکے چنانچہ حضرت امام شافعی کا مسلک اسی حدیث کے مطابق ہے کہ ان کے نزدیک کسی ایسے شخص کے لئے زکوٰۃ کا مال لینا حلال نہیں ہے جو کمال کے قابل ہو لیکن حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ ہر اس شخص کو زکوٰۃ لینا حلال ہے جو نصاب مذکورہ کا مالک نہ ہو اگرچہ وہ تندرست و توانا اور کمال کے قابل ہی کیوں نہ ہو کیونکہ نبی کریم ﷺ ان ضرورت مند صحابہ کو صدقات و زکوٰۃ کا مال دیتے تھے جو توانا و تندرست بھی تھے اور کمال کے قابل تھے اور آخر تک آپ ﷺ کا یہی معمول رہا لہذا اس حدیث کے بارے میں کہا جائے گا یا تو یہ منسوخ ہے یا پھر یہ کہ اس حدیث کی مراد یہ ظاہر کرنا ہے کہ جو شخص تندرست و توانا ہو اور محنت و مزدوری کر کے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے اسباب معیشت فراہم کرنے کی

قدرت رکھتا ہو اس کے لئے یہ بہتر اور مناسب نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ و صدقات کا مال لے اس ذلت و کمتری پر مطمئن و راضی ہو اور معاشرے کا ایک ناکارہ شخص بن جائے۔

صحت مند کے لئے زکوٰۃ کا مال لینا درست نہیں ہے

۱۱/۱۷۲۵ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا آتَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي حَبَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَمَالَاهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فَبَيْنَا نَنْظُرُ وَخَفَضَهُ فَرَأَانَا جُلْدَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمَا أُعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ۔ (رواه ابو داود والنسائي)

اخرجه ابو داود في السنن ۲۸۵۱۲ حديث رقم ۱۶۳۳۔ والنسائي ۹۹۱۵ حديث رقم ۲۵۹۸۔

ترجمہ: ”اور حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیاریہ نے بتایا کہ وہ دونوں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب کہ آپ ﷺ حبة الوداع کے موقع پر لوگوں کو زکوٰۃ کا مال تقسیم فرما رہے تھے ان دونوں نے بھی آپ ﷺ کے سامنے اس مال میں سے کچھ لینے کی خواہش کا اظہار کیا وہ دونوں کہتے تھے کہ آپ ﷺ نے ہم پر سرے پاؤں تک نظر دوڑائی اور ہمیں تندرست و توانا دیکھ کر فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ لینا ہی چاہتے ہو تو میں تمہیں دیدوں لیکن یاد رکھو کہ صدقات و زکوٰۃ میں سے نہ تو غنی کا کوئی حصہ ہے اور نہ اس شخص کا جو تندرست و توانا ہو اور کمانے پر قادر ہو۔“ (ابوداؤد نسائی)

تشریح: ”حبة الوداع“ نبی کریم ﷺ کے آخری حج کو کہتے ہیں جس میں آپ ﷺ نے احکام خداوندی کی وضاحت فرمائی اور لوگوں کو الوداع کہا اور پھر اس کے چند مہینوں کے بعد ہی ”رفیق علی“ سے جا ملے۔

حضرت امام شافعی کے مسلک کے مطابق حدیث کے آخری جملوں کا مطلب یہ ہوگا کہ تم لوگوں کے لئے صدقہ کا مال کھانا حرام ہے لیکن تم اگر حرام مال کھانا ہی چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، گویا آپ ﷺ نے زجر و توبخ کے طور پر اس طرح ارشاد فرمایا۔

حنفیہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ”اگر تم اس مال میں سے لینا چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن یہ سمجھ لو کہ جو شخص تندرست و توانا اور کمانے پر قادر ہو اس کے لئے صدقہ کا مال کھانا کچھ زیب نہیں دیتا۔

پانچ صورتوں میں غنی کے لئے بھی زکوٰۃ کا مال حلال ہو جاتا ہے

۱۲/۱۷۲۶ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيٍّ إِلَّا لِعَمْسَةٍ لِعَاَزٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مُسْكِينٌ فَتُصَدَّقَ عَلَى الْمُسْكِينِ فَأَهْدَى الْمُسْكِينُ لِلْعَنِيِّ۔

(رواه مالك و ابو داود و ترمذی و ابی داود عن ابی سعید او ابن السبیل)

اخرجه ابو داود في السنن ۲۸۶۱۲ حديث رقم ۱۶۳۵ وابن ماجه ۵۹۰۸۱ حديث رقم ۱۸۸۱۔ و مالك في الموطأ

۲۶۸/۱ حديث رقم ۲۹ من كتاب الزكاة۔ و احمد في المسند ۵۶/۳۔

ترجمہ: ”اور حضرت عطاء ابن یسار بطریق ارسال روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ غنی کے لئے زکوٰۃ کا مال حلال نہیں ہے ہاں پانچ صورتوں میں غنی کے لئے بھی زکوٰۃ کا مال حلال ہو جاتا ہے۔ ﴿۱﴾ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے غنی کے لئے جب کہ اس کے پاس سامان جہاد نہ ہو۔ ﴿۲﴾ زکوٰۃ وصول کرنے والے غنی کے لئے ﴿۳﴾ تاوان بھرنے والے غنی کے لئے ﴿۴﴾ زکوٰۃ کا مال اپنے مال کے بدلے میں خریدنے والے غنی کے لئے یعنی کسی شخص نے ایک مفلس کو زکوٰۃ کا کوئی مال دیا اور غنی اس مفلس سے زکوٰۃ کے مال کو خریدے اور اسے اس کا بدلہ دے دے تو اس صورت میں غنی کے لئے وہ مال حلال ہوگا ﴿۵﴾ اور اس غنی کے لئے کہ جس کے پڑوس میں کوئی مفلس رہتا ہو اور کسی شخص نے اسے زکوٰۃ کا کوئی مال دیا اور وہ مفلس اپنے پڑوسی مال دار غنی کو اس میں سے کچھ حصہ تحفہ کے طور پر بھیجے تو وہ غنی کے لئے جائز و حلال ہو گا۔“ (مالک ابو داؤد) اور ابو داؤد کی ایک روایت جو ابو سعید رضی اللہ عنہ سے منقول ہے لفظاً و ابن السبیل یعنی اس غنی کے لئے بھی کہ جو مسافر ہو زکوٰۃ کا مال حلال ہے مذکور ہے۔“

تشریح ﴿۱﴾ تاوان بھرنے والے غنی سے وہ مال دار اور غنی مراد ہے جسے کسی تاوان و جرمانے کے طور پر ایک بڑی رقم یا کسی مال کا ایک بڑا حصہ ادا کرنا ہے اگرچہ وہ مالدار ہے مگر اس کے ذمہ تاوان اور جرمانے کی جو رقم یا جو مال ہے وہ اس کے موجودہ مال و رقم سے بھی زیادہ ہے تو اس کے لئے جائز اور حلال ہے کہ وہ زکوٰۃ لے کر اس سے وہ تاوان پورا کرے اب وہ تاوان خواہ ”ذیت“ کی صورت میں ہو یا یہ شکل ہو کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا قرضدار تھا اس نے طرفین کو لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لئے یا کسی اور وجہ سے اس شخص کا قرض اپنے ذمہ لے لیا کہ اس کی طرف سے اس قرض کو میں ادا کروں گا اس کی وجہ سے وہ قرض دار ہو گیا یا پھر یہ شکل بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ خود کسی کا قرض دار ہو اپنا قرض ادا کرنے کے لئے اسے رقم و مال کی ضرورت ہو ﴿۲﴾ امام شافعیؒ کے مسلک کے مطابق وہ غازی جو غنی اور مالدار ہو زکوٰۃ لے سکتا ہے اور اسے زکوٰۃ لینی درست ہے لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک اسے زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے کیونکہ دوسری احادیث میں مطلقاً غنی کو زکوٰۃ دینے سے منع فرمایا گیا ہے کہ غنی کے لئے صدقات کا مال حلال نہیں ہے پھر یہ کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جو حکم تحریر فرمایا تھا اس میں آپ ﷺ نے مطلقاً یہی ارشاد فرمایا تھا کہ (جس قوم میں تم گئے ہو) اس قوم کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرو اسے ان کے فقراء و مساکین پر صرف کر دینا چاہو وہ حدیث کہ جس میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مذکور حکم منقول ہے یہاں ذکر کی گئی حدیث سے زیادہ قوی ہے۔

ان کے علاوہ حدیث میں جو صورتیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب صورتیں متفقہ طور پر تمام ائمہ کے نزدیک درست ہیں۔ کیونکہ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو تو زکوٰۃ کا مال اس لئے لینا درست ہے کہ وہ اپنی محنت اور اپنے عمل کی اجرت لیتا ہے اس صورت میں اس کا فقر و غنا دونوں برابر ہیں۔ تاوان بھرنے والا اگر غنی ہے لیکن اس پر جو قرض یا مطالبہ ہے وہ اس کے موجودہ مال سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا مال نہ ہونے کے برابر ہے اسی طرح باقی دونوں صورتوں کا معاملہ بھی ظاہر ہی ہے کہ زکوٰۃ جب مستحق زکوٰۃ کو مل گئی تو گو یا وہ اپنے محل اور اپنے مصرف میں پہنچ گئی اور وہ مستحق زکوٰۃ اس مال کا مالک ہو گیا اب چاہے وہ اسے فروخت کر دے چاہے کسی کو تحفہ کے طور پر دے دے۔

قرآن کی رو سے زکوٰۃ کے آٹھ مصارف

۱۳/۱۷۲۷ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِيُّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ اعْطَيْتَكَ

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۲۸۱۲ حدیث رقم ۱۶۳۰۔ والدارقطنی ۱۳۷۲ حدیث رقم ۹ من باب الحث عن اخراج الصدقة۔ ترجمہ: ”اور حضرت زیاد ابن حارث صدائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی اس کے بعد زیاد رضی اللہ عنہ نے ایک طویل حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے زکوٰۃ کا مال عطا فرمائیں آپ ﷺ نے زکوٰۃ تقسیم کرنے کے بارے میں کہے کہ زکوٰۃ دی جائے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نہ تو کسی نبی کے حکم پر راضی ہوا اور نہ اس کے علاوہ کسی اور کے حکم پر راضی ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے آٹھ مصرف ذکر کئے ہیں اگر تم ان آٹھ میں سے ہو گے تم میں تمہیں زکوٰۃ کا مال دوں گا۔“

(ابوداؤد)

تشریح: آیت کے مطابق مستحقین زکوٰۃ کی تعداد اس طرح ہے: ۱ فقیر ۲ مسکین ۳ عاملین زکوٰۃ ۴ مولفۃ القلوب (اس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تالیف قلب کا مصرف اب باقی نہیں رہا) ۵ غلام ۶ قرض دار یا تادان دینے والا ۷ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ۸ مسافر ۹ مسافر اور طالب علم ۱۰ مسافرین۔

الفصل الثالث:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عمل

۱۳/۱۷۲۸ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ فَسَأَلَ الْإِدْنِي سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ هَذَا الْلَبَنُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ قَدْ سَمَاهُ فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ فَحَلَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا فَجَعَلْنَاهُ فِي سِقَائِي فَهُوَ هَذَا ۱ فَأَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ فَاسْتَقَا ۲۔ (رواه مالك والبيهقي في شعب الایمان)

اخرجه مالك في الموطأ ۲۶۹/۱ حدیث رقم ۳۱ من كتاب الزكاة۔ والبيهقي في شعب الایمان ۶۰/۵ حدیث رقم ۵۷۷۱۔ ترجمہ: ”حضرت زید ابن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دودھ نوش فرمایا تو انہیں اچھا لگا، جس شخص نے انہیں دودھ پلایا تھا اس سے انہوں نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں کا ہے اس نے انہیں بتایا کہ ایک پانی پر میں گیا وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے بہت سے اونٹ موجود ہیں اور انہیں پانی پلایا جا رہا ہے پھر اونٹ والوں نے اونٹوں کا تھوڑا سا دودھ نکالا اس میں سے تھوڑا سا دودھ میں نے مشک میں ڈال لیا یہ وہی دودھ ہے یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اپنے منہ میں ڈالا اور قے کر دی۔“ (مالک، بیہقی)

تشریح ﴿﴾ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل کمال تقویٰ اور انتہائی ورع کی بناء پر تھا اور نہ تو جہاں تک مسئلے کی بات ہے یہ تو بتایا ہی جا چکا ہے کہ اگر مستحق زکوٰۃ کے مال کا مالک ہو جانے کے بعد اسے کسی غیر مستحق زکوٰۃ کو ہبہ کر دے یا اسے تحفہ کے طور پر دے دے تو اسے استعمال میں لانا اور اسے کھانا جائز ہے چنانچہ ابھی گزشتہ صفحات میں بریرہ کا جو واقعہ گزرا ہے اس میں نبی کریم ﷺ نے اس مسئلہ کے جواز ہی کو بیان فرمایا تھا۔

بَابُ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَسْئَلَةُ وَمَنْ تَحِلُّ لَهُ

جن لوگوں کو سوال کرنا جائز ہے اور جن کو جائز نہیں اُن کا بیان

علماء لکھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس ایک دن کے بقدر بھی غذا اور ستر چھپانے کے بقدر کپڑا ہو تو اسے کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بغیر ضرورت و حاجت مانگنا حرام ہے ہاں جس شخص کے پاس ایک دن کی بھی غذا اور ستر چھپانے کے بقدر بھی کپڑا نہ ہو تو اس کے لئے دست سوال دراز کرنا حلال ہے۔ جو محتاج و فقیر ایک دن کی غذا کا مالک ہو اور وہ کمانے کی قدرت رکھتا ہو اس کے لئے زکوٰۃ لینا تو حلال ہے مگر لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرنا حرام ہے جس مسکین محتاج کو ایک دن کی غذا بھی میسر نہ ہو اور وہ کمانے کی قدرت بھی نہ رکھتا ہو تو اس کے لئے سوال کرنا حلال ہے۔

نوویؒ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بغیر ضرورت و احتیاج کے لوگوں سے مانگنا ممنوع ہے البتہ جو شخص کمانے کی قدرت رکھتا ہو اس کے بارے میں اختلافی اقوال ہیں چنانچہ زیادہ صحیح قول تو یہ ہے کہ ایسے شخص کو کہ جو کما کر اپنا گزارا کر سکتا ہو لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرنے حرام ہے لیکن بعض حضرات مکروہ کہتے ہیں وہ بھی تین شرطوں کو ساتھ اول یہ کہ دست سوال دراز کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہ ہونے دے دوم الحاح یعنی مانگنے میں مبالغہ سے کام نہ لے سوم یہ کہ جس شخص کے آگے دست سوال دراز کر رہا ہے اسے تکلیف و ایذا نہ پہنچائے اگر ان تین شرطوں میں سے ایک بھی پوری نہ ہو تو پھر سوال کرنا بالاتفاق حرام ہوگا۔

ابن مبارکؒ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ”جو سائل“ لعجب اللہ کہہ کر سوال کرے تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اسے کچھ دیا جائے کیونکہ دنیا اور دنیا کی چیزیں کمتر و حقیر ہیں جب اس نے دنیا کی کسی چیز کے لئے ”لعجب اللہ“ کہہ کر سوال کیا تو گویا اس نے چیز کی تعظیم و توقیر کی جسے اللہ تعالیٰ نے کمتر و حقیر قرار دیا ہے لہذا ایسے شخص کو ازراہ زبردستی کچھ نہ دیا جائے اور اگر کوئی شخص یہ کہہ کر سوال کرے کہ ”حقن خدا یا حق محمد“ تو اسے کچھ دینا واجب نہیں ہوتا اگر کوئی شخص اپنی کوئی غلطی اور جھوٹی حاجت و ضرورت ظاہر کر کے کسی سے کوئی چیز لے تو وہ اس چیز کا مالک نہیں ہوتا (گویا وہ چیز اس کے حق میں ناجائز و حرام ہوتی ہے) اسی طرح کوئی شخص کسی سے یہ کہے کہ میں سید ہوں اور مجھے فلاں چیز کی یا اتنے روپیہ کی ضرورت ہے اور وہ شخص سائل کو سید سمجھ کر اس کا سوال پورا کر دے مگر حقیقت میں وہ سید نہ ہو تو وہ بھی (اس مانگی ہوئی چیز) کا مالک نہیں ہوتا جس کے نتیجے میں وہ چیز اس کے حق میں ناجائز و حرام ہوتی ہے۔

ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی سائل کو نیک بخت و صالح سمجھ کر کوئی چیز دے دے حالانکہ وہ سائل بالطنی طور پر ایسا گنہگار ہے کہ اگر دینے والے کو اس کے گناہ کا پتہ چل جاتا تو اسے وہ چیز نہ دیتا تو اس صورت میں بھی سائل اس چیز کا مالک نہیں ہوتا وہ چیز اس کے لئے حرام ہے اور اس چیز کو اس کے مالک کو واپس کر دینا اس پر واجب ہوگا اگر کوئی شخص کسی کو اس کی بدزبانی یا اس کی چغلی خوری کے مضرات سے بچنے کے لئے کوئی چیز دے تو وہ چیز اس کے حق میں حرام ہوگی۔

اگر کوئی فقیر کسی شخص کے پاس مانگنے کے لئے آئے اور وہ اس کے ہاتھ پیر چومے تاکہ وہ اس کی وجہ سے اس کا سوال پورا کر دے تو یہ مکروہ ہے بلکہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ فقیر کو ہاتھ پیر نہ چومے دے۔

ان سائل اور فقیروں کو کچھ بھی نہ دینا چاہئے جو فقارہ ڈھول یا ہار مونیئم وغیرہ بجاتے ہوئے دروازوں پر مانگتے پھرتے ہیں اور مطرب یعنی ڈوم تو سب سے بدتر ہے۔

الفصل الاول:

اشد ضرورت کے تحت سوال کرنا جائز ہے

۱/۱۷۲۹ عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ مُخَارِقٍ قَالَتْ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمِ حَتَّى تَأْتِيَنَّ الصَّدَقَةَ فَنَأْمُرُكَ بِهَا ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَانِحَةٌ اجْتَاخَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحَتْ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُخْتًا۔ (رواه مسلم)

اخرجہ مسلم فی فی صحیحہ ۷۲۲/۲۔ حدیث رقم (۱۰۹۹-۱۰۹۸)۔ وابوداؤد فی السنن ۲۹۰/۲۔ حدیث رقم ۱۶۴۰۔

والنسائی ۸۹/۵۔ حدیث رقم ۲۵۸۰۔ والدارمی ۴۸۷/۱۔ حدیث رقم ۱۶۷۸۔ واحمد فی المسند ۴۷۷/۳۔

ترجمہ: ”حضرت قبیصہ ابن مخارق رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے قرضہ کی ضمانت لی جو دیت کی وجہ سے تھا چنانچہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ سے ادائیگی قرض کے لئے کچھ رقم یا مال کا سوال کیا آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ دن ٹھہرے رہو جب ہمارے پاس زکوٰۃ کا مال آئے گا تو اس میں سے تمہیں دینے کے لئے کہہ دیں گے۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قبیصہ! تین طرح کے لوگوں کے لئے سوال کرنا جائز ہے ایک تو اس شخص کے لئے جو کسی قرض کا ضامن بن گیا ہو بشرطیکہ مانگنے میں مبالغہ نہ کرے بلکہ اتنے ہی مال یا رقم کا سوال کرے کہ اس سے قرضہ کو ادا کر دے اور اس کے بعد پھر نہ مانگے دوسرے اس شخص کے لئے جو کسی آفت و مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور اس کا تمام مال ہلاک و ضائع ہو جائے چنانچہ اس کے لئے اس قدر مانگنا جائز ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے یا فرمایا کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے اور اس کی زندگی کے لئے سہارا ہو جائے تیسرے اس شخص کے لئے جو غنی ہو مگر اس کو کوئی ایسی سخت حاجت پیش آجائے جسے اہل محلہ بھی جانتے ہوں مثلاً گھر کا تمام مال و اسباب چوری ہو جائے یا اور کسی مصیبت و

حادثے سے دوچار ہونے کی وجہ سے ضرورت مند بن جائے اور قوم کے تین صاحب عقل و فراست لوگ اس بات کی شہادت دیں کہ واقعی اسے سخت حاجت پیش آگئی ہے تو اس کے لئے اس قدر مانگنا جائز ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے یا فرمایا کہ اس کی وجہ سے اس کی محتاجی دور ہو جائے اور اس کی زندگی کا سہارا ہو جائے۔ قبضہ! ان تین کے علاوہ کسی اور کو سوال کرنا حرام ہے اگر کوئی شخص ان تین مجبوریوں کے علاوہ دست سوال دراز کر کے کسی سے کچھ لے کر کھاتا ہے تو وہ حرام کھاتا ہے۔“ (مسلم)

تشریح ﴿حما﴾ اس مال کو کہتے ہیں جو کسی شخص پر دیت کے طور پر کچھ لوگوں کو دینا ضروری ہو اور کوئی دوسرا شخص اس مال کی عدم ادائیگی کی بناء پر آپس کے لڑائی جھگڑے کو نمٹانے کے لئے درمیان میں پڑ جائے اور وہ مال اپنے ذمہ لے لے اور اس کی وجہ سے قرض دار ہو جائے۔

حدیث کے آخر میں ”تین صاحب عقل و فراست لوگوں کی شہادت“ کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ احتیاج و ضرورت کے واقعی اور حقیقی ہونے کے لئے بطور مبالغہ ہے نیز اس بات کا احساس پیدا کرنے کے لئے ہے کہ لوگ دست سوال دراز کرنے کو آسان نہ سمجھیں اور اس برے فعل سے بچتے رہیں۔

اپنے حال میں اضافہ کے لئے مانگنے پر وعید

۲/۱۷۳۰ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جُمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۷۲۰/۱۲ حدیث رقم (۱۰۵-۱۰۴)۔ وابن ماجہ فی السنن ۵۸۹/۱ حدیث رقم ۱۸۳۸۔
ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص مال میں اضافہ کی خاطر لوگوں کے مال میں سے کچھ مانگتا ہے تو وہ گویا آگ کا انگارا مانگتا ہے اب وہ چاہے کم مانگے یا زیادہ مانگے۔“ (مسلم)
تشریح ﴿جمر﴾ اضافہ مال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی احتیاج و ضرورت کی بناء پر نہیں بلکہ محض اس لئے لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرتا ہے تاکہ اس کا مال زیادہ ہو جائے۔

”آگ کے انگارے“ سے مراد دوزخ کی آگ کا انگارہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے نہیں بلکہ محض اضافہ مال کی خاطر کسی سے کچھ مانگتا ہے تو وہ اپنی اس ہوسناکی کی اور حرص و طمع کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ خواہ تم سے کم مال مانگے یا زیادہ۔ آپ ﷺ نے بطور تنبیہ ارشاد فرمایا اس کی وضاحت یہ ہے کہ بلا ضرورت لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا نا دنیاوی اور اخروی اعتبار سے بہر صورت نقصان دہ اور باعث ذلت و رسوائی ہے خواہ وہ کسی حقیر و کمتر چیز کے لئے ہاتھ پھیلائے خواہ کسی قیمتی اور اعلیٰ چیز کے لئے دست سوال دراز کرے۔

بلا ضرورت مانگنے والوں کا قیامت کے دن حشر

۳/۱۷۳۱ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ

حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مَرْعَةٌ لَحْمٍ۔ (متفق علیہ)

اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۳۳۸/۳۔ حدیث رقم ۱۴۷۴۔ و مسلم فی صحیحہ ۷۲۰/۲ حدیث رقم (۱۰۴۰ - ۱۰۴)۔

والنسائی فی السنن ۹۴/۵ حدیث رقم ۲۵۸۵۔ واحمد فی المسند ۱۵۱/۲۔

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں ہوگا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی نہ ہوگی۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بلا ضرورت محض پیشے کے طور پر بھیک مانگتے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں وہ قیامت کے روز میدان حشر میں ذلیل و رسوا کر کے لائیں جائیں گے یا حقیقتاً ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کی اس برائی اور غلط فعل کی سزا کے طور پر ان کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا اس طرح وہ میدان حشر میں مخلوق خدا کے درمیان یہ کہہ کر بے آبرو اور رسوا کئے جائیں گے کہ یہ دنیا میں بھیک مانگتے پھرا کرتے تھے آج انہیں اس کی یہ سزا مل رہی ہے۔

سوال ضرورت کے تحت کیا جائے

۴/۱۷۳۲ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُوا فِي الْمُسْتَلَّةِ قَوْلَ اللَّهِ لَا

يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتَهُ مِثْنًا وَأَنَا لَهُ كَارِهِ فَيَسْأَلُكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ۔ (رواہ مسلم)

اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۷۱۸/۲ حدیث رقم (۹۹ - ۱۰۳۸)۔ والنسائی فی السنن ۹۷/۵ حدیث رقم ۲۵۹۳۔

والدارمی فی السنن ۴۷۴/۱ حدیث رقم ۱۶۴۴۔ واحمد فی المسند ۹۸/۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مانگنے میں مبالغہ نہ کرو خدا کی قسم! تم میں سے جو بھی شخص مجھ سے کچھ مانگا ہے تو میں اسے اس حال میں کچھ نکال کر دیتا ہوں کہ میں اسے دینا برا سمجھتا ہوں اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز میں نے اسے دی ہے اس میں برکت ہو۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص انتہائی مبالغہ کے ساتھ میرے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے اگرچہ مجھ سے اس کا سوال ٹھکرایا نہیں جاتا اور میں اسے دے دیتا ہوں مگر میری طرف سے ناخوشی کے ساتھ دی گئی چیز اور برکت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے لہذا ناخوشی کے ساتھ جو چیز دیتا ہوں اس میں برکت نہیں ہوتی۔

محنت مزدوری کرنا دستِ سوال دراز کرنے سے بہتر ہے

۵/۱۷۳۳ وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ

بِحِزْمَةٍ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ۔

اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۳۳۵/۳۔ حدیث رقم ۱۴۷۱۔ والنسائی فی السنن ۹۳/۵ حدیث رقم ۲۵۸۴۔ وابن ماجہ

۵۸۸/۱ حدیث رقم ۱۸۳۶۔

ترجمہ: ”اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص ایک رسی اور لکڑیوں کا ایک گٹھا پشت پر لاد کر آئے اور اسے فروخت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی عزت و آبرو کو برقرار رکھے جو مانگنے سے جاتی تھی تو یہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔“ (بخاری)

دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے

۶/۱۷۳۳ وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصِرٌ حُلُوفَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسُ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِأَشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يَبَارِكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرَى أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا.

(متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۳۵۱۴ - حدیث رقم ۱۴۷۲ - ومسلم فی صحیحہ ۷۱۷/۲ حدیث رقم (۱۰۳۵ - ۵۶) - والترمذی فی السنن ۵۵۳/۴ حدیث رقم ۲۴۶۳ - والنسائی ۱۰۰/۵ حدیث رقم ۲۶۰۱ - والدارمی ۴۷۵/۱ حدیث رقم ۱۴۷۲ - واحمد فی المسند ۴۳۴/۳

ترجمہ: ”اور حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ سے کچھ مانگا تو آپ ﷺ نے عنایت فرمادیا میں نے پھر دوبارہ مانگا تو آپ ﷺ نے اس وقت بھی عطا کیا اور پھر مجھ سے فرمایا کہ حکیم! یہ مال سبز و شیریں ہے لہذا جو شخص اس مال کو بے پروائی سے حاصل کرتا ہے تو اس میں برکت عطا فرمائی جاتی ہے اور جو شخص اسے نفس کے طمع و حرص کے ساتھ حاصل کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی اور اس کی حالت اس شخص کی مانند ہوتی ہے جو کھانا تو کھاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور یاد رکھو کہ اوپر کا ہاتھ یعنی دوسروں کا دینے والا ہاتھ نیچے کے ہاتھ یعنی دوسروں سے مانگنے والے سے بہتر ہوتا ہے حکیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اب کسی کے مال میں سے کچھ کم نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں اس دنیا سے جدا ہوں۔ (بخاری و مسلم)

۷/۱۷۳۵ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَقُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَلْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفَقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ.

(متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۹۴۱۳ - حدیث رقم ۱۴۲۹ - ومسلم فی صحیحہ ۷۱۷/۲ حدیث رقم (۹۴ - ۱۰۳۳) - وابوداؤد فی السنن ۲۹۷/۲ حدیث رقم ۱۶۴۸ - والنسائی ۶۱۱/۵ حدیث رقم ۲۵۳۳ - ومالك فی الموطأ ۹۹۸/۲ - حدیث رقم ۸ من کتاب الصدقة واحمد فی المسند ۶۷/۲

ترجمہ: ”اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اس موقع پر جب کہ آپ ﷺ منبر پر تھے اور

صدقہ کا ذکر بیان کر رہے تھے اور سوال سے بچنے کے بارے میں خطبہ دے رہے تھے یہ ارشاد فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والا اور لوگوں کو دینے والا ہاتھ ہے اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والا یعنی سائل کا ہاتھ ہے۔“ (بخاری و مسلم)

اللہ تعالیٰ سوال نہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے

۸/۱۷۳۶ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفَذَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَئِنْ أَذْخَرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعِثُّ يَعْثُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۳۵۳/۳ حدیث رقم ۱۴۶۹۔ و مسلم فی صحیحہ ۷۲۹/۲ حدیث رقم (۱۲۴ - ۱۰۵۳)۔
وابوداؤد فی السنن ۲۹۵۳/۳ حدیث رقم ۱۶۴۴۔ و الترمذی ۳۲۸/۴ حدیث رقم ۲۰۲۴۔ و النسائی ۹۵۵ حدیث رقم ۲۵۸۸۔ و الدارمی ۴۷۴/۱ حدیث رقم ۱۶۴۶۔ و مالک فی الموطأ ۹۹۷/۲ حدیث رقم ۷ من کتاب الصدقة و احمد فی المسند ۱۲/۳۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن انصار میں سے چند لوگوں نے نبی کریم ﷺ سے کچھ مانگا، آپ ﷺ نے انہیں عطا فرمادیا۔ انہوں نے پھر مانگا تو آپ ﷺ نے جب بھی دے دیا یہاں تک کہ آپ ﷺ کے پاس جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ مال بھی ہوگا میں تم سے بچا کر اس کا ذخیرہ نہیں کروں گا اور یاد رکھو کہ جو شخص لوگوں سے سوال کرنے سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بری باتوں سے بچاتا ہے اور اسے لوگوں کا محتاج نہیں کرتا اس طرح اس کی خودداری کو باقی رکھتا ہے نیز جو شخص انتہائی معمولی چیز پر بھی قناعت کرتا ہے اور کسی سے سوال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے قناعت آسان کر دیتا ہے اور جو شخص بے پروائی ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ بنا دیتا ہے یعنی جو شخص دوسروں کے مال و زر سے بے پروا ہوتا ہے اور ہاتھ پھیلانے سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور جو شخص صبر کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرماتا ہے یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے صبر آسان کر دیتا ہے اور یاد رکھو کہ صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع کوئی دوسری چیز عطا نہیں کی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام عطاؤں بخشش میں صبر سب سے بہتر عطا ہے۔“

جو چیز بغیر لالچ اور خواہش کے ملے قبول کرنی چاہیے

۹/۱۷۳۷ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۳۷/۳ حدیث رقم ۱۴۷۳۔ و مسلم فی صحیحہ ۷۲۳/۲ حدیث رقم (۱۱۰ - ۱۰۴۵)۔

والنسائی فی السنن ۱۰۵/۵ حدیث رقم ۲۶۰۸۔ واحمد فی المسند ۱۷/۱۔

ترجمہ: ”اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کی اجرت عطا فرماتے تو میں عرض کرتا کہ یہ اس شخص کو دے دیجئے جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ آپ ﷺ اس کے جواب میں فرماتے کہ اگر تمہیں حاجت و ضرورت ہو تو اسے لے کر اپنے مال میں شامل کر لو اور اگر حاجت و ضرورت سے زیادہ ہو تو خدا کی راہ میں خیرات کر دو نیز یہ بھی فرماتے کہ جو چیز تمہیں بغیر طمع و حرص اور بغیر مانگے حاصل ہو اسے قبول کر لو اور جو چیز اس طرح یعنی بغیر طمع و حرص اور بغیر سوال کے ہاتھ نہ لگے تو اس کے پیچھے مت پڑو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بغیر طمع و حرص اور بغیر مانگے حاصل نہ ہو اس کے حاصل کرنے کے لئے طمع نہ کرو اور نہ اس کے منتظر ہو جیسا کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ لا ردو لاکد۔ ایک دوسری حدیث میں منقول ہے کہ ”جس شخص کو کوئی مال یا کوئی چیز بغیر طمع و حرص کے حاصل ہو اور وہ اسے واپس کر دے تو گویا وہ چیز اللہ کو واپس کر دی یعنی اللہ عز و جل کی ایک نعمت کو ٹھکرا دیا۔“

ایک سبق آموز واقعہ:

منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام احمدؒ بازار گئے اور وہاں سے انہوں نے کچھ سامان خریدا جسے بنان جلال اٹھا کر احمدؒ کے ساتھ ان کے گھر لائے جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں روٹیاں ٹھنڈی ہونے کے لئے کھلی ہوئی رکھی تھیں، حضرت امام احمدؒ نے اپنے صاحبزادے کو حکم دیا کہ ایک روٹی بنان کو دے دیں، صاحبزادے نے جب بنان کو روٹی دی تو انہوں نے انکار کر دیا، بنان جب گھر سے باہر نکل گئے اور واپس چل دیئے تو امام احمدؒ نے صاحبزادے سے کہا کہ اب ان کے پاس جاؤ اور انہیں روٹی دے دو صاحبزادے نے باہر جا کر بنان کو روٹی دی تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ پہلے تو روٹی لینے سے صاف انکار کر دیا اور اب فوراً قبول کر لیا آخر یہ ماجرا کیا ہے! انہوں نے حضرت امام احمدؒ سے اس کا سبب پوچھا تو امام صاحب نے فرمایا کہ ”بنان جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کھانے کی ایک عمدہ چیز دیکھی بتقاضائے طبیعت بشری انہیں اس کی خواہش ہوئی اور دل میں اس کی طمع پیدا ہو گئی اس لئے جب تم نے انہیں روٹی دی تو انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنی طمع و خواہش کے تابع بن جائیں انہوں نے روٹی لینے سے انکار کر دیا مگر جب وہ باہر چلے گئے اور اس روٹی سے قطع نظر کر کے اپنا راستہ پکڑا اور پھر تم نے جا کر وہ روٹی دی تو اب چونکہ وہ روٹی انہیں بغیر طمع و خواہش اور غیر متوقع طریقے پر حاصل ہو رہی تھی اس لئے انہوں نے اسے خدا کی نعمت سمجھ کر فوراً قبول کر لیا۔“

الفصل الثانی:

سوال کرنے والوں کو تنبیہ

۱۰/۱۷۳۸ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فُيْ أَمْرٍ

لَا يَجِدُ مِنْهُ بَدَأَ - (رواه ابوداؤد و الترمذی و النسائی)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۲۸۹/۲ حدیث رقم ۱۶۳۹ - و الترمذی ۶۵/۳ - حدیث رقم ۶۸۱ - و النسائی ۱۰۰/۵ حدیث رقم ۲۵۹۹ - و احمد فی المسند ۲۲/۵ -

ترجمہ: ”حضرت سرہ ابن جندب روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرنا ایک زخم ہے جس کے ذریعے انسان اپنا منہ زخمی کرتا ہے باس طور کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت و آبرو کو خاک میں ملاتا ہے کہ یہ اپنے منہ کو زخمی کرنے ہی کے مترادف ہے لہذا جو شخص اپنی عزت و آبرو باقی رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ سوال سے شرم کرے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا کر اپنی عزت و آبرو کو باقی رکھے اور کوئی شخص اپنی آبرو باقی رکھنا ہی نہیں چاہتا تو وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت خاک میں ملا لے یعنی اسے باقی نہ رکھے یہ گویا سوال کرنے والے کے لئے تہدید اور تنبیہ ہے کہ کسی سے سوال نہ کرنا چاہیے۔ ہاں! اگر سوال ہی کرنا ہے تو پھر حاکم سے سوال کرے یا ایسی صورت میں سوال کرے کہ اس کے لئے کوئی واقعی ضرورت اور مجبوری ہو۔“ (ابوداؤد ترمذی نسائی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر تم سوال ہی کرو تو کم سے کم ایسے شخص سے تو کرو جس پر تمہارا حق بھی ہے اور وہ حاکم یا بادشاہ ہے کہ جس کے تصرف میں بیت المال اور خزانہ ہو تم ان سے اپنا حق مانگو اگر تم مستحق ہو گے وہ تمہیں بیت المال سے دیں گے۔

عطاء سلطانی کو قبول کرنے کے بارے میں اختلاف:

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ اس بارے میں اختلافی اقوال ہیں کہ آیا عطاء سلطانی یعنی بادشاہ و حاکم کا عطیہ قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ چنانچہ اس بارے میں صحیح قول یہی ہے کہ اگر بیت المال اور خزانے میں حرام مال زیادہ ہو تو اس میں سے کچھ مانگنا یا اس سے عطیہ سلطانی قبول کرنا حرام ہے اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر حلال ہے۔

حدیث کے آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی مجبوری اور ضرورت ہو کہ کسی سے مانگے بغیر چارہ کار نہ ہو مثلاً کسی کا ضامن بن گیا ہو طوفان و سیلاب کی وجہ سے کھیتی باڑی تباہ ہو گئی ہو یا کسی حادثے و مصیبت کی وجہ سے نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہو تو ایسی صورتوں میں سوال کرنے کی اجازت ہے بلکہ اگر کوئی شخص حالت اضطراری کو پہنچ گیا ہو خواہ وہ اضطراری حالت کپڑے کی طرف سے ہو کہ ستر چھپانے کو کپڑا نہ ہو یا کھانے کی طرف سے ہو کہ شدت بھوک سے جان نکلی جاتی ہو تو پھر ایسی صورت میں کسی سے مانگ کر اپنی اضطراری حالت کو دور کرنا واجب ہو جاتا ہے۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس شخص کے لئے بھی سوال کرنا واجب ہوتا ہے جو حج کی استطاعت رکھتا تھا مگر حج نہیں کیا یہاں تک کہ مفلس ہو گیا تو اب اسے چاہئے کہ وہ لوگوں سے سفر خرچ مانگ کر حج کے لئے جائے۔

بلا ضرورت مانگنے والوں کا حشر

۱۱/۱۷۳۹ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ فَيَلْ يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ

قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الدَّهَبِ (رواہ ابو داود و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی)

اخرجه ابو داود فی السنن ۲۷۷/۲۳ حدیث رقم ۱۶۲۶۔ و الترمذی فی السنن ۴۰۳ حدیث رقم ۶۵۰۔ و النسائی ۹۷/۵

حدیث رقم ۲۵۹۲۔ و ابن ماجہ ۵۸۹/۱ حدیث رقم ۱۸۴۰۔ و الدارمی ۴۷۲/۱ حدیث رقم ۱۶۴۰۔

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص لوگوں سے ایسی چیز کی موجودگی میں سوال کرے جو اسے مستغنی بنادینے والی ہو تو وہ قیامت کے دن اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے منہ پر اس کا سوال بصورت خموش یا خدوش یا کدوح ہوگا۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! مستغنی بنانے والی کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا بچاس درہم یا اس قیمت کا سونا۔“ (ابوداؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ دارمی)

تشریح: ”خموش“ جمع ہے ”خمش“ کی ”خدوش“ جمع ہے ”خدش“ کی اور کدوح جمع ہے ”کدح“ کی بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ تمام الفاظ قریب المعنی ہیں بایں طور کی ان سب کے معنی کا حاصل ”زخم“ ہے گویا حدیث میں لفظ ”او“ راوی کا شک ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان تینوں میں سے کوئی ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے۔

لیکن دوسرے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ تینوں الفاظ متباہن ہیں یعنی ان تینوں کے الگ الگ معنی ہیں خموش کے معنی ہیں لکڑی کے ذریعے کھال چھیلنا، خمش کے معنی ہیں ناخن کے ذریعے کھال چھیلنا اور کدح کے معنی ہیں دانتوں کے ذریعے کھال اتارنا۔ گویا اس طرح قیامت کے روز سائلین کے تفاوت احوال کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص کم سوال کرے گا اس کے منہ پر ہلکا زخم ہوگا، جو شخص بہت زیادہ سوال کرے گا اس کے منہ پر بہت گہرا زخم ہوگا جو شخص سوال کرنے میں درمیانی راہ اختیار کرے گا اس کے منہ پر زخم بھی درمیانی درجے کا ہوگا۔

غنی کون کہلا سکتا ہے

۱۳/۷۴۰ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَضَلِيَّةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْفِرُ مِنَ النَّارِ قَالَ النَّفِيلِيُّ وَهُوَ أَحَدُ رَوَاتِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ قَالَ قَدَرَمَا يُغْدِيهِ وَيُعْشِيهِ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنْ يَكُونَ لَهُ شَيْعٌ يَوْمَ أَوَّلِ لَيْلَةٍ وَيَوْمَ-

(رواہ ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۲۸۰/۲ حدیث رقم ۱۶۲۹۔ و احمد فی المسند ۱۸۰/۴۔

ترجمہ: ”اور حضرت سہل ابن حطیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو جو اس کو مستغنی کر دے مگر وہ اس کے باوجود لوگوں سے سوال کرتا ہے تو گویا وہ زیادہ آگ مانگتا ہے یعنی جو شخص بغیر ضرورت و حاجت کے لوگوں سے مانگ مانگ کر مال و زرع جمع کرتا ہے تو وہ گویا دوزخ کی آگ جمع کرتا ہے۔ نفیل نے ایک اور جگہ نبی کریم ﷺ کا جواب اس طرح نقل کیا ہے کہ اس کے پاس ایک دن یا ایک رات کے بقدر خوراک ہو آپ ﷺ نے صرف ایک دن فرمایا ہے یا ایک رات اور ایک رات فرمایا ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”صبح اور شام کے کھانے کے بقدر“ مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اتنی مقدار میں غذائی ضروریات

موجود ہوں کہ وہ ایک دن ورات اپنا پیٹ بھر سکے تو وہ غنی کہلائے گا یعنی اس کیلئے اب جائز نہیں ہوگا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔

ابھی اس سے پہلے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت گزری ہے اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ مال کی تعداد کہ جس کی وجہ سے آدمی مستغنی ہو جائے اور کسی سے سوال نہ کرے پچاس درہم ہے یعنی جو شخص پچاس درہم کا مالک ہوگا اس کے لئے کسی سے سوال کرنا حرام ہوگا یہاں جو یہ روایت نقل کی گئی ہے اس میں یہ مقدار ”صبح و شام کے کھانے کے بقدر“ بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد حضرت عطاء ابن یسار رضی اللہ عنہ کی جو روایت آرہی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص ایک اوقیہ یعنی چالیس درہم کا مالک ہو وہ مستغنی کہلائے گا اس کے لئے کسی سے سوال کرنا مطلقاً جائز نہیں ہوگا۔

گویا یہ تین روایتیں ہیں جن میں باہم اختلاف ہے لہذا حضرت امام احمد، امام مبارک اور اسحاق کا عمل تو پہلی روایت پر ہے جو ابن مسعود سے منقول ہے بعض علماء نے تیسری روایت کو معمول یہ قرار دیا ہے جو عطاء ابن یسار سے منقول ہے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے دوسری روایت کو اپنے مسلک کی بنیاد قرار دیا ہے جو ہبل ابن حظلیہ سے منقول ہے لہذا حضرت امام اعظم کا یہی مسلک ہے کہ جو شخص ایک دن کی غذائی ضروریات کا مالک ہوگا وہ مستغنی کہلائے گا اور اس کے لئے کسی سے سوال کرنا حرام ہوگا، گویا حضرت امام صاحب کے نزدیک یہ حدیث دوسری احادیث کے لئے ناخ ہے۔ واللہ اعلم

لوگوں سے بطریق الحاح نہ مانگا جائے

۱۳/۱۷۴۱ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أَوْقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ الْخَائِلَ (رواه مالك و ابو داود والنسائي)

اخرجه ابو داود في السنن ۲۷۸/۲ حديث رقم ۱۶۲۷۔ والنسائي ۹۸/۵ حديث رقم ۲۵۹۶ واحمد في المسند ۴۳۰/۵۔ ترجمہ: ”اور حضرت عطاء ابن یسار قبیلہ بنو اسد کے ایک شخص سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جو شخص ایک اوقیہ کا یا اس کے قیمت کے بقدر سونا وغیرہ کا مالک ہو اور اس کے باوجود وہ لوگوں سے مانگے تو اس نے گویا بطریق الحاح سوال کیا۔“ (مالک ابو داود و نسائی)

تشریح: بطریق الحاح کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اضطراری کیفیت کے علاوہ اور بلا ضرورت نیز انتہائی مبالغہ کے ساتھ لوگوں سے مانگا جو ممنوع ہے اور برا ہے چنانچہ قرآن کریم میں فقراء کی بایں طور تعریف کی گئی ہے: وَلَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ الْخَائِلَ ”وہ لوگوں سے بطریق الحاح نہیں مانگتے۔“

انتہائی ضرورت کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا یا جائے

۱۳/۱۷۴۲ وَعَنْ حُبَيْشِ بْنِ جَنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِعَبْدٍ وَلَا لِعَبْدٍ مَرَّةً سِوَى الْإِلَهِ فَقَرُّ مُدْفِعٍ أَوْ غَرْمٍ مُقْطِعٍ وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُعْرِىَ بِهِ مَالَهُ كَانَ حُمُوشًا لِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْلِمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْخِرْ۔ (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴۳/۳ حدیث رقم ۶۵۳۔

ترجمہ: ”اور حضرت حبشی ابن جنادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا نہ تو غنی کے لئے اور نہ تندرست و توانا اور صحیح الاعضاء کے لئے مانگنا حلال ہے ہاں فقیر کے لئے مانگنا حلال ہے جسے زمین پر ڈال دیا گیا ہو اسی طرح اس قرض دار کے لئے بھی مانگنا حلال ہے جو بھاری قرض کے نیچے دبا ہو جو شخص صرف اس لئے لوگوں سے مانگے کہ اپنے مال و زر میں زیادتی ہو تو قیامت کے دن اس کا مانگنا اس کے منہ پر زخم کی صورت میں ہو گا۔ نیز دوزخ میں اسے گرم پتھر اپنی خوراک بنائے گا اب چاہے کوئی کم سوال کرے چاہے کوئی زیادہ سوال کرے۔“ (ترمذی)

تشریح: زمین پر ڈال دیا ہو“ یہ کنایہ ہے شدت محتاجی اور مفلسی نے زمین پر ڈال رکھا ہے کہ اٹھنے کی بھی سکت نہیں رکھتا۔ گویا مطلب یہ ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر صرف انتہائی محتاجی ہی کے وقت جائز ہے حدیث کے آخر کی جملہ بطور تنبیہ و تہدید ارشاد فرمایا گیا ہے جیسا کہ کافروں ظالموں اور خدا کے باغیوں کے بارے میں بطور تہدید قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ:

﴿مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا﴾

”جو چاہے مومن ہو جائے اور جو چاہے کافر ہو جائے ہم نے تو ظالموں کے لئے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے۔“

۱۵/۱۷۴۳۳ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ فَقَالَ بَلَى جِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ أَنْتَبَيْ بِهِمَا فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَرِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَأَبْدَهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْآخِرِ قُدُومًا فَأَتَيْنِي بِهِ فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْدًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ إِذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلَا أَرَيْتَكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَقَالَ لَقَدْ هَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَهُ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ فَاشْتَرَى بَعْضُهَا ثَوْبًا وَبَعْضُهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةَ نُكْثَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِفَلَانَةٍ لَيْدِي فَقَرِي مُدَقِّعٍ أَوْ لَيْدِي غُرْمٍ مُفْطِيعٍ أَوْ لَيْدِي دَمٍ مُوجِعٍ -

(رواه ابو داود وروی ابن ماجہ الى قوله يوم القيامة)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۲۹۲/۲ حدیث رقم ۱۶۶۱۔ وابن ماجہ ۷۴۰۰/۲۔ حدیث رقم ۲۱۹۸۔ واحمد فی المسند ۱۱۴/۳۔

ترجمہ: ”اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن انصار میں سے ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا اور کسی چیز کا سوال کیا۔ آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ صرف ایک موٹی سی کھلی ہے جس میں سے کچھ حصہ اوڑھتا ہوں اور کچھ حصہ بچھا لیتا ہوں اس کے علاوہ ایک پیالہ بھی ہے جس میں پانی پیتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا ان دونوں چیزوں کو لے آؤ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی کریم ﷺ نے دونوں چیزیں اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ ان چیزوں کو کون خریدتا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ میں ان

دونوں چیزوں کو ایک درہم میں خریدنے کے لئے تیار ہوں! آپ ﷺ نے فرمایا ”ان چیزوں کو ایک درہم سے زیادہ میں کوئی خریدنے والا ہے؟“ آپ ﷺ نے یہ دو یا تین دفعہ فرمایا، ایک شخص نے کہا کہ میں ان چیزوں کو دو درہم میں خریدتا ہوں! آپ ﷺ نے وہ دونوں چیزیں اس شخص کو دے دیں اور اس سے دو درہم لے کر انصاری کو دیئے اور اس سے فرمایا کہ اس میں سے ایک درہم کا کھانے کا سامان خرید کر اپنے گھر والوں کو دے دو اور دوسرے درہم کی کلباڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ، وہ شخص کلباڑی خرید کر آپ ﷺ کے پاس لایا۔ آپ ﷺ نے اس کلباڑی میں اپنے دست مبارک سے ایک مضبوط لکڑی لگا دی اور پھر اس سے فرمایا کہ اسے لے کر جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر جمع کرو اور انہیں فروخت کرو اب اس کے بعد میں تمہیں پندرہ دن تک یہاں نہ دیکھوں چنانچہ وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں جمع کر کے فروخت کرنے لگا جب وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا تو اب وہ دس درہم کا مالک تھا، اس نے ان درہموں میں سے کچھ کا کپڑا خریدا اور کچھ کا غلہ خریدا۔ نبی کریم ﷺ نے اس کی حالت کی اس تبدیلی کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ صورت حال تمہارے لئے بہتر ہے بہ نسبت اس چیز کہ کل قیامت کے دن تم اس حالت میں آؤ کہ تمہارے سوال تمہارے منہ پر برے نشان یعنی زخم کی صورت میں ہو اور یہ یاد رکھو کہ صرف تین طرح کے لوگوں کو سوال کا نامناسب ہے ایک محتاج کے لئے کہ جس کی مفلسی نے زمین پر گرا دیا ہو دوسرے اس قرض دار کے لئے جو بھاری اور عدم ادائیگی کی صورت میں ذلیل کرنے والے قرض کے بوجھ سے دبا ہو اور تیسرے صاحب خون کے لئے جو درد پہنچائے یعنی اس شخص کے لئے جس پر دیت واجب ہو خواہ اس نے خود کسی کا ناحق خون کیا ہو اور اس کا خون بہا اس کے ذمہ ہو یا کسی دوسرے شخص نے کوئی خون کر دیا ہو اور اس کی دیت اس نے اپنے ذمہ لے لی ہو مگر اس کی ادائیگی کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کے لئے بھی جائز ہے کہ اس خون بہا کے بقدر کسی سے مانگ کر ادائیگی کر دے۔ ابو داؤد و ترمذی نے اس روایت کو یوم القیامت تک نقل کیا ہے۔“

لوگوں سے سوال کرنے کی ممانعت

۱۶/۱۷۴۳ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَصَابَتْهُ فَاَقْتَرَفَتْهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاَقْتَرَفَتْهُ وَمَنْ أَقْتَرَفَتْهَا بِاللَّهِ أَوْ شَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغَنِيِّ إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ أَوْ غَنًى عَاجِلٍ۔ (رواہ ابو داؤد و الترمذی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۲۹۶/۲ حدیث رقم ۱۶۴۵۔ و الترمذی فی السنن ۴۸۷/۴ حدیث رقم ۲۳۲۶۔ واحمد فی المسند ۴۰۷/۱۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص فاقہ سے دوچار ہو اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان سے حاجت روائی کی خواہش کرے تو اس کی حاجت پوری نہیں کی جائے گی اور جس شخص نے صرف اپنے اللہ سے حاجت کو بیان کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جلد فائدہ اور اطمینان عطا فرمائے گا بایں طور کہ اسے جلد ہی یا تو موت سے ہمساکر کر دے گا یا اسے کچھ دنوں میں مالدار بنا دے گا۔“ (ابو داؤد و ترمذی)

تفسیر: حدیث کے آخری جملے ”أَوْ غَنًى عَاجِلٍ“ میں لفظ مصابح کے اکثر نسخوں اور جامع الاصول میں ”عین“ سے یعنی عامل مرقوم ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد فائدہ اطمینان عطا فرمائے گا بایں طور کہ اسے جلد ہی دولت مند و مالدار بنا دے گا۔ مگر خود سنن ابو داؤد و ترمذی میں کہ جہاں سے یہ روایت نقل کی گئی ہے یہ لفظ ”عجل“ ہی ہے اور صحیح بھی یہی ہے چنانچہ ترجمہ

اسی کے مطابق کیا گیا ہے۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ حدیث قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

”جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے نکلنے کی جگہ پیدا فرمادیتا ہے اور اس کی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہوتا ہے۔“

الفصل الثالث:

ضرورت کے وقت سوال اچھے لوگوں سے کیا جائے

۱۷/۱۷۳۵ عَنِ ابْنِ الْفَرَّاسِيِّ أَنَّ الْفَرَّاسِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَإِنْ كُنْتُ لَا بُدَّ فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ۔

(رواہ ابو داؤد والنسائی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۰۰/۲ حدیث رقم ۱۶۴۶۔ والنسائی ۹۵۰/۵ حدیث رقم ۲۵۸۷۔ واحمد فی المسند ۳۳۴/۴۔

”اور حضرت ابن فراسیؒ کہتے ہیں کہ میرے والد مکرم حضرت فراسیؒ نے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! کیا میں لوگوں سے مانگ سکتا ہوں؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ہر حالت میں خدا ہی پر بھروسہ رکھو ہاں اگر کسی شدید ضرورت اور سخت حاجت کی وجہ سے مانگنا ضروری ہے تو پھر نیک بختوں سے مانگو۔“

(ابوداؤد نسائی)

تشریح ❁ ضرورت و حاجت کے وقت نیک بختوں سے مانگنے کے لئے اس لئے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس حلال مال ہوتا وہ بردبار اور مہربان ہوتے ہیں بھیگے مانگنے والوں سے پردہ دری نہیں کرتے اور ان کے ناموں کو اچھا لیتے نہیں یہی وجہ ہے کہ بغداد کے فقراء و مساکین اپنی ضرورت و احتیاج کے وقت حضرت امام احمد ابن حنبلؒ ہی کے دروازے پر جاتے تھے اور ان سے اپنی ضرورت و حاجت بیان کرتے تھے۔

حضرت امام موصوف کے تقویٰ و احتیاط کا کیا عالم تھا؟ اس کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے گھر والوں کو خیر کی ضرورت ہوئی جسے انہوں نے حضرت امام احمدؒ کے صاحبزادے ہی کے گھر سے منگوایا، حضرت امام احمدؒ کے صاحبزادے قاضی کے عہدہ پر فائز تھے اور ان کی سعادت و بھلائی کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے ہی کے پاس سوتے تھے تا کہ کوئی محتاج و ضرورت مند واپس نہ ہو جائے، بہر حال امام احمدؒ کے گھر والوں نے اس خیر سے روٹی پکائی اور جب حضرت امام موصوفؒ کے سامنے کھانا آیا تو انہیں بذریعہ کشف روٹی کے بارے میں کوئی شبہ گزرا انہوں نے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے صورتحال بتائی، حضرت امام موصوفؒ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا ان کی وجہ سے گھر والوں نے بھی نہیں کھایا اور پوچھا کہ یہ کھانا فقراء کو دے دیا جائے، انہوں نے فرمایا کہ دے دو مگر اس شرط کے ساتھ کہ انہیں بھی صورتحال سے مطلع کر دینا، چنانچہ فقراء نے بھی اسے لیتے سے انکار کر دیا آخر کار گھر والوں نے پورے گھر کا کھانا امام موصوفؒ کی اجازت کے بغیر ہی

دریائیں ڈلوادیا۔

بغیر مانگے اگر کوئی چیز مل جائے تو قبول کر لینی چاہیے

۱۸/۱۷۴۶ وَعَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَذَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ قَالَ خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَعَمَلْتَنِي فَقُلْتُ مَعْلُ قَوْلِكَ لَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ۔

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۲۹۶/۲ حدیث رقم ۱۶۶۷۔

ترجمہ: ابن عدی سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے مجھے زکوٰۃ لینے کے لیے عامل بنایا۔ جب میں اس سے فارغ ہوا اور میں نے زکوٰۃ حضرت عمرؓ کو پہنچائی تو حضرت عمرؓ میرے لیے زکوٰۃ کی مزدوری کا حکم فرمایا میں نے کہا میں نے یہ عمل اللہ کے لیے کیا ہے اور میرا ثواب اللہ پر ہے۔ فرمایا جو چیز تجھے دی جائے اس کو لے لے۔ تحقیق میں نبی کریم ﷺ کے زمانے میں عمل کیا۔ تو آپ ﷺ نے مجھے مزدوری دینے کا ارادہ کیا۔ پس میں نے بھی تیری طرح کہا۔ پس نبی کریم ﷺ نے مجھے فرمایا۔ جس وقت تجھے بغیر مانگے کوئی چیز مل جائے اس کو کھلے اور (جو تیری حاجت سے بچ جائے اس کو) اللہ کے لیے دو۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے بیت المال سے عوض لینا جائز ہے۔ خواہ وہ کام فرض ہی کیوں نہ ہو جیسے قضا اور احتساب اور تدریس بلکہ امام پر واجب ہے کہ ان کی خبر گیری کرے اور اس طرح کی حدیث پہلے گزر چکی ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کسی کو بغیر سوال کے اور بغیر طمع کے کچھ دے تو امام احمدؒ کے مذہب کے مطابق اس کو قبول کرنا واجب ہے اور جمہور علماء نے اس امر کو استحباب یا اباحت پر محمول کیا ہے۔

غیر اللہ سے مانگنا بہت برا عمل ہے

۱۹/۱۷۴۷ وَعَنْ عَلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ يَوْمَ عَرَفَةَ رَجُلًا يَسْأَلُ النَّاسَ فَقَالَ أَفَىٰ هَذَا الْيَوْمِ وَفَىٰ هَذَا الْمَكَانِ تَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ فَخَفَقَهُ بِالْدِرَّةِ۔

رواہما رزین

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرفہ کے دن ایک شخص کو سنا کہ وہ لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ حضرت علیؓ نے اس سے کہا کہ کیا تو اس دن میں اور اس مقام پر (خدا کی ذات کے علاوہ) لوگوں سے مانگتا ہے۔ پس اس کو درے کے ساتھ مارا۔ اس کو زریں نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا ہرگز جائز نہیں ہے کیونکہ عرفہ کا دن قبولیت دعا کا دن ہے اور مقام عرفات بابرکت جگہ ہے۔ اس مقام پر سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی سے مانگنا نہیں چاہیے اور اسی طرح مسجد میں بھی

سوال نہیں کرنا چاہیے۔

طمع فقر ہے

۲۰/۱۷۸ عَنْ عُمَرَ قَالَ تَعْلَمُونَ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ الطَّمَعَ فَقْرٌ وَأَنَّ الْإِيَّاسَ غِنًى وَأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا نَيْسَ عَنْ شَيْءٍ اسْتَغْنَى عَنْهُ - (رواہ رزین)

رواہما رزین۔

ترجمہ: حضرت عمرؓ سے روایت ہے اے آدمیو! جان لو طمع محتاجی ہے اور آدمیوں سے ناامید ہونا تو غمگینی (مالداری) ہے اور بے پروائی ہے اور تحقیق جب آدمی کسی چیز سے ناامید ہو جاتا ہے تو اس چیز سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس کو رزین نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں طمع کے بارے میں بتایا ہے کہ طمع یعنی لالچ ایک قسم کی محتاجی ہے یا یہ لالچ محتاجی کا باعث ہے اور کسی سے ناامید ہو جانا مالداری ہے۔ سید ابوالحسن شاذلی نے فرمایا ہے۔ جب ان سے علم طلب کیا گیا۔ تو انہوں نے اس کو دو کلموں میں بند کر دیا۔ نمبر ایک مخلوق کو اپنی نظر سے پھیر دو۔ یعنی کسی سے امید نہ رکھو اور اس سے طمع کو قطع کر لو کہ تجھے تیری قسمت کے علاوہ دے گا۔ اور طمع کے معنی ہے نظر رکھنا اور مال پر شک کرنا کہ آیا وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ یہ طمع ہے۔ اگر کسی پر لازم حق ہو یا محبت و کرم کے یقین ہو کہ وہ دے گا۔ تو یہ طمع نہیں ہے۔

انسانوں سے نہ مانگنے پر جنت کی ضمانت

۲۱/۱۷۹ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَاتَّكِفُلْ لَهُ بِالْحَنَّةِ فَقَالَ ثَوْبَانُ أَنَا فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا - (رواہ ابو داود والنسائی)

اخرجه ابو داود فی السنن ۲/۲۹۵ حدیث رقم ۱۶۴۳۔ واحمد فی المسند ۲۷۵/۵۔

ترجمہ: حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص میرے ساتھ عہد کرے کہ وہ آدمیوں سے نہ مانگے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پس ثوبانؓ نے کہا میں عہد کرتا ہوں میں کسی سے نہیں مانگوں گا۔ پس ثوبانؓ کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے اگرچہ تنگی بھی ہوتی۔ اس کو ابو داود اور نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص لوگوں سے اپنی تنگی کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ میں اس کیلئے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوگا اور اس میں نہ مانگنے والے کے لئے خاتمہ بالخیر کی بشارت کا اشارہ ہے اور جب انسان موت کا خوف ہو کہ اگر وہ سوال نہیں کرے گا یعنی مانگ کر نہیں کھائے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی اس وقت اس کا مانگنا ضروری ہے کیونکہ منوعات بھی ضرورت کے وقت مباح ہو جایا کرتی ہیں اگر وہ اس اضطراری کیفیت میں بھی نہیں مانگے گا تو گنہگار ہوگا اور گناہ گار مرے گا۔

ادنیٰ چیز کے لیے بھی سوال نہیں کرنا چاہیے

۲۲/۱۷۵۰ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَشْتَرِطُ عَلَيَّ أَنْ لَا تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَلَا سَوْطَكَ إِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتَّى تَنْزِلَ إِلَيْهِ فَتَأْخُذَهُ - (رواه احمد)

اخرجه احمد في المسند ۱۸۱/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے بلایا اور شرط لگائی کہ میں لوگوں سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ میں نے کہا ہاں یعنی میں نے آپ سے شرط کی اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر تیرا کوڑا بھی گر پڑے تو کسی سے نہ مانگ یہاں تک کہ تو خود اس کی طرف اتر کر اسے اٹھا۔ اس کو امام احمدؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے یہ بطور مبالغہ کے ہے۔ یعنی کمال درجے کا مبالغہ ہے حالانکہ وہ اپنی گری ہوئی چیز مانگ رہا ہے یہ حقیقت میں سوال نہیں ہے لیکن مانگنے کا نام اس پر بھی آتا ہے۔ اس لیے بطور مبالغہ کے اس کو بھی منع فرمایا۔

بَابُ الْإِنْفَاقِ وَكَرَاهِيَةِ الْإِمْسَاكِ

یہ باب ہے مال خرچ کرنے کی فضیلت اور بخل کی کراہت کے بارے میں

الفصل الاول

آپ ﷺ کا جذبہ سخاوت

۱۱/۷۵۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَيْتُ أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِلدِّينِ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۵۱۵ حدیث رقم ۲۳۸۹۔ و مسلم فی صحیحہ ۱۸۷/۲ حدیث رقم (۳۱-۹۹۱)۔ وابن ماجہ ۱۳۸۲/۲ حدیث رقم ۴۱۳۲۔ و احمد فی المسند ۲۵۶/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا۔ تو مجھے یہ بات پسند تھی کہ میں تین راتیں ایسی نہ گزارتا کہ میں میرے پاس اس سونے سے کچھ باقی ہو سوائے اس کے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ رکھ لیتا۔ اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے آپ ﷺ کا جذبہ سخاوت کس قدر نمایاں ہو رہا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا مجھے یہ بات پسند تھی کہ میں اس کو تین رات کے اندر اندر ہی بانٹ دیتا۔ کچھ اس میں سے اپنے پاس نہ رکھتا۔ مگر قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ رکھ لیتا۔ اس لیے کہ قرض کی ادائیگی صدقے پر مقدم ہے اور اب اکثر عوام

خیرات کرتے ہیں اور عمارتیں بناتے ہیں اور ان پر لوگوں کے حقوق فرض ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ کی نہایت سخاوت کا بیان ہے اور امت کو جذبہ سخاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔

سخی اور بخیل کے لیے فرشتوں کی دُعا

۲/۱۷۵۲ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ نَزِلَاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۰۴/۳۔ حدیث رقم ۱۴۴۲۔ و مسلم فی صحیحہ ۷۰۰/۲۔ حدیث رقم (۵۷۔ ۱۰۔ ۱۰)۔
واحمد فی المسند ۳۰۵/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں بندے صبح کرتے ہوں مگر یہ کہ دو فرشتے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے۔ یا الہی خراج کرنے والے کو بدلہ دے۔ جو مال مخلوق پر خرچ کرتا ہے اس کو بہت بدلہ دے یا تو دنیا میں مال دے یا آخرت میں ثواب عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے الہی! بخیل کو تلف دے یعنی جو مال جمع کرتا ہے اور بے محل خرچ کرتا ہے اس کا مال تلف ہو جائے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما اللہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حدیث پاک کا خلاصہ اس کے مضمون سے بالکل واضح ہے کہ خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ! اس کے مال میں برکت نصیب فرمایا اور بخل کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ اس حدیث سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اور بخل کرنے والے کے لیے فرشتے بھی بد دعا کرتے ہیں۔

اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرو

۳/۱۷۵۳ وَعَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تُوَعَى فَيُوَعَى اللَّهُ عَلَيْكَ اَرْضِحِي مَا اسْتَطَعْتِ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۱۷/۵۔ حدیث رقم ۲۵۹۱۔ و مسلم فی صحیحہ ۷۱۳/۲۔ حدیث رقم (۸۸۔ ۱۰۲۹)۔
واحمد فی المسند ۳۵۴/۶۔

ترجمہ: حضرت اسماءؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا خرچ کر (یعنی جس خرچ سے اللہ راضی ہو جائے) اور شمار نہ کر کہ کتنا دوں اور کیا دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھے بھی شمار کر کے دین گے۔ تیرا رزق برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے کم ہو جائے گا اور اس کو ایک گنی چنی چیز کی طرح کر دے گا یا تیرا آخرت میں محاسبہ کرے گا اور جو مال حاجت سے زیادہ ہو اس کو فقیر سے نہ روک۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تجھ سے مال کی زیادتی کو روک لے گا اور جو ہو سکے اللہ کے راستے میں دیتی رہ۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما اللہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرو۔ شمار کر کے نہ دو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے

ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے گا لایحصى کا معنی ایک تو وہی ہے جو حدیث میں مذکور ہو چکا ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مال کو جمع کرنے کے لیے مت گنوا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو نہ چھوڑو جو ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اللہ کے نزدیک اور میزان اعمال میں بہت زیادہ ہے اور اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (الزلزال: ۷) یعنی جو آدمی ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا۔ وہ اس کو دیکھ لے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی لا کر سامنے کرے گا۔

اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بدلہ

۴/۱۷۵۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنِيقُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنِيقُ عَلَيْكَ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۹۷/۹۔ حدیث رقم ۵۳۵۲۔ و مسلم فی صحیحہ ۶۹۰/۲ حدیث رقم (۳۶۔ ۹۹۳)۔
واحمد فی المسنن ۲/۲۴۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے! خرچ کر۔ میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما نے نقل کیا ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: اس حدیث قدسی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں۔ اگر تم میرے راستے میں مال خرچ کرو گے میں بھی تمہاری ذات پر خرچ کروں گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اموال فانیہ میں سے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ تعالیٰ اموال عالیہ آخرت میں عطا فرمائیں گے اور بعضوں نے یہ معنی لکھے ہیں کہ لوگوں کو اس مال میں سے دو جو میں نے تجھ کو دیا ہے تاکہ تمہیں دنیا و آخرت میں عطا کروں۔ اس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ (سبا: ۳۹) یعنی جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کا عوض دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔

مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو

۵/۱۷۵۵ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْ تَبْدَلَ الْفُضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُنْسِكَ شَرٌّ لَكَ وَلَا تَلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۷۱۸/۲ حدیث رقم ۹۷۔ ۱۰۳۶۔

ترجمہ: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اے آدم کے بیٹے! اپنے مال کو خرچ کر جو حاجت سے زائد ہو۔ وہ تیرے لیے دنیا و آخرت میں بہتر ہے اور تیرے لیے اس کو روک رکھنا برا ہے اور بقدر کفایت پر تجھے ملامت نہیں کی جائے گی اور اس مال کو خرچ کرنا ان لوگوں سے شروع کر جو تیرے عیال میں ہوں۔ نقل کی یہ مسلم نے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں کفاف کا جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص بھوک اور سوال سے بچنے کے لیے مال کو بچائے رکھے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے یہ اشخاص اور امان اور احوال کے اختلاف سے مختلف ہوتا رہتا ہے۔ یعنی بعض کا تو شکم ہوتا ہے اور بعض کا زیادہ اور بعض دنوں میں کچھ ہوتا ہے اور بعضوں میں کچھ اور اپنے عیال پر خرچ کر۔ جن کا نفقہ تم پر لازم ہے۔ اگر بچ جائے تو دوسرے کو دے یہ نہ ہو کہ تو دوسرے کو دیتا رہے اور تیرے اپنے محتاج رہیں اور ظاہر یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے اگرچہ صریح لفظ اس کے ساتھ نہیں ہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ شاید حضور ﷺ نے اس طرح فرمایا ہو۔

صدقہ دینے والے اور بخیل کی مثال

۶/۱۷۵۶ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ الرَّجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جَنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدْ اضْطَرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى تِلْكَ فَيُحْمَا فَيَجْعَلُ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْسَطَتْ عَنْهُ وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ فَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلَّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا۔

(متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۰۵۳۔ حدیث رقم ۱۴۴۳ و مسلم فی صحیحہ ۷۰۸/۲ حدیث رقم (۷۵۰-۱۰۲۱)۔
واحمد فی المسند ۳۸۹/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بخیل اور صدقہ دینے والے کا حال دو شخصوں کے حال کی طرح ہے کہ ان پر دو لوہے کی زرہیں ہیں جن کی تنگی کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور ان کی گردنیں ان کی چھاتی کی طرف چمپے ہوئے ہیں۔ پس جب صدقہ دینے والے نے صدقہ دینے کا قصد کیا تو وہ زرہ کھل جاتی ہے اور بخیل جب صدقہ دینے کا قصد کرتا ہے تو سب حلقے اپنی جگہ پر مل جاتے ہیں۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما اللہ نے روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ صدقہ دینے والا یعنی بخشنے والا جب صدقہ دینے کا قصد کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا سینہ فراخ ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ کسی کو دینے کے لیے دراز ہو جاتے ہیں اور بخیل کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ سمٹ جاتے ہیں اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بخشنے والا جب سخاوت کا قصد کرتا ہے تو بھلائی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور بخیل کے لیے مال خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

بخل سے بچو

۷/۱۷۵۷ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا إِيمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۱۹۹۶/۴ حدیث رقم (۵۶-۲۵۷۸)۔ و احمد فی المسند ۳۲۲/۳۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ظلم کرنے سے بچو۔ پس ظلم قیامت کے دن

اندھیروں کی صورت میں ہوگا اور بخلی سے بچو کیوں کہ بخلی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ انہوں نے خوزیزی کی اور حرام کو حلال جانا۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں ظلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ظلم کا معنی ہے ایک چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ رکھنا یہ ظلم یعنی وضع اشیٰ فی غیر محلہ اور یہ تمام گناہوں کو شامل ہے یعنی جو گناہ ہے وہ ظلم ہے اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ علامہ طیبیؒ نے کہا ہے یہ ظاہر پر محمول ہے ظلم بہت سے اندھیروں کی صورت میں ظاہر ہوگا کہ ظالم راستہ نہیں پاسکے گا یا اندھیروں سے مراد شدائد اور قیامت کے ہولناک مناظر ہیں۔ اور فرمایا کہ بخل سے بچو۔ یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے اس کو اس لیے علیحدہ بیان کیا کیونکہ یہ ظلم کی ایک بڑی قسم ہے اور بخل خوزیزی اور حرام کو حلال جانے کا باعث یعنی سبب ہوتا ہے مالوں کا خرچ کرنا اور مسلمان بھائیوں کی خبر گیری کرنا۔ آپس کی محبت اور ملنساری کا باعث ہے اور بخل ترک ملاقات اور انقطاع کا سبب ہے۔ یہ لڑائی اور دشمنی کا باعث ہے اور جب دشمنی ہوتی ہے تو خوزیزی بھی ہوتی ہے۔ اور حرام کو مباح کرنا بھی ہوتا ہے۔ جیسے دشمن کی عورتوں کو اور مال کو اور ان کی آبروریزی کرنے کو حلال جانتا ہے۔

صدقہ دینے کو غنیمت جانو

۸/۱۷۵۸ وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ بِهَا۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۸۱/۳ حدیث رقم ۱۴۱۱۔ و مسلم فی صحیحہ ۷۰۰/۲ حدیث رقم (۵۸-۱۰۱۱)۔

والنسائی فی السنن ۷۷/۵ حدیث رقم ۲۵۵۵۔ واحمد فی المسند ۳۰۶/۴۔

ترجمہ: حضرت حارث بن وہبؒ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لے کر پھرے گا۔ پس وہ کوئی ایسا شخص نہیں پائے گا جو اس کو قبول کر لے۔ آدمی کہے گا اگر تو کل لے کر آتا تو میں اس کو قبول کر لیتا۔ آج مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قرب قیامت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لے کر پھرے گا کوئی اس کو قبول کرنے والا نہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے۔ سب مالدار ہونگے یا دل غنی ہوگا اور اس کی وجہ سے دنیا سے بے رغبتی ہوگی اور وہ آخرت کی طرف راغب ہونگے۔ یہ بات امام مہدیؑ کے زمانے میں پیش آئے گی جو آخری زمانہ ہوگا۔

اپنے تقاضوں کو دباتے ہوئے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا افضل صدقہ ہے

۹/۱۷۵۹ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ الصَّدَقَةِ أَنْ تُعْطَى أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبُ شَيْءٍ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تَمُهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۸۴/۳۔ حدیث رقم ۱۴۱۹۔ ومسلم فی صحیحہ ۷۱۶/۲ حدیث رقم (۹۲-۱۰۳۲)۔

والنسائی فی السنن ۶۸/۵۔ حدیث رقم ۲۵۴۲۔ واحمد فی المسند ۲۳۱/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! ثواب کی رو سے کونسا صدقہ بڑا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تو صدقہ کر اس حال میں کہ تو تندرست ہو، مال جمع کرنے کی حرص رکھتا ہو اور فقر سے ڈرتا بھی ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو اور صدقہ دینے میں ڈھیل نہ دو یہاں تک کہ موت کا وقت قریب آجائے پھر تو یہ کہے کہ فلان کے لیے اتنا ہے اور فلاں کے لیے اتنا ہے۔ حالانکہ وہ تو (تیرے مرتے ہی) فلاں کا ہو چکا۔ اس کو بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ تندرستی کی حالت میں اللہ کے لیے صدقہ دے کیونکہ اس وقت عمر درازی کی امید کی وجہ سے مال جمع کرنے کی حرص ہوتی ہے اور محتاجی سے ڈرتا ہے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرونگا تو محتاج ہو جاؤں گا۔ اور مال داری کی امید رکھتا ہے۔ تو ایسے وقت میں صدقہ دینے سے بہت زیادہ اجر ملتا ہے اور صدقہ دینے میں بھی ڈھیل نہ کرو۔ یہاں تک کہ موت کا وقت قریب آجائے اور یہ کہے کہ فلان کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا دے دو کیونکہ اس وقت وارثوں کا حق متعلق ہو گیا ہے حاصل یہ ہے کہ تندرستی میں صدقہ کرنا زیادہ ثواب ہے اور جب مرنے کا وقت قریب آجائے تو اس وقت صدقہ کرنے کا اتنا زیادہ ثواب نہیں ہے۔

مال جمع کرنے والے خسارے میں ہیں

۱۰/۱۷۶۰ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ قَالَ هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبُّ الْكُعْبَةِ فَقُلْتُ فَمَا ذَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَلْكَذَا وَهَلْكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۲۴/۱۱۔ حدیث رقم ۶۶۳۸۔ ومسلم فی صحیحہ ۶۸۶/۲ حدیث رقم (۳۰-۹۹۰)۔

الترمذی فی السنن ۱۲/۳ حدیث رقم ۶۱۷۔ والنسائی فی السنن ۱۰/۵ حدیث رقم ۲۴۴۰۔ واحمد فی المسند ۱۵۲/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس گیا آپ ﷺ کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ جب آپ ﷺ نے مجھے دیکھا تو فرمایا رب کعبہ کی قسم! وہ نہایت خسارے میں ہیں پس میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! کون ہیں وہ؟ فرمایا کہ مال کو بہت زیادہ جمع کرنے والے۔ مگر جس شخص نے ادھر ادھر یعنی اپنے ہر طرف آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کیا اور ایسے ان میں تھوڑے سے ہیں یعنی ایسا کرنے والے بہت کم ہیں۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث میں بتایا گیا ہے مال جمع کرنے والے کے لیے آپ ﷺ نے وعید سنائی ہے کہ وہ بہت خسارے والے لوگ ہیں کیونکہ حضرت ابو ذرؓ جو صحابی رسول ہیں انہوں نے فقر کو غنا پر اختیار کیا تھا۔ حضور ﷺ نے ان کی تسلی کے لیے یہ حدیث بیان فرمائی اس میں فقر کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔

الفصل الثانی:

سخاوت کو بخل پر برتری حاصل ہے

۱۱/۱۷۶۱ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ وَالْجَاهِلُ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ۔ (رواه الترمذی)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۰۲/۴۔ حدیث رقم ۱۹۶۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اللہ کی رحمت سے، جنت سے، لوگوں سے نزدیک ہے۔ آگ سے دور ہے اور بخیل اللہ سے، جنت سے، لوگوں سے دور ہے اور آگ کے نزدیک ہے اور البتہ جاہل نبی اللہ کے نزدیک عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ نبی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اور بخیل اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اور آگ کے نزدیک ہوتا ہے جاہل نبی سے مراد یہ ہے کہ جو فرائض اور نوافل ادا کرے اور عابد سے مراد وہ ہے جو نوافل بہت ادا کرے خواہ وہ عالم ہو یا نہ ہو۔

تندرستی میں مال خرچ کرنا مرتے وقت مال خرچ کرنے سے بدرجہا بہتر ہے

۱۲/۱۷۶۲ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَصَدَّقُ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ عِنْدَ مَوْتِهِ۔ (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۲۸۸/۳۔ حدیث رقم ۲۸۶۶۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ البتہ اللہ کی رضا کے لیے تندرستی کی حالت میں ایک درہم دینا مرتے وقت سو درہم دینے سے بہتر ہے۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے اگر کسی نے تندرستی میں تھوڑا سا مال بھی اللہ کی رضا کے لئے خرچ کیا وہ مرتے وقت ہزاروں درہم کی خیرات کرنے سے بدرجہا بہتر ہے۔

زندگی میں خیرات کرنے پر زیادہ ثواب ملتا ہے

۱۳/۱۷۶۳ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ يُعْتِقُ كَمَا لَدَى يَهْدِي إِذَا شِيعَ۔ (رواه احمد والنسائی والدارمی والترمذی وصححه)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۲۸۶/۴۔ حدیث رقم ۳۹۶۸۔ والترمذی ۳۷۸/۴۔ حدیث رقم ۲۱۲۳۔ والنسائی ۲۳۸/۶۔

حدیث رقم ۳۶۱۴۔ والدارمی ۵۰۵/۲۔ حدیث رقم ۳۲۲۶۔ واحمد فی المسند ۱۹۷/۵۔

ترجمہ: حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اس شخص کی مثال جو مرتے وقت خیرات کرتا ہے یا مرتے وقت غلام آزاد کرتا ہے اس شخص کی طرح ہے جو کھانا کھانے کے بعد کھانے کا تھکھ بھیجتا ہے۔ اس کو امام احمدؒ نسائی اور دارمی اور ترمذی اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ مرتے وقت اللہ کے لیے دینے اور غلام آزاد کرنے میں ثواب کم ہوتا ہے جیسا کہ پیٹ بھر چکنے کے بعد دینے میں ثواب کم ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ کے لیے آزاد کرنا اور حالت صحت میں آزاد کرنا افضل ہے جیسا کہ بھوک کے وقت سخاوت کرنی افضل ہے۔

مؤمن مذکورہ دو خصلتوں کا حامل ہوتا ہے

۱۳/۱۷۶۳ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۰۲/۴ حدیث رقم ۱۹۶۲۔

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ مؤمن میں دو خصلتیں جمع نہیں ہوتیں۔ ایک بخل دوسری بد خلقی اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ مؤمن کے اندر دو خصلتیں جمع نہیں ہوتیں۔ ایک بد اخلاقی دوسری کجی یا حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ مؤمن کے اندر انتہا درجے کی خصلتیں نہیں پائی جاتیں کہ اس سے جدا ہی نہ ہو سکیں اور وہ ان کے ساتھ راضی ہو اور اگر کبھی طبیعت بشریہ کے اقتضاء سے بد خلقی یا بخل کرے اور بعد ازاں اس پر نادم ہو اور نفس کو ملامت کرے تو یہ کمال ایمان کے منافی نہیں اور بد خلقی سے مراد یہ ہے کہ وہ خلاف شرع باتیں کرے۔ خلق کا معنی صرف اخلاق کا ہی نہیں ہے جس کا مطلب عام لوگوں میں مشہور ہے کسی کو جھک کر سلام کرنا اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا۔ معاملات میں آسانیاں پیدا کرنا۔

مکار اور بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا

۱۵/۱۷۶۵ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا بَخِيلٌ وَلَا مَنَّانٌ (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۰۳/۴ حدیث رقم ۱۹۶۴۔ واحمد فی المسند ۷/۱۔

ترجمہ: حضرت ابوبکر صدیقؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا بہشت میں مکار اور بخیل داخل نہ ہوگا اور نہ ہی اللہ کی رضا کے لیے دے کر احسان جتانے والا داخل ہوگا۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ مکار، بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی بغیر عذاب کے داخل نہیں ہوگا بلکہ عذاب کے بعد داخل ہوگا اور بخیل سے مراد یہ ہے کہ اپنے واجبات کو اظہار نہ کرے اور منان کے

معنی تو یہی ہیں جو مذکور ہوئے ہیں اور اس کے دوسرے معنی ہے کاٹنے والا جو رشتے داروں سے قطع تعلقی کرنے والا ہو اور مسلمانوں سے محبت نہ رکھے۔ ایک اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ۔ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

حرص اور بزدلی بری خصلتیں ہیں

۱۶/۱۷۶۲ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ شُحُّ هَالَعٍ وَجَبْنُ هَالَعٍ۔ (رواہ ابو داؤد)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۲۶۱۳ حدیث رقم ۲۵۱۱۔ واحمد فی المسند ۳۰۲/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے آدمی میں بدترین خصلتوں میں سے دو ہیں ایک نہایت درجے کا بخل دوسری نہایت درجے کی بزدلی۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ابو ہریرہؓ کی حدیث: لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ کو کتاب الجہاد میں ذکر کریں گے۔ اس حدیث کا خلاصہ مختصر اُعرض کیا جاتا ہے کہ انسان میں بدترین خصلتیں دو ہیں: ۱) انتہائی درجے کا بخل ہو جانا اور ۲) دوسری خصلت بزدلی ہے۔ جو انسان کو کفار کے ساتھ لڑائی کرنے سے روک دے۔ اس لیے روایت میں یہ بات گزر چکی ہے کہ بخل آدمی اللہ کو ناپسند ہوتا ہے اور خدا کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔

الفصل الثالث:

آپ ﷺ کا خیرات کرنے والی کی طرف اشارہ کرنا

۱۷/۱۷۶۷ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أَسْرَعُ بِكَ لِحَوْقًا قَالَ أَطْوَلُكُمْ يَدًا فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا وَكَأَنَّ سَوْدَةَ أَطْوَلُ لَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدَ إِنَّمَا كَانَ طُولُ يَدِهَا الصَّدَقَةَ وَكَأَنَّ أَتَّسَرَعْنَا لِحَوْقًا بِهِ زَيْنَبُ وَكَأَنَّ تَحِبُّ الصَّدَقَةَ (رواہ البخاری وفی روایہ مسلم) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعُكُمْ لِحَوْقًا بِي أَطْوَلُكُمْ يَدًا فَالْتَمَسْتُمْ أَطْوَلُ يَدًا فَالْتَمَسْتُمْ أَطْوَلُكُمْ يَدًا فَكُنَّا نَتَّأَطُّ لَهَا يَدًا زَيْنَبُ لَا تَهَا كَأَنَّ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ۔

اخرجه البخاری فی صحيحه ۲۸۵/۳ حدیث رقم ۱۴۲۰۔ ومسلم فی صحيحه ۱۹۰۷/۴ حدیث رقم (۱۰۱)۔

(۲۴۵۲)۔ والنسائی ۶۶/۵ حدیث رقم ۲۵۴۱۔ واحمد فی المسند ۱۲۱/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی بعض بیویوں (یعنی بیویوں) نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ ہم میں سے کون آپ کے ساتھ جلدی ملنے والی ہے (یعنی آپ ﷺ کی وفات کے بعد کون ہم میں سے پہلے فوت ہو

گی) فرمایا جو لمبے ہاتھ والی ہو (یعنی جو اللہ کے لیے بہت زیادہ خیرات کرتی ہو) میرے بعد وہ پہلے مرے گی۔ انہوں نے کھینچ (یعنی بانس وغیرہ) کا ٹکڑا لے کر اپنے ہاتھ ماپنے شروع کئے تو حضور ﷺ کی بیوی حضرت سودہؓ لمبے ہاتھ والی تھی۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ تھا اور حضرت زینبؓ ہم میں سے جلد ملنے والی تھی اور خیرات کرنا پسند کرتی تھیں اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے اور مسلم شریف کی ایک روایت میں کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا تم میں سے بہت جلد ملنے والی وہ ہے جو لمبے ہاتھوں والی ہو۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کی بیویاں اپنے ہاتھوں کی لمبائی کو ناپتی تھیں۔ پس حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے لمبے ہاتھ والی حضرت زینبؓ تھیں اور وہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے خود کرتیں اور اللہ کی رضا کے لیے دیتی تھیں۔

تشریح ﴿﴾ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں اولاً ہم نے ہاتھ کے دراز ہونے کو حدیث کے ظاہر پر ہی محمول کیا تھا۔ لیکن جب حضرت زینبؓ کی وفات ہوئی۔ تو پھر ہمیں معلوم ہوا کہ ہاتھ کے لمبے ہونے سے مراد آپ ﷺ نے صدقہ و خیرات کرنے والی مراد لی ہے اور حضرت زینبؓ چڑوں کو اپنے ہاتھ سے دباغت دیتی تھیں اور پھر بیچا کرتی تھیں اور اس کی قیمت اللہ کی راہ میں دیتی تھیں۔ یعنی خیرات کر دیتی تھیں یہ انہی کی شان تھی۔ آج کوئی عورت ہے جو ایسا کرے۔

صدقہ و خیرات کے ضمن میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ

۸/۱۷۶۸ اَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَاصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيِّيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيِّيٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَنِيِّيٍّ فَاتَّبَعِي فَقِيلَ لَهَا أَمَا صَدَقْتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّكَ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرَقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّكَ يَتَعَبَّرُ فَيَنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ (متفق عليه ولفظه للبخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۴۰۱۳ حدیث رقم ۱۴۲۱۔ و مسلم فی صحیحہ ۷۰۹/۲ حدیث رقم (۷۸-۱۰۲۲)۔

والنسائی ۵۵/۵ حدیث رقم ۲۵۲۳۔ واحمد فی المسند ۳۲۲/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے دل میں کہا یا اپنے دوست سے کہا۔ میں کچھ اللہ کے لیے دوں گا۔ پس اس نے خیرات نکالی جس کی اس نے نیت کی تھی۔ تاکہ وہ کسی مستحق کو دے۔ پس اس نے خیرات بغیر جانے چور کو دے دی کہ وہ چور ہے تو لوگ باتیں کر رہے تھے۔ کہ آج رات چور کو خیرات دی گئی ہے لوگوں کو الہام خداوندی سے یا چور سے سن کو معلوم ہوا ہوگا۔ پس اس شخص نے کہا۔ یا اللہ تعریف تیری ذات کے لیے ہے چور کو دینے میں۔ البتہ میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے صدقہ دوں گا۔ تاکہ وہ مستحق کو پہنچ جائے۔ پھر اس نے اپنی خیرات نکالی اور زنا کرنے والی کے ہاتھ میں دی پھر صبح ہوئی تو لوگ باتیں کرنے لگے۔ آج کی

رات زنا کرنے والی کو خیرات دی گئی پس اس نے کہا اے اللہ تعریف تیرے ہی لائق ہے زنا کرنے والی کو خیرات دینے میں اس نے کہا میں اللہ کی رضا کے لئے خیرات کروں گا اور دولت مند کو خیرات دی گئی۔ اس نے کہا یا الہی تیرے لیے تعریف ہے چور اور زنا کرنے والی اور دولت مند کو خیرات دینے میں اس کو خواب میں دکھایا گیا اور اس کو کہا گیا۔ تیرے سب صدقات قبول ہوئے اور تیرا چور پر خیرات کرنا بے فائدہ نہیں ہے یعنی ثواب سے خالی نہیں ہے پس شاید کہ وہ چوری سے باز رہے مطلقاً باز آجائے۔ یا جب تک اس کے پاس مال موجود رہے تو وہ باز آجائے اور زنا کرنے والی شاید کہ زنا سے باز آجائے اور دولت مند شاید کہ وہ اس خیرات سے نصیحت پکڑے اور اس مال سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما اللہ نقل کیا ہے اور اس کے لفظ بخاری کے ہیں۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ اس نے جو خدا کی حمد بیان کی۔ تو وہ بطور شکر کے تھی یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ اگرچہ غیر مستحق کو دیا ہے یا اس نے خدا کی حمد بطور تعجب کے کی اور اس حدیث کی غرض یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دنیا بہر کیف ثواب اور نفع سے خالی نہیں ہے۔ جس کو بھی دے ثواب ملے گا۔ ان مذکورہ لوگوں کو مال دینے میں حدیث پاک میں حکمت بھی بیان کی گئی ہے۔ شاید چور اس خیرات کی وجہ سے چوری سے باز آجائے اور دولت مند خرچ کرنے پر آمادہ ہو جائے اور زنا کرنے والی زنا سے رک جائے اور اس خیرات کی وجہ سے راہ راست پر آجائے۔ اس لیے یہ تمام صدقات عند اللہ مقبول ہیں۔ اس لیے کہ اس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی۔

خیرات کرنے کا دنیا میں ثمرہ

۱۹/۱۷۶ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اسْمِي حَدِيقَةُ فَلَانَ فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابَ فَأَلْعَزَ مَاءٌ هُوَ فِي حَوْزَةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشَّرَاحِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ صَالِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمَسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فَلَانٌ الْإِسْمُ الَّذِي سَمِعْتُ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنْ اسْمِي فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاءٌ هُوَ يَقُولُ اسْمِي حَدِيقَةُ فَلَانَ لَا اسْمَ لَكَ تَصْنَعُ فِيهَا قَالَ أَمَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِطَلْعِهِ وَأَكُلُ أَنَا وَعِيَالِي نُلْكًا وَأَرَادُ فِيهَا نُلْكًا۔ (رواه مسلم)

اخر جہ مسلم فی صحیحہ ۲۲۸۸/۴ حدیث رقم (۴۵-۱۹۸۴)۔ واحمد فی المسند ۲۹۶۶/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں کھڑا تھا۔ اس نے بادلوں میں سے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے دو۔ پھر بادل ایک طرف چلا۔ پھر اس نے پھر پانی پر پانی برسا یا پس اچانک ان نالیوں میں سے ایک نالی نے جو اس زمین میں تھی پانی کو جمع کیا پھر وہ شخص پانی کے پیچھے چلا یعنی نالے میں سے پانی بہنے لگا اور وہ شخص بھی ساتھ چلا تا کہ معلوم کرے کہ کس کے باغ میں پانی پہنچا ہے؟ پس اچانک ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا تھا اور پیلے کے ساتھ پانی پھیر رہا تھا اس شخص نے اس سے پوچھا تیرا نام

کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فلاں ہے وہ نام بتایا جو اس نے ابر میں سنا تھا۔ پس اس نے کہا کہ میں نے ابر سے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے یعنی تیرا نام لے کر کہا تھا۔ پس تو اپنے باغ میں کیا نیکی کا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے تو اس بزرگی کے لائق ہوا ہے؟ اس نے کہا تو نے اس موقع پر بات پوچھی ہے اس لیے میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ پس جو چیز باغ سے حاصل ہوتی ہے میں اس کا ایک تہائی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتا ہوں اور ایک تہائی میں اور میرا کنبہ کھاتے ہیں اور ایک تہائی باغ میں لگا تا ہوں۔ اس کو مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے دو۔ حضور ﷺ نے باغ والے کے نام سے کنایہ کیا ہے جیسا کہ آگے صراحتاً آیا ہے کہ بادلوں میں اس کا نام لیا گیا تھا۔ حضور ﷺ نے اسی طرح فرمایا تھا۔ فلاں مخصوص نام کے ساتھ ہاتھ نے نام لیا تھا اور سامع نے فلا نا کہہ کر بیان کیا کہ میں نے تیرا نام سنا تھا اور اس نام کو لفظ فلاں سے تعبیر کیا ہے۔

انسان کو چاہیے کہ اپنے ماضی کو فراموش نہ کرے اور اللہ عز و جل کا شکر بجالائے

۲۰/۱۷۷۰ وَعَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّيْلَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَاتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْ أَنَّ حَسَنَ وَجِلْدِي حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي الذِّدْيُ قَدْ قَذَرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَلَذَّهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا قَالَ فَاتَى الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِبِلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ شَكَّ اسْمُهُ إِلَّا أَنَّ الْأَبْرَصَ أَوْ الْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الْإِبِلُ وَقَالَ الْآخَرُ الْبَقَرُ قَالَ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عَشْرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَاتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الذِّدْيُ قَدْ قَذَرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَلَذَّهَبَ عَنْهُ قَالَ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَاتَى الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ فَأُعْطِيَ بَقْرَةً حَامِلًا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَاتَى الْأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأَبْصُرَ بِهِ النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَاتَى الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا فَانْتَجَعَ هَذَانِ وَوَلَدَ هَذَا فَكَانَ يَهْلِدُ وَإِذَا مِنَ الْإِبِلِ وَلِهَذَا وَإِذَا مِنَ الْبَقَرِ وَلِهَذَا وَإِذَا مِنَ الْغَنَمِ قَالَ ثُمَّ أَنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مُسْكِينٌ قَدْ انْقَطَعَتْ بَنِي الْحَبَالِ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاعَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللّٰهُنَّ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبْلُغُ بِهِ فِي سَفَرِي فَقَالَ الْحَقُوقُ كَثِيرَةٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَاتِبِي أَعْرِفْكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْدُرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ مَا لَا فَقَالَ إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتُ كَاذِبًا فَصَيِّرْكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتُ قَالَ وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ مَا قَالَ لِهَذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتُ كَاذِبًا فَصَيِّرْكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتُ قَالَ وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مُسْكِينٌ وَأَبْنُ سَبِيلٍ انْقَطَعَتْ بَنِي الْحَبَالِ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاعَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبْلُغُ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ قَدْ

كُنْتُ أَعْمَىٰ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَخُذْ مَا شِئْتَ وَذَعْ مَا شِئْتَ قَوْلَ اللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذَتْهُ لِلَّهِ فَقَالَ أَمْسِكْ مَا لَكَ فَإِنَّمَا ابْتَلَيْتُمْ فَقَدْ رَضِيَ عَنْكَ وَسَخَطَ عَلَيَّ صَاحِبِيكَ (متفق عليه)

انرجح البخاری فی صحیحہ ۵۰۰/۶۔ حدیث رقم ۴۳۶۴۔ ومسلم فی صحیحہ ۲۲۷۵/۴۔ حدیث رقم (۱۰-۲۹۶۴)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں تین شخص تھے ایک کوڑھی اور دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ کیا (کہ یہ نعت کا شکر یہ ادا کرتے ہیں یا نہیں؟) پس ان کی طرف ایک فرشتہ مسکین کی صورت میں بھیجا۔ پس وہ کوڑھی کے پاس آیا اس نے آکر کہا کہ تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ کوڑھی نے کہا کہ اچھا رنگ اور اچھا بدن اور مجھ سے وہ چیز دور ہو جائے جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں یعنی کوڑھ جاتا رہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اس پر فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اس سے گھن دور ہو گئی یعنی کوڑھ دور ہو گیا اور اچھا رنگ دے دیا گیا یعنی خوبصورتی دے دی گئی پھر فرشتے نے پوچھا تمہیں کونسا مال زیادہ محبوب ہے اونٹ یا گائیں؟ اس نے جو حدیث کے راوی ہیں انہوں نے شک کیا ہے کہ گنجنے نے کہا یا کوڑھی نے کہا۔ ایک نے ان میں سے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائیں۔ فقط تعین میں شک ہے کہ ان دونوں میں سے کس نے کیا کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو حاملہ اونٹیاں دے دی گئیں پھر فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ تیرے لیے ان میں برکت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتہ گنجنے کے پاس آیا پس فرشتے نے کہا کہ تمہیں کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا اچھے بال۔ اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے۔ جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس سے اس کا گنج جاتا رہا اور اچھے بال یعنی خوبصورت بال اس کو دے دیئے گئے۔ فرشتے نے کہا کہ تمہیں کونسا مال زیادہ پسند ہے اس نے کہا کہ حمل والی گائیں۔ فرشتے نے کہا اللہ تجھ کو ان میں برکت دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ اندھے کے پاس آیا تو تمہیں کوئی چیز زیادہ پسند ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی واپس کر دے۔ تاکہ میں لوگوں کو دکھ سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی عطاء کر دی پھر فرشتے نے کہا کہ تمہیں کونسا مال زیادہ محبوب ہے اس نے کہا بکریاں۔ تو اس کو بہت زیادہ بچے دینے والی بکریاں دے دی گئیں پس کوڑھی اور گنجنے نے اونٹوں اور گایوں کے بچے لیے اور اندھے نے بکریوں کے بچے لیے۔ کوڑھی کے لیے ایک جنگل اونٹوں کا ہو گیا اور اندھے کے لیے ایک جنگل بکریوں کا ہو گیا اور گنجنے کے لیے ایک جنگل گایوں کا۔ پھر فرشتہ اپنی پہلی صورت میں کوڑھی کے پاس آیا یعنی جس صورت میں پہلے اس کے پاس آیا تھا اسی طرح پھر آیا پس فرشتے نے اس کے لیے کہا کہ میں مسکین آدمی ہوں۔ میرا سامان سفر کم ہو گیا ہے میں آج اپنی منزل مقصود تک سوائے اللہ کی عنایت کے نہیں پہنچ سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی عنایت کے ساتھ پھر میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر ایک اونٹ مانگتا ہوں جس نے تجھے اچھے رنگ اور اچھی جلد سے نوازا ہے میں اس اونٹ کے ذریعے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں پس کوڑھی نے کہا کہ حقدار بہت ہیں۔ تجھے ایک اونٹ نہیں مل سکتا۔ اس نے اس کو ٹالنے کے لیے جھوٹ بولا۔ پس فرشتے نے کہا میں تم کو پہچانتا ہوں تو کوڑھی تھا لوگ تجھ سے گھن کھاتے تھے اور تو محتاج تھا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت و مال سے نوازا۔ پس کوڑھی نے کہا یہ تو مجھے وراثت میں دیا گیا ہے باب دادا سے پس فرشتے نے اس سے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ یعنی کوڑھی محتاج بنا دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتہ گنجنے کے پاس پہلی صورت میں آیا۔ اس کو بھی اسی طرح کہا اور گنجنے نے

بھی ایسا ہی جواب دیا جیسے کوڑھی نے جواب دیا تھا پھر فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلی حالت کی طرح کر دے۔ پھر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا فرشتہ اندھے کے پاس آیا اپنی پہلی شکل و صورت میں اس نے کہا میں مسکین ہوں مسافر ہوں۔ میرا سامان سفر میں گم ہو گیا ہے میں اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی عنایت کے ساتھ۔ پھر تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر ایک بکری مانگتا ہوں جس نے تمہیں بینائی عطا کی ہے تاکہ سفر میں میرے کام آئے پس اندھے نے کہا میں تحقیق اندھا تھا اللہ نے میری نظر لوٹا دی۔ پس جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے پس اس نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا اس چیز کی وجہ سے جو اللہ نے مجھ پر لوٹا دی ہے۔ یعنی نظر۔ تو اللہ کے واسطے لے جا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ۔ مجھے ضرورت نہیں ہے پس اللہ کی قسم تمہاری آزمائش کی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان لیا ہے کہ تمہیں اپنا حال یاد ہے یا نہیں اور شکر کرتے ہو یا نہیں؟ پس تجھ سے اللہ راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہوا یعنی کوڑھی اور گنجلے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ اپنی حقیقت حال کو ہرگز فراموش نہ کرے اور خدا کا شکر گزار رہے اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے اپنے محسن کو پس پشت نہ ڈال دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہنا جائز ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر تجھ سے اور یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ میں عرض کرتا ہوں خدا سے اور تجھ سے۔

سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے

۲۱/۷۷۱ عَنْ أُمِّ بَجِيدٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُسْكِينَ لَيَقِفُ عَلَى بَابِي حَتَّى أَسْتَحْيِي فَلَا أَجِدُ فِي بَيْتِي مَا أَدْفَعُ فِي يَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعِيَ فِي يَدِهِ وَلَوْ ظُلْفًا مُعَرَّوًّا (رواه احمد وابو داود والترمذی وقال هذا حديث صحيح حسن)

اندرجہ ابو داؤد فی السنن ۳۰۷/۲ حدیث رقم ۱۶۶۷۔ والترمذی فی السنن ۵۲/۳ حدیث رقم ۶۶۵۔ والنسائی ۸۶/۵ حدیث رقم ۲۵۷۴۔ و احمد فی المسند ۳۸۳/۶۔

ترجمہ: ام بجد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول! ایک مسکین میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے یہاں تک کہ مجھے حیا آتی ہے پس میں اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں پاتی کہ اس کو دوں۔ پس حضور ﷺ نے فرمایا اس کے ہاتھ میں دو اگرچہ چلا ہوا کھر ہو۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹنا چاہیے کچھ نہ کچھ ضرور دے کر بھیجنا چاہیے اگرچہ حقیر چیز ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ فقیر کو ضرور کوئی چیز دینی چاہیے اگرچہ چلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔

سائل کو واپس نہیں لوٹانا چاہیے

۲۲/۱۷۷۲ وَعَنْ مَوْلَىٰ لِعُثْمَانَ قَالَ أَهْدَىٰ لَأَمِّ سَلَمَةَ بَضْعَةً مِّنْ لَّحْمٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ اللَّحْمُ فَقَالَتْ لِلْخَادِمِ صَبِّحْهُ فِي الْبَيْتِ لَعَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ فَوَضَعَتْهُ فِي كُوَّةِ الْبَيْتِ وَجَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ تَصَدَّقُوا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ فَقَالُوا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ فَذَهَبَ السَّائِلُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ أَطْعَمُهُ فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ لِلْخَادِمِ إِذْهَبِي فَاتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ اللَّحْمِ فَذَهَبَتْ فَلَمْ تَجِدْ فِي الْكُوَّةِ إِلَّا قِطْعَةً مَّرْوَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذَلِكَ اللَّحْمَ عَادَ مَرْوَةً لِمَا لَمْ تُعْطُوهُ السَّائِلَ۔

رواہ البیہقی فی دلائل النبوة۔

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو گوشت کا کپکا ہوا ٹکڑا بطور تحفہ بھیجا گیا اور نبی کریم ﷺ کو گوشت بہت پسند تھا پس ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے لونڈی کو کہا کہ اس گوشت کو گھر میں رکھ دے شاید کہ نبی کریم ﷺ نوش فرمائیں۔ لونڈی نے اس گوشت کے ٹاپے میں رکھ دیا۔ پس ماگنے والا آیا اور دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اے گھر والو! دو اللہ تم کو برکت دیں گے۔ پس گھر والوں نے کہا اللہ تجھے زیادہ دے۔ پس ماگنے والا چلا گیا۔ پھر نبی کریم ﷺ تشریف لائے پس کہا اے ام سلمہ! کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ پس ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے لونڈی کو کہا جاؤ حضور ﷺ کے لیے گوشت لے کر آؤ۔ پس لونڈی گئی تو اس نے دیکھا ٹاپے میں سفید پتھر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پس نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تمہارے سائل کو نہ دینے کی وجہ سے وہ گوشت سفید پتھر ہو گیا ہے۔ اس کو نبیہتی نے دلائل النبوة میں ذکر کیا گیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے۔ قرآن پاک سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے: ﴿وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ﴾ (الضحیٰ: ۱۰) سائل کو نہ ڈانٹنے اس لیے سوالی کے سوال کو پورا کرنا چاہیے کیا معلوم کہ وہ کس قدر ضرورت مند ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کی حالت کو بہتر سمجھتے ہیں۔

خدا کے نزدیک بدترین آدمی جو سائل کا سوال پورا نہ کرے

۲۳/۱۷۷۳ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أُخْبِرْتُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلًا فَبِلْ نَعَمْ قَالَ الَّذِي يَسْتَلُّ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطِي بِهِ۔ (رواہ احمد)

اخرجه النسائي في السنن ۸۳/۵ حديث رقم ۲۵۶۹ والدارمي ۲۶۵/۲ حديث رقم ۲۳۹۵۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک مرتبے کے لحاظ سے بدترین شخص کون ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہاں بتا دیجیے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہے جو خدا کا نام لے کر سوال کرے اور اس کے سوال پر اس کو نہ دیا جائے۔ یعنی سوال پورا نہ کیا جائے۔ اس کو امام احمدؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ کا نام لے کر سوال کرے اور اس کے باوجود اس کو نہ دیا جائے تو وہ مرتبے کے لحاظ سے خدا کے نزدیک سب لوگوں میں برا ہے۔ مگر ایک صورت میں جب سائل واقعتاً مستحق نہیں ہے بلکہ پیشہ ور بھکاری ہے یا جس سے مانگ رہا ہے اس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد نہیں ہے تو وہ نہ دینے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا اور نہ دینے والا اس وقت گناہ گار ہوگا جب سائل مال کا مستحق ہو اور اس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہو اور وہ سائل کو واپس لوٹا دے اور کچھ نہ دے۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا زہد و تقویٰ

۲۳/۱۷۷۴ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُثْمَانَ فَأَذِنَ لَهُ وَبِيَدِهِ عَصَاهُ فَقَالَ عُثْمَانُ يَا كَعْبُ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تَوَفَّى وَتَرَكَ مَالًا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَصِلُ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ عَصَاهُ فَضْرَبَ كَعْبًا وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَحَبُّ لِي هَذَا الْجَبَلُ ذَهَبًا أَنْفَقَهُ وَيَتَقَبَّلُ مِنِّي أَذْرُ خَلْفِي مِنْهُ سِتٌّ أَوْ اقْبَلِي أَنَشُدُكَ بِاللَّهِ يَا عُثْمَانُ اسْمِعْتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ۔

(رواہ احمد)

اخرجه احمد في المسند ۶۳/۱

ترجمہ: حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عثمانؓ سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ پس انہوں نے ان کو اجازت دی اور ان کے ہاتھ میں لاشی تھی۔ پس حضرت عثمانؓ نے فرمایا اے کعب! تحقیق عبدالرحمنؓ نے وفات پائی ہے اور بہت زیادہ مال چھوڑ گئے ہیں تم اس کے حق میں کہا کہتے ہو؟ (یعنی اس کا کثیر المال ہونا اس کے لیے مضرت تھا یا نہیں؟) پس کعبؓ نے کہا۔ اگر عبدالرحمن اللہ کا حق (یعنی زکوٰۃ) ادا کرتے تھے تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہے تو ابوذرؓ نے اپنی لاشی اٹھا کر حضرت کعبؓ کو ماری اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ اگر میرے واسطے احد پہاڑ یا کوئی دوسرا پہاڑ سونے کا ہو۔ میں اس کو خرچ کر دوں اور وہ قبول بھی ہو جائے اس کے باوجود میں اسے پسند نہیں کرتا کہ دنیا میں چھ اوقیہ چاندی یعنی دو سو چالیس درہم چھوڑ جاؤں۔ اے عثمان! میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم نے بھی اس کو سنا ہے؟ یہ کلام ابوذر غفاریؓ نے تین بار کہا۔ حضرت عثمانؓ نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس کو امام احمدؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابوذر غفاریؓ فقراء اور زہاد صحابہ میں سے تھے۔ یعنی زہد و فقر کے مالک تھے ان کا مذہب یہ تھا کہ مال جمع کرنا اچھا نہیں ہے سب کچھ اللہ کے لیے خرچ کر دینا چاہیے اور جب جذبہ زہد غالب آ گیا تو کعب کو مارا۔

اور جمہور علماء کا مسلک اس بارے میں یہ ہے کہ اگر مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو مضائقہ نہیں ہے یعنی مال جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ کثیر مال رکھتا ہو اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ وہ قبول بھی ہو جائے یہ بطور مبالغہ کے ہے اتنا مال خرچ کروں اور اللہ کرے وہ قبول ہو جائے اور اذکار کا لفظ حذف ان کے ساتھ احب کا مفعول ہے کہ اگر اتنا مال ہو یعنی احد پہاڑ کے

برابر سونا ہو۔ یا اس کی بقدر اللہ کے راستے میں خرچ کردوں اور وہ قبول بھی ہو جائے پھر بھی مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ چھ اوقیہ کی بقدر مال پیچھے چھوڑ جاؤں۔

دُنیا کا مال اور اسبابِ قربِ الہی میں رکاوٹ کا باعث ہے

۲۵/۱۷۷۵ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَقَرَعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ قَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرُّ عِنْدَنَا فَكَّرِهُتُ أَنْ يَحْسِبُنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ . (رواه البخاری وفی روایۃ له) قَالَ كُنْتُ خَلَفْتُ فِي الْبَيْتِ تَبَرًّا مِّنَ الصَّدَقَةِ فَكَّرِهُتُ أَنْ أُبَيِّنَهُ

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۹۹/۳ حدیث رقم ۱۴۳۰۔ والنسائی فی السنن ۸۴/۳ حدیث رقم ۱۳۶۵۔ واحمد فی

المسند ۷/۴۔

ترجمہ: عقبہ بن حارث سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے مدینہ منورہ میں نبی کریم ﷺ کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی۔ پس آپ ﷺ نے سلام پھیرا اور جلدی سے کھڑے ہوئے۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بعض عورتوں کے حجرے کی طرف گئے پس لوگ حضور ﷺ کے جلدی کرنے کی وجہ سے گھبرا گئے۔ پھر حضور ﷺ صحابہ کرام پر واپس آئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام حضور ﷺ نے آپ کے جلدی کرنے کی وجہ سے تعجب کیا ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھے سونے کی ایک چیز یاد آئی میں نے اس کو ناپسند جانا کہ وہ مجھے قربِ الہی سے روک لے۔ پس میں نے اہل بیت کو اس کے بانٹنے کا حکم کیا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما نے نقل کیا ہے بخاری شریف کی ایک روایت میں آیا ہے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا میں گھر میں ایک ڈلا سونے کا زکوٰۃ میں سے چھوڑ آیا تھا میں نے رات بھر اس کو اپنے پاس رکھنا پسند نہ کیا۔

تشریح: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ الہی کے علاوہ چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، قربِ الہی سے باز رکھنا ہے یعنی اللہ کے مقربین بھی دنیا میں مشغول ہو کر قربِ الہی سے محروم نہ ہو جائیں۔ آپ ﷺ کا یہ عمل تعلیم کے لیے تھا۔

وراثت کے مال کے بارے میں آپ ﷺ کا عمل

۲۶/۱۷۷۶ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي فِي مَرَضِهِ سِتَّةَ ذَنَابِيرٍ أَوْ سَبْعَةٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرِقَهَا فَشَغَلَنِي وَجَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهَا مَا فَعَلْتُ السِّتَّةَ أَوِ السَّبْعَةَ قُلْتُ لَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ شَغَلَنِي وَجَعُكَ فَدَعَا بِهَا ثُمَّ وَضَعَهَا فِي كَفِّهِ فَقَالَ مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللَّهِ لَوْ لَقِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهَذِهِ عِنْدَهُ . (رواه احمد)

اخرجه احمد فی المسند ۱۰۴/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کی بیماری میں ان کی چھ یا سات اشرفیاں میرے پاس تھیں۔ پھر نبی کریم ﷺ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ان کو بانٹ دوں۔ نبی کریم ﷺ کی بیماری کی مشغولیت نے مجھے ان کو بانٹنے سے

روکے رکھا۔ یعنی بیماری کی وجہ سے بانٹنے کی فرصت نہ ملی۔ پھر حضور ﷺ نے پوچھا کہ ان چھ یاسات اشرفیوں کا کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں بانٹیں۔ خدا کی قسم آپ ﷺ کی بیماری کی مشغولیت نے مجھے ان کے بانٹنے سے باز رکھا پھر حضور ﷺ نے ان اشرفیوں کو منگوایا اور ان کو اپنے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کیا گمان کیا جاسکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی اللہ رب العزت سے ملاقات ہو۔ اس حال میں کہ اس کے پاس اشرفیاں ہوں۔ اس کو امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مال و دولت کانیوں کے پاس جمع ہونا مقام نبوت کے منافی ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں بلکہ وہ علم شرعی ہوتا ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔

آپ ﷺ نے آڑے وقت (مشکل وقت) کیلئے مال بچا کر رکھنے کو ناپسند فرمایا

۲۷/۱۷۷۷۷ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى بِلَالٍ وَعِنْدَهُ صُبْرَةٌ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا بِلَالُ قَالَ شَيْءٌ أَذْخَرْتُهُ لِغَدٍ فَقَالَ أَمَا تَخْشَى أَنْ تَرَى لَهُ غَدًا بُخَارًا فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْفِقْ بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ أَفْلَاكًا - (رواهما البيهقي في شعب الایمان)

اندرجہ البيهقي في شعب الایمان ۱۱۸/۲ حدیث رقم ۱۳۴۶۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کھجور کا توڑہ تھا۔ پس حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے بلال! یہ کیا چیز ہے؟ عرض کیا یہ ایک چیز ہے جو کل کے لیے میں نے ذخیرہ کیا ہے یعنی اپنی ضرورت کے لیے جو کل کو پیش آنے والی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تو ڈرتا نہیں ہے کہ تو کل کو یعنی قیامت کے دن آگ کا دھواں دوزخ میں دیکھے۔ اے بلال! تو اس کو خرچ کر دے اور صاحب عرش سے فقر کا ڈر نہ رکھ۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں مشکل وقت آنے سے پہلے مال بچا کر رکھنے کو ناپسند فرمایا ہے اور وعید سنائی گئی ہے کہ کل کے دن یعنی قیامت کے دن تو آگ کا دھواں دیکھے گا اور یوم القیامۃ کا لفظ اس کی تاکید ہے اور بخار کا پہنچنا کنایہ ہے دوزخ کے قریب ہونے سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دوزخ سے قریب ہوگا اور حدیث کا حاصل یہ ہے کہ خرچ کرو محتاجی سے نہ ڈرو۔ جس قادر نے عرش عظیم کو پیدا کیا ہے وہی روزی دے گا اور حضور ﷺ نے یہ حکم صادر فرمایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پر کمال توکل اور اعتماد حاصل ہو۔ ورنہ اپنے خاندان کے لیے ایک دن کی روزی کا ذخیرہ کرنا جائز ہے۔

سخی اور بخیل کو درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے

۲۸/۱۷۷۷۸ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَمَنْ كَانَ سَخِيًّا أَخَذَ بَعْضُ مِنْهَا فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْغَضَنُ حَتَّى يَدْخُلَهُ الْجَنَّةُ وَالشُّحُّ شَجَرَةٌ فِي النَّارِ فَمَنْ كَانَ شَحِيحًا أَخَذَ بَعْضُ مِنْهَا فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْغَضَنُ حَتَّى يَدْخُلَهُ النَّارُ - (رواهما البيهقي في شعب الایمان)

اخر جہ البیہقی فی شعب الایمان ۴۳۵/۷ حدیث رقم ۱۰۸۷۶۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے جو شخص بخشی ہوگا اس کی ٹہنی پکڑے گا۔ پس وہ ٹہنی اس کو نہیں چھوڑے گی۔ یہاں تک اس کو جنت میں داخل کر دے گی اور بخیل دوزخ میں ایک درخت ہے اور جو شخص بخیل ہوگا اس درخت کی ٹہنی پکڑے گا۔ پس وہ ٹہنی اس کو نہیں چھوڑے گی۔ یہاں تک کہ اس کو دوزخ میں داخل کر دے گی۔ یہ دونوں حدیثیں بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کی ہیں۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ سخاوت درخت کی طرح ہے اسلئے کہ جس طرح درخت بڑا ہوتا ہے اور ٹہنیاں بہت ہوتی ہے ایسے ہی سخاوت بھی ایک بڑی چیز ہے اور اسکی بہت سی قسمیں ہیں اور سخاوت کرنے والا ایک ٹہنی کو پکڑ کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سخاوت کی مثال ایک درخت کی طرح ہے جس کی جڑ جنت میں ہے اور اسکی شاخیں دنیا میں ہیں جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ گویا کہ درخت کی ٹہنی کو پکڑنے والا ہے اور ٹہنی اس کو جنت میں پہنچا دے گی۔

صدقہ دینے سے آزمائش دور ہو جاتی ہیں

۲۹/۱۷۷۹ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَادِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا۔ (رواہ رزین)

اخر جہ البیہقی فی شعب الایمان بلفظ باکروا حدیث رقم ۳۳۵۳۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ کے لیے مال دینے میں جلدی کرو (یعنی موت یا بیماری سے پہلے ادا کرو) تحقیق آزمائش صدقہ سے بڑھتی نہیں ہے (یعنی اللہ کی رضا کے لیے دینے سے بلا دفع ہو جاتی ہے) اس کو رزین نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ آزمائشوں کو ٹال دیتا ہے اور امتحانات و مصائب صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے سے بلا دفع ہو جاتی ہے اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔

بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ

صدقات کی فضیلت کے بیان میں

فائدہ! صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جسے آدمی اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے مال سے نکالے۔ خواہ واجب ہو یا نفل۔

الفصل الاول:

صدقے کا اجر و ثواب

۱۱/۷۸۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلٍ تَمَرَّةٍ مِنْ كَسْبٍ

طَبِيبٌ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِسَمِيهِ ثُمَّ يَرْبِّهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ. (متفق عليه)

اخرجه البخارى فى صحيحه ۲۷۸/۳ حديث رقم ۱۴۱۰۔ ومسلم فى صحيحه ۷۰۲/۲ حديث رقم (۶۳-۱۰۱۴)۔
والترمذى فى السنن ۴۹/۳ حديث رقم ۶۶۱۔ والنسائى ۵۷/۵ حديث رقم ۲۵۲۵۔ وابن ماجه ۵۹۰/۱ حديث رقم ۲۵۲۵۔ والدارمى ۴۸۵/۱ حديث رقم ۱۶۷۵۔ ومالك فى الموطأ ۹۹۵/۲ حديث رقم ۱ من كتاب الصدقة۔ واحمد فى المسند ۰۳۳۱/۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص (صورت کے لحاظ سے یا قیمت کے لحاظ سے) اپنی حلال کمائی سے کھجور کے برابر خیرات کرے اور اللہ حلال مال کے علاوہ قبول نہیں کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ پھر اس کو خیرات دینے والے کے لیے پالتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی کھجورے کو پالتا ہے یہاں تک کہ اس کا ثواب یا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما اللہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ کسب کا معنی جمع کرنا ہے یہ کسب کا لغوی معنی ہے اور حدیث پاک میں کسب طیب سے مراد وہ مال ہے جو اس نے حلال یعنی شرعی طریقے سے جمع کیا ہو۔ شرعی طریقہ یا تو تجارت کا ہے یا صنعت کا ہے۔ یا زراعت کا ہے یا وراثت میں ہاتھ لگا ہو۔ یا کسی نے ہبہ کیا ہو اللہ تعالیٰ حلال مال کے علاوہ قبول نہیں کرتا اور حلال اچھی جگہ پر صرف ہوتا ہے چنانچہ شیخ علی متقی عارف باللہ نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص صالحین میں سے کمائی کیا کرتا تھا اور ایک تہائی اللہ کے لیے دیتا تھا اور ایک تہائی اپنے خرچ میں لاتا تھا اور ایک تہائی کمائی کی جگہ خرچ کرتا تھا پس اس کے پاس ایک دنیا دار آیا اور کہنے لگا کہ اے شیخ میں اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ مستحق کون ہے؟ انہوں نے کہا پہلے حلال مال حاصل کرو۔ پھر دو گے تو وہ مستحق کو پہنچے گا۔ پس غنی نے اس بات کو مبالغہ پر محمول کیا تو شیخ نے کہا کہ جب تو کل نکلے اور ایسے شخص سے ملاقات کرے جس کے بارے میں تیرے دل میں رحم پیدا ہو جائے اسے صدقہ دے دینا۔

پس وہ باہر نکلا تو دیکھتا ہے کہ ایک اندھا بوڑھا آدمی ہے اس نے اس کو مستحق سمجھ کر صدقہ اس کو دے دیا پھر دوسرے دن اس کے قریب سے گزرا تو وہ دوسرے شخص سے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کل ایک آدمی آیا تھا اور اس نے مجھ کو اتنا مال دیا میں بہت خوش ہوا اور میں نے اس کو فلاں بدکار آدمی کے ساتھ شراب خوری میں صرف کیا۔ وہ غنی یہ بات سن کر شیخ کے پاس آیا اور یہ واقعہ بیان کیا شیخ نے اس کو اپنی کمائی کا ایک درہم دیا اور اس کو کہا۔ جب تو گھر سے نکلے اور پہلے مرحلے میں جس پر تیری نظر پڑے اس کو یہ درہم دے دینا میں۔ پس جب وہ نکلا۔ تو اس نے ایک شخص کو دیکھا جو دیکھنے کو اچھا کھاتا پیتا معلوم ہوتا تھا۔ پس یہ اس کو دینے سے جھجکا لیکن بحکم شیخ کے مجبوراً اس کو دے دیا جب اس نے درہم لے لیا اور اپنے راستے سے لوٹا اور غنی بھی اس کے ساتھ چلنے لگا یہاں تک کہ وہ ایک کھنڈر میں داخل ہو گیا اور دوسرے راستے سے نکل گیا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ غنی بھی اس کھنڈر میں اس کے پیچھے داخل ہو گیا اس نے دیکھا کہ وہاں ایک کبوتر مرا ہوا پڑا تھا۔ چنانچہ غنی اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس کو قسم دی کہ اپنا حال بتاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس چھوٹے بچے ہیں جو نہایت بھوکے ہیں پس میں بے چین ہوا اور سرگرداں نکل پڑا تو میں نے

مراہو اکبوتر پایا اور اس کو گھر لے آیا تو جب یہ چیز میرے ہاتھ لگی۔ تو میں نے کبوتر پھینک دیا جہاں سے لیا تھا۔ پس غنی سمجھ گیا کہ واقعی حلال مال اچھی جگہ صرف ہوتا ہے اور حرام مال بری جگہ پر خرچ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور خوب قبول کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے اور بڑھاتا ہے تاکہ میزان اعمال میں بھاری ہو جائے۔

صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے

۲/۱۷۸۱ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۲۰۰۱/۴ حديث رقم (۶۹- ۲۵۸۸)۔ والترمذی السنن ۳۳۰/۴ حديث رقم ۲۰۲۹۔ والدارمی ۴۸۶/۱ حديث رقم ۱۶۷۶۔ ومالك في الموطأ ۱۰۰۰/۲ حديث رقم ۱۲ من كتاب الصدقة۔ واحمد في المسند ۲۳۵/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور جو بندہ کسی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں اور جو خدا کے لیے تواضع وانکساری اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتے ہیں اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگرچہ ظاہر میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں زیادتی ہوتی ہے اور برکت ہو جاتی ہے اور آفتیں دور ہو جاتی ہیں اور آخرت میں ثواب ملتا ہے اور دنیا میں بھی اس کا بدلہ مل جاتا ہے اور جو شخص کسی کی کوتاہی کو نظر انداز کر دیتا یا قصور کو معاف کر دیتا ہے حالانکہ وہ بدلہ لینے پر قادر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں عزت بڑھا دیتے ہیں۔ ایک بزرگ سے منقول ہے کہ کوئی انتقام غصہ کے برابر نہیں ہو سکتا اور جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے یعنی عاجزی کرتا ہے قرب الہی کی امید کی خاطر یا اور کسی غرض سے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی قدر بلند کر دیتا ہے۔

۳/۱۷۸۲ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يَدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری في صحيحه ۱۸۹۷۔ وحديث رقم ۷۱۱/۲ حديث رقم (۸۵- ۱۰۲۷)۔ والنسائی في السنن ۹/۵ حديث رقم ۲۴۳۹۔ والدارمی ۲۶۸/۲ حديث رقم ۲۴۰۳۔ ومالك في الموطأ ۴۶۹/۲ حديث رقم ۴۹ من كتاب الجهاد۔ واحمد في المسند ۳۶۶/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو کوئی دوہری چیز خرچ کرے اللہ کے راستے میں تو

اس کو بہشت کے دروازوں سے بلایا جائے گا اور بہشت کے بے شمار (یعنی آٹھ) دروازے ہیں۔ پس جو شخص اہل نماز میں سے ہوگا۔ بہت نفل پڑھتا ہوگا یا اچھی طرح نماز پڑھتا ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ (جو نمازیوں کے لیے خاص ہوگا) اس کو کہا جائے گا اے بندے اس میں سے داخل ہو جاؤ اور جو کوئی اہل جہاد سے ہوگا۔ یعنی بہت زیادہ جہاد کیا ہوگا۔ اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جو اہل صدقہ سے ہوگا (یعنی اللہ کی رضا کیلئے دیتا ہوگا) اس کو صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جو روزوں والوں سے ہو یعنی روزے بہت رکھتا ہو۔ اس کو ریان دروازے سے بلایا جائے گا۔ یعنی باب الصیام سے جس کا نام ریان ہے پس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا: یہ بات ضروری ہے کہ اس شخص کو ان دروازوں سے صرف ایک دروازے سے (ہی) بلایا جائے؟ یعنی یہ ضروری نہیں کہ کسی کو سب دروازوں سے بلایا جائے کیونکہ اگر ایک بھی دروازے سے بلایا جائے تو وہ بہشت میں ہی داخل ہوگا۔ لیکن اس کے جاننے کے باوجود میں پوچھتا ہوں کہ کیا ان سب دروازوں میں سے بھی کوئی بلایا جائے گا؟ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا ہاں اور میں امید رکھتا ہوں تو ان میں سے ہوگا۔ یعنی تو سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے دوہری چیز خرچ کی مثلاً دو درہم یا دو روپے یا دو غلام یا دو گھوڑے یا دو کپڑے وغیرہ اسے الگ الگ بہشت کے دروازوں سے بلایا جائے گا یعنی جنت کے داروغے بلائیں گے۔ سب دروازوں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک عمل ان اعمال کے برابر ہے۔ جن کی وجہ سے مستحق سب دروازوں میں داخل ہوگا اور ریان کے معنی سیراب کرنے کے ہیں کہتے ہیں کہ ریان ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس میں روزہ دار کو جنت میں پہنچنے سے پہلے شراب طہور پلائی جائے گی۔ تاکہ اس کی پیاس جاتی رہے جو روزے میں پیاسا رہا کرتا تھا۔ اس کے عوض اسی دروازے سے داخل ہوگا۔ سیراب ہو کر اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو باب النضی کہتے ہیں۔

جب قیامت کا دن ہوگا ایک پکارنے والا یعنی فرشتہ پکارے گا کہہاں ہیں چاشت کی نماز کی پابندی کرنے والے؟ ان کو کہا جائے گا۔ یہ تمہارا دروازہ ہے اس میں داخل ہو جاؤ خدا کی رحمت کے ساتھ اور ایک دروازہ ان لوگوں کے لئے ہوگا جو اپنے ناسین کی کوتاہیوں پر غصہ پی جانے والے ہونگے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہونگے۔ وہ راضی خوشی مولیٰ کی رضا مندی کے ساتھ اس میں داخل ہونگے اور لفظ فہل یدعی کے اوپر والا جملہ تمہید ہے سوال کی اور تو ان میں سے ہوگا۔ چونکہ یہ سب باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی ہیں اس لئے انہیں سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جامع الخصال تھے

۸۳/۱۷۱ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَسْكِينًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعْنَ فِيَّ أَمْرِي إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ (رواہ مسلم)

اخر جہ مسلم فی صحیحہ ۷۱۳/۲ حدیث رقم (۱۰۲۸/۸۷)۔

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آج کے دن تم میں سے کون شخص روزے سے

ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں ہوں پھر فرمایا: آج کے دن تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں۔ پھر فرمایا کون ہے جس نے آج کے دن مسکین کو کھلایا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں ہوں۔ پھر فرمایا کون ہے تم میں سے جس نے (آج) بیمار کی عیادت کی ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں ہوں۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس کے اندر یہ چیزیں جمع ہو گئیں۔ وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں اگر ایک دن میں ایک بندے کے اندر جمع ہو جائیں۔ وہ جنت میں داخل ہوگا بغیر حساب کے۔ ورنہ دخول جنت کے لیے صرف ایمان بھی کافی ہے یا یہ معنی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس دروازے سے چاہے گا اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انا کہنا منع نہیں ہے اور سوال کی وجہ سے اپنی حالت کو بیان کرتے وقت فضیلت کا بیان کر دینا منع نہیں اور بعض صوفیاء نے جو کہا ہے کہ انا کا لفظ زبان پر نہ آئے۔ تو ان کی مراد یہ ہے کہ تکبر اور انانیت کا دعویٰ کرتے ہوئے انا کہنا درست نہیں ہے جیسے الیس نے کہا: انا خیر منہ۔

ہمسایوں کا خیال رکھو

۵۱/۸۸۳ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَا رَئِهَا وَلَوْ فَرَسَيْنِ شَاةٍ. (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۴۵۱۰۔ حدیث رقم ۶۰۱۷۔ و مسلم فی صحیحہ ۷۱۴۱۲ حدیث رقم (۹۰-۱۰۳۰)۔
والدارمی فی السنن ۴۸۴۱۱ حدیث رقم ۱۶۷۲۔ واحمد فی المسند ۴۳۵۱۶۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اے مسلمان عورتو! کوئی ہمسائی اپنی ہمسائی کو (تخفہ بھیجنے کے لیے) حقیر نہ جانے اگر چہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ ہمسایوں کو حقیر جان کر تخفہ نہ دینا بہت بڑی بات ہے اس سے باز آ جانا چاہیے کہ وہ چیز بھی اس کے پاس موجود ہے اور نہ وہ بطور تخفہ کے دیتا ہے اور نہ بطور صدقہ کے مال خرچ کرتا ہے اور فرمایا جو ہو سکے یعنی اگر تھوڑی ہی چیز ہو تو ضرور بھیجے اور بعضوں نے کہا ہے کہ خطاب ان عورتوں کو ہے جن کو ہدیہ بھیجا گیا ہو ان کو اشارہ ہے کہ تخفہ کو حقیر نہ جانو۔ یعنی کوئی بھی تم میں سے اپنی ہمسائی کے تخفہ کو حقیر نہ جانے۔ بلکہ بخوشی قبول کرے۔ اگر چہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ بکری کے کھر کو بطور مبالغہ کے ذکر کیا ہے۔ یعنی اگر چہ چیز تھوڑی ہو اور حقیر چیز ہو اور عورتوں کو خاص طور پر اس لیے خطاب کیا ہے اس لیے کہ ان کے مزاج میں غصہ اور چیزوں کا لوٹا دینا بکثرت پایا جاتا ہے۔

۶۱/۸۸۵ وَعَنْ جَابِرٍ وَحَدِيقَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ. (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۴۷۱۰۔ حدیث رقم ۶۰۲۱۔ و مسلم فی صحیحہ ۶۹۷۱۲ حدیث رقم (۵۲-۱۰۰۵)۔

وابوداؤد فی السنن ۲۳۵۱۵ حدیث رقم ۴۹۴۷۔ والترمذی ۳۰۶۱۴ حدیث رقم ۱۹۷۰۔ واحمد فی المسند ۳۴۴۱۳۔
ترجمہ: حضرت جابر اور حدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے دونوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا سب صدقہ ہے اس کو

امام بخاری اور مسلم رحمہما اللہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے نیکی کے جو بھی کام ہیں وہ سب صدقے میں داخل ہیں خواہ وہ کہنے سے تعلق رکھتے ہوں خواہ کرنے سے۔ بس اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں۔ ان کو اس قدر ثواب ملے گا جیسے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔

حقیر چیز یعنی ادنیٰ چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نیکی ہے

۸/۷۸۶/۷ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۶۱۲ حدیث رقم (۱۴۴-۲۶۲۶)۔ واحمد فی المسند ۲۷۳/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا نیکی میں سے کسی چیز کو حقیر نہ جانو اگر چہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما اللہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ نیکی صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص مسکرا کر یا خندہ پیشانی کے ساتھ کسی مسلمان سے ملتا ہے تو یہ بھی نیکی ہے کیونکہ آدمی جب خوش ہو کر کسی کو ملتا ہے تو اس سے ایک مسلمان کا دل خوش ہوتا ہے اور کسی کو خوش کرنا بلاشبہ نیکی ہے۔

بطور شکر الہی کے ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے

۸/۷۸۷/۸ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِيَدِهِ فَيَنْفَعْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقْ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۴۷/۱۰ حدیث رقم ۶۰۲۲۔ ومسلم فی صحیحہ ۶۹۹/۲ حدیث رقم (۵۵-۱۰۰۸)۔

والنسائی ۶۴۱۵ حدیث رقم ۲۵۳۸ والدارمی ۳۹۹/۲ حدیث رقم ۲۷۴۷۔ واحمد فی المسند ۳۹۵/۴۔

ترجمہ: حضرت ابی موسیٰ اشعرئؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ یعنی بطور نعت الہی کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا اگر وہ اس قدر چیز نہ پائے کہ صدقہ کرے پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کمائی کرے اور نفع حاصل کرے اور اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے اور دوسروں پر بھی خیرات کرے۔ صحابہ نے پوچھا اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے یا کہا کہ وہ نہ کر سکے؟ پھر فرمایا کہ وہ بدن یا مال سے مدد کرے۔ کسی غمگین حاجت مند کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہے اگر یہ بھی نہ کر سکے؟ تو فرمایا نیکی کا حکم کرے۔ صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے؟ تو فرمایا پھر باز رکھے اپنے آپ کو اور دوسروں کو برائی پہنچانے سے۔ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے اور اللہ کے

راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی زبان یا ہاتھ سے کسی تکلیف نہ دے۔ اگر ہو سکے تو دوسروں کو بھی تکلیف پہنچانے سے منع کرے اور حدیث شریف میں آتا ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ”مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔“ اور اس طرح کا مضمون اس مصرع میں بھی موجود ہے۔

ع م را بخیر تو امید نسبت بدرساں

انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے

۹/۱۷۸۸ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سَلَامِي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَبْدُلُ بَيْنَ الْإِنْسَانَيْنِ صَدَقَةً وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى ذَاتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةً (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳۲/۶ حدیث رقم ۲۹۸۹۔ ومسلم فی صحیحہ ۶۹۹/۲ حدیث رقم (۵۶۔ ۱۰۰۹)۔
واحمد فی المسند ۳۲۹/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آدمی کے بدن کے ہر جوڑ پر صدقہ ضروری ہے۔ یعنی ان کے مقابلہ میں۔ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ دو شخصوں کے درمیان عدل کرنا یہ بھی صدقہ ہے اور کسی آدمی کی مدد کرنا اس کو جانور پر سوار کر دینا یا اس پر سامان لا دینا اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے اور ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے صدقہ ہے اور تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما اللہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث میں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جوڑ پیدا کیے ہیں جوڑوں کی پیدائش میں بڑی بڑی نعمتیں اور رحمتیں ہیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے صدقہ واجب ہے۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر روز صدقہ دینا ضروری ہے اور صدقہ صرف مال ادا کرنے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ مذکورہ چیزیں بھی صدقہ ہیں اور اچھی بات کرنا اور سائل سے نرم کلام کرنا اور نماز کی طرف ہر قدم کا چلنا صدقہ ہے اور اسی حکم میں ہے عبادت اور جنازے کے لیے جانا اور اسی طرح کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کرنا یعنی کانٹے ہڈی نجاست وغیرہ کو۔

۱۰/۱۷۸۹ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِائَةِ مَفْصَلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَهَلَّلَ اللَّهَ وَسَبَّحَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلَاثِ مِائَةِ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ رَحَّحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ۔ (رواه مسلم)

اخرجه فی صحیحہ ۶۹۸/۲ حدیث رقم (۵۴۔ ۱۰۰۷)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ہر آدمی کے اندر تین سو ساٹھ جوڑ ہیں پس جو شخص اللہ اکبر کہے اور اللہ کی حمد بیان کرے اور لا الہ الا اللہ کہے اور سبحان اللہ کہے اور استغفار کرے اللہ سے اور دور کرے لوگوں کے راستے سے ہڈی یا کانٹا یا نیکی کا حکم کرے اور بری چیز سے منع کرے اور یہ سب اقوال و افعال تین سو ساٹھ جوڑوں کے بقدر کرے۔ پس اس وجہ سے اس نے اس دن اپنے آپ کو آگ سے دور رکھا ہے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے اس دن سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کام صدقہ دینے کا آدمی ہر روز کرے۔ تاکہ گناہوں کا کفارہ ہوتا رہے۔

تسبیحات پڑھنا بھی صدقہ ہے

۱۱/۱۷۹۰ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بَضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا أَحَدُنَا شَهَوْتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۶۹۷/۲ حدیث رقم (۵۳-۱۰۰۶)۔ واحمد فی المسند ۱۶۷/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا اور ہر تحمید الحمد للہ کہنا صدقہ ہے اور ہر تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اور نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے اور بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے اور اپنی بیوی یا لونڈی سے صحبت کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک آدمی اپنی شہوت دور کرے اور اس کو ثواب ملے؟ آپ ﷺ نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر وہ حرام طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتا تو اس پر گناہ آجاتا۔ اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے شہوت کو دور کریگا تو اس کو اس میں ثواب ملے گا۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ کی رضا کے لیے دینے میں ثواب ہوتا ہے ویسا ہی تسبیحات وغیرہ پڑھنے میں ثواب ہوتا ہے اور بیوی سے صحبت کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اگرچہ یہ بذاتہ عبادت و صدقہ نہیں ہے لیکن چونکہ اس میں بیوی کا حق ادا ہوتا ہے اور نفس حرام کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتا ہے اور شیطان بھی اس کی رغبت دلاتا ہے اور وہ ان تمام چیزوں کے باوجود اپنے آپ کو جھٹک کر حلال کی جانب رجوع کرتا ہے اس لیے حکم الہی کی وجہ سے صدقے کے ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔

بہترین صدقے کی طرف نشاندہی

۱۲/۱۷۹۱ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعَمَ الصَّدَقَةُ اللَّفْحَةُ الصَّفِيَّةُ مَنَحَةٌ

وَالشَّاءُ الصَّفِيَّةُ مَنَحَةٌ تَغْدُوا بِالنَّاءِ وَتَرَوْحُ بِالنَّحْرِ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۷۰/۱۰ حدیث رقم ۵۶۰۸۔ و مسلم فی صحیحہ ۷۰/۷۲ حدیث رقم (۷۴-۱۰۲)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ دودھ دینے والی اونٹنی بطور عاریت نہ دے۔ دودھ پینے کے لیے اور اچھا صدقہ دودھ دینے والی بکری کو عاریتاً دینا ہے جو صبح کو برتن بھر کر دودھ دیتی ہے اور شام کو بھی برتن بھر کر دودھ دیتی ہے۔ اس کو بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی وہ اونٹنی یا بکری محتاج کو دودھ پینے کے لیے عاریتاً دے دیتا تاکہ وہ اپنی حاجت پوری کر سکے اور وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد مالک کو واپس کر دیتا۔ آپ ﷺ نے اس کی تعریف فرمائی کہ یہ بہت اچھا صدقہ ہے۔

زراعت اور درخت لگانا صدقے میں شامل ہے

۱۳/۱۷۹۲ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَأَنَّهُ لَصَدَقَةٌ (متفق علیہ وفی رواۃ لمسلم) عَنْ جَابِرٍ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهْ صَدَقَةٌ.

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۳۷/۱۰ حدیث رقم ۶۰۰۸۔ و مسلم فی صحیحہ ۱۱۸۹/۳ حدیث رقم (۱۲-۱۵۵۳)

والترمذی فی السنن ۶۶۶/۳ حدیث رقم ۱۳۸۲۔ والدارمی ۳۴۷/۲ حدیث رقم ۲۶۱۰۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی آدمی کھیتی کاشت کرتا ہے پھر اس سے آدمی یا پرندے یا چوپائے کھائیں اگرچہ وہ مالک کی مرضی کے بغیر کھائیں۔ مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے یہ امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے اور مسلم شریف کی ایک روایت جو حضرت جابرؓ سے مروی ہے اس میں ہے اور جو چوری ہو جاتا ہے اس سے وہ بھی صدقہ بن جاتا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے جو شخص کھیتی باڑی کرتا ہے اور درخت لگاتا ہے اور چرند پرند چوپائے انسان اس سے کھاتے ہیں تو کسان کو یعنی لگانے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے مسلمان کا مال کھایا جائے تو اس کو ثواب ملتا ہے اس لیے کہ مال کے نقصان پر صبر کرنے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے اگر کوئی کہے کہ اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے اور یہاں نیت موجود نہیں ہے جواب یہ ہے کہ مقصود اصلی کھیتی میں نوع انسان و حیوان کی مطلقاً زندگی ہے۔ وہ کسی بھی فرد کے ساتھ ہو۔ تو یہ متعلق ہوئی اجمالی نیت کے ساتھ اور اجمالی نیت ثواب کے لیے کافی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

جانور پر احسان کرنے کی وجہ سے بدکار عورت کی بخشش

۱۳/۱۷۹۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُؤْمِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ يَلْهَثُ كَأَن يَفْتُلَهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّيْهَا فَأَوْقَعَتْهُ بِحِمَا رِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فُغْفِرَ لَهَا

بَذَلِكْ قِيلَ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۵۹/۶ حدیث رقم ۳۳۲۱ - ومسلم فی صحیحہ ۱۷۶۰/۴ حدیث رقم (۱۵۴ - ۲۲۴۵) **ترجمہ:** حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک بدکار عورت کی بخشش کر دی گئی وہ ایک کتے کے قریب سے گزری جو کنویں کے قریب زبان باہر نکالے کھڑا تھا پیاس کی وجہ سے ہلاک ہونے کے قریب تھا۔ پس اس عورت نے اپنا نمونہ اُتار اور اپنی اوڑھنی کے ساتھ باندھا پھر اس کے لیے پانی نکالا۔ اس وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا جانوروں کے ساتھ احسان کرنے پر بھی ثواب ملے گا؟ فرمایا ہر تر جگر پر احسان کرنے سے ثواب ملتا ہے یعنی جاندار پر احسان کرنے سے ثواب ملتا ہے اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما علیہما نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ صاحب مظاہر نے کہا ہے کہ ہر جانور کے کھلانے پلانے میں ثواب ہوتا ہے سوائے موذی جانوروں کے جن کے مارنے کا حکم ہے یعنی سانپ اور بچھو وغیرہ اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کبھی کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے بخش دیتا ہے۔ یہی اہلسنت کا مذہب ہے۔

چھوٹی سی برائی کو حقیر نہ جانو

۱۵/۱۷۹۳ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَبَتْ امْرَأَةٌ فِي هَرَّةٍ اَمْسَكْتَهَا حَتَّى مَاتَتْ مِنَ الْجُوعِ فَلَمْ تَطْعَمْهَا وَلَا تُرْسِلْهَا فَتَأْكُلَ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۵۶/۶ حدیث رقم ۳۳۱۸ - ومسلم فی صحیحہ ۱۷۶۰/۴ حدیث رقم (۱۵۱ - ۲۲۴۲) واخرجه ابن ماجہ فی السنن ۱۴۲۱/۲ حدیث رقم ۴۲۵۶ - والدارمی ۴۲۶/۲ حدیث رقم ۲۸۱۴ - أحمد فی المسند ۵۰۷/۲۔

ترجمہ: سیدنا ابن عمر اور ابو ہریرہؓ سے روایت ہے دونوں نے کہا کہ فرمایا نبی کریم ﷺ نے ایک عورت کو اس سبب سے عذاب دیا گیا کہ اس نے بلی کو باندھے رکھا اور اسی حالت میں وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ وہ عورت اس بلی کو نہ کھلاتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ زمین کے جانوروں کو کھالے۔ یعنی چوہا وغیرہ۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی سی برائی کو بھی حقیر نہ جانو۔ حدیث پاک میں جو واقعہ مذکور ہوا ہے کہ بلی کو بھوکا پیاسا رکھنے کی وجہ سے عورت کو عذاب دیا گیا اگرچہ یہ صغیرہ گناہ ہے اور صغیرہ پر عذاب ہونا جائز ہے جیسا کہ عقائد میں مذکور ہے۔

راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا دخول جنت کا باعث ہے

۱۶/۱۷۹۵ وَعَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنٍ شَجَرَةٍ عَلَى طَرِيقٍ فَقَالَ لَا نَحِيْنَ هَذَا عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳۹/۲ حدیث رقم ۶۵۲ - ومسلم فی صحیحہ ۲۰۲۱/۴ حدیث رقم (۱۲۷ - ۱۹۱۴)۔ وابن ماجہ فی السنن ۱۳۱۴/۲ حدیث رقم ۳۶۸۲ - واحمد فی المسند ۳۰۴/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک شخص درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزرا جو راستے کے اوپر تھی۔ پس اس نے کہا میں مسلمانوں کے راستے سے البتہ ٹہنی کو دور کر دوں گا۔ تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ پس اس کو اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے راستے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا ارادہ کیا اور پھر دور کر دیا تو وہ بہشت میں داخل ہو گیا یا فظنیت ہی سے داخل ہو گیا۔

۱۷/۱۷۹۶ وَغَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَأَنَّهُ تُوذَى النَّاسَ - (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۲۰۲۱/۴ حدیث رقم (۱۲۹-۱۹۱۴)۔ واحمد فی المسند ۱۰۴/۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو جنت میں پھرتا تھا (امن و سکون سے) کیونکہ اس نے ایک ایسے درخت کو کاٹ ڈالا تھا جو راستے پر تھا اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ (مسلم)

تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا نفع سے خالی نہیں ہے

۱۸/۱۷۹۷ وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَّمَنِي شَيْئًا أَنْتَفَعُ بِهِ قَالَ اعْزِلِ الْأَذَى عَنِ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ اتَّقُوا النَّارَ فِي بَابِ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

اخرجه مسلم فی صحيحه ۲۰۲۱/۴ حدیث رقم (۱۳۱-۲۶۱۸)۔ وابن ماجہ فی السنن ۱۳۱۴/۲ حدیث رقم ۳۶۸۱۔ واحمد فی المسند ۴۲۲/۴۔

ترجمہ: حضرت ابی بززہؓ سے روایت ہے میں نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جس سے میں نفع حاصل کروں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ تکلیف دینے والی چیز کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دو۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ ہم عدی بن حاتم کی حدیث کو علامات نبوت کے باب میں ذکر کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اس کا آغاز اتَّقُوا النَّارَ سے ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا نفع سے خالی نہیں ہے جیسے کہ کانا وغیرہ یا موذی جانور جو انسان کو تکلیف دے سکتا ہے۔

الفصل الثانی:

اخلاق حسنہ کی تعلیم

۱۹/۱۷۹۸ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جِئْتُ فَلَمَّا بَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ أَوَّلَ مَا قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ

وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۵۶۲/۴ حدیث رقم ۲۴۸۵۔ وابن ماجہ ۴۲۳/۱ حدیث رقم ۱۳۳۴۔ والدارمی ۴۰۵/۱ حدیث رقم ۱۴۶۰۔ واحمد فی المسند ۴۵۱/۵۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ میں تشریف لائے۔ تو میں آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوا میں نے حضور ﷺ کا چہرہ دیکھا تو میں نے فوراً جان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہے پس آپ ﷺ کا سب سے پہلا کلام یہ تھا کہ اے انسانو! سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو اور رات کو نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں۔ یعنی تہجد کی نماز پڑھو۔ عذاب سے سلامتی کے ساتھ بہشت میں داخل ہو گے۔ اس کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اخلاقی حسنہ کی امت کو تعلیم دی ہے جن کا تذکرہ حدیث پاک میں گزر چکا ہے فرمایا سلام کو عام کرو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور تہجد کی نماز پڑھو۔

۲۰/۷۹۹ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَطِعُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۵۳/۴ حدیث رقم ۱۸۵۵۔ وابن ماجہ ۱۲۱۸/۲ حدیث رقم ۳۶۹۴۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: رحمان کی بندگی کرو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ اس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: یہ سابقہ مضمون پر مشتمل حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ اوپر والی حدیث میں گزر چکا ہے۔

صدقہ رب کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے

۲۱/۱۸۰۰ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئَ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ۔ (رواہ الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۵۲/۳ حدیث رقم ۶۶۴۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ رب کے غضب کو دور کر دیتا ہے اور مرتے وقت بری حالت کو دور کر دیتا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو دور کر دیتا ہے یعنی وہ دنیا میں عافیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کسی آزمائش میں نہیں پڑتا۔ یعنی مرتے وقت بری حالت کو دور کر دیتا ہے اور شیطانی وسوسوں سے اور سخت بیماری سے دوچار نہیں ہوتا جو بسا اوقات کفر کا باعث بن جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے اس کا خاتمہ بالآخر ہو جاتا ہے۔

کسی مسلمان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا صدقہ ہے

۲۲/۱۸۰۱ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ

تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ وَأَنْ تَفْرَغَ مِنْ دُلُوكَ فِي إِتَاءِ أَخِيكَ۔ (رواه احمد والترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۰۶/۴ حدیث رقم ۱۹۷۰۔ واحمد فی المسند ۳/۳۴۴۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: صدقہ نیکی ہے اور منجملہ نیکیوں کے یہ ہے کہ تو مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دے۔ اس کو امام احمد اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے۔ صدقہ نیکی ہے اور یہ بھی نیکی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ اور خندہ پیشانی سے ملاقات کرو۔ یہ بھی نیکی ہے اور کسی کی ضرورت پوری کرنا بھی نیکی ہے اگرچہ کسی کو ضرورت کے لیے پانی ہی کیوں نہ دینا ہو۔

صدقہ کی تفصیل

۲۳/۱۸۰۲ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ

بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَنَصْرُكَ

الرَّجُلَ الرَّدِّيَّ الْبَصَرَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمَّا طَنُكَ الْحَجَرَ وَالشُّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ

دُلُوكَ فِي دُلُو أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ۔ (رواه الترمذی وقال هذا حديث غريب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۹۹/۴ حدیث رقم ۱۹۵۶۔

ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے تیرا بھائی کے سامنے مسکرائنا صدقہ ہے اور تیرا نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے اور تیرا بری بات کو منع کرنا صدقہ ہے اور تیرا کسی کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے یعنی جس زمین میں کوئی راستے کا نشان نہ ہو اور لوگ اس میں راستہ بھول جاتے ہوں اس میں کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دینے پر صدقہ کا ثواب ملتا ہے اور تیرا مدد کرنا یعنی اندھے کو پکڑ کر لے جانا یا کم عقل والے کو یہ بھی صدقہ ہے اور راستے سے پتھر کانٹے اور ہڈی کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے اور اپنے برتن سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ اسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں صدقہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے بھائی کے برتن میں اپنے برتن سے پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے اور جب پانی دینے پر یہ اجر مل رہا ہے تو جب اس کے پاس ڈول ہی نہ ہو تو اسے اپنے ڈول سے پانی دینے پر وہ کتنا اجر پائے گا۔

کنواں کھدوانا اور ضرورت مند کو ضرورت کی چیز مہیا کر دینا بھی صدقہ ہے

۲۴/۱۸۰۳ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَتَى الصَّدَقَةَ الْفَضْلُ قَالَ الْإِمَاءُ فَحَقَّرَ

بِئْرًا وَقَالَ هَذِهِ لَأُمِّ سَعْدٍ۔ (رواہ ابو داود والنسائی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۱۳/۲ حدیث رقم ۱۶۷۹۔ والنسائی ۲۵۴/۶ حدیث رقم ۳۶۶۴۔ وابن ماجہ فی السنن

۱۲۱۴/۲ حدیث رقم ۳۶۸۴۔

ترجمہ: حضرت سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہنے لگے اے اللہ کے رسول! میری ماں مر گئی ہے تو کونسا صدقہ بہتر ہے اُس کی روح کے لیے؟ فرمایا: پانی۔ پس سعدؓ نے کنواں کھدوایا اور فرمایا یہ کنواں سعدؓ کی ماں کے لیے صدقہ ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی نے نقل کی ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے جانداروں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا تو یہ بھی صدقہ ہے کیونکہ پانی دینی و دنیاوی امور میں بہت کام آتا ہے، خصوصاً گرم شہروں میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔

ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے پر جنت کا وعدہ

۲۵/۱۸۰۴ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى

عَوْرِي كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جَوْعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا

مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ۔ (رواہ ابو داود والترمذی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۱۴/۲ حدیث رقم ۱۶۸۲۔ والترمذی فی السنن ۵۴۶/۴ حدیث رقم ۲۴۴۹۔ واحمد فی

المسند ۱۳/۳۔

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو مسلمان کسی مسلمان کو ننگے حالت میں کپڑا پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز لباسوں سے لباس پہنائے گا اور جو مسلمان کسی مسلمان کو کھلائے گا۔ اللہ اس کو بہشت (جنت) کے میوؤں سے کھلائے گا اور جو مسلمان کسی مسلمان کو پیاس پر پانی پلائے گا۔ اللہ اس کو مہر لگی ہوئی شراب پلائے گا۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے جو مسلمان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے ننگے کو کپڑا پہناتا ہے اور کسی مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں سے خصوصی رزق عطا فرمائیں گے۔ جنت کی شراب مہر لگنے کی وجہ سے محفوظ ہے اور اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اور نہ کسی چیز کی ملاوٹ ہو سکتی ہے اور جس کے لیے اللہ رب العزت نے مقرر کر دی ہے وہی اس شراب کو پیئے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نہایت نفیس ہے اسلئے کہ نفیس چیز پر ہی مہر کی جاتی ہے اور اس پر کستوری کی مہر لگی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے: ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَمُهُ مِسْكٌ﴾ (المطففين: ۲۵) اس پر مہر موم وغیرہ کی نہیں لگائی گئی بلکہ کستوری سے مہر لگا کر بند کر دیا گیا ہے اور یہ جنتیوں کے لیے سب سے

بہترین نقد ہے جو ان کو جنت میں ملے گا۔

زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں دوسروں کا حصہ ہے

۲۶/۱۸۰۵ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى

الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - (رواه الترمذی وابن ماجہ والدارمی)

(اخرجه الترمذی فی السنن ۴۸/۳ حدیث رقم ۶۵۹۔ وابن ماجہ ۵۷۰/۱ حدیث رقم ۱۷۸۹۔ والدارمی ۴۷۱/۱ حدیث

رقم ۱۶۳۷۔

ترجمہ: قیس کی بیٹی فاطمہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: البتہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ پھر حضور ﷺ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ صرف یہی نیکی نہیں کہ اپنے چہرے کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو۔ اس کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مسلمان کے مال میں دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ یعنی زکوٰۃ دینا تو فرض ہی ہے اور ضرور دینی چاہیے۔ اگر نہیں دے گا تو وہ گنہگار ہوگا اور زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ بھی مستحب ہے اور وہ بھی دینا چاہیے اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سائل کو اور قرض مانگنے والے کو محروم نہیں کرنا چاہیے اور گھر کا سامان ہنڈیا اور پیالہ وغیرہ کے عاریتاً مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور پانی اور نمک سے کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح آگ لینے سے۔ جیسا کہ علامہ طیبیؒ نے ذکر کیا ہے اور ظاہر ہے کہ حق سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا آیت مذکورہ میں ذکر ہو چکا ہے یعنی احسان کرنا رشتے داروں سے اور یتیموں اور مسکینوں، مسافروں اور سانکوں سے اور مال خرچ کرنا غلام آزاد کرنے کے لیے اور باقی آیت ہے: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ (البقرہ: ۱۷۷) یعنی نیک وہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب اللہ پر اور نبیوں پر اور اللہ کی محبت کی خاطر اس نے مال یتیموں، رشتے داروں، مسکینوں، مسافروں اور سانکوں کو اور غلام آزاد کرنے پر خرچ کیا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ پس یہ آیت حضور ﷺ نے بطور دلیل پیش فرمائی۔ اس میں اول تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے مال کی تفریق فرمائی۔ انہوں اور یتیموں وغیرہ کو اور اس کے بعد نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے کی تعریف کی پس معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال بطور صدقات و خیرات کے خرچ کرنا چاہیے اور یہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔

حاصل کلام یہ کہ حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے اس آیت سے ثابت ہوا ہے کہ اولاً صدقہ نفل ذکر کیا گیا تھا پھر صدقہ واجب کا ذکر کیا گیا ہے۔

عام ضرورت کی چیزوں سے منع نہیں کرنا چاہیے

۲۷/۱۸۰۶ وَعَنْ بَهِيْصَةَ عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجْعَلُ

مَنْعَةُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرَ لَكَ - (رواه ابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۷۵۰/۳ حدیث رقم ۳۴۷۶۔ واحمد فی المسند ۴۸۰/۳۔ والدارمی فی السنن ۳۴۹/۲ حدیث

رقم ۲۶۱۳۔

ترجمہ: حضرت پیغمبرؐ نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ پیغمبرؐ کے باپ نے کہا یا رسول اللہ! کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کا روکنا اور نہ دینا حلال نہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پانی ہے اس نے کہا اے اللہ کے نبی اور کیا چیز ہے جس کو روکنا حلال نہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ نمک ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اور کوئی چیز ہے کہ جس کا منع کرنا حلال ہے؟ فرمایا تیرا نکلی کرنا بہتر ہے تیرے لیے۔ اس کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ پانی اور نمک سے سائل کو منع نہیں کرنا چاہیے وہ پانی جو مالک کی ضرورت سے زائد ہو اور نمک سے اس لیے منع نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور لوگ اس کو اکثر دیتے رہتے ہیں اس لیے یہ لوگوں کے نزدیک چنداں قدر کا حامل نہیں ہے اور حدیث کا آخری جملہ سب نیکیوں کو جامع ہے یعنی جو کچھ چاہے دے اور جو چاہے نیکی کر۔ تجھے حلال نہیں ہے روکنا انہوں اور دوسروں کو۔ اس میں تعین تخصیص کے بعد ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لَا یَحِلُّ کالفظ لا بقی کے معنی میں ہے یعنی ان چیزوں سے منع کرنا مناسب نہیں ہے۔

خشک زمین کو آباد کرنا صدقہ ہے

۲۸/۱۸۰۷ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْصَى أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتْ الْعَاقِبَةُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ - (رواه النسائي والدارمی)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۴۵۴/۳ حدیث رقم ۳۰۷۴۔ والترمذی فی السنن ۶۶۳/۳ حدیث رقم ۱۳۷۹۔ والدارمی

۳۴۶/۲ حدیث رقم ۲۶۰۷۔ ومالك فی الموطأ ۷۴۴/۲ حدیث رقم ۲۷ من کتاب الاقصیۃ۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص بنجر زمین میں کھیتی کرے یعنی آباد کرے۔ پس اس کے لیے اس کے آباد کرنے میں ثواب ہے اور جو کچھ جانور یا آدمی اس سے حاصل ہونے والی چیزوں کو کھالیں۔ تو وہ اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ (دارمی)

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو خشک زمین کو آباد کرے گا اور اس میں کھیتی کرے گا۔ اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کھیتی میں سے اگر کوئی جانور یا آدمی کھالے گا اور بعض روایات میں آیا ہے اگر کسی نے چوری کر لی۔ تو اس کو بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی رحمت واسعہ ہے۔

کسی کو چیز عاریتاً دینا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے

۲۹/۱۸۰۸ وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَنَعَ مَنَعَةً لِبْنٍ أَوْ وَرَقٍ أَوْ هَدَی

زَقَاتًا كَانَ لَهُ مِثْلُ عَنُقِي رَقَبَةٍ . (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۰۰/۴ حدیث رقم ۱۹۵۷۔ واحمد فی المسند ۲۸۵/۴۔

ترجمہ: حضرت براءؓ سے روایت ہے۔ جو شخص کسی کو جانور دودھ کے لیے عاریتاً دے یا قرض دے یا چاندی دے۔ یعنی پیسہ روپیہ وغیرہ یا بھولنے والے کو راستہ بتلائے یا نابینے کو گلی بتائے اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کسی کو چیز عاریتاً دینا بھی ثواب ہے اور اگر کسی نے جانور دودھ والا بطور عاریت کے دیا کہ آپ اس کا دودھ پیتے رہیں اور دودھ پینے کے بعد واپس کر دینا۔ کسی کو قرض وغیرہ دینا یا بھولے ہوئے یا نابینا آدمی کو راستہ بتا دینا۔ یہ سب نیکی کے کام ہیں ان کے کرنے والے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔

آپ ﷺ کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قیمتی نصیحتیں

۳۰/۱۸۰۹ وَعَنْ أَبِي جَرِيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ رَجُلًا يَصُدُّ النَّاسَ عَنْ رَأْيِهِ لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ قُلْ أَلَسَّلَامُ عَلَيْكَ قُلْتُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِنْ أَصَابَكَ ضَرْفٌ فَدَعْوَتُهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامٌ سَنَةٌ فَدَعْوَتُهُ أَنْتَبَهَتْ لَكَ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ فَقُرْ أَوْ قَلَاةٍ فَصَلِّ رَاحِلَتَكَ فَدَعْوَتُهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ قُلْتُ أَغْهَدُ إِلَيْكَ قَالَ لَا تَسُبَّنْ أَحَدًا قَالَ فَمَا سَبَّيْتُ بَعْدَهُ خُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً قَالَ وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تَكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَارْفَعْ إِذَا رَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ آبَيْتَ فَاِلَى الْكُعْبَيْنِ وَآيَاكَ وَأَسْأَلُ الْإِذَا رَافَتْهَا مِنَ الْمَحْبِلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَحْبِلَةَ وَإِنْ أَمْرٌ شَتَمَكَ وَغَيْرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فَبِكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَبَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ .

(رواه ابو داود وروى الترمذی منه حدیث السلام وفى رواية فيكون لك اجر ذلك ووباله عليه)

اخرجه ابو داود فى السنن ۳۴۴/۴ حدیث رقم ۴۰۸۴۔ والترمذی ۵۰۲/۵ حدیث رقم ۲۷۲۲۔ واحمد فى المسند ۶۳/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو جری جابر بن سلیمؓ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں مدینے میں آیا پس میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی عقل سے پھرتے ہیں یعنی اس کی بات پر عمل کرتے ہیں یعنی اس کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں جیسا کہ راوی نے کہا ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں میں نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ اللہ کے رسول ﷺ ہیں۔ راوی نے دوبارہ کہا۔ میں نے علیک السلام کہا یعنی تجھ پر اے اللہ کے رسول! سلام ہو۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: علیک السلام نہ کہو! علیک السلام مر دے کے لیے دعا ہے اور السلام علیک کہو۔ یعنی تجھ پر سلام ہو۔ میں نے کہا تم اللہ کے رسول ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں جو ایسی ذات ہے اگر تجھ کو تکلیف پہنچے اور تو اللہ کو پکارے تو وہ تیری تکلیف کو دور کر

دے گا اور اگر تجھ کو قحط پہنچے اور تو اس کو پکارے تو وہ تیرے لیے زمین میں سبزہ پیدا کر دے گا اور جس وقت تم ایسی زمین میں ہو جہاں نہ پانی ہو اور نہ درخت ہو یا جنگل میں یعنی آبادی سے دور ہو اور تمہاری سواری گم ہو جائے تو اسی کو پکارو۔ پس اللہ تیری سواری کو واپس لے آئے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نصیحت کیجئے فرمایا برا نہ کہو کسی کو۔ پس جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد نہ کسی آزاد کو اور نہ کسی غلام کو برا کہا اور نہ اونٹ کو اور نہ بکری کو برا کہا یعنی آدمیوں کو برا کہنا تو بہت دور کی بات ہے میں نے تو حیوانوں کو بھی برا نہیں کہا۔ جیسا کہ عوام کی عادت ہوتی ہے اور پھر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی میں سے کسی چیز کو حقیر نہ جانو یعنی کوئی تم سے نیکی کرے یا تو کسی سے نیکی کرے اگرچہ تھوڑی ہی ہو۔ بلکہ اگر کوئی تجھ سے نیکی کرے اگرچہ تھوڑی ہو بہت جان اور جو کچھ تیرے ہاتھ سے نیکی ہو سکے کر اور اس کو غنیمت جان اور اپنے بھائی سے بات کر اس حال میں کہ خوش ہو جائے تیرا چہرہ یعنی تواضع اور خوش کلامی سے پیش آتا کہ اس کا دل تیرے حسن اخلاق سے خوش ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ بھی نیکی ہے اور اپنی تہبند یعنی ازار آدھی چنڈی تک بلند کر دینی اونچی کرو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو ٹخنوں تک اور ازار کو لٹکانے سے بچو۔ اس لیے کہ ازار کا لٹکانا تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا اور اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے اور تجھے عار دلانے اس عیب کے ساتھ جو وہ تمہارے بارے میں جانتا ہے تو عار نہ دلا اس عیب کے بارے میں جو اس کے اندر ہے اس لیے کہ اس کا گناہ تو اسی پر ہے اس کو ابوداؤد اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے اس حدیث سے سلام کی حدیث اور حدیث کے آغاز میں سلام کا ذکر ہے۔ باقی حدیث روایت نہیں کی ہے اور ایک روایت میں: فَاَنَامَا وَتَالُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ كِيْ بَجَاءِ فَيَكُوْنُ لَكَ اَجْرُ ذٰلِكَ وَوَبَالَهُ عَلَيْهِ كِي الْفَاظُ هِيْ یعنی تیرے لیے اس سے ثواب ہوگا اور اس کا وبال اس پر ہوگا۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سلام دو بار کہا یا تو حضور ﷺ نے سنا نہیں یا ان کو جواب نہیں دیا ادب سکھانے کے لیے اور فرمایا کہ علیک السلام نہ کہو یہ نہی تنزیہی ہے اور علیک السلام کہنا یہ مردے کی دعا ہے۔ ظاہر اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب مردے کی زیارت کو جائے تو علیک السلام کہے نہ کہ السلام علیک جیسے کہ زندہ پر کہتے ہیں۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ سنت مردے کے لیے بھی السلام علیک ہے۔ اس لیے کہ ثابت ہے حضور ﷺ سے جب مردے کی زیارت کو جاتے تو السلام علیکم کہتے۔ پس اس کے معنی یہ ہوئے کہ علیک السلام دعا مردے کی ہے۔ یہ ایام جاہلیت میں مردے کی دعا تھی اور بعضوں نے کہا عرف عرب میں جب سلام کرتے تھے۔ قبر پر علیک السلام کہتے۔ پس حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا علیک السلام میت کا سلام ہے ان کی عرف و عادت کے موافق۔ حضور ﷺ کی یہ مراد نہیں تھی کہ مردوں پر اس طرح سلام کیا جائے۔ اتنی اور سلام علیک کہ یہ افضل ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ اس کے بعد میں نے کسی کو برا نہیں کہا۔ یہ بات سد باب کے لیے تھی۔ ورنہ اگر کوئی شخص کفر پر مرے تو اس کو برا کہنا جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ خدا کے ذکر میں مشغول رہے اور کسی کو برا نہ کہے اس لیے کہ اللہ کے سوا کا خطرہ آنا نقصان کا باعث ہے اور کسی کو برا نہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کسی کو لعنت نہ کرے اور جیسے شلواری ٹخنوں سے نیچے کرنا منع ہے ویسے ہی گرتا بھی ٹخنوں سے نیچے کرنا منع ہے اور اس کا گناہ اسی پر ہے تو برا کہہ کر وبال میں کیوں مبتلا ہوتا ہے۔

بدی رابدی سہل باشد جزاء ☆ اگر مردی احسن الی من اسا

آخر میں لفظ فی روایۃ کہہ کر جو بات نقل کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ترمذی نے بھی ساری روایت نقل کی ہے اس لیے کہ بعض حواشی میں لکھا ہے کہ ترمذی نے تمام حدیث روایت کی ہے لیکن الفاظ اس کے دوسرے ہیں اور اس کتاب میں جو روایت ہے ابی داؤد کے الفاظ کے ساتھ ہے۔

صدقے میں دی جانے والی چیز آخرت میں ملے گی

۳۱/۱۸۱۰ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنْهَا قَالَتْ مَا بَقِيَ إِلَّا كَيْفُهَا قَالَ بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَيْفُهَا. (رواه الترمذی وصححه)

اخرجه الترمذی فی السنن ۵۵۵/۴ حدیث رقم ۲۴۷۰۔ واحمد فی المسند ۵۰/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اہل بیت یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بکری ذبح کی۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سے کیا چیز باقی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا سوائے کدھے کے کچھ باقی نہیں ہے یعنی کدھے کے علاوہ سب تقسیم کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کدھے کے علاوہ سب باقی ہے اور اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔

تشریح: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ارشاد فرمایا جو چیز اللہ کے راستے میں تقسیم ہو چکی ہے۔ وہ چیز باقی ہے جو لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے وہ باقی ہے۔ اس کا ثواب آخرت میں ملے گا اور جو کچھ گھر میں موجود رہا وہ فانی ہے اور اس میں اشارہ ہے اس آیت مبارکہ کی طرف: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ (النحل: ۹۶) یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کپڑا پہنانے پر انعام

۳۲/۱۸۱۱ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا إِلَّا كَانَ فِي حِفْظٍ مِنَ اللَّهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْقَةٌ. (رواه احمد والترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۵۶۲/۴ حدیث رقم ۲۴۸۴۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جب وہ کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا یعنی ازار یا چادر یا اور کوئی چیز وہ اللہ کی طرف سے بڑی حفاظت میں ہوتا ہے جب تک وہ کپڑے کا ٹکڑا مسلمان کے بدن پر رہتا ہے۔ (احمد و ترمذی)

تشریح: اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا یا چادر پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت میں رکھیں گے۔ یہ فائدہ تو اس کو دنیا میں ملے گا اور آخرت میں بے شمار ثواب ملے گا۔

اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر

۳۳/۱۸۱۲ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَرْفَعُهُ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ وَرَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ يَخْفِيهَا أَرَاهُ قَالَ مِنْ شِمَالِهِ وَرَجُلٌ كَانَ فِي سِرِّيَةٍ فَأَنْهَزَمَ أَصْحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ - (رواه الترمذی وقال هذا حديث غير محفوظ احد رواه ابو بكر بن عياش كثير الغلط)

اخرجه الترمذی فی السنن ۶۰۱/۴ حدیث رقم ۲۵۶۷۔ والنسائی ۸۴/۵ حدیث رقم ۲۵۷۰۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے اس حدیث کو حضور ﷺ سے پہنچایا ہے حضور ﷺ نے فرمایا تین شخص ہیں ان کو اللہ دوست رکھتا ہے یعنی پسند کرتا ہے ایک وہ شخص ہے کہ وہ رات کو اس حال میں کھڑا ہو کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے نماز یا نماز کے علاوہ میں اور ایک شخص وہ ہے جو کوئی نفل صدقہ دے اپنے دائیں ہاتھ سے پھر اس کو چھپائے۔ راوی نے کہا میں گمان کرتا ہوں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اپنے بائیں ہاتھ سے (چھپائے) اور ایک وہ شخص جس کے دوستوں نے لشکر میں شکست پائی۔ پھر وہ دشمن کے سامنے ہوا۔ یہ امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث غیر محفوظ ہے یعنی ضعیف ہے اور ایک راوی ابو بکر ابن عیاش ہے اور وہ اکثر غلطی کرتا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ادب معلوم ہوتا ہے اور دائیں ہاتھ کا جو ذکر حدیث پاک میں آیا ہے کہ آدمی دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ اس سے کمال مبالغہ مراد ہے یا یہ معنی ہے کہ دائیں طرف والوں کو دے تو بائیں طرف والوں کو خبر نہ ہو۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصود ہو اور ریا کاری سے بچتے ہوئے اس طرح چھپا کر دینا بڑا ثواب ہے۔

اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور ناپسندیدہ لوگ

۳۳/۱۸۱۳ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمُ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلَهُمْ لِقْرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنْعُوهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْيَانِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يَعْدِلُ بِهِ فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي وَرَجُلٌ كَانَ فِي سِرِّيَةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهَزَمُوا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يَقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ وَالْفَلَانَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ الشَّيْخُ الزَّائِي وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِيُّ الطَّلُومُ - (رواه الترمذی والنسائی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۶۰۱/۴ حدیث رقم ۲۵۶۸۔ والنسائی ۸۴/۵ حدیث رقم ۲۵۷۰۔ واحمد فی المسند ۱۵۳/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین شخصوں کو اللہ دوست رکھتا ہے اور تین شخص ایسے ہیں جن کو دشمن رکھتا ہے پس جن اشخاص کو اللہ دوست رکھتا ہے وہ یہ ہیں: ایک تو دینے والا اس شخص کا کہ ایک جماعت کے پاس آیا اس نے اللہ کی قسم کے ساتھ مانگا یعنی یوں کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے دو اور ان سے

واسطے رشتہ داری کے نہ مانگا۔ یعنی یہ نہیں کہا مجھے قرابت داری کی وجہ سے دو۔ جو اس کے اور ان کے درمیان ہے۔ پس انہوں نے اس کو نہ دیا پھر اس شخص نے قوم کو پیچھے چھوڑا یعنی وہی دینے والا جو اسی قوم سے تھا اور وہ شخص آگے بڑھا۔ پس اس نے مانگنے والے کو خاموشی سے دے دیا اس کے دینے کو خدا اور دینے والے کے کوئی نہیں جانتا تھا اور دوسرا وہ شخص تھا جو رات کو قیام کرنے والا ہے اور تمام رات سفر کرتا رہا یہاں تک کہ جب نیند بہت پیاری ہوگی ان کے نزدیک اور پوری قوم سو رہی تھی تو وہ شخص کھڑا ہوا اور میرے سامنے گڑگڑا رہا ہے اور میری آیتیں پڑھ رہا ہے تیسرا شخص وہ ہے جو لشکر میں شامل تھا دشمن سے مقابلہ ہوا تو اس کے لشکر کو شکست ہوگئی اور یہ شخص سینہ سپر ہو کر دشمن کی طرف متوجہ ہوا۔ یہاں تک کہ وہ مارا گیا یا اسے فتح ہوگئی اور تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ ایک بوڑھا زانی، دوسرا فقیر متکبر اور تیسرا ظلم کرنے والا دولت مند۔ یعنی جو کہ قرض دینے والے کو نہ دے یا کچھ اور ظلم کرے۔ امام ترمذی اور نسائی کے اس کے مانند نقل کیا ہے اور نسائی یہ عبارت ذکر نہیں کی۔ وَلَئِنَّهُ يَظْهَرُ۔ امام نسائی نے ان اشخاص کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ محبوبان الہی کا ذکر کیا ہے۔

تشریح ﴿ حدیث پاک کا اوّل حصہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ نبی کریم ﷺ کا کلام ہے اور حدیث کے آخری الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ کلام الہی سے ہے اس کی توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ سے بیان کیا جو کچھ اس کے اور بندے کے مابین واقع ہوتا ہے۔ پس نبی کریم ﷺ نے بعینہ اللہ تعالیٰ کا قول بیان کیا ہے اور شیخ سے مراد یا بوڑھا ہے یا کنوارے کی ضد یعنی جس کا نکاح ہو گیا ہو جیسے کہ اس آیت منسوخہ میں ہے: الشیخ والشیخۃ اذا زنيا فارجموهما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کریں دونوں کو سنگسار کر دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری سزا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے اور فقیر تکبر کرنے والا البتہ متکبر سے اس کا تکبر کرنا مستثنیٰ ہے۔ اس لیے کہ وہ صدقہ ہے اس لیے کہ فقیر اگر متکبر سے تکبر کرے گا تو وہ دشمن نہیں ہوگا بلکہ صدقے کا سا ثواب پائے گا۔ چنانچہ بشر ابن حارث نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے، اے میرا مومنین! فرمایا: کیا خوب ہے مالداروں کی مہربانی کرنی فقیروں پر ثواب کی خاطر۔ اس سے فقیر کا تکبر کرنا اغنیا سے اللہ پر توکل کے اعتماد پر بہتر ہے اور یہ خصلتیں تو سب کے لیے بری ہیں لیکن ان تین اشخاص کے لیے تو بہت ہی بری ہیں چنانچہ اس کا سبب ظاہر ہے اس لیے یہ خدا کے دشمن ہیں۔

صدقے کی برتری تمام مادی چیزوں پر

۳۵ / ۱۸۱۲ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ جَعَلْتَ تَمِيْدُ فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَقَالَ بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ فَعَجَبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ قَالَ الْحَدِيدُ فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ قَالَ نَعَمْ الْمَاءُ فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ الرِّيحُ فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ قَالَ نَعَمْ ابْنُ آدَمَ تَصَدَّقْ

صَدَقَةٌ يَمِينُهُ يَخْفِيهَا مِنْ شِمَالِهِ.

(رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب وذكر حدیث معاذ الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴۲۳/۵ حدیث رقم ۳۳۶۹۔ واحمد فی المسند ۱۵۱/۵۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین بٹنے لگی پھر پہاڑ پیدا کیے اور پہاڑوں کو زمین پر ٹھہرایا۔ تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتوں نے پہاڑ کی سختی پر تعجب کیا اور کہنے لگے اے پروردگار! کیا تیری مخلوقات میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے سخت ہے؟ فرمایا ہاں کہ لوہا ہے یعنی لوہا پتھر کو بھی توڑ ڈالتا ہے پھر فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے پروردگار کیا تیری مخلوقات میں لوہے سے بھی زیادہ سخت چیز ہے؟ فرمایا آگ ہے یعنی وہ لوہے کو بھی نرم کر دیتی ہے پھر فرشتوں نے عرض کیا: اے ہمارے پروردگار! کیا تیری مخلوقات میں سے کوئی چیز آگ سے زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں! پانی ہے یعنی وہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے پھر فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے پروردگار! کیا تیری مخلوقات میں سے کوئی چیز پانی سے زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں وہ ہوا ہے یعنی وہ پانی کو بھی خشک کر دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے پروردگار! کیا تیری مخلوقات میں سے کوئی چیز ہوا سے زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں آدم کے بیٹے کا صدقہ دینا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں سے چھپاتا ہے اور امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے ابن آدم کا رضائے الہی سے یعنی اخلاص کے ساتھ صدقہ دینا تمام مادی چیزوں سے زیادہ بھاری ہے اور زیادہ قوت و اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے کہ اس میں نفس کی مخالفت ہے اور قہر طبیعت ہے اور شیطان کو دفع کرنا ہے اور دیگر چیزوں میں کہ جو اوپر مذکور ہوئیں ان میں یہ بات نہیں ہے اور اس میں نفس کی مخالفت اور شیطان کا دفعیہ اس لیے ہے کہ نفس چاہتا ہے لوگ مجھے دیتے ہوئے دیکھیں اور میری تعریف کریں کہ واہ واہ کیا کیا اور کتنا مال اس نے خرچ کیا ہے اور اپنے ہم عصروں پر فخر حاصل کریں پس جب چھپا دیا تو نفس کی مخالفت کی اور شیطان کو دور کیا اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ اس لیے بڑی چیز ہے کہ اس سے مولیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور خدا کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث: الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كِتَابُ الْإِيمَانِ میں نقل کی جا چکی ہے۔

الفصل الثالث:

اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کا حکم

۳۶/۱۸۱۵ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَبَابَةُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ قُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَيُعِيرُنِ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً فَيَقْرَتَيْنِ۔ (رواہ النسائی)

اخرجه النسائی فی السنن ۴۸/۶ حدیث رقم ۳۱۸۵۔ والدارمی ۲۶۸/۲ حدیث رقم ۲۴۰۳۔ واحمد فی المسند ۱۵۱/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ اپنے مال میں سے دو

چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو بہشت کے تمام دربان اس کا استقبال کریں گے وہ اس چیز کی طرف پکاریں گے جو ان کے پاس ہے ابو ذرؓ نے کہا کہ یہ کس طرح سے خرچ کرنا ہے فرمایا اگر اونٹ ہوں۔ تو دو اونٹ دے اور اگر گائیں ہوں تو دو گائیں دے۔ اس کو امام نسائیؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں یعنی اس کی خوشی کی جگہ پر خرچ کرے۔ جیسے حج اور جہاد وغیرہ اور طالب علم پر اور ان کی طرح اور اس چیز کی طرف جو ان کے نزدیک ہے یعنی جنت کی عمدہ عمدہ نعمتوں کی طرف یا دہاں کے دربان ہر دروازے کی طرف بلاتے ہوئے۔

۳۷/۱۸۶ وَعَنْ مَرْقَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ (رواه احمد)

اخرجه احمد في المسند ۱۴۷/۴

ترجمہ: حضرت مرقد بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ مجھ سے نبی کریم ﷺ کے بعض صحابہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے سنا فرماتے تھے کہ تحقیق مومن کا سایہ قیامت کے دن صدقہ ہوگا۔ امام احمدؒ نے اس کو نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کا سایہ قیامت کے دن صدقہ ہوگا۔ یعنی جیسے سائبان گرمی دھوپ سے بچاتا ہے ویسے ہی صدقہ نجات اور آرام کا سبب ہوگا۔ قیامت کے دن۔ یا صدقہ سائبان کی صورت میں ہوگا اور صدقہ کرنے والے کے سر پر قیامت کے دن تانا جائے گا۔ تاکہ اس دن گرمی سے بچ جائے۔

عاشوراء کے دن اہل و عیال پر وسعت کرنا

۳۸/۱۸۷ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي النَّفَقَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَةٍ قَالَ سُفْيَانُ أَنَا قَدْ جَرَّبْتَاهُ فَوَجَدْنَا كَذَلِكَ -

(رواه رزین وروی البیہقی فی شعب الایمان عن ابی ہریرۃ وابی سعید وجابر وضعفہ)

اخرجه الطبرانی فی الکبیر۔ ذکرہ فی کنز العمال ۵۷۶/۸ حدیث رقم ۴۴۲۵۹۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے کنبے پر خرچ کرنے میں عاشوراء کے دن کسادگی کرے گا اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے باقی مال میں کسادگی کر دے گا۔ سفیان ثوریؒ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے اور ہم نے اس کو اسی طرح پایا ہے اس کو رزینؒ نے نقل کیا ہے اور بیہقی نے شعب الایمان میں ابن مسعودؓ ابو ہریرہؓ اور ابو سعیدؓ اور جابرؓ سے روایت کیا ہے۔ بیہقی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔

تشریح ﴿﴾ بیہقی نے اس کو ضعیف کہا ہے اگرچہ اس کے طرق ضعیف ہیں لیکن بعض کو بعض سے قوت حاصل ہوتی ہے اور عاشوراء کے دن سرمہ لگانا جو بعضوں نے نقل کیا ہے اس کی اصل کچھ نہیں ہے اور اسی طرح اور دس افعال جو عاشوراء کے دن کرتے ہیں نقل کیے ہیں ان کی بھی کچھ اصل نہیں ہے سوائے روزے اور کھانے کی وسعت کرنی کہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔

صدقے کا ثواب کئی گنا ملتا ہے

۳۹/۱۸۱۸ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الصَّدَقَةَ مَاذَا هِيَ قَالَ أَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ وَعِنْدَ اللَّهِ الْمَزِيدُ -

اخرجه البيهقي في شعب الایمان ۳۶۶/۳ حدیث رقم ۳۷۹۵۔

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ ابو ذرؓ نے کہا اے اللہ کے نبی! مجھ کو بتائیے صدقہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس کا ثواب چند در چند ہے۔ یعنی کئی گنا ہے اور اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اس کو امام احمدؒ نے نقل کیا ہے۔

تبصریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ صدقے کا ثواب کئی گنا ملتا ہے بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ثواب دس حصے سے سات سو تک ہے اور زیادہ بھی ہے اگر چاہے تو سات سو سے بھی زیادہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ۔ یعنی اللہ ثواب کو بڑھاتا ہے جس شخص کے لیے چاہے۔

بَابُ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ

یہ باب بہترین صدقہ کے بیان میں ہے

الفصل الاول:

بہترین صدقے کی صورت

۱/۱۸۱۹ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ - (رواه البخاری ورواه مسلم عن حکیم وحده)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۹۴/۳ حدیث رقم ۱۴۲۶۔ و مسلم فی صحیحہ ۷۱۷/۲ حدیث رقم (۹۵-۱۰۳۴)۔

واخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۱۲/۲ حدیث رقم ۱۶۷۶۔ والنسائی ۶۸/۵ حدیث رقم ۲۵۴۲۔ واحمد فی المسند ۴۰۲/۲

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ اور حکیم بن حزامؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پروائی سے ہو اور اس شخص کے ساتھ شروع کرو۔ جس کا نفقہ تجھ پر لازم ہے۔ اس کو بخاری نے اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے صرف حکیم بن حزام سے۔

تبصریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پروائی سے دیا جائے صدقہ دینے کے بعد اس کا غنی ہونا باقی رہے۔ مطلقاً فقیر نہ ہو جائے۔ یعنی اہل و عیال کے لیے کھانے کا سامان لے اور پھر صدقہ دے اور اپنے اہل و عیال کو محتاج اور بھوکا نہ رکھے جیسے کہ فرمایا: شروع کر اس شخص کے ساتھ جس کا نفقہ تم پر لازم ہے اور تحقیق اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینے میں یہ بات ضروری ہے کہ نفس کا غنا حاصل ہوتا ہے یعنی نفس کی سخاوت حاصل ہوتی ہے جب اللہ پر اعتماد کر کے

دیا جائے اور دل غنی رہے اور پرواہ نہ کرے۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام مال خرچ کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ باقی چھوڑا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں اس پر آنحضرت نے تعریف فرمائی۔ اسے غنی ہونا باقی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور مالدار رہے کہیں مفلس نہ ہو جائے جیسا اوپر گزر چکا ہے۔ اصل یہ کہ اگر تو کل حاصل ہو جائے تو جو چاہے دے ورنہ نفس و عیال کو مقدم رکھے اور اس قدر نہ دے کہ اہل و عیال بھوکے رہیں۔

بیوی پر خرچ کرنا بہترین صدقہ بلکہ مقبول صدقہ ہے

۲/۱۸۲۰ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۹۷/۹ حدیث رقم ۵۳۵۱۔ و مسلم فی صحیحہ ۷۱۷/۲ حدیث رقم (۳۵ - ۱۰۳۴)۔

والنسائی فی السنن ۶۹/۵ حدیث رقم ۲۵۴۵۔ والدارمی ۳۷۰/۲ حدیث رقم ۳۶۶۴۔ واحمد فی المسند ۲۷۳/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی مسلمان اپنے اہل پر یعنی بیوی پر اور رشتے داروں پر کچھ خرچ کرتا ہے اور وہ اس میں ثواب کی توقع رکھتا ہے تو اس کے لیے بڑا صدقہ یا مقبول صدقہ ہوتا ہے اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما اللہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر اور رشتے داروں پر خرچ کرتا ہے اس کو بہترین صدقے کا ثواب ملے گا بلکہ مقبول صدقے کا ثواب ملے گا کیونکہ اس صورت میں رشتے داروں پر خرچ کرنے کا ثواب بھی اس کو حاصل ہوگا اور صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور اس کو حدیث پاک میں بڑے صدقے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ثواب کی رو سے بڑا صدقہ

۳/۱۸۲۱ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۶۹۲/۲ حدیث رقم (۳۹ - ۹۹۵)۔ واحمد فی المسند ۴۷۶/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دینار ایسا ہے کہ تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یعنی حج کے لیے جہاد کے لیے طلب علم میں اور ایک ایسا دینار ہے کہ خرچ کرے تو اس کو غلام آزاد کرنے کے لیے اور ایک دینار ایسا ہے کہ تو مسکین کو اللہ کے لیے دے اور ایک دینار ہے کہ تو خرچ کرے اپنے اہل پر تو یہ از روئے ثواب کے ان تمام دیناروں سے بڑا ہے جو دینار تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا ہے اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک کا خلاصہ پہلی روایت کے اندر بیان کیا چکا ہے کہ اپنی بیوی پر خرچ کرنا تمام صدقات سے از روئے ثواب کے بڑھ کر ہے یعنی طلب علم پر خرچ کرنا، جہاد کے لیے خرچ کرنا وغیرہ یہ بھی صدقات کی مدات ہیں لیکن بیوی پر خرچ کرنا ثواب کے لحاظ سے ان تمام سے بڑھ کر ہے کیونکہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ تم میں سے وہ آدمی اچھا ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہو۔ یعنی اپنی بیوی پر خرچ کرنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا باعث ثواب ہے۔

اہل و عیال پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے

۳/۱۸۲۲ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى ذَاتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (رواسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۶۹۱/۲ حدیث رقم (۳۸-۹۹۴)۔ واحد فی المسند ۲۷۷/۵۔

ترجمہ: حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا بہتر دینار وہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اور پھر وہ دینار ہے کہ وہ اس کو اپنے جانور پر خرچ کرے جو جہاد کے لیے پال رکھتا ہو اور وہ دینار کہ وہ اپنے دوستوں پر خرچ کرے اس حال میں کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے حدیث میں جن تین آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان تینوں پر خرچ کرنا دوسرے لوگوں پر خرچ کرنے سے افضل ہے۔

اپنی اولاد پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے

۵/۱۸۲۳ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْ أَجْرٌ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ إِنَّمَا هُمْ بَنِي فَقَالَ أَنْفَقِي عَلَيْهِمْ فَلَكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۲۸/۳ حدیث رقم ۱۴۶۷۔ ومسلم فی صحیحہ ۶۹۵/۲ حدیث رقم (۴۷-۱۰۰۱)۔ واحد فی المسند ۵۰۳/۳۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! آیا میرے لیے ابوسلمہ کے بیٹوں پر خرچ کرنے میں ثواب ہے علاوہ ازیں وہ میرے ہی بیٹے ہیں۔ پس فرمایا خرچ کرو ان پر تیرے لیے اس چیز کا ثواب ہے جو تو ان پر خرچ کرے گی۔ اس کو امام بخاری اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ ام سلمہؓ نے سوال کیا۔ کیا میں اپنی اولاد پر خرچ کروں تو مجھے ثواب ملے گا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں۔ ضرور ملے گا۔ حضرت ام سلمہؓ ابوسلمہؓ صحابیؓ کی پہلی بیوی تھیں ان سے کئی بچے پیدا ہوئے تھے۔ عمر اور زینب اور درہ۔ جب وہ فوت ہوئے تو حضور ﷺ سے نکاح ہوا۔ پس ان بچوں کو ام سلمہؓ کچھ دیا کرتی تھیں تو انہوں نے حضور ﷺ سے پوچھا کیا مجھے ان کے دینے میں ثواب بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ پس اس صورت میں بیٹوں سے مراد گئے بیٹے تھے یا ابوسلمہ کے اور بیوی سے جو بچے تھے ان کے دینے کا حکم پوچھا اس صورت میں سوتیلے بیٹے مراد ہو گئے۔

اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا دو ہر اثواب ملتا ہے

۶/۱۸۲۳ وَعَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْ بِأَمْشَرِ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكَ قَالَتْ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأَيُّهُ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِي عَنِّي وَالْأَصْرَ فُتْهَا إِلَى غَيْرِ كُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بَلِ انْتَبِهْ أَنْتِ قَالَتْ فَأَنْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتِي حَاجَتِي قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَفَيْتَ عَلَيْهِ الْمَهَابَةَ فَقَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرُهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ أَنْتِ جِزِي الصَّدَقَةَ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا وَلَا تُخْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ قَالَتْ فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُمَا قَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الزَّيْنَبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

(متفق عليه واللفظ لمسلم)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۲۸/۳ حدیث رقم ۱۴۶۶۔ و مسلم فی صحیحہ ۶۹۴/۲ حدیث رقم (۴۵)۔ (۱۰۰۰)۔
والنسائی فی السنن ۹۲/۵ حدیث رقم ۲۵۸۳۔ وابن ماجہ ۵۸۷/۱ حدیث رقم ۱۸۳۴۔ والدارمی فی السنن ۴۷۷/۱
حدیث رقم ۱۶۵۴۔ واحمد فی المسند ۳۶۳/۶۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو۔ اگرچہ تمہارے زیوروں سے ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں حضور ﷺ کی مجلس سے عبداللہ بن مسعود کے پاس لوٹ کر آئی۔ میں نے کہا کہ آپ مالی اعتبار سے کمزور ہیں اور تحقیق نبی کریم ﷺ نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا پس حضور ﷺ کے پاس جاؤ اور پوچھو ان سے کہ آیا یہ کافی ہے کہ میں آپ پر اور آپ کی اولاد پر صدقہ کروں یا نہیں؟ اگر یہ صدقہ کرنا میرے لیے کافی ہو تو تم پر صدقہ کروں اگر یہ کفایت نہ کرے تو تمہارے غیر پر خرچ کروں۔ انہوں نے کہا تو ہی حضور ﷺ کے پاس جا۔ پس زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں حضور ﷺ کے پاس گئی۔ اچانک ایک انصاری عورت دروازے پر کھڑی تھی وہ بھی میری جیسی حاجت لے کر آئی تھی۔ یعنی میرا واسوال وہ بھی پوچھ رہی تھی کہ میں خاوند اور اس کے متعلقین کو دوں یا نہ دوں؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم ﷺ کو ہیبت و رعب سے نوازا گیا تھا۔ تو بلال رضی اللہ عنہ باہر آئے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ نبی کریم ﷺ کے پاس جاؤ اور بتاؤ کہ دو عورتیں دروازے پر کھڑی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا وہ اپنے خاوندوں کو اور یتیموں کو جو ان کی پرورش میں ہیں صدقہ دے سکتی ہیں یا نہیں اور حضور ﷺ کو نہ بتانا کہ ہم کون ہیں۔ یعنی انہوں نے ریا کی لٹی کے بارے میں مبالغہ کیا ہے یعنی اس میں بالکل ریا کاری و غول نہیں ہے۔ پس زینب رضی اللہ عنہا نے کہا۔ بلال رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے پاس گئے اور حضور ﷺ سے مسئلہ پوچھا نبی کریم ﷺ نے حضرت

بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ دونوں کون ہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک عورت انصار میں سے ہے اور دوسری حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں۔ پس حضور ﷺ نے پوچھا کونسی زینب؟ (یعنی کئی زینبیں ہیں) یہ کونسی ہے؟ کہا عبد اللہ بن مسعود کی بیوی۔ پس حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ان کو دوسرا ثواب ہے ایک ثواب رشتے داری کا دوسرا ثواب صدقہ دینے کا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما نے نقل کیا اور الفاظ مسلم شریف کے ہیں۔

تشریح ❁ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول ﷺ کو ایک ہیبت اور عظمت عطا کی تھی کہ لوگ آپ سے ڈرتے تھے اور آپ ﷺ کی تعظیم کرتے تھے۔ اس لیے کوئی بھی جرأت نہیں کرتا تھا اچانک داخل ہوئیگی اور آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے خداداد ہیبت کا مالک بنایا تھا اور ہیبت و عظمت کو آپ ﷺ کے لیے عزت کا باعث بنا دیا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ان عورتوں کے بارے میں بتا دیا۔ حالانکہ عورتوں نے اپنا نام صیغہ راز میں رکھنے کے لیے کہا تھا۔ اس لیے کہ جب حضور ﷺ نے پوچھا۔ تو حضرت بلال کا بتانا واجب ہو گیا اور آدمی اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا اور نہ ہی بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے کیونکہ عادت منافع میں دونوں شریک ہوتے ہیں اور صاحبین کے نزدیک بیوی خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے پس امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس حدیث میں صدقہ سے مراد صدقہ نفل ہے اور صاحبین کے نزدیک فرض اور نفل دونوں کا احتمال ہے۔

رشتے داروں کو صدقہ دینا زیادہ ثواب ہے

۱۸۲۵/۷ وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلَيْدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ أَعْطَيْتَهَا أَخْوَالَكَ كَانَ أَعْظَمَ لَأَجْرِكَ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ حدیث رقم ۲۵۹۲۔ ومسلم فی صحیحہ ۶۹۴۱۲ حدیث رقم (۴۴۔ ۹۹۹)۔ وابوداؤد فی

السنن ۳۲۰۱۲ حدیث رقم ۱۶۸۹۔

ترجمہ : حارث کی بیٹی ام المؤمنین حضرت میمونہ سے روایت ہے۔ انہوں نے حضور ﷺ کے زمانے میں ایک لونڈی آزاد کی۔ پھر میمونہ نے نبی کریم ﷺ کے سامنے ذکر کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا: اگر تو یہ لونڈی اپنے ماموں کو دیتی تو تجھ کو بڑا ثواب ہوتا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما نے نقل کیا ہے۔

تشریح ❁ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتے داروں پر خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان پر خرچ کیا جائے اور حضرت میمونہ کے ماموں خادم کے زیادہ ضرورت مند تھے اگر ان کو دیتی تو صدقہ بھی ہو جاتا اور صلہ رحمی بھی ہو جاتی۔

قریب پڑوسی ہدیے کا زیادہ مستحق ہے

۱۸۲۶/۸ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أَهْدِي قَالَ أَقْرَبُهُمَا مِنْكَ بَابًا۔

(رواہ البخاری)

اندرجہ البخاری فی صحیحہ ۲۱۹/۵ حدیث رقم ۲۵۹۵۔ واحمد فی المسند ۱۷۵/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے اے اللہ کے نبی میرے دو ہمسائے ہیں میں ان میں سے کس کو دوں؟ یعنی کس کو تھوڑے پیسوں یعنی پہلے یا زیادہ کس کو بھیجوں؟ فرمایا اس کی طرف بھیجو جس کا دروازہ تیرے نزدیک ہو۔ امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قریبی ہمسائے کو دیا جائے۔ ایک کا دروازہ قریب ہے اور ایک کی دیوار تو قریب دروازے والے کو مقدم رکھے۔ حدیث میں مقرر نہیں کہ صرف اسی کو دے کہ اور کسی کو نہ دے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ پہلے یا زیادہ اسی کو دے جس کا دروازہ قریب ہو اور شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ جس کا دروازہ قریب ہوتا ہے اس سے اکثر اختلاط رہتا ہے اور اس کے حال کی اطلاع ملتی رہتی ہے لہذا اس سے محبت کرنا اولیٰ ہے۔

ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو

۹/۱۸۲۷ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ۔ (رواہ مسلم)

اندرجہ مسلم فی صحیحہ ۲۰۲۵/۴ حدیث رقم (۱۴۲-۲۶۲۵)۔ والدارمی فی السنن ۱۴۷/۲ حدیث رقم ۲۰۷۹۔
ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت تو شور باپکا تو اس کے پانی کو زیادہ کر لو اور ہمسایوں کی خبر گیری کر دو۔ یہ امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر تم شور باپکاؤ تو ہمسایوں کا بھی خیال کرو اور پانی زیادہ ڈال لو اور فقط لذت کا خیال نہ کرے بلکہ شور باز زیادہ کر لے اور ہمسایوں کو تقسیم کرے۔

الفصل الثانی:

مال کی کمی کے باوجود صدقہ کرنا یہ افضل صدقہ ہے

۱۰/۱۸۲۸ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْتِدَاءُ بِمَنْ تَعُولُ۔ (رواہ ابو داود)

اندرجہ ابو داؤد فی السنن ۳۱۲/۲ حدیث رقم ۱۶۷۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ کہا اے اللہ کے رسول ﷺ کونسا صدقہ زیادہ ثواب رکھتا ہے؟ فرمایا کم مال والے کی بہت زیادہ کوشش کرنی صدقہ دینے میں اور اس کو پہلے دو جس کی ضروریات تمہاری ذات کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: یعنی افضل وہ صدقہ ہے کہ کم مال والا مشقت اٹھائے اور جو کچھ ہو سکے اللہ کے راستے میں صدقہ دے اوپر والی حدیث میں گزرا ہے کہ صدقہ غنی کا کرنا زیادہ افضل ہے تطبیق این دونوں روایتوں میں یہ ہے کہ افضلیت اخلاص اور توکل کی طاقت اور کمزوری یقین کے حساب سے ہے یعنی پہلی حدیث ان لوگوں کے حق میں ہے جو توکل نہ رکھتے ہوں اور یہ ان لوگوں

کے حق میں ہے جو کامل توکل رکھتے ہوں اور بعضوں نے کہا کہ عقل سے مراد کم مال والا ہے لیکن دل غنی ہے تاکہ یہ اس حدیث کے موافق ہو جائے کہ: **أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَىٰ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ**۔ الحاصل یہ کہ ایسے فقیر کا صدقہ کرنا جس کا دل غنی ہو۔ اگرچہ وہ صدقہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مالدار کے صدقہ کرنے سے افضل ہے اگرچہ وہ مال بہت زیادہ ہو۔

صدقہ دیتے وقت رشتے دار کا خیال رکھنا چاہیے دو ہر اثواب ملتا ہے

۱۱/۱۸۲۹ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ لَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ۔ (رواہ احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴۶۳ حدیث رقم ۶۵۸۔ والنسائی ۹۲۵ حدیث رقم ۲۵۸۲۔ وابن ماجہ ۵۹۱/۱ حدیث رقم ۱۸۴۴۔ والدارمی ۴۸۸/۱ حدیث رقم ۱۶۸۰۔ واحمد فی المسند ۲۱۴/۴۔

ترجمہ: حضرت سلیمان بن عامر سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مسکین کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے یعنی ایک ہی ثواب صدقہ کا ہوتا ہے اور رشتے دار کو صدقہ دینا دو ہر اثواب رکھتا ہے ایک صدقہ کا اور دوسرا رشتے داری کا۔ اس کو امام احمد ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کا مضمون مذکور ہو چکا ہے اور رشتے داروں کو صدقہ دیتے وقت ترجیح دینی چاہیے کیونکہ ان کے دینے میں دو ہر اجر ملتا ہے۔ ایک تو صدقہ کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا رشتے داروں سے حسن سلوک کرنے کا۔

مال خرچ کرنے کا طریقہ

۱۲/۱۸۳۰ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ قَالَ أَنْتَ أَعْلَمُ۔ (رواہ ابو داؤد والنسائی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۲۰/۲ حدیث رقم ۱۶۹۱۔ والنسائی ۶۲۵ حدیث رقم ۲۵۳۵۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے پاس ایک دینار ہے یعنی اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اس کو اپنے اوپر خرچ کر۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے؟ فرمایا اس کو اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے؟ فرمایا خرچ کرو اس کو اپنے اہل پر یعنی بیوی (بچوں) پر اور ماں باپ، اور رشتے داروں پر۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے؟ فرمایا خرچ کرو اس کو اپنے خادم پر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے؟ فرمایا تو دانا تر ہے۔ یہ ابو داؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں حضور ﷺ نے مال خرچ کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے اور ترتیب بتائی ہے آپ ﷺ نے صحابی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان مذکورہ حضرات پر خرچ کرنے کے بعد تو خوب جانتا ہے یعنی مستحق کا حال تو ہی خوب جانتا ہے جس کو مستحق جانو اس کو دے دو۔

بدترین اور بہترین آدمیوں کی طرف نشاندہی

۱۳/۱۸۳۱ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ رَجُلٌ مُمَسِّكٌ بِعَتَانِ قَرِيبِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَتْلُوهُ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غَنِيمَةٍ لَهُ يُوَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِيهَا أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ رَجُلٌ يَسْتَلُّ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطِي بِهِ- (رواه الترمذی والنسائی والدارمی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۵۶/۴ حدیث رقم ۱۶۵۲۔ والنسائی ۸۳/۵ حدیث رقم ۲۵۶۹۔ والدارمی ۲۶۵/۲ حدیث رقم ۲۳۹۵۔ ومالك فی الموطأ ۲۴۵/۲ حدیث رقم ۴ من کتاب الجهاد۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بہترین آدمی کون ہے وہ شخص جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہے۔ اللہ کے راستے میں سوار ہو کر کافروں کے ساتھ جنگ کا منتظر ہے کیا میں نہ بتاؤں تم کو اس شخص کے بارے میں جو مذکورہ شخص کے مرتبہ میں ہے وہ شخص جو اپنی چند بکریوں کے ساتھ گوشہ نشینی میں ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے۔ یعنی لوگوں سے الگ ہو کر جنگل میں جا رہا ہے اور اپنا گزارا بکریوں سے کرتا ہے اور ان کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے کیا میں تمہیں یہ بتاؤں بدترین آدمیوں کے بارے میں کہ وہ شخص ہے کہ سائل اس سے اللہ کی قسم دے کر سوال کرتا ہے کہ مجھ کو دو اور وہ سائل کو کچھ نہیں دیتا۔ یہ روایت امام ترمذی اور نسائی اور دارمی نے نقل کی ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے یعنی اچھے لوگوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس لیے کہ غازی سب لوگوں سے افضل ہے اور اس طرح بدترین آدمیوں میں سے یہ مراد ہے کہ بروں میں سے ایک یہ بھی ہے۔

سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ

۱۳/۱۸۳۲ وَعَنِ امِّ بَحِيْدٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظُلْفٍ مُحْرَقٍ۔

(رواه مالك والنسائی وروی الترمذی وابو داود معناه)

اخرجه ابو داود فی السنن ۳۰۷/۲ حدیث رقم ۱۶۶۷۔ والترمذی ۵۲/۳ حدیث رقم ۶۶۵۔ والنسائی ۸۱/۵ حدیث رقم ۲۵۶۵۔ ومالك فی الموطأ ۹۲۳/۲ حدیث رقم ۸ من کتاب صفة النبی ﷺ واحمد فی المسند ۴۳۵/۶۔

ترجمہ: امم بحیدہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مانگنے والوں کو دو۔ اگرچہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو امام مالکؒ اور نسائی نے نقل کیا ہے۔ امام ترمذی اور ابو داود نے بھی اسی کے ہم معنی روایت کی ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث میں بطور مبالغہ کے یہ بتایا گیا ہے کہ ادنیٰ سی چیز کے بارے میں بھی سائل کو نہیں پھیرنا چاہیے۔ پس اس کلام کی حقیقت مراد نہیں ہے کیونکہ جلا ہوا کھر تو قابل انتفاع نہیں ہے۔

اخلاق حسنہ کی تعلیم

۱۵/۱۸۳۳ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَعَاذَ مِنْكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْيَدُوهُ وَمَنْ

سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِبُوهُ وَمَنْ مَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِيُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِيُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّ قَدْ كَافَيْتُمُوهُ - (رواه احمد وابو داود والنسائي)

اخرجه ابو داود في السنن ۳۱۰/۱۲ حديث رقم ۱۶۷۲ - والنسائي ۸۲۱۵ حديث رقم ۲۵۶۷ - واحمد في المسند ۶۸/۲ -
ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ پناہ مانگے پس اس کو پناہ دو۔ پس جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ سوال کرے۔ پس اس کو دو اور جو شخص تم کو کھانے کے لیے بلائے۔ پس اس کی دعوت قبول کرو اگر کوئی حسی یا شرعی مانع نہ ہو اور جو شخص تمہاری طرف احسان کرے تو لی یا خطی پس اس کو بدلہ دو یعنی تم بھی اس پر احسان کرو۔ جیسے اس نے کیا ہے پس اگر مال نہ پاؤ بدلہ دینے کے لیے تو محسن کے لیے دعا کرو۔ یہاں تک کہ تم گمان کرو کہ تم نے بدلہ دے دیا۔ اس کو امام احمد، ابو داود اور نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں اخلاقی حسنہ کی تعلیم دی گئی ہے اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص تم سے پناہ مانگے اور تم سے شر کا دفعیہ طلب کرے اور پناہ مانگتے وقت کہے کہ میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے کہتا ہوں کہ مجھ سے شر کو دفع کرو تو اس کی پکارا دفر یا کو قبول کرو اور اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی خاطر اس کی فریاد کو قبول کرو اور یہ بھی احتمال ہے کہ صرف لفظ استعاذ کا صلہ ہے۔ یعنی جو اللہ کا نام لے کر پناہ مانگے تو اس سے اعراض نہ کرو۔ بلکہ اس کو پناہ دے دو۔ اور اس سے شر کو دور کرو اور یہاں تک کہ تم خیال کر لو کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کہ اس کے ساتھ احسان کیا گیا پس اس نے احسان کرنے والے کو جواب دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ پس اس نے ثنائیں مبالغہ کیا ہے یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے جس نے کسی کو ایک بار جزاک اللہ خیر کہا تو اس نے اس کا حق ادا کر دیا اگرچہ اس کا حق زیادہ ہو گیا اس نے بدلہ اتارنے میں اپنے نفس کو عاجز کر دیا ہے اور اپنا حق اللہ کے سپرد کر دیا ہے پس اس کا ایک بار کہنا مکرر دعا کے ہے یہ عادت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھی۔ جب کوئی سائل ان کے لیے دعا کرتا تو وہ جواباً دعا دیتیں پھر اس کو مال دیتیں۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا اگر میں اس کے لیے دعا نہ کروں تو اس کا حق مجھ پر بڑھ جائے گا۔ میرے لیے دعا کرنے کی وجہ سے میرے صدقہ کی وجہ سے یعنی اس نے جو میرے صدقہ دینے کی وجہ سے دعا کی ہے پس اس لیے میں دعا کرتی ہوں۔ جیسے کہ وہ دعا کرتا ہے میرے لیے تاکہ اپنی دعا کے ساتھ اس کی دعا کا بدلہ اتار دوں اور میرا صدقہ خالص ہو جائے اور عند اللہ مقبول ہو۔

اللہ رب العزت سے صرف جنت کا سوال کرو

۱۲/۱۸۳۳ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسْتَأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ - (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود في السنن ۳۰۹/۲۱ حديث رقم ۱۶۷۱ -
ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر کوئی چیز نہ مانگو۔ سوائے بہشت کے۔ یہ ابو داود نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں سے خدا کی ذات کا واسطہ دے کر کچھ نہ مانگو یعنی یہ نہ کہو کہ مجھے کوئی چیز خدا کے واسطے دو۔ یا اللہ۔ کے واسطے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اس سے بہت بڑا ہے کہ اس کے نام سے دنیا مانگی جائے۔



بلکہ اس سے صرف جنت ہی مانگے اور کہے یا اللہ ہم آپ سے آپ کی ذات کریمی کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں جنت میں داخل کر دے۔

الفصل الثالث:

محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا

۱۷/۱۸۳۵ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٌ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ . قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنِّي أَحَبُّ مَالِي إِلَى بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْجُو بَرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخٍ بَخٍ ذَاكَ مَا لَ رَابِعٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْرَبِيهِ وَبَنِي عَمِّهِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۲۵۱۳ حدیث رقم ۱۶۶۱ - ومسلم فی صحیحہ ۶۹۳۱۲ حدیث رقم (۴۲ - ۹۹۸)۔

والدارمی فی السنن ۴۷۷۱۱ حدیث رقم ۱۶۵۵ - واحمد فی المسند ۱۴۱۱۳۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ابو طلحہ مدینہ کے انصار میں سے کھجوروں کے اعتبار سے بہت مالدار تھے اور ان کے پسندیدہ مالوں سے ان کا بیرحاء کے نام سے ایک باغ تھا اور وہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا اور نبی کریم ﷺ اس باغ میں تشریف لے جاتے اور شیریں پانی پیتے تھے۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں جب یہ آیت اتری کہ تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ ابو طلحہؓ کھڑے ہوئے اور حضور ﷺ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے رسول۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نیکی حاصل کر سکو گے۔ جب تک تم اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو اور میرے پسندیدہ مال میں بیرحاء ہے میں اس کو اللہ کے واسطے صدقہ کرتا ہوں اور اس کی نیکی کی امید کرتا ہوں آیت کریمہ کی وجہ سے اور میں اس کا امیدوار ہوں کہ یہ اللہ کے پاس ذخیرہ ہوگا۔ پس اے اللہ کے نبی اس کو رکھو۔ جہاں اللہ آپ کو بتلا دیں یعنی آپ جس جگہ چاہیں خرچ فرمائیں پس آپ ﷺ نے فرمایا شاباش شاباش یہ بیرحاء مال ہے۔ نفع دینے والا ہے اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں نے سن لیا ہے جو تو نے مجھ سے بیان کیا ہے میں اس کو مناسب سمجھتا ہوں کہ تو اس کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دے تاکہ صدقہ کا ثواب حاصل ہو جائے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے۔ ابو طلحہؓ نے فرمایا میں وہی کروں گا جس کا آپ نے حکم فرمایا ہے پھر ابو طلحہؓ نے وہ باغ اپنے رشتے داروں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما نے نقل کیا ہے۔

تشریح: بیرحاء اس کے لغوی معنی ہیں کہ حاء ایک آدی کا نام ہے اور بیر کنویں کو کہتے ہیں۔ تو جب اضافت کی گئی بیرحاء

ہو گیا اور یہ ابو طلحہ صحابی کا مدینہ منورہ میں باغ تھا اور روایت میں آیا ہے بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ (مرقاۃ)
اس حدیث پاک میں نبی عم کا بیان ہے یعنی اقارب کا اور یہ بھی احتمال ہے کہ اقارب کے علاوہ اور ناطے دار مراد ہوں۔
یعنی اس میں آپ ﷺ نے ابو طلحہ کو تلقین فرمائی کہ اپنا پسندیدہ مال اپنے رشتے داروں پر خرچ کرو۔ اس میں دو ہر ا ثواب ملے گا۔
ایک رشتے داری کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کریم کی آیات مبارکہ پر
کس قدر عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

جاندار کو کھلانا بھی صدقہ ہے

۱۸/۱۸۳۶ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تُشَبَّعَ كَبِدًا جَانِعًا -

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

اخرجه البیہقی فی شعب الایمان ۲۱۷/۳ حدیث رقم ۱۹۴۶۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ بھوکے جگر کا پیٹ بھر دے۔
بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کا فرمان مبارک ہے کہ بھوکے جگر کو سیر کرادو۔ یہ بھی صدقہ ہے
یعنی جو چیز جاندار ہو خواہ کافر ہو۔ خواہ مسلمان ہو خواہ جانور لیکن موذی جانور کو مارنے کا حکم ہے نہ کہ اس کو کھلانے کا یعنی سانپ
وغیرہ اس سے مستثنیٰ ہے۔

فائدہ! مؤلفؒ کی عادت ہے کہ کہیں بغیر ترجمہ کے صرف باب ہی ذکر کرتے ہیں اور اس میں پہلے باب کی متمات اور
ملکحات حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ باب بھی ایسا ہی ہے اور بعض نسخوں میں یوں ہے: باب ما ینفقہ المرأة من مال
بعولہا۔ یعنی زوجہ اپنے شوہر کے مال میں سے جو چیز خرچ کر سکتی ہے اس کا بیان۔

بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ

یہ باب بیوی کے اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرنے کے بیان میں ہے

الفصل الاول:

صدقہ کرنے والی عورت کے ثواب کا تذکرہ

۱۸/۱۸۳۷ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ
مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلَزَوْجُهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَارِجِ مِنْ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ

أَجْرَ بَعْضِ شَيْءٍ۔

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۶۷/۳ حدیث رقم ۱۴۳۷۔ ومسلم فی صحیحہ ۷۱۰/۲ حدیث رقم (۷۹-۱۰۲۳)۔

واحمد فی المسند ۴۴/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے صدقہ کرتی ہے اس حال میں کہ وہ اسراف کرنے والی نہ ہو تو اسے اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے اور شوہر کو اس کے کمانے کا ثواب ملتا ہے اور خازن کو بھی اس کی مش ثواب ملتا ہے اور ان میں سے کسی کو ثواب دینے کی وجہ سے دوسرے کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کا تعلق اس صورت سے ہے کہ اگر خاوند نے بیوی کو صدقہ کرنے کا صراحتاً دلاتا اذن دے دیا ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ اہل جواز کی عادت کے موافق حکم جاری ہوا ہے ان کی عادت یہ تھی کہ اپنی بیویوں اور خادموں کو اجازت دے دیتے تھے کہ وہ مہمانوں کی ضیافت کریں اور ان کو کھانا کھلائیں اور رسائل اور مساکین کو کھانا کھلائیں۔ حضور ﷺ نے امت کو اچھی عادات اپنانے کی رغبت دلائی ہے۔

عورت کا خاوند کی اجازت کے بغیر صدقہ کرنے کا حکم

۲/۱۸۳۸ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۰۴/۹ حدیث رقم ۵۳۶۰ ومسلم فی صحیحہ ۷۱۱/۲ حدیث رقم (۸۴-۱۰۲۶)۔

وابوداؤد فی السنن ۳۱۷/۲ حدیث رقم ۱۶۸۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب عورت اپنے خاوند کی کمائی سے صدقہ اس کے حکم کے بغیر کرتی ہے تو اس کے واسطے آدھا ثواب ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں جو لفظ آیا ہے کہ بغیر اس کے حکم کے اس سے مراد یہ ہے کہ خاوند نے خاص کر اس صدقے کا حکم نہیں کیا۔ لیکن وہ خاوند کی رضامندی کو صراحتاً دلاتا جاتی ہے کیونکہ اگر تھوڑی چیز ہو تو اس کے دینے کو کوئی منع نہیں کرتا۔ جیسے فقیر کو روٹی کا ٹکڑا یا ایک روپیہ دیتے ہیں۔

داروغے کے اوصاف اور مالک کے حکم کی تعمیل

۳/۱۸۳۹ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُعْطِي مَا أَمَرَهُ بِكَامِلًا مُوقَرًّا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَذْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أَمَرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۰۲/۳ حدیث رقم ۱۴۳۸۔ ومسلم فی صحیحہ ۷۱۰/۲ حدیث رقم (۷۹-۱۰۲۳)۔

وابوداؤد فی السنن ۳۱۵/۲ حدیث رقم ۱۶۸۴۔ والنسائی ۶۵/۵ حدیث رقم ۲۵۳۹۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان امانتدار داروغہ صدقہ دے کہ جو اس کو مالک نے حکم دیا ہے پورا دے اور خوش دلی کے ساتھ دے تو دوسدقہ کرنے والوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں داروغے یعنی خزانچی کے بارے میں چار شرطیں مذکور ہوئی ہیں: ۱) ایک تو صدقہ دینے میں مالک کا حکم ہو۔ ۲) دوسرا پورا پورا دینا ہے۔ ۳) تیسرا خوشی کے ساتھ صدقہ دینا ہے اس لیے کہ بعض خدام خوشی سے نہیں دیتے حالانکہ مالک صدقہ دلواتے ہیں۔ ۴) چوتھے نمبر پر اس کو دینا جس کے لیے مالک حکم کرے نہ کہ دوسرے مسکین کو۔ مُتَصَدِّقِینَ کا لفظ ثننیہ کے صیغہ کے ساتھ مستعمل ہوا ہے یعنی ایک مالک اور دوسرا داروغہ مسلمان امانت دار جو کچھ مالک دینے کا حکم کرتا وہ پورا ادا کرتا ہو اور خوش ہو کر دیتا ہو۔ ان دوسدقہ کرنے والوں میں سے ایک یہ بھی ہے اور ایک صحیح نسخہ میں جمع کے صیغہ کے ساتھ آیا ہے کہ وہ داروغہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ الحاصل یہ کہ جو داروغہ امانت دار ہو مسلمان ہو جو کچھ مال دینے کا حکم کرے وہ پورا دے اور اس میں کمی پیشی نہ کرے اور جس کے لیے مالک حکم کرے اسی کو دے تو اس دینے والے داروغے کو بھی مالک کی طرح ثواب ملتا ہے۔

میت کو صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے

۳/۱۸۴۰ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي أَفْطَلَتْ نَفْسَهَا وَأَطْنَهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۵۲/۳ حدیث رقم ۱۳۸۸۔ و مسلم فی صحیحہ ۶۹۶/۲ حدیث رقم (۵۱)۔ (۱۰۰۴)۔

وابن ماجہ ۹۰۶/۲ حدیث رقم ۲۷۱۷۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے کہا میری ماں اچانک وفات پا گئی ہے اور میں خیال کرتا ہوں کہ اگر وہ بول پاتی تو کچھ اللہ کے لیے دیتی یا وصیت کر جاتی اگر میں صدقہ دوں تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ فرمایا: ہاں! یہ بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ میت کو صدقہ کا ثواب پہنچتا ہے اور اسی طرح دعا و استغفار بھی میت کے لیے مفید ہوتی ہے اہلسنت والجماعت کا یہی مذہب ہے اور عبادتِ بدنہ میں اختلاف ہے جیسے: نماز، تلاوت قرآن وغیرہ اور مختار مذہب یہ ہے کہ ان کا ثواب بھی پہنچتا ہے اور امام عبداللہ یا خضی نے لکھا ہے کہ شیخ بزرگ عبدالسلام کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ ہم دنیا میں یہ حکم کرتے تھے تلاوت قرآن کے ثواب نہ پہنچنے پر اور اس عالم میں ہم نے اس کے برخلاف پایا۔

الفصل الثانی:

خاوند کی اجازت کے بغیر ادنیٰ چیز بھی صدقہ نہیں کرنی چاہیے

۵/۱۸۴۱ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا۔

(رواہ الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۵۷/۳ حدیث رقم ۶۷۰۔ وابن ماجہ ۷۰۰/۲ حدیث رقم ۲۲۹۵۔

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے آپ حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرماتے تھے کہ عورت اپنے خاوند کے گھر سے بغیر اذن کے کچھ خرچ نہ کرے۔ خاوند کا اذن صریحاً ہو یا دصالتاً اور کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا کھانا بھی نہ دے؟ فرمایا کھانا تو ہمارا نفیس ترین ہے۔ یہ امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ادنیٰ چیز بھی خاوند کی اجازت کے بغیر صدقہ نہیں کر سکتی۔ تو طعام تو بہت افضل چیز ہے اس کا بغیر اجازت کے صدقہ کرنا کیسے درست ہوگا اور ظاہر اس حدیث میں اور اوپر والی حدیث میں تعارض معلوم ہوتا ہے لیکن جب فوائد کو دیکھا جائے گا تو کچھ شبہ باقی نہ رہے گا۔ اس لیے کہ ان سے تطبیق معلوم ہو جائے گی۔

تازہ چیزوں کو بغیر اذن کے استعمال کریں اور ان کا صدقہ کرنا بھی جائز ہے

۶/۱۸۲۲ وَعَنْ سَعْدِ قَالَ لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَانَتْهَا مِنْ نِسَاءِ مَضَرَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُلُّ عَلِيٍّ أَبَاتِنَا وَأَبْنَاتُنَا وَأَزْوَاجُنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ الرُّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتَهْدِيْنَهُ۔

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۳۱۶/۲ حدیث رقم ۱۶۸۶۔

ترجمہ: حضرت سعدؓ سے روایت ہے جب آپ ﷺ نے بیعت لی یعنی احکام شریعت کے قائم کرنے پر عہد لیا۔ ایک بزرگ عورت یا دارز قد والی عورت کھڑی ہوئی گویا کہ وہ قبیلہ مضر کی عورتوں میں سے تھی پس اس نے کہا اے اللہ کے نبی ﷺ! ہم اپنے باپوں بیٹوں اور شوہروں پر بوجھ ہیں تو ہمارے لیے ان کے مالوں سے کیا حلال ہے یعنی ان کے حکم کے بغیر۔ فرمایا تازہ مال کھاؤ اور بطور تحفہ کے بھیجو۔ یہ ابوداؤدؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں جلد خراب ہونے والی ہوتی ہیں ان کو خاوند کی اجازت کے بغیر صدقہ کیا جاسکتا ہے جیسے شوربا اور دودھ وغیرہ اور بعض پھل بھی ایسے ہیں کہ جلدی بگڑ جاتے ہیں پس ایسی چیزوں میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ایسی چیزوں میں عرفاً عادت جاری ہوتی ہے کہ لوگ ایسی چیز جس کے خرچ کرنے کو منع کرتے۔ پس ان میں اجازت دلالت حاصل ہوتی ہے بخلاف خشک چیز کے اس میں اذن اور رضا ضروری ہے۔

الفصل الثالث:

مالک کی رضا مندی سے خرچ کرو

۷/۱۸۲۳ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أَبِي اللَّهِمْ قَالَ أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أَقْدِ دَلْحَمًا فَجَاءَنِي مُسْكِينٌ فَاطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ لِمَ

ضَرَبَتْهُ قَالَ يُعْطَى طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ أَمُرَهُ فَقَالَ الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوْلَى بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۷۱۱/۲ حدیث رقم (۸۲-۱۰۲۵)۔

ترجمہ: حضرت ابی اللہؑ کے آزاد کردہ غلام عمیرؓ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے مالک نے مجھے گوشت کے پارچے بنانے کا حکم کیا یعنی سکھانے کے لیے پس میرے پاس ایک مسکین آیا۔ میں نے اس کو کھانے کے لیے دے دیا تو جب میرے مالک کو معلوم ہوا تو اس نے مجھے مارا۔ میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضور ﷺ نے میرے مالک کو بلایا اور فرمایا اس کو تو نے کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا۔ یہ کھانا میری اجازت کے بغیر دیتا ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ثواب تمہارے دونوں کے درمیان ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں کسی کا غلام تھا میں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ میں اپنے مالک کے مالوں میں سے صدقہ کر سکتا ہوں قلیل چیز یا وہ چیز صدقہ کر سکتا ہوں جس کی عادیہ اجازت ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں تم دونوں کو آدھوں آدھ یعنی نصف نصف ثواب ملے گا۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر تو حکم کرتا دینے کا یا راضی ہو جاتا۔ تو ثواب تم دونوں کے درمیان نصف نصف ہو جاتا۔ اور علامہ طبریؒ کا کہنا ہے کہ حضرت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ غلام کو مالک کی ملک میں مطلقاً حق تصرف حاصل ہے مطلقاً بلکہ آپ ﷺ نے ایسے کام پر غلام کے مارنے کو ناپسند سمجھا جو مالک کے حق میں اچھا تھا۔ پس مولیٰ کو اس پر رغبت دلائی کہ ثواب کو غنیمت جانے اور اس سے درگزر کرے۔ گویا یہ آبی اللہ رضی اللہ عنہ کے لئے آپ ﷺ کی رہنمائی اور تعلیم تھی نہ کہ عمیر رضی اللہ عنہ کے فعل کی تقریر یعنی عمیر رضی اللہ عنہ کے فعل کو آپ ﷺ نے جائز قرار نہیں دیا۔

بَابُ مَنْ لَا يَعُودُ فِي الصَّدَقَةِ

یہ باب اس کے شخص کے بارے میں ہے جو صدقہ دے کر واپس نہ لے

الفصل الاول:

صدقہ دے کر واپس نہیں لینا چاہیے

۱/۱۸۴۴ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَلَى قَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَصَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدَرَاهِمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۵۳/۳ حدیث رقم ۱۴۹۰۔ ومسلم فی صحیحہ ۱۲۴۱/۳ حدیث رقم (۷-۱۶۲۲)۔
وابوداؤد فی السنن ۸۰۸/۳ حدیث رقم ۳۵۳۹۔ والنسائی ۲۶۵/۶ حدیث رقم ۳۶۹۰۔ وابن ماجہ ۷۹۷/۲ حدیث رقم ۲۳۸۴۔ واحمد فی المسند ۲۷/۲۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے خدا کے راستے میں کسی کو گھوڑا دیا یعنی ایک غازی کے پاس گھوڑا نہیں تھا میں نے اس کو گھوڑا دے دیا پس اس نے گھوڑے کو ضائع کر دیا پراہی کی وجہ سے دبا کر دیا۔ میں نے چاہا کہ میں اس کو خرید لوں اور میں نے گمان کیا کہ وہ اس کو ستا بیچ دے گا۔ میں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا اس کو نہ خریدو اور اپنے صدقے کو نہ لوٹاؤ۔ اگرچہ وہ تجھ کو ایک درہم کے بدلے میں دے۔ (یہ سورۃ عود ہے نہ کہ حقیقتاً) کیونکہ اپنے دیئے ہوئے صدقے کو واپس لینے والا کتے کی مثل ہے جو قے کر کے چاٹ لے اور ایک روایت میں ہے اپنے صدقے کو نہ لوٹا۔ اس لیے کہ صدقے سے رجوع کرنے والا اپنی قے کو چاٹنے والے کی طرح ہے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم رحمہما نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا صدقہ دے کر واپس نہیں لینا چاہیے نہ سورۃ اور نہ ہی ھیتۃ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ واپس لینا چاہتے تھے۔ اس لیے کہ یہ ستا بیچ دے گا دبا ہونے کی وجہ سے یا اس لیے کہ میں اس کا حسن تھا اور آپ ﷺ کا فرمانا کہ نہ خریدو۔ یہ نہیں تزیہی ہے ابن مالک نے کہا بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ صدقہ دینے والے کو اپنا صدقہ دیا ہو خریدنا حرام ہے اس حدیث کے ظاہر کی وجہ سے اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ مکروہ تزیہی ہے اس لیے کہ اس میں منع لغیرہ ہے وہ یہ ہے جس کو صدقہ دیا جاتا ہے وہ اکثر صدقہ دینے والے کے ہاتھ سے مول بیچتا ہے۔ اس کے پہلے احسان کی وجہ سے پس وہ اپنے صدقے میں عود کرنے والا بن جاتا ہے۔ بہر حال قول واثق یہی ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد: لا تشترہ (اسے نہ خریدو) بطور نبی تزیہی ہے۔

صدقے کا مال واپس ہو جانے کی ایک صورت

۲/۱۸۳۵ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِبَحَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَا تَنْتُ قَالَ وَجَبَ أَجْرُكَ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْيَمِيرَاتُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ كَانَ عَلَىٰ صَوْمٍ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ صُومِي عَنْهَا قَالَتْ إِنَّهَا لَمْ تَحْجُ قَطُّ أَفَأَحْجُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۸۰۵/۲ حدیث رقم (۱۵۷-۱۱۴۹)۔ وابوداؤد فی السنن ۶۰۴/۳ حدیث رقم ۳۳۰۹۔
حضرت بريدہ سے روایت ہے میں نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا آپ کے پاس ایک عورت آئی اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی بطور صدقہ کے دی تھی اور تحقیق میری ماں مر گئی ہے تو کیا میں اس لونڈی کو لے لوں اور کیا وہ میری ملک میں لوٹ آئے گی یا نہیں؟ فرمایا صدقہ کرنے کی وجہ سے تیرا ثواب ثابت ہو گیا ہے اور میراث نے لونڈی کو تجھ پر واپس لوٹا دیا۔ عورت نے کہا اے اللہ کے رسول میری ماں پر ایک مہینہ کے روزے تھے۔ کیا میں اس کی طرف سے

روزے رکھوں فرمایا اس کی طرف سے روزے رکھو اس عورت نے کہا کہ میری ماں نے حج نہیں کیا۔ کیا میں اس کی طرف سے حج کروں۔ فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کرو۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے

تشریح ﴿﴾ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ میراث کی وجہ سے وہ صدقہ کی ہوئی چیز واپس اس کے پاس آ جاتی ہے اور لونڈی وراثت کی وجہ سے تیری ملک ہوگئی اور حلال طریقے سے تیرے پاس آ گئی۔

خلاصہ یہ ہے کہ صدقے کا لوٹانا۔ اس قبل سے نہیں ہے اس لیے کہ یہ امر اختیاری نہیں ہے اور آپ ﷺ نے جو ارشاد فرمایا کہ روزے رکھو حکماً وہ فدیہ کا ادا کرنا ہے۔ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے کہ روزہ رکھنا کسی کی طرف سے درست نہیں ہے بلکہ وارث فدیہ دے اس کا بیان مع اختلاف مذاہب کے ساتھ روزوں کی قضاء کے باب میں انشاء اللہ تعالیٰ ہوگا اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ عبادت کی کئی قسمیں ہیں ایک محض مالی عبادت ہے جیسے زکوٰۃ اور دوسری محض بدنی جیسے نماز اور تیسرا مرتبہ مالی اور بدنی۔ جیسے حج۔ پس مال میں حالت اختیار میں بھی نیابت جائز ہے اور ضرورت کے وقت بھی اس لیے کہ مقصود فقر کی حاجت پوری کرنی ہے اور یہ نائب کے ادا کرنے سے پوری ہو جاتی ہے اور بدنی عبادت میں نیابت کسی حالت میں جائز نہیں ہے اس لیے کہ مقصود مشقت میں ڈالنا ہے اور وہ نائب کے کرنے سے حاصل نہیں ہوتا اور مرکب عبادت میں نیابت عجز کے وقت جائز ہے نہ کہ حالت قدرت میں اور نفلی حج میں حالت قدرت میں بھی نیابت جائز ہے اس لیے کہ نفل کا باب بہت زیادہ وسیع ہے اور فرمایا تو حج کر خواہ اس پر حج فرض ہوا تھا یا نہیں اس نے وصیت کی تھی یا نہیں۔ وارث کو درست ہے کہ مورث کی طرف سے حج کر لے خواہ کسی سے کرائے یا آپ خود کرے خود کرے گا تو مورث کی اجازت کی ضرورت نہیں اور غیر کے لیے اجازت شرط ہے واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب الزکوٰۃ پوری ہوتی۔ اب آگے کتاب الصوم ہے۔



فَاصْبِرْ: صوم کے لغوی معنی رکنے کے ہیں اور شرع میں اس کے معنی ہیں کھانے پینے اور جماع سے اور کسی چیز کے بدن کے اندر داخل کرنے سے فجر سے غروب تک نیت کے ساتھ رکے رہنا اور روزہ رکھنے والا روزے کا اہل یعنی مسلمان ہو اور حیض و نفاس سے پاک بھی ہو اور رمضان کا روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے فائدوں کے لیے مقرر کیا ہے سب سے بڑے اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو نفس امارہ کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کی تیزی جاتی رہتی ہے اور تمام اعضاء آنکھ زبان اور کان سرد وغیرہ ست ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے گناہ کی خواہش کم ہو جاتی ہے چنانچہ اسی لیے کہا گیا ہے جب نفس بھوکا ہوتا ہے تو تمام اعضاء سیر ہوتے ہیں یعنی اعضاء رغبت نہیں کرتے اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو سب اعضاء اپنے مناسب چیز کی رغبت کرتے ہیں اور مناسب سے مراد وہ چیز ہے جس کے لیے وہ عضو پیدا ہوا ہے مثلاً آنکھ اپنی مناسب چیز کے دیکھنے کے لیے پیدا ہوئی ہے بھوک کی حالت میں کسی چیز کی طرف دیکھنے میں رغبت نہیں ہوتی اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو رغبت پیدا ہو جاتی ہے اس طرح باقی اعضاء کا حال ہے خوب سمجھو۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دل کدورتوں سے صاف ہو جاتا ہے اور اس لیے کہ دل کی کدورت فضول گفتگو اور آنکھ اور بقیہ اعضاء کے غلط استعمال سے پیدا ہوتی ہے یعنی ضرورت سے زیادہ بولنا اور بلا ضرورت دیکھنا اور ضرورت سے زیادہ اعضاء سے کام لینے کی وجہ سے کدورت پیدا ہوتی ہے اور روزہ دار ان چیزوں سے امن میں رہتا ہے اور دل کی صفائی اور پاکیزگی کی وجہ سے اچھے کام کرتا ہے اور عالی درجات حاصل ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مساکین پر رحم کا سبب ہوتا ہے اس لیے کہ روزے میں جو بھوک کی تکلیف اٹھاتا ہے اسے یہ تکلیف یاد رہتی ہے اور جب کسی دوسرے کو بھوکا دیکھتا ہے تو اس پر رحم کرتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں فقراء کے ساتھ موافقت ہے کہ اسے فقراء جیسی تکالیف اٹھانی پڑتی ہے اور اس تکلیف سے اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے جیسا کہ بشرحانی سے منقول ہے کہ ایک شخص سردی کے موسم میں ان کے پاس گیا۔ پس ان کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے کانپ رہے تھے اور ان کے کپڑے کھوٹی پرانے تھے۔ اس نے کہا کہ آپ نے اس وقت کپڑے اتار رکھے ہیں انہوں نے کہا اے بھائی فقراء بہت ہیں اور میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ سب کی خبر گیری کروں تو میں سردی کے ایام میں تکلیف اٹھانے پر ان سے موافقت کرتا ہوں۔ جیسے کہ وہ تکلیف اٹھا رہے ہیں اتنی اور اسی لیے بعض عارفین اولیاء کرام ہر نوالے پر کہتے ہیں: اللہم لا توأخذنی بحق الجانعین۔ یا اللہ میرا بھوکوں کے حق میں مواخذہ نہ کیجئے اور حضرت یوسف علیہ السلام قحط سالی میں غلے کی کثرت

کے باوجود سیر نہیں ہوتے تھے۔ تاکہ وہ بھوکوں کو نہ بھول جائیں اور ساروں کے ساتھ تکلیف اٹھانے میں مشابہت ہو جائے۔ پھر تحویل قبلہ کے دس روز بعد ہجرت کے اٹھارویں مہینہ میں ماہ شعبان میں اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کوئی روزہ فرض نہیں تھا اور بعضوں نے کہا ہے کہ فرض تھا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا اور بعضوں نے کہا ہے وہ روزہ عاشوراء کا تھا اور بعض نے کہا ایتام بیض کا تھا اور علماء نے اختلاف کیا ہے کہ نماز افضل ہے یا روزہ مشہور جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ نماز افضل ہے سب اعمال سے اور بعضوں نے کہا ہے کہ روزہ افضل ہے اور رمضان کے روزے کی فرضیت کا منکر کافر ہوتا ہے اور اس کا چھوڑنے والا سخت گنہگار ہوتا ہے۔ چنانچہ در مختار میں باب ما یفسد الصوم میں لکھا ہے: ولو اکل عمد اشہرہ بلا عذر یقتل۔ یعنی جو شخص رمضان میں قصد ابلأعذر علی الاعلان کھائے اس کو قتل کر دیا جائے۔

الفصل الاول:

رمضان المبارک میں خدا کی رحمتیں

۱/۱۸۳۶ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتُحْتِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ فَتُحْتِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ وَفِي رِوَايَةٍ فَتُحْتِ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱۲/۴ حدیث رقم ۱۸۹۹۔ و مسلم فی صحیحہ ۷۵۸/۱ حدیث رقم (۱۰۷۹/۲)۔ والدارمی فی السنن ۴۱/۲ حدیث رقم ۱۷۷۵۔ و مالک فی الموطأ ۳۱۰/۱ حدیث رقم ۵۹ من کتاب الصیام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے بہشت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی آمد میں یعنی ابتداء رمضان میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بہشت کے دروازے کھولے جاتے ہیں آسمان کے دروازوں سے کنایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پے در پے نازل ہوتی ہے اور بغیر رکاوٹ کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے اور بہشت کے دروازوں سے کنایہ ہے کہ نیک کاموں کی توفیق ہوتی ہے جو دخول جنت کا باعث ہوتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں یہ اس سے کنایہ ہے کہ روزہ دار ایسے کاموں سے زکا رہتا ہے جو دوزخ میں داخل ہونے کا باعث ہوتے ہیں اس لیے کہ روزہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اور اس کے صغیرہ گناہ روزے کی برکت کی وجہ سے بخش دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو پتھروں میں قید کیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شیاطین لوگوں کے بہکانے سے باز رہتے ہیں اور لوگ ان کے وسوسے قبول نہیں کرتے۔ اس لیے کہ روزہ کی وجہ سے قوت حیوانیہ ختم ہو جاتی ہے جو طرح طرح کے

گناہوں کا باعث ہوتی ہے اور قوت عقلیہ طاقت ور ہو جاتی ہے جو نیکیوں کا باعث ہوتی ہے جیسا کہ رمضان میں دیکھا جاتا ہے کہ بہ نسبت اور مہینوں کے اس میں گناہ کم ہوتے ہیں اور عبادت زیادہ ہوتی ہے اور ایک روایت میں یہ جملہ: **فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ** کے بدلے **فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ** آیا ہے اور باقی حدیث وہی ہے جو مذکور ہوئی ہے۔

روزے دار کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ ہوگا

۲/۱۸۴۷ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۲۸/۶ حدیث رقم ۳۲۵۷۔ و مسلم فی صحیحہ ۸۰۸/۲ حدیث رقم (۱۶۶-۱۱۵۲)۔
وابن ماجہ ۵۲۵/۱ حدیث رقم ۱۶۴۰۔

ترجمہ: حضرت سہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان رکھا گیا ہے اس میں سے صرف روزہ دار داخل ہو سکے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔
تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ کوئی نماز کا دروازہ ہے تو نمازیوں کو اس دروازے سے بلایا جائے گا اور کوئی زکوٰۃ دینے والے کا دروازہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کو اس میں بلایا جائے گا۔ کوئی روزے داروں کے لیے دروازہ ہے کہ صرف اس میں روزے دار ہی کو بلایا جائے گا اور اس دروازے کا نام ریان ہے اور ریان کے معنی سیراب کرنے کے ہیں اور اس کا تفصیلی بیان باب الصدقہ کی حدیث نمبر ۳ میں گزر چکا ہے۔ وہاں سے دیکھ لیا جائے۔

روزے کی مقبولیت کے لیے دو شرطیں: ۱ ایمان ۲ واحتساب

۳/۱۸۴۸ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱۵/۴ حدیث رقم ۱۹۰۱۔ و مسلم فی صحیحہ ۵۲۴/۱ حدیث رقم (۱۷۵-۷۶۰)۔
و الترمذی فی السنن ۶۸۳/۳ حدیث رقم ۶۸۳۔ و ابن ماجہ ۵۲۶/۱ حدیث رقم ۱۶۴۱۔ و الدارمی فی السنن ۴۲/۲ حدیث رقم ۱۷۷۶۔ و احمد فی المسند ۳۲/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا یعنی شریعت کو چھوڑا اور رمضان کی فرضیت کا اعتقاد رکھا ہو اور ثواب کا طلبگار ہوا سکے پہلے گناہوں کو بخش دیا جائیگا۔
تشریح: اور جو رمضان کی راتوں میں کھڑا ہوا تراویح پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت کی اور حرم میں تھا تو طواف وغیرہ کیا اور اسی طرح اور دوسری عبادت کی اور شب قدر کو قیام کیا۔ خواہ اس کو شب قدر کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور علامہ نوویؒ نے کہا ہے کہ ملکرات یعنی اعمال گناہوں کو مٹا ڈالتے ہیں اور کبیرہ گناہوں کو ملکا کہ

دیتے ہیں۔

اگر اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا تو ان کے مکلفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں درجات بلند فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا

۳/۱۸۴۹ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَالصَّيَّامُ جَنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرَفُثُ وَلَا يَصْخَبُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أُمْرٌءٌ صَائِمٌ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱۸/۴ حدیث رقم ۱۹۰۴۔ وخرجه مسلم فی صحیحہ ۸۷/۲ حدیث رقم (۱۶۴)۔
(۱۱۵۱) والترمذی فی السنن ۱۳۶/۳ حدیث رقم ۷۱۴ والنسائی ۱۶۲/۴ حدیث رقم ۲۲۱۵۔ وابن ماجہ ۵۲۵/۱
حدیث رقم ۱۶۳۸۔ والدارمی ۴۰/۲ حدیث رقم ۱۷۷۰۔ واحمد فی المسند ۲۶۶/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آدم کے ہر عمل کا ثواب ایک سے سات سو گنا تک زیادہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی اس کی جزاؤں کو میں ہی جانتا ہوں اور میں ہی دوں گا اس کو اپنے غیر کے سپرد نہیں کروں گا روزے دار اپنی خواہش اور اپنا کھانا میرے لیے چھوڑتا ہے یعنی میرے حکم کی وجہ سے اور میری رضامندی کی وجہ سے اور روزہ دار کے لیے خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشی افطار کے نزدیک اور ایک خوشی پروردگار کی ملاقات کے وقت ثواب ملنے کی وجہ سے اور روزہ دار کے منہ کی بوالہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے اور روزے کی وجہ سے شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے۔ پس وہ فحش بات نہ کرے اور نہ آواز بلند کرے۔ یہودگی کے ساتھ پس اگر اس کو کوئی برا کہے یا اس سے لڑنے کا ارادہ کرے تو پس چاہیے کہ وہ کہے کہ بھائی میں روزے دار ہوں۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نیکی کی بجائے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں یہ ادنیٰ درجہ ہے اور سات سو تک نیکیاں بڑھادی جاتی ہیں ریاضت، صدق نیت اور خلوص کی وجہ سے بلکہ بعض جگہ تو اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے جیسا کہ آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کی لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں مگر روزہ دار کا ثواب بے انتہا ہے اس کے ثواب کو کوئی نہیں جانتا۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ روزے کی ایسی فضیلت دو وجہ سے ہے ایک تو یہ کہ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے برخلاف دیگر عبادتوں کے کہ وہ ایسی نہیں ہوتیں۔ پس روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوتا ہے ریا کاری کا اس میں دخل نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے: کہ فانہ لی..... یعنی روزہ خاص میرے لیے ہے اس لیے کہ روزہ کے لیے وجود میں صورت نہیں ہے بخلاف اور عبادت کے۔

اور دوسرا سبب یہ ہے کہ روزہ میں نفس کشی ہے اور بدن کا نقصان ہے اور بھوک سے صبر کرنا پڑتا ہے اور دوسری عبادات میں یہ باتیں نہیں ہے چنانچہ اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا اس لفظ کے ساتھ يدع شہوتہ کہ روزہ دار اپنی خواہش کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے شہوتہ کے لفظ کے بعد طعام ہے یہ تخصیص بعد اعمیم کے طور پر ہے یا شہوت سے مراد جماع ہے اور طعام سے وہ چیزیں جو روزہ توڑنے والی ہیں اور ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کی یا نورانیت یا عبادت کی توفیق کی وجہ سے یا سارے دن کی بھوک پیاس کے بعد کھانے اور پینے کی وجہ سے۔

اور آخری جملہ میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی روزے دار کو برا کہے لڑنے کا ارادہ کرے تو وہ اس کو برانہ کہے اور نہ لڑے بلکہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں اور یہ بات زبان سے کہے تاکہ دشمن اس سے لڑنے سے باز رہے۔ اس لیے کہ وہ سمجھیں کہ جب اس نے کہا ہے کہ میں روزے دار ہوں تو میرا اس سے لڑنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ خلاف مروت ہے اس سے دشمن دفع ہو جائے گا۔ یا اس کا یہ معنی ہے کہ میں روزے سے ہوں کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں زبان درازی کروں یا دست درازی کروں۔ اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہوں یا اپنے دل میں کہے کہ میں روزے سے ہوں مجھے برا نہیں کہنا چاہیے اور نہ ہی لڑنا چاہیے۔

إِلَّا الصَّوْمُ کے لفظ پر مولانا عبدالعزیز دہلویؒ نے لکھا ہے کہ بعض شارحین نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ روزے کی یہ خصوصیت کس وجہ سے ہے لیکن ہم پر اس کی تصدیق کرنی واجب ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ عرب لوگ روزہ رکھنے میں اللہ کا شریک کسی کو نہیں بناتے تھے یعنی جیسے سجدہ وغیرہ کسی کے لیے کرتے تھے اسی طرح روزہ کسی کے لیے نہیں رکھتے تھے اور حق یہ کہ روزہ دار جو کھانا چھوڑتا ہے وہ ایک طرح پاکی حاصل کرتا ہے پس اس بات میں وہ باری تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے منزہ ہیں ویسے یہ بھی اپنے آپ کو دن کے وقت کھانے پینے سے منزہ کر لیتا ہے۔ پس اس وجہ سے خصوصیت ہے اس کی اوپر کی عبارت سے معلوم ہوا ہے کہ مشرکین عرب کسی کا روزہ نہیں رکھتے تھے اور یہاں کے لوگوں نے ان سے بھی بڑھ کر قدم رکھا ہے وہ یہ لوگ شرک کرنے میں مشرکین مکہ سے بھی آگے جا چکے ہیں اور بعض تو بزرگوں کے نام کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بلا سے بچائے۔ آمین مؤلف۔

الفصل الثانی:

رمضان کی فضیلت کے بارے میں آپ ﷺ کا فرمان مبارک

۵/۱۸۵۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَلُفِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ۔

(رواہ الترمذی وابن ماجہ ورواہ احمد عن رجل وقال الترمذی هذا حدیث غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۶۶/۳ حدیث رقم ۶۸۲۔ وابن ماجہ ۵۲۶/۱ حدیث رقم ۱۶۴۲۔ والنسائی فی السنن

۱۲۹/۴ حدیث رقم ۲۱۰۷۔ واحمد فی المسند ۳۱۱/۴۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ جس وقت رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے شیطان قید کیے جاتے ہیں اور سرکش جنات اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے مگر بہشت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اور بہشت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور پکارتا ہے پکارنے والا اے خیر کے طلب کرنے والے یعنی عمل اور ثواب کے متوجہ ہو یعنی اللہ کی طرف۔ اے برائی کے ارادہ کرنے والے بندہ اور اللہ کے واسطے آزاد کئے ہوئے آگ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہت سے بندوں کو آزاد کرتا ہے آگ سے اس ماہ مبارک کی حرمت کی وجہ سے۔ پس شاید تو بھی ان میں سے ہو اور یہ پکارنا ہر شب میں ہوتا ہے یعنی رمضان کی راتوں میں یہ روایت ابن ماجہ اور امام ترمذی نے نقل کی ہے اور امام احمد نے روایت کی ہے ایک شخص سے۔ اور کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے شیاطین کو قید کیا جاتا ہے تاکہ وہ روزہ داروں کے دلوں میں وسوسہ نہ ڈالیں اور اس کی نشانی یہ ہے کہ گنہگار بھی گناہ سے پرہیز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بعضوں میں اس کے برعکس پایا جاتا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ پہلے شیاطین کے بہکانے کی تاثیر کی وجہ سے ہے کہ پہلے شیطان نفس کو بہکا تا تھا۔ اس کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے۔

”اللہ کی طرف متوجہ ہو جا“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضاء و خوشنودی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہنے کی کوشش کر کیونکہ یہ وقت ایسا بابرکت ہے کہ اگر تھوڑا بھی نیک عمل کیا جائے گا تو اس کا ثواب طے گا اور معمولی درجہ کی نیکی بھی سعادت و نیک بختی کے اونچے درجے پر پہنچائے گی۔

اسی طرح ”برائی سے باز آنے“ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے راستے کو چھوڑ دے اور نیکی کے راستہ کو اپنالے اپنے کئے ہوئے گناہوں سے توبہ کر اور خدا کی طرف توجہ لگا دے کیونکہ یہ دعا کی قبولیت اور بخشش کا بہترین وقت ہے۔

الفصل الثالث

رمضان اور لیلة القدر کی فضیلت

۶/۱۸۵۱ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغْلَقُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ۔ (رواه احمد والنسائي)

اخرجه النسائي في السنن ۱۲۹/۴ حديث رقم ۲۱۰۶۔ واحمد في المسند ۲۳۰/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ تمہارے پاس آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو طوق پہنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس میں عمل کرنا ہزار مہینوں کے عمل کرنے میں

افضل ہے جو کوئی لیلۃ القدر کی خیر سے محروم رہا۔ پس وہ بھلائی سے محروم رہا۔ اس کو امام احمد اور نسائی نے نقل کیا ہے۔
 تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں یہ عجیب معنی ہیں کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں مردۃ کا عطف شیطان پر پہلی حدیث میں عطف تفسیر و بیان کے لیے ہے اور محروم رہا اس کی بھلائی سے۔ یعنی شب بیداری کی توفیق نہ ہوئی۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں وارد ہوا ہے۔ جس نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھی۔ پس اس نے لیلۃ القدر سے حصہ پالیا اور بھلائی سے محروم رہا۔ اس میں بڑا مبالغہ ہے اور محروم رہنا کامل ثواب سے ہے۔
 فوائد: ملا علی قاریؒ نے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے پہلا اشکال دور ہو جاتا ہے۔ جس کا حاصل یہ کہ جب شیطان قید ہوتے ہیں تو گناہ کیونکر ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کا جواب اوپر فائدے میں لکھا گیا ہے کہ وہ شیطان کے بہکانے سے پہلی ہی تاثیر سے ہیں۔

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ سرکش شیطان قید ہوتے ہیں اور ایسے ویسے چھٹے رہتے ہیں اور وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں لیکن فصل اول کی پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلق شیاطین قید ہوتے ہیں دوسرا جواب کچھ خوب نہیں ہے۔
 اور ایک تقریر میرے استاد مکرم مولانا سخی زاد اللہ شرفا نے بیان فرمائی ہے وہ ان سب سے افضل ہے اس سے اشکال مذکور باقی نہیں رہتا اور احادیث میں تطبیق خوب حاصل ہو جاتی ہے کہ سرکش شیطانوں کا قید ہونا بہ نسبت بعض کے ہے اور مطلق شیطانوں کا قید ہونا بہ نسبت بعض کے ہے یعنی سرکش شیطان فاستوں کے بہکانے سے روکے جاتے ہیں اور وہ بہ نسبت دوسرے دنوں کے گناہ کم کرتے ہیں اور ایسے ویسے شیطان بہکاتے رہتے ہیں اور مطلق شیاطین کو صلحاء کے بہکانے سے روک لیا جاتا ہے اور وہ کبیرہ گناہوں سے باز رہتے ہیں اگر بشری تقاضے کے مطابق ان سے سرزد ہو جاتے ہیں تو وہ توبہ و استغفار کر لیتے ہیں۔
 اور ایک جواب یہ ہے کہ بعض گناہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بعض نفسانی تقاضوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جو شیطان بہکانے سے ہوتے ہیں لوگ محفوظ رہتے ہیں اور جو نفسانی تقاضوں کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ بدستور باقی رہتے ہیں اتھی۔

روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن سفارش کریں گے

۷/۱۸۵۲ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُولُ الصَّيَامُ أَيْ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ۔ (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

رواه البيهقي في شعب الإيمان۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب تحقیق میں نے اس کو کھانے سے منع کیا اور دن کو چیزوں میں رغبت کی۔ یعنی پانی اور جماع اور رغبت وغیرہا سے پس میری شفاعت کو قبول کرو۔ اس کے حق میں اور قرآن کہے گا میں نے اس کو باز رکھا تھا نیند سے۔ تو پس میری اس کے حق میں شفاعت قبول کر۔ تو پھر اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس کو بیہقی نے شعب

الایمان میں ذکر کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے۔ معنی قرآن کا پڑھنا ہے اور علامہ طیبیؒ نے کہا ہے کہ قرآن سے مراد تہجد ہے اور رات کا قیام ہے اور شاید کہ رمضان کی شفاعت سے گناہ مٹ جائیں گے اور قرآن کی شفاعت سے اعلیٰ درجات نصیب ہوں گے۔

رمضان شریف کی رحمت سے محرومی بڑی بد نصیبی ہے

۸/۱۸۵۳ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرٌ هَذَا إِلَّا كُلُّ مُحْرَمٍ۔

اخرجه ابن ماجه في السنن ۵۲۶/۱ حديث رقم ۱۶۴۴۔

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رمضان داخل ہوا۔ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ تحقیق تم پر یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی شب قدر جو شخص محروم رہا اس سے یعنی اس کی خیر سے کہ اس میں اس کو عبادت کی توفیق نہ ہوئی۔ پس تحقیق وہ ہر خیر سے محروم رہا اور نہیں محروم کیا جاتا اس کی خیر سے مگر بد نصیب۔ اس کو امین ملاحظہ فرمائیے۔

تشریح ﴿ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ تمہارے پاس آئے تو غنیمت جانو اور دنوں کو روزے رکھو اور راتوں کو قیام کرو۔ مگر بے نصیب ہے جس کو عبادت کا ذوق نہیں ہے وہ محروم رہتا ہے۔

آپ ﷺ کا شعبان کے آخری دنوں میں وعظ

۹/۱۸۵۳ وَعَنْ سَلْمَانَ الْقَارِسِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظْلَكُكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً وَفِيهِ لَيْلَةٌ تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخُصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ آذَى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَمَنْ آذَى فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ آذَى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ لَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لَذُنُوبِهِ وَعِتْقٌ رَقَبَةٍ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِنْ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نَقْطُرُ بِهِ الصَّائِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ لَطَرَ صَائِمًا عَلَى مَذْقَةِ لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةٍ لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ

لَهُ وَاعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ - (روی البیہقی فی شعب الایمان)

اخرجه البیہقی فی شعب الایمان ۳۰۵۱۳ حدیث رقم ۳۶۰۸۔

حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں شعبان کے آخری ایام میں جمعہ کا خطبہ وعظ فرمایا پس آپ ﷺ نے فرمایا اے لوگو! تحقیق ایک بڑے مہینے نے تم پر سایہ ڈالا ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ قریب آیا ہے یہ بابرکت مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی لیلة القدر۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور رات کا قیام نفل کیا ہے جو شخص اللہ کا قرب تلاش کرتا ہے نیکی کی کسی خصلت کے ساتھ یعنی نفل کی قسموں سے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ یعنی نفل کا ایسے ثواب ملتا ہے جیسے دوسرے دنوں میں فرض کا ملتا ہے اور جس نے رمضان میں فرض ادا کیا اس کو ستر فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے جو اس نے رمضان کے علاوہ ادا کیے اور یہ مہینہ ممبر کا ہے اور ممبر کا ثواب جنت ہے یہ مہینہ غنخواری کا ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے یعنی حسی اور معنوی رزق اور مومن خواہ غنی ہو یا فقیر ہو۔ جس نے رمضان میں روزہ دار کا روزہ افطار کروایا حلال کمائی سے اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے اس کے لیے آگ سے آزادی کا سبب بن جاتا ہے اور اس کو اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول! ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم روزہ دار کو افطار کروائیں پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو روزہ دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کروائے اور جو شخص روزہ دار کا پیٹ بھر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے پانی پلائے گا پھر وہ اس کے بعد پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ بہشت میں داخل ہو جائے گا اور وہ مہینہ ہے اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ بخشش کا ہے یعنی وہ زمانہ مغفرت کا ہے اور آخری عشرے میں آگ سے آزادی ہے یعنی یہ تینوں چیزیں مومنوں کے لیے ہوتی ہیں۔ نہ کہ کافروں کے لیے اور جس شخص نے لوٹڈی یا غلام سے رمضان کے مہینے میں بوجھ ہلکا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور اس کو آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔

تشریح ﴿اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اس کی رات کے قیام کو نفل قرار دیا یعنی رات کی شب بیداری کو تراویح پڑھنے کے لیے مقرر کر دیا اور جس نے اس سنت مؤکدہ کو قائم کیا تو اس نے عظیم ثواب حاصل کر لیا اور جس نے اس کو ترک کر دیا وہ خیر سے محروم رہا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوا اور ابو داؤد و شریف میں باب فی الشهادة الواحد علی رؤية هلال رمضان میں آیا ہے: فامروا بلالا فنادی فی الناس ان یقوموا وان یصوموا۔ یعنی جب رمضان کے چاند کی گواہی گزری تو حضور ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نداء دینے کا حکم دیا انہوں نے لوگوں کو آواز دی کہ تراویح پڑھیں اور روزہ رکھیں۔ یہ ممبر کا مہینہ ہے آدمی کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہتا ہے یہ غنخواری کا مہینہ ہے۔ فقیروں اور بھوکوں کی خبر گیری کرنی چاہیے یہاں تک کہ وہ بہشت میں داخل ہو جائے یہ اس لئے فرمایا کہ سب کو معلوم ہے کہ جنت میں پیاس نہیں لگے گی۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا﴾ (طہ: ۱۱۹) ”بیشک تم جنت میں پیاس نہیں ہو گے“ پیاسا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے رحمت ہوگی اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو نہ کوئی روزہ رکھتا نہ تراویح وغیرہ پڑھتا۔ غلام لوٹڈی کا بوجھ ہلکا کیا یعنی ان کا کام کم کر دیا روزے کی وجہ سے۔

آپ ﷺ کا حسن سلوک رمضان کے مہینے میں

۱۰/۱۸۵۵ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَطْلَقَ

كُلَّ أَسِيرٍ وَأَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ - (روى البيهقي في شعب الایمان)

اخرجه البيهقي في شعب الایمان ۳۱۱/۳ حديث رقم ۳۶۲۹۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تھا ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر مانگنے والے کو دیتے تھے۔

تشریح: آپ ﷺ رمضان شریف میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر مانگنے والے کو عطا کرتے تھے جو قید ہوتے تھے، اصحاب حقوق سے کہہ کر چھوڑ دیتے تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ جو قیدی حضور ﷺ کے حق کے لیے ہوتے ہوں ان ہی کو چھوڑتے ہوں اور ہر مانگنے والے کو عطا کرتے تھے اور رمضان کے علاوہ بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن رمضان میں عادت سے زیادہ کرتے تھے۔ مولانا عبد العزیز۔

رمضان کی آمد پر جنت کو مزین کیا جاتا ہے

۱۱/۱۸۵۶ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْجَنَّةَ تُزْخَرُفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ

الْحَوْلِ إِلَى حَوْلٍ قَابِلٍ قَالَ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى

الْحُورِ الْعِينِ فَيَقْلُنَّ يَارَبِّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا تَقَرَّبُهُمْ أَعْيُنًا وَتَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ بَنَاتٍ۔

(رواه البيهقي والا حاديث الثلاثة في شعب الایمان۔)

اخرجه البيهقي في شعب الایمان ۳۱۲/۳ حديث رقم ۳۶۳۳۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے شروع سال سے لے کر آئندہ سال تک۔ جس وقت رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے عرش کے نیچے بہشت کے پتوں میں حور عین پر ہوا چلتی ہے تو حوریں کہتی ہیں: اے ہمارے رب! ہمارے لیے اپنے بندوں سے خاوند تاکہ ان کی محبت سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یعنی ان کی وجہ سے لذت اٹھائیں اور ہماری وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہی نے تینوں حدیثیں شعب الایمان میں ذکر کی ہیں۔

تشریح: شروع سال سے مراد محرم کے ابتدائی ایام ہیں اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ یہ شروع سال شوال سے ہو حاصل یہ کہ جنت کو پورے سال مزین کیا جاتا ہے رمضان کی آمد کے لیے اور اس چیز کے لیے جو رمضان میں کثرت سے ہوتی ہے یعنی مغفرت کی کثرت اور جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں نیک اور روزہ داروں کے لیے اور رات کو تراویح پڑھتے ہیں اور آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو رمضان کے ایک دن کا روزہ رکھے مگر اس کو حور عین سے ایک زوجہ دی جائے گی۔ موتیوں کے خیمہ میں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے: ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْبُحَيْرِ﴾ (الرحمن: ۷۲)

رمضان کے آخر میں روزے دار کو پورا ثواب دے دیا جاتا ہے

۱۲/۱۸۵۷ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يُغْفَرُ لَأَمَّتِهِ فِي الْآخِرِ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّتِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يَوْفَى أَجْرُهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ (رواه احمد)

اخرجه احمد في المسند ۲۹۲/۲

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: رمضان کی آخری رات میں حضور ﷺ کی امت (کے روزہ داروں) کی بخشش کی جاتی ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ! کیا وہ لیلۃ القدر ہے فرمایا نہیں لیکن کام کرنے والے کو اس کو مزدوری پوری دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام پورا کر لے اس کو امام احمد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں آتا ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کو اس کا اجر دے دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ مغفرت بسبب شب قدر کے نہیں بلکہ کام سے فراغت پانے کی وجہ سے ہے۔ وہ روزوں کا رکھنا ہے اور اوپر جو کہا گیا ہے: یُغْفَرُ لَأَمَّتِهِ۔ تو حضور ﷺ نے جو لفظ ارشاد فرمایا تھا اس کے معنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کر دیے ہیں۔ حضور ﷺ کا وہ لفظ یوں ہے: یُغْفَرُ لَأَمَّتِهِ کہ میری امت کو بخش دیا جائے گا۔

بَابُ رُؤْيَةِ الْهَلَالِ

یہ باب (پہلی رات کے) چاند دیکھنے کے بیان میں ہے

الفصل الاول:

رمضان کا آغاز اور اختتام چاند دیکھ کر کرو

۱/۱۸۵۸ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ وَلَا تَفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَافْتَدِرُوا لَهُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَافْتَدِرُوا الْعِدَّةَ فَلَا تَبْنِ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱۹/۴ حدیث رقم ۱۹۰۶۔ ومسلم فی صحیحہ ۷۵۹/۲ حدیث رقم (۳)۔ (۱۰۸۰)۔ وابوداؤد فی السنن ۷۴۰/۲ حدیث رقم ۲۳۲۰۔ والترمذی فی السنن ۶۸/۳ حدیث رقم ۶۸۴۔ والنسائی ۱۳۴/۲ حدیث رقم ۲۱۲۱۔ وابن ماجہ ۵۲۹/۱ حدیث رقم ۱۶۵۴۔ والدارمی ۶/۲ حدیث رقم ۱۶۸۴۔ ومالك فی الموطأ ۲۸۶/۱ حدیث رقم ۲ من کتاب الصیام۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا رمضان کی نیت سے تیسویں شعبان کو روزہ نہ رکھو۔ یہاں تک کہ چاند دیکھ لو اور افطار نہ کرو۔ یہاں تک کہ اس کو یعنی عید کے چاند کو دیکھ لو اور اگر ڈھانک دیا جائے تم پر عید

کا چاند۔ یعنی تیسویں شب کو ابر کی وجہ سے یا غبار یا اور کسی سبب سے تو اندازہ کرو اس کے واسطے یعنی تیس دن پورے کرو اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ بھی انتیس دن کا ہوتا ہے۔ تو رمضان کی نیت سے روزہ نہ رکھو۔ یہاں تک کہ چاند دیکھ لو پس اگر تم پر بادل چھا جائے تو تیس دن کی گنتی پوری کرو۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿اس حدیث پاک میں آیا ہے کہ روزہ نہ رکھو مگر چاند دیکھ کر۔ یعنی چاند دیکھو یا تمہارے نزدیک چاند کی رویت گواہی کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کی تفصیل دوسری فصل میں مذکور ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اور آپ ﷺ کا فرمانا کہ مہینہ انتیس رات کا ہوتا ہے اس میں چاند کو تیسویں شب میں تلاش کرنے کی رغبت دلائی ہے۔

ابر کی صورت میں شعبان کی گنتی پوری کرو

۲/۱۸۵۹ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاصْكُمُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱۹/۴۔ حدیث رقم ۱۹۰۹۔ و مسلم فی صحیحہ ۷۶۱/۲ حدیث رقم (۱۸۰۱)۔ والنسائی فی السنن ۱۳۵/۴ حدیث رقم ۲۱۲۴ والدارمی رقم ۶۱۲ حدیث رقم ۱۶۸۵۔ واحمد فی المسند ۴۲/۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا چاند دیکھنے کے بعد روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو یعنی چاند دیکھنے کے بعد عید کرو۔ پس اگر ابر ہو جائے تم پر تو شعبان کی گنتی تیس دن پوری کرو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم نے نقل کی۔

تشریح ﴿شعبان کی گنتی تیس دن پوری کرو اور اسی طرح رمضان کے تیس دن پورے کرو۔

مہینے کے ایام کا حساب

۳/۱۸۶۰ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أُمَّةٌ أَمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقْدَ الْإِبْهَامِ فِي الْقَالِيعَةِ ثُمَّ قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تَمَامَ الثَّلَاثِينَ يَعْنِي مَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۲۶/۴۔ حدیث رقم ۱۹۱۳۔ و مسلم فی صحیحہ ۶۷۱/۲ حدیث رقم (۱۰۸۰)۔ و ابو داؤد فی السنن ۷۳۹/۲ حدیث رقم ۲۳۱۹۔ والنسائی ۱۳۰/۴ حدیث رقم ۲۱۴۱۔ واحمد فی المسند ۱۲۲/۲۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہم یعنی عرب امی لوگ ہیں اُن پڑھ ہیں حساب و کتاب نہیں جانتے۔ مہینہ ایسا ایسا اور ایسا ہوتا ہے اور تیسری دفعہ انگوٹھے کو بند فرمایا یعنی دوبارہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر کے کھول دیں اور تیسری مرتبہ نو انگلیاں کھولیں اور ایک انگوٹھا بند رکھا۔ یہ بتلانے کے لئے کہ مہینہ بھی انتیس دن کا ہوتا ہے پھر ارشاد فرمایا مہینہ ایسا اور ایسا اور ایسا ہوتا ہے یعنی اس مرتبہ تیسری مرتبہ بھی انگوٹھا بند نہیں فرمایا یہ بتلانے کے

لئے کہ مہینہ کسی تیس دن کا ہوتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آئی عرب کو اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے تھے ویسے ہی رہتے تھے لگتے پڑھتے نہیں تھے اور یہ بات کثرت کے اعتبار سے ہے کہ اکثر اہل عرب ایسے ہی تھے نہ کہ سارے یا یہ مراد ہے کہ حساب کتاب نہیں جانتے تھے اور حدیث کے معنی یہ ہیں کہ نجوم کے طریقوں پر عمل کرنا ہمارا دستور نہیں ہے بلکہ ہمارا علم متعلق ہے رویت ہلال کے ساتھ ہم اس کو ایک بار انتیس کا دیکھتے ہیں اور ایک بار تیس کا دیکھتے ہیں اور دونوں جملوں کے آغاز میں لفظ یعنی موجود ہے یہ راوی کا کلام ہے یعنی کا لفظ لا کر اخیر کے اشارے کو بیان کیا ہے پھر دوسرے یعنی کے لفظ کے ساتھ دونوں اشاروں کو کھول دیا۔

عید کے مہینوں کا ذکر

۴/۱۸۶۱ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا عِيدٌ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ.

(متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۲۴/۴۔ حدیث رقم ۱۹۱۲۔ و مسلم فی صحیحہ ۷۶۶/۲ حدیث رقم (۳۱۔ ۱۰۸۹) و ابوداؤد فی السنن ۷۴۲/۲ حدیث رقم ۳۳۲۳۔ و الترمذی ۷۵/۳ حدیث رقم ۶۹۲ و ابن ماجہ ۵۳۱/۱ حدیث رقم ۱۶۵۹ و احمد فی المسند ۳۸/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ دو مہینے عید کے ناقص نہیں ہوتے رمضان اور ذی الحجہ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں عید کے مہینوں کا ذکر فرمایا اور رمضان کو عید باعتبار قرب عید کے فرمایا اور حدیث کے معنی یا تو یہ ہیں کہ ایک سال میں رمضان کا مہینہ اور ذی الحجہ دونوں ناقص نہیں ہوتے یعنی انتیس انتیس دن کے نہیں ہوتے یا یہ معنی کہ حضور ﷺ کے زمانے میں ناقص نہیں ہوتے تھے اور یا یہ فرمایا کہ باعتبار حکم اور ثواب کے ناقص نہیں ہوتے ثواب پورے تیس کا ملتا ہے۔ اگرچہ کئی میں ایک تیس اور ایک انتیس کا یا دونوں انتیس کے ہوں۔

شعبان کو رمضان کے ساتھ نہ ملاؤ

۵/۱۸۶۲ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۲۷/۴۔ حدیث رقم ۱۹۱۴۔ و مسلم فی صحیحہ ۱۰۸۲/۲۱ و ابوداؤد فی السنن ۷۵۰/۲ حدیث رقم ۲۳۳۵۔ و الترمذی ۶۹/۳ حدیث رقم ۶۸۵۔ و النسائی ۱۳۶/۴۔ حدیث رقم ۲۱۳۰۔ و ابن ماجہ ۵۲۸/۱ حدیث رقم ۱۶۵۰۔ و الدارمی ۸/۲ حدیث رقم ۱۶۸۹۔ و احمد فی المسند ۵۲۱/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص آگے نہ کرے روزے کو رمضان سے ایک دن پہلے یا دو دن مگر جو شخص روزہ رکھنے کی عادت رکھتا ہو۔ پس چاہیے کہ وہ اس دن کا روزہ

رکھے اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں آتا ہے اگر اس کی (مثلاً) پیر، جمعرات کو نفل روزہ رکھنے کی عادت تھی اتفاقاً رمضان سے پہلے وہی دن واقع ہو تو اس کو اس دن روزہ رکھنا منع نہیں ہے اور جس کو عادت نہ ہوں نہ رکھے اور اس میں بھی تنزیہی ہے اور اس لیے منع فرمایا کہ کہیں نفل اور فرض دونوں نہ مل جائیں اور اہل کتاب کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے کہ وہ فرض روزوں کے ساتھ اور بھی ملا لیتے تھے اور مظہر نے کہا ہے کہ شعبان کے آخر میں روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ ایک روزہ یا دو روزہ سے منع فرمایا ہے سوائے عادت کے روزوں کے۔

الفصل الثانی:

نصف شعبان کے بعد نفل روزہ نہ رکھیں

۶/۱۸۶۳ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا۔

(رواہ ابو داؤد و الترمذی وابن ماجہ و الدارمی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۷۵۱/۲ حدیث رقم ۲۲۳۷۔ و الترمذی ۱۱۵/۳ حدیث رقم ۷۲۸۔ وابن ماجہ ۵۲۸/۱ حدیث رقم ۶۵۱۔ و الدارمی ۲۹۱/۲ حدیث رقم ۱۷۴۰۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو نفل روزے نہ رکھو اس کو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ و دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ یعنی علاوہ قضا اور واجب کے روزہ کے۔ یہ بھی تنزیہی ہے امت پر آسانی کرتے ہوئے فرمایا تاکہ کمزوری لاحق نہ ہو اور کمزوری کی وجہ سے رمضان کے روزے رکھنا مشکل نہ ہو جائے اور قاضی نے کہا ہے یہ بھی اس شخص کے حق میں ہے جو پے در پے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ پس اس کو افطار کرنا مستحب ہے جیسے کہ عرفہ کے دن کا افطار کرنا مستحب ہے تاکہ دعا پر قوت حاصل ہو جائے اور جو طاقت رکھتا ہو اس کو منع نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور ﷺ سے ثابت ہے کہ شعبان کے تمام مہینے روزہ رکھتے تھے۔

۷/۱۸۶۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْصُوا هَلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ۔

(رواہ الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۷۱۱/۳ حدیث رقم ۶۸۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے لیے شعبان کے مہینے کو شمار کرو۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے

تشریح ﴿ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان جاننے کے لیے شعبان کے مہینے کے دن گنو۔ تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔

پے در پے دو مہینوں کے روزے نہ رکھیں جائیں

۸/۱۸۶۵ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَابَعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ

وَرَمَضَانَ - (رواه ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه)

اخرجه ابو داود في السنن ۷۵۰/۲ حديث رقم ۲۳۳۶ - والترمذی ۱۱۳/۳ حديث رقم ۷۳۶ - والنسائی ۱۵۰/۴ حديث رقم ۲۱۷۵ - وابن ماجه ۵۲۸/۱ حديث رقم ۱۶۴۸ -

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو نہیں دیکھا کہ دو مہینے پے در پے روزے رکھتے ہوں۔ مگر شعبان اور رمضان کے اس کو ابو داؤد ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: آپ ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ شعبان اور رمضان دونوں مہینے پے در پے روزے سے رہے تھے اور مفصل بات صیام التطوع میں بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

روزہ رکھنے میں آپ ﷺ کی اتباع ضروری ہے

۹/۱۸۶۶ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ -

(رواه ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه والدارمی)

اخرجه البخاری فی صحيحه ۱/۴ تعليقاً باب اذا رايتم الهلال فصوموا - وابو داود في السنن ۷۴۹/۲ حديث رقم ۲۳۳۴ - والترمذی ۷۰/۳ حديث رقم ۶۸۶ والنسائی ۱۵۳/۴ حديث رقم ۲۱۸۸ - وابن ماجه ۵۲۷/۱ حديث رقم ۱۶۴۵ - والدارمی ۵۱۲۰ حديث رقم ۱۶۸۲ -

ترجمہ: حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو شخص شک کے دن روزہ رکھے تحقیق اس نے ابو القاسم ﷺ کی نافرمانی کی۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ شعبان کی تیسویں رات کو جب چاند بادل وغیرہ کی وجہ سے معلوم نہ ہو سکے یا ایک شخص چاند دیکھنے کی گواہی دے اور اس کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے یا دو قاسم گواہی دیں اور ان کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے۔ اس کے بعد جو صبح کو دن ہو گا اس کو یوم شک کہتے ہیں اس لیے کہ احتمال ہے کہ رمضان کا دن ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ رمضان کا دن نہ ہو اگر انتیس کی رات کو بادل نہ ہو اور کوئی چاند نہ دیکھے تو وہ شک کا دن نہیں ہوتا شک کے دن روزہ رکھنا رمضان کی نیت کے ساتھ مکروہ ہے اور اس دن نفل روزہ رکھنے کی تفصیل یہ ہے اگر ایک شخص شعبان کی پہلی تاریخ سے روزے رکھتا آیا ہو اور اس شخص کی عادت کا دن اس دن واقع ہو گیا ہو تو اس کو اس دن کا روزہ رکھنا افضل ہے یہ روزہ یوم شک اس کے لیے ہے کہ جو شعبان کے آخری تین ایام میں روزے رکھتا ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو خواص اس دن کا نفل کی نیت سے روزہ رکھیں اور عوام انتظار کریں اور چاند کی خبر نہ آنے کی صورت میں بعد دوپہر افطار کر لیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور اکثر صحابہ کا یہی معمول تھا جب رمضان کے انتیس دن گزر جاتے تو چاند تلاش کرتے اگر چاند دیکھ لیتے یا خبر سنتے تو روزہ رکھتے اگر مطلع ابرو غیرہ سے صاف ہوتا تو افطار کرتے تھے اور اگر

صاف نہ ہوتا تو روزہ رکھتے تھے علماء نے ان کے اس عمل کو نفلی روزوں پر محمول کیا ہے اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والی حدیث میں جو ممانعت آئی ہے اس سے مراد یہ ہے رمضان کی نیت یا اور واجب کی نیت سے روزے نہ رکھے واللہ اعلم۔ خواص وہ لوگ ہیں جو شک کے دن روزہ رکھنے کی نیت کو جانتے ہوں اور جو نہ جانتے ہوں وہ عوام ہیں اور جو شخص یوم شک میں روزے کا عادی نہ ہو وہ اس دن نفل روزے کی نیت کرے اور نہ اس کے دل میں خیال آئے کہ اگر آج رمضان کا دن ہو تو یہ روزہ بھی رمضان کا ہوگا۔ اس طرح نیت کرنا مکروہ ہے۔

اس طرح یہ نیت کرنا بھی مکروہ ہے کہ اگر رمضان ہو تو یہ رمضان میں شمار ہو جائے اگر رمضان نہ ہو تو یہ نفل یا واجب میں شمار ہو جائے لیکن اگر ثابت ہوگا کہ یہ رمضان ہے تو رمضان کا روزہ ہوگا۔ اگر یہ نیت کرے کہ اگر کل رمضان ہوا۔ تو رمضان کا روزہ رکھوں گا اور اگر نہیں تو نہیں اس طرح کوئی بھی روزہ نہیں ہوگا نہ رمضان کا روزہ صحیح ہوگا اور نہ ہی نفلی روزہ صحیح ہوگا۔ اگرچہ اس دن رمضان کا دن ہی ثابت کیوں نہ ہو جائے۔

رمضان کے چاند میں فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی

۱۰/۱۸۶۷ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ يَعْني هِلَالَ رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ أَذِنَ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا عَدًّا۔

(رواہ ابوداؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۷۵۴/۲ حدیث رقم ۲۳۴۰۔ و الترمذی ۷۴۰/۳ حدیث رقم ۶۹۱۔ و النسائی ۱۳۲/۴ حدیث

رقم ۲۱۱۳۔ و ابن ماجہ ۵۲۹/۱ حدیث رقم ۱۶۵۲۔ و الدارمی ۹/۲ حدیث رقم ۱۶۹۲۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا میں نے چاند دیکھا ہے یعنی رمضان کا چاند۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال! لوگوں کو کہو کہ کل روزہ رکھیں۔ اس کو ابوداؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص مستور الحال ہو۔ یعنی اس کا فاسق ہونا معلوم نہ ہو۔ اس کی گواہی رمضان کے چاند کے بارے میں مقبول ہے اور شہادت کا لفظ شرط نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان کے چاند میں ایک شخص کی گواہی مقبول ہے چنانچہ احناف کے نزدیک رمضان کا چاند ایک عادل شخص کی گواہی سے ثابت ہو جاتا ہے عادل ہوا مستور الحال ہو عادل سے مراد پرہیزگار ہے اور مستور الحال وہ ہوتا ہے جس کا حال معلوم نہ ہو اور شہادت کا لفظ اور گواہی ایک شخص کی اس صورت معتبر ہوگی جب ابر و غبار ہو اگر عید کا چاند ہو اور ابر ہو تو اس کے لیے شرط ہے کہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں اور شہادت کا لفظ بھی شرط ہے اگر ابر و غبار موجود نہ ہو تو دونوں میں کثیر جماعت کی گواہی شرط ہے اور کثیر سے مراد اتنے لوگ ہوں کہ ان کی خبر سے ظن غالب ہو جائے اور تہدید عدد امام کی رائے کی طرف سو پنی گئی ہے اور بعضوں کے نزدیک کثیر جماعت

سے مراد محلے کے لوگ ہیں اور امام ابو یوسفؒ کی ایک روایت ہے کہ بچاس مرد ہوں۔

چاند دیکھنے کا ثواب

۱۱/۱۸۶۸ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَى النَّاسَ الْهَلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ

فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ۔ (رواہ ابو داؤد والنسائی)

اخرجہ ابو داؤد فی السنن ۷۵۶/۲ حدیث رقم ۲۳۴۲۔ والدارمی ۹۱۲ حدیث رقم ۱۶۹۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے پس میں نے نبی کریمؐ کو خبر دی کہ تحقیق میں نے چاند دیکھا ہے پس آپؐ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ (یہ ابو داؤد و دارمی نے نقل کیا ہے)۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور یہ آپؐ کے عمل سے ثابت ہے اور آپؐ نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔

الفصل الثالث:

رمضان کی حفاظت کی خاطر شعبان کی گنتی پر خصوصی توجہ دیتے تھے

۱۲/۱۸۶۹ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ

غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ۔ (رواہ ابو داؤد)

اخرجہ ابو داؤد فی السنن ۷۴۴/۲ حدیث رقم ۲۳۲۵۔ واحمد فی المسند ۱۴۹/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپؐ شعبان کے مہینے کے دن اتنے اہتمام سے گنتے تھے کہ شعبان کے علاوہ مہینوں کے اتنے اہتمام سے نہیں گنتے تھے پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے اور اگر ابراہم ہوتا تو تیس دن پورے کرتے پھر روزہ رکھتے اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: شعبان کے دن بہت زیادہ گنا کرتے تھے تاکہ رمضان کا چاند دیکھنے میں غلطی نہ ہو جائے۔ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کی اتنی محافظت نہ کرتے تھے۔ جتنی رمضان کی۔ کیونکہ دوسرے مہینوں کے ساتھ کوئی امر شرعی متعلق نہیں ہے مگر حج کا مہینہ ہے وہ نادر ہے کوئی شخص بھی اس کی تعین کے بارے میں اختلاف نہیں کرتا۔

چاند دیکھ کر روزہ رکھو

۱۳/۱۸۷۰ وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا تَرَلْنَا بِطَنَ نَخْلَةٍ تَرَا آيَاتُ الْهَلَالَ فَقَالَ بَعْضُ

الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِينَ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا إِنَّا رَأَيْنَا الْهَلَالَ فَقَالَ بَعْضُ

الْقَوْمُ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَقَالَ أَيْ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ قُلْنَا لَيْلَةً كَذَا وَكَذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَّةَ اللَّزْوِيَةِ فَهُوَ لَيْلَةٌ رَأَيْتُمُوهُ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ أَهْلُنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِيَدَاتِ عِرْقٍ فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَدَّ لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۷۶۶/۲ حدیث رقم (۳۰-۱۰۸۸)۔

ترجمہ: حضرت ابوالخیرؓ سے روایت ہے کہ ہم اپنے شہر کوفہ سے عمرہ کرنے کے لیے نکلے پس جب ہم بطن نخلہ میں اترے جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مکان کا نام ہے ہم چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے پس بعض لوگوں نے کہا کہ وہ تیسری شب کا ہے اور بعض نے کہا کہ دوسری شب کا ہے پس ابن عباسؓ نے کہا کہ تم نے کس رات دیکھا ہے ہم نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے ایسی ایسی رات کو یعنی فلانی شب کو بتایا اس کو دیکھا تھا ہم نے پیر کی رات کو یا منگل کی رات کو فرمانے لگے کہ آپ ﷺ نے رمضان کی مدت چاند دیکھنے کے ساتھ قائم کی ہے یعنی صاحب دیکھیں تو رمضان کا روزہ رکھیں۔ پس وہ اس رات کا ہے۔ ابوالخیرؓ سے ایک روایت ہے کہ ہم نے رمضان کا چاند دیکھا اور ہم ذات عرق میں تھے جو ایک جگہ کا نام ہے بطن نخلہ کے قریب ہم نے ایک شخص ابن عباسؓ کے پاس بھیجا کہ ان سے پوچھ کر آئے کہ یہ چاند کس رات کا ہے اختلاف مذکورہ کی وجہ سے پس ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شعبان کی مدت کو بڑھا دیا ہے تا وقتیکہ رمضان کا چاند دیکھ لیں پس اگر ابر کیا جائے تم پر پس تم کتنی پوری کرو۔ پس تیس دن شمار کرو اور روزہ رکھو یہ مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: خلاصہ یہ ہے کہ مدار چاند کے دیکھنے پر ہے اس کے بڑے ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ وارد ہوا کہ ہلالوں کا بڑا ہونا قیامت کی علامتوں میں سے ہے اور دوسری روایت پہلی روایت کے منافی نہیں ہے کہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ذات عرق میں چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہوں اور اس میں اختلاف ہو گیا ہو پھر ایک آدمی کو ابن عباسؓ کے پاس پوچھنے کے لیے بھیجا۔ پھر ان کو مذکورہ جواب دیا گیا ہو جب بطن نخلہ میں پہنچے ہوں۔ پھر ان سے بالمشافہ پوچھا پس ان کو پہلے جواب کے مطابق جواب دیا گیا اگر شعبان کی تیسویں دن کو چاند دیکھے زوال سے پہلے یا بعد میں۔ تو وہ آئندہ شب کا ہے تو اس پر رمضان ہونے کا حکم اور روزے کا نہیں کیا جائے گا اور اسی طرح رمضان کی تیسویں کو دیکھے۔ تو بھی آئندہ شب کا کہا جائے گا۔ تو افطار کرنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا اور نہ ہی عید کا حکم لگایا جائے گا اور واجب علی الکفایہ ہے لوگوں پر تیسویں شعبان کو چاند تلاش کریں اور جب چاند ایک جگہ پردیکھا تو تمام پر روزہ فرض ہو جائے گا تو بموجب ظاہر روایت کے اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مثلاً اگر دہلی میں شب جمعہ کو چاند دیکھیں اور دوسرے مقام پر ہفتے کی شب کو۔ تو رویت دہلی کی معتبر ہوگی اور سب جگہوں پر جمعہ کے دن روزہ رکھنا لازم ہوگا اور جو کوئی رمضان کا چاند دیکھے اور پھر اس کے قول کو رد کیا جائے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے اگر افطار کریگا تو قصداً لازم آئیگی فقط۔

باب

روزوں کے متفرق مسائل کے بارے میں یہ باب قائم کیا گیا ہے

الفصل الاول:

سحری کھانے میں برکت ہے

۱۱۸۷۱ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَتًا۔

(متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳۹/۴۔ حدیث رقم ۱۹۲۳۔ ومسلم فی صحیحہ ۷۷۰/۲ حدیث رقم ۱۰۹۵/۴۵۔
والترمذی فی السنن ۸۸/۳ حدیث رقم ۷۰۸۔ والنسائی ۱۴۰/۴۔ حدیث رقم ۲۱۴۴۔ وابن ماجہ ۵۴۰/۱۔ حدیث رقم ۱۶۹۲۔ والدارمی ۱۱/۲ حدیث رقم ۱۶۹۶۔ واحمد فی المسند ۹۹/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا سحری کھاؤ۔ اس لیے کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے یہ بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ﷺ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا سحری کھاؤ یعنی سحری کے وقت کچھ نہ کچھ کھاؤ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سحری کھاؤ اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو اور امر اس میں احتباب کے لیے ہے اور سحر رات کے آخر حصہ کو کہتے ہیں یعنی اس کے چھٹے حصے کو کہتے ہیں اور سحر سین کے زبر سے ہے رات کے آخری حصے میں کھانے پینے کو کہتے ہیں اور سین کے پیش کے ساتھ مصدر ہے یعنی اس وقت کھانا کھانا اور محفوظ روایت محدثین کے پاس زبر کے ساتھ ہے اور بعضوں نے کہا ہے پیش کے ساتھ زیادہ درست ہے اس لیے کہ اجر فضل میں ہوتا ہے نہ کہ طعام میں اور برکت سے مراد ہے کہ سنت کے بجالانے کی وجہ سے اجر عظیم ملتا ہے اور روزہ رکھنے کی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔

سحر کے وقت کھانا نبی کریم ﷺ کی سنت ہے

۲/۱۸۷۲ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّلْ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ

أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَةُ السُّحُورِ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۷۷۰/۲ حدیث رقم (۴۶-۱۰۹۶)۔ والترمذی فی السنن ۸۸/۳ حدیث رقم ۷۰۸۔ والنسائی ۱۴۶/۴ حدیث رقم ۲۱۶۶۔ والدارمی ۱۱/۲ حدیث رقم ۱۶۹۷۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن عاصؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق صرف سحری کھانا ہے۔ اس کو مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے نزدیک رات کو سونے کے بعد کھانا حرام تھا اور ہمارے ہاں بھی ابتدائے اسلام میں یہی حکم تھا۔ پھر مباح ہو گیا پس یہود و نصاریٰ کی مخالفت کر کے اس سحری کے کھانے کی نعت کا شکریہ ادا کرنا مقصود ہے۔

افطاری کرنے میں جلدی کرو

۳/۱۸۷۳ وَعَنْ سَهْلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ۔

(متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۹۸/۴۔ حدیث رقم ۱۹۵۷۔ و مسلم فی صحیحہ ۷۷۱/۲ حدیث رقم (۴۸-۹۸)۔
والترمذی فی السنن ۸۲/۳ حدیث رقم ۶۹۹۔ وابن ماجہ ۵۴۱/۱ حدیث رقم ۱۶۹۷۔ والدارمی ۱۲/۲ حدیث رقم ۱۶۹۹ و مالک فی الموطأ ۲۸۸/۱ حدیث رقم ۶ من کتاب الصیام۔ واحمد فی المسند ۳۳۹/۵۔

ترجمہ: حضرت سہلؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے۔ جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ جب غروب آفتاب ہو جائے تو روزہ افطار کرنے میں دیر نہ لگاؤ اور غروب ہونے کی علامت شہروں میں یہ ہے مشرق کی طرف سے سیاہی بلند ہو جائے یعنی جہاں سے صبح صادق شروع ہوتی ہے وہاں سے آسمان کے بیچ میں پہنچ جائے۔ سیاہی کا پہنچنا شرط نہیں ہے پس جلدی کرنے میں اہل کتاب کے ساتھ مخالفت ہے کیونکہ اہل کتاب تاخیر کرتے ہیں یہاں تک کہ ستارے نکل آئیں اور ہماری قوم میں اہل بدعت کی یہ عادت ہے یعنی رافضیوں کی ان میں مخالفت ہو جائیگی یہ ضروری ہے اور صحیح حدیث کے بموجب نماز مغرب سے پہلے افطار کرنا سنت ہے۔

غروب آفتاب ہوتے ہی روزہ افطار کرنا چاہیے

۳/۱۸۷۴ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهْنَا وَأَذْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهْنَا وَغَرَبَتِ

الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۹۶/۴۔ حدیث رقم ۱۹۵۴۔ و مسلم فی صحیحہ ۷۷۲/۲ حدیث رقم (۵۱-۱۱۰)۔
وابوداؤد فی السنن ۷۶۲/۲ حدیث رقم ۲۳۵۱۔ والترمذی ۸۱/۳ حدیث رقم ۶۹۸۔ والدارمی ۱۳/۲ حدیث رقم ۱۷۰۰۔
ترجمہ: حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت رات آئے (یعنی مشرق کی جانب سے رات کی سیاہی اٹھے) اور دن اس جگہ سے چلا جائے یعنی مغرب سے اور آفتاب چھپ جائے۔ اس وقت روزے دار افطار کرے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آفتاب چھپ جائے وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ یہ پہلے جملوں کی تاکید ہے اور افطار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکماً افطار کرنے والا ہو چکا۔ اگرچہ کچھ کھائے پئے نہیں اور بعض حضرات نے کہا

ہے کہ وہ وقت افطار میں داخل ہو اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ چاہیے کہ وہ افطار کرے۔

پے در پے روزے رکھنے کی ممانعت

۵/۱۸۷۵ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَيُّكُمْ مِثْلِي أَيُّ ابْنِ أَبِي بَرْطِئَةَ يَطْعَمُنِي وَيَتَسَقِّئُنِي - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۰۰/۴۔ حدیث رقم ۱۹۶۰۔ و مسلم فی صحیحہ ۷۷۴/۲ حدیث رقم (۵۷-۱۱۰۳)۔
وابوداؤد فی السنن ۷۶۷/۲ حدیث رقم ۲۳۶۱ والدارمی ۱۴/۲ حدیث رقم ۱۷۰۳۔ ومالك فی الموطأ ۳۰/۱/۱ حدیث رقم ۳۹ من كتاب الصيام۔ واحمد فی المسند ۲۵۸/۶۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے طے کے روزے (یعنی وصال کے روزے) رکھنے سے۔ پس ایک شخص نے کہا کہ آپ ﷺ تو طے کا روزہ رکھتے ہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم میں سے میری طرح کون ہے تحقیق میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھ کو کھلاتا ہے اور مجھ کو پلاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ پے در پے روزے نہیں رکھنے چاہیں اور طے کے روزے وہ ہیں کہ ایک یا دو روزے رکھے اور درمیان میں افطار نہ کرے۔ یہ اس لیے منع ہیں کہ کمزوری کا باعث ہوتے ہیں اور اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ مسلسل روزے آپ ﷺ کے علاوہ اوروں کے لیے یعنی دوسرے حضرات کے لیے جائز نہیں یا حرام ہیں یا مکروہ ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کا رکھنا جائز ہے جب رکھنے پر قدرت رکھتے ہوں۔

اور نبی رحمت اور شفقت کے لیے ہے اور ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ حضور ﷺ نے لوگوں کو وصال سے منع کیا ہے ان پر رحمت کرتے ہوئے اور بعض صحابہ سے جیسے عبد اللہ بن زبیر وغیرہ کے اور تابعین جیسے عبد اللہ بن ابی معمر اور عامر بن عبد اللہ بن زبیر اور ابراہیم تیمی کے یہ روزے پر روزہ رکھتے تھے اور اکثر حضرات کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور مالک اور شافعی نے مکروہ کہا ہے اس کو اور اختلاف اس کے بارے میں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی ہے اور درست بات یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے اور جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ حضور ﷺ کے خصائص میں سے ہے اور ظاہر حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اور اہل سلوک ریاضت اور نفس کشی کا شوق رکھتے ہیں اور ایک چلو پانی کے ساتھ افطار کرتے ہیں تاکہ وصال کی حقیقت سے نکل جائیں۔ واللہ اعلم

میرا پروردگار مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے: کھلانے پلانے سے کیا مراد ہے اس میں کئی قول ہیں قول مختار یہ ہے کہ ظاہری کھانا پلانا مراد نہیں ہے بلکہ روحانی غذا مراد ہے کہ اس کی وجہ سے مناجات کی لذت اور ذوق معارف اور طاعات کی حاصل ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے جسمانی غذا سے مستغنی تھے اور اس کا تجربہ مجازی محبتوں اور حسی مسرتوں میں کیا گیا ہے چہ جائیکہ حقیقی محبت اور معنوی مسرت ہو۔

الفصل الاول:

روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے

۶/۱۸۷۷ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ - (رواه الترمذی و ابو داود والنسائی والدارمی وقال ابو داود وقفه علی حفصة معمر والزبیدی وابن عیینہ ویونس الا یلی کلهم عن الزهری)

اخرجه ابو داود فی السنن ۸۲۳/۲ حدیث رقم ۲۴۵۴۔ والترمذی ۱۰۸/۳ حدیث رقم ۷۳۰ والنسائی ۱۹۶/۴ حدیث رقم ۲۳۳۳۔ والدارمی ۱۲/۲ حدیث رقم ۱۶۹۸۔ ومالك فی الموطأ ۲۸۸/۱ حدیث رقم ۵ من كتاب الصيام۔ واحمد فی المسند ۲۸۷/۶۔

ترجمہ: حضرت حفصہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے۔ پس اس کے لیے روزہ نہیں ہے یعنی اس کے لیے مکمل روزہ نہیں ہوتا۔ اس کو امام ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، دارمی اور ابو داود کہتے ہیں کہ معمر زبیدی، ابن عیینہ اور یونس ایلی نے اس روایت کو امام زہری سے نقل کیا ہے اور ام المؤمنین حضرت حفصہؓ پر موقوف کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے اگر روزے کی نیت رات سے نہ کرے۔ تو درست نہیں ہے خواہ روزہ فرض ہو خواہ واجب ہو یا نفل ہو لیکن علماء کا اس میں اختلاف ہے اور امام مالکؒ کا مذہب تو یہی ہے کہ رات سے نیت کرنی شرط ہے ہر طرح کے روزے میں اور امام شافعیؒ اور امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں سوائے نفل روزہ کے امام احمدؒ کے نزدیک زوال سے پہلے جائز ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک غروب آفتاب سے پہلے بھی نیت کر لینا جائز ہے اور ہمارا مذہب یہ ہے کہ رمضان، نفل اور نذر معین کے روزوں میں جائز ہے کہ آدھے دن شرعی سے پہلے روزے کی نیت کر لے اور آدھا دن شرعی زوال سے پہلے ہے قضاء اور کفارہ اور نذر مطلق کے لیے رات کو نیت کرنا شرط ہے اور ان کی دلیل کتب فقہ میں مذکور ہے اور سب نے یعنی معمر اور زبیدی اور ابن عیینہ اور یونس نے روایت کیا ہے زہری سے اور حفصہؓ پر موقوف رکھا ہے حدیث موقوف صحابی کے قول کو کہتے ہیں۔

اذان سنتے ہی سحری کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ وقت کا خیال کرنا چاہیے

۷/۱۸۷۷ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الْإِذَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِنَاءَ فِي يَدِهِ فَلَا يَصْغُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ - (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۷۶۱/۲۔ حدیث رقم ۲۲۵۰۔ واحمد فی المسند ۵۱۰/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان سننے صبح کی برتن اس کے ہاتھ میں ہو۔ یعنی (پانی پینے کا ارادہ رکھتا ہو یا کچھ کھانے کا ارادہ رکھتا ہو) پس وہ برتن کو نہ رکھے یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ یہ ابو داود نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے یقین جانے صبح کر صبح نہیں ہوئی۔ یعنی اگر صبح نہ ہونے کا یقین ہو۔ یا گمان ہو۔ اس کا تو لفظ سننے سے کھانا پینا بند نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ جان لے کہ صبح ہوگی ہے یا گمان ہو تو کھانا پینا چھوڑ دے اور ابن ملک نے کہا ہے اگر صبح طلوع نہ ہو تو موقوف نہ کرے۔ اگر جان لے کہ صبح ہو چکی ہے یا شک ہو تو موقوف کرے اور بعضوں نے کہا اذان سے مراد اذان مغرب ہے یعنی اگر چہ کھانے پینا کا ترک کرنا اذان کے وقت مسنون ہے لیکن افطار کے وقت مغرب کی اذان سننے اور اگر کچھ پی رہا ہو تو پینا موقوف نہ کرے بلکہ پی لے اور پھر نماز کو جائے۔

افطار کرنے میں جلدی کرو

۸/۱۸۷۸ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعَجَلَهُمْ فِطْرًا۔

(رواہ الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۸۳۱ حدیث رقم ۷۰۰۔ واحمد فی المسند ۳۲۹/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے بندوں میں سے وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو افطار کرنے میں جلدی کریں۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے جلدی افطار کرنے والا اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے اس لئے کہ وہ سنت کی اتباع کرتا ہے اور اہل کتاب اور روافض کی مخالفت کرتا ہے۔

کھجور سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے

۹/۱۸۷۹ وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ۔

رواہ الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ و الدارمی و لم يذكر فانه بركة غير الترمذی۔

ترجمہ: حضرت سلیمان بن عامرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی افطار کرے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے پس کھجور برکت کا سبب ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے۔ پس وہ پاک کرنے والا ہے۔ یہ احمد ترمذی ابوداؤد ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا ہے۔ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ کا لفظ ترمذی کے علاوہ کسی اور نے ذکر نہیں کیا۔

تشریح ﴿ اس حدیث میں امر استحباب کے لیے ہے اور شاید کھجور سے روزہ افطار کرنے میں حکمت یہ ہے کہ جب معدہ خالی ہوتا ہے اور کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو کھانے کو معدہ خوب قبول کرتا ہے۔ پس اسی حالت میں جب شیرینی معدے میں پہنچتی ہے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور شیرینی عرب میں کھجور ہی کی ہوتی ہے اور اہل عرب کے مزاجوں کو اس کے ساتھ بہت مناسبت ہے اس لیے کھجور سے روزہ افطار کرنے کا حکم فرمایا ہے اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے۔ اس میں ظاہر و باطن کی طہارت کے ساتھ نیک فال ہے۔

کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے

۱۰/۱۸۸۰ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطْبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطْبَاتٌ فَتُمِيرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمِيرَاتٍ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ۔

(رواه الترمذی وأبو داود وقال الترمذی هذا حديث حسن غريب)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۷۶۴/۲ حدیث رقم ۲۳۵۶۔ والترمذی ۷۹۱/۳ حدیث رقم ۶۹۶۔ واحمد فی المسند ۱۶۴/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز مغرب سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں سے افطار کرتے۔ اگر خشک کھجوریں نہ ہوتیں تو پانی کے چند چلو پی لیتے۔ یعنی تین چلو۔ یہ روایت ابو داؤد و ترمذی نے نقل کی ہے اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: ابو یعلیٰ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ تین کھجوروں سے افطار کرنا پسند کرتے تھے یا ایسی چیزوں سے جن کو آگ پر نہ پکایا گیا ہوتا اور بعضوں نے کہا ہے کہ اہل مکہ کے لئے مسنون یہ ہے کہ آب زمزم کو کھجوروں پر مقدم کرے یا ان کو اس پانی کے ساتھ ملائے۔ یہ قول مردود ہے اس لیے کہ یہ خلاف اتباع سنت ہے اور حضور ﷺ فتح مکہ کے سال مکہ میں بہت دن رہے آپ سے ایسا عمل نقل نہیں کیا گیا۔

افطاری کروانے اور جہاد پر بھیجنے والے کے لیے اجر

۱۱/۱۸۸۱ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ۔

(رواه البيهقي في شعب الإيمان ومحي السنة في شرح السنة وقال صحيح)

اخرجه احمد في المسند ۱۱۴/۴۔

ترجمہ: حضرت زید بن خالدؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص روزہ دار کو افطار کروادے یا کسی غازی کا سامان درست کر دے پس اس کو اس کے مانند پورا ثواب ملے گا۔ بیہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت کی ہے اور محی السنۃ نے شرح السنۃ میں یہ روایت کی ہے اور کہا یہ صحیح ہے۔

تشریح: مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا ثواب روزے دار کو روزے کا ہوتا ہے اور غازی کو جہاد کا ویسا ہی افطاری کروانے والے کو ثواب ملتا ہے اور سامان جہاد درست کر دینے والے کو ثواب ملتا ہے اس لیے کہ وہ نیکی پر مددگار ہوتا ہے۔ الغرض نیکی کے کام پر تعاون کرنے والے کو بھی وہی ثواب ملتا ہے جو کرنے والے کو ملتا ہے۔ کیونکہ یہ نیکی کا باعث و سبب بن جاتا ہے اور نیکی میں اس کا بھی حصہ پڑ جاتا ہے اور یہ بھی اس کی طرح یعنی نیکی کرنے والے کی طرح ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔

روزے کی افطاری کے وقت آپ ﷺ کی دعا مبارکہ

۱۲/۱۸۸۲ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَا وَابْتَلَّتْ

الْعُرُوقُ وَكَبَتِ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللَّهُ - (رواہ ابو داؤد)

اخر جہ ابو داؤد فی السنن ۷۶۵/۲ حدیث رقم ۲۳۵۷۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب افطار کرتے تو فرماتے تھے پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں حضور ﷺ نے عبادات پر رغبت دلائی ہے عبادات کی مشقت تھوڑی سی ہے اور وہ جاتی رہتی ہے آرام کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور اس پر ملنے والا ثواب بہت زیادہ ہے جو ہمیشہ ثابت و باقی رہتا ہے۔

روزہ افطار کرتے وقت مسنون دعا

۱۳/۱۸۸۳ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ ذُهْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ صُيْتُ

وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ - (رواہ ابو داؤد مرسل)

اخر جہ ابو داؤد فی السنن ۷۶۵/۲ حدیث رقم ۲۳۵۸۔

ترجمہ: حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب افطار کرتے تو فرماتے اے الہی میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں افطار کرتا ہوں۔ ابو داؤد نے یہ روایت بطریق ارسال نقل کی ہے۔

تشریح: ابن ملک نے فرمایا کہ حضور ﷺ افطار کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اور لک صمت کے بعد کچھ لوگوں نے و بک امن و علیک تو کلت زیادہ کیا ہے اس کی کچھ اصل نہیں ہے اگرچہ معنی درست ہیں اور ابن ماجہ نے روایت کیا کہ روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک دعا ہے جو دعائیں کی جاتی ہے اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ آپ ﷺ یہ دعا پڑھتے تھے یا واسع الفضل اغفر لی۔ اور یہ دعا بھی پڑھتے: الحمد لله الذي اعانني فصمت ورزقني فافطرت۔

الفصل الثالث:

افطار کرنے میں جلدی کرنا چاہیے

۱۳/۱۸۸۳ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَلَ

النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخَّرُونَ - (رواہ ابو داؤد وابن ماجہ)

اخر جہ ابو داؤد فی السنن ۷۶۳/۲ حدیث رقم ۲۳۵۳۔ وابن ماجہ ۵۴۲/۱ حدیث رقم ۱۶۹۸۔ واحمد فی المسند ۴۵۰/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ اس لیے کہ یہود و نصاریٰ افطار کرنے میں دیر کرتے ہیں۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہود و نصاریٰ افطار کرنے میں دیر کرتے ہیں اس قدر کہ تارے نکل آئیں اور ہمارے زمانے میں یہود و نصاریٰ کی بیرونی رافضیوں نے کی ہے لہذا ان کے خلاف کرنا غلبہ اور شوکت دین کا باعث ہے اور یہ

دلیل کہ دین کی مضبوطی اور اس کا غلبہ دشمنوں کے ساتھ عداوت ظاہر کرنے میں ہے اور یہود و نصاریٰ کی موافقت کرنے میں دین کا نقصان ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ
 ”اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو دوست مت بناؤ ان میں سے بعض بعض لوگوں کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ ان ہی میں سے ہوگا۔“

جیسے کہ حدیث میں آتا ہے: المرء مع من احب۔ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔

دو معتبر صحابیوں رضی اللہ عنہما کا ذکر جو نماز اور افطاری میں جلدی و تاخیر کرتے تھے

۱۵/۱۸۸۵ وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ قَالَتْ أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَتْ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَى۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحہ ۷۷۱/۲ حدیث رقم (۴۹۔ ۱۰۹۹)۔ وابوداؤد فی السنن ۷۶۲/۲ حدیث رقم ۲۳۵۴۔ والترمذی ۸۳/۳ حدیث رقم ۷۰۲۔ والنسائی ۱۴۴/۴ حدیث رقم ۲۱۶۱۔ واحمد فی المسند ۴۸/۶۔

ترجمہ: حضرت ابو عطیہؓ سے روایت ہے کہ میں اور مسروقؓ حضرت عائشہؓ کے پاس گئے۔ پس ہم نے کہا اے مومنوں کی ماں! حضور ﷺ کے صحابیوں میں دو شخص ہیں ایک ان میں سے جلدی افطار کرتا ہے اور جلد نماز پڑھتا ہے اور دوسرا شخص دیر سے افطار کرتا ہے اور دیر سے نماز پڑھتا ہے حضرت عائشہؓ نے پوچھا ان میں سے کون جلد افطار کرتا ہے اور جلد نماز پڑھتا ہے؟ ہم نے کہا عبد اللہ بن مسعودؓ جلدی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہؓ فرماتے لگیں۔ حضور ﷺ اسی طرح کرتے تھے اور دوسرے وہ جو افطار اور نماز میں دیر لگاتے ہیں وہ ابو موسیٰؓ ہیں۔ (صحیح مسلم)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد اللہ بن مسعودؓ بڑے عالم اور فقیہ تھے انہوں نے سنت پر عمل کیا اور ابو موسیٰؓ بھی بڑے صحابی تھے انہوں نے بیان جواز پر عمل کیا یا ان کو کچھ عذر ہوگا اور شاید کبھی کبھی کرتے ہوں گے۔

سحری کا کھانا بابرکت ہوتا ہے

۱۶/۱۸۸۶ وَعَنْ الْوَرِثَانِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السُّحُورِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاةِ الْمُبَارَكَةِ۔ (رواه ابوداؤد والنسائی)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۷۵۷/۲ حدیث رقم ۲۳۴۴۔ والنسائی ۱۴۵/۴ حدیث رقم ۲۱۶۳۔
 ترجمہ: حضرت عرباض بن ساریہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ کو بلایا اور رمضان کی سحری کی طرف بلایا اور فرمایا بابرکت کھانے کی طرف آؤ۔ یہ ابوداؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ سحری کھایا کرو۔ سحری کا کھانا بابرکت ہے۔ جیسا کہ حدیث مذکورہ میں آپ ﷺ کے اس عمل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

مومن کی بہترین سحری کھجور سے ہے

۱۷/۱۸۸۷ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِعَمَ سُحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ۔ (رواہ ابو داؤد)

اخرجہ ابو داؤد فی السنن ۷۵۸/۲ حدیث رقم ۲۳۴۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مومن کی اچھی سحری کھجور ہے۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ سحری کے وقت تمام کھانوں سے بہتر کھانا کھجور کا کھانا ہے اور آپ ﷺ نے اس کو پسند کیا ہے اور فرمایا اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے۔

بَابُ تَنْزِيهِ الصَّوْمِ

روزے کے پاک کرنے کے بیان میں

کتاب: ۱ اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ روزہ کس چیز سے جاتا رہتا ہے اور کس چیز سے اس کا ثواب باطل ہوتا ہے اور کس چیز سے اس کا ثواب کم ہوتا ہے پس ان سے پرہیز کرنا واجب ہے۔

کتاب: ۲ اس کتاب کا مؤلف عرض کرتا ہے اگرچہ بعض روزے کے مفسدات آگے متفرق حدیثوں میں مذکور ہیں لیکن میں نے پسند کیا کہ کسی معتبر فقہ کی کتاب سے یہ مسائل تفصیل کے ساتھ ایک جگہ لکھوں تاکہ مفید ہوں۔ تو میں نے امداد الفلاح شرح نور الایضاح جو کتاب معتبر اور عرب میں مروج ہے خوب ترتیب سے یہ مسائل مذکور تھے اس میں سے لکھے جاتے ہیں اور بعض درمختار میں سے بھی لکھے جاتے ہیں۔

فصل: یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں ہے جو روزے کو توڑتی نہیں ہیں اگر بھول کر کھالے یا جماع کر لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر جماع شروع کیا پھر یاد آ گیا۔ اگر فی الفور ستر کو نکال لیا۔ روزہ ٹوٹے گا نہیں اور اگر نہ نکالا تو ٹوٹ جائے گا اور قصداً لازم ہوگی نہ کفارہ اور بعضوں نے کہا ہے یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب وہ اپنے جسم کو حرکت نہ دے یعنی یاد آنے کے بعد دھکا نہ لگائے۔ یہاں تک کہ انزال ہو جائے اگر نفس کو حرکت دے گا تو اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ جیسے کہ اگر نکال کر پھر داخل کیا تو کفارہ لازم ہوتا ہے اگر فجر سے پہلے قصد اجماع کیا اور پھر فجر طلوع ہو جائے تو ستر کا نکالنا فی الحال واجب ہوگا۔ اگر نفس کو حرکت دے گا تو کفارہ لازم ہوگا اور روزہ فقط تیرے سے ٹوٹ جائے گا اور اگر فجر کے طلوع ہونے کے خوف سے ہی نکال لیا۔ پھر اس کو فجر کے طلوع ہونے کے بعد انزال ہوا تو اس شخص پر کچھ لازم نہ ہوگا اور اگر کوئی شخص بھول کر کھاتا ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے روزہ پورا کرنے کی بغیر مشقت کے تو دیکھنے والا اس کو یاد دلادے اور یاد نہ دلانا اس کو مکروہ ہے اور اگر اس کو کوئی کھانے کے

وقت یا دلدل دے اور اس کو یاد نہ آئے تو قضا لازم آئے گی اور اگر طاققت نہیں رکھتا ہے تو نہ یاد دلانے اگر روزہ دار کو کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھ کر انزال ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس میں اختلاف ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ بد فعلی کرنے سے انزال ہو جائے بعضوں کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعضوں کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر انزال نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا بلا خلاف اور اگر ہاتھ سے منی گرائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم آتی ہے نہ کہ کفارہ اور یہ فعل غیر رمضان میں بھی حلال نہیں ہے اگر شہوت کو پورا کرنے کا قصد کرے اور اگر شہوت کی تسکین کا قصد کرے تو امید ہے کہ اس پر وبال نہ ہو یعنی فقط لذت کے لیے تو حلال نہیں ہے اور اگر نکالنے میں بیقرار ہو اور نہ نکالنے میں زنا کا خوف رکھتا ہو تو امید ہے کہ وہ گنہگار نہ ہو اور اگر اس پر بد اومت کرے تو گنہگار ہوگا۔ اگر کسی عورت کا دھیان کرے اور اس کو انزال ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگر دو عورتیں آپس میں قصد افعال بد کریں اور انزال نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگر انزال ہو جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم آئے گی اور اگر تیل لگائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس لیے مسامات میں سے کسی چیز کا داخل ہونا منافی صوم نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نہائے اور جگر کو ٹھنڈک پہنچے اور سرمہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر چہ اس کا مزہ حلق میں محسوس کرے یا اس کا رنگ رینٹ اور تھوک میں دکھائی دے کیونکہ آنکھ اور دماغ کے درمیان راستہ نہیں ہے اور آنسو جو ٹپک کر نکلتے ہیں وہ ایسے عراق کی مانند ہیں جس کو کشید کیا گیا ہو الغرض جو چیز بھی مسام کے ذریعے سے جسم میں داخل ہو وہ روزے کے منافی نہیں ہے جیسے کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے اگر آنکھ میں دوا یا دودھ ڈالے تیل کے ساتھ پھر اس کا مزہ یا تلخی محسوس کرے تو اس سے اس کا روزہ نہیں جاتا اور اگر کوئی شخص ایسی بندھی ہوئی روئی نگل جائے جس کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک ڈور سے کھل کر گر نہ پڑے۔ جب گرے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر حلق میں لکڑی یا اس کے مانند کوئی چیز داخل کرے اور ایک سر اس کے ہاتھ میں ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اسی طرح کوئی شخص اگر اپنی انگلی در میں یا عورت اپنی شرمگاہ میں داخل کرے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر انگلی پر پانی یا تیل لگا ہوا ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سبکی اور غیبت سے روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ ثواب میں کمی آتی ہے۔ اگر روزہ افطار کرنے کی نیت کرے لیکن کچھ کھائے پئے نہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی شخص کے حلق میں اس کے فعل کے بغیر دھواں داخل ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے بچنا ناممکن ہے۔ ایسے موقع پر اگر وہ شخص دھوئیں سے بچنے کی خاطر اپنا منہ بند بھی کر لے تو دھواں ناک کے راستے داخل ہو جائے گا۔ پس یہ اس تری کی مانند ہے جو کلی کرنے کے بعد بھی منہ میں باقی رہتی ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے منہ میں دھواں داخل کرے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے وہ دھواں غبر کا ہو اگر بتی کا ہو یا کسی اور چیز کا پس اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی چیز کا دھواں اپنے منہ میں داخل کرے گا حالانکہ اس کے علم میں ہے کہ میں روزہ دار ہوں تو اس عمل سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس کے لئے دھوئیں سے بچنا ممکن ہے اس مسئلہ سے اکثر لوگ نااہل ہیں اس بارے میں احتیاط کا پہلو اپنانا چاہیے۔ اس مسئلہ سے یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ مشک و گلاب اور دوسری خوشبوؤں کو سونگھنے کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے کیونکہ صرف خوشبودار دھوئیں کے اس جوہر میں جو جان بوجھ کر منہ میں جائے جو فرق ہے اس سے سب واقف ہیں۔ اسی طرح حقہ کے دھوئیں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ جان بوجھ کر منہ میں داخل کیا جاتا ہے اور اس سے نفس کو سکون پہنچتا ہے اور اس کو عام طور پر دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پس نہ لورا نہ لورا اگر تھوڑی سی مقدار میں حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر زیادہ مقدار میں ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا

ہے۔ پھول و عطر وغیرہ کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی شخص کے حلق میں گرد و غبار یا چکی پیتے ہوئے آٹا یا دوا کیل پیتے ہوئے کچھ اڑ کر داخل ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں صبح کرے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چاہے وہ اس حالت میں کئی دن رہے اور غسل جنابت نہ کرے۔ مگر ناپاک رہنے اور نماز وغیرہ نہ پڑھنے کے باعث گناہ کا مستحق ہوگا۔ اگر ذکر کے سوراخ میں دوا یا تیل وغیرہ ڈالے اور وہ مٹانے میں پہنچ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک اس لیے مٹانے سے مفقہ راستہ اندر کو نہیں جاتا۔ اگر پانی میں میٹھے اور کان میں پانی چلا جائے یا تنکے سے کان کھجائے اور اس سے میل نکلے اور اس تنکے کو کئی بار کان میں ڈالے تو روزہ نہیں جاتا۔ اگر دماغ سے ریخت اترے اور وہ اس کو چڑھا جائے یا نگل جائے تو روزہ نہیں جاتا اور اگر منہ سے تھوک نکلے اور منقطع نہ ہو بلکہ اس کا تار لگا رہا اور ٹھوڑی تک لگا رہا۔ پھر اس کو نگل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا اور اگر منقطع ہو تو تھوک پھر منہ میں ڈال لیا تو روزہ جاتا رہے گا۔ اگر منہ کے بھراؤ کے برابر بلغم نکل جائے امام ابو یوسف کے نزدیک روزہ جاتا رہے گا اور امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک نہیں اور تھوک دینا مناسب ہے تاکہ روزہ نہ ٹوٹے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک جب کہ بلغم وغیرہ کے تھوک دینے پر قادر ہو اور اس کے باوجود نگل جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔

اختیار کے بغیر قے ہو جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا خواہ قے کسی قدر ہو منہ بھر کر یا اس سے زیادہ اسی طرح صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا جب کہ آئی ہوئی قے بے اختیار حلق کے نیچے اتر جائے خواہ وہ کسی قدر ہو لیکن امام یوسفؒ کے نزدیک اس صورت میں روزہ جاتا رہتا ہے ہاں اگر وہ قصد انگل جائے اور منہ بھر کر ہو تو سب ہی کے نزدیک روزہ جاتا رہے گا البتہ کفارہ لازم نہیں آئے گا اور اگر منہ بھر کر نہیں ہوگی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اگر کوئی شخص قصد اترے کرے اور منہ بھر کر ہو تو متفقہ طور پر مسئلہ یہ ہے کہ روزہ جاتا رہے گا اور اگر منہ بھر کر نہ ہو تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک روزہ فاسد نہیں ہوگا اور صحیح یہی ہے۔ حضرت امام محمدؒ کا قول ہے کہ منہ بھر کر نہ ہونے کی صورت میں بھی روزہ جاتا رہتا ہے جو قے عدا کی جائے اور منہ بھر کر نہ ہو اور وہ بے اختیار حلق کے نیچے اتر جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، قصد انگل جانے کے بارے میں دو قول ہیں صحیح قول یہ ہے کہ اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

غذا وغیرہ قسم سے کوئی چیز جو ہو اور رات میں دانتوں میں پھنس گئی تو دن میں اسے نگل جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا بشرطیکہ وہ چنے کی مقدار سے کم ہو اور منہ سے باہر نکال کر نہ کھائی جائے اسی طرح کسی کے دانتوں سے یا منہ کے کسی دوسرے اندرونی حصے سے خون نکلے اور حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا بشرطیکہ وہ پیٹ تک نہ پہنچے جائے مگر تھوک کے ساتھ مخلوط ہو کر اور تھوک سے کم اور اس کا مزہ حلق میں محسوس نہ ہو اگر خون پیٹ تک پہنچ جائے گا اور وہ تھوک پر غالب ہوگا یا تھوک کے برابر ہوگا تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔

تل کے بقدر اگر کوئی شخص چیز باہر سے منہ میں ڈال کر چبائے اور وہ منہ میں پھیل بھی جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا بشرطیکہ حلق میں اس کا مزہ محسوس نہ ہو ہاں اگر وہ چیز منہ میں پھیلے نہیں نیز اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو یا یہ کہ بغیر چبائے ہی اس چیز کو نگل جائے اور حلق میں اس کا مزہ محسوس نہ ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر وہ چیز ان چیزوں میں سے ہوگی جن سے کفارہ لازم آتا ہے تو کفارہ ضروری ہوگا نہیں تو قضاء لازم ہے۔

یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں ہے جن سے کفارہ اور قضا لازم ہو جاتے ہیں:

یہ بات سمجھ لو کہ روزہ فاسد ہو جانے کی صورت میں کفارہ کن لوگوں پر اور کن حالات میں لازم ہوگا۔ کفارہ اس وقت لازم ہوتا ہے جب کہ روزہ رکھنے والا مکلف یعنی عاقل و بالغ ہو، روزہ رمضان کا ہو اور رمضان ہی کے مہینے میں ہو یعنی رمضان کے قضاء روزوں میں بھی کفارہ لازم نہیں ہوتا، نیت رات ہی سے کئے ہوئے ہو اگر طلوع فجر کے بعد نیت کی ہوگی، تو روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، روزہ توڑنے کے بعد ایسا کوئی امر پیش نہ آئے جو کفارہ کو ساقط کر دینے والا ہو جیسے حیض و نفاس، اگر روزہ توڑنے کے بعد ان میں سے کوئی چیز پیش آجائے گی تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، چنانچہ اس کا تفصیلی بیان آگے آئے گا، اسی طرح روزہ توڑنے سے پہلے ایسی کوئی چیز پیش نہ آئے جس سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے، جیسے سفر کہ اگر کوئی شخص سفر کے حالت میں روزہ توڑے گا تو کفارہ لازم نہیں آئے گا، اگر کوئی شخص سفر سے پہلے روزہ توڑ دے گا تو کفارہ ساقط نہیں ہوتا لہذا جب یہ تمام شرائط پائی جائیں گی اور مندرجہ ذیل مضمرات صوم (روزہ کو توڑنے والی چیزوں) میں سے کوئی صورت پیش آئے گی تو کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے۔

اب پڑھیے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور جن کی وجہ سے کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوتے ہیں۔ جماع کرنا، غلام کرنا، ان دونوں صورتوں میں فاعل اور مفعول دونوں پر کفارہ اور قضا لازم آتی ہے کھانا پینا خواہ بطور غذا یا بطور دوا۔ غذائیت کے معنی اور محمول میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ غذا کا محمول اس چیز پر ہوگا جس کو کھانے کے لئے طبیعت خواہش کرے اور اس کے کھانے سے پیٹ کی خواہش کا تقاضہ پورا ہوتا ہو۔ بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ ”غذا کی چیز“ وہ کہلائے گی جس کے کھانے سے بدن کی اصلاح ہو اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ”غذا“ انہیں چیزوں کو کہیں گے جو عادت کھائی جاتی ہوں۔

اگر کوئی شخص بارش کا پانی، اولہ اور برف نکل جائے یا کچا گوشت کھائے خواہ وہ مردار ہی کا کیوں نہ ہو تو کفارہ لازم ہوگا اسی طرح چربی، خشک کیا ہوا گوشت اور گے ہوں کھانے سے بھی کفارہ واجب ہو جاتا ہے ہاں اگر آدھ گے ہوں منہ میں ڈال کر چبایا جائے اور وہ منہ میں پھیل جائے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اپنی بیوی یا محبوب کا تھوک نکل جانے سے بھی کفارہ واجب ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی طبیعت کی خواہش کا دخل ہوتا ہے ہاں ان کے علاوہ دوسروں کا تھوک نکلنے کی صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوتا، البتہ روزہ جاتا رہتا ہے اور قضا لازم آتی ہے۔ نمک کو کم مقدار میں کھانے سے تو کفارہ لازم ہوتا ہے زیادہ مقدار میں کھانے سے نہیں۔ مستغنی میں اس قول کو روایت مختار کہا گیا ہے لیکن خلاصہ اور بزار یہ میں لکھا ہے کہ مختار (یعنی قابل قبول اور لائق اعتماد) مسئلہ یہ ہے کہ مطلقاً نمک کھانے سے کفارہ واجب ہوتا ہے یعنی خواہ نمک زیادہ ہو یا کم اگر بغیر بھنا جو کھایا جائے گا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ کچا جو کھایا نہیں جاتا، لیکن یہ خشک جو کا مسئلہ ہے۔ اگر تازہ خوشہ میں سے جو نکال کر بغیر بھنا ہوا بھی کھایا جائے گا تو کفارہ لازم آئے گا۔ گل ارمنی کے علاوہ وہ مٹی مثلاً ملتانی وغیرہ کھانے کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ عادت کھائی جاتی ہو تو اس پر بھی کفارہ لازم آئے گا اور اگر نہ کھائی جاتی ہو تو پھر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔

حدیث مبارکہ میں ہے: الغیمة تغطر الصیام (غیبت روزہ کو ختم کر دیتی ہے) بظاہر تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی

روزہ دار غیبت کرے گا تو اس کا روزہ جاتا رہے گا لیکن علماء امت نے اجتماعی طریقے پر اس حدیث کی تاویل یہ کی ہے کہ حدیث کی مراد یہ نہیں ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ جو روزہ دار غیبت میں مشغول ہوگا اس کے روزے کا ثواب جاتا رہے گا۔

حدیث: الغیبة تفطر الصیام کے برخلاف اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بچھنے لگانے یا لگوانے کے بعد اس حدیث کے پیش نظر اس گمان کے ساتھ کہ روزہ جاتا رہا ہے قصد کچھ کھاپی لے تو اس پر کفارہ صرف اسی صورت میں لازم آئے گا جب کہ وہ اس حدیث کی مذکورہ بالا تاویل سے جو جمہور علماء سے منقول ہے واقف ہو یا یہ کہ کسی فقیہ اور مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بچھنے لگوانے یا لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ اس کا یہ فتویٰ حقیقت کے خلاف ہوگا اور اس کی ذمہ داری اسی پر ہوگی اور اگر اسے حدیث کی تاویل معلوم نہ ہوگی تو کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ الغیبة تفطر الصیام وافطر الحاجم والمحجوم دونوں حدیثوں کے احکام میں مذکورہ بالا فرق اس لئے ہے کہ غیبت سے روزہ کا ٹوٹنا نہ صرف یہ کہ خلاف قیاس ہے بلکہ اس حدیث کی مذکورہ بالا تفریق تمام امت کا اتفاق ہے جب کہ بچھنے سے روزہ کا ٹوٹ جانا نہ صرف یہ کہ خلاف قیاس نہیں ہے بلکہ اس حدیث کی مذکورہ بالا تاویل پر تمام امت کا اتفاق نہیں ہے کیونکہ بعض علماء مثلاً امام اوزاعی وغیرہ اس حدیث کے ظاہری مفہوم پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچھنے لگانے یا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی کسی شخص نے شہوت کے ساتھ عورت کو ہاتھ لگایا یا کسی عورت کا بوسہ لیا یا کسی عورت کے ساتھ ہم خواب ہوا یا کسی عورت کے ساتھ بغیر انزال کے مباشرت فاحشہ کی یا سرمہ لگایا یا قصد کھلوائی یا کسی جانور سے بدعلی کی مگر انزال نہیں ہوا یا اپنی دیر میں انگلی داخل کی اور یہ گمان کر کے کہ روزہ جاتا رہے گا۔ اس نے قصد کچھ کھا پی لیا تو اس صورت میں بھی کفارہ اسی وقت لازم ہوگا جب کہ کسی فقیہ یا مفتی نے مذکورہ بالا چیزوں کے بارے میں یہ فتویٰ دیا ہو کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ اس کا یہ فتویٰ غلط اور حقیقت کے خلاف ہوگا اگر مفتی فتویٰ نہیں دے گا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ مذکورہ بالا چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

اس عورت پر کفارہ واجب ہوگا جس نے روزہ کی حالت میں کسی ایسے مرد سے برضا و رغبت اور بخوشی جماع کرایا جو جماع کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا چنانچہ کفارہ صرف عورت پر واجب ہوگا اس مرد پر نہیں۔ کسی عورت نے فجر طلوع ہونے کے باوجود جانتے بوجھتے اسے اپنے خاوند سے چھپایا چنانچہ اس کے خاوند نے اس سے صحبت کر لی اور اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ فجر طلوع ہو گئی ہے تو اس صورت میں بھی صرف عورت پر کفارہ واجب ہوا اور مرد پر واجب نہیں ہوگا۔

فیصل ان چیزوں کے بیان میں ہے جو کفارہ کو لازم کرنے والی ہے:

خاتون نے قصد کھانا کھایا یا برضا و رغبت جماع کرایا اور اسی دن اس کے ایام شروع ہو گئے یا نفاس میں مبتلا ہو گئی تو اس کے ذمہ سے کفارہ ساقط ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی شخص اس دن کسی ایسے مرض اور ایسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا جس میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور یہ کہ وہ مرض و تکلیف قدرتی ہو تو کفارہ ساقط ہو جائے گا قدرتی کی قید اس لئے ہے کہ فرض کیجئے کسی شخص نے قصد روزہ توڑ ڈالا اور پھر اپنے آپ کو اس طرح زخمی کر لیا کہ اس حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے یا اپنے آپ کو چھت یا

پہاڑ سے گرایا تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ تکلیف اور مرض اس کا خود اپنا پیدا کیا ہوا ہوگا۔ ایسی صورت میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی کفارہ ساقط ہو جائے گا جب کہ دوسرے حضرات کا قول ہے کہ کفارہ ساقط نہیں ہوگا اور کمال کے قول کے مطابق مختار اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ کفارہ ساقط نہیں ہوتا۔

جمع العلوم میں ہے کہ اگر کسی شخص نے زیادہ چلنے یا کوئی کام کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف و مشقت میں مبتلا کیا یہاں تک کہ اسے بہت زیادہ اور شدید پیاس لگی اور اس نے روزہ توڑ ڈالا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ کفارہ لازم نہیں ہوگا اور اسی قول کو بقائی نے بھی اختیار کیا ہے جیسا کہ تا تاریخہ میں منقول ہے۔

یہ فصل ان چیزوں کے باین میں ہے کہ کفارہ کیسے ادا کیا جائے؟ ایک روزے کے کفارے میں ایک غلام آزاد کرنا چاہئے خواہ وہ غلام کافر ہی کیوں نہ ہو اگر عدم استطاعت کے سبب غلام آزاد کرنا ممکن نہ ہو یا کسی جگہ غلام نہ ملتا ہو تو پھر دو مہینے یعنی پورے ساٹھ دن پے در پے روزے رکھنا واجب ہے ان روزوں کا علی الاطلاق اور ایسے دنوں میں رکھنا ضروری ہے جن میں عیدین کے دن اور ایام تشریق (ذی الحجہ کی گیارہ بارہ تیرہ تاریخیں) واقع نہ ہوں کیونکہ ان دنوں میں کسی بھی طرح کے روزے رکھنا منع ہیں اگر درمیان میں کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر کسی دن کا روزہ فوت ہو جائے تو پھر نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا ناغہ سے پہلے جس قدر روزے ہو چکے ہوں گے ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا ہاں اگر کسی عورت کو حیض آجائے اور اس سبب سے درمیان کے روزے ناغہ ہو جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں مگر نفاس کی وجہ سے ناغہ ہو جانے کی صورت میں نئے سرے سے روزے شروع کئے جائیں گے اور اگر مرض یا پڑھاپے کی وجہ سے ساٹھ روزے رکھنے کی بھی قدرت نہ ہو تو پھر ساٹھ محتاجوں کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا واجب ہے اس طرح کہ چاہے تو انہیں ایک ہی دن دو وقت یعنی صبح و شام کھلا دے چاہے دو دن صبح کے وقت یا دو دن شام کے وقت یا عشاء و صبح کے وقت کھلا دے مگر شرط یہ ہے کہ اول وقت جن محتاجوں کو کھانا کھلایا جائے تو دوسرے وقت بھی انہیں محتاجوں کو کھانا کھلانا ہوگا چنانچہ اگر کسی نے ایک وقت ساٹھ محتاجوں کو کھانا کھلا دیا اور پھر دوسرے وقت ان کے علاوہ دوسرے ساٹھ محتاجوں کو کھلایا تو یہ کافی نہیں بلکہ کفارہ اسی وقت ادا ہوگا جب کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کو پھر دوبارہ ایک وقت کا کھانا کھلائے ہاں اگر کوئی شخص ایک ہی محتاج کو مسلسل ساٹھ روز تک کھانا کھلائے یا مسلسل ساٹھ روز تک ہر روز نے محتاج کو کھلائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اس طرح کفارہ ادا ہو جائے گا ایک بات اور اگر کوئی شخص ایک ہی روز ساٹھ یا ان سے کچھ کم محتاجوں کے کھانے کے بقدر صدقہ کسی ایک محتاج کو دے دے گا تو سب کے لئے ادا نہیں ہوگا بلکہ ایک محتاج کے لئے ادا ہوگا۔

ساٹھ محتاجوں کو کھانا کھلانے کے سلسلہ میں گیسوں کی روٹی بغیر سالن کے کافی ہو جاتی ہے یعنی اگر ساٹھ محتاجوں کو صرف گیسوں کی روٹی ہی بغیر سالن کے پیٹ بھر کر کھلا دی جائے تو حکم پورا ہو جائے گا بخلاف جو کی روٹی کے کہ اس کے ساتھ سالن ضروری ہے کیونکہ جو کی روٹی سخت ہونے کی وجہ سے عادیہ بغیر سالن کے پیٹ بھر کر نہیں کھائی جاسکتی جب کہ گیسوں کی روٹی بغیر سالن کے بھی پیٹ بھر کر کھائی جاسکتی ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ گیسوں کی روٹی اپنی سالن خود اپنے اندر رکھتی ہے لہذا جس شخص نے گیسوں کی روٹی کے ساتھ سالن مانگا وہ بھوکا نہیں ہے۔

ایک شرط یہ بھی ہے کہ جن ساٹھ محتاجوں کو کھانا کھلایا جائے وہ سب بھوکے ہوں ان میں سے کوئی پیٹ بھرا نہ ہو اگر کوئی پیٹ بھرا ہوگا اور بھوکے کی مانند نہیں کھائے گا تو اس کے بجائے کسی دوسرے بھوکے کو کھانا کھلانا ضروری ہوگا۔

ان شرائط کے مطابق محتاجوں کو کھانا کھلایا جائے پھر یہ کہ چاہے تو ہر محتاج کو نصف صاع یعنی ایک کلو گرام ۶۳۳ گرام گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کا ستودے دیا جائے چاہے ایک صاع یعنی تین کلو ۲۶۶ گرام جو یا انگور یا کھجور یا اس کی قیمت دی جائے اور چاہے اس طرح تمام محتاجوں کو ایک ہی وقت دے دیا جائے اور چاہے مختلف اوقات میں دیا جائے۔

کسی نے جانتے ہو جھٹے جماع کر کے یا قصداً کھا کر کئی روزے توڑے تو ان سب کے لئے ایک ہی کفارہ کافی ہوگا بشرطیکہ ان کے درمیان کفارہ ادا نہ کیا ہو مثلاً کسی شخص نے دس روزے توڑے اور ان کے درمیان کفارہ ادا نہ کیا تو ان دس روزوں کے لئے ایک کفارہ کافی ہو جائے گا اگر درمیان میں کوئی کفارہ ادا کیا تو پھر بعد کے روزوں کے لئے دوسرا کفارہ ضروری ہوگا پھر یہ کہ وہ توڑے ہوئے کئی روزے چاہے ایک رمضان کے ہوں اور چاہے دو رمضان کے ہوں اس بارے میں صحیح مسئلہ یہی ہے جیسا کہ درمختار میں مذکور ہے مگر بعض حضرات کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا حکم اس صورت کے لئے ہے جب کہ وہ روزے ایک ہی رمضان کے ہوں اگر وہ روزے کئی رمضان کے ہوں گے تو ہر رمضان کے لئے علیحدہ علیحدہ کفارہ ضروری ہوگا چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں اسی قول کو اختیار کیا گیا ہے۔

یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں ہے جن سے روزہ کی قضاء لازم آتی ہے: اس بارہ میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر کسی ایسی چیز سے روزہ فاسد ہو جو غذا کی قسم سے نہ ہو یا اگر ہو تو کسی شرعی عذر کی بناء پر اسے پیٹ یا دماغ میں پہنچایا گیا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے شرمگاہ کی شہوت پوری طرح ختم نہ ہوتی ہو جیسے حلق وغیرہ تو ایسی چیزوں سے کفارہ لازم نہیں ہوتا بلکہ صرف قضا ضروری ہے لہذا اگر روزہ دار رمضان میں کچے چاول اور خشک یا گندھا ہوا آٹا کھائے تو روزہ جاتا رہتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے اور اگر کوئی جو یا گیہوں کا آٹا پانی میں گوندھ کر اور اس میں شکر ملا کر کھائے تو اس صورت میں کفارہ لازم ہو جائے گا۔

کوئی یکدم بہت زیادہ نمک کھائے یا گل ارمنی کے علاوہ کوئی ایسی مٹی کھائے جس کو عادتاً کھایا نہیں جاتا یا گھٹلی یا روٹی یا اپنا تھوک نگل لے جو ریشم و کپڑے وغیرہ کے رنگ مثلاً زرد، سبزہ وغیرہ سے متغیر تھا اور اسے اپنا روزہ بھی یاد تھا یا کاغذ یا اس کے مانند ایسی کوئی چیز کھائی جو عادتاً نہیں کھائی جاتی یا کچی بھی یا اس کے مانند ایسا کوئی پھل کھائے جو پکنے سے پہلے عادتاً کھائے نہیں جاتے اور انہیں پکا کر یا نمک ملا کر نہیں کھایا یا ایسا تازہ اخروٹ کھایا جس میں مغز نہ ہو یا کنکر، لوہا، تانبا، سونا، چاندی، اور پتھر خواہ وہ زرد وغیرہ ہی ہوں نگل گیا تو ان صورتوں میں کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف قضا لازم ہوگی اسی طرح اگر کسی نے حقنہ کر یا یا ناک میں دو ڈالی یا منہ میں دو رکھی اور اس میں سے کچھ حلق میں اتر گئی اور یا کانوں میں تیل ڈالا تو ان صورتوں میں بھی صرف قضا لازم آئے گی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

کان میں جان بوجھ کر پانی ڈالنے کے بارے میں مختلف اقوال ہیں ہدایہ ملتقی، درمختار، شرح وقایہ اور اکثر متون میں مذکور ہے کہ اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا مگر قاضی خان اور فتح القدیر میں لکھا ہے کہ اس بارے میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ روزہ جاتا رہتا ہے اور قضا لازم آتی ہے۔

پیٹ کے زخم میں دوا ڈالی اور وہ پیٹ میں پہنچ گئی یا سر کے زخم میں دوا ڈالی اور وہ دماغ میں پہنچ گئی یا حلق میں بارش کا پانی یا برف چلا گیا اور اسے قصداً نہیں نگلا بلکہ از خود حلق میں سے نیچے اتر گیا یا چوک میں روزہ جاتا رہا مثلاً کلی کرتے ہوئے پانی حلق کے نیچے اتر گیا یا ناک میں پانی دیتے ہوئے دماغ کو چڑھ گیا یا کسی نے زبردستی روزہ توڑ دیا خواہ جماع ہی کے سبب سے یعنی

خاوند نے زبردستی بیوی سے جماع کیا یا بیوی نے زبردستی خاوند سے جماع کر لیا تو ان سب صورتوں میں بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا بلکہ صرف قضا لازم ہوگی ہاں جماع کے سلسلہ میں زبردستی کرنے والے پر کفارہ لازم ہوگا اور جس کے ساتھ زبردستی کی گئی اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔

الونڈی (خواہ حرم یا منکوحہ) خدمت و کام کاج کی وجہ سے بیمار ہو جانے کے خوف سے روزہ توڑ ڈالے تو اس پر قضا لازم ہوگی اسی طرح اگر لونڈی اس صورت میں روزہ توڑ ڈالے جب کہ کام کاج مثلاً کھانا پکانا یا کپڑا وغیرہ دھونے کی وجہ سے ضعف و توانائی لاحق ہوگئی تو اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی اس ضمن میں یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہئے کہ اگر کسی لونڈی کو اس کا آقا کسی ایسے کام کے لئے کہے جو ادائے فرض سے مانع ہو تو اس کا کہنا مانع سے انکار کر دینا چاہئے۔

کسی نے روزہ دار کے منہ میں سونے کی حالت میں پانی ڈال دیا یا خود روزہ دار نے سونے کی حالت میں پانی پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا واجب ہوگی اس مسئلہ کو بھول کر کھاپی لینے کی صورت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ اگر سونے والا یا وہ شخص کہ جس کی عقل جاتی رہی ہو کوئی جانور ذبح کرے تو اس کا مذبحہ کھانا حلال نہیں ہے اس کے برخلاف اگر کوئی ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا جائز ہے اسی طرح یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ بھول کی حالت میں کھانے پینے والے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں کوئی شخص سونے کی حالت میں کھاپی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔

بھول کر روزے میں کچھ کھاپی لیا پھر اس نے بعد قصداً کھایا یا بھول کر جماع کر لیا اور اس کے بعد پھر قصداً جماع کیا یا دن میں روزہ کی نیت کی پھر قصداً کھاپی لیا یا جماع کیا یا رات ہی سے روزہ کی نیت کی پھر صبح ہو کر سفر کیا اور پھر اس کے بعد اقامت کی نیت کر لی اور کچھ کھاپی لیا اگرچہ اس صورت میں اس کے لئے روزہ توڑنا جائز نہیں تھا یا رات سے روزہ کی نیت کی صبح کو مقیم تھا پھر سفر کیا اور مسافر ہو گیا اور حالت سفر میں قصداً کھایا یا جماع کیا اگرچہ اس صورت میں اس کے لئے روزہ توڑنا جائز نہیں تھا تو ان تمام صورتوں میں صرف قضا لازم ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا مسئلہ مذکورہ میں ”حالت سفر میں کھانے“ کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص سفر شروع کر دینے کے بعد پھر اپنی کوئی بھولی ہوئی چیز لینے کے لئے اپنے گھر واپس آئے اور اپنے مکان میں یا اپنے شہر و اپنی آبادی سے جدا ہونے سے پہلے قصداً کھالے تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔

تمام دن کھانے پینے اور دوسری ممنوعات روزہ سے رکراہا مگر نہ تو اس نے روزہ کی نیت کی اور نہ افطار کیا یا کسی شخص نے سحری کھائی یا جماع کیا اس حالت میں کہ طلوع فجر کے بارے میں اسے شک تھا حالانکہ اس وقت فجر طلوع ہو چکی تھی یا کسی شخص نے غروب آفتاب کے ظن غالب کے ساتھ افطار کیا حالانکہ اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوا تھا تو ان دونوں صورتوں میں صرف قضا واجب ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا اور اگر غروب آفتاب میں شک ہونے کی صورت میں افطار کیا اور حالانکہ اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوا تھا تو اس صورت میں کفارہ لازم ہونے کے بارے میں دو اقوال ہیں جس میں سے فقہ ابو جعفر کا مختار یہ ہے کہ غروب آفتاب کے شک کی صورت میں کفارہ لازم ہوگا اس طرح اگر کسی شخص کا ظن غالب یہ ہو کہ آفتاب غروب نہیں ہوا ہے مگر اس کے باوجود وہ روزہ افطار کرے اور حقیقت میں بھی سورج غروب نہ ہوا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔

جانور یا میت کے ساتھ (نعوذ باللہ) فعل بد کرنے کے سبب انزال ہو گیا یا کسی کی ران یا ناف یا ہاتھ کی رگڑ سے منی گرائی یا کسی کو چھونے یا اس کا بوسہ لینے کی وجہ سے انزال ہو گیا یا غیر اداۓ رمضان کا روزہ توڑا تو ان سب صورتوں میں کفارہ واجب

نہیں ہوگا بلکہ قضا لازم ہوگی اسی طرح اگر کسی نے روزہ دار عورت کے ساتھ اس کے سونے کی حالت میں جماع کیا تو اس عورت کا روزہ جاتا رہے گا اور اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا یا کسی عورت نے رات سے روزہ کی نیت کی اور جب دن ہوا تو دیوانی ہوگئی اور اس کی دیوانگی کی حالت میں کسی نے اس سے جماع کیا تو اس صورت میں اس عورت پر اس روزہ کی قضا لازم ہوگی۔

اپنی شرمگاہ میں پانی یا دوائی شپکانی یا کسی نے تیل یا پانی سے بھیگی ہوئی انگلی اپنے مقعد میں داخل کی یا کسی نے اس طرح استنجاء کیا کہ پانی حقنہ کی جگہ تک پہنچ گیا اگرچہ ایسا کم ہوتا ہے یا استنجاء کرنے میں زیادتی و مبالغہ کی وجہ سے پانی فرج داخل تک پہنچ گیا تو قضا واجب ہوگی۔

بواسیر والے کے سے باہر نکل آئیں اور وہ ان کو دھوئے تو اگر ان مسوں کو اوپر اٹھنے سے پہلے خشک کر لیا جائے تو ان کے اوپر چڑھ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹ گا کیونکہ اس طرح پانی بدن کے ایک ظاہری حصہ پر پہنچا تھا اور پھر بدن کے اندرونی حصہ میں پہنچنے سے پہلے زائل ہو گیا ہاں اگر سے اوپر چڑھنے سے پہلے خشک نہ ہوں گے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔

تیل یا پانی سے ترکی ہوئی انگلی اپنی شرمگاہ کے اندرونی حصے میں داخل کرے گی یا کوئی شخص روئی یا کپڑا یا پتھر اپنی دبر میں داخل کرے گا یا کوئی عورت ان چیزوں کو اپنی شرمگاہ کے اندرونی حصہ میں داخل کرے گی اور یہ چیزیں اندر غائب ہو جائیں گی تو روزہ جاتا رہے گا اور قضا لازم ہوگی۔ ہاں اگر لکڑی وغیرہ کا ایک سرا ہاتھ میں رہے یا یہ چیزیں عورت کی شرمگاہ کے بیرونی حصہ تک پہنچیں تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اسی طرح اگر اس کا ایک سرا ہاتھ میں نہ ہو بلکہ سب نکل جائے تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔

قصد اپنے فعل سے کسی چیز کا دھواں اپنے دماغ یا اپنے پیٹ میں داخل کرے گا تو بعید نہیں کہ کفارہ بھی لازم ہو جائے کیونکہ ان کا دھواں نہ صرف یہ کہ قابل انتفاع ہے بلکہ اکثر دواء بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح سگریٹ، بیڑی اور حقہ کا دھواں داخل کرنے کی صورت میں بھی کفارہ لازم ہو سکتا ہے۔

قصد آقے کی خواہ وہ منہ بھر کر نہ آئی ہو تو اس کا روزہ جاتا رہے گا اور قضا لازم آئے گی اس بارے میں روایت یہی ہے لیکن حضرت امام یوسفؒ فرماتے ہیں کہ قصد آقے کرنے کی صورت میں روزہ فاسد ہوگا اور قضا لازم ہوگی جب کہ قے منہ بھر کر آئی ہو اگر منہ بھر کر نہ آئی تو نہ روزہ فاسد ہوگا اور نہ قضا لازم ہوگی چنانچہ زیادہ صحیح اور مختار یہی قول ہے۔

خود بخود منہ بھر کر قے آئی اور وہ اسے نگل گیا یا کسی شخص نے دانتوں میں انگی ہوئی کوئی چیز جو ایک چنے کے بقدر یا اس سے زیادہ تھی کھائی یا کسی شخص نے رات سے نیت نہیں کی دن میں بھی اس نے نیت نہیں کی تھی کہ بھول کر کچھ کھالیا پی لیا اور اس کے بعد اس نے روزہ کی نیت کی تو ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ہوگا اور قضا لازم ہوگی یا اسی طرح کوئی روزہ دار بے ہوش ہو جائے اور خواہ وہ مہینہ بھر تک بے ہوش رہے تو اس پر قضا لازم ہوگی ہاں اس دن کے روزہ کی قضا لازم نہیں ہوگی جس دن میں یا جس رات سے بیہوشی شروع ہوئی ہو کیونکہ مسلمان کے بارے میں نیک گمان ہی کرنا چاہئے اس لئے ہو سکتا ہے اس نے رات میں نیت کر لی ہو اور اس طرح اس دن کا روزہ پورا ہو جائے گا اب اس کے بعد جتنے دنوں بیہوش رہے گا ان کی قضا کرے گا۔ بیہوشی شروع ہونے والے دن کے بارے میں بھی اگر یہ یقین ہو کہ نیت کی تھی تو اس دن کے روزہ کی بھی قضا ضروری ہوگی۔ بیہوشی کے

دنوں کے روزوں کی قضا اس لئے ضروری ہوگی کہ اگرچہ اس نے کچھ کھایا یا نہیں مگر چونکہ روزہ کی نیت نہیں پائی گئی اس لئے بیہوشی کی حالت میں اس کا بغیر نیت کچھ نہ کھانا پینا اور تمام چیزوں سے رکے کافی و کارآمد نہیں ہوگا اگر کسی شخص پر رمضان کے پورے مہینے میں دیوانگی طاری رہی تو اس پر قضا واجب نہیں ہوگی ہاں اگر پورے مہینے دیوانگی طاری نہ رہی تو پھر قضا ضروری ہوگی اور اگر کسی شخص پر پورے مہینے میں اس طور دیوانگی طاری رہی کہ دن میں یارات میں نیت کا وقت ختم ہو جانے کے بعد اچھا ہو جاتا جو جب بھی قضا ضروری نہیں ہوگی بلکہ یہ پورے مہینے دیوانگی طاری رہنے کے حکم میں ہوگا۔

رمضان میں روزے کی نیت نہیں کی اور پھر اس نے دن میں کھایا یا تو امام اعظم ابوحنیفہؒ کے قول کے مطابق اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف قضا لازم ہوگی مگر صاحبین کا قول یہ ہے کہ کفارہ واجب ہوگا۔

روزہ ٹوٹ گیا خواہ کسی عذر ہی کی بناء پر ٹوٹا ہو پھر وہ عذر بھی ختم ہو گیا ہو تو اب اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ دن کے بقیہ حصہ میں رمضان کے احترام کے طور پر کھانے پینے میں ممنوع دوسری چیزوں سے اجتناب کرے اسی طرح اس عورت کو بھی دن کے بقیہ حصہ میں روزہ میں ممنوع چیزوں سے اجتناب ضروری ہے جو حیض یا نفاس میں مبتلا تھی اور طلوع فجر کے بعد پاک ہو گئی ہو نیز مسافر جو دن میں کسی وقت مقیم ہو گیا ہو بیمار جو اچھا ہو گیا ہو دیوانہ شخص جس کی دیوانگی جاتی رہی ہو لڑکا جو بالغ ہو اور کافر جو اسلام قبول کر لے ان سب لوگوں کو بھی دن کے بقیہ حصہ میں کھانے پینے دوسری ممنوع چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ان سب پر اس دن کے روزہ کی قضا لازم ہوگی البتہ مؤخر الذکر دونوں پر قضا لازم نہیں ہوگی۔

حیض و نفاس میں مبتلا ہو یا جو شخص بیماری کی حالت میں ہو جو شخص حالت سفر میں ہو ان کے لئے کھانے پینے سے اجتناب ضروری نہیں ہے تاہم ان کے لئے بھی یہ حکم ہے کہ عام نگاہوں سے بچ کر پوشیدہ طور پر کھائیں پئیں۔

ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے: روزہ دار کے لئے کسی چیز کا چکھنا (یعنی چکھ کر تھوک دینا) ذخیرہ میں منقول ہے کہ روزہ دار کے لئے بلا ضرورت کسی چیز کا چکھنا مکروہ ہے ہاں عذر کی صورت میں مکروہ نہیں ہے مثلاً کوئی شخص کھانے پینے کی کوئی چیز خریدے اور یہ خوف ہو کہ اگر اسے چکھ کر نہیں دیکھوں گا تو دھوکہ کھا جاؤں گا یا یہ چیز میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگی تو اس صورت میں اگر وہ اس چیز کو چکھ لے تو مکروہ نہیں ہوگا۔

فتاویٰ نسفی میں منقول ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند بدخلق اور ظالم ہو اور جو کھانے میں نمک کی کمی و بیشی پر اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتا ہو تو اس کے لئے بھی جائز ہے کہ وہ کھانا چکھ لے تاکہ اپنے خاوند کے ظلم و تشدد سے بچ سکے اور اگر خاوند نیک خلق و نیک مزاج ہو تو پھر عورت کے لئے چکھنا جائز نہیں ہوگا یہی حکم لونڈی کا بھی ہے بلکہ وہ نوکر و ملازم بھی اس حکم میں شامل ہیں جو کھانا پکانے پر مقرر ہیں۔

کسی چیز کا چبانا (بلا عذر) مکروہ ہے مثلاً کوئی عورت چاہے کہ روٹی وغیرہ چبا کر اپنے چھوٹے بچے کو دیدے تو اگر اس کے پاس کوئی ہوشیار بچی یا کوئی حائضہ ہو تو اس سے چبوا کر بچے کو دیدے خود نہ چبائے اس صورت میں خود چبا کر دینا مکروہ ہے ہاں اگر غیر روزہ دار ہاتھ نہ لگے تو پھر خود چبا کر دیدے اس صورت میں مکروہ نہیں ہوگا۔

روزہ دار کو مصطلکی چبانا مکروہ ہے خواہ مرد یا عورت کیونکہ اس کے چبانے سے روزہ ختم کرنے یا روزہ نہ رکھنے کا اشتباہ ہوتا ہے ویسے تو مصطلکی مرد کو غیر روزہ کی حالت میں بھی چبانا مکروہ ہے ہاں کسی عذر کی بناء پر اور وہ بھی خلوت میں چبانا جائز ہے بعض

حضرات نے کہا ہے کہ مصطلکی چنانہ مردوں کے لئے مباح ہے جب کہ عورتوں کے لئے مستحب ہے کیونکہ وہ ان کا حق میں مساوی کے قائم مقام ہے۔

روزہ کی حالت میں بوسہ لینا اور عورتوں کے ساتھ مباشرت یعنی انکے گلے لگانا اور چمکانا وغیرہ مکروہ ہے بشرطیکہ انزال کا خوف ہو یا اپنے نفس و جذبات کے بے اختیار ہو جانے کا اور اس حالت میں جماع کر لینے کا اندیشہ ہو اگر یہ خوف و اندیشہ نہ ہو تو پھر مکروہ نہیں۔

جانے تو جھٹے منہ میں تھوک جمع کرنا اور اسے نکل جانا مکروہ ہے اسی طرح روزہ دار کو وہ چیزیں اختیار کرنا بھی مکروہ ہے جس کی وجہ سے ضعف لاحق ہو جانے کا خوف ہو جیسے فصد، پچھنے وغیرہ ہاں اگر فصد اور پچھنے کی وجہ سے ضعف ہو جانے کا احتمال نہ ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے۔

سرمہ لگانا، مونچھوں کو تیل لگانا اور مساوی کرنا خواہ زوال کے بعد ہی مساوی کی جائے اور یہ کہ خواہ مساوی تازی ہو یا پانی میں بھیگی ہوئی ہو مکروہ نہیں ہے۔

وضو کے علاوہ کلی کرنی اور ناک میں پانی دینا مکروہ نہیں ہے اسی طرح غسل کرنا اور تراوٹ و ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے بھگا ہوا کپڑا بدن پر لپیٹنا مکروہ نہیں ہے، مفتی بہ قول یہی ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ سے یہ بات ثابت ہے چنانچہ یہ روایت آئندہ صفحات میں آئے گی۔ روزہ دار کے لئے جو چیزیں مستحب ہیں، سحری کھانا، سحری کو دیر سے کھانا اور وقت ہو جانے پر افطار میں جلدی کرنا جب کہ فضا ابر آلود نہ ہو، جس دن فضا ابر آلود ہو اس دن افطار میں احتیاط یعنی دو تین منٹ کی تاخیر ضروری ہے۔

اور روزہ دار کو تین چیزیں مستحب ہیں: ۱۔ سحری کھائی۔ ۲۔ سحری میں دیر کرنی اور ۳۔ افطار میں جلدی کرنی۔ ابر کے دن علاوہ اور ابر کے روز احتیاط ضروری ہے۔

فصل: ایسے اعذار کا بیان جن کی بناء پر روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور وہ دس ہیں:

۱۔ بیماری۔ ۲۔ سفر۔ ۳۔ آکراہ زبردستی کرنا۔ ۴۔ حمل۔ ۵۔ دودھ پلانا۔ ۶۔ بھوک۔ ۷۔ پیاس۔ ۸۔ بہت زیادہ بڑھاپا۔ ۹۔ حیض۔ ۱۰۔ نفاس۔

اب ان اعذار کو متصل بیان کیا جاتا ہے:

بیماری:

روزہ رکھنے سے کسی نئے مرض کے پیدا ہو جانے یا موجود مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنا چاہئے۔ اسی طرح اگر یہ گمان ہو کہ روزہ رکھنے سے صحت و تندرستی دیر میں حاصل ہوگی تو بھی روزہ نہ رکھنا چاہئے کیونکہ بسا اوقات مرض کی زیادتی اور اس میں طوالت ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے اس لئے ان سے اجتناب ضروری ہے۔

مرض نام ہے اس چیز کا جو طبیعت کے اتار چڑھاؤ کا باعث ہوتی ہے اور جس کے سبب طبیعت کا سکون کرب و بے چینی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ کیفیت پہلے اندرونی طور پر محسوس ہوتی ہے پھر اس کا اثر جسم پر ظاہر ہوتا ہے لہذا مرض کسی بھی قسم کا ہو خواہ آنکھ دکھنے اور جسم و بدن کے کسی زخم کی صورت میں ہو یا درد سر و بخار وغیرہ کی شکل میں، جب اس میں زیادتی یا اس کے طول پکڑ

جانے کا اندیشہ ہوگا تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی بلکہ روزہ کی نیت کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مرض پیدا ہو جائے مثلاً کسی کو سانپ بچھو کاٹ لے یا بخار چڑھ آئے یا درد سر ہونے لگے تو اس کو اس دن کا روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ بہتر یہی ہے کہ روزہ توڑ دیا جائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی غازی اور مجاہد کو رمضان کے مہینہ میں دشمنان دین سے لڑنا ہو اور اسے اندیشہ ہو کہ روزہ کی وجہ سے ضعف لاحق ہو جائے گا جس کی بناء پر لڑائی میں نقصان پیدا ہوگا تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے خواہ مسافر ہو یا مقیم۔ اسی پر علماء نے اس مسئلہ کو بھی قیاس کیا ہے کہ جس شخص کو باری کا بخار آتا ہو اور وہ باری کے دن بخار چڑھنے سے پہلے اپنا روزہ ختم کر دے اس خوف کی بناء پر کہ آج بخار چڑھے گا جس کی وجہ سے ضعف لاحق ہو جائے گا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور اس دن بخار نہ بھی آئے تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا جب کہ فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے کہ دونوں صورتوں میں کفارہ لازم ہوگا۔

اگر بازار والے رمضان کی تیس تاریخ کو طبل نقارہ یا گولے وغیرہ کی آوازیں اور یہ گمان کر کے کہ یہ آج عید کا دن ہونے کا اعلان ہے روزہ توڑ ڈالیں اور پھر بعد میں معلوم ہو کہ یہ آج عید کا دن ہونے کا اعلان نہیں تھا بلکہ کسی اور سبب سے طبل و نقارہ بجایا گیا تھا یا گولہ داغا گیا تھا تو اس صورت میں بھی ان پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

سفر:

جائز ہو یا ناجائز، بے مشقت ہو جیسے پیادہ یا پاگھوڑے وغیرہ کی سواری پر ہر حال میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے مگر بے مشقت سفر میں مستحب یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے بشرطیکہ اس کے تمام رفقاء سفر بغیر روزہ نہ ہوں اور سب کا خرچ مشترک نہ ہو، ہاں اگر اسکے تمام رفقاء سفر روزہ نہ رکھیں اور سب کا خرچ بھی مشترک ہو تو پھر روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہوگا تاکہ پوری جماعت کی موافقت رہے۔

کوئی طلوع فجر سے پہلے سفر شروع کر کے مسافر ہو جائے تو اس دن کا روزہ نہ رکھنا اس کے لئے مباح ہے ہاں اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں طلوع فجر کے بعد سفر شروع کرے تو اب اس کے لئے روزہ نہ رکھنا مباح نہیں ہوگا البتہ بیمار ہو جانے کی صورت میں طلوع فجر کے بعد سفر شروع کرنے والے کے لئے روزہ نہ رکھنا مباح ہوگا اور بہر صورت کفارہ لازم نہیں ہوگا بلکہ صرف قضا واجب ہوگی خواہ سفر کی حالت میں بیماری کی وجہ سے روزہ توڑے یا بغیر بیماری کے۔

اکراہ (یعنی زبردستی):

اگر کوئی روزہ نہ رکھنے پر مجبور کیا جائے اس کو بھی شریعت نے روزہ نہ رکھنے یا روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے مثلاً کوئی شخص کسی روزہ دار کو زبردستی چھڑا کر اس کے منہ میں کوئی چیز ڈال دے یا کوئی شخص روزہ دار کو مجبور کرے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا یا تمہیں ضرب شدید پہنچائی جائے گی یا تمہارے جسم کا کوئی عضو کاٹ ڈالا جائے گا تو اس صورت میں اس کے لئے روزہ توڑنا یا روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔

حاملہ خاتون:

حاملہ کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے بشرطیکہ اپنی یا اپنے بچے کی مضرت کا خوف ہو یا عقل میں فتور آ جانے کا اندیشہ ہو مثلاً اگر حاملہ یا خوف ہو کہ روزہ رکھنے سے خود اپنی دماغی و جسمانی کمزوری انتہاء کو پہنچ جائے گی یا ہونے والے بچے کی زندگی اور صحت پر اس کا برا اثر پڑے گا یا خود کیا بیماری و ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گی تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ روزہ قضا کر دے۔

ارضاع (یعنی دودھ پلانا):

جیسے حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے خواہ وہ بچہ اسی کا ہو یا کسی دوسرے کے بچہ کو باجرت یا مفت دودھ پلاتی ہو بشرطیکہ اپنی صحت و تندرستی کی خرابی یا بچے کی مضرت کا خوف ہو۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس بارے میں ”دودھ پلانے والی عورت“ سے صرف دایہ ہی مراد ہے غلط ہے کیونکہ حدیث میں مطلقاً دودھ پلانے والی عورت کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے چاہے وہ ماں ہو یا دایہ چنانچہ ارشاد ہے:

ان الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلوة وعن الحبلی والمرضع الصوم

”اللہ عزوجل نے مسافر کو روزہ اور آدھی نماز معاف کی، بعینہ حاملہ و دودھ پلانے والی کے لئے بھی روزہ معاف کیا۔“

اگر اس بارے میں کوئی تخصیص ہوتی تو قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ تخصیص ”دایہ“ کی بجائے ”ماں“ کے لئے ہوتی کیونکہ دایہ کے لئے کسی بچہ کو دودھ پلانا واجب اور ضروری نہیں ہے وہ تو صرف اجرت کے لئے دودھ پلاتی ہے اگر وہ چاہے تو اس کام کو چھوڑ سکتی ہے جب کہ ماں کا معاملہ برعکس ہے اپنے بچے کو دودھ پلانا اس پر دایہ واجب ہے جب کہ باپ غریب ہو۔ ارضاع کو دوا پینا جائز ہے جب کہ طبیب و ڈاکٹر کہے کہ یہ دوا بچے کو فائدہ کرے گی مسئلہ بالا میں بتایا گیا ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لئے روزہ نہ رکھنا جائز ہے جب کہ اسے اپنی یا اپنے بچے کی مضرت کی گمان غالب ہو یا یہ کہ مسلمان طبیب حاذق جس کا کردار عقیدہ و عمل کے اعتبار سے قابل اعتماد ہو یہ بات کہے کہ روزہ کی وجہ سے ضرر پہنچے گا۔

بھوک اور پیاس:

بھوک و پیاس کا اس قدر غلبہ ہو کہ اگر کچھ نہ کھائے یا پانی نہ پئے تو جان جاتی رہے یا عقل میں فتور آ جائے یا ہوش و حواس ختم ہو جائے تو اس کے لئے بھی روزہ رکھنا جائز ہے اور روزہ کی نیت کر لینے کے بعد اگر ایسی حالت پیدا ہو جائے تب بھی اس کو اختیار ہے اگر روزہ توڑ دے گا تو کفارہ لازم نہ ہوگا صرف قضا واجب ہوگی مگر شرط یہ ہے کہ روزہ دار نے از خود اپنے نفس کو اس قدر مشقت میں مبتلا کر کے یہ حالت پیدا نہ کر دی ہو مثلاً کسی شخص نے از خود اپنے نفس کو بایں طور مشقت میں مبتلا کیا کہ بغیر کسی شدید ضرورت کے کوئی لمبی چوڑی دوڑ لگائی جس کی وجہ سے پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر روزہ توڑ ڈالا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اگرچہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔

حضرت علی بن احمد سے پیشرو مزدوری کرنے والوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کوئی مزدور یہ جانے کہ اگر میں اپنے اس کام میں مشغول ہوں گا تو ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں گا جس میں روزہ نہ رکھنا مباح ہے درآئیکہ وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا

پیٹ پالنے کیلئے اس کام کے کرنے پر مجبور ہے تو آیا بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے اس کے لئے کھانا مباح ہے یا نہیں؟ تو علی بن احمدؒ نے اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔

لیکن اس بارے میں جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے تو درمختار میں لکھا ہے کہ اس صورت میں اگر اسے مذکورہ بالا خوف ہو تو اسے چاہئے کہ وہ آدھے دن تو محنت و مزدوری کرے اور آدھے دن آرام کرے تاکہ اسبابِ معیشت بھی فراہم ہو جائیں اور روزہ بھی ہاتھ سے نہ جائے۔

شیخ فانی (بہت بڑھاپا):

”شیخ فانی اور بڑھیا فانی“ کے لئے بھی جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں ”شیخ فانی اور بڑھیا فانی“ اس مرد اور عورت کو کہتے ہیں جو زندگی کے آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہوں، ادائیگی فرض قطعاً مجبور اور عاجز ہوں اور جسمانی طاقت و قوت روز بروز گھٹتی چلی جا رہی ہو یہاں تک کہ ضعف و ناتوانی کے سبب انہیں یہ قطعاً امید نہ ہو کہ آئندہ بھی کبھی روزہ رکھ سکیں گے۔

حیض و نفاس:

حیض یا نفاس میں مبتلا کے لئے بھی جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔

فدیہ:

مذکورہ بالا اعذار میں صرف شیخ فانی اور بڑھیا فانی کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں ہاں اس شخص کے لئے بھی فدیہ دینا جائز ہے جس نے ہمیشہ روزے رکھنے کی نذر مانی ہو مگر اس سے عاجز ہو یعنی کوئی شخص یہ نذر مانے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا مگر بعد میں وہ اسبابِ معیشت کے حصول یا کسی اور عذر کی وجہ سے اپنی نذر کو پورا نہ کر سکے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ روزے نہ رکھے البتہ ہر دن فدیہ دے دیا کرے ان کے علاوہ اور تمام اعذار کا مسئلہ یہ ہے کہ عذر زائل ہو جانے کے بعد روزوں کی قضا ضروری ہے فدیہ دینا درست نہیں یعنی فدیہ دینے سے روزہ معاف نہیں ہوگا اسی لئے اگر کوئی معذور اپنے عذر کی حالت میں مر جائے تو اس پر ان روزوں کے فدیہ کی وصیت کر جانا واجب نہیں ہے جو اس کے عذر کی وجہ سے فوت ہو جائے اور نہ اس کے وارثوں پر یہ واجب ہوگا کہ وہ فدیہ ادا کریں خواہ عذر یا بیماری کا ہو یا سفر کا مذکورہ بالا اعذار میں سے کوئی اور عذر ہاں اگر کوئی شخص اس حالت میں انتقال کرے کہ اس کا عذر زائل ہو چکا تھا اور وہ قضا روزے رکھ سکتا تھا مگر اس نے قضا روزے نہیں رکھے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان ایام کے روزوں کے فدیہ کی وصیت کر جائے جن میں مرض سے نجات پا کر صحت مند رہا تھا یا سفر پورا کر کے مقیم تھا اور یا جو بھی عذر رہا ہو وہ زائل ہو چکا تھا۔

اگر شیخ فانی سفر کی حالت میں انتقال کر جائے تو اس کی طرف اسے ان ایام کے روزوں کا فدیہ دینا ضروری نہیں ہوگا جن میں وہ مسافر رہا کیونکہ جس طرح اگر کوئی دوسرا شخص سفر کی حالت میں مر جائے تو اس کے لئے ایام سفر کے روزے معاف ہوتے ہیں اسی طرح اس کے لئے بھی ان ایام کے روزے معاف ہوں گے۔

جس شخص پر فدیہ لازم ہوا اور وہ فدیہ دینے پر قادر نہ ہو تو پھر آخری صورت یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے استغفار

کرے عجب نہیں کہ ارحم الراحمین اسے معاف کر دے۔

مقدار فدیہ: ہر دن کے روزے کے بدلے فدیہ نصف صاع یعنی ایک کلو ۶۳۳ گرام گہوں یا اس کی مقدار ہے فدیہ اور کفارہ میں جس طرح تملیک جائز ہے اسی طرح اباحت طعام بھی جائز ہے یعنی چاہے تو ہر دن کے بدلے مذکورہ بالا مقدار کسی محتاج کو دے دی جائے اور چاہے ہر دن دونوں وقت بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا جائے دونوں صورتیں جائز ہیں۔ صدقہ فطر کے برخلاف کہ اس میں زکوٰۃ کی طرح تملیک ہی ضروری ہے اس بارے میں یہ اصول سمجھ لیجئے کہ جو صدقہ لفاظ طعام یا طعام (کھلانے) کے ساتھ مشروع ہے اس میں تملیک اور اباحت دونوں جائز ہیں اور جو صدقہ لفظ ”ایتا“ یا ”ادا“ (دینے) کے ساتھ مشروع ہے اس میں تملیک شرط اور ضروری ہے اباحت قطعاً جائز نہیں ہے۔

قضاء روزے:

قضاء روزے پے در پے رکھنا شرط اور ضروری نہیں ہے تاہم مستحب ضرور ہے تاکہ واجب ذمہ سے جلد اتر جائے اسی طرح یہ بھی مستحب ہے کہ جس شخص کا عذر زائل ہو جائے وہ فوراً روزے شروع کر دے کیونکہ اس میں تاخیر مناسب نہیں ہے ویسے مسئلہ یہ ہے کہ قضاء روزوں کا معاذر زائل ہوتے ہی رکھنا بھی ضروری ہے اختیار ہے کہ جب چاہے رکھے۔ نماز کی طرح اس میں ترتیب بھی فرض نہیں ہے قضا روزے رکھے بغیر ادا کے روزے رکھے جاسکتے ہیں۔

یہ بات سمجھ لیجئے کہ شریعت میں تیرہ قسم کے روزے ہیں جن میں سے سات قسم کے روزے تو وہ ہیں جو علی الاطلاق یعنی پے در پے رکھے جاتے ہیں: ① رمضان کے مہینے کے روزے۔ ② کفارہ ظہار کے روزے۔ ③ کفارہ قتل کے روزے۔ ④ کفارہ یمین کے روزے۔ ⑤ رمضان میں قصد اتوڑے ہوئے روزوں کا کفارہ کے روزے۔ ⑥ نذر معین کے روزے۔ ⑦ اعتکاف واجب کے روزے۔

اور چھ قسم کے روزے ایسے ہیں جن میں اختیار ہے چاہے تو پے در پے رکھے جائیں چاہے متفرق طور پر یعنی ناغہ کے ساتھ: ① نفل روزے۔ ② رمضان کے قضا روزے۔ ③ متعہ کے روزے۔ ④ فدیہ حلق کے روزے۔ ⑤ جزاء عید کے روزے۔ ⑥ نذر مطلق کے روزے۔

یاد رکھو کہ نفل روزے کا بھی بغیر کسی عذر کے توڑ ڈالنا جائز نہیں ہاں اتنی بات ہے کہ نفل روزے شروع ہو جانے کے بعد واجب ہو جاتا ہے لہذا وہ کسی بھی حالت میں توڑا جائے گا تو اس کی قضا ضروری ہوگی ہاں پانچ ایام ایسے ہیں جن میں اگر نفل روزہ بعد شروع کر چکنے کے توڑ دیا جائے تو قضا واجب نہیں ہوتی، دو دن تو عید بقر عید کے اور تین دن تشریق (ذی الحجہ کی ۱۱، ۱۲، ۱۳ تاریخ) کے چونکہ ان ایام میں روزے رکھنے ممنوع ہیں لہذا ان ایام میں جب روزہ شروع ہی سے واجب نہیں ہوگا تو اس کے توڑنے پر قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔

اگر کوئی شخص ان پانچ ایام کے روزے کی نذر مانے یا پورے سال کے روزے کی نذر مانے تو ان صورتوں میں ان ایام میں روزے نہ رکھے جائیں بلکہ دوسرے دنوں میں ان کے بدلے قضا روزے رکھے جائیں۔

آخری مسئلہ یہ ہے کہ جب پچہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے کی تلقین کی جائے اور جب اس کی

عمر دس سال ہو جائے اور وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے اور اس کو زبردستی روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے جیسا کہ نماز کے بارے میں سختی کرنے کا حکم ہے۔

الفصل الاول:

روزہ کی حالت میں گناہوں سے بچنا چاہیے

۱/۱۸۸۸ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ

فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱۶/۴ - حدیث رقم ۱۹۰۳ - وابن ماجہ فی السنن ۵۳۹/۱ حدیث رقم ۱۶۸۹ - واحمد

فی المسند ۴۵۲/۲

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص براقام اور جھوٹ بولنا روزہ میں نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس شخص نے اپنا کھانا پینا چھوڑا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ غلط بولنے سے بچو اور غلط کام نہ کرو۔ روزے کی حالت میں یعنی جھوٹی گواہی دینی اور افتراء کرنا اور رغبت کرنی اور بہتان لگانا۔ خواہ بہتان زنا کا ہو یا کوئی اور لعنت کرنی اور ان کے مانند اور چیزیں جن سے انسان کو پرہیز کرنا واجب ہے۔ پس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جس روزے دار نے جھوٹ بولنا اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا ترک کر دے اس کو ابجال کا بیان یہ ہے کہ روزے سے مقصود خواہشات نفسانی کو توڑنا ہے اور نفس امارہ کو تابع بنانا ہے۔ پس جب اس نے برے قول و فعل نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کی طرف نظر عنایت نہیں کرتا۔ حاجت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ التفات نہ کرے گا اور اس کے روزے کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف التفات کیوں کرے گا حالانکہ اس نے اس چیز کو تو چھوڑ دیا جو غیر رمضان میں مباح تھی اور اس چیز کو اپنایا اور ارتکاب کیا جو اس پر ہر وقت میں حرام تھی اور مشائخ نے لکھا ہے کہ روزہ تین قسم پر ہے۔ ایک عوام کا روزہ ہے کہ وہ کھانا پینے سے باز رہے اور ایک روزہ خواص کا ہے کہ وہ اپنے تمام اعضاء کو اور خواص کو لذتوں اور خواہشات سے باز رکھے اور مکروہ چیزوں سے بلکہ وہ مباح چیزوں سے بھی بچتے ہیں بلکہ وہ ایسی مباح چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں جو کسر نفسی کے خلاف ہوں اور ایک روزہ اخص الخواص کا ہے وہ یہ ہے کہ سوائے حق بات کے ہر چیز سے باز رہے اس کے غیر کی طرف متوجہ نہ ہو۔

روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کی اجازت ہے

۲/۱۸۸۹ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيَسَيرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ

أَمَلَكُمْ لَا رِبَہ - (متفق علیہ)

اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۱۴۹/۴ - حدیث رقم ۱۹۲۷ - ومسلم فی صحیحہ ۷۷۷/۲ حدیث رقم (۱۱۸۶/۶۵) -
وابوداؤد فی السنن ۷۷۸/۲ حدیث رقم ۲۳۸۲ - وابن ماجہ ۵۳۸/۱ حدیث رقم ۱۶۸۷ - واحمد فی المسند ۴۲/۶ -
تذکرہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ بوسہ لیتے تھے اور بدن سے بدن لگاتے تھے یعنی اپنی بیوی
سے معاملہ کرتے تھے۔ اس حال میں کہ روزہ دار ہوتے تھے اور حضور ﷺ اپنی حاجت پر تم سے زیادہ قدرت رکھتے تھے۔ یہ
بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ روزے کی حالت میں بوس و کنار کر لیتے تھے حدیث پاک میں
حاجت سے مراد شہوت ہے۔ یعنی حضور ﷺ تمہاری بہ نسبت اپنی شہوت پر قابو پانے میں بہت زیادہ قادر تھے بوسے اور مباشرت
کے دوران صحبت کرنے سے رکے رہتے تھے اور حالانکہ اس سے رکنا مشکل ہے اور اہل علم نے اس میں اختلاف کیا ہے اور
ہمارے نزدیک بوسہ لینا اور مساس کرنا اور عورت کے بدن کے ساتھ بدن لگانا مکروہ ہے۔ بشرطیکہ جماع کا یا انزال کے ہو جانے
کا خوف ہو۔ اگر خوف نہ ہو تو مکروہ نہیں ہے۔

غسل کیے بغیر روزہ رکھنے کی اجازت ہے

۳/۱۸۹۰ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ
غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ۔ (متفق علیہ)

اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۱۵۳/۴ - حدیث رقم ۱۹۳۰ - ومسلم فی صحیحہ ۷۸۰/۲ حدیث رقم (۷۶ - ۱۱۰۹) -
وابوداؤد فی السنن ۷۸۱/۲ حدیث رقم ۲۳۸۸ - والترمذی ۱۴۹/۳ حدیث رقم ۷۷۹ - وابن ماجہ ۵۴۴/۱ حدیث رقم
۱۷۰۴ - والدارمی ۲۳/۲ حدیث رقم ۱۷۲۵ - واحمد فی المسند ۳۰۸/۶ -

تذکرہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ حالت جنابت میں صبح کرتے تھے اور یہ جنابت احتلام کے
باعث نہیں ہوتی تھی۔ پس آپ ﷺ (ایسی حالت میں) غسل کرتے اور روزہ رکھے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا
ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل کیے بغیر روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ حضور ﷺ کو نہانے کی ضرورت
جماع کی وجہ سے ہوتی تھی نہ کہ احتلام کی وجہ سے اس کے باوجود آپ ﷺ روزہ رکھتے تھے اور پھر نہا لیتے۔ پس اس سے معلوم ہوا
کہ حالت جنابت میں روزے کی نیت کرنا اور صبح کو نہانا منع نہیں ہے اور جماع کی وجہ سے احتلام کی وجہ سے اور جنابت اختیاری
ہوتی ہے جب اس میں روزہ درست ہوا۔ تو احتلام کی وجہ سے جو نہانے کی حاجت اس میں بطریق اولیٰ درست ہوگا۔ پس اگر
روزے کی ہالت میں احتلام ہو گیا۔ تو بھی مضرت نہیں ہے اور بغیر احتلام کے اس لیے کہا کہ انبیاء علیہم السلام کو احتلام نہیں ہوتا تھا اس لیے
کہ وہ شیطان کی علامت ہے اس لیے کہ وہ شیطان کے آنے کی علامت ہے خوب میں اور وہ اس سے امن تھے۔

روزے کی حالت میں سیکنی لگوانے کی اجازت ہے

۳/۱۸۹۱ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ صَائِمٌ۔

(متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۷۴/۴ - حدیث رقم ۱۹۳۸ - وابوداؤد فی السنن ۷۷۳/۲ حدیث رقم ۲۳۷۳ - والترمذی

۱۴۶/۳ - حدیث رقم ۷۷۵ - وابن ماجہ ۵۳۷/۱ حدیث رقم ۱۶۸۲ -

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ نے احرام کی حالت میں اور روزے کی حالت میں سیکنی بھری ہوئی کھنچوائی۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے شیخ جزریؒ نے کہا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مراد یہ ہے حضور ﷺ کی حالت احرام میں روزے سے تھے۔ پھر بھری ہوئی سیکنی لی۔ ابوداؤد نے اس حدیث سے یہ مطلب لیا ہے: اِنَّهُ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ مُّحْرِمٌ۔ اور مظہر نے کہا ہے کہ احرام والے کو سیکنی لگانا جائز ہے بشرطیکہ بال نہ ٹوٹے اور اسی طرح روزے دار کو بھی جائز ہے تینوں اماموں کے نزدیک روزہ دار کو سیکنی لگوانا بلا کراہت کے جائز ہے اور امام احمدؒ فرماتے ہیں بھری ہوئی سیکنی لگانے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا۔

اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیا تو معاف ہے

۵/۱۸۹۲ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ

شَرِبَ فَلَيْتُمْ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطَعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۵۵/۴ - حدیث رقم ۱۹۳۳ - ومسلم فی صحیحہ ۸۰۹/۲ حدیث رقم (۱۷۱ - ۱۵۵)۔

وابوداؤد فی السنن ۷۸۹/۲ حدیث رقم ۲۳۹۸ - والترمذی ۱۰۰/۳ حدیث رقم ۷۲۱ - والدارمی ۲۳/۲ حدیث رقم

۱۷۲۶ - واحمد فی المسند ۳۹۵/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص روزہ کی حالت میں بھول کر کھاپی لے اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: یہ حکم عام ہے ہر روزے کا فرض ہو یا نفل بھول کر کھالے یا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ائمہ کرام کا مذہب یہی ہے۔ مگر امام مالکؒ کہتے ہیں رمضان کے روزہ کی قضاء لازم ہے اور ہدایہ میں لکھا ہے کہ جب کھانے پینے میں یہ حکم ثابت ہے تو جماع میں بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ کی حانت میں بھول کر جماع کر لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

مذکورہ مسئلہ میں کفارہ اپنی ذات و اہل و عیال پر خرچ کرنا صحابی کی خصوصیت تھی

۶/۱۸۹۳ وَعَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ

اللّٰهُ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَىٰ أَمْرٍ آتَىٰ وَآنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعِقُّهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مَسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ جُلِسْ وَمَكَّتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ آيِنَ السَّائِلُ قَالَ أَنَا قَالَ خُذْ هَذَا فَقَصَدَنِي بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَىٰ أَفْقَرٍ مِنِّي يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ مَا بَيْنَ لَا بَيْتَهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَصَحَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ بَدَتْ أَنْبَاؤُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعَمَهُ أَهْلَكَ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۶۳/۴ - حدیث رقم ۱۹۳۶ - ومسلم فی صحیحہ ۷۸۱/۲ حدیث رقم (۸۱) - (۱۱۱۱) -
وابوداؤد فی السنن ۷۸۳/۲ حدیث رقم ۲۳۹۰ - والترمذی ۱۰۲/۳ حدیث رقم ۷۲۴ - وابن ماجہ ۵۳۴/۱ حدیث رقم ۱۶۷۱ - والدارمی ۱۹/۲ حدیث رقم ۱۷۱۶ - ومالك فی الموطأ ۲۹۶/۱ حدیث رقم ۲۸ من كتاب الصيام - واحمد فی المسند ۲۴۱/۲ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور ﷺ کے پاس بیٹھے تھے کہ چاک ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول! میں ہلاک ہو گیا (یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے) فرمایا کیا ہے تیرے لیے؟ اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی عورت سے جماع کر لیا ہے پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے پاس غلام ہے کہ تو اس کو آزاد کر دے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم میں مسلسل دو ماہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ پھر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا بیٹھ جا اور نبی کریم ﷺ ٹھہرے رہے یعنی انتظار کرتے رہے کہ کوئی کچھ لے کر آئے تو اس کو دیں تاکہ وہ کفارہ ادا کرے پس اس وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عرق حضور ﷺ کے پاس لایا گیا اور اس میں کھجوریں تھیں اور عرق بڑے تھیلے کو کہتے تھے یعنی کھجور کے پٹھے کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس میں پندرہ سیر سے لے کر بیس سیر تک کھجوریں آتی ہیں فرمایا پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں فرمایا یہ کھجوریں لے لو اور اللہ کی راہ میں بانٹ دو پھر اس شخص نے کہا کیا میں اس کو اس شخص کو دوں جس سے زیادہ میں خود محتاج ہوں میں فقیروں کو کس طرح دوں۔ پس خدا کی قسم مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کوئی گھر والا میرے گھر والوں سے بڑھ کر محتاج نہیں ہے دونوں کناروں سے مراد دو پہاڑیاں تھیں جو مدینے کے مشرق و مغرب کے درمیان واقع ہیں پس نبی کریم ﷺ ہنس پڑے۔ یہاں تک کہ حضور ﷺ کی کچلیاں ظاہر ہوئیں۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھجوریں اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس آنے والا شخص کا نام سلمۃ بن صحز الانصاری البیاضی تھا۔ رمضان کے روزے کے بارے میں مسئلہ یہ ہے جو شخص رمضان کا روزہ قصد آ تو روزے کے خواہ جماع کر کے خواہ کھاپی کر تو اس کو کفارہ دینا آتا ہے اسی ترتیب مذکورہ سے کہ وہ غلام آزاد کرے اور یہ نہ ہو سکے تو دو مہینے کے پے در پے روزے رکھے اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اگر کچا اناج دینا چاہے تو دو دو سیر گندم یا چار چار سیر جو دے اگر پکا کر دے تو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھلائے اور اپنے اہل کو کفارہ دینا

درست نہیں ہے اور حضور ﷺ نے جو اس شخص کو اجازت دی تھی تو اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ آیا اس کے ذمے سے کفارہ ادا ہوا یا نہیں اکثر تو اس کی ادائیگی کا حکم لگاتے ہیں اور یہ اسی صحابی کے لیے خاص تھا دوسرے حضرات کے لیے درست نہیں ہے اور بعض کہتے کہ کفارہ اس کے ذمے رہے گا۔ اس واسطے کہ کفارہ کا واجب ہونا بالعقل اس وقت ہے کہ اس کے کھانے سے اور اس کے اہل کے کھانے سے بچے ورنہ ذمے رہتا ہے جب مقدور ہو ادا کرے۔ پس وہ صحابی محتاج تھے اس کو حضور ﷺ نے اجازت دی کہ اب تم اپنے اہل والوں کو کھلاؤ جب وسعت رکھو گے تو ادا کر دینا اور بعض حضرات کہتے ہیں یہ حکم پہلے تھا اب منسوخ ہو چکا ہے واللہ اعلم!

الفصل الثانی:

روزے کی حالت میں بیوی کی زبان چوسنے کی اجازت ہے

۷۸۹۴/۱ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا.

(رواہ ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۷۸۰/۲ حدیث رقم ۲۳۸۶ واحمد فی المسند ۱۲۳/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بوسہ لیتے حالانکہ آپ ﷺ روزہ دار ہوتے تھے اور ان کی زبان چوستے۔ اس کو ابو داود نے نقل کیا ہے۔

تشریح: محدثین فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اور کہا جاتا ہے کہ غیر کا تھوک نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تمام حضرات کے نزدیک پس حضور ﷺ زبان چوسنے کا حدیث کے حوالے سے جواب دیا گیا ہے کہ حضور ﷺ جس کر تھوک دیتے ہوئے نکلے نہیں ہوئے۔

جماع کے خوف کی وجہ سے جو ان کو اجازت نہ ملی

۸/۱۸۹۵ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ

وَأَنَّهُ آخَرَ فَسَأَلَهُ فَتَنَاهَا وَإِذَا أَلْدَى رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَإِذَا أَلْدَى نَهَاهُ شَابٌ. (رواہ ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۷۸۰/۲ حدیث رقم ۲۳۸۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ سے روزے کی حالت میں مباشرت کے بارے میں سوال کیا یعنی مرد کا اپنی عورت سے بدن لگانا۔ پس حضور ﷺ نے اجازت دی اور ایک دوسرا شخص حضور ﷺ کے پاس آیا اور اس نے مباشرت کے بارے میں پوچھا۔ پس آپ ﷺ نے اس کو منع کیا پس وہ شخص جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا اور وہ شخص جس کو اجازت نہیں دی تھی وہ جوان تھا۔ یہ حدیث ابو داود نے نقل کی ہے۔

تشریح: کیونکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھا آدمی جماع کرنے کے خوف سے امن میں ہوتا ہے اس لیے اس کو اجازت دے دی اور نو جوان کو اجازت نہ ملی کیونکہ جو آدمی کو جماع کا ڈر ہوتا اس لئے اس کو منع فرمایا اس میں اختلاف

ہے یہ کہ یہ نئی تحریری ہے یا تخریری۔

قصد اُتے کرنے سے قضاء لازم آتی ہے

۹/۱۸۹۶ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلَيْسَ بِهِ - (رواه الترمذی و ابو داود وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی هذا حديث غریب لا نعرفه الا من حديث عيسى بن يونس وقال محمد يعنى البخارى لا اراه محفوظا)

اخرجه ابو داود في السنن ۷۷۶/۲ - حديث رقم ۲۳۸۰ - والترمذی في السنن ۹۸/۳ - حديث رقم ۷۲۰ - وابن ماجہ ۵۳۶/۱ - حديث رقم ۱۶۷۶ - والدارمی ۲۴/۲ - حديث رقم ۱۷۲۹ - واحمد في المسند ۴۹۸/۲ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص پر قے غلبہ کرے۔ یعنی خود ہی آجائے اور وہ روزے سے ہو۔ پس اس پر قضاء نہیں ہے اور جو شخص قصد اُٹھانے میں انگلی ڈال کر قے لے آئے پس اس کو چاہیے کہ وہ روزہ قضا کرے۔ یہ امام ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کی ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، ہم نہیں جانتے اس کو مگر حدیث عیسیٰ بن یونس کی سند سے اور محمد نے کہا یعنی بخاری میں اس حدیث کو محفوظ گمان نہیں کرتا ہوں۔ یعنی یہ حدیث منکر ہے۔

تشریح: اس حدیث میں قصد اُٹھانے سے اس سے نسیان سے احتراز کرنا مقصود ہے یعنی قے لائے اور روزہ یاد ہو تو قضا آتی ہے اور بھول کر آئے تو قضاء نہیں آتی اور یہ مسئلہ ابتدائے باب میں مفصل گزر چکا ہے جو چاہے وہاں سے دیکھ لے۔

قصد اُتے کر کے روزہ توڑ ڈالنے سے قضا آتی ہے

۱۰/۱۸۹۷ وَعَنْ مَعْدَانَ ابْنِ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ قَالَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ قَالَ صَدَقَ وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ - (رواه ابو داود و الترمذی والدارمی)

اخرجه ابو داود في السنن ۷۷۷/۲ - حديث رقم ۲۳۸۱ - والترمذی ۱۴۲/۱ - حديث رقم ۸۷ - والدارمی ۲۴/۲ - حديث رقم ۱۷۲۸ - واحمد في المسند ۴۴۳/۶ -

ترجمہ: حضرت معدان بن طلحہ سے روایت ہے کہ ابو داؤد نے ان کو یہ حدیث بیان کی کہ رسول کریم ﷺ نے قے کی۔ پھر افطار کیا پس معدان نے کہا میں ثوبان سے دمشق کی مسجد میں ملا اور میں نے کہا کہ ابو داؤد نے مجھ کو حدیث بیان کی کہ رسول ﷺ نے قے کی پھر افطار کیا فرمایا ابو داؤد نے سچ کہا ہے اور میں نے حضور ﷺ کے لیے وضو کے لئے پانی ڈالا تھا۔ ان کے وضو کا۔ اس کو ابو داؤد ترمذی اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے قصد اُتے کر کے روزہ توڑ ڈالا کسی عذر کی بنا پر بیماری کا تھا یا ضعف کا اور عذر کی قید اس لیے لگائی ہے کہ حضور ﷺ بغیر عذر کے نفلی روزہ بھی نہیں توڑتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

ہے: لَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ یعنی اپنے عملوں کو باطل نہ کرو اور آخری حدیث سے امام ابو حنیفہ اور احمد رحمہما وغیرہ نے دلیل پکڑی کہ قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے امام شافعیؒ اور دوسرے علماء اس کے قائل ہیں انہوں نے وضو کرنے سے کلی کرنا اور منہ کا دھونا مرد لیا ہے۔ واللہ اعلم۔

روزے دار کو مسواک کرنی جائز ہے

۱۱/۱۸۹۸ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ۔

(رواہ الترمذی و ابو داؤد)

اخر جہ ابو داؤد فی السنن ۷۶۸/۲ حدیث رقم ۲۳۶۴۔ والترمذی ۱۰۴/۳ حدیث رقم ۷۲۵۔ واحمد فی المسند ۴۴۵/۳۔

ترجمہ: حضرت عامر بن ربیعہؒ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو روزے کی حالت میں اس قدر مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: یہ حدیث دلیل ہے اس بات پر کہ روزے دار کو ہر وقت مسواک کرنی جائز ہے اور ہر طرح کی مسواک کرنی درست ہے اور بہت سی حدیثیں اس طرح کی وارد ہوتی ہیں چنانچہ مرقات میں مذکور ہے اور علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ مسواک کرنے کو جائز رکھتے ہیں خواہ مسواک سبز یعنی تازی ہو یا تر کی ہوئی پانی میں ہو اور خواہ زوال سے پہلے ہو یا بعد میں اور امام ابو یوسفؒ نے کہا کہ تازی اور بیگی ہوئی مسواک روزہ کی حالت میں کرنا مکروہ ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک زوال کے بعد مکروہ ہے۔

روزے کی حالت میں سرمہ لگانے کی اجازت ہے

۱۲/۱۸۹۹ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُشْتَكِيْتُ عَيْنِي أَفَأَتَخَجَّلُ وَأَتَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ۔ (رواہ الترمذی وقال ليس اسنادہ بالقوی و ابو عاتکہ الراوی یضعف)

اخر جہ ابو داؤد فی السنن ۷۷۹/۲ حدیث رقم ۲۳۷۸۔ والترمذی ۱۰۵/۳ حدیث رقم ۷۲۶۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میری آنکھیں دکھتی ہے کیا میں سرمہ لگا لوں حالانکہ میں روزے دار ہوں؟ فرمایا کہ ہاں۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے اور ابو عاتکہ اس حدیث کے راوی ضعیف ہیں۔

تشریح: اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں سرمہ لگانے کی اجازت ہے بغیر کراہت کے چنانچہ اکثر علماء کا یہی مذہب ہے اور امام اعظم اور امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ سرمہ لگانا روزہ دار کو مکروہ نہیں ہے اگرچہ مزہ سرمہ کا حلق میں ظاہر ہو اور احمدؒ اور سلیحؒ اور سفیانؒ کے نزدیک مکروہ ہے اور امام مالکؒ سے بعضوں نے کراہت کا قول نقل کیا ہے اور بعضوں نے عدم کراہت کا اور یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس مضمون سے متعلق متعدد احادیث منقول ہیں۔ اس لئے یہ سب احادیث قابل استدلال ہیں۔

غسل بروودت جائز ہے

۱۳/۱۹۰۰ وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعُطْشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ - (رواه مالك وابو داود)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۷۶۹/۲ حدیث رقم ۲۳۶۵ - و مالک فی الموطأ ۲۹۴/۱ حدیث رقم ۲۲ من کتاب الصیام - واحمد فی المسند ۴۷۵/۳

ترجمہ: نبی کریم ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو عرج میں روزے کی حالت میں پیاس کو دور کرنے کے لیے یا گرمی کو دفع کرنے کے واسطے اپنے سر پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا۔ یہ روایت مالک اور ابوداؤد نے نقل کی ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا جائز ہے۔ عرج مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے اور ابن مالک نے کہا ہے یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ روزہ دار کو سر پر پانی ڈالنا مکروہ نہیں ہے اور پانی میں داخل ہو جائے اور اس کی ٹھنڈک باطنی طور پر محسوس کرے۔ نورالایضاح میں جو فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ روزہ دار کا نہانا اور اپنے آپ کو تر کپڑے میں لپیٹنا ٹھنڈک کے لیے اور گرمی سے بچنے کے لیے بموجب مفتی یہ روایت کے مکروہ نہیں ہے۔ اتنی اور درمختار میں اس طرح لکھا ہے۔

روزے کی حالت میں سیٹگی لگانے کی اجازت ہے

۱۳/۱۹۰۱ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا بِالْبَيْعِ وَهُوَ يَخْتَجِمُ وَهُوَ أَحَدُ يَدَيْهِ لِمَا نَبَى عَشْرَةَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ افْطَرِ الْحَاجِمَ وَالْمَحْجُومَ (رواه ابوداؤد وابن ماجہ والدارمی) قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُ مَنْ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ أَيْ تَعَرُّضًا لِلْفُطَارِ الْمَحْجُومِ لِلضَّعْفِ وَالْحَاجِمِ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ أَنْ يَصِلَ شَيْءٌ إِلَى جَوْفِهِ بِمَصِّ الْمَلَاظِمِ - اخرجه ابوداؤد فی السنن ۷۷۲/۲ حدیث رقم ۲۳۶۹ - وابن ماجہ ۵۳۷/۱ حدیث رقم ۱۶۸۱ - والدارمی ۲۵۰/۲ حدیث رقم ۱۷۳۰ - واحمد فی المسند ۱۲۳/۴

ترجمہ: حضرت شداد بن اوسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ رمضان کی اٹھارہ تاریخ کو جنت البقیع (مدینے کا قبرستان ہے) میں ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو بھری ہوئی سیٹگیاں کھنچوا رہا تھا اور حضور ﷺ اس وقت تیر ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے پس حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا سیٹگی کھینچنے والے اور کھنچوانے والے دونوں نے روزہ توڑ ڈالا۔ یہ روایت ابو داؤد ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کی ہے۔ شیخ امام محی السنۃ نے فرمایا کہ جو علماء کرام حالت صوم میں سیٹگی کھینچنے اور کھنچوانے کے قائل ہیں انہوں نے اس حدیث کی یہ تاویل کی ہے کہ سیٹگی والا کمزوری کی وجہ سے روزہ توڑنے کے قریب ہو جاتا ہے اور سیٹگی کھینچنے والا اس وجہ سے کہ ممکن ہے کہ اس عمل کے دوران خون کا کوئی حصہ اس کے جسم میں چلا گیا ہو افطار کے قریب

ہو جاتا ہے

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا ہے کہ بعضوں سے مراد جمہور علماء ہیں یعنی اکثر علماء ہیں اور اکثر علماء کا مذہب یہی ہے کہ سیگی لینے کا کچھ مضائقہ نہیں ہے روزہ دار کے لیے اس لیے کہ ثابت ہوا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم ﷺ نے حالت صوم میں سیگی کھنچوائی اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور امام مالک اور شافعی کا مذہب ہے اور اس حدیث کے معنی انہوں نے یہی کہے ہیں جو مذکور ہوئے ہیں بھری ہوئی سیگی لگانے والے کو ضعف و کمزوری ایسی لاحق ہوتی ہے کہ افطار کرنے کے قریب ہو جاتا ہے اور سیگی کھینچنے والے کو خوف ہوتا ہے مبادا سیگی لگاتے وقت خون منہ سے چوسنا پڑھ جائے اور پیٹ میں اتر جائے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھری ہوئی سیگی سے روزہ نہیں جاتا۔ لیکن بسبب ضعف کے لاحق ہونے کی وجہ سے اور ہلاکت کے خوف سے مکروہ ہوتا ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حدیث خاص دو شخصوں کے حق میں فرمائی۔ انہوں نے بھری ہوئی سیگی کھینچتے وقت غیبت کی تھی پس اس غیبت کی وجہ سے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حکم پہلے تھا پھر منسوخ ہو گیا۔

رمضان کا روزہ قصد افطار کرنے کا بہت بڑا نقصان ہے

۱۵/۱۹۰۲ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ افْطَرَ يَوْمًا مِّنْ رَّمَضَانَ مِّنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمَ الدَّهْرِ كُلَّهُ وَإِنْ صَامَهُ (رواه احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ والدرمی والبخاری فی ترجمۃ باب) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ يَقُولُ أَبُو الْمُطَوِّسُ الرَّائِي لَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ -

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۶۰۱۴۔ تعلیقاً باب اذا جامع فی رمضان من کتاب الصیام۔ وابو داؤد فی السنن ۷۸۸/۲ حدیث رقم ۲۳۹۶۔ والترمذی فی السنن ۱۰۱/۳ حدیث رقم ۷۲۳۔ وابن ماجہ ۵۲۵/۱ حدیث رقم ۱۶۷۲۔ والدرمی ۱۸۱/۲ حدیث رقم ۱۷۱۴۔ واحمد فی المسند ۳۸۶/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کے ایک دن بھی بغیر رخصت کے اور بغیر مرض کے قصد افطار کرے۔ تمام عمر کا روزہ رکھنا بھی اس کا بدل نہیں بن سکتا۔ اگرچہ تمام عمر روزے رکھے۔ اس کو امام احمد اور ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ اور دارمی نے اور بخاری نے نقل کیا ہے اور امام بخاری نے اس حدیث کو بخاری کے ترجمۃ الباب میں نقل کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا کہ میں نے محمد کو بخاری کو سنا انہوں نے کہا کہ میں ابوالمطوس راوی کو اس حدیث کے علاوہ نہیں جانتا۔

تشریح ﴿ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ بغیر رخصت کے اگر کسی نے روزہ افطار کیا تو ساری عمر کے روزے بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ رخصت شرعی کے حالت سفر وغیرہ میں جو شرعاً میں اجازت دی ہے اس کے علاوہ اس حالت میں جبکہ روزہ رکھنا ضروری ہے جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے چنانچہ اس کا بیان تفصیل سے ہو چکا ہے۔ وان صامہ کا لفظ پہلے جملے کی تاکید ہے اور یہ حدیث بطریق مبالغہ اور تشدد کے فرمائی ہے اور مراد یہ ہے کہ فرض روزے کا ثواب اس قدر ہے کہ وہ تقویٰ روزے سے

پورا نہیں ہوتا اگرچہ تمام عمر روزے رکھے ورنہ اگر ایک روزہ نہیں رکھا تو اس کے بدلے ایک روزہ رکھے فرض ادا ہو جائے گا اور اگر رکھ کر توڑ ڈالا ہو تو دو مہینے کے روزے رکھے اور ابن حجرؒ نے کہا ہے کہ حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر رمضان کا روزہ نہ رکھے اور پھر اس کے بدلے تمام عمر روزے رکھے تو وہ کفایت نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت علیؓ اور ابن مسعودؓ کا یہی مذہب ہے کہ ایک دن کے بدلے ایک دن کا روزہ کفایت کرتا ہے یعنی فرض ادا ہو جاتا ہے اگرچہ اس نے نہایت بڑے اور گرمی کے دنوں میں نہ رکھا ہو اور اس کے بدلے چھوٹے دنوں میں اور سردی میں رکھے اور ظاہر یہ ہے کہ نماز بھی روزے ہی کے حکم میں ہے اس لیے کہ دونوں میں فرق نہیں ہے بلکہ تمام علماء کے نزدیک نماز روزے سے افضل ہے واللہ اعلم۔

روزہ رکھ کر رزائل اخلاق سے بچنا ضروری ہے ورنہ نقصان ہوگا

۱۶/۱۹۰۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَاوَكُمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ۔

(رواہ الدارمی و ذکر حدیث لقیط بن صبرہ فی باب سنن الوضوء)

اخرجه ابن ماجہ فی السنن ۵۳۹/۱ حدیث رقم ۱۶۹۰۔ والدارمی ۳۹۰/۲ حدیث رقم ۲۷۲۰۔ واحمد فی المسند ۳۷۳/۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو ان کے قیام سے سوائے بے خوابی (بے آرامی) کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ داری نے نقل کی ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے جو شخص روزے رکھے اور خدا کے لیے خالص نیت کرے اور جھوٹ بولنے سے بچے۔ جھوٹی گواہی دینے اور بہتان لگانے اور غیبت کرنے اور دیگر ممنوعات سے پرہیز نہ کرے۔ تو اس کو روزے میں سوائے بھوکے رہنے اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اگرچہ فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے اور اس کو ثواب نہیں ملتا اور اسی طرح جو رات کو بغیر حضوری کے یا دنیا کے فائدے کے لیے قیام کرے تو اس کو کچھ ثواب نہیں ملتا جیسے اس شخص کی نماز جو غصب شدہ زمین یا غصب کیے ہوئے گھر میں نماز ادا کرے تو اس کو ثواب نہیں ملتا اگرچہ فرض ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے اور اسی طرح جو بغیر عذر کے نماز پڑھے اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا اور قضا نہیں آئے گی لیکن اس کو ثواب حاصل نہیں ہوتا اور اسی طرح دوسری عبادتیں جیسے حج، زکوٰۃ وغیرہ اگر یہ خلوص سے نہ ہوں تو کچھ فائدہ نہیں ہے سوائے مال کے ضائع کرنے کے اور رنج بدن کے اور لقیط بن صبرہ کی روایت باب سنن الوضوء میں مذکور ہو چکی ہے۔

الفصل الثالث:

روزہ نہ توڑنے والی چیزوں کا ذکر

۱۷/۱۹۰۴ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يَفْطَرْنَ الصَّائِمَ

الْحِجَامَةُ وَالْقَيُّ وَالْإِحْتِلَامُ۔

(رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غیر محفوظ وغید الرحمن ابن زید الراوی یضعف فی الحدیث)

اخرجه الترمذی فی السنن ۹۷/۳ حدیث رقم ۷۱۹۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تین چیزیں روزہ دار کے روزے کو فاسد نہیں کرتیں: ۱۔ سینگ (جو خود سے آئے)۔ ۲۔ احتلام۔ یہ حدیث امام ترمذی نے نقل کی ہے اور فرمایا یہ حدیث محفوظ نہیں ہے اور عبد الرحمن بن زید حدیث میں ضعیف راوی ہیں۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تین چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جن کا ذکر اوپر والی حدیث میں ہو چکا ہے اس روایت کو دارقطنی اور بیہقی اور ابوداؤد نے بھی روایت کیا ہے اور ابوداؤد کی حدیث اشبہ ہے یعنی صحت کے زیادہ قریب ہے۔

روزہ دار کو کھینچنے لگوانے کی اجازت ہے

۱۸/۱۹۰۵ وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ النَّبَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ۔ (رواہ البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۷۴/۴۔ حدیث رقم ۱۹۴۰۔

ترجمہ: حضرت ثابت بن النبطیؓ سے روایت ہے کہ انس بن مالکؓ سے پوچھا گیا کہ کیا تم نبی کریم ﷺ کے زمانے میں روزہ دار کے لئے سینگ لگوانے کو کمرہ جانتے تھے؟ فرمایا کہ نہیں مگر ضعف کی وجہ سے۔ یہ روایت امام بخاریؒ نے نقل کی ہے۔

تشریح: اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے یعنی سینگ کو کمزوری کے لاحق ہونے کے باعث ناپسند سمجھتے تھے۔ جس کی تفصیل پہلی روایت میں گزر چکی ہے اس جہت سے نہیں کہ یہ روزے کو توڑ دیتی ہے بلکہ افطار کے قریب کر دیتی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنا عمل سینگ لگوانے کے بارے میں

۱۹/۱۹۰۶ وَعَنِ الْبَخَارِيِّ تَعْلِيْقًا قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ۔

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۷۳/۴۔ تعلیقاً باب ۳۲ من کتاب الصوم۔

ترجمہ: امام بخاریؒ سے بطور تعلیق کے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سینگ کھینچواتے اس حال میں کہ وہ روزے سے ہوتے تھے پھر انہوں نے سینگ کھینچنا چھوڑ دی اور رات کو کھینچوایا کرتے تھے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بحالت صوم سینگ کھینچوایا احتیاط کے باعث چھوڑ دیا تھا۔ کمزوری کے خوف سے سینگ کھینچوانے سے پرہیز کرنے لگے تھے۔ بعض احادیث امام بخاریؒ نے بغیر سند کے روایت کی ہیں اس کو تعلیق کہتے ہیں اور مصنف کو چاہیے تھا کہ افلا عن ابن عمر کہتا پھر کہتا: رواہ البخاری تعلیقاً

مصطکی کے چبانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا

۲۰/۱۹۰۷ وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنْ مَضَمَضَ ثُمَّ أَلْغَزَ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ لَا يَضُرُّهُ أَنْ يَزِدَّ رَدَّ رِيْقَهُ وَمَا بَقِيَ فِيهِ وَلَا يَمْضَغُ الْعِلَكَ فَإِنْ أَزْدَرَ دَرِيْقَ الْعِلَكِ لَا أَقُولُ إِنَّهُ يَفْطَرُ وَلَكِنْ يَنْهَى عَنْهُ - (رواه البخاری فی ترجمۃ باب)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۵۹/۴ تعلیقاً باب ۲۸ من کتاب الصوم۔

ترجمہ: حضرت عطاءؓ سے روایت ہے کہ اگر روزے دار کلی کرے اور پانی منہ سے نکال دے تو اس کو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا کہ وہ تھوک یا وہ چیز جو منہ کے اندر باقی ہے نگل جائے اور وہ مصطکی نہ چبائے اگر وہ مصطکی کا تھوک نگل گیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے روزہ افطار کیا ہے بلکہ اس سے منع کیا جاتا ہے۔ یہ روایت بخاری نے ترجمۃ الباب میں نقل کی ہے۔

تشریح: مابقی کے لفظ میں ماموصلہ ہے اور اس کا عطف لفظ ریقہ پر ہے یعنی کلی کرنے کے بعد تھوک اور جو کچھ پانی کی طراوت باقی ہے اس کا نگلنا ضرر نہیں کرتا۔ اس لیے کہ پانی سے احتراز غیر ممکن ہے اور مصطکی بعض آدمی دانتوں کی تقویت کے لیے منہ میں رکھتے ہیں اور روزے کی حالت میں اس کے چبانے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا اس کے چباتے ہوئے تھوک جو منہ میں جمع ہو جائے اس کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے کہ وہ منہ میں سمٹ جاتی ہے۔ اس سے کچھ جدا نہیں ہوتی کہ وہ حلق میں اتر جائے اور روزہ توڑ ڈالے۔ لیکن یہ احتیاطاً منع ہے اس میں نہی تنزیہی ہے اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ کسی بھی چیز کا چبانا مکروہ ہے مصطکی ہو یا کچھ اور ہو۔ مہرچے کو ٹکڑا وغیرہ چبا کر دینا جائز ہے بوجہ ضرورت اور یہ مصطکی وغیرہ کے چبانے کی کراہت صرف اس صورت میں ہے کہ اس کو یقین ہو کہ حلق میں نہیں اتری۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ اس میں کچھ حلق میں اتر گیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر کوئی درزی رنگے ہوئے ڈورے کو منہ سے صاف کرے اور اس کا تھوک ڈورے کے رنگ کی طرح ہو جائے اور پھر نگل جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے ورنہ فاسد نہیں ہوتا۔ انتہی۔

بَابُ صَوْمِ الْمُسَافِرِ

مسافر کے روزے کے بیان میں

کافیۃ: مسافر کو روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں اور افضل کیا ہے؟

الفصل الاول:

سفر میں افطار کی اجازت ہے

۱/۱۹۰۸ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِوَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا فَطْرَ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۷۹/۴ - حدیث رقم ۱۹۴۳ - و مسلم فی صحیحہ ۷۸۹/۲ حدیث رقم (۱-۳-۱۱۲۱)۔
 وابوداؤد فی السنن ۷۹۳/۲ حدیث رقم ۲۴۰۲ - والترمذی ۹۱/۳ حدیث رقم ۷۱۱ - والنسائی ۲۰۷/۴ حدیث رقم
 ۲۳۸۴ - وابن ماجہ ۵۳۱/۱ حدیث رقم ۱۶۶۲ - والدارمی ۱۵۱/۲ حدیث رقم ۱۷۰۷ - ومالك ۲۹۵/۱ حدیث رقم
 ۲۴ من کتاب الصیام - واحمد فی المسند ۴۶/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرہ اسلمیؓ نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں
 اور حمزہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے پس حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر چاہے تو روزہ رکھ اور اگر چاہے تو افطار کر۔ یہ
 امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ ایک صحابیؓ نے سفر میں روزے کے بارے میں سوال کیا کہ اس کا کیا حکم
 ہے گناہ ہے یا ثواب اور اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ افطار کرنا اور روزہ رکھنا دونوں جائز ہیں۔ سفر خواہ راحت کا ہو یا تکلیف کا لیکن
 اگر اس کو کچھ تکلیف نہیں ہے تو روزہ رکھنا بہتر ہے اگر اس کو مشقت اور ایذا ہوتی ہے تو افطار روزے سے بہتر ہے اور امام اعظم
 ابوحنیفہؒ کے نزدیک سفر اطاعت اور سفر معصیت افطار کرنے میں دونوں برابر ہیں اور امام شافعیؒ کے نزدیک سفر معصیت
 میں رمضان کا روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہے۔

روزے دار اور مفطر کا آپس میں عمدہ رویہ اور ایک دوسرے کے عیب نہ نکالنا

۲/۱۹۰۹ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ عَشْرَةَ مَضَتْ
 مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمَفْطِرِ وَلَا الْمَفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ۔

(رواہ مسلم)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۸۶/۴ - حدیث رقم ۱۹۴۷ - و مسلم فی صحیحہ ۷۸۶/۲ حدیث رقم (۹۳-۱۱۱۶)۔
 وابوداؤد فی السنن ۷۹۵/۲ حدیث رقم ۲۴۰۵ - والترمذی ۹۲/۳ حدیث رقم ۷۱۲۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ہم سولہویں رمضان کو نبی کریم ﷺ کے ساتھ جہاد کو چلے۔ ہم میں سے
 بعض آدمیوں نے روزہ رکھا (یعنی طاقتوروں نے) اور بعضوں نے ہم میں سے افطار کیا (یعنی ضعیفوں نے یا امیروں کے
 خادموں نے) پس روزے دار نے افطار کرنے والے پر عیب نہیں کیا اس لیے کہ اس نے رخصت پر عمل کیا اور نہ افطار
 کرنے والے نے روزے دار پر۔ اس لیے کہ اس نے عزیمت پر عمل کیا ہے یہ مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسافر کو
 اختیار ہے کہ وہ روزہ رکھے اور چاہے نہ رکھے افطار کرنے والے نے رخصت پر عمل کیا ہے اور روزے دار نے عزیمت پر عمل
 کیا ہے۔

سفر میں افطار کرنے کی اجازت ہے

۳/۱۹۱۰ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَرَأَى زَحَافًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ

عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۸۳/۴ حدیث رقم ۱۹۳۶ و مسلم فی صحیحہ ۷۸۶/۲ حدیث رقم ۹۲-۱۱۵۔
وابوداؤد فی السنن ۷۹۶/۲ حدیث رقم ۲۴۰۷۔ والنسائی ۱۷۷/۴ حدیث رقم ۲۲۶۲۔ وابن ماجہ ۵۳۲/۱ حدیث رقم ۱۶۶۴۔ والدارمی فی السنن ۱۶۱/۲ حدیث رقم ۱۷۰۹۔ واحمد فی المسند ۲۹۹/۳۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سفر میں تھے پس آپ ﷺ نے ایک مجمع دیکھا اور ایک شخص کو دیکھا کہ اس پر سایہ کیا گیا تھا یعنی دھوپ کے بچاؤ کے لیے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس کو کیا ہے؟ لوگوں نے کہا روزے دار ہے یعنی کمزوری کی وجہ سے گر پڑا ہے۔ پس فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں روزے کی حالت میں جب ایسی کیفیت ہو جائے تو سفر میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے بلکہ افطار ہی افضل ہے۔

سفر میں افطار کرنے والوں کی حوصلہ افزائی

۴/۱۹۱۱ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَتَزَلُّنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ فَسَقَطَ الصَّوْأْمُونَ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأُتْبِيَّةَ وَسَقَوْا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۸۴۱/۶ حدیث رقم ۲۸۹۰۔ و مسلم فی صحیحہ ۷۸۸/۲ حدیث رقم (۱۱۱۹/۱۰۰)۔
والنسائی فی السنن ۱۸۲/۴ حدیث رقم ۲۲۸۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے ہم میں سے بعض روزے دار تھے اور بعض ہم میں سے افطار کرنے والے۔ پس ہم گرمی کے دن میں ایک منزل میں اترے۔ پس روزے دار گر پڑے یعنی ضعف کی وجہ سے کاروبار کے لائق نہ رہے اور افطار کرنے والے کھڑے رہے یعنی خدمت میں مشغول ہوئے خیمے کھڑے کئے اور اونٹوں کو پانی پلایا پس نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: افطار کرنے والے آج کے دن ثواب لے گئے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

تشریح: آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا سفر میں افطار کرنے والے پورا ثواب لے گئے اس لیے کہ افطار ان کے حق میں ایسے وقت میں بہتر تھا اور لفظ الصوم میں اس طرف اشارہ ہے کہ افطار کرنے کی فضیلت روزے داروں کی خدمت گزاری کی وجہ سے تھی نہ کہ مطلقاً اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ کے نیک و صالح بندوں کی خدمت نوافل سے افضل ہے۔

حالت سفر میں روزہ توڑنے کی گنجائش ہے

۵/۱۹۱۲ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ

عَبَّاسٌ يَقُولُ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ - (متفق عليه
وفی روایۃ لمسلم عن جابر) أَنَّهُ شَرِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ -

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۸۶/۴ - حدیث رقم ۱۹۴۸ - ومسلم فی صحیحہ ۷۸۵/۲ حدیث رقم (۸۸-۱۱۱۳) -
والنسائی ۱۸۴/۴ حدیث رقم ۲۲۹۰ - واحمد فی المسند ۲۹۱/۱ - اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۷۸۱/۲ حدیث رقم
(۹۱-۱۱۱۴) -

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ مدینے سے مکے کی طرف چلے۔ یعنی جس سال فتح مکہ
ہوا۔ پس آپ ﷺ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ عسفان تک پہنچ گئے جو ایک جگہ کا نام ہے مکہ سے دو منزل کے فاصلے پر ہے
آپ ﷺ نے پانی منگوایا اور اس کو اپنے ہاتھ میں لیا یعنی ہاتھ میں لے کر اس کو بہت اونچا کیا تا کہ لوگ دیکھیں پھر افطار
کیا۔ یہاں تک کہ مکہ میں آئے اور یہ رمضان کا سفر تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ نے روزہ بھی رکھا
اور افطار بھی کیا۔ پس جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے افطار کرے۔ یہ بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے اور ایک مسلم شریف
کی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور ﷺ نے عصر کے پیچھے پانی پیا۔
تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ اونچا کر کے لوگوں کو دکھایا تا کہ لوگ جان لیں کہ
افطار کرنا جائز ہے یا حضور اکرم ﷺ کی اتباع کریں۔

الفصل الثانی:

مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے

۶/۱۹۱۳ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكُحَيْبِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ
شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمَرْضِعِ وَالْحَبْلِيِّ - (رواه ابو داود و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ)
اخرجه ابو داود فی السنن ۹۴/۳ حدیث رقم ۲۴۰۸ - و الترمذی فی السنن ۹۴/۳ حدیث رقم ۷۱۵ و النسائی ۱۸۰/۴
حدیث رقم ۲۲۷۵ - و ابن ماجہ ۵۳۳/۱ حدیث رقم ۱۶۶۷ و احمد فی المسند ۲۹/۵ -
ترجمہ: حضرت انس بن مالک کحبی سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے
آدھی نماز موقوف کر دی ہے اور اس طرح دودھ پلانے والی مسافر عورت اور حاملہ عورت کے لیے روزہ معاف کر دیا ہے۔
یہ ابو داؤد و ترمذی نسائی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ سرے ہی سے مسافر پر آدھی نماز فرض کر دی گئی ہے کہ چار رکعت کی دو رکعت
پڑھے اور دو رکعت کی قضا نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے چار تھیں پھر دو ہو گئیں اور حالت سفر میں روزہ رکھنا واجب نہیں
ہے لیکن جب مقیم ہو تو اس پر قضا واجب ہے دودھ پلانے والی اور حاملہ کو بھی روزہ معاف ہے اگر بچے وغیرہ کو نقصان کا اندیشہ
ہو لیکن عذر ختم ہونے کے بعد قضا لازم ہے اور ہمارے نزدیک فدیہ نہیں ہے اور امام شافعی اور احمد کے نزدیک ان پر فدیہ
واجب ہے۔

اگر سفر آ رام دہ ہو تو روزہ رکھنا بہتر ہے

۷/۱۹۱۳ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ حَمُولَةٌ تَأْوِي إِلَى شَيْعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَذْرَكَهُ۔ (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۷۹۸/۲ حدیث رقم ۲۴۱۰۔ واحمد فی المسند ۷/۵۔

ترجمہ: حضرت سلمہ بن محقق سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس اچھی سواری ہو اور وہ اس کو بخیر و عافیت آسانی کے ساتھ منزل تک پہنچا دے یعنی اچھی حالت میں سفر کرتا ہو۔ پس چاہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے جہاں اس کو رمضان آجائے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر سفر آ رام و سہولت والا ہے اور سواری اچھی ہے تو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ یہ حکم استحباب اور فضیلت کے لیے ہے۔ ورنہ سب علماء کے نزدیک افطار کرنا جائز ہے سفر میں اگرچہ مشقت نہ ہو اور یہ حدیث ضعیف ہے۔

الفصل الثالث:

آپ ﷺ کا رخصت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ناراض ہونا

۸/۱۹۱۵ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كِرَاعَ الْغَيْمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعَصَاةُ أُولَئِكَ الْعَصَاةُ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۷۸۵/۲ حدیث رقم (۹۰-۱۱۴)۔ والترمذی فی السنن ۸۹۱۳ حدیث رقم ۷۱۰۔ والنسائی

۱۷۷/۴ حدیث رقم ۲۲۶۳۔

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فتح مکہ کے سال رمضان میں مکہ کی طرف چلے۔ پس آپ ﷺ کراغ الغیم تک پہنچے اور روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا، تو حضور ﷺ نے پانی کا پیالہ منگوا لیا اور اس کو یہاں تک اٹھایا کہ لوگوں نے اس کی طرف دیکھا۔ پھر آپ ﷺ نے پانی پیا۔ پس حضور ﷺ کو کہا گیا کہ بعض آدمیوں نے روزہ رکھا ہے یعنی روزے ہی سے رہے، افطار نہ کیا۔ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ کچے گنہگار ہیں یہ کچے گنہگار ہیں۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ کراغ الغیم ایک جگہ کا نام ہے جو مکے اور مدینے کے درمیان عسفان کے قریب واقع ہے اور اُولَئِكَ الْعَصَاةُ کا لفظ ناراضگی کا اظہار کرنے کے لئے مکرر فرمایا ہے۔ اس لیے کہ آپ ﷺ نے یہ فعل اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ دیکھ کر ان کی پیروی کریں اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول کرنے کے لیے پس جنہوں نے روزہ رکھا، انہوں نے رسول کریم ﷺ کے فعل کی مخالفت کی اور اللہ تعالیٰ کی رخصت کو قبول نہیں کیا اس لیے حضور ﷺ نے خفا ہو کر ارشاد فرمایا کہ یہ

لوگ جنہوں نے سفر کی حالت میں روزہ افطار نہیں کیا، بچے گنہگار ہیں۔

سفر میں روزہ رکھنے کو آپ ﷺ نے ناپسند کیا

۹/۱۹۱۲ وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمٌ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ۔ (رواہ ابن ماجہ)

انخرجه النسائي في السنن ۱۸۳/۴ حديث رقم ۲۲۸۵۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمنؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں رمضان کا روزہ رکھنے والا حاضر میں افطار کرنے والے کی طرح ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا بڑا گناہ ہے جیسا کہ گھر میں افطار کرنا لیکن یہ حدیث اکثر حضرات کے نزدیک منسوخ ہے یا اس حالت پر محمول ہے کہ آدمی کو روزے سے سفر میں تکلیف ہوتی ہو اور ہلاکت کا خوف۔

سفر میں رخصت پر عمل کرنا بہتر ہے

۱۰/۱۹۱۷ وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِوٍ وَالْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُنِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَى جُنَاحٍ قَالَ هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنَ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ۔

انخرجه مسلم في صحيحه ۷۹۰/۱۲ حديث رقم (۱۰۷ - ۱۱۲۱)۔ والنسائي في السنن ۱۸۶/۴ حديث رقم ۲۳۰۳۔

ترجمہ: حضرت حمزہ بن عمروؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول! میں سفر میں روزہ رکھنے کے طاقت رکھتا ہوں کیا روزہ رکھنے کی وجہ سے مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا افطار کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے۔ پس جس شخص نے یہ رخصت لے لی پس اس نے اچھا کیا پس جو شخص روزہ رکھنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ روزہ افطار کرنا سفر میں اولیٰ ہے اور بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی رخصت پر عمل کرے۔

بَابُ الْقَضَاءِ

یہ باب قضاء روزوں کے بیان میں ہے

ترجمہ: اس باب میں قضاء روزوں کے احکامات اور آداب بیان کئے گئے ہیں اور ظاہر ہے اس سے مراد رمضان کے روزوں کی قضاء ہے اور جو شخص رمضان کا روزہ توڑ ڈالے اس کے تین حکم ہیں اگر بھول کر افطار کرے نہ قضاء ہے نہ کفارہ اگر قصداً ہو بغیر عذر کے تو کفارہ آئے گا اگر سفر اور مرض کے عذر کی وجہ سے ہوگا تو اس میں قضاء ہے۔

الفصل الاول:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معمول قضاء روزوں کے بارے میں

۱/۱۹۱۸ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اسْتَطِيعَ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ تَعْنِي الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۸۹/۴ - حدیث رقم ۱۹۵۰ - و مسلم فی صحیحہ ۸۰۲/۲ حدیث رقم (۱۵۱ - ۱۱۴۶) -

والترمذی فی السنن ۱۵۲/۳ حدیث رقم ۷۸۳ - واحمد فی المسند ۱۷۹/۶ -

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مجھ پر رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے میں ان کی قضاء کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی مگر شعبان میں - یحییٰ کے بیٹے نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے رمضان کے قضاء روزے نہیں رکھ سکتی تھی یا یہ فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے - اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذمے جو رمضان کے قضاء روزے ہوئے تھے حیض کی وجہ سے تو آپ کو ان کے رکھنے کی فرصت نہ ملتی تھی شعبان کے علاوہ اس لیے کہ وہ دوسرے ایام میں حضور ﷺ کی خدمت بابرکت میں مستعد رہتی تھیں۔ جب آپ ﷺ کی خدمت و محبت کے لیے بلا تے تو حاضر ہو جاتیں اور شعبان میں آپ ﷺ اکثر روزے سے ہوتے تھے۔ پس شعبان میں فرصت ملتی تو روزے قضا کر لیتی تھیں۔

نظری روزہ خاوند کی اجازت سے رکھنا چاہیے

۲/۱۹۱۹ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا

شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ - (رواه مسلم)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۹۵/۹ - حدیث رقم ۵۱۹۵ - و مسلم فی صحیحہ ۷۱۱/۲ حدیث رقم (۱۰۲۶/۸۴) -

وابوداؤد فی السنن ۸۲۶/۲ حدیث رقم ۲۴۵۸ - والترمذی ۱۵۱/۳ حدیث رقم ۷۸۲ - وابن ماجہ ۵۶۰/۱ حدیث رقم

۱۷۶۱ - والدارمی ۲۱/۲ حدیث رقم ۱۷۲۰ - واحمد فی المسند ۴۴۴/۲ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو خاوند کی موجودگی میں بدوں اس کی اجازت کے نظری روزہ رکھنا درست نہیں۔ اور خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہ دے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جس عورت کا خاوند موجود ہو۔ اس کو نظری روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ مگر خاوند کی اجازت کے ساتھ۔ اجازت خواہ صراحت ہو یا دلالت اس لیے کہ خاوند کو صحبت کرنے میں تکلیف ہوگی اور حدیث سے مطلقاً روزہ رکھنا منع معلوم ہوتا ہے پس یہ امام شافعی کے نزدیک صحیح ہے انہوں نے عرفہ اور عاشوراء کے روزوں کا استثناء کیا ہے اور

عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر آنے کی اجازت دے اور اذن سے حکم مراد ہے اس کی رضا مندی کا علم۔ یعنی زبانی اجازت نہیں دی۔ مگر جانتی ہے کہ خاوند اس کے کرنے سے راضی ہوگا تو یہ اجازت دلالت ہوگی۔

عورت کے ذمے روزے کی قضاء ہے نہ کہ نماز کی

۳/۱۹۲۰ وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَتْ

عَائِشَةُ كَانَ يُصَيِّنُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۶۵۱/۱ حدیث رقم (۶۹ - ۳۳۵)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ حائضہ عورت کا کیا حال ہے کہ روزہ قضا کرتی ہے اور نماز قضا نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کے زمانے میں ہم حیض سے ہوتی ہیں تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم ہوتا تھا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو حکم صادر فرمایا ہے اس کی علت پوچھنے کی حاجت نہیں ہے جو آپ ﷺ نے فرمایا تھا کرنا چاہیے تھا اگرچہ یہ بھی ممکن تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتیں کہ نماز کی قضا میں حرج بہت زیادہ ہے اس لیے اس کی قضا نہیں ہے اور روزے کم ہیں اس لیے اس کی قضا ممکن ہے کیونکہ وہ سال میں ایک بار ہی آتے ہیں اور ان کی قضا میں اتنا حرج نہیں ہے۔ اس لیے ان کی قضا مقرر ہوئی۔ پس علت ہو سکتی تھی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب مذکورہ کے ذریعہ قیل وقال کی راہ بند کر دی۔

ورثاء کی طرف سے قضا روزوں کا فدیہ

۴/۱۹۲۱ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ۔

(متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۹۲/۴۔ حدیث رقم ۱۹۵۲۔ ومسلم فی صحیحہ ۸۰۳/۲ حدیث رقم (۱۵۳ - ۱۱۴۷)۔

وابوداؤد فی السنن ۷۹۱/۲ حدیث رقم ۲۴۰۰۔ وابن ماجہ ۶۸۹/۱ حدیث رقم ۲۱۳۳۔ واحمد فی المسند ۶۹/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ ہو تو اس کی طرف سے اس کا وارث روزہ رکھے۔ یہ بخاری اور مسلم نے نقل کی ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس پر روزے واجب ہوں علماء نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے پس جمہور علماء کا مسلک جن میں امام مالک، ابو حنیفہ، ابو حنیفہ اور شافعی ہیں کہ کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے روزہ نہ رکھے اور اس حدیث کی تاویل یہی ہے کہ وارث ہر روزے کے بدلے ایک فقیر کو فدیہ دے اور فدیہ کا بیان آگے آئے گا۔ تو یہ بمنزلہ روزہ رکھنے کے ہو جائے گا۔ چنانچہ آنے والی حدیث سے یہ توجیہ معلوم ہوتی ہے اور میت کی طرف سے روزہ رکھنے کو اس لیے منع کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں صراحۃً منع کر دیا ہے چنانچہ باب کے اخیر میں وہ حدیث موجود ہے اور امام احمد وغیرہ نے

حدیث کے ظاہر پر عمل کیا ہے کہ اس کا وارث اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے اگر میت وصیت کرے تو وارث پر فدیہ نکالنا لازمی ہوگا۔ جب کہ وہ تہائی مال سے نکلے۔ اگر تہائی سے زیادہ ہو تو وہ وارث پر واجب نہیں اگر زیادہ نکالے گا تو میت پر احسان کرنے والا ہوگا اور اس کے جائز ہونے کا حکم لگایا جائے گا اور یہ سب کچھ اس وقت ہے کہ جب قضا ممکن تھی تو قضا نہیں کی اور جس شخص سے رمضان کے کچھ روزے قضا کے ممکن ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں تو اس کا تدارک لازمی نہیں ہے اور نہ ہی گناہ ہے اس پر تمام علماء کا اجماع ہے مگر طائوس اور قتادہ نے تدارک کو فدیہ دے کر یا روزہ رکھ کر واجب کیا ہے اگرچہ قضا کے ممکن ہونے سے پہلے مر جائے امام شافعیؒ کے نزدیک وہ وصیت کرے یا فدیہ کل مال سے دیا جائے گا۔

الفصل الثانی:

روزے کے فدیہ کا بیان

۵/۱۹۲۲ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينٌ - (رواہ الترمذی وقال والصحيح انه موقوف علی ابن عمر)

اخرجه الترمذی فی السنن ۹۶/۳ حدیث رقم ۷۱۸۔ وابن ماجہ ۵۵۸/۱ حدیث رقم ۱۷۵۷۔
ترجمہ: حضرت نافعؒ سے روایت ہے انہوں نے ابن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر رمضان کے مہینے کے روزے ہوں تو چاہیے کہ اس کی طرف سے ہر دن کے بدلے ایک فقیر کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ روایت امام ترمذی نے نقل کی ہے اور کہا کہ یہ حدیث حضرت ابن عمرؓ پر موقوف ہے۔ یعنی یہ قول حضرت ابن عمرؓ کا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں میت کے روزے کی قضا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وارث ہر دن کے بدلے پونے دو سیر گندم دے یا ساڑھے تین سیر جو دے یا ان کی قیمت دے اور اسی طرح ہر نماز کے بدلے دیا جائے اور حدیث جمہور علماء کی دلیل ہے اور غالب یہ ہے کہ یہ حدیث پہلی حدیث کے لیے ناخ ہے یا اوپر والی حدیث کی اس حدیث کے ساتھ تاویل کی گئی ہے اور یہ موقوف ہے لیکن حکم میں مرفوع کے ہے اس لیے اس جیسی بات اپنی عقل سے نہیں کہی جاسکتی۔

الفصل الثالث:

کسی کی طرف سے نماز اور روزہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے

۶/۱۹۲۳ عَنْ مَالِكٍ بَلَّغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْأَلُ هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ فَقَالَ لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ - (رواہ فی الموطأ)

اخرجه مالك فی الموطأ ۳۰۳/۱ حدیث رقم ۴۳ من کتاب الصیام۔
ترجمہ: حضرت مالکؒ سے روایت ہے کہ ابن عمرؓ سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا کوئی کسی طرف سے روزہ رکھے یا کوئی کسی

کی طرف سے نماز پڑھے؟ پس ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے اور نہ نماز پڑھے۔ یہ روایت مؤطا نے نقل کی ہے۔

تشریح ﴿ حدیث مذکورہ میں جو بیان کیا گیا ہے۔ امام مالکؒ امام شافعیؒ اور امام ابوحنیفہؒ کا مذہب یہی ہے کہ نماز اور روزہ کسی کی طرف سے رکھنا کہ وہ بری الذمہ ہو جائے درست نہیں ہے لیکن احناف کے نزدیک جائز ہے کہ آدمی اپنے عمل کا ثواب دوسرے شخص کو بخش سکتا ہے خواہ نماز ہو یا اور کچھ۔ یہ امام احمدؒ کا بھی مذہب ہے۔

بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ

یہ باب نفلی روزے کے بیان میں ہے

الفصل الاول:

آپ ﷺ کی عادت مبارکہ شعبان کے اکثر روزے رکھنے کی تھی

۱/۱۹۳۳ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۱۳/۴ حدیث رقم ۱۹۶۹۔ ومسلم فی صحیحہ ۸۱۰/۲ حدیث رقم (۱۷۵-۱۱۵۶) واخرجه ابوداؤد فی السنن ۸۱۳/۲ حدیث رقم ۲۴۳۴۔ والترمذی ۱۱۴/۳ حدیث رقم ۷۳۶ وابن ماجہ ۵۴۵/۱ حدیث رقم ۱۷۱۰۔ ومالك فی الموطأ ۳۰۹/۱۔ حدیث رقم ۵۶ من كتاب الصيام۔ واحمد فی المسند ۱۰۷/۶۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ ﷺ افطار نہیں کریں گے اور جب افطار کرتے تو ہم کہتے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ ﷺ نے کبھی تمام مہینے کے روزے پورے کیے ہوں سوائے رمضان کے مہینے کے اور میں نے شعبان کے مہینے کی بنسبت کسی مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا یعنی شعبان میں آپ ﷺ اتنے روزے رکھتے تھے کہ غیر شعبان میں اتنے نہیں رکھتے تھے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ تمام شعبان میں روزہ رکھتے تھے۔ یعنی شعبان کے سوائے چند دنوں کے مکمل روزے رکھتے تھے۔ (متفق علیہ)

تشریح ﴿ حدیث کے ابتداء کے معنی یہ ہے کہ حضور ﷺ کی عادت شریفہ نفل روزے میں یہ نہیں تھی کہ ہمیشہ روزے رکھیں۔ کبھی اتنے دن روزے رکھتے کہ لوگ گمان کر لیتے تھے کہ آپ ﷺ افطار ہی نہیں کریں گے اور کبھی اتنے روز افطار کرتے حتیٰ کہ لوگ گمان کر لیتے کہ آپ ﷺ روزہ رکھیں گے ہی نہیں اور جملہ آخر میں لفظ کان دوسرے سے جملہ اول کا بیان ہے کہ تمام۔

سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ اکثر شعبان میں روزہ رکھتے تھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ حضور ﷺ تمام شعبان میں ایک سال روزہ رکھتے اور اکثر شعبان میں دوسرے سال روزہ رکھتے تھے۔

شعبان کے روزوں کے بارے میں آپ ﷺ کا معمول

۲/۱۹۲۵ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ كَانَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ قَالَتْ مَا عَلِمْتُه صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ يَصُومُ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَنِيَّةٍ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۸۱۰/۲ حدیث رقم (۱۷۳-۱۱۵۶)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا نبی کریم ﷺ تمام مہینہ روزہ رکھتے تھے؟ فرمایا میں نہیں جانتی آپ ﷺ کو آپ نے تمام مہینہ روزے رکھے ہوں۔ سوائے رمضان کے اور تمام مہینے افطار بھی نہیں کیے یہاں تک کہ اس میں سے کچھ روزے رکھتے یہاں تک کہ آپ ﷺ کی وفات ہو گئی۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی بھی ماہ کے پورے روزے نہیں رکھے۔

شعبان کے آخری دنوں کے بارے میں آپ ﷺ کی تاکید

۳/۱۹۲۶ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْسَالُ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا أَبَا فَلَانٍ أَمَا صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۳۰/۴ - حدیث رقم ۱۹۸۳ - و مسلم فی صحیحہ ۸۲۰/۲ حدیث رقم (۱۹۹-۱۱۶۱)۔
والدارمی فی السنن ۳۰/۲ حدیث رقم ۱۷۴۲ - واحمد فی المسند ۴۴۴/۴۔

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کی کہ انہوں نے عمران سے یا کسی اور شخص سے پوچھا عمران من رہے تھے۔ پس فرمایا اے فلاں کے باپ! کیا تو نے شعبان کے آخر میں روزے نہیں رکھے؟ اس نے عرض کیا: نہیں! پس آپ نے فرمایا کہ جب رمضان ہو چکے اور افطار کر لے اس کے بدلے دو روزے رکھ لینا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس پر دو روزے ہر مہینے کے آخر میں نذر کی وجہ سے واجب کئے تھے تو جب وہ روزے فوت ہو گئے شعبان کے آخر میں تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب رمضان ہو چکے اور افطار کر لے تو اس کے بدلے دو روزے رکھ لے اور بعض نے کہا۔ اس کو ہر مہینے کے آخر میں دو روزے رکھنے کی عادت تھی اور ایک دفعہ شعبان کے آخر میں دو روزے رکھنے کا اتفاق نہ ہوا۔ تو آپ ﷺ نے استحباباً حکم فرمایا کہ مہینہ پورا ہونے کے بعد دو روزے رکھ لینا۔

بہترین روزہ اور بہترین نماز

۴/۱۹۲۷ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۸۲۱/۲ حدیث رقم (۲۰۲-۱۱۶۳)۔ و ابوداؤد فی السنن ۸۱۱/۲ حدیث رقم ۲۴۲۹۔

والترمذی ۱۱۷/۳ حدیث رقم ۷۴۰۔ وابن ماجہ ۵۵۴/۱ حدیث رقم ۱۷۴۲۔ والدارمی ۳۵۱/۲ حدیث رقم ۱۷۵۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا بہترین روزے رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینہ محرم کے روزے ہیں اور بہترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے۔ یہ امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: بعض حفاظ نے کہا ہے کہ اکثر حدیثیں رجب کے روزوں کے بارے میں موضوع ہیں اور فرض نماز کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ فرضوں اور اس کی مکدہ سنتوں کے بعد یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ رات کی نماز مکدہ سنتوں سے اس اعتبار سے افضل ہے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے اور اس میں ریا کاری بھی نہیں ہے اور مکدہ سنتیں رات کی نماز سے بہت زیادہ تاکید ہونے کی وجہ سے عاشوراء اور فرضوں کے تابع ہونے کی وجہ سے افضل ہیں اور فرضوں میں وتر بھی داخل ہیں۔

یوم عاشوراء کے روزے کی اہمیت

۵/۱۹۲۸ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرُ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحيحه ۲۴۵۱۴۔ حدیث رقم ۲۰۰۶۔ و مسلم فی صحيحه ۷۹۷/۲ حدیث رقم (۱۳۱-۱۱۳۲)۔

واحمد فی المسند ۲۲۲/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو نہیں دیکھا کہ کسی دن کے روزے کا اس لئے قصد کریں کہ اس کو دوسرے دنوں پر فضیلت دیتے ہوں مگر اس دن یعنی یوم عاشوراء کو اور اس مہینہ یعنی ماہ رمضان کو (دیگر ایام پر فضیلت دیتے تھے)۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کسی روزے کو اس کے غیر پر فضیلت نہیں دیتے تھے سوائے ۱۰ محرم الحرام کے روزے کو اور رمضان کے روزوں کو ان سب سے افضل گردانتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مذہب ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ کی باتوں سے اور اعمال سے ایسا سمجھ لیا اور نہ عرفہ کے دن کا روزہ عاشوراء کے دن کے روزے سے افضل ہے۔

عاشوراء کے روزے میں یہود و نصاریٰ کی مخالفت

۶/۱۹۲۹ وَعَنْهُ قَالَ جِئْنَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَآمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا

رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمُ يُعَظَّمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْنَ بَقِيَّتُ إِلَى قَابِلٍ لَا صَوْمَ النَّاسِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۷۹۸/۲ حدیث رقم ۱۱۳۴/۱۳۳۔ و ابوداؤد فی السنن ۸۱۸/۲ حدیث رقم ۲۴۴۵۔
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس دن کی تو یہود و نصاریٰ تعظیم کرتے ہیں اور ہمیں تو ان کی مخالفت پسند ہے تو ہم ان کی تعظیم کرنے میں ان کی کیوں موافقت کریں پس رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ۹ محرم الحرام کو بھی ضرور روزہ رکھوں گا۔ یہ مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ۴ تیسری فصل کی پہلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ سب سے پہلے آپ ﷺ نے عاشوراء کا روزہ اس کے واجب ہونے کی بناء پر رکھنے کے لیے صحابہ کو حکم کیا۔ بطور استحباب کے حکم فرمایا پھر جب ہجرت کا دسواں سال شروع ہوا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ جو کچھ مذکور ہوا اس کے جواب میں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نو سو تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا یا فقط نو سو کا فرمایا ساتھ دسویں کا بھی فی الجملة۔ اس وجہ سے یہود و نصاریٰ کی مخالفت ہو جائے گی اور پہلی مراد ظاہر ہے پھر نبی کریم ﷺ آئندہ سال تک زندہ نہ رہے بلکہ بارہ ربیع الاول کو وفات پائی تو نو سو کا روزہ بھی سنت ہو گیا اس لیے کہ آپ ﷺ نے روزے کی نیت کی تھی روزہ رکھنے کی نوبت نہیں آئی اور ابن ہمامؒ نے کہا ہے کہ عاشوراء کا روزہ مستحب ہے اور ایک دن پہلے روزہ رکھنا مستحب ہے اس کے ایک دن بعد اگر محض دسویں تاریخ کو رکھے تو یہود و نصاریٰ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مکروہ ہے۔

حج کرنے والے کے لیے عرفہ کا روزہ مسنون نہیں ہے

۷/۱۹۳۰ وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْخَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ بِقَدَحٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ يَعْرِفُهُ فَشَرِبَهُ -

(متفق علیہ)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۷۹۱/۲ حدیث رقم (۱۱۰ - ۱۱۲۳)۔ والبخاری فی صحیحہ ۱۴ حدیث رقم ۱۹۸۸۔ و ابوداؤد فی السنن ۸۱۷/۲ حدیث رقم ۲۴۴۱۔ والنسائی ۱۸۴/۴ حدیث رقم ۲۲۸۹۔

ترمذی رحمہ اللہ: ام الفضلؓ کی بیٹی سے روایت ہے کہ کتنوں شخصوں نے عرفہ کے روزے کے بارے میں نبی کریم ﷺ کے روزہ رکھنے میں (عرفہ کے دن) جھگڑا کیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ حضور ﷺ روزے سے ہیں اور بعضوں نے کہا کہ روزے سے نہیں ہیں پس میں نے حضور ﷺ کے پاس دودھ کا پیالہ بھیجا۔ اس وقت آپ ﷺ میدانِ عرفہ میں اپنے اونٹ پر کھڑے تھے تو آپ ﷺ نے اس دودھ کو پی لیا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ۴ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کا روزہ حج کرنے والوں کے لیے مسنون نہیں ہے اور حاجیوں کے علاوہ کے لیے سنت ہے۔ ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی اور حضور ﷺ کی چچی تھیں۔

عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کا مسئلہ

۸/۱۹۳۱ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطْرَ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۸۳۳/۲ حدیث رقم (۱۱۷۶/۹)۔ وابوداؤد فی السنن ۸۱۷/۲ حدیث رقم ۲۴۳۹۔ والترمذی ۱۲۹/۳ حدیث رقم ۷۵۶۔ وابن ماجہ ۵۵۱/۱ حدیث رقم ۱۷۲۹۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو عشرہ میں روزہ رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کو مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں جو عشرہ کا ذکر آیا ہے اس سے مراد ذی الحجہ کے پہلے دس دن ہیں اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سوائے دسویں تاریخ کے ہر روز ان دس دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب ایک سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے اور ہر شب میں قیام کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کے ثواب کے برابر ہے۔ پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد اس حدیث سے یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے علم کی نفی کی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نہ دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور ﷺ نے روزہ نہ رکھا ہو اور یا یہ احتمال ہے کہ آپ ﷺ نے صرف ان دنوں کے روزہ رکھنے کا ثواب ذکر فرمایا اور آپ ﷺ کو روزہ رکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ (مرقات)

نفلی روزوں کے احکام اور آپ ﷺ کا عمل

۹/۱۹۳۲ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ فَقَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ غَضَبَهُ قَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ فَجَعَلَ عُمَرُ يَرِدُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يَفْطِرْ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ وَدِدْتُ أَنْ أُنِي طَوِّفْتُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ احْتَسِبْ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ عَاشُورَاءَ احْتَسِبْ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۸۱۸/۲ حدیث رقم (۱۹۶-۱۱۶۲)۔ وابوداؤد فی السنن ۸۰۷/۲ حدیث رقم ۲۴۲۵۔

ترجمہ: حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور ﷺ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ ﷺ کس طرح روزہ رکھتے ہیں؟ پس اس شخص کی بات سن کر نبی کریم ﷺ غصے ہوئے تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کے غصے کو دیکھا

تو فرمایا ہم اللہ کے رب ہونے پر اور محمد ﷺ کے نبی ہونے پر راضی ہیں اور ہم اللہ کے رسول ﷺ کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار اس جملہ کو کہتے تھے یہاں تک حضور ﷺ کا غصہ ختم ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اے اللہ کے رسول! اس شخص کا کیا حال ہے جو ہمیشہ روزہ رکھے؟ فرمایا نہ ہی اس نے روزہ رکھا اور نہ ہی افطار کیا۔ پس راوی کو شک ہوا ہے کہ کوئی لفظ ارشاد فرمائے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول! اس شخص کا کیا حال ہے جو دو دن روزہ رکھے اور دو دن افطار کرے؟ فرمایا کوئی طاقت رکھتا ہے اس کی؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول! اس شخص کا کیا حال ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرے فرمایا یہ روزہ حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس شخص کا کیا حال ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور دو دن افطار کرے۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے یہ طاقت دی جائے کہ میں ایسا کروں۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مہینے میں تین روزے اور رمضان تارمضان رکھو۔ یہ ہمیشہ کے روزے ہیں یعنی ان کا ثواب ایسا ہوتا ہے ان کو ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور عرفہ کے دن کا روزہ غیر حاجی کے لیے کہ میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑ دے گا۔ ایک سال کے پہلے جو اس سے ہیں اور ایک سال کے بعد ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس میں گناہ کرنے سے محفوظ رکھے گا۔ اگر گناہ ہو جائیں تو بخش دے جائیں گے اور عاشوراء کے دن روزہ رکھنا ایک سال کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ اس کو مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ کے غصے کے بارے میں معلوم ہوا۔ یعنی غصے سے مراد آپ ﷺ کے چہرہ مبارک پر ناراضگی کے آثار معلوم ہوئے اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے بارے میں سوال کرتا یعنی اپنی حالت کے بارے میں پوچھتا کہ میں کیسے روزہ رکھوں تاکہ حضور اکرم ﷺ میری حالت کے موافق جواب ارشاد فرمائیں نہ یہ کہ حضور ﷺ کی حالت کے بارے میں پوچھتا۔ کیونکہ آپ ﷺ کے احوال و افعال قلت و کثرت کے اعتبار سے اسرار و مصالح پر مبنی تھے۔ ہر کسی کے افعال تو ایسے نہیں ہو سکتے اور حضور ﷺ بہت زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے اس لیے کہ آپ ﷺ زیادہ تر مسلمانوں کے مصالح اور بیبوں کے حقوق کی لحاظ داری میں مشغول رہتے تھے۔ ایسی صورت میں یہ ناممکن تھا کہ آپ ﷺ نفلی روزے کثرت سے رکھے اور جو ہمیشہ روزہ رکھے وہ شخص جو سوال کرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ادب و عاجزی کا لحاظ کرتے ہوئے پوچھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو ممنوع روزے بھی رکھے یعنی تمام سال روزے رکھے حتیٰ کہ عیدین اور ایام تشریق میں بھی نہ چھوڑے اور جو ایام ممنوعہ میں روزہ نہ رکھے اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ یعنی ہر روز روزہ رکھنا اچھا ہے یا برا؟ سوال کرنے والا آپ ﷺ سے حقیقت میں یہی پوچھنا چاہتا تھا لیکن اس نے آپ ﷺ سے سوال کرنے کے لئے غلط انداز اپنایا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے نہایت ادب و عاجزی و انکساری کے دائرے میں رہتے ہوئے دریافت فرمایا کہ جو شخص ہر روزہ نفلی روزہ رکھے شریعت کی نگاہ میں وہ شخص کیسا ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”لا صام ولا افطر“ علماء کرام آپ ﷺ کے اس جواب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جملہ یا تو ایسے شخص کے لئے تنبیہ ہے یا بدعا ہے یا پھر یہ جملہ ایسے شخص کے حال کی خبر ہے کہ شریعت کی نگاہ میں نہ تو وہ صائم ہے اور نہ ہی روزہ افطار کرنے والا کیونکہ اس نے شریعت کے حکم کے مطابق روزہ نہیں رکھا اور وہ روزہ افطار کرنے والا اس لئے نہیں ہے کیونکہ اس نے سارا دن کھانے پینے کی

تمام اشیا ترک کی رکھیں۔ اس کو باقی روزے رکھنے کا کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ابو طلحہؓ اور حمزہ ابن عمروؓ سلمیٰ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے سوائے منع کیا گئے ایام میں اور انہیں انکار کیا ان پر نبی کریم ﷺ نے یا علت نہیں کی ہے کہ اس طرح کے روزے ضعیف کر دیتے ہیں پس آدمی جہاد سے عاجز ہوتے اور ادائے حقوق سے پس جو کرو نہ کرہ اس میں سے کوئی مضائقہ نہیں ہے اور ابن ہمامؒ نے کہا ہے ہمیش کے روزے مکروہ ہیں یعنی مکروہ تنزیہی۔ اس لیے کہ کمزور کر دیتے ہیں اور فتاویٰ عالمگیری اور درمختار میں بھی لکھا ہے کہ صوم دیر مکروہ ہے کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے یعنی اگر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے اس کو۔ پس یہ افضل ہے اور یہ روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے یعنی یہ نہایت معتدل ہے اور اس میں رعایت عبادت و عادت کی ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ علم میں اس طرح کوشش کرے کہ نہ منع کرے تجھ کو عمل سے اور عمل میں کوشش کر اس طرح کہ نہ منع کرے تجھ کو علم سے خیر الامور او سطھا و شرھا تفریطھا و افراطھا۔ اسی لیے وارد ہوا ہے: افضل الصیام صیام داؤد علی نبینا و علیہ السلام۔

یعنی میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے ایک دن روزہ رکھنے کی طاقت دی جائے اور دو دن افطار کرو اور اس سلسلے میں مجھ کو مسلمانوں کے حقوق و مصالح مانع نہ بنیں۔ اس عبارت میں اشارہ ہے اس پر کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ مگر یہ کہ حق تعالیٰ مجھ کو قوت دے اس کی حاصل یہ کہ پسند کیا آنحضرت ﷺ کو بھی لیکن طاقت نہ ہونے کی وجہ سے عمل میں نہیں لائے اور تین روزے ہر مہینے میں یعنی ایام بیض تیرہویں چودھویں اور پندرہویں کے اور بعضوں نے کہا کوئی سے تین روزے رکھے مہینے میں یہی ثواب پائے گا اور یہی درست ہے برطابق حضرت عائشہ صدیقہؓ کی حدیث کے جو آگے آ رہی ہے۔

سوموار کے دن کی اہمیت

۱۰/۱۹۳۳ وَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيهِ وَلَدَتْ وَفِيهِ انْزَلَ عَلَيَّ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۸۲۰۱۲ حدیث رقم (۱۹۸-۱۱۶۲)۔ واحمد فی المسند ۲۹۹/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سے پیر کے دن کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں اور اسی دن مجھ پر کتاب اترا شروع ہوئی۔ اس کو مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا اس روز کے روزے کے استحباب کی وجہ سے پوچھی گئی۔ بہر کیف اس کا سبب یہ ہے کہ اس دن اہل دنیا کو بہت بڑی نعمت ملی کہ حضور ﷺ پیدا ہوئے اور اس دن میں دین اتر ان دونوں کا شکر یہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔

مہینے کے تین روزوں کا ذکر

۱۱/۱۹۳۳ وَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهَا مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يَبْلُغُنِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ

يَصُومُ. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۲۱۸/۲ حديث رقم (۱۹۴-۱۱۶۰)۔ وابوداؤد في السنن ۸۲۳/۲ حديث رقم ۲۴۵۳۔
والترمذی فی السنن ۱۳۵/۳ حديث رقم ۷۶۳۔ وابن ماجه ۵۴۵/۱ حديث رقم ۱۷۰۹۔
ترجمہ: حضرت معاذہ عدویہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم ﷺ ہر مہینے میں
تین دن روزہ رکھتے تھے؟ فرماتی ہیں کہ ہاں رکھتے تھے، پھر میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ مہینے کے کون سے
دنوں میں روزہ رکھتے تھے؟ فرمایا کہ مہینے کے کسی بھی دن کی پرواہ نہ کرتے تھے یعنی جس دن چاہتے رکھتے تھے کسی دن کی
تعیین نہیں تھی۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھنا کافی ہے جب چاہے رکھے تیر ہوئیں،
چودھویں، پندرھویں تاریخ کی کوئی قید نہیں۔ لیکن اکثر احادیث اور آثار میں یہ تاریخیں مذکور ہیں۔ پس ان تاریخوں میں روزہ
رکھنا افضل ہے جو آگے منقول ہوگی۔

شوال کے روزوں کی فضیلت

۱۲/۱۹۳۵ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ
رَمَضَانَ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۸۲۲/۲ حديث رقم (۲۰۴-۱۱۶۴)۔ وابوداؤد في السنن ۸۱۲/۲ حديث رقم ۲۴۳۳۔
والترمذی فی السنن ۱۳۲/۳ حديث رقم ۷۵۹۔ وابن ماجه ۵۴۷/۱ حديث رقم ۱۷۱۶۔ والدارمی ۳۴۱/۲ حديث رقم ۱۷۵۴۔
ترجمہ: حضرت ابویوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ ابویوب نے راوی عمرو بن ثابتؓ سے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم
ﷺ نے ارشاد فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے۔ پھر اس کے بعد شوال کے چھ دن روزے رکھے وہ ہمیشہ روزہ رکھنے
والے کی طرح ہوگا۔ یہ امام مسلمؒ نے نقل کی ہے۔

تشریح: امام شافعیؒ کے نزدیک ان روزوں کا متصل رکھنا بہتر ہے یعنی شوال کی دوسری تاریخ سے ساتویں تاریخ تک
رکھ لے اور امام اعظمؒ کے نزدیک متفرق رکھنا افضل ہے کہ سارے مہینے میں جب چاہے رکھ لے۔

عید کے دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے

۱۳/۱۹۳۶ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ.

(متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۲۹/۴ حديث رقم ۱۹۹۱ و مسلم فی صحیحہ ۸۰۰/۲ حديث رقم (۱۴۱-۸۲۷)۔
وابوداؤد فی السنن ۸۰۳/۲ حديث رقم ۲۴۱۷۔ والترمذی ۱۴۲/۳ حديث رقم ۷۷۲۔ وابن ماجه ۵۴۹/۱ حديث رقم
۱۷۲۱۔ والدارمی ۳۴۱/۲ حديث رقم ۱۷۵۳۔ واحمد فی المسند ۷۱/۳۔ فی المخطوطہ ((اعتراض))۔
ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فطر (یعنی عید الفطر) کے دن اور نحر (یعنی دس ذی

الحجہ) کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یہ بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ☞ اس حدیث میں نحر کا ذکر کیا گیا ہے اور نحر سے مراد جس ہے یعنی ایام نحر کے تمام دن ہیں اور اس میں تغلیب ہے اس لیے کہ ایام تشریق میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ نحر کے دن یعنی قربانی کرنے کے دن تین ہیں اور ایام تشریق کے دن بھی تین ہیں مگر ان سب کا مجموعہ چار دن بنتا ہے اس طور پر کہ ذی الحجہ کی دسویں تاریخ یوم النحر ہے اس دن کے بعد گیارہویں اور بارہویں ذی الحجہ ایام نحر بھی ہیں اور ایام تشریق بھی ہیں۔ ان دونوں کے بعد تیرہویں فقط یوم تشریق ہے۔ الحاصل یہ کہ پانچ روزے حرام ہیں دو روز عیدین (یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ) کے اور تین دن عید الاضحیٰ کے بعد یعنی گیارہویں بارہویں اور تیرہویں کے۔

۱۳/۱۹۳۷ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ-

(متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۷۰/۳ حدیث رقم ۱۱۹۷۔ و مسلم فی صحیحہ ۷۹۹/۲ حدیث رقم (۱۴۰-۸۲۷)۔ و ابوداؤد فی السنن ۸۰۲/۲ حدیث رقم ۱۱۹۷۔ و الترمذی ۱۴۱/۳ حدیث رقم ۷۷۱ و ابن ماجہ ۵۴۹/۱ حدیث رقم ۱۷۲۲۔
ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: روزہ رکھنا دو دنوں میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن جائز نہیں۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ☞ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دو دنوں میں روزہ نہیں ہے یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کیونکہ یہ خوشی و مسرت اور انعام پانے کے ایام ہوتے ہیں۔

ایام تشریق میں روزے رکھنا منع ہیں

۱۵/۱۹۳۸ وَعَنْ بُيُشَةَ الْهَذَلِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

وَذِكْرِ اللَّهِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۸۰۰/۲ حدیث رقم (۱۴۴-۱۱۴۱)۔ و ابوداؤد فی السنن ۸۰۴/۲ حدیث رقم ۲۴۱۹۔ و الترمذی ۱۴۳/۳ حدیث رقم ۷۷۳۔ و ابن ماجہ ۵۴۸/۱ حدیث رقم ۱۷۲۰۔
ترجمہ: حضرت نبیہ ہذلیؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے یاد کرنے کے دن ہیں۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ☞ ایام تشریق تین ہیں ذی الحجہ کی گیارہویں بارہویں اور تیرہویں تاریخ۔ یہاں ایام تشریق کا ذکر بطور تغلیب کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ نحر کا دن کھانے پینے کا ہے بلکہ وہ اصل دن ہے باقی اس کے تابع ہیں پس ان چار دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے اور ابن ہمامؒ نے کہا کہ نوروز اور مہرجان کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ ان دنوں روزہ رکھنے سے ان دنوں کی تعظیم لازم آئے گی جو دین میں ممنوع ہے اور اتفاق سے ان دنوں میں معمول آجائے تو روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے اور یہ اللہ کے یاد کرنے کے ایام ہیں یعنی باوجود کھانے پینے کے خدا سے غافل نہ ہو۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ

فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ﴿۱۶۹﴾ ”اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو گنتی کے دنوں میں۔“ اور اللہ کو یاد کرنے سے مراد ہے عید کی نماز کی تکبیرات کے بعد اور ذبح کے وقت اور رمی جمار اور ان کے علاوہ۔

تہاد دن کا روزہ نہ رکھے بلکہ ایک دن اور ساتھ ملا لے

۱۶/۱۹۳۹ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۳۲/۴ حدیث رقم ۱۹۸۵۔ و مسلم فی صحیحہ ۸۰۱/۲ حدیث رقم (۱۱۴۷-۱۱۴۴) و ابو داؤد فی السنن ۸۰۵/۲ حدیث رقم ۲۴۲۰۔ و الترمذی ۱۱۹/۳ حدیث رقم ۷۴۳۔ و ابن ماجہ ۵۴۹/۱ حدیث رقم ۱۷۲۳۔ و احمد فی المسند ۴۵۸/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے مگر اس طرح کہ وہ روزہ اس سے ایک دن پہلے رکھے یا اس سے ایک دن بعد رکھے۔ یہ بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔
تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ تہاد دن کا روزہ نہ رکھے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور دن ملا لے۔ اگر دونوں دن رکھے تو بہتر ہے اور یہ نئی تہذیبی ہے اور ابن ہمام نے کہا ہے کہ اکیلے جمعہ کا روزہ رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام محمد کا بھی یہی مسلک ہے۔

کسی دن کو عبادت کے لیے خاص کرنا منع ہے

۱۷/۱۹۴۰ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۸۰۱/۲ حدیث رقم (۱۱۴۸-۱۱۴۴)۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمام راتوں میں جمعہ کی رات کو اللہ کی عبادت کے لئے خاص نہ کرو۔ اسی طور پر تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے کے لئے خاص نہ کرو مگر یہ کہ تم میں سے کسی ایک کے روزے کے درمیان جس کو رکھنے کا پہلے سے معمول تھا اس دن جمعہ کا دن آجائے (تو پھر ایسی صورت میں) جمعہ کے دن روزہ رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہود ہفتہ کے دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کو عبادت کے لیے مخصوص رکھتے تھے اور نصاریٰ اتوار کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کو عبادت کے لیے مخصوص رکھتے تھے۔ پس اس لیے حضور ﷺ نے مسلمانوں کو منع فرمایا کہ تم اس طرح جمعہ اور جمعہ کی شب کو عبادت کے لیے مخصوص نہ کرو۔ تاکہ یہود و نصاریٰ کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ جتنی اسلام نے ان کے تعظیم و تکریم کرنے کی اجازت دی اتنی ہی کرو۔ اگرچہ مشابہت ہو جائے یعنی اپنی طرف سے تعظیم و تکریم نہ کریں یا اس وجہ سے منع کیا ہے کہ ہمہ وقت تو مخصوص طاعات و عبادت میں مشغول رہے اور ہمیشہ رحمت الہی کا امیدوار رہے۔

ایک وقت کو مخصوص کر لینا اور دوسرے وقت میں چھوڑ دینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ واللہ اعلم اور گروہ جمعہ کے دن مثلاً جمعہ کے دن روزہ رکھتا تھا تو اسی دن جمعہ آ گیا۔ مثلاً روزہ مانا تھا کہ فلانی تاریخ کو روزہ رکھوں گا اور وہ تاریخ جمعہ کے دن آ گئی تو اس وجہ سے جمعہ کے دن کا روزہ منع نہیں ہے اور علامہ نوویؒ نے کہا ہے اس حدیث میں شب جمعہ کو نماز (تہجد) کے لئے خاص کرنے کی صراحتاً ممانعت وارد ہوئی ہے۔ نیز علماء کرام نے اس حدیث کو بطور دلیل اختیار کرتے ہوئے صلوٰۃ الرغائب کو بدعت و مکروہ قرار دیا ہے۔ صلوٰۃ الرغائب اس نماز کو کہتے ہیں جو خاص طور پر جب کے مہینے کے پہلے جمعہ کی رات میں ادا کی جاتی ہے۔ علماء کرام نے اس نماز کی حقیقت و حیثیت کو واضح کرنے کے لئے متعدد کتابیں لکھی ہیں۔

صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے میں شارحینؒ نے جو توجیہات لکھی ہیں ان کے نزدیک یہ مکروہ نہیں ہے فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے کہ صرف جمعہ کا روزہ جائز ہے بلکہ درمختار میں اس کو مستحب کہا گیا ہے پس ان کے نزدیک شاید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث جو آگے آرہی ہے منع والی حدیثوں کے لیے ناخ ہے جس سے جمعہ کے دن روزہ رکھنا ممنوع معلوم ہوتا ہے۔

اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے کی فضیلت

۱۸/۱۹۳۱ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۷/۶۔ حدیث رقم ۲۸۴۰۔ ومسلم فی صحیحہ ۸۰۸/۲۔ حدیث رقم (۱۶۸-۱۱۵۳)۔
والترمذی فی السنن ۱۴۳/۴۔ حدیث رقم ۱۶۲۳۔ والنسائی فی السنن ۱۷۲/۴۔ حدیث رقم ۲۲۴۴۔ وابن ماجہ ۵۴۷/۱۔
حدیث رقم ۱۷۱۷۔ والدارمی ۲۶۷/۲۔ حدیث رقم ۲۳۹۹۔ واحمد فی المسند ۵۹/۳۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک دن راہ الہی میں روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ذات سے ستر برس کی مسافت کے مقدار آگ کو دور کر دے گا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔
تشریح: خدا کے راستے سے مراد جہاد ہے خالصہ جو اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اور خالصہ کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری و دکھلاوا کو ظاہر کرنا مقصود نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا مطلوب ہو۔

عبادت کرنے میں راہ اعتدال اختیار کرو

۱۹/۱۹۳۲ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ النَّعَاصِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أَخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ فَإِنْ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِرُؤُوسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَإِنْ لَكَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمَ الدَّهْرِ كِلَهُ صُمْ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَأَقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ وَصِيَامُ يَوْمٍ وَأَفْطَارُ يَوْمٍ وَأَقْرَأِ

فِي كُلِّ سَبْعٍ لَيَالٍ مَرَّةٌ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ - (متفق علی)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۱۷/۴ - حدیث رقم ۱۹۷۵ - ومسلم فی صحیحہ ۸۱۲/۲ حدیث رقم (۱۸۲ - ۱۱۵۹)

وابوداؤد فی السنن ۸۰۹/۲ حدیث رقم ۲۴۲۷ - والنسائی ۲۰۹/۴ حدیث رقم ۲۳۸۹ -

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ! کیا مجھے خبر نہیں دی گئی یعنی مجھ کو خبر پہنچی ہے کہ تو (روزانہ) دن کو روزے رکھتا ہے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے؟ میں نے جواباً عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول! جی ہاں ایسا ہی ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو اور قیام بھی کرو اور سو بھی جاؤ اس لیے کہ تیرے بدن کا تجھ پر حق ہے یعنی اپنے آپ کو بہت زیادہ مشقت میں نہ ڈالو تا کہ بیمار و ہلاک نہ ہو جاؤ اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے یعنی کبھی سو بھی جایا کرو۔ تاکہ آنکھیں آرام حاصل کریں اور تحقیق خیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے یعنی اس کے ساتھ سو جاؤ اور محبت و مخالطت کرو اور تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے یعنی اس سے کلام کرو اور اس کی خاطر داری کرو اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا (وہ ایسا ہے جیسا کہ) اس نے روزہ نہیں رکھا (البتہ) ہر ماہ میں تین دنوں کے روزے ہمیشہ روزہ رکھنے کے مساوی ہیں۔ پس ہر ماہ کے تین دن (خواہ ایام بیض کے یا اس کے علاوہ کے) روزے رکھا کرو اور اسی طرح ہر ماہ (کھل) قرآن پڑھا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں تو اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو پھر بہترین روزہ صوم داؤدی رکھ لیا کرو (اس کا طریقہ یہ ہے) ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن روزہ نہ رکھو یعنی کھاؤ پیو اور سات راتوں میں مکمل قرآن ختم کرو اور اس سے زیادہ نہ کرو۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عبادت کرنے میں حد اعتدال سے کام لو۔ عبادت میں زیادہ جہد و مشقت سے ضعف ہو جائے گا اور بدن کمزور پڑ جائے گا اور بعض ضروری عبادتوں میں خلل آ جائے گا اور ہر مہینے میں تین روزے رکھے گا ثواب ہمیشہ روزہ رکھنے کا لکھا جاتا ہے کیونکہ ہر نیکی پر دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں پس تین روزوں کے تیس لکھے گئے گویا سارے مہینے روزے ہی میں رہا۔

الفصل الثالث:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بقول آپ ﷺ کا پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا معمول

۲۰/۱۹۴۳ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ .

(رواہ الترمذی والنسائی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۲۱/۳ حدیث رقم ۷۴۵ - حدیث رقم ۲۳۶۱ - وابن ماجہ ۵۵۳/۱ حدیث رقم ۱۷۳۹ -

واحمد فی المسند ۱۰۶/۶ -

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ اس کو امام ترمذی اور نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔

اللہ رب العزت کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں

۲۱/۱۹۴۴ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْفَعُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۲۲/۳۔ حدیث رقم ۷۴۷۔ والدارمی ۳۳/۲۔ حدیث رقم ۱۷۵۱۔ واحمد فی المسند ۲۵۰/۵۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت کے دربار میں سوموار اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ پس مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال بھی پیش کیے جائیں اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں پیر اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ صبح وشام ملائکہ لے کر جاتے ہیں اور ان دونوں دنوں میں پیش ہوتے ہیں پس دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہ رہا اور رات کے عمل بلند کئے جاتے ہیں دن کے عمل سے پہلے اور دن کے عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کئے جاتے ہیں یا یہ کہ مفصل تو ہر روز پیش کیے جاتے ہیں اور محمل ان دونوں میں پیش ہوتے ہیں۔

ایام بیض کے روزے

۲۲/۱۹۴۵ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ كَصُمِّ ثَلَاثَ عَشْرَةٍ وَأَرْبَعَ عَشْرَةٍ وَخَمْسَ عَشْرَةٍ۔ (رواه الترمذی والنسائی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۳۴/۳۔ حدیث رقم ۷۶۱۔ والنسائی ۲۲۳/۴۔ حدیث رقم ۲۴۲۲۔ واحمد فی المسند ۱۵۰/۵۔
ترجمہ: حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر! جب تو مہینے میں تین دن روزہ رکھنا چاہے تو تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں کو روزہ رکھ (ان ایام کو ایام بیض کہتے ہیں)۔ اس کو امام ترمذی اور نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں ایام بیض کے روزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے ہر مہینے میں تین دن کے روزوں کے بارے میں کئی طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہر مہینے میں تین دن روزے رکھا کرو۔ تیرہویں اور چودھویں اور پندرہویں کو لیکن افضل اس میں یہ ہے کہ ان مذکورہ تین دنوں میں روزہ رکھے۔ ان ایام کو ایام بیض کہتے ہیں۔

آپ ﷺ کا معمول مہینہ کے تین روزے رکھنے کا تھا

۲۳/۱۹۴۶ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غَرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔ (رواه الترمذی والنسائی ورواه ابو داود الى ثلثة ایام)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۲۸۲/۲ حدیث رقم ۲۴۵۰۔ والترمذی فی السنن ۱۱۸/۳ حدیث رقم ۷۴۲۔ والنسائی ۲۰۴/۴ حدیث رقم ۲۳۶۸۔ واحمد فی المسند ۴۰۶/۱۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کبھی مہینے کے پہلے تین دن روزہ رکھتے تھے اور بہت کم جمعہ کے دن افطار کیا کرتے تھے۔ اس کو امام ترمذی اور نسائی نے نقل کیا ہے اور ابو داؤد نے ثلاثہ ایام تک روایت کی ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے تعارض معلوم ہوتا ہے کہ پہلی روایات میں گزر چکا ہے کہ صرف جمعہ کے دن روزہ نہ رکھتے اور اس حدیث پاک سے روزہ رکھنا ثابت ہوتا ہے۔ پس اس حدیث کی تاویل یہ ہے کہ آپ ﷺ جمعہ کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھتے تھے اور یا جمعہ کے دن روزہ رکھنا حضور ﷺ کے ساتھ خاص تھا یا مسلسل روزے رکھنا اور یا اس سے روزہ لغو مراد تھا۔ یعنی آپ ﷺ جمعہ کی نماز تک کھانے پینے سے رُکے رہتے تھے۔ مذکورہ تاویل ان حضرات کے مسلک کے پیش نظر ہے جو جمعہ کے دن نفلی روزہ رکھنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ احناف کے نزدیک جمعہ کے دن روزہ رکھنا جائز ہے لہذا اس تاویل کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ وہ اسی حدیث سے اس روزے کا جائز ہونا ثابت کرتے تھے۔

ہفتہ کے دنوں میں روزہ رکھنے کا آپ ﷺ کا معمول مبارک

۲۳/۱۹۳۷ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتِ وَالْآخِذِ وَالْإِثْنَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخِرِ الْفَلَائِئَ وَالْأَرْبَعَاءَ وَالْخَمِيسَ۔ (رواہ الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۲۲/۳ حدیث رقم ۷۴۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کسی مہینے میں ہفتہ اتوار اور پیر کو اور کسی مہینے میں منگل بدھ اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ آپ ﷺ ہفتہ کے تمام دنوں میں روزے رکھتے تھے گویا کہ آپ ﷺ ہفتہ کے تمام دنوں میں عدل کیا کرتے تھے اور ہفتہ کے تمام دنوں میں روزے رکھتے تھے اس لیے کہ تمام دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اس لیے آپ ﷺ نے مناسب نہ سمجھا کہ بعض دنوں میں روزہ رکھیں اور بعض دنوں میں نہ رکھیں جمعہ کے روزے کا پہلی حدیث میں تذکرہ گزر چکا ہے اور باقی چھ دنوں میں روزہ رکھنے کا تذکرہ اس حدیث پاک میں گزرا ہے۔

ہفتے میں تین دن روزے رکھنے کا معمول اور اسکی ابتداء پیر یا منگل سے کرتے تھے

۲۵/۱۹۳۸ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلُهَا الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسُ (رواہ ابو داؤد والنسائی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۸۲۲/۲ حدیث رقم ۲۴۵۲۔ والنسائی ۲۲۱/۴ حدیث رقم ۲۴۱۹۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ مجھے حکم فرماتے تھے کہ میں ہر مہینے کے تین روزے رکھوں۔

پہلا دن پیر کا ہو یا جمعرات کا ہو۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ مبینے کے تین دن کے روزوں کی ابتداء پیر یا جمعرات کے روزے سے کرتے تھے اور انیس کے لفظ میں واو بمعنی او کے ہے یعنی آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین دن کے روزے رکھو کہ ان کا پہلا دن پیر کا ہو اور دودن متنگل اور بدھ کے یا پہلا دن جمعرات کا ہو اور دودن جمعہ یا ہفتہ کے ہوں چنانچہ طبرانی کی روایت میں لفظ او ہی آیا ہے غرضیکہ روزے رکھنے والا اختیار رکھتا ہے کہ ابتداء پیر کے دن سے کرے یا جمعرات کے دن سے کرے یہ دونوں دن تبرک ہیں۔

ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر اجر

۲۶/۱۹۳۹ وَعَنْ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَوْ سَيْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ إِنَّ لَا هَلَكَ عَلَيْكَ حَقًّا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلَّ أَرْبَعَاءَ وَخَمِيسٍ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ كُلَّهُ - (رواه ابو داود والترمذی)

اخرجه ابو داود ۸۱۲۲/۲ حدیث رقم ۲۴۳۲۔ والترمذی فی السنن ۱۲۳/۳ حدیث رقم ۷۴۸۔

ترجمہ: حضرت مسلم قرشیؒ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا یا نبی کریم ﷺ سے ہمیشہ کے روزے رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا۔ پس فرمایا کہ تیرے اہل والوں کا تجھ پر حق ہے رمضان کے روزے رکھو اور ان ایام کے جو ان کے قریب ہیں یعنی چھ عید کے روزے رکھو اور ہر بدھ اور جمعرات کو بھی روزہ رکھ لیا کرو۔ پس تو یہ روزے رکھے گا۔ تو ہمیشہ روزے رکھنے والا ہو گا۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ان ایام مذکورہ کے روزے رکھ لیا کرو۔ تمہیں ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ثواب ملے گا اور ارشاد فرمایا کہ تیرے اہل والوں کا تجھ پر حق ہے۔ یعنی ان کے حقوق کا خیال رکھنا بھی دین میں شامل ہے اور ہمیشہ روزہ رکھنا کمزوری کا باعث ہوتا ہے اور اس سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی آتی ہے اور اس طرح دوسری عبادتوں میں بھی خلل پڑتا ہے پس اس لیے یہ مکروہ ہے اور جس شخص کو کمزوری نہ ہو۔ اس کے لیے مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اور اسی طرح ہمیشہ روزہ رکھنے کے بارے میں منقول احادیث میں اور بعض بزرگوں کے فعل میں جو مسلسل روزے رکھتے مذکورہ بالا تشریح سے تطبیق ہو جاتی ہے اور شاید یہ حدیث پہلے گزری ہوگی اس حدیث سے کہ جس میں گزرا ہے کہ ہمیشہ ہر ماہ کے تین روزوں کی وجہ سے ہمیشہ کے روزوں کا ثواب ملتا ہے ایک فائدے میں ابن الہمام وغیرہ کے قول نقل کیے گئے ہیں ان سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ کے روزے رکھنا مطلقاً مکروہ ہیں اور درمختار میں لکھا ہے کہ ہمیشہ کے روزے مکروہ تنزیہی ہیں اور یہاں جو ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے اس سے معلوم ہوا ہے کہ اگر کمزوری کا خوف ہے تو مکروہ ہیں اور نہیں تو ان میں تطبیق یوں دی جائے گی کہ وہ روایتیں خوفِ ضعف پر محمول ہیں۔

یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کی ممانعت

۲۷/۱۹۵۰ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ.

(رواہ ابو داؤد)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۸۱۶/۲ حدیث رقم ۲۴۴۰۔ وابن ماجہ ۵۵۱/۱ حدیث رقم ۱۷۳۲۔ واحمد فی المسند ۴۴۶/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے عرفہ کے دن عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں میدان عرفات میں عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے اس لیے کہ روزہ رکھنے سے وہاں کے افعال میں کمی واقع ہوگی اور یہ بھی تحریمی ہے نہ کہ تحریمی۔

اکیلے ہفتہ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت

۲۸/۱۹۵۱ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عَوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ۔

(رواہ احمد و ابو داؤد و الترمذی وابن ماجہ والدارمی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۸۰۵/۲ حدیث رقم ۲۴۲۱۔ و الترمذی ۱۲۰/۳ حدیث رقم ۷۴۴۔ وابن ماجہ ۵۵۰/۱ حدیث

رقم ۱۷۲۶۔ والدارمی ۳۲/۲ حدیث رقم ۱۷۴۹۔ واحمد فی المسند ۱۶۸/۶۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن بسرؓ سے روایت ہے انہوں نے اپنی بہن سے نقل کی ہے کہ جس کا نام صماء تھا کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم (اکیلے) ہفتے کے دن روزہ نہ رکھو۔ مگر اس صورت میں کہ تم پر فرض کیا جائے پس اگر تم میں سے کوئی انگور کے درخت کی چھال یا درخت کی لکڑی کے علاوہ کوئی چیز کھانے کی نہ پائے پس اس کو چا پیے کہ وہی چبالے۔ اس کو امام احمد ابو داؤد و ترمذی ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس دن روزہ رکھنا تم پر فرض کر دیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ ضروری ہو مثلاً رمضان المبارک کا فرض روزہ ہو یا کفارہ نذریا قضا کا روزہ ہو اسی طرح سنت مؤکدہ کا روزہ ہو مثلاً عرفہ اور دس محرم کا روزہ یہ دونوں روزے بھی ضروری روزے سمجھے جاتے ہیں یا ان کے علاوہ اور کوئی مسنون و مستحب روزہ ہو۔ ان تمام میں سے کوئی روزہ اگر ہفتہ کے دن آجائے تو اس ہفتہ کے روزہ روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں ہے۔

پس اس کو چا پیے کہ ہفتے کے دن کو افطار کرے اگر ہفتے کے دن کا روزہ رکھتا ہو اور اگر کچھ نہ پائے ماسوا انگور کے پوست کے طرح یا درخت کی لکڑی وغیرہ کے تو ان چیزوں کو چبا کر بھی روزہ توڑ ڈالے۔ کیونکہ اس دن کے روزہ رکھنے سے ہفتے کے دن کی تعظیم لازم آتی ہے اور اس کی تعظیم کرنے میں یہودی مشابہت ہوتی ہے اگرچہ وہ اس دن اپنی عید کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے لیکن وہ تعظیم کرتے ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ بھی تحریمی ہے۔

اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے کا اجر

۲۹/۱۹۵۲ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ

اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۴۳/۴ حدیث رقم ۱۶۲۴۔

ترجمہ: حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک دن خدا کے راستے میں روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور (جہنم کی) آگ کے درمیان ایسی خندق بنا دے گا جس کا درمیانی فاصلہ آسمان و زمین کے مابین فاصلے کے برابر ہوگا۔ اس کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص خدا کے راستے میں ایک دن روزہ رکھے گا یا حج کے راستے میں یا عمرے کے راستے میں یا طلب علم کے راستے میں یا اللہ کی رضامندی طلب کرنے کے لیے ایک دن روزہ رکھے گا اور خندق سے مراد بڑی مضبوط رکاوٹ اور سخت پردہ ہے۔

سردیوں کے موسم میں روزہ رکھنا غنیمت ہے

۳۰/۱۹۵۳ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمِ فِي

الْشِّتَاءِ (رواه احمد والترمذی وقال هذا حديث مرسل وذكر حديث ابی هريرة) مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ -

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۶۲/۳ حدیث رقم ۷۹۷۔ واحمد فی المسند ۳۳۵/۴۔

ترجمہ: حضرت عامر بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ٹھنڈی غنیمت سردی کے موسم میں روزہ رکھنا ہے (کیونکہ ایسے روزے میں بغیر کسی تھکاوٹ و مشقت کے ثواب ملتا ہے)۔ اس کو امام احمد اور ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث مرسل ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث قربانی کے باب میں ذکر کی گئی ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا سردی کے موسم میں روزہ رکھنا غنیمت ہے کیونکہ اس میں مشقت کم اٹھانی پڑتی ہے اور اجر و ثواب پورا ملتا ہے۔ اس حدیث میں تشبیہ دی گئی ہے کہ اصل روزہ سردی کی موسم میں ٹھنڈی غنیمت کی طرح ہے سردی کا موسم مومن کی بہار ہے کیونکہ اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے اور رات لمبی ہوتی ہے اور قیام اللیل میں مشغول ہوتا ہے اس لیے اس کو غنیمت کہا گیا ہے۔

الفصل الثالث:

عاشوراء کے روزہ رکھنے کی وجہ

۳۱/۱۹۵۳ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي تَصُومُونَهُ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَتَحْنُ نَصُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۴۴/۴ - حدیث رقم ۲۰۰۴ - ومسلم فی صحیحہ ۷۹۵/۲ حدیث رقم (۱۲۷ - ۱۲۳۰) - وابوداؤد فی السنن ۸۱۸/۲ حدیث رقم ۲۴۴۴ - وابن ماجہ ۵۵۲/۱ حدیث رقم ۱۷۳۴ - والدارمی ۳۶۱/۲ حدیث رقم ۱۷۵۹ - واحمد فی المسند ۳۵۹/۲ -

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ مدینہ میں تشریف لائے۔ پس یہودیوں کو عاشوراء کے دن روزے سے پایا پس ان کو نبی کریم ﷺ نے فرمایا یہ دن کیا ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا یہ بڑا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا۔ پس اس دن موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے لئے روزہ رکھا۔ پس ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں پھر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا پس ہم تم سے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک زیادہ لائق تر ہیں۔ پس نبی کریم ﷺ نے روزہ رکھا اور اس دن کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں عاشوراء کے روزہ رکھنے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ روزہ یہودی کیوں رکھتے ہیں؟ یہودی بطور شکر کے روزہ رکھتے تھے اس کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا ہے اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہمارا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تم لوگوں سے زیادہ ہے اور ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اس لیے اہل اسلام عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔

ہفتہ اور اتوار کے دن روزہ رکھنے میں یہود و نصاریٰ کی مخالفت مقصود ہے

۳۲/۱۹۵۵ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْآخِذِ أَكْفَرُ مَا يَصُومُ مِنَ الْآيَامِ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ فَآنَا أَحَبُّ أَنْ أَحَالَ لَهُمُ (رواه احمد)

اخرجه احمد فی المسند ۳۲۴/۶ -

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ہفتہ اور اتوار کے دن دوسرے دنوں کی بہ نسبت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ آپ ﷺ فرماتے تھے یہ دو دن مشرکوں کے لئے عید ہیں یعنی وہ ان میں عید کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے۔ پس

مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں ان کے خلاف کروں۔ اس روایت کو امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہود و نصاریٰ کو مشرک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہود کہتے تھے کہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اس مذکورہ حدیث اور پہلے والی حدیث میں تطبیق اس طرح ہے کہ مذکورہ حدیث کا تعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ خاص ہے اور گزشتہ حدیث امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے یا پھر یوں کہا جائے گا کہ جو روزہ ہفتہ کے دن کی تعظیم کی خاطر رکھا جائے گا وہ روزہ رکھنا ممنوع ہے اور جو روزہ یہود و نصاریٰ کی مخالفت میں رکھا جائے گا وہ پسندیدہ ہے۔

عاشوراء کے دن کی اہمیت

۳۳/۱۹۵۶ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيُحَنُّ عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحہ ۷۹۴/۲ حدیث رقم (۱۲۵۰-۱۱۲۸)۔

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کے بارے میں حکم فرماتے تھے اور ہمیں اس پر رغبت دلاتے تھے اور اس دن کے نزدیک آنے پر ہماری خبر گیری کرتے۔ پس جب رمضان فرض ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہم کو اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور نہ ہی منع فرمایا اور نہ ہی عاشوراء کا روزہ رکھنے سے اس دن کے آنے کی خبر گیری کی۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ حدیث میں لفظ "يَأْمُرُنَا" ہے یہ مشکوٰۃ شریف کے اکثر نسخوں میں نا کے بغیر ہے۔ مگر صحیح مسلم میں موجود ہے علامہ ابن حجر فرماتے ہیں: يَأْمُرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ سے پتہ چلتا ہے کہ صحت کے لیے اس شخص نے اس کو واجب کہا ہے۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ بالکل واجب نہیں ہے۔

اور بطور دلیل کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش فرماتے ہیں تو انہوں نے مدینہ میں یوم عاشوراء کے دن خطبہ دیا اور فرمایا اے مدینہ والو! تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عاشوراء کے دن تم پر روزہ ضروری نہیں ہے اس بات پر روزہ عاشوراء کا روزہ واجب نہیں ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار چیزوں پر مداومت

۳۴/۱۹۵۷ وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ أَرَبْعٌ لَمْ يَكُنْ يَذْعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامُ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ (رواه النسائي)

اخرجه النسائي فی السنن ۱۲۰/۴ حدیث رقم ۲۴۱۶۔ واحمد فی المسند ج ۲۸۷/۶۔

ترجمہ: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ چار چیزیں سنت مؤکدہ سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں چھوڑتے تھے: ﴿۱﴾ عاشوراء کا روزہ رکھنا ﴿۲﴾ عشرہ ذی الحجہ کے روزے ﴿۳﴾ ہر مہینے میں تین روزے اور ﴿۴﴾ فجر سے پہلے دو رکعتیں۔ یعنی فجر کی

سنیں۔ اس کو امام نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں ان چیزوں کا بیان ہے جن کو آپ ﷺ پابندی کے ساتھ کرتے تھے اور ان کا تذکرہ اوپر والی حدیث میں گزر چکا ہے۔ حدیث پاک میں محرم کی دسویں تاریخ کے روزے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس کے ایک دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزے کے برابر ملتا ہے۔

ایام بیض کے روزوں کے بارے میں آپ ﷺ کا معمول

۳۵/۱۹۵۸ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَفْطُرُ أَيَّامَ الْبَيْضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ۔ (رواہ النسائی)

اخرجه النسائی فی السنن ۱۹۸/۴ حدیث رقم ۲۳۴۵۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایام بیض کے روزے نہ سفر میں اور نہ ہی گھر میں افطار کرتے تھے۔ اس کو امام نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں ایام بیض کے روزوں کا بیان ہے ایام بیض سے مراد چاندنی راتوں کے دن ہیں یعنی تیرہویں، چودھویں، پندرہویں تاریخ کے دن۔ بیض لیلیٰ کی صفت ہے اور ان راتوں کو بیض اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں چاندنی اول سے لے کر آخر تک رہتی ہے اور یا بیض ایام کی صفت ہے ان کو بیض اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے روزے گناہوں کو دور کرتے ہیں اور دلوں کو روشن کرتے ہیں یا اس لیے بیض کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو ان کا تمام بدن سیاہ ہو گیا تھا۔ جب توبہ قبول ہوئی تو حکم ہوا کہ تین روزے رکھو ان تین دنوں میں جب انہوں نے تیرہویں کا روزہ رکھا تو تہائی بدن ان کا سفید اور روشن ہو گیا جب چودھویں کا روزہ رکھا تو دو تہائی بدن سفید و روشن ہو گیا۔ جب پندرہویں کا روزہ رکھا تو سارا بدن سفید و روشن ہو گیا اور جان لینا چاہیے کہ ہر مہینے میں تین روزے جو رکھنے مسنون ہیں بارہ طریقوں سے آتے ہیں ایک تو غیر معین سارے مہینے میں جب چاہے روزہ رکھ لے اور دوسرے یہ کہ پہلے تین روزے شروع مہینے کے۔ یعنی پہلی تاریخ سے لے کر تیسری تاریخ تک اور تیسرے ہفتے، اتوار، پیر اور چوتھے منگل، بدھ، جمعرات اور پانچویں، تیرہویں، چودھویں، پندرہویں اور چھٹے یہ کہ پہلا روز ان کا دو شنبہ ہو یعنی دو شنبہ، شنبہ، چار شنبہ اور ساتویں یہ کہ پہلا دن ان کا پنجشنبہ ہو یعنی جمعرات اور جمعہ کا دن اور ہفتہ اور آٹھویں نوچند پیر اور دو جمعراتیں اور نویں نوچندی جمعرات اور دو پیریں اور دسویں پیر اور جمعرات اور پھر دوسرے ہفتے کی پیر اور گیارہویں ہر عشرے میں ایک روزہ اور بارہویں نمبر پر تین روزے آخر مہینے میں۔

اور پورے سال میں مسنون روزے اکیاون ہیں تینتیس تو یہی ہیں بحساب تین روزے فی مہینہ اور نوروزے ذی الحجہ کے مہینے میں یعنی پہلی تاریخ سے نویں تک اور ایک عاشورے کا روزہ اور ایک عاشورے سے ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا اور شعبان کی پندرہویں تاریخ کا ایک روزہ اور شوال کے مہینے کے چھ روزے جن کو شش عید کے روزے کہتے ہیں۔

۳۶/۱۹۵۹ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْحَسَنِ

الصَّوْمُ۔ (رواہ ابن ماجہ)

اخرجه ابن ماجہ فی السنن ۵۵۵/۱ حدیث رقم ۱۷۴۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: زکوٰۃ کے معنی پاکیزہ ہونا اور بڑھنا کے ہیں ہر چیز کے لئے زکوٰۃ ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے لئے بڑھنا ہے جو اس چیز میں سے کچھ حصہ دے کر حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے لئے پاکیزگی کا آلہ ہے لہذا بدن کی زکوٰۃ یعنی بدن کی جسمانی صحت اور پاکیزگی کا ذریعہ روزہ ہے کہ اس سے بدن گھلتا ہے اور ناقص ہوتا ہے اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ پس روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے اور طاعت بدنی ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

۳۷/۱۹۶۰ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَقَالَ إِنَّ الْيَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا ذَا هَا جَرَيْنِ يَقُولُ دَعُهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا۔ (رواه احمد وابن ماجه)

اخرجه ابن ماجه ۵۵۳/۱ حديث رقم ۱۷۴۵۔ واحمد في المسند ۲۲۹/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے پس کہا گیا اے اللہ کے رسول! تحقیق آپ اکثر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہو۔ فرمایا کہ تحقیق پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی بخشش کرتا ہے مگر دو شخص جو ملاقات چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو چھوڑ دو یہاں کہ صلح کریں۔ اس کو امام احمد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اللہ تعالیٰ ان دنوں کے روزے کی وجہ سے بخشش کر دیتے ہیں۔ ان دنوں دنوں میں روزہ رکھتا ہوں۔ یعنی میں ان دنوں دنوں کی بزرگی و عظمت کی وجہ سے اور نعمت کا شکر یہ ادا کرنے کی وجہ سے اور مغفرت الہی کے باعث ان دنوں دنوں میں روزہ رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم کرتے ہیں جو کہ برائیوں کے مٹانے پر مامور ہوتے ہیں مغفرت کے آثار ظاہر ہونے کے وقت۔ یعنی وہ آپس میں صلح کر لیں تاکہ ان کی مغفرت ہو جائے۔

خالص عمل کا اللہ کے نزدیک اجر

۳۸/۱۹۶۱ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءً وَجْهِ اللَّهِ بَعَدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَبَعْدِ غُرَابٍ طَائِرٍ وَهُوَ فَرَّخٌ حَتَّى مَاتَ هَرِمًا۔ (رواه احمد وروى البيهقي في شعب الایمان عن سلمة بن قيس)

اخرجه احمد في المسند ۵۲۶/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو اڑتے ہوئے کوئے کی مسافت کے بقدر جہنم سے دور رکھے گا اور اس حال میں کہ وہ بچہ ہو اور یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اس کو امام احمد اور بیہقی نے شعب الایمان میں سلمہ بن قیس سے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے جو روزہ رکھے گا اس کا اجر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دے گا اور کہا گیا ہے کہ کوئے کی عمر ایک ہزار سال ہوتی ہے پس فرمایا کہ اگر کوئی ابتداءً عمر سے لے کر

آخری عمر تک اڑتا رہے تو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس قدر مسافت طے کریگا۔ جتنی مسافت وہ طے کرے گا اللہ تعالیٰ روزہ دار کو اتنا دوزخ سے دور کر دے گا۔

نبیہتی سے منقول ہے کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کا خاموش رہنا تسبیح ہے اور اس کا عمل مضاعف ہے یعنی دوگنا ہے اور اس کی دعا مقبول ہوتی ہے اور اس کا گناہ بخشا جاتا ہے اور نبیہتی سے یہ بھی منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی کی کہ جو بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھے میں اس کے جسم کو تندرست رکھتا ہوں اور اس کو بہت زیادہ ثواب عطا کرتا ہوں اور خطیب نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص نفلی روزہ رکھے کہ اس پر کوئی مطلع نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سوائے جنت کے کسی اور ثواب پر راضی نہیں ہوتا اور طبرانی نے روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک خوان ہے کہ اس پر ایسی چیزیں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ اس خوان پر روزہ داروں کے سوا کوئی نہیں بیٹھے گا۔

باب

یہ باب پہلے بابوں کے متعلق متفرق مسائل کے بیان میں ہے

الفصل الاول

نفلی روزہ کی نیت کا بیان

۱/۱۹۶۲ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَلَيْتَ إِذَا صَائِمٌ ثُمَّ آتَا نَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَىٰ لَنَا حَيْثُ فَقَالَ أَرَيْنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَآكَلْتُ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۸۰۹/۲ حدیث رقم (۱۷۰-۱۱۵۴)۔ و ابوداؤد فی السنن ۸۲۴/۲ حدیث رقم ۵۴۵۵۔

والنسائی ۱۹۳/۴ حدیث رقم ۲۳۲۲۔ و احمد فی المسند ۲۰۷/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے؟ ہم نے کہا نہیں پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت روزہ سے ہوں پھر ایک دن آپ ﷺ ہمارے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہمیں حیس بھیجا گیا ہے پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھے وہ دکھاؤ۔ پس میں نے صبح روزہ رکھا تھا پھر آپ ﷺ نے حیس کھا لیا۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

❦ دشربیح اس حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت روزہ سے ہوں یعنی میں نے روزے کی نیت کر

لی ہے اس سے معلوم ہوا نفلی روزہ کی نیت دن میں کرنا جائز ہے اور اکثر اماموں کا یہی مذہب ہے لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ ہر طرح کے روزہ کے لئے رات سے نیت کرنی واجب ہے۔ اس کا بیان ہو چکا ہے اور جیسے ایک کھانے کا نام ہے جو مثل مالیدہ کے ہوتا ہے کھجور گھی اور قروت کا بنتا ہے اور آپ ﷺ نے اس سے کھایا اس سے معلوم ہوا کہ نفلی روزہ بغیر عذر کے افطار کرنا جائز ہے اور اسی پر اکثر علماء کا اتفاق ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے علماء کہتے ہیں کہ اس کا پورا کرنا واجب ہے اور افطار کرنا جائز نہیں ہے مگر مہمانداری کے عذر کی وجہ سے اور اس کی مانند کے باعث افطار کرنا جائز ہے اور اس کی قضاء واجب ہے اگر افطار کرے پس اس حدیث میں یہ تاویل کرتے ہیں کہ یہ افطار کرنا کسی عذر کی وجہ سے تھا اور حنفیہ کے مذہب کی دلیل آگے آرہی ہے۔

روزہ توڑنے کے لیے ضیافت عذر ہے یا نہیں

۲/۱۹۶۳ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سَلِيمٍ فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ فَقَالَ أَعِيدُ وَأَسْمَنْكُمْ فِي سِقَانِهِ وَتَمْرُكُمْ فِي وَعَانِهِ فَأَنَّى صَانِمٌ ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ النَّبْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ قَدْ عَالَامَ سَلِيمٌ وَأَهْلَ بَيْتِهَا۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ حدیث رقم ۱۹۸۲۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) حضور ﷺ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ ام سلیم حضور ﷺ کے پاس کھجوریں اور گھی لے آئیں تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا گھی کو مشک میں اور کھجور کو اس کے برتن میں ڈال کے رکھو۔ اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ ﷺ گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہوئے پس آپ ﷺ نے فرض کے علاوہ نماز پڑھی اور ام سلیم اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے روزہ اس لیے افطار نہیں کیا کہ جانتے تھے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا رنجیدہ نہیں ہوں گی اور مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ نفلی روزے والے کے لیے ضیافت عذر ہے یا نہیں۔ درست بات یہ ہے کہ ضیافت مہمان اور مہمانی کرنے والے کے لیے عذر ہے کہ وہ روزہ توڑ ڈالے اور پھر قضاء کر لے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ناراض نہیں ہوگا تو فقط حاضر ہی ہو جائے اور روزہ نہ توڑے۔ اگر اس کا ساتھی محض حاضر ہونے سے راضی نہ ہو بلکہ کھانے پینے پر مصر ہو تو پھر روزہ توڑ دے۔ حاصل یہ ہے کہ اس کے نہ کھانے پینے پر ناراض ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ توڑ ڈالے پھر قضا کرے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ مہمان روزہ دار کے لیے مستحب ہے کہ مہمانی کرنے والے کے لیے دعا کرے۔ ع۔ در مختار۔

روزہ دار ضیافت کو قبول کرے

۳/۱۹۶۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي

صَائِمٌ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ۔

(رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۸۰۵/۲ حدیث رقم (۱۵۹-۱۱۵۰)۔ والترمذی ۱۵۰/۳ حدیث رقم ۷۸۱۔ وابن ماجہ

۵۵۶/۱ حدیث رقم ۱۷۵۰۔ والدارمی ۲۸/۲ حدیث رقم ۱۷۳۷۔ واحمد فی المسند ۵۰۷/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس وقت تم میں سے کسی کو کھانے کی طرف بلایا جائے اور وہ روزے سے ہو۔ پس اس کو چاہیے کہ کہے میں روزے سے ہوں اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جس وقت تم میں سے کسی کو بلایا جائے پس چاہیے کہ دعوت قبول کر لے۔ پھر اگر وہ روزے دار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دو رکعت نماز پڑھے اور اگر روزے سے نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ کھائے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ☉ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دعوت کرنے والا تشویش میں پڑ جائے یا کھانے کی وجہ سے دشمنی کا سامنا کرنا پڑے تو نفلی روزہ افطار کرنا جائز ہے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ دعوت کرنے والا اس کے کھانے کی وجہ سے خوش ہوگا اور اس کے نہ کھانے سے تشویش میں نہیں پڑے گا تو مستحب ہے اور اگر دونوں امر برابر ہوں تو افضل یہ ہے کہ وہ کہے کہ: انی صائم میں روزے سے ہوں۔ خواہ وہ حاضر ہو یا نہ حاضر ہو۔

الفصل الثانی:

نفلی روزہ رکھنے والا بااختیار ہوتا ہے

۴/۱۹۶۵ عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَلَى يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّ هَانِيٍّ عَنْ يَمِينِهِ فَجَاءَتْ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَازَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَازَلَهُ أُمُّ هَانِيٍّ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا أَكُنْتَ تَقْضِينَ شَيْئًا قَالَتْ لَا قَالَ لَا فَلَا يَصْرُكَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا۔ (رواہ ابوداؤد والترمذی والدارمی وفی رواية لا حمد والترمذی نحوه) وَفِيهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ الصَّائِمُ الْمُتَطَوُّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۸۵۲/۲ حدیث رقم ۲۴۵۶۔ والترمذی ۱۰۹/۳ حدیث رقم ۷۳۱۔ والدارمی ۲۸/۲ حدیث

رقم ۱۷۳۶۔ واحمد فی المسند ۳۴۲/۶۔

ترجمہ: حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ جب فتح مکہ کا دن ہوا تو حضرت فاطمہؓ آئیں اور رسول اللہ ﷺ کے بائیں طرف بیٹھیں ام ہانی حضور ﷺ کے دائیں طرف تھیں پس ایک لونڈی برتن لے کر آئی کہ اس میں کچھ پینے کی چیز تھی پھر لونڈی نے وہ برتن حضور ﷺ کو دیا۔ آپ ﷺ نے اس سے پیا پھر وہ برتن آپ ﷺ نے ام ہانیؓ کو دیا پھر ام ہانیؓ نے پیا پس کہنے لگیں اے اللہ کے رسول! تحقیق میں نے افطار کیا میں روزے سے تھی۔ پس آپ ﷺ نے اس کے لیے فرمایا کہ کیا تم نے قضاء کا روزہ رکھا تھا یعنی یہ روزہ قضاء رمضان کا تھا یا نذر کا تھا؟ کہنے لگیں کہ نہیں فرمایا تجھے کوئی ضرر نہیں

ہے اگر نفلی روزہ ہو۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی اور دارمی نے نقل کیا ہے اور امام احمد اور ترمذی کی روایت اسی طرح ہے پس ام حانی نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا نفلی روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا مالک ہے اگر وہ چاہے روزہ رکھے اور اگر چاہے تو افطار کرے۔

تشریح ۵ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ نفلی روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا مالک ہے یعنی ابتداً اگر چاہے روزہ رکھے یعنی روزے کی نیت کرے اور اگر چاہے افطار کرے اس صورت میں اس کی تاویل یہ ہے کہ نفلی روزے رکھنے والے کو حق پہنچتا ہے کہ افطار کرے اگر اس میں کوئی مصلحت جانے۔ جیسے کہ کوئی ضیافت کرے یا ایک قوم پر وارد ہوا اور وہ جانتا ہے اگر افطار نہیں کروں گا تو لوگ وحشت میں پڑ جائیں گے تو اس کو چاہیے کہ افطار کرے تاکہ آپس میں انس اور محبت ہو جائے۔

یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ لازم ہونے کے بعد اس پر قضاء نہیں ہے اور اس کے علاوہ آئندہ حدیث میں قضاء کا حکم بھی آیا ہے اور ام حانی والی حدیث میں محدثین نے کلام کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے اس کی اسناد میں گفتگو ہے اور منذری نے کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے اس کے اسناد میں بہت اختلاف ہے۔

نفلی روزہ افطار کرنے پر قضاء لازم آتی ہے

۵/۱۹۶۲ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعَرِضَ لَنَا طَعَامٌ اِشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعَرِضَ لَنَا طَعَامٌ اِشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ قَالَ اِفْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ (رواه الترمذی و ذکر جماعة من الحفاظ ورواه الزهري عن عائشة مرسلًا)

ولم يذكر وافيہ عن عروة وهذا اصح ورواه ابو داود عن زميل مولی عروة عن عائشة)

اخرجه ابو داود في السنن ۸۲۶/۲ حديث رقم ۵۴۵۷۔ والترمذی في السنن ۱۱۲/۳ حديث رقم ۷۳۵۔ ومالك في الموطأ ۳۰۶/۱ حديث رقم ۵۰۔ واحمد في المسند ۲۶۳/۶۔

ترجمہ: زہریؒ سے روایت ہے کہ انہوں نے عروہؓ سے نقل کیا ہے۔ اس نے حضرت عائشہؓ سے نقل کیا ہے حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں اور حفصہؓ روزے سے تھیں ہمارے سامنے کھانا لایا گیا۔ ہم نے اس کی خواہش کی۔ ہم نے اس میں سے کھایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم دونوں ایک دن اس کے بدلے قضاء کرو۔ اس کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور حفاظ کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے انہوں نے زہریؒ سے ذکر کیا ہے اور زہریؒ نے عائشہؓ سے بطریق ارسال اور اس میں عروہ کا واسطہ ذکر نہیں کیا اور یہ صحیح تر ہے ابو داؤد نے اس کو زمیل سے روایت کیا ہے جو کہ عروہ کا آزاد کردہ غلام ہے زمیل نے عروہ سے نقل کیا ہے اور عروہ نے عائشہؓ سے نقل کیا ہے۔

تشریح ۶ یہ حدیث احناف کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک اگر نفلی روزہ افطار کریں تو قضاء لازم آتی ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ایہ امر وجوب کے لیے ہے اور شوافع کہتے ہیں یہ امر استحباب کے لیے ہے ان کے مذہب کے مطابق قضا واجب نہیں ہے اور بطریق ارسال کے اور ارسال یہاں بمعنی سقوط راوی کے ہے کہ پہلی روایت میں جو واسطہ عروہ کا درمیان زہریؒ اور عائشہؓ میں تھا۔ وہ اس میں نہیں ہے یہ بھی ایک اصطلاح ہے اور مشہور یہ ہے کہ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو تابعی صحابہؓ کے ذکر

کے بغیر روایت کرے۔

روزہ دار کے پاس کھانے کی وجہ سے روزہ دار کو اجر

۶/۱۹۶۷ وَعَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَذَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا كُلِّي فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَقْرَعُوا. (رواه الترمذی وابن ماجہ والدارمی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۵۳/۳ حدیث رقم ۷۸۵۔ وابن ماجہ ۵۵۶/۱ حدیث رقم ۱۷۴۸۔ والدارمی ۲۸/۲ حدیث رقم ۱۷۳۸۔ واحمد فی المسند ۳۶۵/۶۔

ترجمہ: ام عمارہ بنت کعبؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ان کے پاس آئے پس انہوں نے حضور ﷺ کے لیے کھانا منگوایا پس حضور ﷺ نے فرمایا اس کو کھاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ پھر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق جب روزے دار کے پاس کھانا کھایا جاتا ہے۔ یعنی اس کا دل کھانے پر رغبت کرتا ہے اور روزہ اس پر دشوار ہوتا ہے تو اس پر فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ یہاں تک کہ کھانے والے فارغ ہو جائیں۔ اس کو امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب روزے دار کے پاس کھانا کھایا جاتا ہے اور اس کا دل رغبت کرتا ہے اور کھانے کو جی چاہتا ہے اور روزہ اس پر دشوار ہونے لگتا ہے تو فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ کھانے سے فارغ ہو جائیں۔

الفصل الثالث:

روزے دار کو بہترین رزق جنت میں دیا جائے گا

۷/۱۹۶۸ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ دَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَاءُ يَا بِلَالُ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْكُلُ رِزْقَنَا وَفَضْلُ رِزْقِ بِلَالٍ فِي الْجَنَّةِ أَشْعَرْتُ يَا بِلَالُ أَنَّ الصَّائِمَ يُسَبِّحُ عِظَامَهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا أَكَلَ عِنْدَهُ. (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

اخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۲۹۷/۳ حدیث رقم ۳۵۸۶۔

ترجمہ: حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ بلالؓ نبی کریم ﷺ کے پاس داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ ﷺ صبح کا کھانا کھا رہے تھے۔ پس نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اے بلال! کھانے کے لیے حاضر ہو جاؤ بلالؓ نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں روزے سے ہوں۔ پھر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اے بلال ہم اپنا رزق کھاتے ہیں اور بلالؓ کا بہترین

رزق جنت میں ہے کہ اے بلال کیا تو جانتا ہے کہ تحقیق روزے دار کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے بخشش مانگتے ہیں جب تک اس کے نزدیک کھایا جائے۔ یہی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جب روزے دار کے پاس کھانا کھایا جائے تو روزے دار کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کو جنت میں بہترین رزق دیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے حضرت بلالؓ کے لیے ارشاد فرمایا اور ان کو خوشخبری سنائی۔

۱۔ لیلۃ القدر کی فضیلت:

اس باب میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور ان اوقات کا بیان ہے جن میں قوی امکان موجود ہے کہ اس رات میں لیلۃ القدر ہوگی۔ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں موتوں اور بندے کے رزق کے بارے میں لکھا جاتا ہے اور سال بھر کے احکام جو واقع ہوئے ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں اور بعضوں نے کہا کہ اس کا یہ نام عظیم القدر ہونے کی وجہ سے ہے اور اس شب کی تعیین کے بارے میں مختلف اقوال آتے ہیں اور اکثر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے خصوصاً ستائیسویں رات میں چنانچہ اکثر علماء کے نزدیک یہی ہے اور لیلۃ القدر خاص اس امت کے لیے مقرر کی گئی ہے اس لیے کہ اس امت کی عمریں مختصر ہیں تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ ثواب حاصل کر لیں۔ چنانچہ ایک روایت آیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ ﷺ کو جب پہلی امتوں کے حالات معلوم ہوئے تو افسوس فرمایا کہ میری امت کے لوگ تھوڑی سی عمر میں ان جیسے عمل نہیں کر سکتے۔ پس اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو لیلۃ القدر عطا کر دی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک دن آپ ﷺ نے بنی اسرائیل کے چار شخصوں کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اسی سال عبادت کی تھی اور ایک لمحہ کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی تھی وہ شخص حضرت ایوب اور حضرت زکریا اور حضرت حزقیل اور حضرت یوشع بن نون علیہم السلام ہیں۔ پس نبی کریم ﷺ کے صحابہ نے تعجب فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام حضور ﷺ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے اے محمد ﷺ آپ کی امت نے ان کی عبادتوں کو سن کر تعجب کا اظہار کیا تو تحقیق اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل کی ہے: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ساری سورت پڑھی اور فرمایا کہ لیلۃ القدر اس چیز سے افضل ہے جس سے آپ نے اور آپ ﷺ کی امت نے تعجب کیا ہے پس نبی کریم ﷺ خوش ہوئے۔ اس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے جان لینا چاہیے کہ ایک ہزار مہینوں کے تراوی برس اور چار مہینے ہوتے ہیں اسی لیے فرمایا ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ یعنی لیلۃ القدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے جس کے تراوی برس اور چار مہینے ہوتے ہیں اور لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی رحمت آسمان دنیا پر غروب آفتاب سے لے کر صبح تک ہوتی ہے اور اس میں ملائکہ اور روح صلحاء و عابدین کی ملاقات کے لیے اترتے ہیں اور اسی میں نزول قرآن ہوا اور اسی رات ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور آدم کا مادہ اس میں جمع ہونا شروع ہوا اور اس رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے اور بہت زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے اور اس کے پوشیدہ ہونے میں یہ حکمت ہے تاکہ لوگ نیکی و بھلائی میں کوشش کریں اور اس پر اعتماد نہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص ایک سال کی تمام راتوں کی بیداری کی کوشش کرے گا وہ پالے گا۔ چنانچہ اسی لیے لکھا ہے: من لم يعرف قدر اللیلۃ لم يعرف لیلۃ القدر اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس

رات کی علامتیں یہ ہیں۔ جن کو حدیث و آثار سے استنباط کیا گیا ہے اور بعض علامتوں کو اہل کشف نے محسوس کیا ہے۔ طبری نے ایک قوم سے نقل کیا ہے کہ اس رات میں درخت سجدہ ریز ہوتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں پھر اسی جگہ پر آ جاتے ہیں اور اس رات میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے اور بہتر بات یہ ہے کہ یہ علامتوں کا پایا جانا اس رات میں ضروری نہیں ہے کہ یہ ضرور ہی دکھائی دیئے جائیں گے اور بہت سے لوگ اس رات کو پاتے ہیں لیکن ان علامتوں کو دیکھ نہیں پاتے۔

اور یہ بات درست ہے کہ ایک جگہ پر دو آدمی موجود ہوں اور وہ دونوں اس شب کو پالیں اور ایک کو ان چیزوں کے بارے میں کچھ معلوم ہو اور دوسرے کو کوئی علم نہ ہو اور سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس رات ذکر و عبادت مناجات خضوع و خشوع و حضور اخلاص کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور معتبر یہ ہے کہ اس شب کو بیدار رہے اگر تمام شب بیدار رہے اور فرائض اور سنن مؤکدہ وغیرہ میں خلل نہ ہو تو افضل و اکمل ہے ورنہ جس قدر قیام کی توفیق حاصل ہو جائے مقصود حاصل ہو جائے گا۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (رزقنا اللہ)۔

الفصل الاول

طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو

۱/۱۹۶۹ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَيْتِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۵۹۰۴۔ حدیث رقم ۲۰۱۷۔ و مسلم فی صحیحہ ۸۲۸/۲ حدیث رقم (۲۱۹)۔ (۱۱۶۹)۔
وابوداؤد فی السنن ۱۱۱/۲ حدیث رقم ۱۳۸۵۔ والترمذی ۱۰۵۸/۳ حدیث رقم ۷۹۲۔ ومالك فی الموطأ ۳۱۹/۱۔
حدیث رقم ۱۰ من كتاب الاعتكاف۔ واحمد فی المسند ۵۰/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ وہ طاق راتیں یہ ہیں یعنی رمضان کی اکیسویں اور تیسویں اور پچیسویں اور ستائیسویں اور انیسویں رات جو ان راتوں میں بیدار رہے گا اور عبادت میں وکراؤد کار میں اور مناجات خداوندی میں مشغول رہے گا وہ ان شاء اللہ اس رات کو پالے گا۔

شب قدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے

۲/۱۹۷۰ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَّخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَّاتُ فِي السَّبْعِ الْأَوَّخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيًا بِهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَّخِرِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۵۶/۴۔ حدیث رقم ۲۰۱۵۔ ومسلم فی صحیحہ ۸۲۲/۲ حدیث رقم (۲۵-۱۱۶۵)

ومالك في الموطأ ۳۲۱/۱ حدیث رقم ۱۴ من كتاب الاعتكاف واحمد في المسند ۱۷/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے کتنے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شب قدر (رمضان المبارک کی) خواب میں دکھائی گئی۔ پس نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے خوابوں کو دیکھ رہا ہوں جو آخر کی سات راتوں پر متفق ہیں۔ پس جو کوئی اس کو (یعنی شب قدر کو) تلاش کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ اسے (رمضان المبارک کی) آخر کی سات راتوں میں تلاش کرے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ شب قدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے یعنی یہ وہ راتیں ہیں جو متصل ہیں راتوں کے ہیں یعنی اکیسویں شب سے لے کر ستائیسویں تک یا سات راتیں سب سے آخر کی یعنی تیسویں شب سے کر اسیسویں شب تک۔ اس لیے کہ اسیس کا چاند یقینی ہے اس کے مطابق حساب کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں آخری احتمال زیادہ ظاہر ہے۔

خصوصی طور پر طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو

۳/۱۹۷۱ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّمَسُّوْهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۶۰/۴۔ حدیث رقم ۲۰۲۱ وابوداؤد فی السنن ۱۱۰/۲ حدیث رقم ۱۳۸۳۔ والترمذی ۱۶۰/۳

حدیث رقم ۷۹۴۔ والدارمی ۴۴/۲ حدیث رقم ۱۷۸۱۔ ومالك في الموطأ ۳۲۰/۱ حدیث رقم ۱۳ من كتاب الاعتكاف۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اس کو (یعنی شب قدر) رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ یعنی شب قدر کو باقی ماندہ نوں رات میں (جو کہ اکیسویں رات ہے) باقی ماندہ ساتویں رات میں (جو کہ ستائیسویں رات ہے) اور باقی ماندہ پانچویں رات میں (جو کہ پچیسویں رات ہے) تلاش کرو۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں راتوں کی ترتیب کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ ان کو آخر سے گننا شروع کرو۔ یعنی بیسویں رات کے بعد نوں رات میں تلاش کرو اور وہ اسیسویں شب ہے اور بیسویں شب کے بعد ساتویں رات میں کہ وہ ستائیسویں شب ہے اور پانچویں رات میں کہ وہ بیسویں رات کے بعد پچیسویں شب ہے اور ظاہر معنی تو یہی ہیں اور علامہ یحییٰ نے کہا ہے کہ حدیث مذکورہ میں جن راتوں کا بیان ہے ان سے مراد تیسویں، چوبیسویں اور چھبیسویں رات ہے۔

اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے

۳/۱۹۷۲ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ

رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ

التَّمِيسُ هَذِهِ اللَّيْلَةُ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ التَّمِيسُ هَذِهِ اللَّيْلَةُ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ ثُمَّ آتَيْتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَعْتَكَفِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ فَقَدْ أُرْبِتُ هَذِهِ اللَّيْلَةُ ثُمَّ انْسَيْتُهَا وَقَدْ رَأَيْتَنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا فَالْتِمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَالتَّمِسُوهَا فِي كُلِّ وَتَرٍ قَالَ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرْتُ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبِيحَةِ أَحَدَايَ وَعَشْرَيْنِ (متفق عليه) فِي الْمَعْنَى وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ إِلَى قَوْلِهِ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَالْبَاقِي لِلْبُخَارِيِّ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَيْسٍ قَالَ لَيْلَةُ ثَلَاثَ وَعَشْرَيْنَ - (رواه مسلم)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۵۶/۴ - حدیث رقم ۲۰۱۶ - و مسلم فی صحیحہ ۸۲۴/۲ حدیث رقم (۲۱۳ - ۱۱۶۷) -

وابوداؤد فی السنن ۱۰۹/۲ حدیث رقم ۱۳۸۲ - و مالک فی الموطأ ۳۱۹/۱ حدیث رقم ۹ من کتاب الاعتکاف -

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر ترکی خیمہ میں اعتکاف فرمایا پھر خیمہ سے باہر اپنا سر نکالا۔ پھر فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا تھا شب قدر کو تلاش کرتا تھا پھر میں نے اعتکاف کیا اور میانی عشرے میں پھر میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور مجھے فرشتے نے کہا شب قدر آخری عشرے میں ہے پس جو شخص اعتکاف کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ پس تحقیق مجھے شب قدر کی تعیین خواب میں دکھائی گئی ہے پھر مجھے بھلا دیا گیا یعنی جبرائیل نے خبر دی کہ فلانی شب قدر ہے، لیکن میں بھول گیا اور تحقیق میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں شب قدر کی صبح کو کچھڑ میں سجدہ کرتا ہوں۔ پس میں بھول گیا کہ وہ کوئی رات تھی پس اسے (رمضان کے) آخری عشرے میں تلاش کرو۔ لیلة القدر کو ہر طاق رات میں یعنی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی نے کہا ہے کہ اس رات بارش ہوئی تھی جس رات آپ ﷺ نے خواب دیکھی اور مسجد کعبہ کی شاخوں کی بنی ہوئی تھی پس مسجد کی چھت ٹپکی پس میری آنکھوں نے دیکھا کہ اکیسویں رات کی صبح کو نبی کریم ﷺ کی پیشانی مبارک پر پانی اور مٹی کا نشان تھا۔ امام بخاریؒ اور مسلمؒ اس حدیث کے نقل کرنے میں معنی کے اعتبار سے متفق ہیں۔ اس قول تک فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ..... اس حدیث اور باقی لفظ حدیث کے امام بخاریؒ کے ہیں اور عبد اللہ بن انیسؒ کی روایت کے مطابق اکیسویں شب کی جگہ تیسویں شب ہے۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف بیٹھنے کا مقصد لیلة القدر کی تلاش ہے اور حدیث میں ترکی خیمہ کا تذکرہ ہوا ہے اور ترکی خیمہ خیمے کی ایک قسم ہے جو منہ سے بنتا ہے یہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور فارسی میں اس کو خرگاہ کہتے ہیں اور من صبیحة میں من فی کے معنی میں ہے اور بصرت کے قول کے ساتھ متعلق ہے اور راوی کا حاصل کلام یہ ہے کہ جس رات حضور ﷺ نے لیلة القدر کو خواب میں دیکھا تو یہ بھی دیکھا تھا میں لیلة القدر کی صبح کو مٹی اور پانی میں سجدہ کرتا ہوں۔ یعنی اس رات کو بارش برسی تھی وہی علامت انہوں نے خواب میں دیکھی کہ وہ اکیسویں شب یا تیسویں شب تھی اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ نے جو لیلة القدر دیکھی تھی تو اکیسویں یا تیسویں شب تھی۔

شب قدر کو پانے کا طریقہ

۵/۱۹۷۳ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي بَنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يَصُومُ الْحَوْلَ يُصِيبُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَكَلَّ النَّاسُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعَشْرِينَ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَشْنِيَنَّ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعَشْرِينَ فَقُلْتُ يَا أَيْ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالْأَلَايَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۸۲۷/۲ حدیث رقم (۲۱۸ - ۱۱۶۸)۔

ترجمہ: حضرت زید بن حبیش سے روایت ہے کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کا ارادہ کیا میں نے کہا کہ تمہارے دینی بھائی حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ جو شخص پورا سال اللہ کی عبادت کی خاطر شب بیداری کرے تو وہ شب قدر کو پالے گا پس ابی بن کعبؓ نے کہا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ انہوں نے اس وجہ سے یہ فرمایا تا کہ لوگ اس پر بھروسہ نہ کریں ارادہ کیا اس کے کہنے سے کہ لوگ اعتماد نہ کریں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عبد اللہ بن مسعودؓ جانتے تھے شب قدر رمضان میں ہے اور تحقیق وہ آخری عشرے میں ہے اور وہ ستائیسویں رات ہے پھر ابی بن کعبؓ نے قسم کھائی اور ان شاء اللہ نہ کہا کہ تحقیق شب قدر ستائیسویں رات میں ہے۔ پس میں نے کہا اے ابو منذر! (حضرت ابی بن کعبؓ کی کنیت ہے) کس دلیل سے کہتے ہو؟ فرمایا: اس علامت اور نشانی کی وجہ سے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اس دن آفتاب طلوع تو ہوتا ہے لیکن اس میں روشنی نہیں ہوتی اور میں نے سورج کو دیکھا کہ اسی طرح نکلا۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے یعنی ایک قول پر لوگ اعتماد نہ کریں اگرچہ وہ صحیح ہے اور غالب گمان کے مطابق اس پر فتویٰ ہے لیکن ابن مسعودؓ نے شب قدر کو قصد امتنعین نہیں فرمایا کہ کہیں لوگ اس بات پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور اس بات کا علم کہ شب قدر ستائیسویں رات میں ہے بقیہ تمام راتوں میں قیام ترک کر دیں۔ چنانچہ ابن مسعودؓ نے اکثر راتوں میں لوگوں کو قیام کی طرف مائل کرنے کے لئے یہ کہا کہ شب قدر سال میں کسی بھی رات میں آ سکتی ہے اور ابی بن کعبؓ کا اس بات پر قسم کھانا کہ شب قدر ستائیسویں رات میں ہے ظن غالب کی بناء پر تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے قسم کے ساتھ ان شاء اللہ نہیں کہا کیونکہ اگر کوئی شخص قسم کھاتے ہوئے ان شاء اللہ کے الفاظ کہہ دے تو نہ اس کی قسم یقینی ہوتی ہے بلکہ شرعاً اس کی قسم منعقد ہی نہیں ہوتی۔ پس ابی بن کعبؓ نے قسم کھالی اور ان شاء اللہ نہیں کہا تا کہ قسم جزم ہو جائے۔

رمضان شریف میں آپ ﷺ کا معمول مبارک

۶/۱۹۷۴ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۸۳/۲ حدیث رقم (۱۱۷۵/۸)۔ وابن ماجہ فی السنن ۵۶۲/۱ حدیث رقم ۱۷۶۷۔ واحمد فی المسند ۸۲/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ رمضان کے اخیر عشرے میں اس قدر کوشش کرتے تھے کہ غیر رمضان میں اس قدر کوشش نہیں کرتے تھے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ رمضان المبارک میں خوب محنت کرتے تھے اور نیکی کرنے میں زیادتی کرتے اور پرامید رہتے کہ لیلة القدر اسی رات میں ہے۔

آخری عشرے میں آپ ﷺ عبادت میں خوب محنت کرتے

۸/۱۹۷۵ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِنْزَرَهُ وَأَخَى لَيْلَهُ وَأَبْقَطَ أَهْلَهُ. (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۶۹/۴۔ حدیث رقم ۲۰۲۴۔ ومسلم فی صحیحہ ۸۳۲/۲ حدیث رقم (۷-۱۱۷۴)۔

والنسائی فی السنن ۲۱۷/۳ حدیث رقم ۱۶۳۹۔ وابن ماجہ ۵۶۲/۱ حدیث رقم ۱۷۶۸۔ واحمد فی المسند ۴۱/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو آپ ﷺ اپنا تہہ بند مضبوط باندھتے تھے اور رات کو زندہ کرتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں لفظ ”تہہ بند کو مضبوط باندھنے کا“ ذکر آیا ہے کہ آپ ﷺ اپنا تہہ بند مضبوط باندھ لیتے تھے

اس سے مراد ہے کہ آپ ﷺ عبادت میں بہت زیادہ کوشش و محنت کرتے یا اس بات سے کنایہ کہ عورتوں سے علیحدہ رہتے تھے اور رات کو زندہ کرتے یعنی اکثر رات یا تمام رات نماز اور ذکر و عبادت اور تلاوت میں مشغول رہتے اور ایک روایت میں آیا ہے: انه عليه السلام ماسهر جميع الليل كله۔ یعنی حضور ﷺ تمام رات نہیں جاگتے تو اس سے مراد یہ ہے کہ تمام رات نہیں جاگتے تھے پس ایک دو یا دس رات جاگنا اس کے منافی نہیں ہے واللہ اعلم اور اپنے اہل والوں کو جگاتے یعنی آپ ﷺ اپنی بیبیوں کو اور بیٹیوں اور لونڈیوں کو اور غلاموں کو بعض اوقات آخری عشرے میں لیلة القدر کی تلاش کے لیے جاگنے کی تاکید فرماتے۔

الفصل الثاني:

لیلة القدر میں مانگی جانے والی دعا کا ذکر

۸/۱۹۷۶ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أُمَّ لَيْلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ

قُولِي ااَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي رواه احمد وابن ماجه والترمذی وصَحَّحَهُ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ

عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي ۔

اخرجه الترمذی فی السنن ۴۹۹/۵ حدیث رقم ۳۵۱۳۔ وابن ماجہ ۱۲۶۵/۲ حدیث رقم ۳۸۵۰۔ واحمد فی المسند ۱۷۱/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! مجھے خبر دو اگر میں جان لوں کہ کوئی رات شب قدر کی ہے کہ میں اس میں کیا کہوں۔ یعنی کیا دعا مانگوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تو کہہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے پس مجھے معاف فرما۔ اس کو امام احمد بن حنبلہ اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں ایک جامع دعا بتائی گئی ہے جو شب قدر میں مانگی چاہیے جو دنیا و آخرت کی بھلائیوں کو جامع ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ بندوں نے اللہ تعالیٰ سے اس سے افضل کوئی چیز نہیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے اور ان کو عافیت دے۔

طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم

۹/۱۹۷۷ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّمَسُّوْهَا يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ

رَفِي نَسَبِ يَتَقَيْنِ أَوْ فِى سَبْعِ يَتَقَيْنِ أَوْ فِى خَمْسِ يَتَقَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَحَدٍ لَيْلَةٍ۔ (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۶۰۱۳ حدیث رقم ۷۹۹۴۔ واحمد فی المسند ۳۶۱۵۔

ترجمہ: حضرت ابوبکرؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ شب قدر کو (رمضان المبارک کی باقی ماندہ) نویں رات (یعنی انیسویں رات میں) تلاش کرو باقی ماندہ ساتویں شب یعنی ستائیسویں رات میں یا باقی ماندہ پانچویں رات میں بھی یعنی پچیسویں رات میں بھی یا باقی ماندہ تیسری رات یعنی تیسویں رات میں یا آخری رات میں تلاش کرو۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس طرح کی روایت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ جس کا خلاصہ بیان ہو چکا ہے حاصل یہ ہے کہ شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آپ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اور سلف صالحین کا یہی معمول مبارک تھا۔

۱۰/۱۹۷۸ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ۔

رواه ابو داود وقال رواه سفیان وشعبة عن ابی اسحاق موقوفاً علی ابن عمر

اخرجه ابو داود فی السنن ۱۱۱۱۲۔ حدیث رقم ۱۳۸۷۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سے شب قدر کی حالت کے بارے میں پوچھا گیا۔ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہر رمضان میں آتی ہے۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور فرمایا کہ یہ روایت سفیان اور شعبہ نے ابواسحق سے نقل کی ہے اور یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے۔

تشریح: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ سے شب قدر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اس کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔

شب قدر مختلف طاق راتوں میں آتی ہے یعنی ہر طاق رات میں بدلتی رہتی ہے

۱۱/۱۹۷۹ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي بِأَدِيَّةٍ أَكُونُ فِيهَا وَأَنَا أَصَلِّي فِيهَا بِحَمْدِ اللَّهِ فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلَ إِلَيَّ هَذَا الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَنْزِلْ لَيْلَةً ثَلَاثَ وَعِشْرِينَ قِيلَ لَا بُدَّ مِنْهُ كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ ابْنَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَحِقَ بِأَدِيَّتِهِ۔ (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود في السنن ۱۰۸/۲۔ حديث رقم ۱۳۸۰۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! تحقیق میرے لیے جنگل ہے یعنی میں جنگل میں رہتا ہوں اور اس میں نماز پڑھتا ہوں اور اللہ کا شکر یہ ادا کرتا ہوں۔ پس مجھ کو حکم فرمائیں کہ ایک رات مسجد میں آؤں یعنی شب قدر میں مسجد نبویؐ میں آکر عبادت کروں۔ پس حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تیسویں رات کو آؤ۔ عبداللہ کے بیٹے کے لیے کہا گیا کہ اس کا نام ضرہ تھا کہ تیرا باپ کس طرح تھا۔ بیٹے نے کہا میرے والد مسجد میں داخل ہوتے اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں یعنی رمضان کی بائیسویں تاریخ کو پس اس مسجد سے کسی کام کے لیے نہ نکلتے۔ جو کہ منافی اعتکاف ہے۔ پس جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنا جانور مسجد کے دروازے پر پاتے پس اس پر سوار ہوتے اور اپنے جنگل میں پہنچ جاتے۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ہر سال بدلتی رہتی ہے کبھی بائیسویں تاریخ کو اور کبھی تیسویں کو اور کبھی بیسیویں کو۔ اگر کوئی کہے کہ اس سے لیلۃ القدر کی تعیین لازم آتی ہے حالانکہ لیلۃ القدر کی تاریخ معین نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس سال حضور ﷺ نے ان کو یہ فرمایا تھا اس سال لیلۃ القدر تیسویں کو لیلۃ القدر میں ہوئی ہوگی اور حضور ﷺ کو علم ہو گیا ہوگا کہ شب قدر ہر سال اسی تاریخ کو ہوتی ہوگی اور یہ جو آیا ہے کہ حضور ﷺ کو بھی اس کی تعیین معلوم نہ تھی اس سے مراد یہ ہے کہ ہر سال کی تعیین کا علم نہیں تھا اور کبھی بھی کا معلوم ہونا اس کے منافی نہیں ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ لیلۃ القدر کا خلاف باعتبار اشخاص کے ہو۔ پس ان کو لیلۃ القدر کا ثواب اسی شب میں ہوتا ہو۔ واللہ اعلم۔ مولانا۔

الفصل الثالث:

شب قدر متعین نہیں ہے

۱۲/۱۹۸۰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَا حَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَا حَى فَلَانَ وَفُلَانَ فَرَفَعْتُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالتَّمِسُوهَا فَيَالْتَا سَعَةً وَالسَّابِعَةَ وَالْخَامِسَةَ۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۶۷/۴۔ حدیث رقم ۲۰۲۳۔

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نکلے تاکہ ہمیں شب قدر کی خبر دیں۔ پس دو شخص مسلمانوں میں سے جھگڑے پس حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا میں نکلا تھا کہ تم کو شب قدر کے بارے میں بتاؤں۔ پس فلاں اور فلاں جھگڑے پس شب قدر کی پہچان اٹھالی گئی ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ پس تم اسیسویں میں اور ستائیسویں میں اور پچیسویں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں جو دو شخصوں کا نام آیا ہے کہ وہ شب قدر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ ایک کا نام عبداللہ بن ابی حذر تھا اور دوسرے کا نام کعب بن مالک تھا اور اس کی تعین جھگڑے کے نحوست کی وجہ سے اٹھالی گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جھگڑا کرنا اور آپس میں دشمنی کرنا بہت بری ہے اور اس کی وجہ سے آدمی برکات و بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے اور شب قدر کے متعین نہ ہونے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تم عبادت کرنے میں زیادہ کوشش کرو گے اور شب قدر کی تلاش کے لیے زیادہ محنت کرو گے اور ذکر و عبادات میں مشغول رہو گے۔

رمضان شریف کا اہتمام کرنے والے کو مزدور کے ساتھ تشبیہ دی ہے

۱۳/۱۹۸۱ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيلُ فِي كَنَكِبَةِ الْمَلَائِكَةِ يَصْلُونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ يُعْنِي يَوْمَ فِطْرِهِمْ بِأَهْلِي بِهِمْ مَلَائِكَتُهُ فَقَالَ يَا مَلَائِكَتِي مَا جَزَاءُ أَجِيرٍ وَفِي عَمَلِهِ قَالُوا رَبَّنَا جَزَاءُ هَذَا أَنْ يُؤْتَى أَجْرُهُ قَالَ مَلَائِكَتِي عِبَادِي وَآمَانِي قَضُوا فَرَضَتِي عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوا يَبْعَثُونَ إِلَى الدُّعَاءِ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَرَفْتَاكِ مَكَانِي لَا حِسَنَهُمْ فَيَقُولُ إِرْجِعُوا قَدْ عَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ قَالَ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ. (رواه البيهقي في شعب الایمان)

اخرجه البيهقي في شعب الایمان ۱۳۵/۳ حدیث رقم ۳۱۱۷۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت شب قدر ہوتی ہے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں۔ ہر بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں کھڑا ہو یا نماز پڑھتا ہو یا طواف کرتا ہو یا کسی اور عبادت میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر مشغول ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو اور جس وقت ان کی عید (یعنی عید الفطر) کا دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے یعنی ان فرشتوں سے جنہوں نے بنی آدم پر طعن کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتو! اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب! اس کا بدلہ یہ ہے اس کے عمل کی مزدوری پوری دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اے فرشتو! میرے غلاموں اور میری لونڈیوں نے میرا فرض ادا کیا جو ان پر تھا۔ یعنی روزہ پھر وہ اپنے گھروں سے عید گاہ کی طرف دعا کے ساتھ نکل چلتے ہوں۔ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی اور اپنی بزرگی کی اور اپنی سخاوت کی اور اپنی بلند قدری کی اور اپنی بلند مرتبہ کی۔ البتہ میں ان کی دعا قبول کروں گا پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر اپنے گھروں کو تو جاؤ تحقیق میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو میں نے نیکیوں سے بدل ڈالا ہے اور تمہارے نامہ اعمال میں ہر برائی کے بدلے نیکی لکھی گئی۔ نبی کریم

ﷺ نے ارشاد فرمایا لوگ پھرتے ہیں (واپس آتے ہیں عید گاہ سے) اس حالت میں کہ ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس کو نبیؐ نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا اہتمام کرنے والے کو اور رات کو قیام کرنے والے کو اور ذکر و عبادت میں مشغول ہونے والے کو اس کی محنت شاقہ کی وجہ سے مزدور کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور فرمایا کہ جس طرح مزدور کو مزدوری کرنے کے بعد پوری اجرت دی جاتی ہے۔ اس طرح اس روزہ دار کو رمضان کے ختم ہونے پر پوری اجرت دی جائے گی۔ میری عزت و جلال کی قسم میں اس کو یہ انعام عطا فرماؤں گا کہ اس کو بخش دوں گا اور فرشتے اس کی برائیوں کو نیکی میں بدل ڈالیں گے اور عید کی رات کو اللہ تعالیٰ بطور فخر کے فرشتے کو فرماتے ہیں کہ اس مزدور کی مزدوری کیا ہو سکتی ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہے اور اس مذکورہ رات کو کو لیلة الجائزۃ کہتے ہیں انعام والی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔

فائدہ: اعتکاف کے لغوی معنی!

اعتکاف کا لغوی معنی ایک مقام پر ٹھہرنا ہے اور شرعی معنی یہ ہیں کہ جماعت والی مسجد میں ٹھہرنا۔ اعتکاف کی نیت کے ساتھ اور مسلمان عاقل بالغ کی نیت معتبر ہے اور جنابت سے اور حیض و نفاس سے پاک ہو اور رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے اس لیے کہ حضور ﷺ ہمیشہ کرتے رہے اور درمختار میں لکھا ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے یعنی بعض کے ادا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے اور اس کے تارک کو ملامت نہیں کیا جاتا اور اعتکاف زبان کے ساتھ نذر کرنے سے واجب ہوتا ہے خواہ فی الحال ہو۔ جیسا کہ کہے کہ میں نے اپنے اوپر اللہ کے لیے اعتکاف اتنے دنوں کا لازم کیا اور خواہ مطلق ہو۔ جیسے کوئی کہے کہ میں نے نذر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا اور سوائے ان دونوں قسموں کے تیسری قسم مستحب ہے۔ پھر اعتکاف نفلی کی اکثر مدت کے لیے حد معین نہیں ہے اگر تمام عمر کی نیت کرے تو جائز ہے اور اقل مدت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے امام محمد ﷺ کے نزدیک اقل مدت ایک ساعت ہے۔ خواہ وہ ساعت رات میں ہو اور خواہ دن میں اور ظاہر روایت یہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک نیت کرے اس طرح کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی کہ جب تک کہ میں مسجد میں ہوں تاکہ اعتکاف کا ثواب ہاتھ سے نہ جانے پائے اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک دن کا اکثر حصہ ہے یعنی آدھے دن سے زیادہ ہو اور امام اعظمؒ سے ظاہر الروایۃ کے علاوہ یہ بھی منقول ہے کہ اقل مدت اعتکاف کی ایک دن ہے۔

الفصل الاول:

رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی آپ ﷺ کی عادت مبارکہ

۱/۱۹۸۲ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَكَبَّفُ الْعُشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى

تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۷۱/۴ - حدیث رقم ۲۰۲۶ - ومسلم فی صحیحہ ۸۳۱/۲ حدیث رقم ۱۱۷۲/۵ -

وابوداؤد فی السنن ۸۲۹/۲ حدیث رقم ۷۹۰۔ والترمذی ۱۵۷/۳ حدیث رقم ۷۹۰۔ وابن ماجہ ۵۶۲/۱ حدیث رقم ۱۷۷۳۔ واحمد فی المسند ۲۸۱/۲۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ پھر آپ ﷺ کے بعد ان کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس سے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے اپنے گھروں میں اعتکاف کیا اس لیے فقہاء نے کہا ہے کہ عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ مسجد البیت میں اعتکاف کریں اگر مسجد البیت نہ ہو تو گھر کی ایک جگہ کو مسجد ٹھہرا کر اعتکاف کریں پس وہ ان کے حق میں مسجد کا حکم رکھتی ہے بغیر ضرورت کے اس میں سے نہ نکلیں اور عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے عالمگیری۔ درمختار۔

آپ ﷺ کی سخاوت کا بیان

۲/۱۹۸۳ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ كَانَ جَبْرِيلُ يُلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَ جَبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱۶/۴۔ حدیث رقم ۱۹۰۲۔ ومسلم فی صحیحہ ۱۸۰۳/۴۔ حدیث رقم (۵۰-۲۳۰۸)۔ والنسائی فی السنن ۱۲۵/۴۔ حدیث رقم ۲۰۹۵۔ واحمد فی المسند ۲۳۱/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بڑے سخی تھے اور رمضان میں بہت سخاوت کرتے تھے اور رمضان کی ہر رات میں جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے تھے نبی کریم ﷺ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے قرآن پڑھتے تھے یعنی تجوید کے ساتھ پس جس وقت جبرائیل علیہ السلام حضور ﷺ سے ملاقات کرتے تو نبی کریم ﷺ کی سخاوت اس وقت ہوا کہ جھوٹوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ آپ ﷺ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بڑی سخاوت کرتے تھے اور لوگوں کو خوب نفع پہنچاتے تھے اور دوسرے کی نسبت بڑی نیکی کرتے تھے خصوصاً رمضان کے مہینے میں کہ بابرکت ایام ہوتے ہیں اور نیکی کرنا اس میں افضل ہے اور ہوا چلائی سے مراد یہ ہے یعنی جو ہوا بارش لاتی ہے یعنی اس ہوا کا نفع عام ہوتا ہے اور نفع بہت زیادہ ہوتا ہے جب حضرات جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو اس وقت آپ ﷺ لوگوں کو خوب نفع پہنچاتے اس حدیث میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ آدمی کو افضل وقتوں میں بھلائی کرنی چاہیے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے نیکی کرنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ حدیث باب الاعتکاف میں اس لیے لائے کہ آپ ﷺ رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے تھے۔

آپ ﷺ کے اعتکاف کا معمول

۳/۱۹۸۴ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ وَكَانَ يُعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَأَعْتَكَفَ عَشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۳/۹ - حدیث رقم ۴۹۹۸ - وابوداؤد فی السنن ۸۳۲/۲ حدیث رقم ۲۴۶۶ - وابن ماجہ ۵۶۲/۱ حدیث رقم ۱۷۶۹ - والدارمی ۴۳/۲ حدیث رقم ۱۷۷۹ واحمد فی المسند ۳۳۶/۲ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر سال قرآن پڑھا جاتا تھا۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے سامنے سال میں ایک بار قرآن پڑھتے تھے۔ پس جس سال نبی کریم ﷺ نے وفات پائی اس سال آپ ﷺ کے سامنے دوبار قرآن پڑھا گیا اور نبی کریم ﷺ ہر سال دس دن اعتکاف کرتے تھے جس سال وفات پائی آپ ﷺ نے بیس دن اعتکاف فرمایا۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اوپر کی حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے قرآن پڑھتے تھے اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام پڑھتے تھے۔ دونوں روایتوں میں مخالفت نہیں ہے اس واسطے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام پڑھتے ہوئے پھر ان کے سامنے حضور ﷺ جیسے دو حافظ دور کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دور کرنا بھی سنت ہے اور آخری سال میں دوبار قرآن پڑھا گیا اور بیس دن اعتکاف ہوا۔ اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہونے کی تیاری کے لیے کیونکہ حاضری کا وقت قریب تھا اور منزل شوق سامنے تھا پھر عشق کی ساری بے تائیاں زوروں پر تھیں۔

جیسے کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے۔

ع وعدہ وصل چوں شود نزدیک ☆ آتش شوق تیز تر گردد

اس میں امت کو تنبیہ ہے کہ اپنی آخری عمر میں نیک اعمال بہت زیادہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لئے اور اس کے روبرو کھڑے ہونے کے لئے نہایت مستعد ہو۔ رزق اللہ۔

مسائل اعتکاف کا بیان

۳/۱۹۸۵ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اُعْتَكَفَ أَذْنَى إِلَى رَأْسِهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَارِئُ جُلَّةٍ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۷۳/۴ - حدیث رقم ۲۰۲۹ - ومسلم فی صحیحہ ۲۴۴/۱ حدیث رقم (۱۹۷۰۶) - والترمذی فی السنن ۱۶۷/۳ حدیث رقم ۸۰۴ - وابن ماجہ ۵۶۵/۱ حدیث رقم ۱۷۷۶ - واحمد فی المسند ۲۶۴/۶ -

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ اعتکاف کرتے تھے تو اپنا سر میرا نزدیک کرتے تھے

اور وہ مسجد میں ہوتے تھے تو میں ان کے کنگھی کر دیتی اور گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر انسانی حاجت کے لیے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ☉ اس حدیث پاک میں مسائل اعتکاف بیان کئے گئے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے اگر معتکف اپنا کوئی عضو مسجد سے نکالے تو اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوتا اور اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ معتکف کے لئے کنگھی کرنا جائز ہے اور ابن ہمامؒ نے کہا کہ اگر معتکف کوئی عضو دھوئے مسجد کے اندر کہ مسجد آلودہ نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے مگر انسانی ضرورت کی خاطر۔ امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک اگر ایک گھڑی بغیر ضرورت کے نکلے تو اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اعتکاف اور حاجت دو طرح کی ہوتی ہے طبعی اور شرعی۔ طبعی جیسے پیشاب اور پانچخانہ اور غسل اگر احتلام ہو جائے اور غسل جمعہ کے حق میں کوئی روایت صحیح موجود نہیں ہے۔ مگر شرح اور ادراد میں لکھا ہے کہ غسل کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے چاہے غسل واجب ہو مثلاً غسل جنابت یا نفل ہو مثلاً غسل جمعہ وغیرہ کی نماز کے لیے اور اذان کے لیے یعنی اذان کی جگہ اگر مسجد سے باہر ہو تو اس کی طرف جانا حاجت کے اندر داخل ہے اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ بموجب روایت صحیحہ کے مؤذن اور غیر مؤذن اس میں برابر ہیں اور جمعہ کے لیے نکلنے والے وقت سے اور جس سے جامع مسجد دور ہو تو۔ ایسے وقت میں نکلے کہ جمعہ کو سنتوں سمیت پالے اور نماز سے زیادہ وقت جامع مسجد میں ٹھہرے گا۔ تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا مگر زیادہ ٹھہرنا مکروہ تہذیبی ہے۔ اگر کسی کے پاس خادم نہ ہو تو وہ گھر سے کھانا لاسکتا ہے اور یہ بھی حاجت میں داخل ہے اور اگر مسجد گرنے لگے یا کوئی زبردستی مسجد سے نکالے اور اگر اسی گھڑی نکل کر دوسری مسجد میں داخل ہو جائے۔ تو استحساناً اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ کذا فی البدائع اسی طرح اگر جان یا مال کے خوف کی وجہ سے دوسری مسجد میں جائے پھر بھی فاسد نہیں ہوگا اگر وہ پیشاب یا پانچخانہ کے لیے نکلا اور قرض خواہ نے ایک ساعت کے لئے روک لیا۔ تو امام اعظمؒ کے نزدیک فاسد ہوگا اور صاحبینؒ کے نزدیک فاسد نہیں ہوگا اور اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو یا جل رہا ہو۔ یہ اس کے نکالنے کے لیے نکلے یا جہاد کے لیے نکلے اگر نفیر عام ہو۔ یا ادائے شہادت کے لیے نکلے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اگر مذکورہ عذروں کے بغیر نکلے گا ایک ساعت کے لیے بھی یعنی لمحہ بھر کے بھی تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور صاحبینؒ کے نزدیک اگر دن کا اکثر حصہ نکلا رہے گا تو فاسد ہوگا۔ ورنہ نہیں۔ رع ع بالغیری۔

فوائد! اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ معتکف کو مسجد میں حجامت بنوانی جائز ہے مگر بال وغیرہ مسجد میں نہ گریں۔

اپنی نذروں کو پورا کرو

۵/۱۹۸۶ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ

أَعْتِكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۷۴/۱ - حدیث رقم ۲۰۳۲ - و مسلم فی صحیحہ ۱۲۷۷/۳ - حدیث رقم (۲۷-۱۶۵۶)

وابوداؤد فی السنن ۶۱۶/۳ حدیث رقم ۳۳۲۵ والترمذی ۹۶/۴ حدیث رقم ۱۵۳۹ والنسائی ۲۰/۷ حدیث رقم

۳۸۲۰ - واحمد فی المسند ۳۷/۱ -

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں نذرمانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کرونگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اپنی نذر پوری کرو۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی نذرمانی تھی جاہلیت حضور ﷺ کی نبوت سے پہلے والی حالت کو کہتے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے والی حالت تھی اور اپنی نذر کو پورا کرو، اگر اسلام سے پہلے نذر کی ہو۔ تو امر استحباب کے لیے اور اگر اسلام کے بعد کی ہو تو یہ امر وجوب کے لیے ہے اور علامہ طیبیؒ نے کہا کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جاہلیت کی نذر اگر اسلام کے حکم کے موافق ہو تو اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ امام شافعیؒ کا مذہب یہی ہے اور امام اعظم ابو حنیفہؒ نے کہا ہے کہ اس کی نذر صحیح نہیں ہیں۔ اس کے دلائل فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں اور اس حدیث کے معنی وہ جو لیتے ہیں اوپر بیان کئے گئے ہیں اور علامہ طیبیؒ نے کہا ہے کہ اس میں دلیل ہے کہ اعتکاف کی صحت کے لیے اس پر روزہ شرط نہیں ہے۔ جیسا کہ امام شافعیؒ کا مذہب ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کا مسلک ظاہر الروایۃ میں یہ ہے کہ روزہ واجب اعتکاف میں شرط ہے نہ کہ نفل میں اور یہی صاحبین کا قول ہے اور امام مالکؒ سے اور ایک روایت امام اعظمؒ سے یہ بھی ہے کہ مطلق اعتکاف میں روزہ شرط ہے خواہ واجب ہو یا نفل۔ پس وہ جواب دیتے ہیں کہ جن روایات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اعتکاف کا ذکر آیا ہے اس میں روزہ بھی آیا ہے چنانچہ ابو داؤد اور نسائی اور دارقطنی نے ایک روایت نقل کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دور جاہلیت میں اپنے اوپر اعتکاف لازم کیا تھا کہ وہ ایک رات دن سمیت اعتکاف کریں گے۔ یا ایک رات خانہ کعبہ میں اعتکاف کریں گے۔ پھر نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اعتکاف کرو اور روزہ بھی رکھو اور ان کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جو آگے آرہی ہے۔

اس تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف میں روزہ رکھنا شرط ہے پس اگر کسی نے نذرمانی کہ میں رات کو اعتکاف کرونگا تو درست نہیں ہے اگر یہ نذرمانی کے رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرونگا تو رمضان کے روزے کفایت کرتے ہیں اگر نفل روزہ رکھا ہوا ہو اور پھر اس دن کے اعتکاف کی نیت کرے تو درست نہیں ہے اگر رمضان معین میں اعتکاف نہ کیا تو دوسرے مہینے میں اس کی قضا مستقل روزوں کے ساتھ کرے۔ پس اس کی قضا جائز نہیں ہوگی اور نہ ایسے ایام میں جن میں کوئی واجب روزہ رکھ رہا ہو۔ مذہب میں خواہ رمضان کے قضا روزے رکھتا ہو یا اور کچھ اور اگر کئی دنوں کے اعتکاف کی نیت کرے۔ تو ان دنوں کی راتوں کا بھی اعتکاف لازم ہو جاتا ہے اور اگر دو دن کے اعتکاف کی نیت کرے تو دو راتوں کا بھی لازم ہوتا ہے لیکن امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اعتکاف صرف ایک رات کا ہی لازم ہوتا ہے۔ اگر نذر کرے کہ ایک مہینے کا اعتکاف کرونگا تو متصل اعتکاف ایک مہینے کا لازم ہوتا ہے اگر چہ اس نے متصل نہ کہا ہو۔ (در مختار)

الفصل الثانی:

آپ ﷺ کے اعتکاف کا ذکر

۶/۱۹۸۷ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ

يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عَشْرِينَ - (رواه الترمذی ورواه ابو داود وابن ماجه عن ابی بن کعب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۶۶/۳ حدیث رقم ۸۰۳ - واحمد فی المسند ۴۰۱/۲

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ رمضان کے آخری دس دن میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور آپ ﷺ نے ایک سال کسی عذر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کیا اور جب آئندہ سال آیا تو بیس دن اعتکاف کیا۔ اس کو ترمذی ابو داؤد اور ابن ماجہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپ ﷺ کا معمول مبارک رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا تھا شاید کہ یہ حدیث تفسیر ہے اس حدیث کی جواہر پر گزری ہے۔ علامہ طیبیؒ نے کہا ہے یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ سنت مؤکدہ قضا کیے جائیں جب کہ فوت ہو جائیں جیسا کہ فرائض قضا کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات جان لی جائے کہ فرائض کے ساتھ تشبیہ صرف قضا کرنے میں ہے فوت ہونے کے بعد ورنہ فرض کی قضا کرنا فرض کا درجہ رکھتی ہے اور سنت مؤکدہ کی قضا سنت کا درجہ رکھتی ہے۔

آپ ﷺ کا اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ

۷/۱۹۸۸ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ

دَخَلَ فِي مُعْتَكِفِهِ - (رواه ابو داود وابن ماجه)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۸۳۱/۲ حدیث رقم ۱۱۷۳/۶ - وابو داؤد فی السنن ۸۳۰/۲ حدیث رقم ۲۴۶۴ - والترمذی

۱۵۷/۳ حدیث رقم ۷۹۱ - والنسائی ۴۴۱/۲ حدیث رقم ۷۰۹ - وابن ماجه ۵۶۳/۱ حدیث رقم ۱۷۷۱ -

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جس وقت اعتکاف کرنے کا ارادہ کرتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھتے پھر اپنے اعتکاف کی جگہ پر داخل ہوتے۔ اس کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے امام اوزاعیؒ اور ثوریؒ نے دلیل پکڑی ہے کہ اعتکاف کی ابتداء پہلے دن سے ہے اور ائمہ اربعہ کے نزدیک اگر وہ ایک مہینے یا عشرے وغیرہ کا ارادہ کرے۔ تو غروب آفتاب سے پہلے داخل ہو اور آخری دن غروب آفتاب کے بعد۔ پس ان حضرات کے نزدیک اس حدیث کی تاویل یہ ہے کہ حضور ﷺ اعتکاف کی نیت کے ساتھ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہوئے اور بوریے وغیرہ سے ایک حجرہ بنا دیا جاتا تا کہ لوگوں سے الگ رہیں پس اعتکاف کی ابتداء مغرب سے ہوتی تھی اور اعتکاف کی جگہ میں صبح کے وقت داخل ہوتے تھے۔

اعتکاف کی حالت میں مریض کی عیادت کی جاسکتی ہے

۸/۱۹۸۹ / وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِيمَرْكَمَا هُوَ فَلَا يُعْرَجُ بِسَأْلِ عَنْهُ - (رواه ابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۸۳۶/۲ حدیث رقم ۲۴۷۲۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ (جب حاجت کے لیے نکلتے تھے تو اعتکاف کی حالت میں) بیمار کو پوچھتے تھے اور بیمار آدمی مسجد سے باہر ہوتا اور اس کو اس طرح پوچھتے جس طرح گزرنے والا پوچھتا ہے، ٹھہرتے نہیں تھے۔ یہ ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ آپ ﷺ اس حالت میں بیمار کی عیادت کرتے ہوئے گزرتے کہ اس کی طرف میل نہیں کرتے تھے اور نہ ٹھہرتے بلکہ سیدھے پوچھتے چلے جاتے اور لفظ فَلَا يُعْرَجُ اوپر کے مجمل کا بیان ہے اس لیے کہ فَلَا يُعْرَجُ کے معنی یہ ہیں کہ نہ ٹھہرتے اور راستے سے دوسری طرف میل کرتے تھے اور لفظ یسأل یعود کا بیان ہے۔ استنیاف کے طریقے سے۔ حسن اور نخی نے کہا ہے کہ مختلف کو ٹکنا جائز ہے جمع کی نماز کے لیے اور عیادت کے لیے اور نماز جنازہ کے لیے اور ائمہ اربعہ کے نزدیک جب کہ قضائے حاجت کے لیے نکلے اور اگر اتفاق سے مریض کی عیادت اور نماز جنازہ کے لیے جانا پڑے تو وہ راستہ سے نہ ہٹے اور نماز سے زیادہ دیر نہ ٹھہرے۔ تو اعتکاف باطل نہیں ہوگا اور اگر راستے سے ہٹ گیا۔ یعنی ٹیڑھا ہو گیا اور نماز سے زیادہ دیر ٹھہر گیا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اتنی اور قصد نماز جنازہ کے لیے جانا اور مریض کی عیادت کے لیے جانا اگر ان چیزوں کے لیے نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر نذر مانتے وقت شرط کر لے اور التزام کرے کہ میں مریض کی عیادت کے لیے نماز جنازہ کے لیے اور علم کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے نکلوں گا یعنی وعظ سننے کے لیے تو جائز ہے ع۔ عالمگیری۔

محظورات اعتکاف

۹/۱۹۹۰ / وَعَنْهَا قَالَتِ السَّنَةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ الْمَرْأَةَ وَلَا يَأْكُلَ وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ۔

(رواه ابو داؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۸۳۶/۲ حدیث رقم ۲۴۷۳۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ مریض کی عیادت نہ کرے اور نہ نماز جنازہ کے لیے حاضر ہو۔ یعنی مسجد سے باہر نہ جائے مطلقاً اور نہ محبت کرے۔ عورت سے اور نہ عورت سے مباشرت کرے اور نہ کسی کام کے لیے مسجد سے باہر نکلے مگر ضرورت کے لیے یعنی پیشاب پانچنا وغیرہ کے لیے اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا اور اعتکاف جامع مسجد کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ معتکف کے لیے مندرجہ بالا چیزیں ممنوع ہیں کہ وہ اعتکاف کی حالت میں نہ مباشرت کرے۔ مباشرت سے مراد وہ چیزیں ہیں جو باعث جماع ہیں مثلاً بوسہ لینا گلے لگانا اور چھونا وغیرہ۔ پس معتکف کے لئے صحبت کرنا اور مباشرت کرنا حرام ہے۔ ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ صحبت کرنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے چاہے جان بوجھ کر کرے یا بھولے سے چاہے دن میں کرے یا رات میں لیکن مباشرت اسی وقت مفسد اعتکاف ہوگی جب کہ انزال ہو جائے۔ اگر مباشرت کرنے سے انزال نہ ہو تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔ معتکف کے لئے مسجد میں کھانا پینا سونا اور خرید و فروخت کی چیزیں مسجد میں نہ لائی جائیں اور خرید و فروخت کی اشیاء کو مسجد میں لانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ غیر معتکف کے لئے مسجد میں بیع و شراء کرنا اور دوران اعتکاف خاموشی اختیار کرنا جبکہ معتکف خاموشی اختیار کرنے کو عبادت تصور کرے مکروہ تحریمی ہے۔ معتکف کے لئے لازم ہے کہ بیودہ باتوں سے جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے مکمل پرہیز کرے اور کلام مباح بلا ضرورت مکروہ ہے اور ضرورت کے لیے مکروہ نہیں ہے۔

اور فتح القدیر میں لکھا ہے مسجد میں بغیر ضرورت کا کلام کرنا حسنات کو ایسے کھاتا ہے یعنی نابود کر دیتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھاجاتی ہے اور نیک کلام کرنا اور خدا تعالیٰ کو یاد کرنا مستحب ہے پس معتکف کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے اور حدیث و تفسیر کی کتب کا مطالعہ کرے اور انبیاء و صالحین کی سوانح عمری پر مشتمل کتب اور دینی کتب کا مطالعہ کرتا رہے یا ان کو لکھتا رہے۔ وَلَا اِعْتِكَافُ إِلَّا بِصَوْمٍ: اعتکاف روزے کے بغیر درست نہیں۔ حنفیہ کے مسلک کی دلیل مذکور بالا حدیث مبارکہ ہے۔ جامع مسجد سے مراد وہ مسجد ہے جس میں لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہوں اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس مسجد میں اعتکاف درست ہے جس میں پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں اور یہی قول امام احمد کا ہے۔ پس جامع مسجد سے مراد وہ مسجد ہے جس میں جماعت ہوتی ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ افضل اعتکاف وہ ہے کہ جو مسجد حرام میں ہو پھر مسجد نبوی میں اور مسجد مکہ میں یعنی بیت المقدس میں پھر جامع مسجد میں پھر اس مسجد میں کہ جس میں نمازی بہت ہوں اور صاحبین اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اعتکاف ہر مسجد میں درست ہے۔ ع۔ ح۔ در مختار۔

الفصل الثالث:

اعتکاف کی حالت میں چار پائی پر بیٹھنے کا ثبوت

۱۰/۱۹۹۱ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اِعْتَكَفَ طَرَحَ لَهُ فِرَاشَهُ أَوْ يُوَضِّعُ لَهُ سَرِيرَهُ وَرَاءَ أَسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ۔

اخرجه ابن ماجه فى السنن ۵۶۴/۱ حدیث رقم ۱۷۷۴۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ستون توبہ کے پیچھے بھونکا بچھایا جاتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار پائی رکھی جاتی تھی۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں ستون توبہ کا ذکر آیا ہے ستون توبہ مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون کا نام ہے یہ اس لیے نام مشہور ہوا کہ ایک صحابی ابولبابہ انصاریؓ سے ایک تقصیر واقع ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ دیا تھا۔ کئی روز تک بندھے رہے اور کئی دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر حضور ﷺ نے ان کو کھول دیا۔

معتکف کا قیام

۱۱/۱۹۹۲ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيَجْعَلُ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔

اخرجه ابن ماجه في السنن ۵۶۷/۱ حديث رقم ۱۷۸۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیوں کے کرنے والے کی طرح نیکیاں جاری کی جاتی ہیں۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے یعنی وہ مسجد میں رکا رہتا ہے اس لیے وہ اکثر گناہوں سے بچ جاتا ہے اور ہجری کا لفظ جیم اور رے مہملہ کے ساتھ ہے اور مجہول کا صیغہ ہے اور بعضوں نے کہا ہے معروف کا صیغہ ہے یعنی جاری کئے جاتے ہیں اور اعتکاف کرنے والے کو ہمیشہ نیکیاں ملتی رہتی ہیں کیونکہ وہ اعتکاف کی وجہ سے دوسری نیکیاں کرنے سے رکا رہتا ہے۔ جیسے مریض کی عیادت وغیرہ اور ایک صحیح نسخہ میں جیم اور راء مجملہ کے ساتھ مجہول کا صیغہ ہے یعنی اس کو ثواب دیا جاتا ہے نیکیوں کا یعنی اعتکاف کی وجہ سے مریض کی عیادت وغیرہ اور جنازے کے ساتھ مسلمانوں سے ملاقات کرنے کو معتکف کو ان نیکیوں کے کرنے والے کی طرح ثواب دیا جاتا ہے اور اعتکاف کی خوبیاں یہ ہیں معتکف اپنا دل امور دنیا سے فارغ کر دیتا ہے اور اپنا نفس مولیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور ہمیشہ عبادت اور خدا کے گھر میں رہتا ہے اور نہایت قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے اور رحمت الہی نازل ہوتی رہتی ہے اور گویا کہ اللہ تعالیٰ کے قلعہ میں رہتا ہے اور شیطان کے مکر سے بچا رہتا ہے اور معتکف کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص بادشاہ کے دروازے پر اپنی حاجت عرض کرتا ہے پس معتکف گویا زبان حال سے کہتا ہے اے میرے مولیٰ! تیرے دروازے سے تلوں گا نہیں جب تک تو نہیں بخشے گا۔ میرے مقاصد بر نہیں لائے گا اور میرے غم کو دور نہیں کرے گا۔



یہ کتاب فضیلت قرآن کے بارے میں ہے

آداب تلاوت!

تلاوت کے آداب یہ ہیں: وضو کے ساتھ کرے اور اچھی جگہ متواضع اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور حضور دل کے ساتھ بیٹھے۔ اس طرح کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے بیٹھا ہے دعا شروع کرے اور تعوذ اور تسبیح کے ساتھ شروع کرے اور یہ جانے کہ میں خدا تعالیٰ کا کلام بغیر واسطے کے سن رہا ہوں آہستہ آہستہ تدبر، تفکر اور ترتیل کے ساتھ پڑھے اور وعدہ و رحمت کی آیات پر خوش دل ہو کر دعا کرے اور اپنے لیے مغفرت و رحمت مانگے اور عذاب و وعید کی آیت پر پناہ مانگے۔ اور تنزیہ و تقدیس کی آیت پر تسبیح کہتے۔ یعنی جس آیت پر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان ہو اس پر سبحان اللہ کہے اور پڑھنے کے درمیان روئے اور اگر روانہ آئے تو بکثرت غمگین ہو کر رونے والی صورت بنالے اور جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کرے اس لیے تھوڑا قرآن پاک پڑھنا۔ غور و فکر کے ساتھ زیادہ پڑھنے سے بہتر ہے جو ان کو مذکورہ چیزوں سے خالی ہو اور زیادہ پڑھنے میں سوائے ختم کے کرے بلکہ ممنوع امر کا مرتکب ہونا لازم آتا ہے اور یہ جو اس زمانے میں رواج آیا ہے ایک دن میں ختم کرنے پر فخر کرتے ہیں۔ نہایت بری بات غفلت و نادانی ہے۔

اور بعض بزرگان سے جو زیادہ پڑھنے کے بارے میں آیا ہے وہ ان کی کرامت ہے دوسروں لوگوں کو ان کی پیروی کرنی اچھی بات نہیں ہے پس جس قدر ذوق و شوق اور حضور قلبی میسر ہو اس پر اکتفا کرے اور جس مجلس میں لوگ دوسرے کاموں میں مشغول ہوں وہاں تلاوت نہ کرے اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری جگہ میسر نہ ہو تو نواشر پڑھے اور لوگ مستعد ہو کر سن رہے ہوں اور خاموش ہوں تو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ پڑھنے والا اور سننے والا اجر میں دونوں شریک ہوتے ہیں اور اسی طرح قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ اس لیے کہ اس میں آنکھیں اور اعضاء بھی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور حضور قلبی زیادہ حاصل ہوتا ہے اور قرآن کریم رحل پر یا بلند چیز پر رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ تاکہ تعظیم حاصل ہو جائے اور تلاوت کلام پاک کے دوران دنیاوی باتوں اور کھانے پینے اور تمام کاموں سے رکاوٹ ہے اور اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو قرآن کریم کو بند کر کے کرے۔

پھر اس کے بعد دوبارہ تعوذ (یعنی اعوذ باللہ پڑھ کر شروع کرے اور غلط پڑھنے سے پرہیز کرے اور ترتیل و تجوید کے ساتھ بلا تکلف کے پڑھے اور تلاوت کرتے وقت کسی کی تعظیم نہ کرے۔ مگر استاد عالم باعمل اور والد یم کی قیام و تعظیم جائز ہے اور ختم قرآن لوگوں کے مجمع میں کرے اور اپنے محبت اور اپنے رشتے داروں کو حاضر کرے اور دعائیں سب کو شامل کرے۔ کیونکہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور نکیہ لگا کر اور لیٹ کر قرآن پاک پڑھنا جائز ہے لیکن افضل صورت یہی ہے کہ مودب بیٹھ کر پڑھے اور اسی طرح پڑھنا جائز ہے۔ اگر جنگل ہو تو پکار کر پڑھے۔ ورنہ چپکے سے پڑھے۔ ناپاک جگہ میں اور مکروہ جگہ میں جیسے حمام اور کیلے اور کوڑے وغیرہ پڑھنا مکروہ ہے اور قرآن کی تقطیع بہت چھوٹی اور متفرق ٹکڑے ٹکڑے نہ کرے اور قرآن کریم کو اس لشکر میں نہ لے جائے کہ اس پر اعتماد من پر نہ ہو اور دار الحرب میں نہ لے جائے؟ تاکہ کہیں کافروں کے ہاتھ نہ لگ جائے اور وہ اس کی بے حرمتی کریں اور قرآن کریم یاد کرنا اتنی مقدار میں جس سے نماز جائز ہو جائے فرصت عین ہے اور تمام قرآن کا یاد کرنا فرض کفایہ ہے۔

سفر میں حفاظت کی خاطر مصحف کی خربی (بیک، زمبیل اور جھولا) میں رکھ کر اس پر سوار ہونا یا تکیہ کے نیچے رکھ کر سونا میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جس مکان میں یا کمرہ میں مصحف رکھا ہو اس میں جماع کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ جب قرآن شروع ہو تو پہلے یہ دعاء پڑھئے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ كِتَابَكَ الْمُنَزَّلَ مِنْ عِنْدِكَ عَلَى رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَاتَّبَاعِهِ أَجْمَعِينَ وَكَلامُكَ النَّاطِقُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ جَعَلْتَهُ هَادِيًا مِنْكَ لِخَلْقِكَ وَحَبْلًا مُتَصِلًا بَيْنَنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِكَ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ نَظْرِي فِيهِ عِبَادَةً وَقَرَأَتِي فِيهِ إِعْتِبَارًا إِنَّكَ أَنْتَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ رَبِّ اعْوِذْ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاعْوِذْ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ .

”اے اللہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری یہ کتاب تیری طرف سے تیرے رسول پر اتاری گئی ہے جن کا نام محمد ابن عبد اللہ ہے رحمت ہو اللہ کی ان پر ان کی اولاد پر ان کے اصحاب پر اور ان کے تمام تابعداروں پر اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرا کلام ناطق ہے تیرے رسول کی زبان پر اس کلام کو تو نے اپنی طرف سے اپنے مخلوق کے لئے ہدایت کرنے والا بنایا ہے اور اس کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان واسطہ متصل بنایا ہے لہذا اے اللہ! تو میری نظر کو اس میں عبادت گزار میری قراءت کو اس میں با فکر اور میرے فکر کو اس میں عبرت پذیر بنا بلاشبہ تیری ذات بڑی مہربان ہے اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے اے میرے رب! میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے میرے رب! میں اس بات سے تیری پناہ کا طلب گار ہوں کہ میرے پاس شیاطین آئیں۔“

اس دعا کے بعد قل اعوذ برب الناس الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھئے اور پھر یہ دعاء مانگئے:

اللَّهُمَّ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَالْحَقِّ نَزَلَ اللَّهُمَّ عَظَمَ رَغْبَتِي فِيهِ وَأَجْعَلْهُ نُورًا لِقَبْرِي وَشِفَاءً لِقَلْبِي وَذِهَابًا لِهَوْنِي وَخِزْيً وَبَيْضٌ بِهِ وَجْهِي وَأَزْزِقْنِي تِلَاوَتَهُ وَقَهْمَ مَعَانِيهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

”اے اللہ! تو نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا اے اللہ! قرآن میں میری رغبت بڑی بنا اے میری آنکھوں کا نور میرے سینے کے لئے شفاء اور میرے فکر و غم کے دور ہونے کا سبب بنا اے اس کے ذریعہ میرے چہرہ کو روشن و منور

فرما اور اپنی رحمت کے صدقہ اے ارحم الراحمین! اس کی تلاوت مجھے نصیب کر اور اس کے معنی کی سمجھ مجھے عطا فرما۔“
ہر روز تلاوت کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھے:

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ الْقُرْآنَ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَرِينًا وَفِي الْآخِرَةِ شَافِعًا وَفِي الْقَبْرِ مُؤْنِسًا وَفِي الْقِيَامَةِ صَاحِبًا وَعَلَى الصِّرَاطِ نُورًا وَفِي الْجَنَّةِ رَقِيقًا وَمِنْ النَّارِ سِتْرًا.

”اے اللہ! قرآن پاک کو میرے لئے دنیا میں ہم نشین، آخرت میں شافع، قبر میں غم خوار، قیامت میں مؤنس، پل صراط پر نور، جنت میں رفیق اور آگ سے پردہ بنا۔“

پھر آپ نے دینی اور دنیوی مقاصد و عزائم کے لئے جو بھی دعا چاہیں مانگیں انشاء اللہ آپ کی ہر درخواست مجیب الدعوات کی بارگاہ میں شرف قبولیت کے ساتھ نوازی جائے گی۔

اگر ایک شخص مشرق و مغرب کے درمیان میں سے کوئی حفظ کرے۔ تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے اور سورۃ فاتحہ کا یاد کرنا اور ایک سورۃ کا تمام مسلمانوں پر واجب ہے کذا فی الفتاویٰ الجندہ اور باقی قرآن پاک کا سیکھنا اور اس کے احکام کا سیکھنا اور اس کی سمجھ رکھنا نماز نفل سے اولیٰ ہے کذا فی الخانیۃ اگر سامنے قرآن میں نہ ہو تو پھلانا مکروہ نہیں ہے اور اگر قرآن پاک کھوٹی پر لٹکا ہوا ہو۔ یا طاق میں رکھا ہو۔ تو اس طرف پاؤں پھیلا نا منع نہیں ہے اور خاصی میں رکھ کر سفر کرنا اور اس پر سوار ہونا یا سفر میں سر کے نیچے رکھنا حفاظت کے لیے کوئی مضائقہ نہیں ہے اور اگر قرآن پاک مکان میں رکھا ہوا ہو تو اس میں جماع کرنے کا مصائقہ نہیں ہے۔ لانی الخانیۃ اور قرآن کریم کو شروع کرتے وقت یہ دعا پڑھے۔

ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم ﷺ جب قرآن شریف ختم کرتے تو کھڑے ہو کر یہ دعا فرماتے تھے اور بیہقی نے شعبا لایمان میں روایت کی ہے ابو ہریرہ سے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اپنے رب کی حمد بیان کرے اور نبی کریم ﷺ پر درود بھیجے اور اپنے رب سے بخشش مانگے اس نے خیر طلب کی ٹھکانے سے اور بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ جب قرآن کریم ختم فرماتے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے پھر فرماتے۔

فَإِنَّكَ لَا: جان لینا چاہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت تمام عبادتوں سے افضل ہے خصوصاً جب کہ نماز میں ہو۔ اس کی فضیلت اور ثواب ایسا ہے جو تحریر میں آنا ناممکن ہے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور نماز میں پچیس اور قرآن پاک کے پڑھنے سے خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے اور دلوں کو روشن کرتا اور قیامت موسفارش کرے گا اور جعل متین سے مراد قرآن کریم ہے اور مقصد اعلیٰ تلاوت سے یہ ہے کہ وہ تفکر کے باعث ہو اور تذکر کے یعنی امور دین کے یاد دلانے کے اور اس سے آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے اور تلاوت کلام کی کثرت کی وجہ سے احکام الہی یاد اور مستحضر ہوں تا کہ اس پر عمل کیا جائے اور عبرت پکڑی جائے یہ کہ محض آواز و حرف کو آراستہ کر کے پڑھیں اور دل غافل رہے جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل نہ کرے تو قرآن اس کا دشمن ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے ص رب قال للقرآن والقرآن یلعنہ یعنی بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کریم لعنت کرتا ہے ان کو اور اس کا قرآن پڑھنا اس طرح جھٹ ہوگا نعوذ باللہ منہ۔ اس کے بعد جاننا چاہے تفکر و تذکرہ و افہم معانی قرآن کریم کا استحضار آہستہ پڑھنے اور ترتیل اور حضور دل کے ساتھ پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے اسی

لیے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازمی ہے اور قرآن کریم کا تھوڑا پڑھنا شروع ہے چنانچہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے قرآن کے حق کی ادائیگی کے لیے کافی ہے کہ وہ چالیس دن میں ختم کرے بلکہ ایک سال میں کافی ہے اور عبادت کے لیے بھی سات دن سے کم میں ختم نہیں کرنا چاہیے اور جس قدر اس سے زیادہ عرصہ میں ختم کرے افضل ہے اور جو شخص قرآن کے معانی وغیرہ نہ سمجھے اس کو بھی چاہیے کہ حضور دل سے شروع کرے اور ہمیشہ اپنے دل میں مشق کرے کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے احکام ہیں جو انہوں نے اپنے بندوں پر کیے ہیں ایسی عاجزی سے تشریف فرما ہو گویا کہ اللہ عزوجل کا کلام سامعت فرما رہا ہے۔

الفصل الاول:

لوگوں میں سے بہترین شخص قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں

۱/۱۹۹۳ عَنْ عُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ۔

(رواہ البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۷۴۱۹۔ حدیث رقم ۵۰۲۷۔ و ابوداؤد فی السنن ۱۴۷/۲ حدیث رقم ۱۴۵۲۔ و الترمذی ۱۶۱/۵۔

حدیث رقم ۲۹۰۹۔ و ابن ماجہ ۷۶/۱ حدیث رقم ۲۱۱۔ و الدارمی ۵۲۸/۲ حدیث رقم ۳۳۳۷۔ و احمد فی المسند ۵۷/۱۔

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسرے کو سکھایا۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں معلم اور متعلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور فرمایا جو شخص قرآن پاک سیکھے جیسے سیکھنے کا حق ہے اور قرآن کریم کو سکھائے جیسے سکھانے کا حق ہے اور سیکھنے کے حق سے مراد یہ ہے کہ احکام و معانی اور ان کے حقائق و دقائق کو پوری توجہ سے سیکھے ارشاد فرمایا میرے امت کے بہترین اشخاص وہ ہیں جو قرآن کریم کو اللہ کی رضا کے لیے سیکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے سکھاتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں اور دنیا و آخرت کی فراوانیاں عنایت فرماتے ہیں اور ان کو خوش و خرم رکھتے ہیں اور ان پر کبھی خزاں نہیں آتی۔

قرآن پاک سیکھنے کی فضیلت

۲/۱۹۹۳ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ أَيْكُمْ

يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بَطْحَانَ أَوْ الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَنَا بِنَاقَتَيْنِ كَوْمًا وَيَنْ فِي غَيْرِائِهِمْ وَلَا قَطْعَ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا

رَسُولَ اللَّهِ كُلُّنَا نَحِبُّ ذَلِكَ فَقَالَ أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ

لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمَنْ أَعْدَادَ هُنَّ مِنَ الْإِبِلِ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۵۵۲/۱ حدیث رقم (۲۵۱-۸۰۳)۔ و ابوداؤد فی السنن ۱۴۹/۲ حدیث رقم ۱۴۵۶۔

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ہر تشریف لائے اور ہم سایہ دلوں چوتڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے پس فرمایا تم میں سے کون ہے جو پسند کرتا ہے کہ ہر دن بطمان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بڑے کوہان والی دو اونٹیاں بغیر کسی گناہ کے اور بغیر رشتہ توڑے لے کر آئے؟ اور ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم سب پسند کرتے ہیں فرمایا تم میں سے جو کوئی مسجد کی طرف جاتا ہے اور وہاں کسی شخص کو دو آیات سکھاتا ہے یا قرآن کی دو آیات خود تلاوت کرتا ہے تو یہ عمل اس کے لئے دو اونٹیوں سے بہتر ہے۔ تین آیات تین اونٹیوں سے بہتر ہیں اور چار آیات چار اونٹیوں سے بہتر ہیں اس کے بعد اسی طرح سمجھ لیا جائے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا۔

تشریح: اس حدیث میں چوتڑے کا ذکر آیا ہے۔ یہ وہ سایہ دار چوتڑہ ہے جو مسجد نبوی کے سامنے بنا ہوا تھا اس میں وہ فقراء مہاجرین رہتے تھے جن کے بیوی بچے اور گھریاں نہ تھیں اور وہ بد وقتوں کے انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اسی چوتڑے میں رسول اللہ ﷺ سے علم دین سیکھتے تھے اس چوتڑے کا نام صفہ تھا، گویا کہ یہ سب سے پہلے درس گاہ تھی جس کے استاد سرکارِ دو عالم ﷺ اور طلباء و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی۔ بطمان مدینہ منورہ کے قریب ایک نالے کا نام ہے اور عقیق بھی ایک جگہ کا نام ہے جو مدینے سے دو کوس کے فاصلے پر ہے ان دونوں جگہوں پر بازار لگتا تھا اور اس میں اونٹوں کا کاروبار ہوتا تھا اور اونٹ عربوں کے نزدیک بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا تھا۔ خصوصاً بڑے کوہان والے اونٹ پس آپ ﷺ نے سوال مذکور کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو باقی رہنے والی چیزوں کے بارے میں رغبت دلائی اور فنا ہونے والی چیزوں کے بارے میں نفرت دلائی اور اس کو بطور تمثیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سمجھانے کے لیے فرمایا اور نہ ساری دنیا ایک آیت کے مقابلے میں کچھ قدر نہیں رکھتی۔

قرآنی آیات کی فضیلت

۳/۱۹۹۵ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ حَبِّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خِلَافَاتٍ عِظَامٍ سَمَانَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ ثَلَاثُ آيَاتٍ يقرأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خِلَافَاتٍ عِظَامٍ سَمَانَ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۵۵۲/۱ حدیث رقم (۲۵۰ - ۸۰۲)۔ وابو ماجہ فی السنن ۱۲۴۳/۲ حدیث رقم ۳۷۸۲۔ والدارمی ۵۲۳/۲ حدیث رقم ۳۳۱۴۔ واحمد فی المسند ۳۹۷/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے جس وقت تم میں سے کوئی اپنے گھر کی طرف لوٹے تو اس میں تین بڑی قرآنیاں حمل والی پائے؟ ہم نے عرض کیا ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جو کوئی شخص اپنی نماز میں تین آیات تلاوت کرتا ہے تو اس کے لئے تین حاملہ اور قرآنیاں سے بہتر ہیں۔ امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اس حدیث میں قرآنی آیات کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص تین آیات نماز میں پڑھ لے گا تو یہ آیات حمل والی موٹی تازی اونٹیوں سے بہتر ہیں یہ تمثیل اس لیے پیش فرمائی عربوں کے نزدیک اونٹ بہترین قیمتی سرمایہ تھا اس لیے ان کی معاشرت کے مطابق ارشاد فرمایا اور ان کو ترغیب دی۔

اَنک اَنک کر پڑھنے والے کو دہرا اجر ملے گا

۴/۱۹۹۲ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ حدیث رقم ۴۹۳۷ - و مسلم فی صحیحہ ۱۷۵۵ حدیث رقم ۲۹۰۴ - وابن ماجہ

۱۲۴۲/۲ حدیث رقم ۳۷۷۹ - والدارمی ۵۳۷/۲ حدیث رقم ۳۳۶۸ - واحمد فی المسند ۴۸/۶ -

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ماہر قرآن لکھنے والے بزرگ نیکو کار فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اَنک لکھتا ہے اور قرآن اس پر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے واسطے دو ثواب ہوتے ہیں اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماہر قرآن وہ شخص ہے جس کو قرآن خوب یاد ہو کہ پڑھنے میں اَنکے نہیں اور نہ ہی اس کے لیے پڑھنا دشوار ہو اور فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کی کتابیں لکھتے ہیں یا وہ فرشتے ہیں کہ بندہ کے اعمال لکھتے ہیں۔ پس ارشاد فرمایا کہ ماہر قرآن کو وحی لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اس لیے کہ وہ ماہر قرآن فرشتوں جیسا عمل کرتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے درجات ہو گئے اور وہ قیامت کے دن فرشتوں کا ساتھی ہوگا اور اس کو دو ثواب ملیں گے۔ ایک ثواب پڑھنے کا اور دوسرا ثواب مشقت کا ملے گا کہ اس کو پڑھنے پر رغبت دلائی ہے۔ یہ اس کے معنی نہیں ہیں کہ جو اَنک کر پڑھتا ہے وہ ماہر سے زیادہ ثواب حاصل کرتا ہے بلکہ ماہر قرآن کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ وہ ملائکہ مذکورین کی جماعت میں داخل ہوتا ہے۔

الحاصل یہ ہے کہ ماہر قرآن تو بلاشبہ افضل ہے لیکن اَنک کر پڑھنے والے کو بھی مشقت کے اعتبار سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔

حسد صرف دو چیزوں میں جائز ہے

۵/۱۹۹۷ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَا لَا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ -

(متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۷۳/۹ - حدیث رقم ۵۰۲۵ و مسلم فی صحیحہ ۵۵۸/۱ حدیث رقم ۲۶۶۶ - (۸۱۵) -

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: رشک نہیں ہے مگر دو شخصوں پر یعنی کسی چیز میں رشک کرنا بہتر نہیں ہے مگر دو شخصوں کے حال پر ایک وہ شخص کہ اللہ نے اس کو قرآن دیا اور وہ شخص رات اور دن کے اکثر وقت قیام کرتا ہے قرآن کے ساتھ (یعنی قیام اللیل میں قرآن شریف پڑھتا ہے) اور دوسرا وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے اور وہ دن رات کے اکثر حصے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ حسد کرنا جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں انسان حسد کر سکتا ہے اور حسد دو قسم پر ہے۔ حقیقی اور مجازی۔ حقیقی یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زائل ہونے کی آرزو کرے۔ پس وہ بالا جماع آیات واحادیث صحیحہ کے ساتھ حرام ہے اور مجازی حسد یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر آرزو کرے یہ نعمت میرے پاس بھی ہو اس کے زوال کی آرزو کے بغیر ایسے حسد کو غبطہ کہتے ہیں یعنی رشک پس اگر یہ امور دنیا میں ہو تو مباح ہے اور اگر طاعت میں ہو تو مستحب ہے مثلاً کسی کو مسجد بناتے دیکھ کر یہ آرزو کرے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں بھی مسجد بناؤں گا تو اس کو خوب ثواب ملتا ہے تو اس سے مراد غبطہ ہے مگر غبطہ اچھا نہیں ہے مگر دو خصلتوں میں انتہی یعنی ان دو میں یا ان کی طرح چنانچہ مظہر نے کہا کہ کسی کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کے آپس کوئی چیز دیکھ کر ویسی ہی چیز کے حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کرے، لیکن اگر وہ ایسی چیز ہو جو قرب الہی کا باعث ہے مثلاً تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات وغیرہ تو ایسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کرنا پسندیدہ ہے۔

اتاہ اللہ القرآن: اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی چنانچہ اس کو قرآن اس طرح حفظ ہو جیسا کہ حفظ ہونے کا حق ہے۔ قرآن کریم میں مشغول رہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے اور اس کے معانی و مفاہیم کو یاد کرے اور اس کے احکامات میں غور و فکر کرے یا پھر قرآن کے اوامر و نواہی پر عمل پیرا ہو یا پھر نماز میں اس کی تلاوت کرتا ہو۔

تلاوت قرآن کی اہمیت

۶/۱۹۹۸ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مَرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرِّيحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مَرٌّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأُتْرُجَةِ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْتَّمْرَةِ۔

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۵۵/۹ حدیث رقم ۵۴۲۷۔ ومسلم فی صحیحہ ۵۴۹/۱ حدیث رقم (۷۹۷-۲۴۳)۔ و ابوداؤد فی السنن ۱۶۶/۵ حدیث رقم ۴۸۲۹۔ و اخرجه الترمذی ۱۳۸/۵ حدیث رقم ۲۸۶۵۔ والنسائی ۱۲۴/۸ حدیث

رقم ۵۰۲۸۔ وابن ماجہ ۷۷/۱ حدیث رقم ۲۱۴۔ والدارمی ۵۳۵/۲ حدیث رقم ۳۳۶۳۔ واحمد فی المسند ۳۹۷/۴۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ایسے مومن کی مثال ترنج کی طرح ہے جو قرآن پڑھتا ہے اسکی بوخوب ہوتی ہے اور اس کا مزہ اچھا ہوتا ہے اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ہے کھجور کی طرح ہے اس میں بو نہیں ہے اور مزہ اس کا میٹھا ہے اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی حالت اندرائن کے پھل کی طرح ہے اس میں بو نہیں ہے اور مزہ اس کا کڑوا ہے اور اس منافق کا حال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار پھول کی طرح ہے کہ اس کی بو اچھی ہے اور ذائقہ اس کا کڑوا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے

کہ وہ مسلمان جو قرآن پڑھتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو ترجیح کی طرح ہے اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے کھجور کی طرح ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جو مومن آدمی قرآن پڑھتا ہے وہ ترجیح کی طرح ہے کہ وہ ایمان کے ثابت ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں خوش مزہ ہے کہ لوگ اس کی قراءت سن کر ثواب حاصل کرتے ہیں اور اس سے قرآن سیکھتے ہیں۔

قرآن لوگوں کے رفع درجات کا باعث ہے

۱۹۹۹ھ/ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۵۵۹۱/ حدیث رقم (۲۶۹-۸۱۷)۔ وابن ماجہ ۹۷/۱ حدیث رقم ۲۱۸۔ والدارمی ۵۳۶/۲ حدیث رقم ۳۳۶۵۔

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق اللہ کتنے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے بلند کرتا ہے اور کتنے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے پست کرتا ہے یعنی گرا دیتا ہے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے قرآن کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اور دنیا میں اس کو اچھی طرح زندہ رکھتا ہے اور آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ داخل کرتا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہوتا ہے اور جس شخص نے نہ قرآن کی تلاوت کی اور نہ اس پر عمل کیا اس کا درجہ اللہ تعالیٰ پست کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

فرشتوں کا قرآن سننا

۸/۲۰۰۰ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ بِاللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَقَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ إِذَا جَاءَتْ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَ فَقَرَأَ فَجَاءَتْ فَسَكَتَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَرَأَ فَجَاءَتْ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا فَلَا شَفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ وَلَكَّمَا آخَرَهُ وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُضَيْرٍ قَالَ فَاشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَطَّيَّحَ قَرِيبًا مِنْهَا فَلَا نَصْرَفْتُ إِلَيْهِ وَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ فَخَرَجْتُ حَتَّى لَا أَرَاهَا قَالَ وَتَذَرِي مَا ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ ذَكَتْ بِصَوْنِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَا صَبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَوَارَى مِنْهُمْ. متفق عليه ولللفظ للبخاری وفي مسلم عَرَجْتُ فِي الْجَوِّ بَدَلًا فَخَرَجْتُ عَلَى صِيْفَةِ الْمُنْكَلِمِ۔

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶۳/۹ حدیث رقم ۵۰۱۸۔ و مسلم فی صحیحہ ۵۴۸/۱ حدیث رقم (۲۴۲-۷۹۶)۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اسید بن حفیر کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ رات کو سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا۔ اچانک گھوڑے نے شوخی کی۔ پس وہ پڑھنے سے رک گئے تاکہ گھوڑے کی شوخی کی وجہ معلوم کریں۔ گھوڑے نے شوخی بند کر دی۔ پس انہوں نے گمان کیا کہ گھوڑا یوں ہی شوخی کر رہا ہوگا۔ دوبارہ تلاوت شروع کر دی۔ گھوڑے نے پھر شوخی شروع کر دی وہ تلاوت سے پھر رک گئے، گھوڑے نے بھی شوخی بند کر دی۔ انہوں نے پھر تلاوت شروع کی اور گھوڑے نے بھی شوخی کرنا شروع کر دی۔ انہیں احساس ہوا کہ گھوڑے کی شوخی کسی خاص وجہ سے ہے۔ چنانچہ انہوں نے تلاوت قرآن کو موقوف کر دیا۔ اتفاق سے ان کا بیٹا جس کا نام یحییٰ تھا، گھوڑے کے قریب ہی تھا۔ انہیں ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا شوخی میں ان کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس لئے وہ گھوڑے کے پاس گئے اور اپنے بچے کو وہاں سے اٹھالیا۔ جب انہوں نے بچے کو وہاں سے اٹھایا اور ان کی نگاہ آسمان کی جانب بلند ہوئی تو اچانک انہوں نے بادل کے مثل کوئی چیز دیکھی جس میں دیئے جل رہے ہیں۔ صبح کے وقت اسید نے یہ سارا واقعہ نبی کریم ﷺ کو سنایا تو آپ ﷺ نے بیان فرمایا کہ تو پڑھتا رہتا ہے ابن حفیر تو پڑھتا رہتا ہے۔ ابن حفیر نے کہا میں ڈر گیا اے اللہ کے رسول کہ گھوڑا یحییٰ کو کچل نہ دے اور گھوڑا یحییٰ کے نزدیک تھا۔ پھر میں یحییٰ کی طرف گیا اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھالیا۔ پس اچانک ایک چیز ابر کی طرح تھی اس میں چراغوں کی مانند کوئی چیز تھی۔ پس میں اپنے گھر سے نکلا یہاں تک کہ میں نے اس چراغوں کو نہ دیکھا آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ وہ کیا تھا فرمایا کہ نہیں فرمایا یہ فرشتے تھے تیری قراءت کی آواز کی وجہ سے قریب ہوتے تھے اگر تو پڑھتا رہتا تو البتہ فرشتے صبح کرتے لوگ ان کی طرف دیکھتے اور وہ ان سے نہ چھپتے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے یہ لفظ بخاری کے ہیں اور مسلم شریف میں مشکلم کے صفحے کے فقر جت کی جگہ عربت فی الجوبہ یعنی ہوا میں چڑھ گئے یعنی درمیان آسمان و زمین کے۔

تفسیر: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ گھوڑا جو شوخی کرتا تھا۔ ان فرشتوں کی وجہ سے شوخی کرتا تھا، فرشتے اترتے تھے قرآن سننے کے واسطے اور گھوڑے کی شوخی کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت اسید رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے تو فرشتے تلاوت سننے کے لئے آسمان سے نیچے اترتے اور ان کو دیکھ کر گھوڑا شوخی کرتا تھا۔ جب حضرت اسید تلاوت سے رک جاتے تو فرشتے واپس چلے جاتے اور گھوڑا بھی شوخی ختم کر دیتا۔ فرشتوں کے آسمان پر چڑھ جانے کی وجہ سے چپ رہنے کی حالت میں اور لفظ اقرأ کے معنی ابن حجر نے یہ لکھتے ہیں کہ ہمیشہ اس سورۃ کو پڑھتا رہا۔ جو ایسی عجیب حالت رونما ہونے کا سبب بنی۔ اگر ایسا آئندہ معاملہ پیش آجائے تو اس کو نہ چھوڑنا بلکہ پڑھتے رہنا اور علامہ طبری نے کہا ہے اس کے معنی زمانہ ماضی میں طلب زیادتی کے ہیں۔ پس گویا کہ فرمایا تم نے ایسی صورت میں کثرت سے تلاوت کیوں نہ کی، تلاوت ختم کیوں کر دی؟ نبی کریم ﷺ کے فرمان کے جواب میں حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے جو کچھ عرض کیا اس سے بھی یہی وضاحت ہوتی ہے۔ پس صاحب ترجمہ نے علامہ طبری رضی اللہ عنہ کے موافق ترجمہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں فاشفتت آخر تک پس صاحب ترجمہ نے اس کے موافق کیا ہے اور ایک چیز ابر کی مانند ہے۔ اس میں وجہ تشبیہ یہ ہے کہ ملائکہ قرآن کے سننے پر جمع ہوتے ہیں اور چراغ کی مانند جو روشنی نظر آتی ہے وہ دراصل ان کے منہ ہوتے ہیں۔

تلاوت قرآن سے سیکہ نازل ہوتی ہے

۹/۲۰۰۱ وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَالِى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَظْطَيْنِ فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَذْنُو وَجَعَلَ قَرْسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنْزَلُ بِالْقُرْآنِ - (متفق عليه)

باخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۷۱۹ - حدیث رقم ۵۰۱۱ - و مسلم فی صحیحہ ۵۴۷۱/۱ - حدیث رقم (۷۹۵ - ۲۴۰) والترمذی فی السنن ۱۴۸۱۵ - حدیث رقم ۲۷۷۵ - واحمد فی المسند ۲۸۱/۴

ترجمہ: حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص سورۃ کہف پڑھتا تھا اور ایک طرف اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس گھوڑے کو ایک ابر نے ڈھانک لیا اور وہ قریب ہونے لگا اور اس کے گھوڑے نے اچھلنا کو شروع کیا۔ پس جب اس شخص نے صبح کی وہ حضور ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ کے سامنے یہ ماجرا ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ سیکہ اتری تھی قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں سیکہ کا ذکر آیا ہے سیکہ کہتے ہیں خاطر جمعی اور تسکین قلب اور رحمت کو اور اس کی وجہ سے دل صاف ہوتا ہے اور نفس کی تاریکی جاتی رہتی ہے اور ذوق و شوق کی حضوری پیدا ہوتی ہے اور جمعی یہ سیکہ ابر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔

سورۃ فاتحہ کی فضیلت

۱۰/۲۰۰۲ وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ بِنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَذَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبْهُ ثُمَّ آتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَصَلِّي قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَعْلَمُكُمْ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ لَا أَعْلَمُكُمْ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمُبَارَكُ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۴۱۹ - حدیث رقم ۵۰۰۶ - والترمذی فی السنن ۱۴۳/۵ - حدیث رقم ۲۸۷۵ - والنسائی ۱۳۹/۴ - حدیث رقم ۹۱۳ - واحمد فی المسند ۲۱۱/۴

ترجمہ: حضرت ابوسعید بن معلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو نبی کریم ﷺ نے مجھ کو بلایا تو میں نے آپ ﷺ کو جواب نہ دیا پھر میں حضور ﷺ کے پاس آیا پس میں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ میں نماز پڑھ رہا تھا آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا اللہ نے نہیں کہا اللہ اور رسول ﷺ کو جواب دو اور ان کے حکم کی اطاعت کرو۔ جس وقت وہ تم کو پکاریں پھر ارشاد فرمایا کہ کیا میں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم میں سے تم کو بڑی سورت یعنی افضل سورت نہ سکھاؤں۔ پھر حضور ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا پس جب ہم نے ارادہ کیا کہ نکلیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ﷺ

نے فرمایا تھا۔ میں تم کو قرآن کریم سے بڑی سورت سکھاؤں گا۔ فرمایا وہ سورت الحمد للہ رب العالمین ہے۔ وہ سات آیات ہیں (کہ وہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں) اور وہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے جو مجھے دی گئی ہے۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ شارح نے اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ نماز میں نبی کریم ﷺ کو جواب دینے سے نماز نہیں جاتی جیسے کہ نماز میں: السلام علیک ایہا النبی کہہ کر خطاب کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور سورۃ فاتحہ کو سب سے بڑی سورت اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اس کی اللہ کے نزدیک بڑی قدر ہے اور مختصر الفاظ کے باوجود اس کے فوائد و معانی بہت زیادہ ہیں چنانچہ کہا گیا ہے کہ ایک ایک نبی و ایک نعتین کے تحت تمام دنیاوی مقاصد داخل ہیں۔ بلکہ بعض عارفین نے کہا ہے جو کچھ پہلی کتابوں میں مذکور ہے وہ سب قرآن مجید میں ہے اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب سورت فاتحہ میں ہے اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے اور بسم اللہ کے تمام مضامین باکے نقطے کے تحت ہیں۔

اور حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ وہ سات آیات ہیں اشارہ ہے اس آیت کی طرف: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ یعنی ہم نے تجھ کو سات آیات دیں کہ مکرر پڑھی جاتی ہیں نماز میں یا ثناء کی گئی ہے ان کی ساتھ فصاحت اور اعجاز کے سے مراد سورۃ فاتحہ ہے اور ہم نے تجھ کو قرآن عظیم دیا اس سے مراد بھی سورۃ فاتحہ ہے حالانکہ قرآن کریم کی جز ہے یہ مبالغہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن عظیم ہے۔

سورۃ بقرہ کی فضیلت

۱۱/۲۰۰۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ۔ (رواہ مسلم)

اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۵۳۹/۱ حدیث رقم (۲۱۲ - ۷۸۰)۔ والترمذی فی السنن ۱۴۵/۵ حدیث رقم ۲۸۷۷۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ۔ بلاشبہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے۔

تشریح ﴿ اس حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ۔ جیسے مقبرے ذکر و عبادت سے اور قرآن کی تلاوت سے خالی ہوتے ہیں۔ اس طرح گھروں کو نہ ٹھہراؤ کہ مردوں کی مانند پڑے رہو اور ذکر وغیرہ نہ کرو بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے آباد کرو اور ذکر کے بعد افضل چیز اور بہت زیادہ فائدے مند گھر والوں کے لیے وہ تلاوت قرآن ہے اور ارشاد فرمایا ان الشیطان آخر تک اور سورۃ بقرہ کو خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ اور احکام الہی بہت زیادہ ہیں۔

سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھنے والوں کی لیے باعث برکت ہے

۱۲/۲۰۰۴ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ

الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ أَقْرَأُوا الزَّاهِرَ وَالْبَقْرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَاكِيانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَهُمَا عَمَامَتَانِ أَوْ غِيَابَتَانِ أَوْ فَرْقَانِ مِنْ طَبَرٍ صَوَّافٍ تَحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا أَقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقْرَةِ فَإِنَّ أَخَذَهَا بَرَكَةً وَتَرَكَهَا حَسْرَةً وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبُطْلَانُ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۵۵۳/۱ حدیث رقم (۲۵۲-۸۰۴)۔ واحمد فی المسند ۱۵۴/۴۔

ترجمہ: حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے سنا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ پس تحقیق وہ قیامت کے دن آئے گا پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ علی الخصوص چمکتی ہوئی دوسو سورتیں سورہ بقرہ اور آل عمران کی قراءت کرو۔ قیامت کے روز یہ دونوں سورتیں اس طرح ظاہر ہوں گی گویا کہ وہ دونوں ابر (بادل) کے ٹکڑے ہیں یا دونوں سایہ کرنے والی چیزیں ہیں یا دونوں صف باندھے ہوئے پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہیں۔ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑیں گی۔ سورہ بقرہ پڑھو اور اس کے پڑھنے پر مداومت اور اس کے معانی میں تامل کرنا اور اس پر عمل کرنا برکت ہے یعنی عظیم نفع ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے یعنی قیامت کے دن ندامت ہوگی۔ سورہ بقرہ طویل ہونے کے باعث اس کی تلاوت کی طاقت صرف وہی لوگ نہیں رکھتے جو اہل باطل اور ست لوگ ہیں۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پڑھو اور اس کے پڑھنے کو غنیمت جانو اور اس کی تلاوت پر مداومت کرو۔ چمکتی ہوئی کا معنی ہے نور اور ہدایت اور ثواب کی زیادتی کی وجہ سے روشن ہیں پس گویا کہ یہ دونوں سورتیں دوسری سورتوں کی بہ نسبت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بمنزلہ چاند کے ہیں۔ یہ نسبت تمام ستاروں کے اور ابر کے ٹکڑے ہیں اور میدان حشر میں اپنے پڑھنے والوں پر گرمی کی وجہ سے سایہ کریں گے اور دوسری بھی سایہ کرنے والی چیزیں ہیں یعنی بادل ہو یا اور کچھ اور اپنے پڑھنے والوں کے سر کے قریب ہونگے۔ جیسے بادشاہوں کے سر پر چھتری وغیرہ کا سایہ کیا جاتا ہے سایہ بھی ہوگا اور روشنی بھی ہوگی اور علامہ طبریؒ نے کہا ہے کہ لفظ او کانہما عمامتان او غیابتان اور فرقان من طبر صواف میں بطور ترویج کے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی صورت یعنی ابر کی صورت کا تعلق ایسے شخص سے ہوگا جس نے ان سورتوں کی تلاوت کی۔ گمان کے مفہوم و معانی کو نہ سمجھا۔ دوسری صورت یعنی سایہ کی چیز کا تعلق ایسے شخص سے ہوگا جس نے ان سورتوں کی تلاوت بھی کی اور ان کے معانی و مطالب کو بھی سمجھا اور دوسروں کو یہ سورتیں یاد بھی کروائیں۔

سورہ بقرہ اور آل عمران ابر کے ٹکڑوں کی طرح ہیں

۱۳/۲۰۰۵ وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاهْلُهُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقْرَةِ وَالْ عِمْرَانَ كَانَهُمَا عَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَا وَإِنْ بَيْنَهُمَا شَرْقًا أَوْ كَانَهُمَا فَرْقَانِ مِنْ طَبَرٍ صَوَّافٍ تَحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبَيْهِمَا۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۵۵۴/۱ حدیث رقم (۲۵۳-۸۰۵)۔ والترمذی فی السنن ۱۴۷/۵ حدیث رقم ۲۸۸۳

والدارمی ۵۴۳/۲ حدیث رقم ۳۳۹۱۔ واحمد فی المسند ۳۶۱/۵۔

ترجمہ: حضرت نواس بن سمانؓ سے روایت ہے میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن

قرآن لایا جائے گا اور قرآن کے پڑھنے والوں کو جو اس پر عمل کرتے تھے اس پر سارے قرآن کے آگے ہوگی سورۃ بقرہ اور آل عمران گویا وہ ابر کے دو کٹڑے ہیں یا ابر کے دو سیاہ کٹڑے ہیں ان کے درمیان ایک چمک ہے گویا کہ وہ پرندوں کی دو کٹڑیاں صف باندھے ہوئے ہیں۔ پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑیں گی۔ یعنی اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے قرآن کریم کو ایک صورت بنا کر لایا جائے گا یا اس کا ثواب لایا جائے گا۔ کَانُوا يَعْمَلُونَ بہ: اور عمل کرتے تھے کے معنی ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور عمل نہ کیا۔ وہ اہل قرآن میں سے نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ شفاعت کرنے والا ہوگا۔ بلکہ قرآن اس پر جرح ہوگا۔ آگے ہونے کی سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں کا ثواب پورے قرآن کے آگے ہوگا اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ قرآن کی صورت بنائی جائے گی۔ سب لوگ اس کو دیکھیں گے جیسے کہ اور اعمال کی صورت بنے گی میزان میں بولنے کے لیے اور سیاہ کا مطلب یہ ہے کہ دلدار اور تہہ بہ تہہ ہونے کے باعث وہ دو کٹڑے سیاہ ہونگے۔ اور ایسے بادلوں کا سایہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کے درمیان ایک چمک ہوگی اور وہ بہت زیادہ دلدار ہونگے اور اس کا باوجود وہ روشنی سے مانع نہیں ہونگے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ شرق کے معنی درز یعنی دراز کے ہیں یعنی ان دونوں سورتوں کے درمیان بسملہ کے ذریعے فرق ہوگا جو ابر کی دو کٹڑیوں کی صورت میں ہوں گے۔

آیۃ الکرسی کی شان

۴۷/۲۰۰۶ وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَكَ أَعْظَمُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَكَ أَعْظَمُ قُلْتُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَالَ فَضْرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۵۵۶/۱ حديث رقم (۲۵۸ - ۸۱۰) - و ابو داؤد في السنن ۱۵۱/۲ حديث رقم ۱۴۱۰ - واحمد في المسند ۱۴۲/۵

ترجمہ: حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اے ابو المنذر (ابی بن کعبؓ) کی کس آیت کی شان (کیت ہے) کیا تو جانتا ہے کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تیرے نزدیک بہت بڑی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ﷺ خوب جانتے ہیں۔ پھر فرمایا اے ابو المنذر! کیا تو جانتا ہے کہ کون سی آیت کتاب اللہ کی تیرے نزدیک بہت بڑی ہے میں نے کہا اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ یعنی پوری آیۃ الکرسی۔ ابی نے کہا حضور ﷺ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو المنذر! اللہ کرے کہ تمہارا علم خوشگوار ہو۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں آیۃ الکرسی کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ جب پہلی بار آپ ﷺ نے حضرت ابی بن کعب سے قرآن کی عظیم آیت سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواباً عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جب دوسری بار آپ ﷺ نے دریافت کیا تو انہوں نے جواباً عرض کیا۔ ابی بن کعبؓ کے اس طرز عمل کی وجہ سے علمائے

کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلی بار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بطور ادب کے جواب نہیں دیا اور دوسری بار آپ ﷺ کے سوال پوچھنے پر جواب دیا پس جب دوسری بار آپ ﷺ نے سوال کیا تو اللہ کی جانب سے علم دیتے یا اس کے سوال کی مدد سے سپرد کرنے کی برکت اور حسن ادب کے باعث سوال کا جواب ان پر واضح کر دیا گیا۔ ادب اور فرمانبرداری کو جمع کیا جیسے کہ اہل کمال کا طریقہ ہے اور بعض حضرات نے کہا آیۃ الکرسی کو بہت بڑا اس لیے کہا گیا ہے اس میں توحید اور تعظیم الہی کا بیان ہے اور اسمائے حسنیٰ اور باری تعالیٰ کا ذکر ہے۔

آیۃ الکرسی کی فضیلت

۱۵/۲۰۰۷ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي ابْنُ فَجْعَلٍ يَحْتَوِي مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ لَا رَفْعَتَكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَى عِيَالٍ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْتَوِي مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَا رَفْعَتَكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَى عِيَالٍ لَا أَعُودُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْتَوِي مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَا رَفْعَتَكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الْاِخْرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّكَ تَرَعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ قَالَ دَعْنِي أَعْلِمْتُ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَأَقْرَأِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَفْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تَصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ قُلْتُ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْلَمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا قَالَ أَمَا إِنَّهُ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ وَتَعْلَمُ تُخَاطَبُ مِنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ قُلْتُ لَا قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۸۷/۴ حدیث رقم ۲۳۱۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے رمضان کی زکوٰۃ (یعنی صدقہ فطر) کو جمع کرنے کی تمہدائی کرنے کے لیے مجھے حکم فرمایا (تا کہ جمع ہونے کے بعد فقراء میں تقسیم کریں)۔ پس میرے پاس ایک شخص آیا۔ وہ غلے کی لپوں سے اپنا دامن اور برتن بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا۔ میں تجھ کو نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچاؤں گا۔ اس

نے کہا کہ میں محتاج ہوں اور میرے ذمے عیال داری کا نفقہ ہے اور مجھ کو سخت ضرورت ہے یعنی قرض وغیرہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اس کو چھوڑ دیا پس میں نے صبح کی تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اور غیب کی خبر سنائی۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ! تیرے قیدی نے گزشتہ رات کیا کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ اس نے سخت حاجت کی اور عیال داری کی شکایت کی۔ پس میں نے اس پر رحم کیا اور اس کو چھوڑ دیا حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ خبردار! اس نے اپنی حاجت ظاہر کرنے میں تجھ سے جھوٹ بولا۔ وہ پھر آئے گا مجھے آپ ﷺ کے اس فرمانے کی وجہ سے کہ وہ پھر آئے گا یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا۔ پس وہ آیا اور غلے کی لکڑی بھرنے لگا۔ پس میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ البتہ میں تجھ کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں محتاج ہوں اور میرے ذمے کنبے کا نفقہ ہے پھر میں نہیں آؤں گا۔ پس میں نے اس پر رحم کیا اور چھوڑ دیا۔ پس میں نے صبح کی۔ نبی کریم ﷺ نے پوچھا تیرے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ! اس نے سخت حاجت کی اور عیال داری کی شکایت کی تو میں نے رحم کھا کر اس کی راہ چھوڑ دی پھر فرمایا خبردار اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے یعنی اس میں کہ پھر نہ آؤں گا۔ وہ پھر آئے گا۔ پس میں اس کا منتظر رہا وہ تیسری بار بھی غلے سے لپس لینے کے لیے آیا پھر میں نے اس کو پکڑا اور میں نے کہا البتہ میں تجھ کو نبی علیہ السلام کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا اور تین مرتبہ اخیر ہے اور تو کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آتا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے میں تم کو ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تم کو ان کی وجہ سے نفع دے گا۔ جس وقت تم سونے کے لیے جاؤ۔ تو آئیے الکرسی پڑھو۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ۔ یہاں تک کہ آیت کو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک ختم کرو۔ پس تحقیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ہمیشہ نگہبان مقرر رہے گا اور صبح ہونے تک کوئی شیطان (چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے دنیاوی اذیت دینے کے لئے) تمہارے نزدیک نہیں آئے گا تو میں نے یہ سن کر اس کی راہ چھوڑ دی پھر میں نے صبح کی اور نبی کریم ﷺ نے مجھے ارشاد فرمایا۔ تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ قیدی نے کہا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا۔ جو تجھے نفع دیں گے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا خبردار اس نے سچ کہا۔ یعنی اس سکھانے میں اس نے سچ کہا یعنی وہ اور باتوں میں جھوٹا ہے اور تو جانتا ہے کہ تو کس سے خطاب کرتا تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں! فرمایا یہ شیطان تھا جو صدقات کو ناقص کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کو بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں آیت الکرسی کی عظمت، شان اور فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس شخص نے تین بار جھوٹ بولا اور جب اس نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی تو آپ ﷺ نے تصدیق کر دی کہ اس نے سچ کہا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے رحم و شفقت کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں پھر نہیں آؤں گا۔ ورنہ اس کا جھوٹ آپ ﷺ کی زبانی حاجت کے بارے میں ثابت ہو چکا تھا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور آپ ﷺ کو بذریعہ وحی اس کا علم ہو چکا تھا۔

سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کا آخری حصہ اللہ کی طرف سے دونور ہیں

۱۶/۲۰۰۸ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَفِيضًا مِنْ قُرْقَرٍ رَأَسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ إِلَّا الْيَوْمَ فَتَزَلَّ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ

هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ فَقَالَ أَبَشِرْ بَنُوْرَيْنِ أَوْ يَتِيهَمَا لَمْ يُؤْتِيَهُمَا نَبِيٌّ
فَبَلَكَ فَابْتَحَ الْكِتَابَ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيَتْهُ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۵۵۴/۱ حدیث رقم (۲۵۴-۸۰۶)۔ والنسائی ۱۳۸/۲ حدیث رقم ۹۱۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اوپر کی طرف سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا۔ یہ آسمان کا دروازہ ہے یہ صرف آج کے دن کھولا گیا ہے۔ اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ اتر آیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا۔ یہ ایک فرشتہ زمین کی طرف اتر رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترتا فرشتے نے حضور ﷺ کو سلام کیا۔ پھر فرمایا کہ مبارک ہو تمہیں دونوروں کی کہ وہ دو نور تمہیں دیے گئے ہیں اور تم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے وہ سورۃ الحمد اور سورۃ البقرہ کا آخری حصہ ہے جب بھی آپ ان میں سے کوئی حرف پڑھیں گے اس کے عوض یا تو آپ کو ثواب دیا جائے گا اور یا آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کے آخری حصے کو دونوروں سے تعبیر کیا گیا ہے۔

فَنَزَلَ مِنْهُ: یہ کلام راوی کا ہے اس نے رسول اللہ ﷺ سے اسی طرح سنا اور ساتھ دونوروں کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نام نور اس لیے ہوا کہ قیامت کے دن یہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات روشنی کی صورت میں ہوں گی اور اپنے پڑھنے والے کے آگے چلیں گی اور خاتمہ سورۃ البقرہ کا ظاہر یہ ہے کہ خاتمہ سے مراد اللہ ما فی السموات وما فی الارض سے آخر سورت تک ہے۔ چنانچہ حضرت کعب سے بھی یہی منقول ہے اور ایک ایک حرف میں حرف سے مراد کلمہ ہے اور کلمے اس میں دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ کلمے ہیں جن میں دعا ہے جیسے: اهدنا الصراط المستقیم اور غفرانک ربنا اور ان کے علاوہ اور دوسرے کلمے فقط حمد و ثنا کے ہیں۔ پس جو کلمہ دعا کا پڑھا جائے گا اس کو وہ چیز عطا کی جائے گی جو اس کلمے میں ہے اور جو شخص حمد و ثنا کے کلمات پڑھے گا تو اس کو قرآن کے حروف پر جو ثواب ملتا ہے اتنا ثواب دیا جائے گا۔

سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی فضیلت

۱۷/۲۰۰۹ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَتَانِ مِنَ الْخِزْرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ
قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَا (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۱۷/۷۔ حدیث رقم ۴۰۰۸۔ ومسلم فی صحیحہ ۵۵۱/۱ حدیث رقم (۲۵۵-۸۰۷)۔
والترمذی فی السنن ۱۴۷/۵ حدیث رقم ۲۸۸۱۔ وابن ماجہ ۴۳۵/۱ حدیث رقم ۱۳۶۸۔ والدارمی ۵۴۲/۲ حدیث
رقم ۳۳۸۸۔ واحمد فی المسند ۱۱۸/۴۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کے وقت سورہ البقرہ کی آخری دو آیات یعنی آمن الرسول سے آخر تک پڑھتا ہے تو وہ اس کو کفایت کرتی ہیں۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ جو سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات: اَمِنْ الرَّسُولِ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اَمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يَكْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَا نَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا اِنَّكَ اَنْتَ مُوَلِّئُا قُلُوبُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کی تلاوت کرے گا وہ آیات اس کی کفایت کریں گی اور جن و انس کی شرارتوں کو اس سے دور رکھیں گی اور گویا کہ وہ آیات اس کو قیام اللیل سے کفایت کرتی ہیں۔

سورۃ کہف کی پہلی دس آیات پڑھنے والے کیلئے دجال کے فتنے سے بچاؤ کا باعث

۱۸/۲۰۱۰ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ

سُورَةِ الْكَهْفِ عَصِمَ مِنَ الدَّجَالِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۵۵۵/۱ حديث رقم (۲۵۷ - ۸۰۹) - و ابوداؤد في السنن ۴۹۷/۳ حديث رقم ۴۳۲۳ -

والترمذي ۱۴۹/۵ حديث رقم ۲۸۸۶ - واحمد في المسند ۱۹۶/۵ -

ترجمہ: حضرت ابودرداءؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص سورۃ کہف کی پہلی دس آیات یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے شر سے بچالے گا۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بچالے گا۔ اس سے یا تو وہ دجال مراد ہے جو آخری زمانے میں پیدا ہوگا یا دجال سے مراد ہر جھوٹا فریب کرنے والا ہے اور ترمذیؒ کی روایت آگے آرہی ہے اس میں یوں آیا ہے کہ جس نے تین آیات پڑھیں اس کو دجال کے فتنے سے بچالیا جائے گا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ان دونوں روایتوں میں تطبیق کی صورت اس طرح ہے جو دس آیات پڑھے گا اس کو دجال کے شر سے بچایا جائے گا اور جو شخص تین آیات سورۃ کہف کی پڑھے گا اس کو اس کے فتنے سے بچالیا جائے گا۔

حاصل یہ ہے کہ دجال کا فتنہ ملاقات کے ساتھ اشد ہوگا۔ بہ نسبت اس فتنے کے جو ملاقات نہ ہونے کی صورت میں ہوگا۔ پس دس آیات کے یاد کرنے سے ملاقات کے فتنے سے بچے گا اور تین آیتوں کے پڑھنے سے فتنے سے بچے گا کہ بغیر اس کے ملنے سے لوگ اس میں گرفتار ہونگے۔ واللہ اعلم۔

سورۃ اخلاص کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے

۱۹/۲۰۱۱ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ قَالُوا

وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ - (رواه مسلم و رواه البخاری عن ابی سعید)

اخرجه مسلم في صحيحه ۵۵۶/۱ حديث رقم (۲۵۹ - ۸۱۱) - و ابوداؤد في السنن ۱۵۲/۲ - حديث رقم ۱۴۶۱ -

والترمذي ۱۵۳/۵ حديث رقم ۲۸۹۶ - والنسائي ۱۷۱/۲ حديث رقم ۹۹۶ - واخرجه مالك في الموطأ -

ترجمہ: حضرت ابودرداءؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھے؟ صحابہؓ نے عرض کیا ہے کس طرح تہائی قرآن پڑھے؟ فرمایا قل ہوا اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے اور بخاریؒ نے ابوسعیدؓ سے نقل کیا۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے تہائی قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں تین طرح کے مضامین مذکور ہیں: ۱) قصص۔ ۲) احکام۔ ۳) توحید اور اس سورۃ اخلاص میں توحید کا خوب ذکر کیا گیا ہے اور یا اس طرح کہا جائے کہ قرآن میں توحید کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے سورۃ اخلاص اس کا خلاصہ ہے اس لئے یہ سورۃ ثلث قرآن کے برابر ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس کا ثواب اصل ثواب کے بقدر دگنا کیا جاتا ہے۔ پس پہلی تقریر کا مطلب یہ نکلا کہ تین بار پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب لازم نہیں آیا اور دوسری تقریر کے پیش نظر تین بار پڑھنے سے اصل ثواب قرآن کریم کا حاصل ہو جاتا ہے۔

سورۃ اخلاص سے محبت

۲۰/۲۰۴ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِصَحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَحْنُمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَسَوْءٌ لَأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۴۷/۱۳۔ حدیث رقم ۷۳۷۵۔ و مسلم فی صحیحہ ۵۵۷/۱ حدیث رقم (۲۶۳-۸۱۳)۔

والنسائی ۱۷۰/۲ حدیث رقم ۹۹۳۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ایک شخص کو ایک لشکر پر امیر بنا کر بھیجا اور وہ اپنے ساتھیوں کی نماز میں امامت کرتا تھا اور اپنی قراءت قل ہوا اللہ احد کے ساتھ ختم کرتا تھا۔ پھر جب لشکر کے لوگ لوٹ کر آئے تو حضور ﷺ کے سامنے عرض کیا پس فرمایا اس سے پوچھو کس واسطے اس طرح کرتا ہے؟ پس اس سے پوچھا گیا۔ اس نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس میں رحمان کی صفت ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں اس کو پڑھوں۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اس شخص کو خبر دو کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ اس کو بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: وہ صحابی جو لشکر کے سردار تھے۔ ہر نماز کی آخری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل ہوا اللہ احد پڑھتے تھے اور علامہ ابن حجرؒ نے کہا ہے کہ وہ صحابی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ یا سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ اولاً جو معنی ہم نے لکھے ہیں وہی درست ہے نماز بالالتحاق بلا کراہت ہو جاتی ہے۔

سورۃ اخلاص کے ساتھ دوستی دخول جنت کا باعث ہے

۲۱/۲۰۱۳ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ إِنَّ حُبَّكَ

إِيَّاهَا الْجَنَّةُ - (رواه الترمذی وروالبخاری معناه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۵۳/۲۔ حدیث رقم ۷۷۴۔ والترمذی فی السنن ۱۵۶/۵۔ حدیث رقم ۲۹۰۱۔
ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں اس سورت یعنی قل
هو اللہ احد کو پسند کرتا ہوں تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تیری اس سورت کے ساتھ دوستی تجھے بہشت میں داخل کر دے گی۔
اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور بخاری نے اس کے معنی روایت کیے ہیں۔

تشریح: اس حدیث کا خلاصہ پہلے مذکور ہو چکا ہے مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس میں یہ بیان کیا گیا
ہے کہ جو شخص سورۃ اخلاص کے ساتھ محبت کرے گا اور اس کی بار بار تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں داخل کر دیں گے۔

سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی خصوصیت

۲۲/۲۰۱۳ وَعَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَ آيَاتِ أَنْزَلَتِ اللَّيْلَةُ لَمْ يَرِ
مِنْهُنَّ قَطُّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۵۵۷/۱۔ حدیث رقم (۲۶۴ - ۸۱۴)۔ والترمذی فی السنن ۱۵۷/۵۔ حدیث رقم ۲۹۰۲۔
والنسائی ۱۵۸/۲۔ حدیث رقم ۹۵۴۔

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آج رات ایسی عجیب آیات نازل کی
گئیں کہ ان کی مانند آیات کبھی نہیں دیکھی گئیں (یعنی پناہ پکڑنے کے سلسلے میں ان کے مثل آیات نہیں نازل ہوئیں) وہ قل
اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اللہ تعالیٰ
سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں بڑی عجیب ہیں اور یہ سورتیں اور ان کے مضامین بڑی اہمیت کے حامل ہیں جو دوسری روایات میں
معلوم ہو چکے ہیں۔

سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ذریعے دم کرنا

۲۳/۲۰۱۵ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ
نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا
اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - (متفق
عليه) وسند ذكر حديث ابن مسعود لما أسرى برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَابِ الْمَعْرَاجِ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ تَعَالَى -

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶۲/۹۔ حدیث رقم ۵۰۱۷۔ والترمذی فی السنن ۴۴۱/۵۔ حدیث رقم ۳۴۰۲۔ وابن ماجہ

۱۲۷۵/۲ حدیث رقم ۳۸۷۵ - واحمد فی المسند ۱/۱۶۶ -

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ہر رات جب بچھونے کی طرف تشریف لے جاتے تو آپ ﷺ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملاتے پھر دونوں ہاتھوں پر دم کرتے۔ پس ان میں قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بدن پر پھیرتے جہاں تک ہو سکتا۔ اپنے سر سے پھیرنا شروع کرتے اور اپنے منہ پر اور اپنے بدن کے اگلی جانب پھر اس کے بعد دوسری جگہ پھیرتے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے تین بار نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ پہلے ہاتھوں پر کرتے تھے اور اس کے بعد پڑھتے تھے۔ پس بعضوں نے تو کہا ہے کہ یہ اسی لیے کرتے تھے۔ تاکہ جادو گروں کی مخالفت ہو جائے کہ وہ پہلے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دم کرتے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دم کرنے کا ارادہ کرتے اور پھر پڑھتے اور پھر دم کرتے۔ اور ہم اس مضمون کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ذکر کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

الفصل الثانی:

میدانِ حشر میں تین چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوں گی

۲۴/۲۰۱۶ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقُرْآنُ يُحَاجُّ الْعِبَادَ لَهُ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَالْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ تُنَادِي أَلَا مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ - (رواه فی شرح السنة)

اخرجه البغوی فی شرح اسلئنة ۲۲/۱۳ حدیث رقم ۳۴۳۳ -

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز عرش کے نیچے تین چیزیں ہوں گی ایک تو قرآن جو بندوں سے جھگڑا کرے گا اور قرآن کے لیے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی دوسری چیز عرش کے نیچے امانت ہوگی۔ تیسری چیز پکارے گی کہ خبردار! جس شخص نے مجھے پکارا (یعنی اس طور پر کہ میرے حق کی رعایت کی کہ میرے احکام کی بجا آوری کا جو حق اس پر لازم ہے وہ اس نے ادا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملالے گا اور جس نے مجھ کو توڑا یعنی میرے حق کی رعایت نہ کی۔ اس کو اللہ تعالیٰ توڑے گا یعنی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ اس کو شرح السنۃ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ تین چیزیں عرش کے نیچے بڑی اہمیت کی حامل ہوں گی۔ اس سے درحقیقت اس بات کی طرف کنایہ ہے کہ روزِ قیامت ان تین چیزوں کو بارگاہِ الہی میں کمالِ قرب و اعتبار کا مقام حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق کو اور ان لوگوں کے ثواب کو جو ان مذکورہ چیزوں کی حفاظت کریں گے ضائع نہیں کریں گے۔ جیسا کہ بادشاہ کے مقربین کا حال ہوتا ہے اور بندوں سے جھگڑیگا یعنی جنہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس پر عمل نہ کیا ان سے جھگڑا کریگا اور جنہوں نے اس کی تعظیم ہوگی اور اس پر عمل کیا ہوگا ان کی طرف سے جھگڑے گا۔ یعنی جنابِ الہی میں ان کی سفارش

کرے گا اور یہ معنی ظاہر ہیں اور اکثر سمجھتے ہیں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے اور قرآن کے لیے باطن ہے اس کا معنی یہ ہے یعنی بعض قرآن کے محتاج ہیں بغیر غور و فکر کے و تفسیر کے سمجھ نہیں آتے۔ مگر خواص مقررین علماء صالحین ہی سمجھتے ہیں یہ اشارہ ہے اس پر کہ جن لوگوں نے قرآن کی تعلیمات کو اپنے عمل کا حصہ نہیں بنایا قیامت کے دن قرآن کے بارے میں ہر شخص کی فہم اور اس کے علم کے بغیر مواخذہ کیا جائے گا اور امانت سے مراد حقوق اللہ ہیں اور بندوں کے حقوق ہیں جو ان پر لازم ہیں۔

قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھنا چاہیے

۲۵/۲۰۱۷ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرْتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرُؤُهَا۔ (رواہ احمد والترمذی و ابو داؤد و ابوالسائی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۱۵۳/۲ حدیث رقم ۱۴۶۴۔ والترمذی ۱۷۷/۵ حدیث رقم ۲۹۱۴۔ واحمد فی المسند ۱۹۲/۲۔
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ صاحب قرآن کے لیے کہا جائیگا۔ پڑھ اور بہشت کے درجوں پر چڑھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ پس تحقیق تیرا مرتبہ آخری آیت کے پاس ہے جس کو تو پڑھے گا۔ اس کو امام احمد، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں صاحب قرآن کا لفظ آیا ہے کہ صاحب قرآن وہ ہے جو ہمیشہ تلاوت کرتا رہتا ہے وہ شخص مراد نہیں جو قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا۔ بلکہ ایسے شخص کو قرآن لعنت کرتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص قرآن پر عمل کرے۔ گویا کہ وہ شخص ہمیشہ قرآن پڑھتا ہے اگرچہ اس نے نہ پڑھا ہو اور جس نے قرآن پر عمل نہ کیا گویا کہ اس نے نہیں پڑھا اگرچہ اس کو ہمیشہ پڑھتا رہتا ہو اور حدیث میں آیا ہے یعنی پڑھ اور چڑھ یعنی جنت کے درجات پر آیات کے بقدر چڑھتا جا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے درجات آیات قرآنی کی بقدر ہیں اگر پورا قرآن پڑھے گا۔ تو جنت کے اعلیٰ مقام کے لائق ہوگا اور اس میں اشارہ ہے اس پر کہ جو حافظ قرآن ترتیل سے پڑھتے ہیں ان کا جنت میں بڑا مرتبہ ہوگا اور قرآن کی آیات کو فیوض کی کنتی کے اعتبار سے جن کافن قراءت اور اصول ہمارے اطراف میں رائج ہیں چھ ہزار دو سو پینتیس ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سے اقوال ہیں اور اس میں جو چاہے تجوید و قراءت کی کتابوں میں دیکھ لے۔ ح. بحر العلوم۔

قرآن کریم سے خالی دل ویران گھر کی طرح ہے

۲۶/۲۰۱۸ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ۔ (رواہ الترمذی والدارمی وقال الترمذی هذا حدیث صحیح)

اخرجه الترمذی فی السنن ۷۷/۵ حدیث رقم ۲۹۱۳۔ والدارمی ۵۲۱/۲ حدیث رقم ۳۳۰۶۔ واحمد فی المسند ۲۲۳/۱۔
ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اس کو امام ترمذی اور دارمی نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے جو شخص کچھ بھی قرآن نہ جانتا ہو اور نہ ایمان رکھتا ہو۔ وہ ویران گھر کی طرح ہے اور جس کو قرآن آتا ہو اور ایمان بھی رکھتا ہو اس کا باطن ایمان کے نور سے آباد ہے۔ اگر تھوڑا جانتا ہوگا تو تھوڑا آباد ہوگا اور اگر زیادہ جانتا ہوگا۔ تو زیادہ آباد ہوگا۔

قرآن پاک میں مشغول ہونے والے کو مانگنے والے سے بہتر اجر ملتا ہے

۲۷/۲۰۱۹ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ وَفَضَّلَ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ - (رواه الترمذی والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۸۴۵ حدیث رقم ۲۹۲۶۔ والدارمی فی السنن ۵۳۳/۲ حدیث رقم ۳۳۰۶۔

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو قرآن میری یاد اور مجھ سے مانگنے سے باز رکھتا ہے میں اس کو اس چیز سے بہتر عطا کرتا ہوں جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں اور کلام الہی کی بزرگی تمام کلاموں کے اوپر ایسی ہے جیسے اللہ کی بزرگی اس کی تمام مخلوقات پر ہے (پس قرآن میں مشغول رہنے والوں کو غیر قرآن میں مشغول رہنے والے لوگوں پر بھی اسی طرح فضیلت و بزرگی حاصل ہوتی ہے) اس کو امام ترمذیؒ اور دارمیؒ نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے اور امام ترمذیؒ نے کہا ہے کہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں قرآن پاک میں مشغول ہونے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کو سمجھنے میں مشغول ہو جائے اور جو چیز اس میں ہے اس پر عمل کرے اور میری ذکر و دعا وغیرہ کے لیے اس کو فرصت نہ ملے میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں اور ظاہر تو یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ میں ذکر کرنے اور دعا کرنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں لیکن اکتفا کیا صرف مانگنے والوں پر کیونکہ ذکر بھی حقیقت میں دعا ہے۔ کیونکہ ذکر اور ثناء کریم سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ عطا ہو اور جملہ افضل کلام اللہ یہ احتمال رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول کا تتمہ ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ نبی ﷺ کا قول ہے اور یہی درست ہے۔

قرآن مجید کا صرف ایک حرف پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں

۲۸/۲۰۲۰ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا لَا أَقُولُ أَلَمْ حَرْفٌ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مٌ حَرْفٌ وَمِنْهُمْ حَرْفٌ - (رواه الترمذی والدارمی وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح غریب اسنادا)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۷۵۵ حدیث رقم ۲۹۱۰۔ والدارمی فی السنن ۵۲۱/۲ حدیث رقم ۳۳۰۸۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھے۔ پس اس کے واسطے ہر حرف کے عوض نیکی ہے اور ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہے یعنی ہر حرف پر دس نیکیاں لکھی

جاتی ہیں میں نہیں کہتا۔ الم ایک حرف ہے الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے یعنی الم کے کہنے سے تیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کو امام ترمذی اور دارمی نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن صحیح غریب ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور الم پڑھنے پر تیس نیکیاں ملیں گی۔ گویا کہ اس حدیث میں قرآن پاک پڑھنے پر اجر و ثواب کا ذکر کیا گیا ہے کہ تلاوت قرآن پر کس قدر اجر و ثواب اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔

قرآن پر عمل باعثِ نجات ہے

۲۹/۲۰۲۱ وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ فَقَدْ خَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَوْ قَدْ فَعَلْتُمَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِلَّا أَنَّهُمَا سَكُونٌ فَسَنَةُ قُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَضَمَهُ اللَّهُ وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَيِّينُ وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمِ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ لَا تَلْتَبِيسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا يَنْقُضُ عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهُ الْجِنَّ إِذَا سَمِعْتَهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَّا بِهِ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجْرٌ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلٌ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔

(رواه الترمذی والدارمی وقال الترمذی هذا حديث اسناده مجهول وفي الحارث مقال)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۵۸/۵ حدیث رقم ۲۹۰۶۔ والدارمی ۵۲۶/۲ حدیث رقم ۳۳۳۱۔

ترجمہ حضرت حارث (جن کی ایک آنکھ کی بصارت نہیں تھی) انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں سے گزرا یعنی کوفہ کی مسجد میں سے۔ پس ناگہاں (اچانک) لوگ بے فائدہ باتوں میں مشغول تھے یعنی قصے کہانیوں وغیرہ میں اور تلاوت قرآن انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان کو خبر دی۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا انہوں نے واقعتاً ایسا کیا ہے کہ بے فائدہ باتوں میں مشغول ہو کر تلاوت قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خبردار ہو جاؤ تحقیق میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے آپ ﷺ فرماتے تھے خبردار ہو تحقیق فتنہ واقع ہوگا (یعنی اختلاف واقع ہوگا لوگوں میں اور برے مذاہب نکلیں گے) میں نے کہا یا رسول اللہ اس سے کس طرح خلاصی ہوگی؟ فرمایا کتاب اللہ جس میں تم سے پہلے لوگوں کے حالات بھی ہیں اور اس میں اس چیز کی خبر ہے جو تمہارے بعد ہے یعنی قیامت کی علامتیں اور قیامت کے احوال اور اس میں اس چیز کا حکم ہے جو تمہارے درمیان واقع ہے یعنی کفر اور ایمان اور طاعت و گناہ اور حلال و حرام اور اسلام کے شرائع اور معاملات آپس کے وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے بے ہودہ نہیں ہے جس منکر نے قرآن چھوڑا اس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا اور جس نے ہدایت ڈھونڈی اس کے غیر میں اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ

کرے گا اور وہ اللہ کی رسی استوار ہے یعنی قوی وسیلہ ہے قرب الہی کی معرفت کا اور وہ با حکمت مذکور ہے اور وہ سیدھا راستہ ہے اور وہ ایسا ہے کہ اس کی اتباع کی وجہ سے خواہش میزگی نہیں ہوتی اور زبانیں اس کے ساتھ نہیں ملتیں اور اس سے علماء کبھی سیر نہیں ہوتے اور قرآن مجید مزاولت سے پرانا نہیں ہوتا اور اس کے عجائب پرانے نہیں ہوتے اور وہ ایسا ہے جس کو جنات نے سن کر توقف نہیں کیا اور کہا تحقیق ہم نے سنا ہے قرآن ہدایت کی طرف عجیب راستہ بتاتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لے آئے جس نے اس کے موافق کہا اس نے سچ کہا اور جس نے اس پر عمل کیا ثواب دیا جائے گا اور جس نے اس کے مطابق حکم کیا۔ یعنی لوگوں کے درمیان انصاف کیا اور جس نے اس کی طرف بلایا اسے سیدھی راہ دکھائی گئی۔ اس کو امام ترمذیؒ اور دارمیؒ نے نقل کیا ہے اور امام ترمذیؒ نے کہا ہے اس حدیث کی سند مجہول ہے اور حارث کے بارے میں بتایا کہ وہ جھوٹا ہے۔

تشریح ○ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جس متکبر شخص نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا اور اس پر ایمان نہیں لایا اور نہ اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے گا یا اس کی گردن توڑے گا۔ اصل میں قسم کے معنی توڑنے کے ہیں اور جدا کرنے کے ہیں۔ پس معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قطع کر دے گا اور اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ بخلاف اس کے کہ جو قرآن پر عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مراتب پر پہنچا دے گا اور علامہ طبریؒ نے کہا ہے کہ جس نے قرآن کی ایک آیت پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ جس پر عمل کرنا واجب ہے یا ازراہ تکبر قرآن کو ترک کیا تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور جس نے قرآن پڑھنا چھوڑا عجز یا کسل کی وجہ سے یا ضعف کی وجہ سے۔ باوجود اعتقاد تعظیم کے پس اس پر گناہ نہیں ہے لیکن وہ ثواب سے محروم رہے گا اور قرآن پاک کی اتباع کرنے کی وجہ سے خواہش غلط راستے پر نہیں چلتی اور جو کوئی قرآن کریم کی اتباع کرے وہ گمراہی سے محفوظ رہتا ہے اگر کوئی کہے کہ اہل بدعت یعنی رد افض و خوارج وغیرہ بھی تو کلام اللہ سے دلیل پکڑتے ہیں۔ وہ کہاں محفوظ ہیں بلکہ وہ تو گمراہ ہیں جواب یہ ہے کہ ان کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کامل دلیل نہیں کرتے۔ اس لیے کہ انہوں نے وہ حدیثیں چھوڑ رکھیں ہیں جن سے مقصد کلام اللہ کا معلوم ہوتا ہے اور نہ ہی انہوں نے ان کی تقلید کی۔ جو کلام اللہ کو سمجھنے میں کامل تھے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پس انہوں نے قرآن کریم کو پہچانا جس طرح پہچاننے کا حق ہے اسی لیے جنید بغدادیؒ نے کہا ہے۔ جو شخص قرآن کو یاد نہ کرے اور حدیث سیکھے اس کی پیروی نہ کی جائے اور جو شخص ہمارے طریقے میں بغیر علم کے داخل ہوا اور ہمیشہ اپنے جہل پر قناعت کی۔ پس وہ شیطان کا مسخرہ ہے۔ اس لیے کہ ہمارا علم کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے اور علامہ طبریؒ نے کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہیں کہ اہل ہوا اس پر قادر نہیں ہوئے یعنی بدعتی لوگ کہ وہ قرآن کے معانی و مفاہیم میں تغیر و تبدل پیدا کر دیں یا اس میں کوئی خرابی پیدا کر دیں۔ اس صورت میں اس عبارت لَا تَزِيغُ بِهِ الْاَهْوَاءُ میں بہ کی بابت تعدیہ کے لئے ہوگی۔ اس کے ساتھ زبانیں نہیں ملتیں یعنی دوسری عبارت اس کی عمدہ فصاحت کی وجہ سے اس کی مانند نہیں ہو سکتی یا یہ مراد ہے کہ قرآن مومنوں کی زبانوں پر دشوار نہیں ہے اگرچہ عربی نہ ہوں کیونکہ انسانوں کے قلوب محبت کے ساتھ تلاوت کی طرف مائل ہوتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ہے: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ [القمر: ۱۷] اس سے علماء سیر نہیں ہوتے یعنی اس کی گہرائی کا علماء احاطہ نہیں کر سکتے کہ اس کی مزید طلب سے ٹھہر جائیں۔ جس طرح کھانے سے سیر ہونے والا ٹھہر رہتا ہے جب وہ ایک چیز کے حقائق پر مطلع ہوتے ہیں تو وہ مشتاق ہوتے ہیں کہ حاصل شدہ چیز سے زیادہ انہیں معلوم ہو جائے اور پرانا نہیں ہوتا ہے مراد ہے اس کی قراءت کی لذت اس کے اذکار



واخبار سننے سے اور اس کے بار بار پڑھنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ جب بندہ پڑھتا ہے یا اس کو سنتا ہے تو وہ پہلی بار کی بہ نسبت زیادہ تلاوت محسوس کرتا ہے اگرچہ اس کے معنی نہ سمجھے۔

قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے اُسکے والدین کو تاج پہنایا جائے گا

۳۰/۲۰۲۲ وَعَنْ مُعَاذِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ
الْبَسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي يَبُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا
ظَنُّكُمْ بِاللَّذِي عَمِلَ بِهِذَا۔ (رواه احمد وابوداود)

اخرجه ابوداود فی السنن ۱۴۸/۲ حدیث رقم ۱۴۵۳۔ واحمد فی المسند ۴۴۰/۳۔

ترجمہ: حضرت معاذ جہنیؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس چیز پر عمل کرے جو اس میں ہے قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا کہ اسکی روشنی بہت اچھی ہوگی۔ آفتاب کی روشنی کی طرح جو دنیا کے گھروں میں ہوتی ہے اگر آفتاب تمہارے گھروں کے اندر آجائے پس تمہارا کیا گمان ہوگا۔ اس شخص کے بارے میں کہ جس نے قرآن پاک پر عمل کیا۔ اس کو امام احمدؒ نے اور ابوداؤدؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اور خوب اچھی طرح پڑھے اس کے والدین کو روز قیامت تاج پہنایا جائے گا اور علامہ ابن حجرؒ نے کہا ہے کہ اس کو یاد کرتے اگر بالفرض سورج آسمان سے اتر کر تمہارے گھر میں داخل ہو جائے تو اس کی روشنی بھی اس تاج کی روشنی کے سامنے ماند پڑ جائے گی۔ پہلی سورج کی روشنی کو مبالغہ کے طور پر بیان کیا ہے کہ اگر وہ تمہارے گھروں کے اندر ہو تو اس کی روشنی زیادہ معلوم ہوگی بہ نسبت اس کے وہ سورج باہر اور اونچا ہے اور آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے ماں باپ کی یہ قدر ہوگی اس کی وجہ سے تو اس کا جس نے قرآن کی تلاوت کی اور اس میں داخل کیا کا کتنا درجہ ہوگا۔

قرآن کریم معجزہ

۳۱/۲۰۲۳ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي
إِهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ۔ (رواه الدارمی)

اخرجه الدارمی فی السنن ۵۲۲/۲ حدیث رقم ۳۳۱۰۔ واحمد فی المسند ۱۵۵/۴۔

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے اگر قرآن کریم کو چمڑے میں رکھ کر بالفرض و التقدیر آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ اس کو داریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں قرآن پاک کے ایک معجزے کا ذکر کیا گیا ہے بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے جو حضور ﷺ کے زمانے میں تھا۔ جیسے معجزے اور انبیاء کے زمانے میں ہوتے تھے اور بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو دوزخ کی آگ میں نہیں جلے گا۔ پس چمڑے سے مراد آدمی

کا پوست و بدن ہے۔ احباب کا ذکر اس لیے کیا احباب جلد غیر مدبوغ کو کہتے ہیں تو چونکہ جلد غیر مدبوغ خشک ہوتی ہے اس لیے وہ جلدی جل جاتی ہے۔ حتیٰ کہ دھوپ کی وجہ سے اس میں فرق آ جاتا ہے چہ جائیکہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ مطلب یہ ٹھہرا کہ اگر قرآن مجید خشک کھال کے اندر رکھ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو قرآن کی محبت کی برکت سے اس کو آگ نہیں چھوئے گی چہ جائیکہ وہ مؤمن جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اکرم اور افضل ہے جس نے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا اور اس کی قراءت پر پابند اور احکام پر عامل ہے تو اس کو آگ کیونکر جلائے گی۔

حافظ قرآن دس آدمیوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی

۳۲/۲۰۲۳ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَظْهَرَهُ فَاحْلَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَشَفَعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجِبَتْ لَهُ النَّارُ۔ (رواہ احمد

والترمذی وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی هذا حديث غریب وحفص بن سلیمان الراوی لیس هو بالقوی یضعف فی الحديث)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۵۸/۵ حدیث رقم ۲۹۰۵۔ وابن ماجہ ۷۸/۱ حدیث رقم ۲۱۶۔ واحمد فی المسند ۱۴۸/۱۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس شخص نے قرآن پڑھا۔ پھر اس کو یاد کیا اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا۔ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور وہلہ میں (یعنی پہلی مرتبہ میں) اور اس کے خاندان کے دس شخصوں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی کہ ان کے لیے آگ واجب ہو چکی ہوگی وہ فاسق اور دوزخ کے لائق ہونگے۔ اس کو امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے اور حفص بن سلیمان راوی قوی نہیں ہے۔ حدیث میں ان کو ضعیف کہا جاتا ہے۔

تشریح: ﴿﴾ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک یاد کیا اور اس پر عمل کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا اور اس کو حق شفاعت ملے گا کہ وہ قیامت کے دن اپنے خاندان میں سے دس آدمیوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔

سورۃ فاتحہ کی اہمیت

۳۳/۲۰۲۵ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَنِی كَعْبٍ كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْزَلْتُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا وَأَنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيَكَ (رواہ

الترمذی وروی الدارمی من قوله ما أنزلت ولم يذكر أبي بن كعب وقال الترمذی هذا حديث حسن صحيح)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۴۳/۵ حدیث رقم ۲۸۷۵۔ والنسائی ۱۳۹/۲ حدیث رقم ۹۱۴۔ واحمد فی المسند ۳۵۷/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ابی بن کعب سے فرمایا: اے ابی! تم نماز میں کس طرح

پڑھتے ہو؟ یعنی نماز میں کیا پڑھتے ہو۔ پس انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ایسی سورۃ نہ توریت انجیل اور زبور میں اور نہ ہی قرآن میں اتاری گئی اور تحقیق سورۃ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں جو کہ بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم ہے کہ میں دیا گیا ہوں۔ اس کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور نقل کی یہ داریؒ نے قول ما نزلت سے اور ابی بن کعبؓ کا ذکر نہیں کیا اور امام ترمذیؒ نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ فاتحہ اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ اس جیسی سورت پہلے کسی کو نہیں دی گئی اور اس جیسی سورت توریت زبور انجیل کسی میں نہیں ہے اور سبع مثانی کی تحقیق قرآن پاک کے بارے میں پہلی فصل کی ایک حدیث کی تشریح میں بیان ہو چکی۔

قرآن کریم کو مشک سے تشبیہ دی گئی ہے

۳۴/۲۰۲۱ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَأَقْرَأُوهُ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَ فَقَرَأَ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا تَفُوحُ رِيحُهُ كُلَّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ لَيْ جُوفُهُ كَمَثَلِ جِرَابٍ أَوْكِيَ عَلَى مِسْكِ (رواه الترمذی والنسائی وابن ماجہ)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۴۴۱/۵ حدیث رقم ۲۸۷۶ وابن ماجہ ۷۸/۱ حدیث رقم ۲۱۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا قرآن سیکھو پھر اس کو پڑھو۔ تحقیق اس شخص کی مثال جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر پڑھتا ہے اور ہمیشہ پڑھتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے اور رات کو اس کے ساتھ قیام کرتا ہے مشک سے بھری ہوئی تھیلی کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پہنچتی ہے اور اس شخص کا حال کہ جس نے قرآن سیکھا اور سوتا رہا اور قراءت اور قیام سے غافل ہوا یا اس پر عمل نہ کیا اور اللہ کا کلام اس کے دل میں ہے اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جو باندھ کر رکھی گئی ہو۔ اس کو امام ترمذیؒ اور ابن ماجہؒ اور نسائیؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں قرآن مجید کے سیکھنے پر زور دیا گیا ہے کہ قرآن پاک سیکھنے یعنی اس کے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کے معانی و تفسیر کا علم بھی سیکھو۔ ابو محمد جو نبیؐ نے کہا ہے کہ سیکھنا اور سکھانا فرض کفایہ ہے انتہی۔ اور بعض قرآن کا سیکھنا فرض عین ہے یعنی جس قدر نماز میں پڑھنا فرض ہے اور امام نوویؒ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کے یاد کرنے میں مشغول ہونا نافل نماز سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ فرض کفایہ ہے اور بعض متاخرین نے فتویٰ دیا ہے کہ حفظ قرآن کے ساتھ مشغول ہونا دوسرے علموں میں مشغول ہونے سے افضل ہے جو کہ فرض کفایہ ہیں نہ کہ فرض عین اور قرآن کریم کو یاد کرنا فرض عین علم سے افضل نہیں ہے۔ یعنی قرآن کریم کا یاد کرنا مشک سے بھری ہوئی تھیلی کی حالت کی طرح ہے۔

یعنی قاری کا سینہ تھیلی کی طرح ہے اور قرآن پاک اس میں مشک کی طرح ہے پس وہ پڑھتا ہے۔ اس کی برکت اس کے گھر میں پہنچتی ہے اور سننے والوں کو ملتی ہے اور آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور نہ پڑھا۔ اس کی برکت نہ اس کو پہنچی اور نہ ہی دوسروں کو۔ اس کی مثال اس مشک سے بھری ہوئی تھیلی کی سی ہے جس کا منہ بندھا ہو اور اس کی خوشبو کسی کو نہ پہنچے۔

سورة مؤمن اور آية الكرسي کی فضیلت

۳۵/۲۰۲۷ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَمْدَ الْمُؤْمِنِ إِلَى إِلَهِهِ الْمَصِيرِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ حِينَ يُصْبِحُ حَفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَرَأَ بِهِمَا حِينَ يُمْسِي حَفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ.

(رواه الترمذی والدارمی وقال الترمذی هذا حديث غريب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۴۵/۵ حديث رقم ۸۷۹۔ والدارمی ۵۴۱/۲ حديث رقم ۳۳۸۶۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص حمد المؤمن (سورة مؤمن) اور آية الكرسي صبح کے وقت پڑھے ان کی برکت کی وجہ سے وہ (تمام آفات و بلیات ظاہر و باطن سے) محفوظ رہتا ہے۔ شام تک اور جو ان کو شام کے وقت پڑھے ان کی برکت کی وجہ سے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے اور دارمی نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں سورة مؤمن اور آية الكرسي کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اللہ المصیر تک آیت مذکورہ یوں ہے: حَمْدُ تَنْزِيلِ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ مَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ۔

لوح محفوظ میں زمین و آسمان پیدا ہونے سے دو ہزار سال قبل قرآن لکھا گیا

۳۶/۲۰۲۸ وَعَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَى عَامٍ أَنْزَلَ مِنْهُ آيَاتٍ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا تَقْرَأُ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا الشَّيْطَانُ۔ (رواه الترمذی والدارمی وقال الترمذی هذا حديث غريب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۴۷/۵ حديث رقم ۲۸۸۲۔ والدارمی ۵۴۲/۲ حديث رقم ۳۳۸۸۔ واحمد فی المسند ۲۷۴/۴۔

ترجمہ: حضرت ثعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تحقیق اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال قبل کتاب (قرآن مجید) لکھی (یعنی فرشتوں کو لوح محفوظ میں لکھنے کا حکم فرمایا) اس کتاب میں دو آیات ایسی نازل کیں جن پر سورة بقرہ کو ختم کیا ہے یعنی اَمَّا الرَّسُولُ..... سے آخر تک اور جس مکان میں یہ آیتیں پڑھی جائیں۔ تین رات تک شیطان نہیں آتا۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور دارمی نے اور امام ترمذی نے کیا ہے کہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے دو ہزار سال قبل قرآن مجید لکھا گیا اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس مکان میں سورة بقرہ کی یہ آخری دو آیات: هَٰذَا أَمْرُ الرَّسُولِ بِمَا أَنْزَلَ إِلَهُ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفِرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يَكْتَلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَغْطَاكَ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ



عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۱﴾ پڑھی جائیں۔ تین رات تک اس کے نزدیک شیطان نہیں آتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرأت اور شیطان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔

سورۃ کہف کی آیات کی برکت سے پڑھنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا

۳۷/۲۰۲۹ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ

الْكَهْفِ عَصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ - (رواه الترمذی وقال هذا حديث حسن صحيح)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۴۹/۵ حدیث رقم ۲۸۸۶۔

ترجمہ: حضرت ابو درداءؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی پہلی دس آیات پڑھے گا دجال کے فتنے سے بچایا جائے گا۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ پہلی فصل میں بھی اس قسم کی روایت گزری ہے جس کے راوی ابو درداءؓ ہیں کہ جو کوئی سورۃ کہف کی ابتدائی دس آیات یاد کرے گا۔ اس کو فتنہ دجال سے بچایا جائے گا۔ تطبیق کی ایک صورت تو وہاں بیان کی گئی ہے اور دوسری تطبیق یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دس آیتوں کے یاد کرنے پر یہ فضیلت کی خوشخبری دی گئی ہوگی۔ پھر وسعت فضل کے سبب تین آیات کے پڑھنے پر بھی یہ فضیلت ٹھہری ہوگی۔

سورۃ یسین کی فضیلت

۳۸/۲۰۳۰ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَسَّ وَمَنْ قَرَأَ يَسَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهٗ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ۔

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۴۹/۵ حدیث رقم ۲۸۸۷۔ والدارمی ۵۴۸ حدیث رقم ۳۴۱۶۔ واحمد فی المسند ۲۶/۵۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تحقیق ہر چیز کے واسطے دل ہے اور قرآن کا دل یسین ہے اور جو شخص سورۃ یسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ اس کو امام ترمذی اور دارمی نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں سورۃ یسین کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ سورۃ یسین قرآن پاک کا دل ہے اور قرآن کریم کا خلاصہ ہے اس لیے کہ قیامت کے احوال اور قرآن کے عمدہ مقاصد اس میں مذکور ہیں۔

سورۃ طہ اور یسین کی فضیلت

۳۹/۲۰۳۱ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَرَأَ طهَ وَيَسَّ قَبْلَ

أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفِ عَامٍ فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ الْقُرْآنَ قَالَتْ طُوبَى لِمَنْ يَنْزِلُ هَذَا عَلَيْهَا وَطُوبَى لِمَنْ يَحْمِلُ هَذَا وَطُوبَى لِمَنْ لَسِنَتُهُ تَتَكَلَّمُ بِهِ هَذَا۔ (الدارمی)

اخرجه الدارمی فی السنن ۵۴۷/۲ حدیث رقم ۳۴۱۴۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے سورۃ طہ اور سورۃ یسین آسمان وزمین کے پیدا کرنے سے ایک ہزار سال پہلے پڑھی۔ پس جب فرشتوں نے قرآن سنا۔ یعنی ان کا پڑھنا کہنے لگے کہ خوش حالی ہے اس امت کے واسطے کہ جن پر یہ قرآن (یعنی یہ دونوں سورتیں) نازل کی جائیں گی اور خوش بختی ہے ان دلوں کے لئے جو ان سورتوں کو قبول کریں (یعنی ان کو محفوظ رکھیں) خوش بختی ہے ان زبانوں کے لئے جو ان کی تلاوت کریں۔ اس کو دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں سورۃ طہ اور یسین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں کے معنی ظاہر کیے اور ان سورتوں کی تلاوت کا ثواب بیان کیا اور اس کے بارے میں اپنے فرشتوں کو سمجھایا اور ان کو ان کے معنی الہام کیے اور علامہ ابن حجرؒ نے کہا ہے کہ بعض فرشتوں کو حکم کیا کہ وہ باقی فرشتوں کے سامنے ان سورتوں کی تلاوت کریں تاکہ وہ ان کی بزرگی کو جانیں اور جب فرشتوں نے قرآن سنا اور قرآن سے مراد قراءت ہے یعنی ان سورتوں کا پڑھنا سنا۔ یا قرآن سے طہ اور یسین مراد ہے کہ قرآن کا اطلاق جزو کل دونوں پر ہوتا ہے۔

حم الدخان کی فضیلت

۴۰/۲۰۳۲ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَمَّ الدُّخَانِ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَفْهِرُ لَهُ

سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ۔ (رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب وعمر بن ابی حفصہ الراوی یضعف وقال محمد

یعنی البخاری هو منکر الحدیث)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۵۰/۵ حدیث رقم ۲۸۸۸۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص حم الدخان رات کو پڑھے۔ وہ شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ ستر ہزار فرشتے اس کی بخشش مانگتے ہیں۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث غریب ہے اور عمر بن ابی حفصہ جو اس حدیث کے راوی ہیں ضعیف ہیں اور محمد یعنی بخاری نے کہا کہ وہ منکر حدیث ہیں۔

تشریح: اس حدیث پاک میں سورۃ حم الدخان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو شخص رات کے وقت سورۃ حم الدخان کی تلاوت کرے وہ شخص اس حال میں صبح کرے گا کہ ستر ہزار فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔

جمعہ کی رات کو سورۃ الدخان پڑھنے کی فضیلت

۴۱/۲۰۳۳ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَمَّ الدُّخَانِ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ

(رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب وضعیف وهشام ابو المقدم الراوی یضعف)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۵۱/۵ حدیث رقم ۲۸۸۹۔ والدارمی ۵۴۹/۲ حدیث رقم ۳۴۲۰۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات کو تم الدخان کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کی بخشش کردی جاتی ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اور ہشام ابوالمقدام حدیث میں ضعیف راوی ہیں۔

تشریح: اس حدیث پاک میں جمعہ کے دن سورۃ حم الدخان پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کرنے والے کی بخشش کر دیتا ہے۔

مسحات کی فضیلت کے بارے علماء کرام کے اقوال

۳۲/۲۰۳۳ وَعَنِ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرُقُدَ يَقُولُ إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ آيَةٍ۔

(رواہ الترمذی و ابو داؤد و رواہ الدارمی عن خالد ابن معدان مرسلًا وقال الترمذی هذا حدیث غریب)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۰۴/۵۔ و الترمذی فی السنن ۱۶۶/۵۔ حدیث رقم ۲۹۲۱۔ و احمد فی المسند ۱۲۸/۴۔

ترجمہ: حضرت عرباض بن ساریہ سے روایت ہے کہ تحقیق نبی علیہ السلام سونے سے پہلے مسحات پڑھتے تھے۔ آپ ﷺ فرماتے تھے ایک آیت ان میں ہزار آیتوں سے بہتر ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور ابو داؤد و دارمی نے خالد بن معدان رضی اللہ عنہ سے بطریق ارسال نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں مسحات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مسحات وہ سورتیں ہیں کہ جن کے سرے پر سبحان کالفظ یَسْبَحُ یا یُسَبِّحُ یا سُبْحَانَ اللہ الذی اسری بعیدہ اور سورۃ حدید اور حشر اور صف اور جمعہ اور تغابن اور اعلیٰ اور ایک آیت ہزار آیتوں سے بہتر ہے اور بعضوں نے کہا کہ وہ آیت: لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ هُجْرًا وَبَعْدًا لَلْأَعْيُنِ لَعَنَهُ الْمُشْرِكُونَ آیت: ہُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہے اور علامہ طبری نے کہا کہ وہ آیت لیلۃ القدر کی طرح اور جمعہ کی قبولیت کی گھڑی کی طرح پوشیدہ ہے۔ یہ قول صحیح تر ہے۔

سورۃ الملک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی

۳۳/۲۰۳۵ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سُورَةَ فِي الْقُرْآنِ فَلَا تُلَوَّنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ۔ (رواہ احمد و الترمذی و ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۱۱۹/۲ حدیث رقم ۱۴۰۰۔ و الترمذی فی السنن ۱۵۱/۵ حدیث رقم ۲۸۹۱۔ و ابن ماجہ

۱۲۴۴/۲ حدیث رقم ۳۷۸۶۔ و احمد فی المسند ۲۹۹/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ تحقیق قرآن مجید کی ایک سورت تیس آیات کی ہے کہ اس نے ایک شخص کے واسطے شفاعت کی۔ یہاں تک کہ اس کی بخشش کی گئی اور وہ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

الْمَلِكُ ہے اس کو امام احمدؒ نے نقل کیا ہے ترمذی اور ابوداؤد اور نسائی اور ابن ماجہؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث میں لفظ شَفَعْتُ گزرا ہے اس کے معنوں میں دوا احتمال ہیں یا یہ معنی ہے کہ زمانہ ماضی کی خبر دی کہ ایک شخص سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا اور اس کی بڑی قدر کرتا تھا پس جب وہ فوت ہوا تو اس سورت نے اس کی شفاعت کی یہاں تک کہ اس سے عذاب دور ہو گیا یا یہ شفعت مستقبل کے اعتبار سے ہے۔ یعنی جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا یہ سورت قبر میں شفاعت کرے گی اور قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گی جو اس کو پڑھے گا۔

سورۃ الملک عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے

۴۴/۲۰۳۶ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَاءً عَلَى قَبْرِ وَهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ حَتَّى خَتَمَهَا فَاتَى النَّبِيَّ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ هِيَ الْمُنَجِّةُ هِيَ الْمُنَجِّةُ تَنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ۔ (رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۵۱/۵ حدیث رقم ۲۸۹۰۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے اپنا خیمہ ایک قبر پر کھڑا کیا اور وہ خیال نہیں کرتے تھے کہ یہاں قبر ہے۔ پس اچانک انہوں نے سنا کہ اس میں ایک آدمی سورۃ الملک کی تلاوت کر رہا ہے یہاں تک کہ اس نے اسے پورا کیا پھر خیمہ کھڑا کرنے والا صحابی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا۔ پس اس نے حضور ﷺ کو خبر دی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ ملک منع کرنے والی ہے اور نجات دلانے والی ہے۔ اپنے پڑھنے والے کو اللہ کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔ اس کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ سورۃ الملک عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ جہاں یہ احتمال ہے کہ خیمہ کھڑا کرنے والے نے نیند میں اس مردے کو سورۃ ملک پڑھتے ہوئے سنا وہیں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ بیداری کی حالت میں سنا ہے صبح قول یہی ہے کہ وہ منع کرنے والی ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب قبر سے نجات دینے والی یا ایسے گناہوں سے جو عذاب قبر کا باعث بنتے ہیں یا اپنے قاری کو محشر میں رنج و غم پہنچنے سے بچاتی ہے۔

الم تنزیل اور سورۃ الملک کی فضیلت

۴۵/۲۰۳۷ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ أَلَمْ تَنْزِيلُ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ۔ (رواه احمد والترمذی والدارمی وقال الترمذی هذا حديث صحيح وكذا في شرح السنة وفي المصايب غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۵۲/۵ حدیث رقم ۲۸۹۲۔ والدارمی ۵۴۷/۲ حدیث رقم ۳۴۱۱ واحمد فی المسند ۳/۳۴۰۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ سو یا نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اَلَمْ تَنْزِيلُ اور تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ نہ پڑھ لیتے۔ اس کو امام احمدؒ، ترمذیؒ اور دارمیؒ نے نقل کیا ہے اور امام ترمذیؒ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس طرح سے محی السنۃ نے شرح السنۃ میں کہا ہے کہ یہ صحیح ہے اور صاحب مصابیح نے کہا ہے کہ یہ غریب ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ کا معمول بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ ہونے سے پہلے الم تنزیل السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

حدیث کا غریب ہونا صحیح ہونے کے منافی نہیں ہے اس لیے کہ غریب کبھی صحیح بھی ہوتی ہے۔

مذکورہ سورتوں کی فضیلت

۴۶/۲۰۳۸ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَقُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْآنِ - (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۵۳/۵ حدیث رقم ۲۸۹۴۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس اور انس بن مالک سے روایت ہے دونوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: سورۃ اِذَا زُلْزِلَتْ آدھے قرآن کے برابر ہے اور قل هو الله احد تہائی قرآن کے برابر ہے اور قل یا ایہا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے اس کو امام ترمذی نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں تین سورتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں مبداء اور معاد کا بیان ہے اور سورۃ اِذَا زُلْزِلَتْ میں خوب معاد کا بیان ہے۔ اس لیے یہ آدھے قرآن کے برابر ہوئی اور قل هو الله احد کے تہائی قرآن کے برابر ہونے کی وجہ پہلے معلوم ہو چکی ہے اور قل یا ایہا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر اس لیے ہے کہ قرآن کریم میں توحید اور نبوت اور احکام اور قصص کا بیان ہے اور اس سورت میں توحید کا خوب بیان ہے۔

سورۃ حشر کی آخری تین آیات کی فضیلت

۴۷/۲۰۳۹ وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ فَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ اٰخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ وَكَلَّمَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ اَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ وَانْ مَاتَ فِيْ ذَلِكَ الْیَوْمِ مَاتَ شَهِیْدًا وَمَنْ قَالَهَا حِیْنَ یُمْسِیْ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ . (رواه الترمذی والدارمی وقال الترمذی هذا حدیث غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۶۷/۵ حدیث رقم ۲۹۲۲۔ والدارمی ۵۵۰/۲ حدیث رقم ۳۴۲۵۔

ترجمہ: حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کے وقت تین بار یہ کہے: میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے ساتھ جو سننے والا جاننے والا ہے مردود شیطان سے پھر سورۃ حشر کی تین آیاتیں پڑھے: (یعنی هو الله الذي لا اله الا هو سے آخر سورت تک۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ستر ہزار فرشتے متعین کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں یعنی خیر کی توفیق کی اور شر کے دفع کی اور شام تک اس کے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں اور اگر اس دن مرے تو شہید مرتا ہے اور جو شخص اس کو یعنی تعوذ کو اور آیات کو شام کے وقت پڑھتا ہے وہ اسی مرتبہ کو پہنچتا ہے یعنی جو مذکور ہوا ہے۔ اس کو امام ترمذی اور دارمی نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ حدیث غریب ہے۔

تشریح ﴿اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں سورۃ حشر کی آخری تین آیات یعنی: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص ان کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ستر ہزار فرشتے متعین کر دیتے ہیں جو اس کے لیے خیر کی توفیق کی اور شر کے دفع ہونے کی دعا مانگتے ہیں اور اس کے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اگر اس دن مرے گا۔ تو شہید ہو کر مرے گا۔

سورۃ اخلاص کی فضیلت

۴۸/۲۰۴۰ وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَتِي مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مُجِئِي عَنْهُ ذُنُوبٌ خَمْسِينَ سَنَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ (رواه الترمذی والدارمی وفي رواية خمسين مَرَّةً وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ)۔

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۵۴۱۵ حدیث رقم ۲۸۹۸۔ والدارمی ۵۵۳۱۲ حدیث رقم ۳۴۳۸۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر روز سو بار قل هو اللہ احد پڑھے اس کے نامہ اعمال میں سے پچاس سال کے گناہ دور کئے جاتے ہیں مگر یہ کہ اس پر دین (قرض) ہو۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور دارمی نے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ دو سو بار پڑھنے سے پچاس برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں الا ان يكون عليه دين ذکر نہیں کیا۔

تشریح ﴿اس حدیث پاک میں سورۃ اخلاص کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ سو بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے پچاس سال کے گناہ مٹا دے گا۔ مگر یہ کہ اس پر قرض ہو۔ استثناء کے دو معنی ہیں ایک تو معنی یہ ہے کہ قرض کا گناہ نہیں مٹایا جائے گا اور دوسرے یہ کہ دین یعنی قرض کی وجہ سے دوسرے گناہ بھی نہیں مٹائے جائیں گے۔ اس صورت میں پڑھنا مؤثر نہیں ہوگا اور پہلے ہی معنی زیادہ واضح ہیں اور ظاہر ہیں۔ واللہ اعلم۔ دین سے مراد بندوں کے حقوق ہیں۔

سوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھنا

۴۹/۲۰۴۱ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأَ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ يَا عَبْدِي أَذْخُلُ عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ۔

(رواه الترمذی وقال هذا حديث حسن غريب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۵۴۱۵ حدیث رقم ۲۸۹۸۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے بچھونے پر سونے کا ارادہ کرے پھر اپنی داہنی کروٹ پر لیٹے۔ پھر سو مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے جس وقت قیامت

کادن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا: اے میرے بندے! اپنے داہنی طرف بہشت میں داخل ہو جا۔ اس کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿۱﴾ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے جو رسول کریم ﷺ کی سنت پر عمل کرے گا اور سوتے وقت سو مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا تو اس کے لئے مذکورہ بالا سعادت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ اخلاص ایسی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اس کے بدلے میں جنت ملے گی اور اس میں اشارہ ہے کہ جنت کے جو باغ اور محل اس کے دائیں طرف ہونگے وہ بائیں طرف کے باغوں اور محلوں سے بہتر ہوں گے۔

سورۃ اخلاص پڑھنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے

٥٠/٢٠٣٣ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ وَجَبَتْ قُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ الْجَنَّةُ - (رواه مالك والترمذي والنسائي)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۵۴/۵ حدیث رقم ۲۸۹۷۔ والنسائی ۱۷۱/۲ حدیث رقم ۹۹۴ ومالك ۲۰۸/۱ حدیث رقم ۸ من كتاب القرآن۔ واحمد فی المسند ۳۰۲/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتے ہوئے سنا: فرمایا: اس کے لیے واجب ہوئی۔ میں نے کہا کیا واجب ہوئی؟ فرمایا: جنت۔ اس کو امام ترمذی اور نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں سورۃ اخلاص کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کے پڑھنے والے پر اللہ کے فضل اور اس کے وعدے کی بناء پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔

سو تے وقت ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ﴾ پڑھنے سے شرک سے بیزاری حاصل ہوتی ہے

٥١٢٠٣٣ وَعَنْ قُرُوءَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي فَقَالَ اقْرَأْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشُّرْكِ - (رواه الترمذی و ابو داود و الدارمی)

اخرجه ابوداؤد فى السنن ٣٠٣/٥ حديث رقم ٥٠٥٥- والترمذى فى السنن ٤٤٢/٥ حديث رقم ٣٤٠٣- والدارمى ٥٥١/٢ حديث رقم ٣٤٢٨- واحمد فى المسند ٤٥٦/٥-

ترجمہ: حضرت فروہ بن نوفلؓ سے روایت ہے انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول! مجھ کو کچھ سکھائیں کہ اس کو اپنے بستر پر لیٹتے وقت پڑھوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھ۔ اس لیے کہ وہ شرک سے بیزار ہے یعنی جو اس کو پڑھ کر سوائے گامشرک سے پاک ہو کر سوائے گام اور اگر مرے گا تو توحید پر مرے گا۔ اس کو امام ترمذیؒ اور ابوداؤدؒ اور دارمیؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ❁ اس حدیث پاک میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کی فضیلت بیان کی گئی ہے یعنی جو سوتے وقت پڑھے گا اس کو شرک سے بیزاری حاصل ہوگی اگر سونے کی حالت میں اس کی موت واقع ہوگی تو توحید پر اس کو موت آئے گی۔

سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ذریعے پناہ پکڑا کرو

۵۲/۲۰۴۳ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْجُحَفَةِ وَالْأَبْوَاءِ إِذْ عَشِيتُنَا رِيحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِأَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَأَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُولُ يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا۔ (رواه ابو داؤد)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۱۵۳/۲ حدیث رقم ۱۴۶۳۔

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ جحفہ اور ابواء (جگہوں کے نام ہیں) کے درمیان چلے جا رہے تھے۔ اچانک ہم کو سخت ہوا اور اندھیرے نے ڈھانپ لیا۔ پس نبی کریم ﷺ: اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کے ساتھ پناہ پکڑتے تھے اور فرماتے تھے عقبہ ان دونوں سورتوں کے ساتھ پناہ پکڑو۔ پس کسی پناہ پکڑنے والے نے ان جیسی سورتوں کے ساتھ پناہ نہیں پکڑی۔ وہ دونوں سورتیں یہ ہیں۔ یعنی قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پناہ پکڑنے کے معاملے میں سب سے افضل ہیں۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی فضیلت بیان کی ہے اور ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سورتوں کے ساتھ پناہ پکڑا کرو اور حدیث پاک میں جو دو نام (جحفہ اور ابواء) آئے ہیں یہ دونوں جگہوں کے نام ہیں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہیں۔

معوذتین کی فضیلت

۵۳/۲۰۴۵ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُصَيْبٍ قَالَ خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطَرٍ وَظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادْرَكْنَاهُ فَقَالَ قُلْ مَا أَقُولُ؟ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُصْبِحُ وَحِينَ تُمَسِي فَلَاحَ مَرَاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ (رواه الترمذی و ابو داؤد والنسائی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۲۰/۵ حدیث رقم ۵۰۸۲۔ و الترمذی ۵۳۰/۱۵ حدیث رقم ۳۵۷۵ و النسائی ۲۵۰/۱۸ حدیث رقم ۵۴۲۸۔

ترجمہ: عبد اللہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم بارش اور رات کی سخت تاریکی میں نبی کریم ﷺ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے کہ آپ ﷺ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ہم آپ کو ڈھونڈنے کے لئے نکلے تاکہ ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ ہو جائیں۔ پس ہم نے آپ ﷺ کو پایا۔ پس آپ ﷺ نے فرمایا کہو۔ میں نے کہا کیا کہوں؟ فرمایا: قل هو الله احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس صبح اور شام کے وقت تین بار پڑھو۔ تم کو ہر چیز سے کفایت کرے گی یعنی ہر آفت و بلا کو دور کر دے گی۔ اس کو امام ترمذی اور ابو داؤد و النسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو صبح اور شام تین تین بار معوذتین پڑھے گا۔ یعنی وہ سورتیں جن کا تذکرہ اوپر حدیث میں گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آفات و بلیات سے محفوظ فرمائیں گے۔

سورة الفلق کی فضیلت و اہمیت

۵۴/۱۰۴۶ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأُ سُورَةَ هُودٍ أَوْ سُورَةَ يُوسُفَ قَالَ لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قُلِّ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - (رواه احمد والنسائي والدارمي)

اخرجه النسائي في السنن ۱۵۸/۲ حديث رقم ۹۵۳ - والدارمي ۵۵۳/۲ حديث رقم ۳۴۳۹ - واحمد في المسند ۱۴۹/۴ -

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! میں سورۃ ہود پڑھوں یا سورۃ یوسف (یعنی پناہ پکڑنے کے لیے اور برائی کو دور کرنے کے لیے) آپ ﷺ نے فرمایا ہرگز تو نہیں پڑھے گا کوئی چیز جو اللہ کے نزدیک قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ بہتر ہو۔ اس کو امام احمد نسائی اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ سورۃ الفلق ہود اور سورۃ یوسف سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ حدیث میں جو اَبْلَغ کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پناہ پکڑنے کے لیے اور برائی وغیرہ کو دفع کرنے کے لیے اس سورۃ کے برابر کوئی سورت کامل تر نہیں ہے۔ یہ اس لیے سب سے زیادہ کامل ہے کہ اس میں ہر مخلوق کی برائی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق اور علامہ طیبیؒ نے کہا ہے کہ اس سے مراد دونوں سورتیں ہیں یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے برابر کوئی سورت پناہ پکڑنے میں کامل تر نہیں ہے اور ابن ملکؒ نے کہا ہے کہ اس سے ان دونوں سورتوں کے ذریعے پناہ پکڑنے کی رغبت دلانا مقصود ہے اتنی۔ حاصل یہ کہ صرف ایک سورت کو ذکر کیا ہے اور دوسری قرینے سے سمجھی گئی ہے۔

الفصل الثالث:

قرآن کریم پر عمل کرنے کا حکم

۵۵/۱۰۴۷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَبُوا الْقُرْآنَ وَاتَّبِعُوا غَرَائِبَهُ وَغَرَائِبُهُ فَرَأَيْتُمْهُ وَحُدُودُهُ - (البيهقي في شعب الايمان)

اخرجه البيهقي في شعب الايمان ۴۲۷/۲ حديث رقم ۲۲۹۳ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا قرآن کے معانی بیان کرو اور اس کے غرائب کی پیروی کرو اور اس کے غرائب اس کے فرائض اور اس کی حدیں ہیں۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کے معانی بیان کرو اور اس کے احکامات کو سمجھو اور اس پر عمل کرو اور اس کے فرائض کی پیروی کرو اور اس کی حدود کی پاسداری کرو اور فرائض سے مراد نامورات ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور حدود سے مراد منہیات ہیں یعنی جن چیزوں کے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔

قراءت قرآن کی فضیلت دوسرے اعمال پر

۵۶/۲۰۳۸ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ جَنَّةٌ مِنَ النَّارِ۔ (البیہقی فی شعب الایمان)

اخرجه البیہقی فی شعب الایمان ۴۱۳/۲ حدیث رقم ۲۲۴۳۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا قرآن کا پڑھنا نماز میں نماز کے علاوہ قرآن پڑھنے سے بہتر ہے اور نماز کے علاوہ قرآن کا پڑھنا تسبیح و تکبیر سے زیادہ ثواب رکھتا ہے اور تسبیح اللہ کے راستے میں دینے سے زیادہ ثواب رکھتی ہے اور اللہ کے لیے دینا روزے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے اور روزہ دوزخ کی آگ سے ڈھال ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز میں قرآن پڑھنا افضل عبادت ہے۔ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھے اس میں قرآن مجید کا پڑھنا افضل ہے اس نماز میں قرآن پڑھنے سے جو بیٹھ کر پڑھی جائے اور تسبیح و تکبیر سے بھی افضل ہے یعنی دوسرے اذکار اور دعاؤں سے بھی افضل ہے۔ اس لیے کہ قرآن کلام الہی ہے اور اس میں اس کے احکام ہیں۔ یعنی دوسرے اذکار اللہ کے راستے میں دینے سے زیادہ ثواب رکھتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ متعدی عبادت لازمی عبادت سے افضل ہے متعدی عبادت کا نفع غیر کو پہنچتا ہے جب کہ لازمی عبادت کا نفع صرف اپنی ذات کو حاصل ہوتا ہے لیکن یہ حکم ذکر کے علاوہ کے ساتھ خاص ہے ذکر اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے جیسا کہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ ذکر کرنا اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا روزے سے افضل ہے۔ یعنی نفلی روزے سے اس لیے کہ اس کا نفع متعدی ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے کو پہنچتا ہے اور ایک حدیث میں آیا ہے ہر بنی آدم کے عمل کا ثواب دس حصے ہوتا ہے۔ مگر روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ پس پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ روزے سے افضل ہے اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صدقہ سے افضل ہے ان میں تطبیق یوں دی گئی ہے کہ فضیلت باعتبار جہات کے ہے۔ یعنی صدقہ متعدی ہونے کے اعتبار سے افضل ہے اور روزہ اس اعتبار سے افضل ہے کہ وہ حسن کی صفت اختیار کرتا ہے اور کھانے پینے سے باز رہتا ہے۔

دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا زبانی پڑھنے سے زیادہ ثواب کا باعث ہے

۵۷/۲۰۳۹ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ الْغَفَفِيِّ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةُ الرَّجُلِ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِ الْمُصْحَفِ أَلْفُ دَرَجَةٍ وَقِرَاءَتُهُ فِي الْمُصْحَفِ تُخَفِّفُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَلْفِي دَرَجَةٍ۔

اخرجه البيهقي في شعب الایمان ۴۰۷/۲ حدیث رقم ۲۲۱۸۔

ترجمہ: حضرت عثمان بن عبد اللہ بن اوس ثقفی سے روایت ہے انہوں نے اپنے دادا اوس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا آدمی کا قرآن پاک کو دیکھے بغیر پڑھنے سے ایک ہزار درجے تک ثواب ملتا ہے اور اس کا قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے سے دو ہزار درجے تک ثواب ملتا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے دیکھ کر قرآن پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے بہ نسبت زبانی پڑھنے کے کہ دیکھ کر پڑھنے میں ثواب اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ تدبر اور تفکر اس میں خوب ہوتا ہے اور قرآن میں دیکھتا ہے اور اس کو ہاتھ لگاتا ہے اور اس کو ہاتھ سے اٹھاتا ہے اور قرآن پاک میں دیکھنا عبادت ہے اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم دیکھ کر ہی پڑھتے تھے اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس دو قرآن پاک بہت زیادہ پڑھنے کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے اور علامہ نووی نے کہا کہ یہ حکم مطلقاً نہیں ہے بلکہ اگر قاری کو زبانی پڑھنے میں تدبر تفکر زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت دیکھ کر پڑھنے کے تو زبانی پڑھنا افضل ہے اور اگر دونوں برابر ہوں تو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔

دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے

۵۸/۲۰۵۰ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبُ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ قَبْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جَلَاوُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ۔

روی البيهقي الاحاديث الاربعه في شعب الایمان۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تحقیق یہ دل زنگ پکڑتے ہیں۔ جیسا کہ لوہا زنگ پکڑتا ہے جس وقت اس کو پانی پہنچتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ! اس کی جلاء کی کیا صورت ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کو پڑھنا۔ اس کو یہ بھی نقل کیا ہے بیہقی نے چاروں احادیث شعب الایمان میں ذکر کی ہیں۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ ﷺ نے اس کا حل بتایا ہے اور فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کرو۔

آیۃ الکرسی کی اہمیت وعظمت

۵۹/۲۰۵۱ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ سُورَةِ الْقُرْآنِ أَكْبَرُ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ فَأَيُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَكْبَرُ قَالَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَالَ فَأَيُّ آيَةٍ يَا نَبِيَّ اللَّهِ تُحِبُّ أَنْ تُصِيبَكَ وَأَمَّاكَ قَالَ خَاتِمَةُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنَّهَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ تَحْتِ عَرْشِهِ أَعْطَاهَا هَذِهِ الْأُمَّةَ لَمْ تَتْرُكْ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا اشْتَمَلَتْ

عَلَيْهِ۔ (رواہ الدارمی)

اخرجه الدارمی فی السنن ۵۴۰/۲ حدیث رقم ۳۳۸۰۔

ترجمہ: حضرت ابو نعیم بن عبد اللہ کلاعی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! کون سی سورت قرآن میں بہت بڑی ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں؟) فرمایا: قل هو اللہ احد۔ اس شخص نے کہا۔ کون سی آیت قرآن میں بہت بڑی ہے؟ فرمایا: آیۃ الکرسی۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول! کون سی آیت کو آپ پسند فرماتے ہیں کہ جس کا ثواب اور فائدہ آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کی امت کو پہنچے؟ فرمایا: سورۃ بقرہ کا خاتمہ۔ پس تحقیق وہ خدا کے رحمت کے خزانوں سے اتری ہے۔ اس کے عرش کے نیچے سے وہ اس امت کو دی گئی ہے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی نہیں چھوڑی مگر وہ اس پر مشتمل ہے۔ اس کو دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں آیۃ الکرسی کو بڑی آیت کہا گیا ہے اور سورۃ اخلاص کو بڑی سورت کہا گیا ہے اس سے پہلے ایک حدیث گزری ہے اس میں سورۃ فاتحہ کو بڑی سورت کہا گیا اور اس میں قل هو اللہ احد کو بڑی سورت کہا گیا پس ان میں منافات نہیں ہے اس لیے کہ وہ بڑی ہے یہ حمد اور دعا و عبادت پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے اور قرآن پاک کا خلاصہ ہے اور یہ اس اعتبار سے بڑی ہے کہ اس میں خوب توحید مذکور ہے اور سورۃ بقرہ کا خاتمہ یعنی ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَعْرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِمْنا اَوْ اَعْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اِنَّكَ اَنْتَ مُوَلِّئُنَا فَاَنْصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ﴾۔ اس موقع پر سوال کرنے والے کے جواب میں نبی کریم ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اس کا فائدہ اور ثواب مجھے اور میری امت کو باقی تمام قرآن کا ثواب اور فائدہ پہنچنے سے پہلے دنیا میں پہنچے اور ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ﴾ سے اشارہ ہے ایمان و تصدیق کی طرف اور ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ سے اشارہ ہے اسلامی احکام کی طرف اور ﴿اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ﴾ سے اشارہ ہے آخرت میں عمل کے بدلے کی طرف اور ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا﴾ سے اشارہ ہے دنیوی اور آخری منافات کی طرف۔

سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے

۶۰/۲۰۵۲ وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مُّرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَاتِحَةِ

الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ۔ (رواہ الدارمی والبیہقی فی شعب الایمان)

اخرجه الدارمی فی السنن ۵۳۸/۲ حدیث رقم ۳۳۷۰۔ وشعب الایمان۔

ترجمہ: حضرت عبد الملک بن عمیر سے بطریق ارسال روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس کو دارمی نے بیہقی سے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر دینی اور دنیوی

بیماری سے شفا ہوتی ہے اور ہر ظاہری اور باطنی بیماری سے شفا ہوتی ہے اور اس کو لکھ کر لٹکانا اور چائنا بھی مریض کو نفع دیتا ہے۔

سورۃ آل عمران کی آخری آیات کی فضیلت

۷۱/۲۰۵۳ وَعَنْ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ مَنْ قَرَأَ آخِرَ آلِ عِمْرَانَ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ۔

اخرجه الدارمی فی السنن ۵۴۴/۲ حدیث رقم ۳۳۹۶۔

ترجمہ: حضرت عثمان بن عفانؓ سے روایت ہے کہ جو شخص آل عمران کے آخر سے پڑھے۔ رات کے وقت یعنی پہلی رات میں یا آخر رات میں۔ اس کے لیے رات کے قیام (یعنی تہجد کے وقت کا ثواب) لکھا جاتا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص سورۃ آل عمران کی آخری آیات: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْأَهْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (۱۹) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مِنْ تَدْخِيلِ النَّارِ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۲۱﴾ رَبَّنَا إِنَّا سِيعْنَا مُتَاوِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ؕ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ الْأَنْبَارِ ﴿۲۲﴾ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿۲۳﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ آلِ اللَّهِ أَوْ أَتَىٰ بِبَعْضٍ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا أَكْفِرُنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَهَنَّمُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿۲۴﴾ لَا يَغْرُنَّكَ تَلَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿۲۵﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ قَفَّ ثُمَّ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ وَبَنَسَ الْيَهَادُ ﴿۲۶﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَهَنَّمُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزِلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَنْبَارِ ﴿۲۷﴾ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خُشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ؕ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۲۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۲۹﴾ کی تلاوت کرے گا رات میں یعنی شروع رات میں یا آخر رات میں تو اس کے لئے تہجد پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا اور اس کا پڑھنا حضور ﷺ سے ثابت ہے جب آپ ﷺ تہجد کے لیے بیدار ہوتے اور وضو فرماتے تو اس وقت پڑھا کرتے تھے۔

جمعہ کے دن آل عمران پڑھنے کی فضیلت

۷۲/۱۲۰۵۴ وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى اللَّيْلِ۔

(رواہما الدارمی)

اخرجه الدارمی ۵۴۴/۲ حدیث رقم ۳۳۹۷۔

ترجمہ: حضرت مکحولؓ سے روایت ہے فرمایا کہ جو شخص سورۃ آل عمران جمعہ کے دن پڑھے۔ اس کے لیے فرشتے رات تک دعا و استغفار کرتے ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں داریؓ نے نقل کی ہیں۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص سورۃ آل عمران جمعہ کے دن پڑھے گا۔

اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا و استغفار کریں گے۔

سورۃ بقرہ کی آخری آیات کی قدر و منزلت

۶۳/۲۰۵۵ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ أَعْطِيَتْهُمَا مِنْ كَنْزِهِ الْإِدَى تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَ كُمْ فَإِنَّهَا صَلَاةٌ وَقُرْآنٌ وَدُعَاءٌ۔

(رواہ الدارمی مرسلًا)

اخرجه الدارمی فی السنن ۵۴۲/۲ حدیث رقم ۳۳۹۰۔

ترجمہ: حضرت جبیر بن نفیر سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کو دو آیات پر ختم فرمایا یعنی اَمَنْ الرَّسُولُ سے آخر تک مجھے دو آیتیں دی گئیں اس کے خزانے سے جو عرش کے نیچے ہے۔ پس ان کو سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ۔ اس لیے کہ وہ آیتیں رحمت ہیں اور قرب کا سبب ہیں اور تمام دنیاوی و اخروی بھلائیوں کے حصول کے لئے دعا ہیں۔ بطریق ارسال دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں سورۃ بقرہ کی آخری آیات: ﴿اَمَنْ الرَّسُولُ﴾ بِمَا اَنْزَلَ إِلَهُ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرُ مِنْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کے خزانے سے۔ یہ دو آیتیں عنایت کی گئیں اور یہ آیتیں رحمت ہیں اور اللہ عز و جل کے قرب کا سبب ہیں لہذا ان کو خود بھی سیکھو اور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ۔

جمعہ کے دن سورۃ ہود پڑھو

۶۳/۲۰۵۶ وَعَنْ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِقْرَأُوا سُورَةَ هُودٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔

(رواہ الدارمی مرسلًا)

اخرجه الدارمی فی السنن ۵۴۵/۲ حدیث رقم ۳۴۰۳۔

ترجمہ: حضرت کعب سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن سورۃ ہود پڑھو۔ اس کو دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ ہود پڑھا کرو۔

سورۃ کہف کی فضیلت

۶۵/۲۰۵۷ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

أَضَاءَ لَهُ النُّورُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ -

رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہوتا ہے یعنی اس کے دل میں ایمان و ہدایت کا نور روشن ہوتا ہے۔ اس کو بیہقی نے دعوات کبیر میں نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو جمعوں کے درمیانی ایام میں (اس کے دل میں) نور ہدایت نصیب فرمادیتا ہے۔

سورۃ الم تنزیل قاری کی شفاعت کرے گی اور جھگڑا کرے گی

۶۶/۲۰۵۸ وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ أَقْرَأَ الْمُنْجِيَةَ وَهِيَ أَلَمْ تَنْزِيلُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقْرَأُهَا مَا يَقْرَأُ شَيْئًا غَيْرَهَا وَكَانَ كَثِيرَ الْخَطَايَا فَتَشَرَّتْ جَنَاحُهَا عَلَيْهِ فَأَلَتْ رَبِّ اغْفِرْ لَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْفُرُ قُرْآنِي فَشَفَعَهَا الرَّبُّ تَعَالَى فِيهِ وَقَالَ اكْبُرُوا لَهُ بِكُلِّ خَطِيئَةٍ حَسَنَةٍ وَارْتَعُوا لَهُ دَرَجَةً وَقَالَ أَيْضًا إِنَّهَا تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا فِي الْقَبْرِ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ مِنْ كِتَابِكَ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَإِنْ لَمْ أَكُنْ مِنْ كِتَابِكَ فَامْنَحْنِي عَنْهُ وَإِنَّهَا تَكُونُ كَالطَّيْرِ تَجْعَلُ جَنَاحَهَا عَلَيْهِ فَتَشْفَعُ لَهُ فَمَنْعَهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَالَ فِي تَبَارَكَ مَعْلَهُ وَكَانَ خَالِدٌ لَا يَبْتَغِي حَتَّى يَقْرَأَهَا وَقَالَ طَاءَ وَسْ فَضِلْنَا عَلَى كُلِّ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ بِسِتِّينَ حَسَنَةً -

(رواہ الدارمی)

اخرجه الدارمی فی السنن ۵۴۶/۲ حدیث رقم ۳۴۰۸۔

ترجمہ: حضرت خالد بن معدانؓ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رات کے پہلے صبح میں نجات دینے والی سورت کو پڑھو وہ سورۃ الم تنزیل ہے اس لیے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک شخص صرف اس کو پڑھتا تھا اس کے سوا کوئی سورت نہیں پڑھتا تھا اور وہ شخص بہت گنہگار تھا پس اس سورت نے اس پر اپنے بازو پھیلائے اور کہا اے پروردگار! اس کو بخش دے تحقیق وہ مجھ کو بہت پڑھا کرتا تھا پس اللہ تعالیٰ نے اس کی اس شخص کے حق میں شفاعت قبول کر لی اور فرمایا: اس کے لیے ہر گناہ کے بدلے نیکی لکھو اور اس کے واسطے درجے بلند کرو اور خالد نے کہا کہ تحقیق یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے قبر میں جھگڑتی ہے۔ وہ کہتی ہے یا الہی! اگر میں تیری کتاب (یعنی قرآن) میں سے ہوں (جو کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے) تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کرو اور اگر میں تیری کتاب میں سے نہیں ہوں۔ پس مجھ کو مٹا دو اس سے اور خالد نے کہا کہ تحقیق یہ سورت قبر میں پرندے کی طرح ہوگی۔ وہ اپنا بازو اس پر رکھے گی۔ پھر اس کی شفاعت کرے گی عذاب کو اس سے روکے گی اور خالد نے: سورۃ تبارک الذی کے حق میں اسی طرح کہا جو گزر چکا ہے اور خالد نہیں سوتے تھے یہاں تک کہ دونوں سورتیں پڑھ لیتے اور طاء وس فضیلنا علیٰ کلِّ سورۃ کو قرآن کی دوسری سورتوں پر ساٹھ نیکیوں کے ساتھ برتری دی گئی ہے۔ اس کو دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث میں خالد بن معدان رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا ہے جو کہ جلیل القدر تابعی ہیں انہوں نے ستر صحابیوں سے ملاقات کی ہے پس یہ اور دوسری روایت طاؤس سے منقول ہے مرسل ہیں لیکن مرفوع کے حکم میں ہیں اس لیے کہ یہ چیزیں معلوم نہیں ہو سکتیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے اور باز و پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت یا ثواب بصورت پرندے کے بن جائے گا اور اس پر باز و پھیلانے کا تاکہ اس پر سایہ کرے یا اس پر رحمت کے باز و پھیلانے یعنی اپنی پناہ میں لے اور اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرتی ہے یعنی جو کثرت سے پڑھتا ہے اس کے عذاب کے تخفیف کی خاطر یا اس کی قبر کی فراخی کی خاطر اس کی شفاعت کرتی ہے اور طاؤس بڑے تابعین میں سے ہیں اور ان دونوں سورتوں کو بقیہ قرآن پر فضیلت دی گئی ہے کے الفاظ اس خبر صحیح کے منافی نہیں ہیں کہ سورۃ بقرہ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کی بقایا سورتوں سے افضل ہے اس لیے کہ اس کو اس وجہ سے فضیلت ہے کہ اس میں مضامین عمدہ ہیں اور ان کو اس وجہ سے فضیلت ہے کہ وہ عذاب قبر سے بچاتی ہے اور اس کو داری نے روایت کیا ہے یہ دونوں حدیثیں داری نے روایت کی ہیں یعنی ایک قول خالد کا ہے اور دوسرا قول طاؤس کا ہے۔ ان کو مؤلف نے جمع کر دیا ہے۔

سورت یسین کی فضیلت

۶۷/۲۰۵۹ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ يَسِينَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ قُضِيَتْ حَوَائِجُهُ - (رواه الدارمی مرسلًا)

اخرجه الدارمی فی السنن ۵۴۹/۲۰ حدیث رقم ۳۴۱۸۔

ترجمہ: حضرت عطاء بن ابی رباح سے روایت ہے کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن کے پہلے حصے میں سورۃ یسین پڑھے اُس کی دینی و دنیوی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔ اس کو داری نے مرسل نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص دن کے پہلے حصے میں سورت یسین پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دینی و دنیوی حاجتیں پوری فرمائے گا۔

مردوں کے پاس سورۃ یسین پڑھنی چاہیے

۶۸/۲۰۶۰ وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُرَزِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ يَسِينَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَأَقْرَأُهَا عَنْدَ مَوْتَاكُمْ - (رواه البيهقي في شعب الايمان)

اخرجه البيهقي في شعب الايمان ۴۷۹/۲ حدیث رقم ۲۴۵۸۔

ترجمہ: حضرت معقل بن یسار مرزئی سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے سورۃ یسین پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ بخش دیتے ہیں جو اس نے پہلے کئے ہیں۔ پس اس سورت کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ اس کو بیہقی نے شعب الايمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں جن گناہوں کا تذکرہ آیا ہے ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں اور اسی طرح کبیرہ بھی بخشے جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو یعنی جو قریب المرگ ہوں۔ تاکہ وہ اس کو سنیں اور اس کے معانی سمجھیں یہ ان کے لیے پڑھنے کے حکم میں ہے اور مغفرت کا باعث ہے یا مراد ہے اپنے مردوں کی قبروں کے پاس پڑھا کرو۔ اس لیے کہ وہ مغفرت کے بہت ضرورت مند ہوتے ہیں۔

قرآن مجید کا خلاصہ

۶۹/۳۰۶۱ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبًّا وَإِنَّ لُبَّابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ۔ (رواہ الدارمی)

اخرجه الدارمی فی السنن ۵۳۹/۲ حدیث رقم ۳۳۷۷۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہر چیز کے واسطے بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورۃ بقرہ ہے اور ہر چیز کے لیے ایک خلاصہ ہے یعنی مقصود ہے اور قرآن کا خلاصہ مفصل ہے۔ اس کو دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی بلندی سورۃ بقرہ ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ تمام سورتوں سے بڑی ہے اور اس میں بہت احکام مذکور ہیں اور مفصل: یعنی سورۃ حجرات سے آخر قرآن تک یہ سارے قرآن مجید کا خلاصہ ہے اس لیے کہ ان کے اندر وہ مضامین تفصیلاً بیان کئے گئے ہیں جو باقی سورتوں کے اندر مجملًا بیان کیے گئے ہیں اور ان کی سب سے بڑی وجہ تسمیہ یہی ہے۔

سورۃ رحمن قرآن کی زینت ہے

۷۰/۳۰۶۲ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ الرَّحْمَنُ

اخرجه البيهقي في شعب الایمان ۴۹۰/۲ حدیث رقم ۲۴۹۴۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے کہ ہر چیز کے لیے زینت ہے اور قرآن کی زینت سورۃ رحمن ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی زینت کی چیز ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورۃ الرحمن ہے کیونکہ اس میں دنیا و آخرت کی نعمتوں کا بیان ہے اور حوروں کی صفوں کا بیان ہے جو جنت کی دہلیز ہیں اور ان کے زیور وغیرہ کا بیان ہے۔

سورۃ واقعہ کی فضیلت

۷۱/۳۰۶۳ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ

لَيْلَةً لَمْ تُصَبِّهْ فَأَقَاتَهُ أَبَدًا وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُ بَنَاتِهِ بِقُرْآنِ بَهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ - (رواهما البيهقي في شعب الایمان)

اخرجه البيهقي في شعب الایمان ۴۹۱/۲ حدیث رقم ۲۴۹۸۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر رات کو سورۃ واقعہ پڑھے اس کو بھی فاقہ نہیں پہنچتا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم کرتے تھے کہ ہر رات کو سورۃ واقعہ پڑھا کر وہ یہ دونوں حدیثیں بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہیں۔

تشریح: اس حدیث پاک میں سورۃ واقعہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص روزانہ رات کے وقت سورۃ واقعہ پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو فاقہ سے محفوظ فرمائیں گے اور فاقہ کے معنی ہے محتاجی اور حاجتمندی اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی محتاجی تکلیف نہیں دیتی اس لیے کہ اس کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ یا اس کو دل کی محتاجی نہیں پہنچتی اس وجہ سے کہ اس کو دل کی اور خدا کی مغفرت کی فراخی دے دی جاتی ہے۔ اس کو اس سورۃ کے معانی پر فائدہ اٹھانے کی وجہ سے توکل اور اعتماد حاصل ہو جاتا ہے اور یہ جان لینا چاہیے کہ شارع نے بعض عبادتوں کی طرف رغبت دلائی ہے جو کہ دنیاوی امور میں بھی موثر اور نافع ہیں کہ ان کا حاصل ہونا دین میں مدد و معاون ہے تاکہ وہ عبادت میں مشغول رہیں۔

آپ ﷺ کو سورۃ الاعلیٰ سے بہت زیادہ محبت تھی

۷۲/۲۰۶۲ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ سَبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى۔

رواہ احمد۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اس سورت یعنی سَبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى سے محبت رکھتے تھے۔ اس کو امام احمد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ سورۃ الاعلیٰ سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے کیونکہ اس میں یہ آیت ہے: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ (الاعلیٰ: ۱۸-۱۹) جو قرآن کے برحق ہونے پر شاہد ہے اور مشرکوں اور اہل کتاب کے اعتقادات کو رد کرنے والی ہے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ! ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا اس میں تمام مثالیں موجود تھیں کہ اے بادشاہ! جو اپنے نفس میں گرفتار ہے تحقیق میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو بہت زیادہ دنیا جمع کرے لیکن میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تو مظلوم کی بددعا سے بچے اس لیے کہ میں مظلوم کی دعا رد نہیں کرتا۔ اگرچہ وہ کافر ہو اور عاقل جب تک کہ اس میں عقل ہو۔ اس کو چار اوقات کا خیال رکھنا چاہیے ایک وقت میں وہ اپنے رب سے مناجات کرے اور ایک وقت میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور ایک وقت میں اللہ کی کاریگری میں تفکر کرے اور ایک وقت اپنے کھانے پینے کے لیے رکھے اور عاقل کو لازم ہے کہ تین چیزوں کے علاوہ طمع نہ کرے۔

آخرت کا توشہ تیار کرنے کے لیے طمع کرے یا اپنی معاشی حالت کو درست کرنے کے لیے طمع کرے یا غیر حرام سے لذت اٹھانے کی طمع کر سکتا ہے اور عقلمند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حالت پر نظر رکھنے والا ہو اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا

ہو اور جس شخص نے اپنے اعمال میں سے کلام کا محاسبہ کیا اس کا کلام بہت کم ہوگا مگر ضروری بات کرے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کے صحیفوں میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں تمام عبرتیں ہیں یعنی ڈرانے کی باتیں ہیں کہ میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں کہ اس کو موت کا یقین بھی ہے اور پھر وہ خوش ہوتا ہے اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ موت کا یقین رکھے اور پھر ہنسے اور تعجب ہے مجھے اس شخص پر کہ تقدیر پر یقین رکھے اور پھر طلب معاش میں رنج اٹھائے اور میں اس پر تعجب کرتا ہوں کہ وہ دنیا اور اس کے انقلاب کو دیکھے اور پھر اس کی طرف اطمینان کرے اور تعجب کرتا ہوں میں اس کے واسطے کہ وہ قیامت کے حساب و کتاب کا یقین رکھے اور اس پر عمل نہ کرے۔

سورة الزلزال ایک جامع سورت ہے

۴۳/۲۰۶۵ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أُنْبِئَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَقْرَأْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ثَلَاثًا مِنْ ذَوَاتِ الرَّاقِ فَقَالَ كَبُرَتْ سِنِّي وَاسْتَدَّ قَلْبِي وَعَلَّطَ لِسَانِي قَالَ فَأَقْرَأْ ثَلَاثًا مِنْ ذَوَاتِ حِمٍّ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ قَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَأْنِي سُورَةَ جَامِعَةً فَأَقْرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زُلْزِلَتْ حَتَّى فُورَعٍ مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِ أَبَدًا ثُمَّ أَذْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ الرَّؤُوسُ جُلُ مَرَّتَيْنِ. (رواه احمد و ابو داود)

ابو داود: کتاب الصلاة، باب تحریب القرآن، ح ۱۲۹۹

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے سامنے آیا پھر اس نے کہا: یا رسول اللہ! مجھ کو پڑھاؤ۔ پس آپ ﷺ نے فرمایا تین سورتیں پڑھو۔ جن کے اول میں اتر ہے وہ کہنے لگا میری عمر بڑی ہے اور میرا دل سخت ہے۔ یعنی حافظہ کی کمی اس پر غالب ہے اور نسیان کی کثرت ہے اور میری زبان موٹی ہے۔ یعنی کلام اللہ یاد نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً بڑی سورت آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر وہ نہیں پڑھ سکتا پس پڑھ تین سورتیں ان میں سے کہ اول ان کے حمد ہے یعنی یہ ان کی بہ نسبت چھوٹی ہیں۔ اس شخص نے وہی کہا کہ اے اللہ کے رسول! مجھ کو ایک جامع سورت پڑھاؤ۔ یعنی جس میں بہت سی باتیں جمع ہوں پس اس کو نبی کریم ﷺ نے سورت اذا زلزلت پڑھائی یہاں تک کہ اس سے فارغ ہوئے یعنی تمام سورت پڑھی پس اس شخص نے کہا کہ قسم اس ذات کی۔ جس نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا کہ میں اس پر نہ زیادہ کروں گا۔ اس پر عمل کرنے میں کبھی بھی اس پر زیادہ نہیں کروں گا۔ پھر اس شخص نے پیٹھ پھری پس نبی کریم ﷺ نے دوبار ارشاد فرمایا اس شخص نے مراد پائی۔ اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے جن سورتوں کے سرے پر اتر ہے وہ پانچ سورتیں ہیں اور سورۃ اذا زلزلت اس لیے جامع سورت ہے اس میں آیت جامع ہے: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزال: ۷-۸) اس میں تمام چیزیں کرنے نہ کرنے کی آگئیں۔

سورۃ نکاثر ہزار آیتوں کے برابر ہے

۴۳/۲۰۶۲ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ قَالُوا وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ قَالَ أَمَّا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَهُمُ التَّكَاثُرُ - (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

اخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۴۹۸/۲ حديث رقم ۲۵۱۸۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے یہ کہ ہر دن ہزار آیتیں پڑھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کون طاقت رکھتا ہے کہ ہر روز ہزار آیتیں پڑھے؟ یعنی ہمیشہ کون پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا کیا تم میں سے کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ: اَلْهٰکُمْ التَّکَاثُرُ پڑھے؟ اس کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں سورۃ نکاثر کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر سورۃ نکاثر پڑھے گا تو ایک ہزار آیتوں کا ثواب پائے گا۔ اس لیے کہ اس میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت دلائی گئی ہے۔

سورۃ اخلاص کے پڑھنے سے جنت میں محل ملے گا

۴۵/۲۰۶۷ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى لَهُ بِهَا قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأَ عَشْرِينَ مَرَّةً بَنَى لَهُ بِهَا قَصْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثِينَ مَرَّةً بَنَى لَهُ بِهَا ثَلَاثَةُ قُصُورٍ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا التَّكْثِيرُ قُصُورُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ - (رواه الدارمی)

اخرجه الدارمی فی السنن ۵۵۱/۲ حديث رقم ۳۴۲۹۔

ترجمہ: حضرت سعید سے مرسل روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا۔ فرمایا جو شخص قل هو اللہ دس بار پڑھے اس کے لیے بہشت میں ایک محل بنایا جاتا ہے اور جو بیس بار پڑھے۔ اس کے لیے اس سورت کی وجہ سے بہشت میں دو محل بنائے جاتے ہیں اور جو شخص اس کو تیس بار پڑھے اس کے لیے اس کے پڑھنے کی وجہ سے تین محل جنت میں بنائے جاتے ہیں۔ پھر خطاب کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ خدا کی قسم اے اللہ کے رسول! اس وقت ہم اپنے محل بہت بنا کر لیں گے یعنی جب ایسا ثواب ہے تو ہم کثرت سے پڑھیں گے۔ تاکہ بہت سے محل بنیں تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بہت فراخ ہیں یعنی اس کا ثواب و فضل بہت فراخ ہے پس اس میں رغبت کرو اور تعجب نہ کرو۔ اس کو دہرائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں سورۃ اخلاص کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص ۱۰ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اس کو جنت میں ایک محل دیا جائے گا۔ بیس مرتبہ پڑھنے سے دو محل ملیں گے اور تیس مرتبہ پڑھنے سے ۳ محل ملیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندے کے ساتھ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے آمین۔

رات کے وقت قرآن پاک پڑھنے پر اجر و ثواب

۶۷/۲۰۶۸ وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ لَمْ يَحَاجَّهُ الْقُرْآنُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَتِي آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ خَمْسَ مِائَةٍ إِلَى أَلْفٍ أَصْبَحَ وَلَهُ قِنْطَارٌ مِنَ الْأَجْرِ قَالُوا وَمَا الْقِنْطَارُ قَالَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا۔ (رواه الدارمی)

اخرجه الدارمی فی السنن ۵۵۷/۲ حدیث رقم ۳۴۵۹۔

ترجمہ: حضرت حسنؓ سے بطریق ارسال روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت سو آیتیں پڑھے۔ اس سے اس رات قرآن مجید نہیں جھگڑے گا اور جو شخص رات کے وقت دو سو آیتیں تلاوت کرے اس کے واسطے رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے اور جو شخص رات کے وقت پانچ سو آیتیں پڑھے ایک ہزار تک وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لیے قطار کی بقدر ثواب لکھا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ قطار کیا ہے۔ فرمایا کہ بارہ ہزار (درہم ہیں یاد بناریں)۔ اس کو دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص رات کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرے گا۔ اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب سے نوازیں گے اور قرآن پاک اس سے نہیں جھگڑے گا اور جو شخص نہیں پڑھے گا قرآن اس کا دشمن ہوگا۔ پس سو آیتوں کا پڑھنا قرآن پاک کی دشمنی کو ختم کرنا ہے اور اس رات کو اس کے حق کی ادائیگی ہے اور یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید کا جھگڑنا دو وجہ سے ہوگا۔

ایک نہ پڑھنے کی وجہ سے اور دوسرے عمل نہ کرنے کی وجہ سے پس جو نہ پڑھنے کی وجہ سے جھگڑے گا۔ وہ تو پڑھنے سے رفع ہوگا اور جو نہ عمل کرنے کی وجہ سے جھگڑے گا وہ باقی رہے گا۔ اگر قرآن پڑھے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا تو وہ قرآن کے جھگڑنے اور دشمنی سے محفوظ رہے گا بلکہ قرآن اس کی سفارش کرے گا اور اگر ایک بات میں بھی کمی ہوگی۔ تو جھگڑا باقی رہے گا اور علما طیبی نے کہا یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن کریم کی قراءت ہر انسان پر لازم و واجب ہے۔ پس جب نہیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے جھگڑا کریگا۔ جھگڑنے کی نسبت قرآن کی طرف مجازاً ہے اور حقیقت میں وہ جھگڑنا خدا کا ہوگا اور بقدر قطار کا مطلب یہ ہے یعنی بقدر گنتی قطار کے یا بقدر اس کے وزن کے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔

بعض سورتوں اور آیتوں کے فضائل تفسیر عزیزی اور درمنثور سے لکھے جاتے ہیں۔ تاکہ لوگ ان کے فضائل سن کر خوش ہوں اور عمل کے لیے سرگرم ہو جائیں۔ مولانا عبد العزیزؒ نے لکھا ہے اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے۔ تو غرق ہونے کے خوف سے پریشان تھے اور ڈوبنے سے نجات پانے کے لیے ﴿يَسْمِعُ اللَّهُ مَجْرَهَا وَمَوْسِطَهَا﴾ (ہود: ۴۱) کہا۔ ان کی کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہی۔

پس جب کشتی کو اس آدھے کلمے سے نجات حاصل ہو گئی۔ تو جو شخص پوری عمر اس کو مواظبت کے ساتھ پڑھے گا۔ وہ نجات سے محروم کیونکر ہوگا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے انیس حروف ہیں اور دوزخ کے موکل بھی انیس ہیں ان میں سے ہر حرف سے

ایک بلا دور ہو سکتی ہے۔

اور یہ بھی لکھا ہے کہ روز و شب کے چوبیس گھنٹے ہیں یا ساتتیس ہیں پانچ ساعتوں کے لیے پانچ نمازیں مقرر فرمائیں اور باقی انیس ساعتوں کے لیے انیس حروف دے دیے۔ تاکہ ہر وقت اٹھنے بیٹھنے میں حرکت اور سکون میں ان انیس ساعتوں میں سے برکت و عبادت حاصل کرے۔ یعنی ان حروف کی برکت سے وہ ساتتیس بھی عبادت میں لکھی جائیں۔

اور علماء نے سورۃ براءت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں کفار کے قتل کا حکم بیان کیا گیا ہے اس لیے اس کو بسم اللہ الرحمن سے خالی رکھا ہے اور ذبح کے وقت مقرر فرمایا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہیں اس لیے کہ ذبح کی صورت قہر کی صورت ہے اور کلمہ رحمت اس کا مقتضی نہیں ہے۔ پس جو شخص ہر وقت اس کلمہ رحمت کو اپنی زبان پر جاری رکھے۔ یقین ہے کہ خدا کے غضب و عذاب سے محفوظ رہے گا اور خدا کی رحمت و ثواب سے محفوظ ہوگا اور اس آیت کے خواص میں سے ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب آدمی بیت الخلاء کو جائے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ کہے تاکہ اس کی شرمگاہ اور جنات کے درمیان پردہ حائل ہو جائے پس جب یہ کلمہ آدمی اور دشمنان دنیوی کے درمیان پردہ ہو گیا تو امید ہے آدمی اور عذاب عقبی کے درمیان بھی پردہ ہوگا اور صحاح ستہ میں مذکور ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سانپ بچھو کاٹے ہوؤں کو اور مرگی والوں کو اور دیوانوں کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے اور حضور ﷺ نے اس کو جائز رکھا ہے اور دارقطنی اور ابن عامر نے سائب بن یزید سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے اس سورت کے ساتھ دم فرمایا اور پڑھنے کے بعد درد والے مقام پر آپ ﷺ نے اپنا لعاب مبارک ملا۔

بزار نے اپنی مسند میں انس بن مالک سے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنا پہلو پچھونے پر رکھا اور فاتحہ اور قل ھو اللہ احد پڑھ کر دم کیا ہر بلا سے امان میں ہو جائے گا مگر یہ کہ موت اس کے مقدر میں ہو۔ یعنی موت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔

اور عبد بن حمید نے اپنی مسند میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے کہ فاتحہ الکتاب دو تہائی قرآن کے برابر ہے اور ابو شیخ اور طبرانی اور ابن مردویہ اور دیلمی اور ضیاء مقدسی روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں گنج العرش سے مجھ کو دی گئی ہیں اور کوئی چیز ان چار کے علاوہ اس گنج سے کسی کو نہیں پہنچی۔ ام الکتاب اور آیۃ الکرسی اور سورۃ بقرہ کا خاتمہ اور سورۃ کوثر اور ابو نعیم اور دیلمی نے ابوداؤد سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ فاتحہ الکتاب کفایت کرتی ہے اس چیز سے کہ کوئی چیز قرآن کریم سے کفایت نہیں کرتی۔ اگر فاتحہ الکتاب کو تر ازو کے ایک پلہ میں رکھ دیا جائے اور تمام قرآن کو دوسرے پلہ میں تو البتہ فاتحہ قرآن کے برابر ہو جائے اور ابو عبیدہ فضائل قرآن میں حسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی فاتحہ الکتاب پڑھے گویا اس نے توریت اور انجیل اور زبور اور فرقان کو پڑھا اور تفسیر و کج اور کتاب المصاحف ابن انباری اور کتاب العظمتہ ابو شیخ اور حلیۃ الاولیاء ابو نعیم میں وارد ہوا ہے کہ ایلیس علیہ اللعنة کو اپنی عمر میں نوحہ اور رنی اور اپنے اوپر خاک ڈالنے کا چار مرتبہ اتفاق ہوا۔

اول اس وقت اس پر لعنت ہوئی اور دوسرے جب کہ اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا اور تیسرے جبکہ حضور ﷺ نبی ہوئے اور چوتھے جب کہ فاتحہ الکتاب نازل ہوئی۔

اور ابو شیخ کتاب الثواب میں لکھتے ہیں کہ جس کو کوئی حاجت درپیش ہو۔ اس کو چاہیے کہ فاتحہ الکتاب پڑھے اور ختم کرنے کے بعد حاجت کا مطالبہ کرے۔

اور ثعلبیؒ نے شعبی سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور درد کی شکایت کی۔ شعبیؒ نے اس کو کہا کہ تیرے لیے ضروری ہے کہ اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کرے۔ اس نے کہا کہ اساس القرآن کیا چیز ہے؟ شعبیؒ نے کہا کہ فاتحہ الکتاب۔ مشائخ کے مجرب اعمال میں مذکور ہے کہ سورۃ فاتحہ اسم اعظم ہے ہر مطلب کے لیے پڑھنی چاہیے اور اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ مابین فجر کی سنت اور نماز فرض کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد للہ کے ساتھ ملا کر اکتالیس بار چالیس دن تک پڑھے۔ جو مطلب ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ حاصل ہوگا۔ اگر مریض کی شفا یا سحر زدہ کی شفا مقصود ہو تو پانی پر دم کر کے اس کو پلا دے اور دوسرے یہ کہ نوچندی اتوار کو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ کی میم کو لام کے ساتھ ملائے بغیر ستر بار پڑھے اس کے بعد ہر روز اسی وقت پڑھے اور دس دس کم کرتا جائے تا ہفتے کو ختم ہو۔ اگر اول مہینے میں مطلب حاصل ہو جائے تو فیہا ورنہ دوسرے اور تیسرے مہینے میں اس طرح کرے اور اس سورت کا چینی کے پیالے پر گلاب و مشک و زعفران کے ساتھ لکھ کر پھر دھو کر پلانے سے چالیس روز تک امراض مزمنہ سے شفاء حاصل ہوتی ہے۔

دانتوں کے درد اور دوسرے درد شکم اور دوسرے درددوں کے لیے سات بار پڑھ کر دم کرنا مجرب عمل ہے اور سورۃ بقرہ کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جب ہم میں سے کوئی سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا۔ تو اس کو ہم میں سے عظمت و جاہ پیدا ہو جاتی۔ چنانچہ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک لشکر کو کہیں بھیجتے تھے اور تعین امیر میں تردد پیدا ہو جاتا۔ لشکر کے ہر فرد کو سامنے بلا کر دریافت فرماتے کہ کونسی سورۃ قرآن کی پڑھی ہے۔ ہر ایک کو جو کچھ یاد ہوتا وہ بتا دیتا کہ کونسی سورت قرآن پاک کی یاد رکھتا ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ فلاں فلاں سورت اور آپ ﷺ نے پوچھا کیا سورت بقرہ بھی یاد رکھتا ہے اس نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا جا تو اس لشکر کا امیر ہے اور نبیہتی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورۃ بقرہ کو حقائق و دقائق کے ساتھ بارہ برس کے عرصہ میں پڑھا اور ختم کے ایک دن ایک اونٹ ذبح کر کے وافر کھانا پکایا اور حضور ﷺ کے ساتھیوں کو کھلایا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ آٹھ برس تک پڑھتے رہے اور آٹھ برس کے بعد ختم کی۔

الغرض آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھیوں کے نزدیک یہ سورت بڑی عظمت کی حامل ہے اور دوسری سورت اس جیسی نہیں ہے اور اس سورت کے خواص مجربات میں سے یہ ہے کہ جس موسم میں بچے کو چچک نکلتی ہے۔ جس لڑکے کی عافیت منظور ہو تو اس کے رو برو نہار منہ اس سورت کو تجوید و ترتیل سے پڑھ کر دم کرے اور وہ لڑکا بھی نہار منہ ہو۔ خدا کے فضل سے اس سال اس کو چچک نہیں نکلے گی اور اگر نکلے گی بھی تو انجام بالآخر ہوگا۔

لیکن شرط یہ ہے کہ جس وقت اس سورت کو پڑھنا شروع کرے تو اڑھائی پاؤ چاول دہی اور اس پر کھانڈ (چینی) ڈال کر اسی مجلس میں کسی مستحق کو کھانے کے لیے دے۔ یہاں تک مولانا عبد العزیز کا کلام پورا ہو گیا ہے۔

در منشور کی حدیثوں کا ترجمہ شروع ہوتا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو کوئی سوتے وقت سورۃ کہف کی دس آیتوں کی تلاوت کرے گا اس کو دجال کے فتنہ سے بچا لیا جائے گا اور ایسے ہی وہ شخص بھی بچ جائے گا جو اس سورۃ کی آخری دس آیتیں یاد

کرے گا اور جو کوئی سورۃ کہف کی دس آیتیں پڑھے گا۔ سوتے وقت دجال کے فتنہ سے بچا لیا جائے گا اور جو کوئی اس سورۃ کو خاتمہ کے وقت پڑھے گا اس کے لیے نور ہوگا۔ اس کے لئے جو اس کی قراءت کے نزدیک قدم تک قیامت کے دن اور ایک روایت میں آیا ہے جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی۔ اس کے لیے دوسرے جمعہ تک کفارہ ہوگا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جس گھر میں سورۃ کہف پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے جس نے چار رکعتیں عشاء کے پیچھے پڑھیں پہلی دو رکعتوں میں قل یا ایہا الکافرون اور قل ھو اللہ احد اور اخیر کی دو رکعتوں میں۔ تبارک الذی اور الم تنزیل السجدہ۔ اس کے لیے چار رکعتوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے جو کہ لیلۃ القدر میں پڑھی گئی ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے رات کو تبارک الذی اور الم تنزیل السجدہ مغرب اور عشاء کے درمیان پس گویا کہ اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اور ایک روایت میں ہے کعب سے جس نے رات کے وقت الم تنزیل السجدہ اور تبارک الذی پڑھی اس کے لیے ستر نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے ستر برائیاں دور کی جاتی ہیں اور اس کے لیے ستر درجے بلند کئے جاتے ہیں اور ایک روایت میں آیا کہ جس نے الم تنزیل اور تبارک الذی پڑھی اس کے لیے لیلۃ القدر کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔

ابن خریسؒ اور ابن مردویہؒ اور خطیبؒ اور بیہقیؒ نے ابو بکر صدیقؓ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ یسین کا نام تو رات میں معمر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورۃ اپنے قاری کے لئے دنیا و آخرت کے مصائب کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے اور اس کا نام حافظہ اور رافعہ رکھا گیا ہے یعنی مؤمنوں کا مرتبہ بلند کرتی ہے اور کافروں کو پست کرتی ہے اور اپنے پڑھنے والے سے ہر برائی کو دور کرتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کرتی ہے اور جو شخص اس کو برابر پڑھتا رہے تو وہ اس کے لئے بیس حجوں کے برابر ہو جاتی ہے اور جو کوئی اس کو سننے کے لیے ایسے ایک ہزار دینار کے برابر ہو جاتی ہے جو نبی سبیل اللہ یعنی جہاد میں دے اور جو شخص اس کو لکھ کر پی لے۔ ہزار دائیں اور ہزار نور اور ہزار یقین اور ہزار برکتیں اور ہزار رحمتیں اسکے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور ہر کینہ اور دکھ کو نکال ڈالتی ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ سورۃ یسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے سورۃ یسین پڑھنے پر مداومت کی پھر وہ مر گیا تو شہید مرے گا اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے ہر شب سورۃ یسین پڑھی اس کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں اور ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جس نے سورۃ یسین صبح کے وقت پڑھی اس دن شام تک اس کے لیے آسانی کر دی جاتی ہے اور جس نے رات کے پہلے حصے میں سورۃ یسین پڑھی اس کو مکمل رات (صبح تک) آسانی دے دی جاتی ہے اور بیہقیؒ نے ابو قلابہ سے جن کا شمار جلیل القدر تابعین میں ہوتا ہے روایت کی ہے کہ جس شخص نے سورۃ یسین کی تلاوت کی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور جس نے اس سورت کو کھانے کے وقت کھانے کی کمی کے خوف سے پڑھا یہ سورت اس کو کفایت کرے گی اور جس نے اس سورت کو قریب المرگ کے پاس پڑھا تو روح نکلتے میں اس کے لئے آسانی کر دی جاتی ہے اور جس نے اس سورت کو ایسی عورت کے سامنے پڑھا جو بچہ جننے کی تکلیف سے دوچار ہے تو اس کے لئے جننے میں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔ سورۃ یسین کا ایک مرتبہ پڑھنا گویا گیارہ قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے اور ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورۃ یسین ہے۔

اور مقبریؒ نے کہا ہے اگر تم کو کسی چیز کا خوف ہو یا حاکم وقت کا ناجائز مطالبہ ہو یا دشمن کی طرف سے تکلیف کا خوف ہو تو

سورۃ یٰسین پڑھو اس کی وجہ سے اس کا خوف دور ہو جائے گا اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورۃ یٰسین والصفات پڑھی پھر وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کر دیتا ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے نماز سے فارغ ہونے کو اس بات سے پہچان لیتے تھے کہ آپ ﷺ ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الصُّفَّتْ : ۱۸۰ تا ۱۸۲) پڑھتے تھے اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے نماز کے بعد ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ تین بار پڑھی تحقیق اس نے پورے پیمانے کے ساتھ ثواب پالیا۔

اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو خوش لگے۔ یعنی بھلا لگے کہ اس کو قیامت کے دن پورا ثواب ملے تو اس کو چاہیے کہ اپنی مجلس سے اٹھتے وقت ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ پڑھا کرے اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سبع طوال (یعنی سات بڑی سورتیں) جو قرآن کے شروع میں ہیں تو رات کی جگہ عطا کی ہیں اتر سے طواسین تک انجیل کی جگہ عطا کی ہیں۔ طواسین اور حامیموں کی درمیانی سورتیں زبور کی جگہ عطا کی ہیں اور حامیموں اور مفصل (یعنی قرآن کی آخری سورتوں) کے ذریعے مجھے اللہ کی جانب سے فضیلت عطا کی گئی ہے۔ مجھ سے قبل کسی پیغمبر نے ان سورتوں کی تلاوت نہیں کی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہر چیز کا خلاصہ ہے اور قرآن کا خلاصہ حامیموں ہیں اور سرہ بن جندب سے بطریق مرفوع روایت ہے کہ حامیموں جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حامیموں سات ہیں اور دوزخ کے دروازے بھی سات ہیں ہر حم ان میں سے آئے گی اور ہر دروازے پر کھڑی رہے گی ان دروازوں میں سے اور کہے گی اے الہی! اس دروازے سے اس شخص کو دوزخ میں داخل نہ فرما جو مجھ پر ایمان رکھتا تھا اور میری تلاوت کرتا تھا۔

اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر درخت کے لیے پھل ہے اور قرآن مجید کا پھل حامیموں ہیں۔ وہ سیر کرنے والے کی جگہیں ہیں تجارت کی جگہیں ہیں پس جو کوئی تم میں سے پسند کرے کہ جنت کے باغوں میں چرے پس اس کو چاہیے کہ حامیموں کی تلاوت کرے اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے کہ آپ ﷺ سوتے نہیں تھے یہاں تک تبارک الذی اور حم السجدہ پڑھ لیتے۔

اور ایک روایت میں آیا ہے جو کوئی شب جمعہ میں حم الدخان سورۃ یٰسین پڑھے اور وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کی بخشش کردی جاتی ہے اور روایت میں بھی ہے کہ جس نے جمعہ کی رات کو یاد دن میں سورۃ الدخان پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے جس نے جمعہ کی رات میں سورۃ الدخان کی تلاوت کی وہ صبح کرتا ہے اس حال میں اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور اس کا نکاح حور عین سے کر دیا جاتا ہے۔

اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے رات کے وقت سورۃ الدخان پڑھی اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے الم تنزیل اور یٰسین اور اقتربت الساعة الذی پڑھی وہ اس کے لیے نور ہوگی اور شیطان نے شر سے پناہ ہوگی اور قیامت کے دن اس کے درجے بلند کئے جائیں گے۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر رات کو اقتربت الساعة پڑھے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ

چودھویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الحدید اور اذا وقعت اور الرحمن پڑھنے والے کو آسمان وزمین کے رہنے والوں کے درمیان ساکن الفردوس پکارا جاتا ہے یعنی جنت الفردوس میں ہمیشہ رہے گا اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الواقعة سورۃ الغنی ہے پس اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اپنی بیویوں کو سکھاؤ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اکثر عورتوں سے مخاطب ہو کر ان کو کہا کرتی تھیں کہ کوئی چیز تم میں سے کسی کو سورۃ واقعہ پڑھنے سے عاجز نہ کر دے اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو کوئی رات کے وقت یا دن کے وقت سورۃ حشر کا آخری حصہ پڑھے اور پھر مر جائے تو اس سے اس کی تمام خطائیں دور کی جاتی ہیں اور آپ ﷺ نے ایک شخص کو حکم دیا جب تم سونے کے لیے بستر کی طرف جاؤ۔ تم سورۃ حشر پڑھو اور فرمایا تو اگر مر جائے گا تو شہید ہوگا اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ رب العزت سے شیطان کے بارے میں پناہ مانگے پھر تین بار سورۃ حشر کا آخری حصہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے بھیجتے ہیں جو اس سے شیطان جن و انس کو دور کرتے ہیں۔ اگر رات کو پڑھتا ہے تو صبح کو دفع کرتے ہیں اور اگر صبح کے وقت پڑھتا ہے تو شام تک دفع کرتے ہیں اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے سورۃ حشر کی آخری آیتیں پڑھیں۔ رات میں یا دن میں پھر اس دن یا رات کے وقت مر گیا۔ تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ سورۃ تبارک الذی میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو اور عکرمہ بن سیان نے کہا کہ میں نے قرآن حضرت اسماعیل کے سامنے پڑھا تو جب میں والضیٰ پر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ کلام اللہ کے آخر تک ہر سورۃ کے خاتمہ پر اللہ اکبر کہو۔ اس لیے کہ میں نے عبد اللہ بن کثیر رضی اللہ عنہ سے پڑھا۔ تو جب میں والضیٰ تک پہنچا تو فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا حکم کیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ ابی بن کعبؓ نے مجھے خبر دی اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ: اِذَا ذُلَّكَ اَدَّهٖ قُرْآنَ کے برابر ہے اور والعادیات اَدَّهٖ قُرْآنَ کے برابر ہے اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو رات کے وقت ہزار آیتیں پڑھے وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ ہستا ہوگا۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول کون ہزار آیتوں کی طاقت رکھتا ہے۔ پس آپ ﷺ نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الھِکْمَ التَّکْوِیْنَ اَدَّهٖ قُرْآنَ کے برابر ہے اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ ہود کی ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ یہ سورۃ ہزار آیتوں کے برابر ہے۔ ابوشیخ نے عظمت میں روایت کی ہے اور ابو محمدؒ نے قدمی نے قل هو اللہ احد کے فضائل میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ خیبر کے یہودی نبی ﷺ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا اے ابو القاسم! اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نوح جاب سے تخلیق فرمایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو حواء مسنون (سڑے ہوئے کچڑے سے) اور ابلیس کو آگ کے شعلہ سے اور آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کی جھاگ سے پس اپنے رب کے بارے میں بتاؤ یعنی رب کس چیز سے بنا ہے؟ پس نبی کریم ﷺ نے کچھ جواب نہ دیا۔ جبریل علیہ السلام اس سورۃ کو لے کر آئے یعنی قل هو اللہ احد یعنی کہو کہ اللہ ایک ہے اس کے نہ اصول و فروع ہیں اور نہ ہی شریک ہے اللہ الصمد اللہ بے پرواہ ہے نہ وہ بھوک کو مٹانے کے لئے کھاتا ہے اور نہ ہی پیاس کو بجھانے کے لئے پیتا ہے نہ ہی اسے کسی چیز کی احتیاج ہے۔ یہ ساری سورۃ آپ نے پڑھ کر سنائی۔ چنانچہ اس سورت میں نہ جنت کا ذکر ہے اور نہ ہی آگ کا ذکر ہے اور نہ آخرت کا اور نہ ہی حلال اور حرام کا۔ اس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ پس یہ خاص اسی کے لیے ہے اور جس نے اس کو تین بار پڑھا اس کا تین بار پڑھنا تمام وحی کے برابر ہے اور جس نے اس کو تیس بار پڑھا۔ اس دن اس سے دنیا میں کوئی افضل نہیں ہے مگر جس نے زیادہ بار پڑھا اس سے

اور جس نے دوبار پڑھا ہو وہ جنت الفردوس میں رہے گا اور جس شخص نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت تین بار پڑھا اس سے فقر دور ہو جاتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے رات گزاری۔ اس حال میں اس سورۃ کو صبح تک بار بار پڑھتے تھے اور بار بار پڑھتے اور ایک روایت میں آیا ہے جس نے قل ھو اللہ احد پڑھی گویا کہ اس نے تہائی قرآن پڑھا اور ایک روایت میں آیا ہے جس نے قل ھو اللہ احد دو سو بار پڑھی اس کے گناہ دو سو برس کے بخشے جاتے ہیں اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے قل ھو اللہ احد پچاس بار پڑھی۔ اس کے پچاس برس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے ہر روز دو سو بار قل ھو اللہ احد پڑھا اس کے لیے ڈیڑھ ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے پچاس برس کے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ کہ اس پر دین ہو۔ اس کو ابو سعد اور ابن فریس اور ابو یعلیٰ اور بیہقی نے دلائل میں حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ شام میں تھے۔ پس جبریل علیہ السلام اترے اور کہا کہ اے محمد تحقیق معاویہ بن معاویہ مرنی مر گیا ہے۔ پس کیا آپ ﷺ پسند کرتے ہیں کہ اس پر نماز پڑھو فرمایا ہاں پھر اپنا بازو مارا۔ پس ان کے لیے ہر چیز پست ہو گئی اور مل گئی زمین سے اور ان کے لیے جنازہ بلند کیا گیا اس کا پس نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھی پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا معاویہ کو یہ فضیلت کس وجہ سے دی گئی کہ اس پر فرشتوں نے صف باندھ کر نماز پڑھی کہ ہر صف میں چھ لاکھ فرشتے تھے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ قل ھو اللہ احد پڑھنے کی وجہ سے تھا۔ وہ اس سورت کو کھڑے بیٹھے اور آتے اور جاتے اور سوتے یعنی لیٹے پڑھا کرتا تھا اور ایک روایت حضرت انسؓ سے اس طرح آئی ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ مقام تبوک میں تھے ایک دن آفتاب طلوع ایسی روشنی شعاع اور نور کے ساتھ طلوع ہوا کہ ہم نے اس کو پہلے ایسے نہیں دیکھا تھا پس نبی کریم ﷺ اس کی روشنی اور نور سے تعجب کرنے لگے کہ اچانک جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آفتاب کو کیا ہے کہ وہ ایسا روشن اور نورانی نکلا ہے کہ میں نے اس سے پہلے اس کو ایسا نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا: یہ اس وجہ سے ہے کہ معاویہ بن معاویہ لیٹی آج مدینہ میں فوت ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ستر ہزار فرشتے بھیجے ہیں کہ وہ اس پر نماز پڑھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اے جبریل علیہ السلام یہ کس وجہ سے ہے فرمایا یہ قل ھو اللہ احد بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا۔ کھڑے بیٹھے اور چلتے وقت اور رات دن کے اوقات میں اس کو اس لیے بہت زیادہ پڑھو کہ یہ تمہارے رب کی نسبت ہے اور جو شخص اس کو پچاس بار پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پچاس ہزار درجے بلند کرتا ہے اور پچاس ہزار برائیاں دور کرتا ہے اور اس کے لیے پچاس ہزار نیکیاں لکھتا ہے اور جو شخص زیادہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ پس جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے زمین سمیٹ لوں۔ پس تم اس پر نماز پڑھو۔ فرمایا کہ ہاں پھر حضور ﷺ نے اس پر نماز پڑھی اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ تین چیزیں پوری کرے گا۔ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا اور جس حور عین سے چاہے گا نکاح کرے گا اور جو کوئی قاتل کو معاف کر دے اور خفیہ دین ادا کرے اور ہر فرض نماز کے پیچھے دس بار قل ھو اللہ احد پڑھے۔ پس ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ان میں سے صرف ایک کام کرے اے اللہ کے رسول! فرمایا: اگر ایک چیز کرے گا۔ تو بھی یہی ثواب ملے گا اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص قل ھو اللہ احد ہر دن پچاس بار پڑھے گا۔ قیامت کے دن اپنی قبر سے پکارا جائے گا اے اللہ کی مدح کرنے والے! جنت میں داخل ہو جا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہتی بھول جائے پس چاہیے کہ وہ قل ھو اللہ احد پڑھ لے جب کھانے سے فارغ ہو۔

اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل ھو اللہ احد پڑھے اس کے گھر والوں اور ہمسایوں سے محتاجی دور ہو جاتی ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام اچھی صورت میں خوش ہو کر تشریف لائے اور کہا اے محمد ﷺ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرمایا کہ ہر چیز کے لیے نسب ہے اور میرا نسب قل ھو اللہ احد ہے پس جو شخص میرے پاس تیری امت میں سے اس حال میں آئے گا کہ اس نے قل ھو اللہ احد ایک ہزار بار پڑھی ہوگی۔ تو میں اس کو اپنا نشان دوں گا اور اس کو اپنے عرش کے نزدیک رکھوں گا اور اس کی ستر آدمیوں کے حق میں شفاعت قبول کروں گا ان لوگوں میں سے کہ جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوگا اور اگر میں نے اپنے نفس پر کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ لازم نہ کیا ہوتا تو میں اس کی روح قبض نہ کرتا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز جمعہ کے بعد قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سات سات بار پڑھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ دوسرے جمعہ تک برائی سے پناہ میں رکھتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے قل ھو اللہ احد ایک ہزار بار پڑھی۔ اس کا پڑھنا اللہ کے نزدیک اللہ کی راہ میں ایک ہزار باگام و بازیں گھوڑے دینے سے افضل ہے اور کعب احبار سے روایت ہے جو شخص قل ھو اللہ احد پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گوشت کو آگ پر حرام کر دیتا ہے اور کعب احبار سے یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص رات اور دن میں دس بار قل ھو اللہ احد اور آیۃ الکرسی پڑھنے پر مواظبت اختیار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی و خوشنودی کو واجب کرتا ہے اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا اور شیطان سے بچایا جاتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص عرفہ کے دن زوال آفتاب کے بعد ایک ہزار بار قل ھو اللہ احد پڑھے وہ جو کچھ اللہ سے مانگے اللہ اس کو دیتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے جو شخص اس کو ایک ہزار بار پڑھے پس تحقیق اس نے اپنا نفس اللہ تعالیٰ سے مول لیا۔ یعنی وہ آگ سے آزاد ہو گیا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص اس کو دوسو بار پڑھے۔ اس کے لیے پانچ سو برس کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہؓ کے ساتھ کیا پانی منگایا اور اس میں کلی کی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ گھر میں لے گئے اور ان کے گریبان اور دونوں مونڈھوں کے درمیان وہ پانی چھڑکا اور ان کو اللہ کی پناہ میں دیا۔ قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر۔

اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے صبح کی نماز کے بعد کسی سے کلام کرنے سے پہلے قل ھو اللہ احد سو بار پڑھی۔ اس دن اس کی طرف سے پچاس صدیقیوں کے برابر عمل اوپر پہنچائے جاتے ہیں۔

باب

یہ باب متعلقات قرآن وغیرہ کے بیان میں ہے

الفصل الاول:

قرآن کریم غفلت سے بھول جاتا ہے

۱/۲۰۶۹ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهَوَ أَشَدُّ تَفْصِيًّا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقْلِهَا۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۷۹/۹۔ حدیث رقم ۵۰۳۳۔ ومسلم فی صحیحہ ۵۴۵/۱ حدیث رقم (۲۳۱۔ ۷۹۱)۔ والدارمی فی السنن ۵۳۱/۲ حدیث رقم ۰۳۳۴۹۔ واحمد فی المسند ۳۹۷/۴۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی خبر گیری کرو۔ (یعنی ہمیشہ پڑھا کروتا کہ بھول نہیں) پس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ البتہ قرآن سینے سے جلد نکل جاتا ہے۔ بہ نسبت اونٹ کے اپنی رتی سے نکلنے کے۔ (یعنی قرآن سینوں سے اتنی سرعت کے ساتھ نکل جاتا ہے کہ اونٹ بھی اپنی رتی سے نہیں نکلتا) اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے یعنی پڑھنے رہنا چاہیے تاکہ وہ بھولے نہیں یعنی آدمی اونٹ کی حفاظت کرنے میں غفلت کرے تو وہ اونٹ رسی سے بہت جلد نکل جاتا ہے اسی طرح سے اگر قرآن مجید نہ پڑھا جائے اور اس کی خبر نہ رکھی جائے تو وہ اونٹ سے بھی زیادہ تیزی سے سینے سے نکل جاتا ہے یعنی بہت جلد بھول جاتا ہے۔

قرآن مجید کے کسی حصے کو بھول جانا برا ہے

۲/۲۰۷۰ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسْمَ مَا لَا حِدِثَهُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِيْ وَأَسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفْصِيًّا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النِّعَمِ۔

(متفق علیہ وزاد مسلم بعقلها)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۷۹/۸۔ حدیث رقم ۵۰۳۲۔ ومسلم فی صحیحہ ۵۴۴/۱ حدیث رقم (۲۸۸۔ ۷۹۰)۔ والترمذی فی السنن ۱۷۷/۵ حدیث رقم ۲۹۴۲۔ والنسائی ۱۵۴/۵ حدیث رقم ۹۴۳۔ والدارمی ۵۳۱/۲ حدیث رقم ۳۳۴۷۔ واحمد فی المسند ۳۸۲/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا بری چیز ہے آدمی کے لیے کہ یہ کہے کہ میں

فلانی اور فلانی آیت بھول گیا بلکہ یہ کہے کہ میں بھلا دیا گیا اور قرآن کی مدد کرتے رہو کیونکہ وہ لوگوں کے سینے سے بہت جلد جانے والا ہے بہ نسبت چار پایوں کے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے اور مسلم نے زیادہ کیا ہے کہ بندھے ہوں اپنی رشتی کے ساتھ۔

تشریح ﴿ اس حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہنا بہت برا ہے کہ میں بھول گیا۔ یہ کہنا اس لیے منع ہے کہ یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اس نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اور بھول گیا ہے بے پروائی کی وجہ سے اور اس کہنے میں کہ بھول گیا۔ اس سعادت و نعمت کے حاصل کرنے میں حسرت و تقصیر کا ظاہر کرنا ہے۔

صاحب قرآن کی مثال اونٹ والے کی طرح ہے

۳/۲۰۷۱ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَلَّقَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۷۹/۹۔ حدیث رقم ۵۰۳۱۔ و مسلم فی صحیحہ ۳۴۳/۱ حدیث رقم (۷۸۹-۲۲۶)۔ والنسائی فی السنن ۱۵۴/۲ حدیث رقم ۹۴۲۔ وابن ماجہ ۱۲۴۳/۲ حدیث رقم ۳۷۸۳۔ ومالک فی الموطأ ۲۰۲/۱ حدیث رقم ۶۔ من کتاب القرآن۔ واحمد فی المسند ۱۷/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ صاحب قرآن کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کے مالک کے مثل ہے۔ اگر وہ اونٹ کی خبر گیری کرتا ہے تو اونٹ بندھا اور ٹھہرا رہتا ہے اور اگر وہ اونٹ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ صاحب قرآن بندھے ہوئے اونٹ کے مالک کی مثل ہے۔ اگر وہ اونٹ کو باندھ کر رکھے گا اور اس کی حفاظت کرے گا اور خبر گیری کرتا رہے گا۔ تو وہ اونٹ کو اپنی جگہ پر پالے گا اور اگر اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو وہ اونٹ بھاگ جائے گا اسی طرح قرآن والے کی مثال ہے کہ اگر وہ قرآن کو یاد کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو وہ محفوظ رہتا ہے۔ ورنہ وہ اونٹ کے بھاگنے کی طرح سینے سے نکل جاتا ہے۔

جب تک قرآن پڑھنے میں دل لگا رہے تو قرآن پڑھتے رہو

۳/۲۰۷۲ وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا اُتَيْتُمْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۰۱/۹۔ حدیث رقم ۵۰۱۰۔ و مسلم فی صحیحہ ۲۵۳/۱ حدیث رقم ۲۶۶۷/۳۔ والدارمی ۵۴۳/۲ حدیث رقم ۳۳۶۱۔ واحمد فی المسند ۳۱۳/۴۔

ترجمہ: حضرت جندب بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک پڑھو جب تک اس پر تمہارے دل خواہش کریں۔ پس جس وقت آپس میں اختلاف ہو۔ (یعنی کثرت سے پڑھنے سے ملال کا احساس ہو) تو

کھڑے ہو جاؤ (یعنی قرآن پڑھنا روک دو)۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت قرآن پڑھنے میں دل نہ لگے تو قرآن پاک کا نہ پڑھنا افضل ہے لیکن یہاں ایک نکتہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ عادت ڈالے اور نفس کو ریاضت میں لگائے تاکہ بہت پڑھنے سے ملال نہ آئے بلکہ خوشی زیادہ ہو۔ اس لیے کابل اور آسودہ دل ریاضت کی عادت نہیں رکھتے، جلدی ملول ہو جاتے ہیں کچھ تو ایسے لوگ ہیں کہ ایک سپارہ پڑھنے میں ملول ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک سپارہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بالکل بھی ملول نہیں ہوتے۔

قراءت و تجوید کی رعایت کرنا نبی کریم ﷺ سے منقول ہے

۵/۲۰۷۳ وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا

مَدًّا أَنْتُمْ قَرَأْتُمُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ بِمَدٍّ يَسْمَعُ اللَّهُ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ۔ (رواہ البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۹/۱۹۔ حدیث رقم ۵۰۴۶۔ و ابوداؤد فی السنن ۱۵۴/۲۔ حدیث رقم ۱۴۶۵۔ والدارمی

۵۶۳ حدیث رقم ۳۴۹۰۔ واحمد فی المسند ۱۱۹/۳۔

ترجمہ: حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم ﷺ کی قراءت کس طرح کی تھی؟ کہنے لگے کہ آپ ﷺ کی قراءت درازی کے ساتھ یعنی لمبی قراءت تھی پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی پھر بسم اللہ میں لفظ اللہ کے لام کو مد اصلی کے بقدر لمبا کرتے تھے اور رحمٰن کے الف کو بھی اسی طرح لمبا کرتے تھے اور رحیم کی یا کو مد اصلی یا عارضی کی بقدر لمبا کرتے تھے۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ آپ ﷺ بسم اللہ کو قراءت و تجوید کے قانون کا لحاظ کر کے پڑھا کرتے تھے اور روایت میں آتا ہے کہ آپ درازگی کے ساتھ قراءت کرتے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ حروف مد اور لین بقدر معروف کیا کرتے تھے جو اباب و قوف کے قواعد و شرائط کے مطابق ہے اور علامہ طبریؒ نے کہا ہے کہ حروف مد تین ہیں واؤ۔ الف۔ ی۔ تو جب ان کے بعد حمزہ ہو تو الف کے بقدر مد کرے اور بعضوں نے کہا ہے کہ دو الفوں کی بقدر پانچ الفوں تک اور مراد الف کی بقدر دراز گئی آواز کی بقدر ہے اور جس وقت پایا تا کہے اور اگر ان کے بعد شد ہو تو مد کرے جو چار الفوں کی بقدر ہو بالا اتفاق جیسے دابتہ اور اگر ان کے بعد ساکن ہو تو مد کرے دو الفوں کی بقدر بالا اتفاق صاد اور یعلیٰ کی طرح اور اگر ان کے بعد ان حروف کے علاوہ ہو تو مد نہ کرے مگر اس کے منہ سے نکلنے کی بقدر۔ اور بسم اللہ کی مدات اسی قبیل سے ہیں۔

خوش الحانی سے قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے

۶/۲۰۷۴ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَذِنَ اللَّهُ لشيءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّيَ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ۔

(متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶۸/۱۹۔ حدیث رقم ۵۰۲۳۔ و مسلم فی صحیحہ ۵۴۵/۱۔ حدیث رقم (۲۳۲۔ ۷۹۲)۔

والنسائی ۱۸۰/۲ حدیث رقم ۱۰۱۸۔ والدارمی ۵۶۳/۲ حدیث رقم ۳۴۹۰۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آواز کو اس طرح نہیں سنتا کہ جس طرح نبی کی آواز کو سنتا ہے جو کہ خوش الحانی سے قرآن پڑھتا ہو۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا اور نہ ہی پسند کرتا ہے کسی چیز کو ان چیزوں میں سے کہ سنی جاتی ہے جیسا کہ پیغمبر کی آواز کو قبول کرتا ہے۔ جب وہ خوش الحانی سے قرآن پڑھتے ہیں۔

نبی کا خوش الحانی سے قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے

۷/۲۰۷۵ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آذَنَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ مَا آذَنَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۱۸/۱۳۔ حدیث رقم ۷۵۴۴۔ و مسلم فی صحیحہ ۵۴۵/۱ حدیث رقم (۲۳۳-۷۹۲)۔ و ابوداؤد فی السنن ۱۵۷/۲ حدیث رقم ۱۴۷۳۔ والدارمی فی السنن ۴۱۶/۱ حدیث رقم ۱۴۸۸۔ و احمد فی المسند ۴۵۰/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی چیز کے لئے کان نہیں رکھتا ہے (یعنی کسی چیز کو قبول نہیں کرتا) جیسا کہ نبی کے لئے کان رکھتے ہیں جب وہ خوش آوازی کے ساتھ پکار کر قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی آواز کو پسند نہیں کرتے سوائے نبی کی آواز کے جب وہ خوش الحانی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔

خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھنا مسنون ہے

۸/۲۰۷۶ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۰۲/۱۳۔ حدیث رقم ۷۵۲۷۔ و ابوداؤد فی السنن ۱۵۵/۲ حدیث رقم ۱۴۶۹۔ والدارمی ۴۱۷/۱ حدیث رقم ۱۴۹۰۔ و احمد فی المسند ۱۷۲/۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہمارے کامل طریقہ پر نہیں ہے جو خوش آوازی کے ساتھ قرآن نہ پڑھے۔ اس کو بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کو خوش الحانی سے پڑھنا بہت خوب ہے بشرطیکہ حرف یا حرکت یا مد یا شد یا دور کسی چیز میں تغیر پیدا نہ ہو اور قرآن کریم کو راگ کے طور پر نہیں پڑھنا چاہیے اور جو شخص قرآن پاک کو جان بوجھ کر راگ لگا کر پڑھے گا۔ تو اس کا پڑھنا حرام ہوگا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔

آپ ﷺ کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قراءت کا سننا

۹/۲۰۷۷ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَقْرَأُ عَلَى قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ قَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَقَرَأْتُ سُورَةَ النَّسَاءِ حَتَّى آتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ لِإِذَا عَيْنَاهُ تَذَرٍ فَإِنْ . (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۹۴/۹۔ حدیث رقم ۵۰۰۰۔ ومسلم فی صحیحہ ۵۵۰/۱ حدیث رقم (۲۴۵-۷۹۹)۔ و

ابوداؤد فی السنن ۷۴/۴ حدیث رقم ۳۶۶۸۔ والترمذی ۲۲۲/۵ حدیث رقم ۳۰۲۵۔ واحمد فی المسند ۳۸۰/۱۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اس وقت جب آپ ﷺ منبر پر تشریف رکھتے تھے۔ میرے سامنے قرآن پڑھو۔ میں نے کہا کہ میں آپ ﷺ کے سامنے پڑھوں اس حال میں کہ آپ قرآن اتارا گیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی سے قرآن سنوں۔ پس ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ نساء پڑھی۔ یہاں تک کہ میں اس آیت تک پہنچا: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ پس (روز قیامت) یہود کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے (یعنی ہر امت کا نبی اپنے امتیوں کے احوال و افعال کے بارے میں گواہی دے گا) اور ہم آپ ﷺ کو اس امت کا گواہ بنا کر لائیں گے۔ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اب پڑھنا بند کر دیجئے۔ (اس لیے کہ اب میں اس آیت کے فکر کرنے میں مشغول ہوتا ہوں) پھر میں حضور ﷺ کی طرف متوجہ ہوا پس اچانک آپ ﷺ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم آپ ﷺ پر ہی اتارا گیا ہے یعنی قرآن مجید کا پڑھنا آپ ﷺ کا ہی حق ہے جیسا کہ اتارا گیا ہے دیا آپ ہی پڑھ سکتے ہیں اور کسی کو کیا جرأت کہ آپ ﷺ کے سامنے پڑھے اور آپ کا کہنا کہ میں پسند کرتا ہوں یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی دوسرے سے قرآن سنوں اور یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ عارف کو اس میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کہ کہا گیا ہے: من عرف الله كل لسانه اور ایک حالت عارف کی اور ہوتی ہے کہ اس کے حق میں یوں کہا گیا ہے: من عرف الله طال لسانه۔ الحاصل یہ کہ بعض اوقات عارف حالت تیر میں ہوتا ہے۔ سکون کرتا ہے اور بعض اوقات ہوشیار رہتا ہے اور حقائق و معارف وغیرہ بیان کرتا ہے اور دوسرے سے سننے میں فائدہ یہ ہے کہ معانی خوب سمجھ میں آتے ہیں اور فکر و سوچ کامل ہوتی ہے اور آیت مذکورہ سے مقصود قیامت کے دن کو یاد دلانا ہے اس لیے حضور ﷺ اس دن اپنی کمزور امت کے ضعف کو یاد کر کے روئے اور حضور ﷺ اپنی امت پر بڑے شفیق اور عنایت فرماتے تھے۔ صلی اللہ علیہ الف الف صلوٰۃ کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغفلون۔

آپ ﷺ کا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن پڑھنا

۱۰/۲۰۷۸ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بُدَّ لِي بِنِ كَعْبٍ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ قَالَ اللَّهُ سَمَّيْتُ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَكَذَلِكَ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ نَعَمْ فَلَزَلَتْ عَيْنَاهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّيْتُ قَالَ نَعَمْ فَبَكَى - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۷۲۵۱۸ - حدیث رقم ۴۹۶۰ - واحمد فی المسند ۲۱۸/۳ -

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ابی بن کعب سے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے آپ کے سامنے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا دو جہاں کے پروردگار کے سامنے نام لیا گیا ہے فرمایا کہ ہاں۔ پس ابی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھ پر سورۃ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ پڑھوں۔ ابی نے کہا: کیا میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں پس ابی رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حضرت ابی بن کعبؓ سب صحابہ کرامؓ میں سے بڑے قاری تھے کہ حضور ﷺ نے ان کے حق میں فرمایا تھا: اقر اکرم ابی۔ یعنی تم میں سب سے بڑے قاری ابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر میرا نام لیا ہے یہ بات عاجزی اور گنتائی کی وجہ سے تھی اور بطور تعجب کے کہی کہ میں اس مرتبہ کے کہاں لائق ہوں یا ازراہ ذوق ولذت کے کہا کہ یہ مرتبہ مجھ کو عطا ہوا اور ابی کا رونا خوشی کی وجہ سے تھا جو محبوب سے لطف وصال کے وقت آتا ہے اور حقیقت میں غم آنکھوں سے باہر نکلتا ہے اور خاص طور پر ﴿لَمْ يَكُنِ﴾ پڑھنے کا اس لیے حکم ہوا کہ یہ مختصر سورت ہے اور اس میں اصول دین کے بہت فوائد ہیں اور وعدہ وعید اور اخلاص وغیرہ کا ذکر ہے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماہر قرآن کے سامنے اور علم و فضل والے کے سامنے قرآن پڑھنا مستحب ہے۔ اگرچہ قاری سننے والے سے بہتر نہ ہو۔

قرآن کریم کو لے کر دشمن ملک کی طرف سفر نہ کرو

۱۱/۲۰۷۹ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافِرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ - (متفق عليه وفي رواية لمسلم)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳۳/۶ - حدیث رقم ۲۹۹۰ - ومسلم فی صحیحہ ۱۴۹۰/۳ - حدیث رقم (۹۲-۱۸۶۹) -

و ابوداؤد فی السنن ۸۲/۳ - حدیث رقم ۲۶۱۰ - وابن ماجہ ۹۶۱/۲ - حدیث رقم ۲۸۷۹ - واحمد فی المسند ۶/۲ -

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے قرآن کو لے کر دشمن ملک کی طرف سفر کرنے سے منع فرمایا ہے (یعنی دارالحرب کی طرف) اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ قرآن کو لے کر سفر نہ کرو۔ اس لیے کہ مجھے اطمینان نہیں ہے کہ دشمن اس کو لے لے۔

تشریح ❁ اگر کوئی کہے کہ قرآن پاک کا لکھنا حضور ﷺ کے زمانے میں نہ تھا بلکہ حضور ﷺ کے زمانے کے بعد ہوا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ نے قرآن مجید کو لے کر سفر کرنے سے منع فرمایا ہے

اس کا جواب یہ ہے اگرچہ تمام قرآن مصحف میں نہیں لکھا گیا تھا۔ لیکن جو کچھ نازل ہوتا تھا ہر کوئی اپنے لئے صحیفے میں لکھ کر رکھ لیتا یا آپ ﷺ نے غیب کی خبر دی کہ میرے زمانے کے بعد جو کچھ لکھا جائے گا اس کو کفار کے ملک میں لے کر نہ جانا اور بعض علماء نے کہا ہے کہ کلام اللہ دار الکفر کی طرف لے جانا مکروہ ہے اور اگر کوئی کفار کو خط بھیجے اور اس میں آیت لکھے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے اس لیے کہ حضور ﷺ نے ہر قل کے خط میں یہ آیت لکھی تھی: ﴿قُلْ يَا هَٰؤُلَاءِ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ۶۴)۔ واللہ اعلم۔

الفصل الثانی:

فقراء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے خوشخبری

۱۲/۲۰۸۰ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَلَسْتُ فِي عَصَابَةٍ مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَسِيرُ بَعْضُ مَنْ الْعُرَىٰ وَقَارِي يَقْرَأُ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتَ الْقَارِي فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قُلْنَا كُنَّا نَسْتَمِعُ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ أَمَرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَهُمْ قَالَ فَجَلَسَ وَسَطْنَا لِيُعَدِلَ بِنَفْسِهِ فِينَا ثُمَّ قَالَ بَيْنَهُ هَكَذَا فَتَحَلَّقُوا وَبَرَزَتْ وَجُوهُهُمْ لَهُ فَقَالَ أَبَشِّرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِكِ الْمُهَاجِرِينَ بِالنُّورِ النَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ يَنْصِفُ يَوْمَ ذَلِكَ خُمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ۔ (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود في السنن ۷۲/۴ حديث رقم ۳۶۶۶۔ واحمد في المسند ۶۳/۳۔

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں غرباء مہاجرین کی ایک کمرور جماعت کے درمیان بیٹھا تھا ان میں سے کچھ ننگے بدن ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور قاری ہمارے سامنے قرآن پڑھ رہا تھا کہ اچانک رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور ہمارے پاس کھڑے ہو گئے، پڑھنے والے نے جب آپ ﷺ کو کھڑے ہوئے دیکھا تو وہ چپ ہو گیا اس وقت آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا کہ ”تم لوگ کیا کر رہے ہو؟“ ہم نے عرض کیا کہ ہم کتاب اللہ سن رہے ہیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے میری امت میں وہ لوگ پیدا کئے ہیں جن کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں“ راوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ ہمارے درمیان بیٹھ گئے تاکہ آپ ﷺ کی ذات اقدس کا تعلق ہمارے سب کے ساتھ یکساں رہے پھر آپ ﷺ نے اپنی انگلی سے اس طرح اشارہ کیا کہ سب لوگ حلقہ بنا کر بیٹھ گئے اور ان سب کے چہرے آپ کی طرف ہو گئے اس کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”اے مہاجرین کی فقراء جماعت تمہیں قیامت کے دن بھرپور نور کی خوشخبری ہو اور تم مالدار لوگوں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور یہ آدھا دن پانچ سو برس کے برابر ہوگا۔“ (ابوداؤد)

قرآن کریم کو خوش الحانی سے پڑھا کرو

۱۳/۲۰۸۱ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ۔

(رواہ احمد و ابو داود وابن ماجہ والدارمی)

اخرجه ابو داود فی السنن ۱۵۵/۲۔ حدیث رقم ۱۴۶۸۔ والنسائی ۱۷۹/۲ حدیث رقم ۱۰۱۵۔ وابن ماجہ ۴۶۶/۱۔

حدیث رقم ۱۳۴۲۔ والدارمی ۵۶۵ حدیث رقم ۳۵۰۰۔ واحمد فی المسند ۲۸۵/۴۔

ترجمہ: حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو زینت دو۔ اس کو امام احمد ابو داؤد ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھا کرو اور زینت دینے سے مراد یہ ہے کہ ترتیل و تجوید اور نرم آواز کے ساتھ قرآن پڑھو اور زاگ لگا کر پڑھنا کہ حروف میں کمی یا زیادتی ہو یہ حرام ہے اس طرح کا پڑھنے والا فاسق ہوتا ہے اور سننے والا گنہگار ہوتا ہے اور ایسے شخص کو منع کرنا واجب ہے اس واسطے کہ یہ بہت بری عادت ہے۔

قرآن کو یاد کر کے بھول جانا بہت بڑا جرم ہے

۱۴/۲۰۸۲ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَمْرٍ يُفْقَرُ الْقُرْآنُ ثُمَّ يُنْسَاهُ

إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْدَمَ۔ (رواہ ابو داود والدارمی)

اخرجه ابو داود فی السنن ۱۵۸/۲ حدیث رقم ۱۴۷۴۔ والدارمی ۵۲۹/۲ حدیث رقم ۲۳۴۰۔ واحمد فی المسند ۲۸۴/۵۔

ترجمہ: حضرت سعد بن عبادہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے کوئی شخص کہ قرآن پڑھے اور پھر قرآن بھول جائے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔

تشریح: اس حدیث پاک میں قرآن پاک کو بھول جانے کی سزا کے بارے میں بتایا ہے کہ بھولنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے اور امام شافعیؒ کے نزدیک یہ ہے کہ یاد کیا ہو نہ پڑھ سکے۔ یا یہ معنی ہیں کہ اس کا پڑھنا چھوڑ دے بھولے یا نہ بھولے۔ حضرت مولانا شاہ اسحاقؒ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ استعداد والے کا بھولنا یہ ہے کہ یاد کئے ہونے کو نہ پڑھ سکے اور غیر استعداد والے کا بھولنا یہ ہے کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو سیکھنے اور یاد کرنے کے بعد بھول جانا بہت سخت گناہ ہے۔ پس ہم سب کو چاہیے کہ قرآن سے تغافل نہ برتیں اور کثرت سے اس کی تلاوت کریں۔

تین رات سے کم میں قرآن پاک ختم نہیں کرنا چاہیے

۱۵/۲۰۸۳ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي

أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ۔ (رواہ الترمذی و ابو داود والدارمی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۱۱۶/۲ حدیث رقم ۱۳۹۴۔ والترمدی ۱۸۲/۵ حدیث رقم ۳۳۴۹۔ واحمد فی المسند ۲۸۴/۵۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تین رات سے کم قرآن پڑھا (یعنی مکمل کیا) اس نے قرآن پاک کو خوب نہیں سمجھا۔ اس کو امام ترمذی ابو داؤد اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

فتح مبح ۴۰۰ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت میں علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے تین دن یا تین رات سے کم میں قرآن مکمل پڑھ لیا وہ قرآن کے ظاہری معنی تو سمجھ سکتا ہے لیکن اتنی جلدی قرآن پڑھ کر وہ قرآن کے حقائق و دقائق واہم نکات کو سمجھنے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ ان چیزوں کی فہم حاصل کرنے کے لئے تین دن تو کیا پوری عمریں صرف ہو جاتی ہیں لیکن تب بھی مکمل فہم حاصل نہیں ہو پاتی بلکہ اس مختصر سے عرصہ میں تو صرف ایک آیت یا ایک کلمہ کے حقائق و اہم نکات بھی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اس حدیث مبارکہ میں قرآن کریم کے سمجھنے کی نفی ہے نہ کہ ثواب کے حاصل ہونے کی۔ قرآن کی تلاوت پر ثواب تو ملتا ہی ہے لوگوں کی فہم میں بھی بہت فرق ہوتا ہے، بعض لوگ مضبوط فہم کے مالک ہوتے ہیں اس لئے وہ قرآن کے حقائق و دقائق کی فہم کم عرصہ میں حاصل کر لیتے ہیں جبکہ بعض لوگ کمزور فہم کے مالک ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ قرآنی حقائق و دقائق کو طویل عرصہ میں بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔

بعض سلف صالحین کا عمل اس حدیث کے ظاہری مفہوم پر ہے وہ ہمیشہ تین دن میں قرآن مکمل کرتے تھے اور تین دن سے کم میں قرآن مکمل کرنے کو نکر وہ خیال کرتے تھے، بعض لوگوں کا عمل اس کے برعکس تھا، وہ ایک دن اور رات میں ایک مرتبہ قرآن مکمل کرتے تھے اور بعض لوگ دو مرتبہ اور بعض لوگ تین مرتبہ قرآن مکمل کرتے تھے۔ بعض لوگوں کا معمول یہ ہے کہ وہ ایک رکعت میں قرآن مکمل کرتے تھے۔ ممکن ہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ حکم اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہے یا حدیث میں فہم کی نفی کی ہے نہ کہ ثواب کی۔ واللہ اعلم۔ مولانا۔

اور بعض حضرات نے اس کے ظاہر پر عمل نہیں کیا چنانچہ بعض دو مہینے میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے اور بعض لوگ ہر مہینے میں ختم کرتے تھے اور بعض لوگ دس دن میں اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی معمول تھا۔ اور بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سات دن میں پڑھو اور اس پر زیادہ نہ کرو اور اس کو ختم الاحزاب کہتے ہیں۔ اور بہتر ترکیب اس کی فی بشوق ہے۔ یہ قید ملا علیؒ نے اس لیے نکالی ہے کہ بعضوں نے ختم الاحزاب اس کو لکھا ہے کہ جمعہ کے دن ابتدائے قرآن سے سورۃ مائدہ کے آخر تک پڑھے اور ہفتہ کے دن سورۃ انعام سے سورۃ توبہ کے آخر تک پڑھے اور اتوار کو سورۃ یونس سے سورۃ مریم کے آخر تک پڑھے اور پیر کو طے سے کر آخر سورۃ قصص تک پڑھے اور منگل کو سورۃ عنکبوت سے لے آخر ص تک اور بدھ کو سورۃ زمر سے آخر الرحمن تک پڑھے اور جمعرات کو سورۃ واقعہ سے آخر قرآن تک پڑھے۔ اس طرح ختم قرآن کو علماء نے قضائے حاجات کے لیے مجرب لکھا ہے۔

اس طرح ختم فی بشوق کو کشائش رزق کے لیے اور حاجت روائی کے لیے مجرب کہا ہے اور اس کو بھی جمعہ سے شروع کرے۔ کذا فی المعنی المطالب حاصل اس کا یہ ہے کہ ختم فی بشوق اور ہے اور ختم الاحزاب اور ہے۔

اور ملا علی قاریؒ کے قول کا حاصل یہ ہے کہ ختم احزاب کی بہت حدیثیں علماء نے لکھی ہیں لیکن صحیح تر ترتیب فی بشوق ہے لہذا دونوں ایک ہی ہوئے۔ اس کی ترتیب فی بشوق ہے یعنی سات دن میں سات منزلیں۔ اس طرح پڑھے کہ ان کے سروں پر

حروف فی بشوق کے واقع ہے اس کا بیان یہ ہے۔

ف سے اشارہ سورۃ فاتحہ کی طرف ہے اور میم سے سورۃ مائدہ کی طرف اشارہ ہے اور ی سے سورۃ یونس کی طرف اشارہ ہے اور ب سے بنی اسرائیل کی طرف اور شین سے شعراء کی طرف اشارہ ہے اور واؤ سے والصفات کی طرف اشارہ ہے اور ق سے سورۃ ق کی طرف اشارہ ہے۔ اس ترتیب کی نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کرتے ہیں کہ ان سے منقول ہے اور علامہ نوویؒ نے کہا ہے کہ مختار یہ ہے کہ یہ اشخاص کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہے۔ پس جس کو کلام اللہ کے دقائق و معارف خوب سمجھتے ہوں اور وہ اس قدر پر اقتصاد کرے کہ اس کو اس چیز کا کمال فہم حاصل ہو جو وہ پڑھے اور جو شخص علم کے پھیلانے میں مصروف ہو۔ یا جھگڑوں کے فیصلہ کرنے میں مصروف ہو۔ تو وہ اتنی مقدار میں پڑھے کہ اس کے کام میں خلل نہ آئے اور جو شخص علم حاصل کرنے میں اور اہل و عیال کے نفقہ حاصل کرنے میں مشغول ہو۔ اس کے لیے بھی حکم ہے اور جو شخص ان میں سے نہ ہو۔ پس وہ بہت زیادہ پڑھے جس قدر پڑھ سکتا ہے بشرطیکہ حد مالا کو نہ پہنچ جائے اور پڑھنے میں سرعت نہ کرے۔

قرآن پاک کو اُوچی اور آہستہ آواز سے پڑھنے کی بہترین مثال

۱۶/۲۰۸۳ وَعَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاهُ بِالْقُرْآنِ كَالنَّجَاهِ بِالصَّدَقَةِ

وَالْمَيْسِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْمَيْسِرِ بِالصَّدَقَةِ۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد و النسائی و قال الترمذی هذا حدیث حسن غریب)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۸۳/۲ حدیث رقم ۱۳۳۳۔ و الترمذی فی السنن ۱۶۵۵ حدیث رقم ۲۹۱۹۔ و النسائی ۸۰/۵

حدیث رقم ۲۵۶۱۔ و احمد فی المسند ۱۵۱/۴۔

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ پکار کر قرآن پڑھنے والا ظاہری طور پر صدقہ دینے والے کی طرح ہے اور قرآن کا آہستہ پڑھنے والا خاموشی سے صدقہ دینے والے کی طرح ہے۔ اس کو امام ترمذی ابوداؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چپکے سے قرآن پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے یعنی چپکے سے جو صدقہ نفل ادا کرے۔ تو اس کو ظاہری طور پر صدقہ دینے کی بہ نسبت ثواب زیادہ ہے۔ تو لیکن اس طرح چپکے سے پڑھنا پکار کر پڑھنے سے افضل ہے۔

علامہ طبریؒ نے کہا ہے کہ اُوچی آواز سے پڑھنے کے بارے میں اور چپکے سے پڑھنے کے بارے میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ پس تطبیق ان میں یوں دی گئی ہے کہ خاموشی سے پڑھنا اس کے لئے افضل ہے کہ جو ریاضت یا کاری سے ڈرتا ہو اور پکار کر پڑھنا اس کے لئے افضل ہے کہ جو ریاضت یا کاری کا خوف نہ رکھتا ہو۔ بشرطیکہ بلند آواز سے پڑھنے والا نمازیوں میں سے کسی کو یا سونے والوں کو تکلیف نہ دے اور پکار کر پڑھنا اس لئے افضل ہے کہ اس کا نفع دوسروں کو بھی پہنچتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں، سیکھتے ہیں یا ذوق و شوق رکھتے ہیں یا پکار کر پڑھنا اس لئے افضل ہے کہ یہ شعار دین میں سے ہے اور قاری کے دل کو بیدار کرتا ہے اور کسی اور طرف دھیان تقسیم ہونے نہیں دیتا اور پڑھنے والے کے دل سے نیند کو دور کرتا ہے اور دوسروں کو عبادت کا شوق دلاتا ہے۔ پس جس کی ان تینوں میں سے کوئی نیت ہو اس کے لئے پکار کر پڑھنا افضل ہے۔

جس شخص کو حلال و حرام کی تمیز نہیں گویا کہ اس کا قرآن پر عمل نہیں ہے

۱۷/۲۰۸۵ وَعَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ بَالِقُرْآنٍ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ

(رواہ الترمذی وقال هذا حدیث لیس اسنادہ بالقوی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۶۵۰۵ حدیث رقم ۲۹۱۸۔

ترجمہ: حضرت صہیبؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے حرام کو حلال جانا۔ اس کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کی اسناد قوی نہیں ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے جس شخص نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال جانا۔ وہ مطلقاً کافر ہو گیا یا یہ معنی ہے کہ وہ قرآن پاک پر کامل ایمان نہیں لایا اس لیے کہ اس نے حرام چیزوں کے ساتھ حلال والا معاملہ اختیار کیا ہے یعنی وہ حرام و ممنوع چیزوں کا مرتکب ہوا۔ قرآن پر ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرے جیسا کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے۔ جیسے محبت کا حق یہ ہے کہ محبوب کی پیروی کرے۔

آپ ﷺ کی قراءت کا بیان

۱۸/۲۰۸۶ وَعَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلُوكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِيَ تَنْتَعُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد والنسائی)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۱۵۴۱۲ حدیث رقم ۱۴۶۶۔ والترمذی ۱۶۷۰۵ حدیث رقم ۲۹۲۳۔ والنسائی ۱۸۱۱۳

حدیث رقم ۱۰۳۲۔

ترجمہ: حضرت لیث بن سعدؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے انہوں نے یعلیٰ بن مملوک سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے ام سلمہؓ سے نبی کریم ﷺ کی قراءت کا حال پوچھا پس ام سلمہؓ نے آپ ﷺ کی قراءت کے بارے میں بیان کیا کہ جدا جدا حرف ہوتے تھے۔ اس کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے ابوداؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں حضور ﷺ کی قراءت کا بیان ہے کہ آپ ﷺ اس طرح قراءت فرماتے تھے کہ قراءت کے حروف کا گنتا ممکن ہوتا تھا اس سے مراد یہ ہے کہ خوب ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے اور علامہ طبریؒ نے کہا کہ ام سلمہؓ کا بیان کرنا دو احتمال رکھتا ہے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور ﷺ اس طرح پڑھتے تھے اور دوسرے یہ کہ ام سلمہؓ نے ترتیل کے ساتھ قراءت پڑھی جیسا کہ حضور ﷺ پڑھا کرتے تھے۔ ابن عباسؓ نے فرمایا مجھے پسند ہے کہ صرف ایک سورت ترتیل کے ساتھ پڑھوں بجائے اس کے کہ سارا قرآن بغیر ترتیل کے پڑھوں۔

آپ ﷺ سے ترتیل و تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا منقول ہے

۱۹/۲۰۸۷ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُولُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ثُمَّ يَقِفُ - (رواہ الترمذی وقال ليس اسناده بمتصل لان اللبث روى هذا الحديث عن ابن ابي مليكة عن يعلى بن مملك عن ام سلمة وخديث اللبث اصح)

اخرجه ابو داؤد في السنن ۲۹۴/۴ حديث رقم ۴۰۰۱ - والترمذی ۱۷۰/۵ حديث رقم ۲۹۲۷ - واحمد في المسند ۳۰۲/۶ -
ترجمہ: ابن جبر سے روایت ہے انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ قراءت کو جدا جدا کر کے پڑھتے تھے الحمد للہ رب العالمین پڑھتے تھے اور پھر جاتے تھے پھر الرحمن الرحیم پڑھتے اور پھر جاتے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند متصل نہیں ہے اس لیے کہ لیث نے یہ حدیث ابن ابی ملیکہ سے روایت کی ہے اس نے یعلیٰ بن مملک سے نقل کی ہے اس نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نقل کی ہے۔ جیسے کہ پہلی حدیث میں گزر چکا ہے اور لیث کی حدیث متصل اور صحیح تر ہے۔

تشریح ✽ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ روایت حجت کے لائق نہیں ہے اور اہل بلاغت اس کو پسند نہیں کرتے اور ملک یوم الدین پر وقف تام ہے اس لیے لیث کی حدیث صحیح ہے علامہ طیبی نے اس کو ذکر کیا ہے اور جمہور کے نزدیک ایسی آیتوں میں وصل اولیٰ ہے جو آپس میں مربوط و متعلق ہیں اور جزری کہتے ہیں کہ وقف مستحب ہے انہوں نے اسی حدیث کے ساتھ دلیل پکڑی ہے اور اسی پر شافعیہ بھی ہیں اور جمہور علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ وقف اس لیے تھا تا کہ سننے والے کو آیتوں کے سرے معلوم کروادیں۔ واللہ اعلم۔

الفصل الثالث:

قرب قیامت میں لوگ دنیاوی مقاصد کے لیے قرآن پڑھیں گے

۲۰/۲۰۸۸ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَفِينَا الْأَعْرَابِيُّ وَالْأَعْجَمِيُّ فَقَالَ اقْرَأُوا فَكُلُّ حَسَنٍ وَسَيِّئَةٍ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يَقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ - (رواہ ابو داؤد والبیہقی فی شعب الایمان)

اخرجه ابو داؤد في السنن ۵۲۰/۱۱ حديث رقم ۸۳۰ - واحمد في المسند ۱۵۵/۳ - والبیہقی فی شعب الایمان ۵۳۸/۲ -
 حدیث رقم ۲۶۴۲ -

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ہماری طرف نکلے اس حال میں کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم میں سے کچھ انوار اور عجمی بھی تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا پڑھو تم میں سے ہر ایک شخص اچھا پڑھتا ہے اور ایک قوم آئے گی کہ قرآن کو ایسا سیدھا کرے گی جیسا کہ تیر سیدھا کیا جاتا ہے قرآن کا بدلہ دنیا میں جلدی چاہیں گے اور آخرت پر نہیں چھوڑیں گے۔ اس کو ابو داؤد اور بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح ✽ ”عجمی“ سے مراد ایسے لوگ جو اہل عرب میں سے نہ ہوں۔ اس حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ جس مجلس کا

تذکرہ فرما رہے ہیں اس میں ایسے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تشریف فرما تھے جو اہل عرب میں سے نہیں تھے بلکہ اہل فارس اہل روم اور حبشہ کے رہنے والے تھے۔ جیسے کہ حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم۔ اگرچہ دیہات والوں اور عجمیوں کی قراءت اہل عرب کی قراءت کی طرح نہیں تھی اس کے باوجود آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری قراءت اچھی اور ثواب کے لائق ہے اور تمہارے بعد ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ وہ قرآن کو ایسا سیدھا کریں گے جیسا کہ تیر سیدھا کیا جاتا ہے یعنی الفاظ اور کلمات قرآن کو خوب سنواریں گے اور مخرجوں کی رعایت میں خوب تکلف کریں گے دکھانے اور سنانے کیلئے فخر و شہرت کے لیے۔ قرآن کریم کا بدلہ دنیا میں جلدی چاہیں گے اور آخرت کے لیے نہیں رکھیں گے یعنی دنیا کے فائدے کے لیے قرآن پڑھیں گے۔ آخرت کے ثواب کی کچھ غرض نہیں رکھیں گے۔ پس وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے اور دین کو دنیا کے بدلے بیچیں گے۔ الحاصل یہ کہ قرآن کے پڑھنے کے لیے خلوص چاہیے اور اس کے معانی میں فکر کرنا چاہیے محض الفاظ مخارج سے نکالنے اور خوش آوازی سے پڑھنا کام نہیں آتا۔

عرب کے لہجوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا پسندیدہ۔

۲۱/۲۰۸۹ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُغَتِهَا وَأَصْوَاتِهَا وَأَيَّانُكُمْ وَلُحُونُ أَهْلِ الْعَشَقِ وَلُحُونُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَسَيَجِيءُ بَعْدِي قَوْمٌ يَرَوْنَ الْقُرْآنَ كَمَا يَرَوْنَ النُّجُومَ تَرْجِعُ الْغِنَاءَ وَالنُّوحَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ مَفْتُونَةٌ قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ۔

اخرجه البيهقي في شعب الایمان ۵۴۵۰/۲۲ حدیث رقم ۲۶۶۹۔

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو عرب کے طریقوں پر اور ان کی آواز پر پڑھو اور تم اہل عشق کے طریقے سے اور اہل کتاب کے طریقوں سے بچو اور میرے بعد ایک قوم آئے گی جو قرآن کو بطور راگ اور نوحہ کے پڑھیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ قرآن ان کے حلقوں سے متجاوز نہیں ہوگا۔ یعنی قبول نہیں ہوگا ان کے دل فتنہ میں پڑے ہو گئے اور ان لوگوں کے دل بھی جن کو ان کا پڑھنا اچھا لگے گا۔ اس کو بیہوشی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ عرب کے لہجوں میں قرآن کو پڑھا کرو۔ کیونکہ عرب لوگ بلا تکلف اور اپنے دل کی امنگ سے قوانین موسیقی کی رعایت کیے بغیر پڑھتے ہیں۔ اس طرح تم بھی پڑھو اور اصوات کا لفظ عطف تفسیری ہے اور اہل عشق کے طریقوں سے بچو۔ یعنی جو لوگ عاشق ہیں اور غزلیں اور شعر پڑھتے ہیں اور قواعد موسیقی کی رعایت کرتے ہیں ان کے طریقے پر قرآن نہ پڑھو اور یہود و نصاریٰ بھی اپنی کتابوں کو اس کی طرح پڑھتے تھے۔ اس طرح پڑھنے سے حضور ﷺ نے منع فرمایا ہے اور ان کے دل فتنہ میں پڑے ہو گئے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ دنیا میں مبتلا ہوں گے اور لوگوں کے اچھا کہنے کی وجہ سے مزید ضلالت میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کو اچھا کہنے والے بھی گمراہی میں مبتلا ہوں گے۔

قرآن کو اچھی آوازوں کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے

۲۲/۲۰۹۰ وَعَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتِ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا۔ (رواه الدارمی)

اخرجه الدارمی فی السنن ۵۱۵/۲ حدیث رقم ۳۵۰۱۔

ترجمہ: حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا کہ فرماتے تھے اپنی آوازوں کے ساتھ اچھی طرح قرآن پڑھو۔ یعنی ترتیل و خوش آوازی سے پڑھو۔ اس لیے کہ اچھی آواز قرآن میں خوبی کو زیادہ کرتی ہے۔ اس کو دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو اچھی آوازوں کے ساتھ پڑھا کرو۔ یعنی ترتیل و تجوید کی رعایت کرنے اور خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے کو آپ ﷺ نے پسند کیا ہے۔ اس لیے کہ اچھی آواز کے ساتھ قرآن کو پڑھنا حسن کو بڑھا دیتا ہے۔

ترتیل و تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا اچھا ہے

۲۳/۲۰۹۱ وَعَنْ طَاوُوسٍ مَرْسَلًا قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَى النَّاسِ أَحْسَنُ صَوْتًا لِلْقُرْآنِ وَأَحْسَنُ قِرَاءَةً قَالَ مَنْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ أَرَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ قَالَ طَاوُوسٌ وَكَانَ طَلْقٌ كَذَلِكَ۔

(رواه الدارمی)

اخرجه الدارمی فی السنن ۵۶۳/۲ حدیث رقم ۳۴۸۹۔

ترجمہ: حضرت طاووسؓ سے بطریق ارسال روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ آدمیوں میں سے قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنے والا اور عمدہ قراءت والا کون ہے؟ فرمایا: وہ شخص کہ جب تو اس کو پڑھتے ہوئے سنے تو محسوس کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے طاووسؓ نے کہا کہ حضرت طلق ایسے ہی تھے کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو معلوم ہوتا کہ اللہ کا خوف ان پر غالب ہے۔ اس کو دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ترتیل و تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کو اللہ کے نبی ﷺ نے پسند کیا ہے یعنی پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ یعنی اس کے پڑھنے کی تیرے دل میں تاثیر ہو یا اس پر خوف الہی کی نشانیاں ظاہر ہوں۔ رنگ کے متغیر ہونے اور کثرت سے رونے کی وجہ سے اور طلق کے بارے میں آیا ہے کہ وہ تابعی تھے اور مؤلف نے لکھا ہے کہ وہ صحابی تھے۔

قرآن پاک کا صحیح حق ادا کرو

۲۴/۲۰۹۲ وَعَنْ عُبَيْدَةَ الْمَلِكِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَهْلَ

الْقُرْآنَ لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْآنَ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رَوَافِشُهُ وَتَغْتَوُّهُ وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ وَلَا تَعْجَلُوا ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا - (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۷۳/۵ - ح دث رقم ۲۳۱۹ - ومسلم فی صحیحہ ۵۶۰۱/۱ حدیث رقم (۲۷۰-۸۱۸) - و ابوداؤد فی السنن ۱۵۸/۲ حدیث رقم ۱۴۷۵ - والترمذی ۱۷۷/۵ حدیث رقم ۲۹۴۳ - والنسائی ۱۵۰/۲ حدیث رقم ۹۳۶ - ومالك فی الموطا ۲۰۱/۱ حدیث رقم ۵ من كتاب القرآن - واحمد فی المسند -

ترجمہ: حضرت عبیدہ ملک بن جریج جو حضور ﷺ کے صحابی تھے سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے اہل قرآن! قرآن سے تکیہ نہ لگاؤ اور قرآن مجید کو دن رات پڑھو جس طرح پڑھنے کا حق ہے اور قرآن کو ظاہر کرو اور خوش آوازی سے پڑھو اور اس چیز میں فکر کرو جو اس میں ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور ثواب حاصل کرنے میں جلدی نہ کرو یعنی دنیا میں اس کا بدلہ نہ مانگو اس لیے کہ اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں قرآن پاک کے آداب بیان کیے گئے ہیں قرآن کریم کے ساتھ تکیہ نہ لگاؤ کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت قرآن سے غفلت نہ برتو اور اس کے حقوق ادا کرو بلکہ قرآن پڑھا کرو اور اس کے حقوق بھی ادا کرو کہ اس کے حروف اچھی طرح ادا کرو اور اس کے معانی سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ علامہ ابن حجرؒ نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی طرف تکیہ لگانا اس کی طرف پاؤں پھیلانے، کسی چیز کا اس پر رکھنا، اس کی طرف پیٹھ کرنی، اس کو روندنا اور پھینکنا، اس میں فال نکالنی مکروہ ہے اور بعض مالکیہ کے نزدیک حرام ہے اور اس کے صحیح پڑھنے کا حق ادا کرو۔

اور اس کے حقوق کے متعلق چار باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ لفظوں کو درست پڑھنا اور دوسرے معنی و مفہام کو سمجھنا اور تیسرے معانی کا مقصد سمجھنا اور چوتھے اس کے موافق عمل کرنا۔ قرآن کریم کو پکار کر پڑھو اور تعلیم کرو اور عمل کرو اور اس کو لکھو اور تعظیم کرو اور فکر کرو۔ یعنی جو آیتیں تنبیہ اور وعید کی ہیں اور قیامت کے بارے میں ہیں ان میں خوب غور و فکر کرو۔

الفصل الاول:

قرآن کریم کو سات قراءتوں میں پڑھنے کی اجازت ہے

۱/۲۰۹۳. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنَ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأَهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَ بِهَا فَكَذْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَهْلَنَّهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبِيتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتُ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلُهُ أَقْرَأَ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَنْزَلْتُ ثُمَّ قَالَ لِي أَقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هَكَذَا أَنْزَلْتُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۷۰/۵ حدیث رقم ۲۴۳۰ - واحمد فی المسند ۴۱۲/۱ -

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام سے سنا کہ وہ اس سورۃ فرقان کی اس طریقے کے خلاف تلاوت کر رہے تھے جس طریقے کے مطابق میں تلاوت کرتا تھا اور جس طریقے کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے مجھے پڑھائی تھی۔ قریب تھا کہ میں ان سے لڑ پڑوں (یعنی سورۃ فرقان کی تلاوت ختم کرنے سے پہلے میں ان پر جھپٹ پڑوں) لیکن میں نے ان کو اتنی مہلت دی کہ وہ پڑھنے سے فارغ ہو جائیں۔ پھر میں نے ان کی گردن میں چادر ڈالی اور ان کو کھینچتا ہوا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے آیا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے ان کو سورۃ فرقان اس طریقے کے خلاف پڑھتے ہوئے سنا ہے جس طریقے کے مطابق آپ ﷺ نے مجھے وہ سورت پڑھائی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے عمر! اس کو چھوڑ دے۔ پھر آپ ﷺ نے ہشام سے کہا کہ پڑھو ہشام نے اسی طریقے کے مطابق پڑھا جس طریقے کے مطابق میں نے انہیں پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ آپ ﷺ نے ان کی قراءت سن کر فرمایا کہ یہ سورت اسی طرح نازل کی گئی ہے پھر آپ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ تم پڑھو جب میں نے پڑھا تو آپ ﷺ نے میری قراءت سن کر فرمایا کہ یہ سورت اسی طرح نازل کی گئی ہے۔ بلاشبہ قرآن سات قراءتوں پر نازل کیا گیا ہے۔ پس تم ان قراءتوں میں سے جس طریقے سے ہو سکے پڑھو۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔

تشریح: اس حدیث کے معنوں میں علماء کا بہت اختلاف ہے۔ تقریباً چالیس کے قریب قول آتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ حدیث مشابہات سے ہے اور اس کے معنی اچھی طرح کسی کو معلوم نہیں ہیں بعض حضرات نے کہا ہے کہ قراءتوں کی تعداد اگرچہ زیادہ ہے سات طرح سے۔ لیکن وہ سات وجہوں کی طرف ہی راجع ہیں پہلی وجہ ہے کلمہ کا مختلف ہونا اس کی ذات میں زیادتی کے ساتھ۔ اور دوسری وجہ جمع اور واحد کے صیغوں میں تبدیلی کا ہونا تیسری وجہ مذکورہ مؤنث کا اختلاف ہے۔

اور چوتھی وجہ حروف کا صرنی اختلاف ہے یعنی حرف کا تخفیف اور تشدید اور فتح اور کسرہ اور ضمہ کا اختلاف جیسے مِیت اور مِیت اور یَقْنِطُ اور یَقْنُطُ اور یَعْرُشُ اور یَعْرِشُ۔ پانچویں نمبر پر حرکات کا مختلف ہونا۔ چھٹے نمبر پر حروف کا اختلاف جیسے لکن الشیاطین۔ بعض لوگوں نے اس کو کون کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے اور بعضوں نے تخفیف نون کے ساتھ پڑھا ہے اور ساتواں اختلاف لغات کا ہے جیسے تفخیم اور مالہ اور کتاب العلم میں اس کے معنی مفصل لکھے گئے ہیں۔

قراءت میں اختلاف کرنے کی ممانعت

۲/۲۰۹۴ وَعَنِ ابْنِ مَسْوُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ خِلَافَهَا فَبِغْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقَالَ كَلَامًا مُحْسِنًا فَلَا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا۔ (رواہ البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۷۰/۵ حدیث رقم ۲۴۳۰۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو پڑھتے ہوئے سنا اور میں نے نبی کریم ﷺ کو سنا کہ اس کے خلاف پڑھتے تھے پس میں اس شخص کو نبی کریم ﷺ کے پاس لے آیا اور میں نے آپ کو خبر دی۔ چنانچہ میں نے نبی کریم ﷺ کے چہرے پر بوجھ جھڑنے اور اختلاف کے ناگواری کے آثار محسوس کیے۔ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا

دونوں اچھا پڑھتے ہیں پس اختلاف نہ کرو۔ پس جن مخصوص نے تم سے پہلے آپس میں اختلاف کیا تھا۔ وہ ہلاک ہو گئے۔ اس کو امام بخاریؒ نے روایت کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں اختلاف سے مراد وجہ قرآن میں سے کا ایک وجہ کا انکار ہے جس کے مطابق قرآن ان پر اتارا گیا ہے اور تمام قراءتیں برحق ہیں۔ کسی کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور اگر ایک کا ان میں سے انکار کیا تو قرآن کریم کا انکار کیا اور بعض قراءتیں متواتر ہیں اور بعض احاد۔ متواتر وہ سات قراءتیں ہیں کہ جو پڑھی جاتی ہیں۔

قرآن کریم کی مختلف قراءت کا مسئلہ

۳/۲۰۹۵ وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّيُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سَوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سَوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ وَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ أَحَسَنَ شَأْنَهُمَا فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلَا اذْكُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ غَشِيَنِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي فَفَضْتُ عَرَفًا وَكَانَمَا نَظَرُ إِلَى اللَّهِ قِرَاءَةً فَقَالَ لِي يَا أَبَتِي أُرْسِلْ إِلَيَّ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حُرُوفٍ فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوْنٌ عَلَيَّ أَمْتِي فَرَدَّ إِلَيَّ الْغَائِنَةَ أَقْرَأُ هُوَ عَلَى أَمْتِي فَرَدَّ إِلَيَّ الْغَائِنَةَ أَقْرَأُ هُوَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُوفٍ وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُهَا مَسْأَلَةً تَسْأَلِيهَا فَقُلْتُ االلَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَمْتِي االلَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَمْتِي وَآخَرْتُ الْغَائِنَةَ لِيَوْمَ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۵۶۱/۱ حدیث رقم (۲۷۳ - ۸۲۰)۔ واحمد فی المسند ۱۲۴/۵۔

ترجمہ: حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے لگا پس اس نے نماز میں یا نماز کے بعد ایسی قراءت پڑھی کہ میں نے اپنے دل یا زبان سے اس کا انکار کر دیا پھر ایک اور شخص مسجد میں داخل ہوا پس اس نے پہلے شخص کے خلاف قراءت پڑھی پس جب ہم نماز پڑھ چکے تو ہم سب نبی کریم ﷺ کے پاس آئے۔ پس میں نے کہا کہ تحقیق اس شخص نے قراءت پڑھی ہے کہ میں نے اس کی قراءت کا انکار کر دیا ہے اور ایک دوسرا شخص آیا پس اس نے پہلے پڑھنے والے کے خلاف قراءت کی۔ نبی کریم ﷺ نے ان دونوں کو حکم دیا اور انہوں نے پڑھا تو آپ ﷺ نے ان دونوں کی قراءت کی تحسین کی۔ پس میرے دل میں تردد شبہ ڈالایا گیا ہے۔ اور ایسا شبہ نہیں تھا جو کہ زمانہ جاہلیت میں تھا بلکہ جاہلیت کے تردد شبہ سے بھی زیادہ شبہ دل میں آیا تھا پھر نبی کریم ﷺ نے وہ کیفیت دیکھی کہ جس نے مجھ کو ڈھانک لیا تھا۔ یعنی حضور ﷺ نے معلوم کیا کہ میرے دل میں شبہ ہے تو آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا۔ تو آپ ﷺ کے دست مبارک کی برکت سے وساوس جاتے رہے۔ تو میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ گویا میں میں ڈر کے مارے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا ہوں اور مجھے فرمایا اے ابی میری طرف فرشتہ بھیجا گیا ہے یعنی جبریل علیہ السلام کہ قرآن پڑھو ایک طریقے پر یعنی ایک قراءت پر یا ایک لغت پر تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے تکرار کیا کہ میری امت پر کئی قراءتوں پر پڑھنے کی اجازت دے کر آسانی پیدا کر دے ایک طریق سے پڑھنے میں دشواری ہے پھر

میری طرف دوسری بار حکم کیا گیا کہ قرآن کو پڑھو دھریوں پر میں نے تکرار کیا یہ کہ آسان کر دے میری امت پر یعنی اور زیادہ آسان کر دے پھر میری طرف تیسری بار حکم دیا گیا کہ قرآن مجید کو سات طریقوں سے پڑھو۔ یعنی سات قراءتیں یا سات لغات پر اور تیسرے ہر بار کے سوال و جواب کے عوض تمہیں ایک دعا کا اختیار ہے کہ مجھ سے مانگو۔ پس اس نے کہا یا الہی! بخش میری امت کو یعنی اہل کبار کو یا الہی بخش دے میری امت کو یعنی اہل صغار کو اور تیسرے سوال کی میں نے تاخیر کی ہے اس دن کے لیے جس دن تمام مخلوق یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام میری طرف خواہش کریں گے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ حدیث میں جو لفظ آیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ چکے ظاہر ہے کہ وہ نماز مخفی کی تھی یا کوئی اور نفل نماز تھی اور شبہ اور تردد ڈالا گیا جھٹلانے سے یعنی اسی وجہ سے کہ حضور ﷺ کے دونوں قراءتوں کو اچھا کہا ہے کہ اللہ کا کلام ایک طریقے پر ہونا چاہیے کہ ہر کوئی ہر طرح پڑھ سکے فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں تردد و شبہ اتنا زیادہ سخت نہیں تھا کیونکہ میں جاہل تھا اور تکذیب کا وقوع اس حالت میں اتنا بعید اور بڑا معلوم نہیں ہوتا تھا اور یقین و معرفت کے حاصل ہونے کے بعد بڑا معلوم ہوا اور تیسرے ہر بار کے عوض یعنی تین بار تو نے سوال کیا اور تین بار میں نے جواب دیا یعنی ایک بار ایک قراءت کے مطابق اور دوسری بار قراءت کے مطابق اور تیسری بار سات قراءت کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا۔ اور اب آپ ﷺ ان کے عوض تین سوال کریں تاکہ میں قبول کروں پس نبی کریم ﷺ نے تینوں سوال مغفرت ہی کے لیے اس لئے کہ اصل چیز مغفرت ہے اگر مغفرت نہ ہو تو کسی کی خلاصی ممکن نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾۔

لیکن مغفرت کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے دو حصے تو اپنی امت کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے مانگے اور تیسرا حصہ تمام مخلوق یعنی اولین و آخرین کے لئے رکھا اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں کہ قیامت کو سب نفسی نفسی کہتے ہونگے اور آخر میں حضور ﷺ سے شفاعت کی آرزو کریں گے اور حضور ﷺ سب کی شفاعت کریں گے اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ وہ ہمارے نبی اکرم ﷺ کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہیں۔

اختلاف قراءت کا بیان

۳/۲۰۹۶ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَقْرَأْنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَأَيْتُهُ قَلَّمَ أَوَّلَ اسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرَافٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ بَلَّغْنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةُ الْأَحْرَافُ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ تَكُونُ وَاحِدًا لَا تَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳۴۸/۸ - حدیث رقم ۴۹۹۱ - وامسلم فی صحیحہ ۵۶۱۱/۱ حدیث رقم (۸۱۹/۲۷۲)

واحمد فی المسند ۲۶۴۱ -

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے پہلی بار مجھے ایک طریقے پر پڑھایا۔ میں پھر میں نے اللہ رب العزت سے یا جبریل علیہ السلام سے تکرار کیا۔ پس میں ہمیشہ زیادہ کروا تا رہا

یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادتی طلب کرتا رہا۔ یا جبریل علیہ السلام سے زیادتی طلب کرتا رہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادتی طلب کریں اور وہ میرے لیے زیادہ کرتا تھا یہاں تک جبریل علیہ السلام یا امر قراءت سات طریقوں پر پہنچ گیا۔ ابن شہاب زہری تابعی نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ دین کے کام میں سہل طریقے نہیں ہیں۔ مگر ایک میں متفق و متحد ہیں کہ حلال و حرام میں اختلاف نہیں ہے۔ اس کو بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ قراءت کے اختلاف قراءت سے حکم متبدل نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ایک قراءت سے ایک چیز کے حلال ہونے کا حکم معلوم ہوا تو دوسری قراءت سے اس چیز کے حرام ہونے کا حکم معلوم ہوا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا بلکہ اگر ایک قراءت سے حکم ایک چیز کے حلال ہونے کا معلوم ہوا تو دوسری قراءت سے بھی یہی معلوم ہوگا۔

الفصل الثالث:

قراءت کا مختلف ہونا آسانی کا باعث ہے

۵/۲۰۹۷ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ فَقَالَ يَا جِبْرِيلُ إِنِّي بَعُثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيئِينَ مِنْهُمْ الْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْغُلَامُ وَالْحَارِثَةُ وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يقرأ كِتَابًا قَطُّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ (رواه الترمذی) وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ قَالَ لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ أَتَانِي فَقَعَدَ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِي وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِي فَقَالَ جِبْرِيلُ اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ قَالَ مِيكَائِيلُ اسْتِزِدْهُ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرَفٍ فَكُلُّ حَرْفٍ شَافٍ كَافٍ

الخرجه ابو داؤد فی السنن ۱۶۰/۲ حلیت رقم ۱۴۷۷۔ والترمذی ۱۷۸/۵ حلیت رقم ۲۹۴۴ والنسائی ۱۵۴/۲ حلیت رقم ۹۴۱۔ حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پس حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اے جبریل! میں ایک ناخواندہ (آن پڑھ) امت کے طرف مبعوث کیا گیا ہوں کہ ان میں بوڑھی عورتیں بھی ہیں اور بہت زیادہ بوڑھے ہیں اور لڑکے اور لڑکیاں اور ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے کبھی کتاب نہیں پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد ﷺ قرآن سات طرح پر اتارا گیا ہے۔ یعنی سات لغات پر یا سات قراءت پر پس ہر کسی کے لئے جو طریقہ آسان ہو اس پر پڑھے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ احمد اور ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے لفظ احرف کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ان سات قراءتوں میں سے ہر قراءت شافی ہے۔ یعنی کفر و شرک و جہل کی بیماری کو دفع کرتی ہے کافی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے صدق پر حجت ہونے کو اور دین کے حق ہونے پر اور منکروں کے الزام دینے میں کفایت کرتی ہے اور ناسانی کی روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ تحقیق جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ پس جبریل میرے دائیں بیٹھے اور میکائیل میرے بائیں طرف پس جبریل علیہ السلام نے کہا کہ قرآن ایک قراءت سے پڑھو۔ میکائیل علیہ السلام نے مجھ سے (یعنی حضور ﷺ سے) کہا کہ ایک قراءت سے زیادہ طلب کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے طلب کریں کہ کسی اور قراءت کے مطابق بھی پڑھنے کا حکم ہو جائے یا جبریل علیہ السلام سے عرض کریں کہ زیادہ کرواؤ۔ پھر

آپ ﷺ زیادتی کے طالب رہے اور زیادتی ہوتی رہے۔ یہاں تک کہ امر قراءت سات طرح کو پہنچ گیا پس ہر قراءت دینے والی اور کفایت کرتی ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ قراءت کا مختلف ہونا آسانی کا باعث ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ناخواندہ قوم کی طرف بھیجا گیا ہے یعنی ایسی قوم جو اچھی طرح پڑھ نہیں سکتے اگر ان کو ایک قراءت پڑھاؤں تو پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتے اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ ان کی زبان امالہ پر جاری ہوتی ہے یا فتح پر اور بعض ایسے ہیں کہ ان کی زبان پر ادغام غالب ہوتا ہے یا اظہار لہذا ان کے لیے کئی قراءتوں کی ضرورت ہے کہ ہر ایک کو جو آسان معلوم ہو وہ اس کے مطابق قرآن پڑھے اور اس کے باوجود ان میں بوڑھی عورتیں ہیں اور بعض بوڑھے لوگ ہیں کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے اور لڑکے صغیر سنی کی وجہ سے سیکھنے سے عاجز ہیں۔

قرآن پڑھ کر لوگوں سے مانگنا منع ہے

۶/۲۰۹۸ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَاصٍ يَقْرَأُ ثُمَّ يَسْأَلُ قَاصِمًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَيْسَ سَأَلَ اللَّهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ - (رواه احمد والترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۶۴/۵ حدیث رقم ۲۹۱۷۔ واحمد فی المسند ۴۳۲/۴۔

ترجمہ: حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ وہ ایک قصہ کہنے والے پر گزرے اس حال میں کہ وہ قرآن پڑھتا تھا اور لوگوں سے کچھ مانگتا تھا تو عمران نے انا للہ وانا الیہ راجعون کہا یعنی اس لیے کہ یہ بدعت ہے اور قیامت کی علامت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے آپ ﷺ فرماتے تھے کہ جو شخص قرآن پڑھے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔ پس تحقیق لوگ آئیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور قرآن کی وجہ سے لوگوں سے مانگیں گے۔ اس کو امام احمد اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جو امور دنیا اور آخرت کو چاہے نہ کہ لوگوں سے وہ قرآن پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے یعنی اگر رحمت کے ذکر پر یا جنت کے ذکر پر پہنچے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اگر عذاب کی آیت اور دوزخ کے ذکر پر پہنچے تو خدا تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ قراءت سے فارغ ہونے کے بعد ماثورہ رعائوں کے ساتھ دعا کرے اور بہتر یہ ہے کہ دعا آخرت کے امر کے متعلق ہو اور دین و دنیا میں مؤمنین کی بھلائی کے متعلق ہو۔

الفصل الثالث:

۷/۲۰۹۹ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَأَكَّلُ بِهِ النَّاسُ جَاءَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَظِيمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ - (رواه البيهقي في شعب الایمان)

۹ اخرجه البيهقي في شعب الایمان ۵۳۲/۲ حدیث رقم ۲۶۲۵۔

ترجمہ: حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس کی وجہ سے لوگوں سے کھائے یعنی قرآن کریم کو دنیا کے فائدے کے لیے وسیلہ بنائے۔ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اس کا چہرہ (فقط) ہڈی ہوگا اس پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس کو یہ بتی کہ شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے دنیا نہ کمائے یعنی جو قرآن کریم کو دنیا کمانے کا وسیلہ بنائے گا قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فائدہ

۸/۲۱۰۰ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُ فَضْلَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْوِلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۴۹۹/۱ حدیث رقم ۷۸۸۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک سورت کا فرق دوسری سورت سے نہیں پہچانتے تھے یہاں تک ان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی آیت ہے۔ یہ دو سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہمارا مذہب ہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک شخص کا مکالمہ

۹/۲۱۰۱ وَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِمَاصَ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ مَا هَٰذَا أَنْزِلْتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَرَأْتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنْتَ فَبَيْنَا هُوَ يَكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ فَقَالَ أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ فَضَرَبَهُ الْحَدُّ - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۷/۹۔ حدیث رقم ۵۰۰۱۔ ومسلم فی صحیحہ ۵۵۱/۱ حدیث رقم (۲۴۹۔ ۸۰۱)۔

واحمد فی المسند ۳۷۸/۱۔ ف

ترجمہ: حضرت علقمہؓ سے روایت ہے کہ ہم حمص میں تھے جو کہ ایک شہر کا نام ہے۔ پس ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورۃ یوسف پڑھی پس ایک شخص نے کہا اس طرح نازل نہیں کی گئی پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم میں نے یہ سورت رسول کریم ﷺ کے پاس پڑھی۔ پس حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے خوب پڑھا (یعنی اچھا پڑھا تو نے) پس اس وقت وہ شخص ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کلام کرتا تھا کہ اچانک اس سے شراب کی بو پائی گئی پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تو شراب پیتا ہے یعنی قرآن کریم کے خلاف کرتا ہے اور تو کتاب اللہ کو یعنی اس کی قراءت کو جھٹلاتا ہے تو آپ نے اس پر حد جاری کر دی۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو پڑھتے تھے اگر وہ مشہور قراءت تھی تو یقیناً

کتاب اللہ پڑھتے تھے یعنی اس کا تکذیب و انکار کرنا کفر ہے اور اگر شاذ قراءت پڑھتے تو تغلیظاً کہا اور ظاہر یہی ہے اس لیے کہ مرتد ہونے کا حکم اس پر نہیں لگایا اور شراب کی حد پر اکتفاء کیا ہے اور علامہ طیبیؒ نے کہا یہ تغلیظاً کہا ہے اور اسی لیے کہ کتاب اللہ کا جھٹلانا اور قراءت کا انکار کرنا اصل کلمہ کے اعتبار سے کفر ہے۔ ادائیگی کے انکار کا نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس نے ادا کا انکار کیا تھا نہ کہ اصل قرآن کا اس لیے اس پر شراب کی حد جاری کی نہ کہ مرتد ہونے کی وجہ سے۔ پھر حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوا کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس پر شراب کی حد جاری کی اور علماء کی ایک جماعت کا یہی مذہب ہے اور ہمارے نزدیک اور شوافع کے نزدیک ہو کی وجہ سے حد نہیں ماری جاتی۔ اس لیے کہ ترش سبب اور امر و دکی شراب کی بو کے مشابہ ہوتی ہے شاید کہ اس نے اقرار کیا ہو یا شراب پینے پر گواہ قائم ہو گئے ہوں۔ اس وجہ سے شراب کی حد لگائی گئی ہوگی۔

قرآن پاک جمع کرنے سے پہلے پتھر، کھجور کی چھال وغیرہ پر موجود تھا

۱۰/۲۱۰۲ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرْآنِ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرْآنِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلذِّكْرِ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابَّ عَا قِلْ لَا تَنْهَمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْمِعُ الْقُرْآنَ فَاجْمَعُهُ قَوْلَ اللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ حَبْلٍ مِنَ الْجَبَلِ مَا كَانَ أَثْقَلُ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ قَالَتْ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلذِّكْرِ شَرَحَ لَهُ صَدْرُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ فَتَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعَهُ مِنَ الْعُسْبِ وَلِلْخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي حُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ حَتَّى خَاتِمَةِ بَرَاءَةٍ فَكَانَتْ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتُهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۰/۹ حدیث رقم ۴۹۸۶۔

ترجمہ: حضرت زید بن ثابتؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کسی کو اہل یمامہ کے قتل کے دنوں میں میری طرف بھیجا۔ میں ان کے پاس گیا کہ حضرت عمر بن خطابؓ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکرؓ نے یا (کہ تحقیق) عمرؓ میرے پاس آئے اور فرمانے لگے۔ قرآن کے قاریوں کی شہادت کا معاملہ جنگ یمامہ میں گرم ہو گیا ہے یعنی اس لڑائی میں بہت قاری مارے گئے ہیں اور تحقیق میں ڈرتا ہوں کہ اگر قاریوں کا مارا جانا کثرت سے ہو گیا تو قرآن کا اکثر حصہ جاتا رہے گا اور تحقیق میں اس میں مصلحت دیکھتا ہوں کہ حکم کروں قرآن کو جمع کرنے کا حکم کروں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ تم اس چیز کو کس طرح کرو گے جو پیغمبر ﷺ نے

نہیں کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم بہتر ہے پس ہمیشہ عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس کے لیے (یعنی قرآن کریم کو جمع کرنے کے لیے) کھول دیا اور میں نے مصلحت دیکھی جو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھی۔ زیدؓ نے کہا کہ مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم سمجھ دار جوان ہو۔ تمہاری نیک بختی کی وجہ سے تم پر جھوٹ وغیرہ کی تہمت نہیں لگا سکتے اور تحقیق تم نبی ﷺ کی وحی لکھا کرتے تھے۔ اس لیے تم قرآن کو تلاش کرو اور اس کو ایک مصحف میں اکٹھا کرو۔ پس اللہ کی قسم اگر مجھے پہاڑوں میں سے پہاڑ کو منتقل کرنے کی تکلیف دے دیتے تو وہ مجھ اتنا بھاری نہ ہوتا جتنا مجھے قرآن کا جمع کرنا بھاری معلوم ہوا۔ اس لیے کہ اس میں بدن اور روح کی محنت ہے اور بہت زیادہ فکر کرنی پڑے گی۔ زید نے کہا کہ تم وہ چیز کس طرح کرو گے جو نبی کریم ﷺ نے نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم وہ بہتر ہے پس ابوبکر مجھ سے ہمیشہ گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اس چیز کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کا سینہ کھول دیا تھا پھر میں نے قرآن کو تلاش کیا اس حال میں جمع کرتا تھا کھجور کی شاخوں سے اور سفید پتھروں سے اور لوگوں کے سینوں یعنی حافظوں سے یہاں تک کہ میں نے سورۃ توبہ کا آخری حصہ ابوخریرہ انصاری کے پاس پایا ان کے علاوہ میں نے کسی کے پاس نہیں پایا وہ سورت کا آخر یہ ہے: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ﴾ سورت برآۃ کے آخر تک مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے زندگی میں پھر حصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں یمامہ کا نام آیا ہے۔ یمامہ ایک شہر کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لشکر کے ساتھ وہاں بھیجا اور وہاں کے لوگوں سے خوب لڑائی ہوئی اور مسیلہ کذاب بھی اس میں مارا گیا اور بہت زیادہ قاری مارے گئے۔ بعضوں نے کہاسات سوارے گئے اور بعضوں نے کہا بارہ سو۔ پس وہاں کی لڑائی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابتؓ کو بلایا جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے اور حضرت زید بن ثابتؓ اکثرو وحی لکھا کرتے تھے۔ حضور ﷺ کے پاس وحی لکھنے والے حضرات کی تعداد چوبیس تھی اور ان میں خلفاء اربعہ بھی تھے۔ پس اس کے معنی یہ ہیں کہ تم وحی کے لکھنے اور اس کو جمع کرنے میں امانتدار ہو۔

اور پورا قرآن آنحضرت ﷺ کے دور میں لکھا ہوا تھا لیکن مصحف میں موجود نہیں تھا۔ بلکہ پتھر کے ٹکڑوں پر تھا تو جب حضور ﷺ کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے جمع کیا پس انہوں نے متفرق اوراق پائے کہ جن میں قرآن لکھا ہوا تھا ان کو جمع کر دیا اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ حضور ﷺ کے زمانے میں سورتوں کی ترتیب نہیں تھی۔ حضور ﷺ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجتہاد سے ہوئی اور آیتوں کی ترتیب حضور ﷺ کے زمانے میں ہوئی کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم کی ایک آیت واقعہ کے مطابق لائے تو کہتے اس کو فلانی سورت میں فلانی آیت کے بعد رکھو اور لوح محفوظ میں بھی اسی ترتیب سے لکھا ہے اور وہاں سے آسمان دنیا پر بھیجا گیا اور وہاں سے جبریل علیہ السلام حسب موقع اور حسب ضرورت سورتیں اور آیتیں وہاں سے لائے اور ترتیب نزول قرآن مجید کی ترتیب کے علاوہ ہے اور جبریل علیہ السلام اسی ترتیب سے ہر رمضان میں ایک بار تمام قرآن پاک حضور ﷺ سے دور کرتے اور جس سال حضور ﷺ کا وصال ہوا تو جبریل علیہ السلام نے دوسرے دور کیا اور

حدیث میں جو لفظ آیا ہے کہ نہ پایا میں نے اس کو کا مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ کے زمانے میں تمام کلام اللہ صحابیوں نے حضرت ابی بن کعبؓ، معاذ بن جبلؓ اور زید بن ثابتؓ کی طرح نہیں یاد کیا تھا۔ یعنی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ سوائے ان مذکورہ حضرات کے کسی کے پاس لکھا ہوا نہیں تھا۔

تو جب حضرت زید بن ثابتؓ نے صحابہؓ کے اتفاق کے ساتھ قرآن کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا تو قرآن مجید متعدد صحیفوں میں لکھا ہوا تھا اور ایک صحیفہ میں جمع نہیں ہوا تھا پس وہ صحیفہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس رہے جب تک وہ زندہ رہے پھر حضرت عمرؓ کے پاس ان کی زندگی میں رہے پھر ان کی بیٹی حضرت حفصہؓ کے پاس رہے۔ پھر حضرت عثمانؓ نے ان کو ایک صحیفہ میں جمع کیا اور کئی مصاحف (نقول) لکھوا کر اسلامی شہروں میں بھیجے۔ جیسا کہ آئندہ حدیث میں مذکور ہے۔

حضرت عثمانؓ کی خدمات جمع قرآن کے بارے میں

۱۱/۲۱۰۳ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَارِزِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَّةٍ وَارْزُبِجَانٍ مَعَ أَهْلِ الْيَمَانِ قَافِرَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَذْرِكُ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالْمُصْحَفِ نَنْسُخَهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكَ فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ هِشَامٍ فَتَسَخَّوْهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرُّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الْفَلَاثِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاصْنَعُوا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلسَانِهِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الْمُصْحَفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الْمُصْحَفَ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أَقْبَى بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ قَالَ بَنُو شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ بِنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُهَا فَاتَّخَمْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خَزِيمَةَ بِنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَاَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱/۹ - حدیث رقم ۴۹۸۷ - واحمد فی المسند ۱۸۸/۵ -

ترجمہ: حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ حذیفہ بن یمان کے بیٹے حضرت عثمانؓ کے پاس آئے اور حضرت عثمانؓ اہل شام اور عراق کے لیے آرمینا اور آذربائیجان کی لڑائی کے لیے سامانِ جہاد درست کرتے تھے۔ پس لوگوں نے حضرت حذیفہؓ کو قراءت میں اختلاف کی وجہ سے خوف میں ڈال دیا، یعنی ایک دوسرے کی قراءت سن کر قراءت کرتے تھے۔ پس حضرت حذیفہؓ نے حضرت عثمانؓ کے کہا کہ اے امیر المؤمنین اس امت کے تذرا کر دو۔ اس سے پہلے کہ کلام اللہ میں اختلاف کریں۔ یہود و نصاریٰ کے اختلاف کی طرح حضرت عثمانؓ نے حضرت حفصہؓ کی طرف پیغام بھیجا دیں گے۔ پس حضرت حفصہؓ نے حضرت عثمانؓ کی طرف صحیفہ بھیج دیے۔ پس

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ یعنی انصار میں سے اور قریش میں سے عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبداللہ بن حارث، ابن ہشام رضی اللہ عنہم، پس سب نے وہ صحیفہ نقل کیے۔ مصفوں میں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قریش کی جماعت کے لیے فرمایا۔ جو کہ تین آدمی تھے زید بن ثابتؓ کے علاوہ اور اصحاب جو مذکور ہوتے ہیں ان کو بھی فرمایا کہ اگر تم اور زید بن ثابتؓ قرآن پاک میں کسی جگہ یعنی لغات قرآن میں اختلاف کرو۔ پس اس کو لغت قریش کے موافق لکھو۔ اس لیے کہ کلام اللہ ان کی زبان کے موافق نازل ہوا ہے پس سب نے اس طرح سے کیا۔ یہاں تک کہ جب صحیفے میں نقل کر چکے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحیفے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیج دیے اور ہر طرف ایک ایک مصحف بھیجا۔ جو انہوں نے نقل کئے تھے اور ان مصحفوں کے علاوہ جن صحیفوں کے اندر قرآن تھا ان کو جلا دینے کا حکم دیا۔ ابن شہاب نے کہا پس مجھے خارجہ نے خبر دی جو کہ زید بن ثابت کے بیٹے ہیں کہ انہوں نے زید بن ثابت سے سنا ہے کہ میں نے سورۃ اہزاب کی ایک آیت نہ پائی جو کہ اکثر نبی کریم ﷺ سے سنا کرتا تھا۔ آپ ﷺ اس کو پڑھتے تھے پس میں نے آیت تلاش کی تو میں نے وہ آیت ثابت انصاری کے بیٹے خزیمہ کے پاس پائی۔ وہ آیت یہ ہے: ﴿رَجُلًا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾۔ پس میں نے وہ آیت سورۃ اہزاب کے مصحف میں شامل کر دی۔ اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح علامہ کرمانی نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ بغازی کے معنی بغری کے ہیں: ای کان عثمان یجہز اهل الشام واهل العراق للغزوة هاتین الناحیتین وفتحهما۔ پس صاحب ترجمہ نے ترجمہ اسی کے موافق کیا ہے اور علامہ کرمانی نے لکھا ہے کہ آرمینیا نواح روم میں ایک قصبہ ہے اور آذربائیجان تہریز کے قصبات میں سے ہیں انتہی اور ملا علی قاری اور حضرت شیخ رحمہ اللہ نے کان کا اسم اور بغازی کا فاعل حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو لکھا ہے اور قاموس میں ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ آرمینیا آذربائیجان میں شہر ہے۔ پس آذربائیجان تعیم بعد از تخصیص ہے۔ یہود و نصاری کے اختلاف کی طرح۔ یعنی جیسے توریت اور انجیل میں یہود و نصاری نے تغیر و تبدل اور کمی اور زیادتی کی ہے مبادا قرآن میں بھی مسلمان شروع نہ کر دیں لہذا اس فتنہ کے برپا ہونے سے پہلے ہی تدبیر کر لینی چاہیے۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور وہ اس دن پچاس ہزار تھے پس فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری قراءت بہتر ہے تیری قراءت سے اور قریب ہے کہ بات کفر تک پہنچا دیں لوگوں نے کہا کہ تم کیا مناسب جانتے ہو؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو کہا کہ میں مناسب جانتا ہوں کہ لوگوں کو ایک قرآن پر جمع کرو۔ تو پس کوئی اختلاف نہ ہو لوگوں نے کہا کہ کیا خوب ہے وہ چیز جو تم نے مناسب جانی پس انہوں نے قصد کیا لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کرنے کا قصد کیا۔ چنانچہ اس کا بیان فارسل..... میں ہے اور ان کی زبان کے موافق نازل ہوا ہے یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن اصل میں لغت میں قریش میں نازل ہوا ہے پھر حضور ﷺ کی التماس سے اجازت ہوگی کہ ہر کوئی اپنی لغت میں پڑھ سکتا ہے اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے اتفاق کے ساتھ۔ لوگوں کے اختلاف کی بنا تمام لغات کے موقوف کرنے کا حکم دیا اور تمام کو لغت قریش کے موافق پڑھنے کا حکم دیا۔ پس ان کے قول کے یہ معنی ہیں کہ قرآن کو لغت قریش کے موافق لکھو۔ علامہ سخاویؒ نے لکھا ہے کہ لوگوں نے لفظ تابوت میں اختلاف کیا پس زید نے کہا کہ التابوۃ اور دوسرے حضرات نے کہا کہ التابوت ہے پس لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا پس انہوں نے کہا کہ اس کو لفظت کے ساتھ لکھو۔ اس لئے کہ قریش کی زبان میں یونہی ہے اور

لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے لفظ لہو یتسن کے بارے میں پوچھا پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں لکھو اور ہر صحیفے میں اس سے مراد یہ ہے جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے اور ہر صحیفہ سے مراد وہ ہے جو دوسرے لوگوں نے جمع کیے تھے اور یہ بھی ہو سکتا کہ راوی کو شک ہو اور حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو صحیفے تھے وہ ایک صحیفہ میں جمع کرنے کے بعد اور حضرت حفصہ کے پاس لوٹانے کے بعد جلا ڈالے۔ پس وہ صحیفے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہے۔ جب مروان مدینے کا حاکم بنا تو ان کو جلانے کے لیے منگوا یا تو انہوں نے نہ دیے۔ جب حفصہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ تو مروان نے ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے منگوا کر جلا ڈالے۔ اس خوف کی وجہ سے اگر یہ ظاہر ہوئے تو لوگ پھر اختلاف کریں گے اور اختلاف ان صحیفہ کی گنتی کے بارے میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کتنے بھیجے تھے۔

مشہور ہے کہ پانچ بھیجے تھے اور ابوداؤد نے کہا ہے کہ میں نے ابوحاتم جستانی سے سنا ہے کہ وہ سات صحیفہ تھے۔ ایک مکے کی طرف بھیجا اور ایک شام کی طرف بھیجا اور ایک یمن کی طرف بھیجا اور ایک بحرین کی طرف بھیجا اور ایک بصرہ کی طرف اور ایک کوفہ کی طرف اور ایک مدینے میں رکھا اور علماء نے صحیفہ کے پرانے اور اق کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ جب ان کی ضرورت باقی نہ رہے تو ان کو دھو ڈالنا اولیٰ ہے یا جلا دینا، بعضوں نے کہا کہ دھونا اولیٰ ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس کا دھونا پاک جگہ میں ڈال دیا جائے بلکہ لائق ہے کہ اس کو پی جائے اس لیے کہ وہ ہر بیماری کی دوا ہے اور سینے کی علتوں کی شفا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصلحت کی بناء پر جلا یا تا کہ کوئی اختلاف باقی نہ رہے اور نہ ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اپنی عادت کے موافق طعن باقی رہے۔

تنبیہ: علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کا جمع کرنا تین بار ہوا ہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیکن وہ ایک صحیفہ میں مرتب نہ تھا اور دوسری بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ بزرگ ترین لوگوں میں سے مقدمہ صحیفہ میں ازاونے ثواب کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سب سے پہلے جمع کرنے والے ہیں اور تیسری بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع ہوا کہ آپ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور صحیفوں میں لغت قریش کے موافق لکھا اور اس کے نسخے جوانب و اطراف میں بھیجے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے یہ بات سنہ ۲۵ھ میں ہوئی پس ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جمع کرنے میں بڑا فرق ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع کیا اس ڈر سے کہ مبادا قرآن میں سے کچھ جاتا رہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس لیے جمع کیا کہ اختلاف واقع نہ ہو۔ پس حقیقت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کے جمع کرنے والے ہیں بلکہ لوگوں کو لغت قریش پر جمع کرنے والے ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واضح کرنا کہ دونوں سورتیں علیحدہ علیحدہ ہیں

۱۲/۲۱۰۴ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْتُ لِعُثْمَانَ مَا حَمَلَكُم عَلَىٰ أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَنَافِي وَالْحِي بَرَاءَةٌ وَهِيَ مِنَ الْيَمِينِ فَقَرَأْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُوا سَطَرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّعِ الطُّولِ مَا حَمَلَكُم عَلَىٰ ذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ السُّورُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ وَكَانَ إِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ شَيْءٌ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ صَعُوبًا هَؤُلَاءِ

الْآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا كَذًا وَكَذَا فَإِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْآيَةُ فَيَقُولُ لَصَعُوا هَذِهِ الْآيَةُ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا كَذًا وَكَذَا وَالْأَنْفَالُ مِنْ أَوَائِلِ مَا نَزَلَتْ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةً مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ نُزُولًا وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا فَقَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يَبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَرَرْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ أَكْتُبْ سَطْرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَالِ - (رواه احمد الترمذی و ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۴۸۹/۱ حدیث رقم ۷۸۶۔ والترمذی فی السنن ۲۵۴/۵ حدیث رقم ۳۰۸۶۔ واحمد فی المسند ۵۷/۱۔
ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے واسطے کہا کہ تم نے سورہ انفال کو جس کا تعلق مثنیٰ میں سے ہے اور سورہ برأت کہ جس کا تعلق مثنیین میں سے ہے پس تم نے ان دونوں سورتوں کو آپس میں نزدیک کر دیا اور تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر دونوں سورتوں کے درمیان نہیں لکھی اور تم نے سورہ انفال کو سات لمبی سورتوں میں رکھا ایسا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ ہر ایک ایسا زمانہ گزرتا تھا کہ اس حالت میں آپ ﷺ پر سورتیں آتیوں والی اترتی تھیں اور جس وقت قرآن کریم آپ ﷺ پر نازل ہوتا تھا آپ وحی لکھنے والے کو بلاتے۔ جیسے زید بن ثابت وغیرہ کے جو کہ وحی لکھنے والے تھے اور آپ ﷺ ارشاد فرماتے یہ آیتیں سورت میں رکھ دیں کہ اس میں ایسا اور ایسا ذکر کیا گیا ہے یعنی مانند طلاق اور حج وغیرہ کے۔ پس جس وقت آپ ﷺ پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ ﷺ فرماتے اس کو فلاں سورۃ میں رکھ دو کیونکہ اس میں ایسا اور ایسا ہے۔ اور سورۃ انفال ان تمام سورتوں سے پہلے نمبر پر ہے کیونکہ یہ مدینے میں نازل ہوئی اور سورۃ برأت قرآن کریم کے اترنے میں آخر میں تھی اور قصہ سورۃ انفال کا سورۃ برأت کے مشابہ ہے۔ یعنی دونوں میں کافروں کے ساتھ لڑنے اور عہد توڑنے کا ذکر ہے۔ پس نبی کریم ﷺ نے وفات پائی اور ہمیں یہ بیان نہیں کیا کہ سورۃ انفال سورۃ برأت ہی کا حصہ ہے یا نہیں۔ پس رسول اللہ ﷺ کے بیان نہ کرنے کے سبب اور ان دونوں سورتوں کے درمیان مشابہت ہونے کے باعث ہم نے ان دونوں سورتوں کو نزدیک کر دیا اور ہم نے ان دونوں سورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہیں لکھی اور ہم نے وہ دونوں سورتیں سات لمبی سورتوں کے درمیان اکٹھی رکھ دیں لیکن دونوں سورتوں کے تعدد و اتحاد کے شبہ ہونے کی وجہ سے دونوں کے درمیان فاصلہ چھوڑ دیا۔ اس کو امام احمد اور ترمذی اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿۱﴾ اس حدیث پاک میں سورتوں کی تقسیم کے بارے میں بتایا گیا ہے کلام اللہ کی سورتوں کو اس طرح تقسیم کیا گیا ہے سورہ بقرہ سے سورہ یونس تک کو طوال کہتے ہیں عربی میں طوال لمبے کو کہتے ہیں اور یہ سورتیں طویل ہیں اور سورہ یونس سے سورہ شعراء تک کو مثنیین کہتے ہیں اور مثنیین مائے کی جمع ہے۔ مائے عربی میں (مائے) کو کہتے ہیں اور یہ سورتیں سو آیتوں سے زیادہ ہیں۔ یا سو کے قریب ہیں اس لیے ان کو مثنیین کہتے ہیں اور سورہ شعراء سے سورہ حجرات تک کو مثنیٰ کہتے ہیں اور وہ سو (مائے) آیتوں سے کم کی ہیں اور ان میں قصے مکرر ہیں اس لیے ان کا نام مثنیٰ ہے اور سورہ حجرات سے قرآن کے آخر تک کو مفصل کہتے ہیں اس لیے کہ ان سورتوں کے درمیان بسم اللہ کا فاصلہ نزدیک ہے۔

پھر مفصل کی تین اقسام ہیں: ﴿۱﴾ ایک طوال۔ ﴿۲﴾ دوسری اوساط۔ ﴿۳﴾ تیسری قصار۔

سورہ حجرات سے والسماء ذات البروج تک کو طوال مفصل کہتے ہیں اور سورہ البروج سے لہ یکن تک اوساط مفصل کہتے

ہیں اور لہٰذا ممکن سے آخر تک کو قصار مفصل کہتے ہیں۔ پس ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا انفال مثنیٰ میں سے ہے اس لیے کہ سو (۱۰۰) آیتوں سے کم کی ہے اور سورہ برآۃ مثنیین میں سے ہے اسلئے کہ سو (۱۰۰) آیتوں سے زیادہ ہے۔ ان کو آپس میں نزدیک کر کے طوالت میں کیوں رکھا۔ انفال کو مثنیٰ میں رکھتے اور برآۃ کو مثنیین میں رکھتے اور پھر یہ کیا کہ ان کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کا جواب دیا جس کا حاصل یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں کے مابین اشتباہ ہے۔ ایک وجہ سے یہ دونوں ایک سورت ہیں اس وجہ سے ان کو سبع طوالت میں رکھنا چاہیے تھا اور بسملہ کا ان کے درمیان میں نہ رکھنا درست ہوا۔ لہٰذا ایک وجہ سے یہ دونوں دو سورتیں ہیں اس لیے درمیان میں فاصلہ چھوڑ دیا۔

ہم پر قرآن کریم کے حقوق

پہلا حق:

ایمان و تعظیم

ماننے کا اصطلاحی نام ایمان ہے اور اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک ”اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ“ اور دوسرے ”تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ“ اقرار لسانی دائرۃ اسلام میں داخلے کی شرط لازم ہے اور تصدیق قلبی حقیقی ایمان کا لازمہ ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کیا جائے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوا۔ اس اقرار سے انسان دائرۃ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی ایمان اسے اُس وقت نصیب ہوتا ہے جب ان تمام امور پر ایک پختہ یقین اس کے قلب میں پیدا ہو جائے۔ پھر ظاہر ہے کہ جب یہ صورت پیدا ہو جائے گی تو خود بخود قرآن کی عظمت کا نقش قلب پر قائم ہو جائے گا اور جوں جوں قرآن پر ایمان بڑھتا جائے گا اس کی تعظیم و احترام میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ گویا ایمان و تعظیم لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پر ایمان سب سے پہلے خود نبی کریم اور آپ کے ساتھی رضوان اللہ علیہم اجمعین لائے۔

﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (البقرة: ۲۸۵)

”ایمان لایا رسول اُس پر جو نازل کیا گیا اس کی جانب اور (اس کے ساتھی) اہل ایمان۔“

﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ﴾ (طہ: ۱۱۴)

”قرآن کے لئے جلدی نہ کرو۔“

اور

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (القیامۃ: ۱۶)

”قرآن (کو یاد کرنے) کی جلدی میں اپنی زبان کو (تیزی سے) حرکت نہ دو۔“

آنحضور ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قرآن سے اس گہرے شغف اور اس کی جانب اس قدر التفات کا سبب یہ تھا کہ انہیں یہ ”حق الیقین“ حاصل تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بالکل برعکس ہمارا حال ہے۔ قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا اقرار تو ہم کرتے ہیں اور اس پر بھی خدا کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا فرمادیا جو قرآن کو خدا کا کلام مانتے ہیں، لیکن الا ماشاء اللہ اس کے کلام الہی ہونے کا یقین ہمیں حاصل نہیں اور درحقیقت یہی ہمارے قرآن سے بعد اور اس کی جانب عدم التفات و توجہ کا اصل سبب ہے۔ آپ شاید میری اس بات سے ناراض ہوں لیکن اگر ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور ان کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی ہمارے قلوب قرآن پر یقین سے خالی ہیں اور ریب اور شک نے ہمارے دلوں میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ ہماری اس کیفیت کا نقشہ قرآن مجید نے ان الفاظ میں کھینچا ہے:

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَقَدْ شَكَّ مِنْهُ رَبُّهُمْ﴾ (الشوری: ۱۴)

”اور جو لوگ وارث ہوئے کتاب الہی کے ان کے بعد وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔“

لہذا ہم میں سے ہر ایک کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو اچھی طرح ٹٹولے اور دیکھے کہ وہ قرآن مجید کو بس ایک متوارث مذہبی عقیدے (dogma) کی بنا پر ایک ایسی ”مقدس آسمانی کتاب“ سمجھتا ہے جس کا زندگی اور اس کے جملہ معاملات سے کوئی تعلق نہ ہو یا اسے یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس لئے نازل ہوا ہے کہ لوگ اس سے ہدایت پائیں اور اسے اپنی زندگیوں کا لائحہ عمل بنائیں۔

اگر دوسری بات ہے تو فہم المطلب اور اگر پہلا معاملہ ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ ہماری ایک عظیم اکثریت کے ساتھ یہی صورت ہے تو پھر سب سے پہلے ایمان کی اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس لئے کہ قرآن مجید کے دوسرے تمام حقوق کی ادائیگی کا مکمل انحصار اسی پر ہے۔

اور اس آئینے کو صیقل کرنے اور انسان کی اس شمع باطن کے نور کو اجاگر کرنے کے لئے ہی کلام الہی ﴿تَبَصَّرْهُ وَذِكْرٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾ (۴) بن کر نازل ہوا ہے۔ تلاش حق کی نیت سے اسے پڑھا اور اس پر غور و فکر کیا جائے تو سارے حجابات دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان کا باطن نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے۔

آنحضور ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ)) قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جِلَاءُ هَا؟ قَالَ :

((كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ)) (بیہقی)

”بنی آدم کے قلوب بھی اسی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا پانی پڑنے سے!“ دریافت کیا گیا: یا

رسول اللہ! اس زنگ کو دور کس چیز سے کیا جائے؟ فرمایا: ”موت کی بکثرت یاد اور قرآن مجید کی تلاوت!“

خلاصہ کلام یہ کہ محض ایک متوارث عقیدے کے طور پر قرآن کو ایک مقدس آسمانی کتاب ماننے سے ہماری موجودہ صورت حال میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی اور قرآن مجید کے ساتھ عدم التفات کا جو رویہ ہمارا اس وقت ہے وہ نہیں بدل سکتا۔ قرآن

مجید کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کی اولین شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے۔

❁ دوسرا حق:

تلاوت و ترتیل

قرآن کے پڑھنے کے لئے خود قرآن مجید میں اگرچہ قراءت اور تلاوت دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن احترام و تعظیم کے ساتھ اسے ایک مقدس آسمانی کتاب سمجھتے ہوئے ذہنی اور نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے اتباع اور پیروی کے جذبے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے لئے اصل قرآنی اصطلاح ”تلاوت“ ہی کی ہے۔ اس لئے بھی کہ یہ لفظ صرف آسمانی صحیفوں کے پڑھنے کے لئے خاص ہے جبکہ قراءت ہر چیز کے پڑھنے کے لئے عام ہے اور اس لئے بھی کہ تلاوت کا لغوی مفہوم ساتھ لگے رہنے اور پیچھے پیچھے آنے کا ہے جبکہ قراءت مجرد جمع و ضم کے لئے آتا ہے۔

عام گفتگو میں ابتداء قراءت کا لفظ قرآن سیکھنے اور اس کے علم کی تحصیل کے لئے استعمال ہوتا تھا اور قاری عالم قرآن کو کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ اصطلاح قرآن کو اہتمام اور تکلف کے ساتھ قواعد تجوید کی خصوصی رعایت اور حروف کے مخارج کی صحت کا پورا پورا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنے کے لئے خاص ہوتی چلی گئی، جبکہ تلاوت کا اطلاق عام طریقے پر انابت اور خشوع و خضوع کے ساتھ حصول برکت و نصیحت کی غرض سے قرآن پڑھنے پر ہونے لگا۔

تلاوت کلام پاک ایک بہت بڑی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کو تازہ رکھنے کا موثر ترین ذریعہ ہے۔ اگر قرآن بس ایک مرتبہ پڑھ لینے کی چیز ہوتی تو کم از کم نبی اکرم ﷺ کو تو اس کے بار بار پڑھنے کی قطعاً کوئی حاجت نہ تھی۔ لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مسلسل قرآن پڑھتے رہنے کی بار بار تاکید ہوئی۔ عہد رسالت کے بالکل ابتدائی ایام میں تو انتہائی تاکید یہ حکم ہوا کہ رات کا اکثر حصہ اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو کر ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے ہوئے بسر کرو۔ بعد کے ادوار میں بھی، خصوصاً جب مشکلات و مصائب کا زور ہوتا تھا اور صبر و استقامت کی خصوصی ضرورت ہوتی تھی، آنحضور ﷺ کو تلاوت قرآن ہی کا حکم دیا جاتا تھا۔ چنانچہ سورۃ الکہف میں ارشاد ہوا ہے:

﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ۖ ذَلِكُمْ يُصَلِّهِ ۖ وَلَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُنْتَخَلِينَ﴾ (الکہف)

(۲۷:)

”اور پڑھا کر جو وحی ہوئی تجھ کو تیرے پروردگار کی کتاب سے۔ کوئی اس کی باتوں کا بدلے والا نہیں اور نہ ہی تو کہیں پاسکے گا اس کے سوا پناہ کی جگہ۔“

اور سورۃ العنکبوت میں ارشاد ہوا:

﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ (العنکبوت: ۴۵)

”پڑھا کر جو وحی ہوئی تیری طرف کتاب الہی اور قائم رکھ نماز کو!“



کتاب الہی کے اصل قدردانوں کی یہ کیفیت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ:

﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ (البقرة: ۱۲۱)

”جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔“

① تجوید

اس سلسلے میں سب سے پہلی ضروری چیز قرآن مجید کے حروف کی شناخت ان کے مخارج کا صحیح علم اور رموز اوقاف قرآنی کی ضروری معلومات کی تحصیل ہے جسے اصطلاحاً تجوید کہتے ہیں اور جس کے بغیر قرآن مجید کی صحیح اور رواں تلاوت ممکن نہیں۔ آج سے تیس چالیس سال قبل تک ہر مسلمان بچے کی تعلیم کی ابتدا اسی سے ہوئی تھی اور وہ سب سے پہلے قرآن کے حروف کی پہچان اور ان کی صحیح ادائیگی کی صلاحیت حاصل کرتا تھا۔ افسوس کہ ادھر ایک عرصے سے مساجد و مکاتب کی تعلیم کے زوال اور کنڈرگارٹن قسم کے مدارس کے رواج کی بدولت یہ صورت حال پیدا ہو چکی ہے کہ مسلمان قوم کی نوجوان نسل کی ایک عظیم اکثریت حتیٰ کہ بہت سے بوزھے اور ادھیڑ عمر کے لوگ بھی قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنے پر بھی قادر نہیں۔ میں ایسے تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اس کمی کا احساس کریں اور جلد از جلد اسے دور کرنے کی کوشش کریں اور خواہ وہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہوں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی صلاحیت لازماً پیدا کریں۔ ساتھ ہی ہمیں چاہئے کہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ طے کر لیں کہ ان کی تعلیم کی ابتدا اسی سے ہوگی اور سب سے پہلے وہ قرآن کے حروف کی پہچان اور ان کو صحیح مخارج سے ادا کرنا سیکھیں گے اس معاملے میں حد سے زیادہ غلو تو اگرچہ اچھا نہیں لیکن قرآن مجید کو روانی کے ساتھ صحیح اصوات و مخارج اور رموز اوقاف کی رعایت و لحاظ کے ساتھ پڑھنے پر قادر ہونا تو ہر معمولی پڑھے لکھے انسان کے لئے بھی لازم اور قرآن مجید کے حق تلاوت کی ادائیگی کی شرط اولیں ہے۔

② روزانہ کا معمول

قرآن مجید کے حق تلاوت کی ادائیگی کے لئے دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ تلاوت قرآن کو زندگی کے معمولات میں مستقل طور پر شامل کیا جائے اور ہر مسلمان تلاوت کا ایک مقررہ نصاب پابندی کے ساتھ لازماً پورا کرتا رہے۔ مقدار تلاوت مختلف لوگوں کے لئے مختلف ہو سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ مقدار جس کی آنحضور ﷺ نے توثیق فرمائی ہے یہ ہے کہ تین دن میں قرآن ختم کیا جائے، یعنی دس پارے روزانہ پڑھے جائیں۔ اور کم سے کم مقدار جس سے کم کا تصور بھی ماضی قریب تک نہ کیا جاسکتا تھا یہ ہے کہ ایک پارہ روزانہ پڑھ کر ہر مہینے قرآن ختم کر لیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کم از کم نصاب ہے جس سے کم پر تلاوت قرآن کے معمول کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ درمیانی درجہ جس پر اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم عامل تھے اور جس کا حکم بھی ایک روایت کے مطابق آنحضور ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیا تھا یہ ہے کہ ہر ہفتے قرآن ختم کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ در صحابہؓ میں قرآن کی تقسیم سورتوں کے علاوہ صرف سات احزاب میں تھی جن میں سے پہلے چھ احزاب علی الترتیب تین پانچ سات نو گیارہ اور تیرہ سورتوں پر مشتمل ہیں اور ساتواں جو حزب مفصل کہلاتا ہے بقیہ قرآن مجید پر مشتمل ہے۔ اس طرح ہر حزب کم و بیش چار پاروں کا بنتا ہے جن کی تلاوت انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ دو گھنٹوں میں کی جاسکتی ہے جو دن رات کے

عشر سے بھی کم ہے۔

تلاوت قرآن مجید کا یہ نصاب ہر اس شخص کے لئے لازمی ہے جو دینی مزاج اور مذہبی ذوق رکھتا ہو اور قرآن مجید کا حق تلاوت ادا کرنے کا خواہش مند ہو چاہے وہ عوام میں سے ہو یا اہل علم و فکر کے طبقے سے تعلق رکھتا ہو اس لئے کہ جہاں تک روح کے تغذیہ و تقویت کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے تو سب ہی اس کے محتاج ہیں۔ اس کے علاوہ عوام کو اس سے ذکر و موعظت حاصل ہوگی اور اہل علم و فکر حضرات اس سے اپنے علم کے لئے روشنی اور فکر کے لئے رہنمائی پائیں گے۔ حتیٰ کہ وہ حضرات بھی جو دن رات قرآن حکیم پر تفکر و تدبر میں لگے رہتے ہوں اور قرآن کی ایک ایک سورت پر برسوں غور و فکر کرتے اور اس کے مشکل مقامات پر عرصہ دراز تک توقف کرتے ہوں وہ بھی قرآن کی اس تلاوت مسلسل سے مستغنی نہیں بلکہ ان کو اس کی دوسروں کی بہ نسبت زیادہ ہی ضرورت ہے اس لئے کہ قرآن کی تلاوت مسلسل سے اُن کی بہت سی مشکلیں از خود حل ہوتی چلی جاتی ہیں اور بے شمار نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں۔

۵ خوش الحانی

قرآن کی تلاوت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنی حد تک بہتر سے بہتر اسلوب، اچھی سے اچھی آواز اور زیادہ سے زیادہ خوش الحانی سے قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اس لئے کہ حسن سماعت کا ذوق کم و بیش ہر انسان میں ودیعت کیا گیا ہے اور اچھی آواز ہر شخص کو بھاتی ہے۔ اسلام دینِ فطرت ہے اور انسان کے کسی فطری جذبے کو یکسر ختم نہیں کرتا بلکہ تمام فطری داعیات کو صحیح راستوں پر ڈالتا ہے۔ حسن نظر اور حسن سماعت انسان کے فطری داعیات میں سے ہیں۔ قرآن مجید کی خوبصورت اور خوش نما کتابت سے ایک مومن کے حسن نظر کو حقیقی تسکین حاصل ہوتی ہے اور اس کی خوش الحانی کے ساتھ قراءت اس کے ذوقِ سماعت کو آسودگی عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضور ﷺ نے تاکید فرمایا ہے:

((يَتَنَوُّوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ))

”قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔“

ساتھ ہی اس معاملے میں کوتاہی پر ان الفاظ میں تنبیہ فرمائی کہ:

((مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا))

”جو قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔“

اور اس کے لئے مزید تشویق کے لئے خبر دی ہے کہ:

((مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ))

”اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اس طرح کان نہیں لگاتا جس طرح نبی کی آواز پر لگاتا ہے جبکہ وہ قرآن کو خوش الحانی

کے ساتھ بآواز بلند پڑھ رہا ہوتا ہے۔“

اس معاملے میں بھی غلو اگرچہ معزز ہے خصوصاً جب اس میں تصنع یا ریاضا شامل ہو جائیں اور اس کی صورت ایک پیشے کی بن جائے تب تو یہ ہلکات میں سے شمار ہونے والی چیز بن جاتی ہے لیکن ہر شخص کو اپنے ذوقِ حسن سماعت کی تسکین بہر حال قرآن

کی تلاوت و سماعت ہی میں تلاش کرنی چاہئے اور خود اپنے حد امکان تک اچھے سے اچھے طریقے پر تلاوت کی سعی کرنی چاہئے۔

۵ آداب ظاہری و باطنی

قرآن کے حق تلاوت کی ادائیگی کی شرائط میں سے تلاوت کے کچھ ظاہری اور باطنی آداب بھی ہیں۔ یعنی یہ کہ انسان با وضو، قبلہ رخ بیٹھ کر تلاوت کرے اور اس کی ابتدا تعوذ سے کرے۔ پھر یہ کہ اس کا دل کلام اور صاحب کلام دونوں کی عظمت سے معمور ہو۔ حضور قلب، خشوع و خضوع اور انابت و رجوع الی اللہ کے ساتھ تلاوت کرے اور خالص طلب ہدایت کی نیت اور قرآن حکیم کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کے عزم مصمم کے ساتھ قرآن کو پڑھے اور مسلسل تذکر و تدبر اور تفہیم و تفکر کرتا رہے اور اپنے خود ساختہ خیالات و نظریات کی سند قرآن سے حاصل کرنے کے لئے نہیں بلکہ حتی الامکان معروضی طور پر اس سے ہدایت اخذ کرنے کے لئے پڑھے۔ اس لئے کہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، تلاوت کا لغوی مفہوم ”پیچھے لگنے“ اور ”ساتھ رہنے“ کا ہے اور نفس میں حواگی و سپردگی کی کیفیت تلاوت کا اصل جوہر ہے۔

۵ ترتیل

تلاوت قرآن پاک کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ نماز (خصوصاً تہجد) میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ متذکرہ بالا تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اور توقف کرتے ہوئے قرآن پڑھا جائے جس سے قلب پر اثرات مترتب ہوتے چلے جائیں۔ قرآن کی اصطلاح میں اس قسم کی تلاوت کا نام ترتیل ہے اور نبی اکرم ﷺ کو جو احکام بالکل ابتدائی عہد رسالت میں ملے ان میں سے غالباً اہم ترین حکم یہی تھا کہ:

﴿يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ ۖ قُمْ أَيْلًا ۖ لَا قَلِيلًا ۖ تَصِفْهُ ۖ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۖ أَوْزِدْ عَلَيْهِ ۖ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۖ﴾

(المزمل: ۱-۴)

”اے مزل! رات کو کھڑے رہا کرو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے“ (یعنی) آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زائد۔ اور قرآن کو پڑھا کر ٹھہر ٹھہر کر۔“

﴿كَذَلِكَ ۖ لَنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۖ﴾ (الفرقان: ۳۲)

”اسی طرح (اتارا) تاکہ ہم اس کے ذریعے تمہارے دل کو ثبات عطا فرمائیں، چنانچہ پڑھ سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر۔“

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ترتیل تثبیت قلبی کا موثر ذریعہ ہے اور اس طرح قرآن پڑھنے سے قلب انسانی کو زیادہ سے زیادہ فیض و افادہ حاصل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ شدت تاثر سے قلب پر گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن عربی صاحب ”احکام القرآن“ نے ترتیل کی تفسیر میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ آنحضور ﷺ کا گزرا ایک ایسے شخص پر ہوا جو قرآن مجید اس طرح پڑھ رہا تھا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ اس پر حضور نے صحابہؓ سے فرمایا: ”کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ نہیں سنا؟ دیکھ لو یہ ہے ترتیل!“ قرآن مجید کو بطریق ترتیل تلاوت کرنے ہی کا حکم ہے آنحضور ﷺ کے اس قول مبارک میں کہ:

((اتْلُوا الْقُرْآنَ وَابْكُوا)) (ابن ماجہ)

”قرآن کو پڑھو اور روؤ!“

چنانچہ خود نبی اکرم ﷺ کی صلوة کیل کی یہ کیفیت روایات میں بیان ہوئی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے جوش گریہ سے آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے کوئی ہانڈی چولہے پر پک رہی ہو۔

۵ حفظ

اس ترتیل کی شرط لازم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کیا جائے۔ بد قسمتی سے اس کا ذوق بھی ہمارے یہاں کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ایک تو حفظ قرآن کی صرف یہ صورت مروج رہ گئی ہے کہ پورا کلام پاک حفظ کیا جائے اور اس کے لئے ظاہر ہے کہ بچپن ہی کا زمانہ موزوں ہو سکتا ہے جبکہ کلام پاک کا مفہوم سمجھنے کا کوئی سوال ہی سرے سے پیدا نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس کا ذوق بھی اب کم ہو رہا ہے اور لا ماشاء اللہ حفظ قرآن صرف غرباء کے ایک طبقے کے لئے ایک پیشہ بن کر رہ گیا ہے۔ حالانکہ بالکل ماضی قریب میں یہ حال تھا کہ شرفاء اور اچھے کھاتے پیتے گھرانوں میں حفظ قرآن کا چرچا تھا اور ہندوستان کے بعض شہر تو ایسے بھی تھے جن میں اکثر گھروں میں کئی کئی حافظ قرآن ہوتے تھے اور وہ گھرانہ نہایت مخوس سمجھا جاتا تھا جس میں کوئی ایک شخص بھی حافظ نہ ہو۔ حفظ قرآن کا یہ سلسلہ نہایت مبارک ہے اور حفاظت قرآن کی خدائی تدبیر میں سے ہے اور اس کی جانب بھی از سر نو توجہ و انہماک کی شدید ضرورت ہے لیکن میں یہاں بالخصوص جس حفظ کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ حفظ وہ ہے جو ترتیل قرآن کا حق ادا کرنے کے لئے ہر مسلمان پر واجب ہے یعنی یہ کہ ہر مسلمان مسلسل زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنے کے لئے کوشاں رہے تاکہ اس قابل ہو سکے کہ رات کو اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کا کلام اسے سنا سکے! افسوس ہے کہ اس کا ذوق بالکل ہی ختم ہو گیا ہے حتیٰ کہ علماء تک اس سے مستغنی ہو گئے ہیں اور ائمہ مساجد جنہیں قرآن مجید سے سب سے زیادہ شغف ہونا چاہئے ان کا حال بھی یہ ہو گیا ہے کہ بس جتنا قرآن کبھی یاد کر لیا تھا اسی پر قناعت کئے بیٹھے ہیں اور ادل بدل کر انہی حصوں کو نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔

تیسرا حق:

تذکرہ تدبر

ماننے اور پڑھنے کے بعد تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اسے ”سمجھا“ جائے اور ظاہر ہے کہ کلام الہی نازل ہی اس لئے ہوا ہے اور اس پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے۔ بغیر فہم کے مجرد تلاوت کا جواز ایسے لوگوں کے لئے تو ہے جو پڑھنے لکھنے سے بالکل محروم رہ گئے ہوں اور اب تعلیم کی عمر سے بھی گزر چکے ہوں۔ ایسے لوگ اگر ٹوٹے پھوٹے طریق پر تلاوت کر لیں تو بھی بہت غنیمت ہے اور اس کا ثواب انہیں ضرور ملے گا بلکہ ایک ایسا ان پڑھ شخص جو ناظرہ بھی نہ پڑھ سکتا ہو اور اب اس کے لئے اس کا سیکھنا بھی ممکن نہ ہو، اگر اس یقین کے ساتھ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اسے کھول کر بیٹھتا ہے اور محبت و عقیدت اور احترام و تعظیم کے ساتھ اس کی سطور پر محض انگلی پھیرتا رہتا ہے تو اس کے لئے اس کا یہ عمل بھی یقیناً موجب ثواب و برکت ہو

گا۔ لیکن پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے تعلیم پر زندگیوں کا اچھا بھلا عرصہ صرف کر دیا ہو اور دنیا کے بہت سے علوم و فنون حاصل کئے ہوں، مادری ہی نہیں غیر ملکی زبانیں بھی سیکھی ہوں، اگر قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھیں تو عین ممکن ہے کہ وہ قرآن کی تحقیر و توہین اور تمسخر و استہزاء کے مجرم گردانے جائیں اور اس اعراض عن القرآن کی سزا تلاوت کے ثواب سے بڑھ جائے۔ الایہ کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرنے کا عزم کر لیں اور اس کے لئے سعی و جدوجہد شروع کر دیں تو درمیانی عرصے میں اگر مجرّد تلاوت بھی کرتے رہیں تو امید ہے کہ اس کا اجر انہیں ملتا رہے گا۔

”سمجھ“ کے لئے یوں تو قرآن مجید نے فہم و فکر اور عقل و فقہ کے قبیل کے تمام ہی الفاظ استعمال کئے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ فہم قرآن کے لئے وسیع ترین اصطلاح جو قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہے وہ ذکر و تذکر کی ہے۔ چنانچہ خود قرآن اپنے آپ کو جابجا ذکر و تذکر کی اور تذکرہ کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ اصطلاح درحقیقت فہم قرآن کی اولین منزل کا پتہ بھی دیتی ہے اور اس کی اصل غایت اور حقیقی مقصود کا سراغ بھی اس سے ملتا ہے اور ساتھ ہی اس سے اس حقیقت کی طرف بھی رہنمائی ہوتی ہے کہ تعلیمات قرآنی نفس انسانی کے لئے کوئی اجنبی چیز نہیں ہیں بلکہ یہ درحقیقت اس کی اپنی فطرت کی ترجمانی ہے اور اس کی اصل حیثیت ”یاد دہانی“ کی ہے نہ کہ کسی نئی بات کے ”سکھانے“ کی۔ قرآن تمام ذی شعور انسانوں کو جنہیں وہ ”أُولُوا الْأَلْبَاب“ اور ”قَوْمٌ يَعْقِلُونَ“ قرار دیتا ہے، تفکر اور تعقل کی دعوت دیتا ہے اور اس کا اولین میدان خود آفاق و انفس کو قرار دیتا ہے جو آیات الہی سے بھرے پڑے ہیں۔ ساتھ ہی وہ انہیں آیات قرآنی میں بھی تفکر و تعقل کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ:

﴿كَذَٰلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ﴾ (یونس: ۲۴)

”اسی طرح ہم کھولتے ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لئے جو تفکر کریں۔“

اور فرمایا:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: ۴۴)

”اور اتارا ہم نے تم پر ذکر کہ تم جو کچھ لوگوں کے لئے اتارا گیا ہے اس کی وضاحت کرو تا کہ وہ تفکر کریں۔“

اسی طرح:

﴿كَذَٰلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: ۲۴۲)

”اسی طرح اللہ اپنی آیات کی وضاحت فرماتا ہے تاکہ تم تعقل کر سکو۔“

اور:

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (الزخرف: ۳)

”ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر اتارا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔“

اس ”تذکر“ کی احتیاج ہر انسان کو ہے، خواہ وہ عوام الناس میں سے ہو خواہ خواص کے طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ”تذکر“ کے لئے قرآن کو انتہائی آسان بنا دیا ہے اور قرآن کی ایک ہی سورت میں چار مرتبہ یہ فرما کر کہ:

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (القمر: ۱۷، ۲۲، ۳۲، ۴۰)

”ہم نے آسان بنا دیا ہے قرآن کو ذکر کے لئے تو ہے کوئی یاد دہانی سے فائدہ اٹھانے والا؟“

ہر انسان پر حجت قائم کر دی ہے کہ خواہ وہ کتنی ہی کم اور کیسی ہی معمولی استعداد کا حامل کیوں نہ ہو فلسفہ و منطق اور علوم و فنون سے کتنا ہی نا بلند اور زبان و ادب کی نزاکتوں اور پیچیدگیوں سے کتنا ہی ناواقف کیوں نہ ہو وہ قرآن سے تذکر کر سکتا ہے بشرطیکہ اس کی طبع سلیم اور فطرت صحیح ہو اور ان میں ٹیڑھ اور جی راہ نہ پا چکی ہو۔ اور وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کا ایک سادہ مفہوم روانی کے ساتھ سمجھتا چلا جائے۔

میرے نزدیک عربی زبان کی کم از کم اتنی تحصیل کہ قرآن مجید کا سرسری مفہوم انسان کی سمجھ میں آ جائے ہر پڑھے لکھے مسلمان پر قرآن کا وہ حق ہے جس کی عدم ادائیگی نہ صرف قرآن بلکہ خود اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم ہے۔

قرآن نے اپنے محل تدبر ہونے کو بایں الفاظ خود واضح فرمایا ہے کہ:

﴿يَحِبُّ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (ص: ۲۹)

”(یہ قرآن) ایک کتاب مبارک ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں

اور سمجھ دار لوگ فصاحت حاصل کریں۔“

اور عدم تدبر کا گلدان الفاظ میں کیا ہے:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ط﴾ (النساء: ۸۲)

”کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟“

اور

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْعَالُهَا﴾ (محمد: ۲۴)

”کیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن پر؟ یا دلوں پر لگے ہوئے ہیں ان کے قفل؟“

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں کسی عارف کا ایک قول نقل کیا ہے جس سے قرآن کی عام تلاوت برائے تذکر اور اس پر گہرے غور و فکر کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک ختم تو قرآن مجید کا ہر جمعہ کو کر لیتا ہوں ایک ختم میں ماہانہ کرتا ہوں اور ایک سالانہ اور ایک اور ختم بھی ہے جس میں میں تیس سال سے مشغول ہوں اور تا حال فارغ نہیں ہو سکا۔ قرآن کو بطریق تدبر پڑھنے کی شرائط بڑی کڑی ہیں اور ان کا پورا کرنا اس کے بغیر ہرگز ممکن نہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو بس اسی کے لئے وقف کر دے اور اپنی پوری زندگی کا مصروف تعلیم و تعلم قرآن ہی کو بنالے۔ اس کے لئے اولاً عربی زبان کے قواعد کا گہرا اور پختہ علم ضروری ہے۔ پھر اس کے ادب کا ایک ستھرا ذوق اور فصاحت و بلاغت کا عمیق فہم لازمی ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اس کا صحیح فہم اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ادب جاہلی کا تحقیقی مطالعہ کیا جائے اور دور جاہلی کے شعراء و خطباء کے کلام سے ممارست بہم پہنچائی جائے۔ پھر اسی پر بس نہیں قرآن نے خود اپنی مخصوص اصطلاحات وضع کی ہیں اور اپنے خاص اسالیب ایجاد کئے ہیں جن سے انسان ایک طویل مدت تک قرآن کو پڑھتے رہنے اور اس پر غور کرتے

رہنے کے بعد ہی مانوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نظم قرآن کا فہم بجائے خود تدبر قرآن کی راہ کی ایک کٹھن منزل ہے اور مصحف کی موجودہ ترتیب کی حکمت کا علم جو ترتیب نزولی سے قطعاً مختلف ہے اور اولاً مختلف سورتوں اور پھر ہر سورت کی آیتوں کے باہمی ربط و تعلق کو سمجھنا ایسا مشکل مرحلہ ہے جس پر بڑے بڑے اصحاب عزم و ہمت تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں! اسی لئے اس پر شخص مکلف بھی نہیں۔ یہ کام اول تو ہے ہی صرف ان لوگوں کے کرنے کا جو علم کی ایک فطری پیاس لے کر ہی پیدا ہوتے ہیں اور جن کے ذہنوں میں ایسے سوالات از خود پیدا ہو جاتے ہیں جن کا حل عقل کی جملہ وادیاں طے کئے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ طلب علم پر اسی طرح ”مجبور“ ہوتے ہیں جیسے ایک بھوکا تلاش غذا پر یا ایک پیاسا تحصیل ماء پر۔ ایسے ہی لوگ مسلسل ”رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا“ کی دعا کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اگر صحیح رہنمائی میسر آ جائے تو علم و حکمت سے حصہ وافر پاتے ہیں۔ ”تدبر قرآن“ اصلاً تو ایسے ہی لوگوں کے کرنے کا کام ہے ویسے ہر ”طالب علم“ اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنی محنت کے مطابق اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے اور اس کے لئے ایک عام تشویق ہی کے لئے آنحضور ﷺ نے فرمایا:

((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)) (صحیح بخاری، عن عثمان بن عفان ؓ)

”تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔“

اور قرآن حکیم نے ایک عام ہدایت دی کہ:

((قُلُّوْا نَقْرَ مِنْ كُلِّ فَرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَّيْتَفَقَهُوْا فِي الدِّيْنِ))

(التوبہ: ۱۲۲)

”پس کیوں نہیں نکلتا ہر فرقہ فرقے میں سے ان کا ایک گروہ تاکہ سمجھ پیدا کرے دین میں۔“

یہ ”تفقه فی الدین“ تدبر قرآن کا وہ ثمرہ ہے جس کے لئے آنحضور ﷺ نے چیدہ چیدہ صحابہ ؓ کے لئے دعا فرمائی ہے اور جس کا آپ ﷺ نے ((خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ)) کے کلمے کے ساتھ بطور شرط تذکرہ فرمایا ہے یعنی یہ کہ ((اِذَا فَقَهُوْا))

چوتھا حق:

حکم و اقامت

”ایمان و تعظیم“ ”تلاوت و ترتیل“ اور ”تذکرہ تدبر“ کے بعد قرآن مجید کا چوتھا حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ اور ظاہر ہے کہ ماننا پڑھنا اور سمجھنا سب فی الاصل عمل ہی کے لئے مطلوب ہیں۔ اس لئے کہ قرآن مجید نہ تو کوئی جادو یا جنت منتر کی کتاب ہے جس کا پڑھ لینا ہی دفعِ بلیات کے لئے کافی ہوئے یہ محض حصولِ برکت کے لئے نازل ہوا ہے کہ بس اس کی تلاوت سے ثواب حاصل کر لیا جائے یا اس کے ذریعے جان کنی کی تکلیف کو کم کر لیا جائے۔ اور نہ ہی یہ محض تحقیق و تدقیق کا موضوع ہے کہ اسے صرف ریاضتِ دینی کا تختہ مشق اور نکتہ آفرینیوں اور خیال آرائیوں کی جولا نگاہ بنالیا جائے۔ بلکہ جیسا کہ

اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے ”هٰدِيَ لِلنَّاسِ“ یعنی انسانوں کے لئے رہنمائی ہے اور اس کا مقصد نزول صرف اس طرح پورا ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے واقعتاً اپنی زندگیوں کا لائحہ عمل بنالیں۔

یہی وجہ ہے کہ خود قرآن حکیم اور اس ذات اقدس نے جس پر یہ نازل ہوا (ﷺ) اس بات کو بالکل واضح فرما دیا ہے کہ قرآن پر عمل نہ کیا جائے تو اس کی تلاوت یا اس پر غور و فکر کے کچھ مفید ہونے کا کیا سوال خود ایمان ہی معتبر نہیں رہتا۔ چنانچہ قرآن مجید نے دونوں فیصلہ سنا دیا کہ:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (المائدة: ۴۴)

”اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل فرمایا تو ایسے ہی لوگ تو کافر ہیں۔“

اور آنحضرت ﷺ نے مزید وضاحت فرمادی کہ:

﴿لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبِعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ﴾ (شرح السنہ)

”تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس (ہدایت) کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔“

﴿مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ﴾ (ترمذی شریف)

”جو شخص قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرائے وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔“

ایک ایسے شخص کا معاملہ تو مختلف ہے جو ابھی تلاش حق میں سرگرداں ہو اور قرآن کو پڑھ اور سمجھ کر ابھی اس کی حقانیت کے عدم یا اثبات کا فیصلہ کرنا چاہتا ہو لیکن جو لوگ قرآن کو کتاب الہی تسلیم کریں ان کے لئے اس سے استفادے کی شرط لازم یہ ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کے رخ کو قرآن کی سمت میں عملاً موڑ دینے اور اس کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کی حتی الامکان سعی کے عزم مصمم کے بعد قرآن کو پڑھیں۔ چاہے اس میں انہیں کیسے ہی کسر و انکسار ترک و اختیار اور قربانی و ایثار کے ساتھ سابقہ پیش آئے۔ بلکہ جیسا کہ اس سے قبل ”تلاوت“ کے لغوی مفہوم کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت تامہ تو درحقیقت ”مکشف“ ہی صرف ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر کے اس کا مطالعہ کریں۔ اس عزم صادق کے بعد بھی ایک طویل مجاہدے اور کٹھن ریاضت کے بعد ہی نفسِ انسانی میں تسلیم و انقیاد کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو آنحضور ﷺ کے اس قول مبارک میں بیان ہوئی جو ابھی میں نے آپ کو سنایا تھا۔ یعنی:

﴿لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبِعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ﴾

”تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس (ہدایت) کے تابع نہ ہو جائے جو

میں لایا ہوں۔“

نفسِ انسانی میں اس کیفیت کا پیدا ہو جانا قرآن کی ”ہدایت تامہ“ کا نقطہ آغاز ہے۔ پھر جوں جوں اس کتاب ہدایت

سے تمسک بڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدًى وَآلَهُمْ نَفَقَاتُهُمْ﴾ (محمد: ۱۷)

”اور جو لوگ راہ یاب ہوئے تو ان کو مزید عطا ہوئی سوچہ اور نصیب ہوئی پرہیز گاری۔“

یعنی انسان قرآن کی انگلی پکڑ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش عملاً شروع کر دے تو صراطِ مستقیم پر گامزن ہو جائے گا اور درجہ بدرجہ رشد و ہدایت میں ترقی کرتا چلا جائے گا۔ ورنہ اس کی تلاوت صرف وقت کا ضیاع ہی نہ ہوگی بلکہ عین ممکن ہے کہ اس کے لئے موجب لعنت ہو۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بعض عارفین کا قول نقل فرمایا کہ قرآن کے بہت سے پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے لعنت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ جب وہ پڑھتا ہے کہ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ یعنی اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر تو اگر وہ خود جھوٹا ہے تو یہ لعنت اسی پر ہوئی! اسی طرح جب ایک قاری تلاوت کرتا ہے کہ:

﴿لَٰنَ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ﴾ (البقرة: ۲۷۹)

”اور اگر ایسے نہیں کرتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کے لئے اللہ اور اس کے رسول سے۔“

رہا ان لوگوں کا معاملہ جو قرآن حکیم پر تحقیق و تدقیق غور و فکر اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے ہوں، لیکن خود اس کے تقاضوں کی ادائیگی سے غفلت برتیں تو ان کا معاملہ تو سب سے بڑھ کر سنگین ہو جاتا ہے اور ان کی یہ ساری کد و کاوش اور تحقیق و جستجو صرف دہنی عیاشی ہی نہیں ”تلعّب بالقرآن“ یعنی ص ”بازی بازی باریش بابا ہم بازی!“ کے مصداق قرآن کے ساتھ کھیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ نتیجتاً ان کے اپنے حصے میں بھی قرآن سے ہدایت نہیں ضلالت آتی ہے۔

﴿يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا﴾ (البقرة: ۲۶)

”مگر اہ کرتا ہے (اللہ تعالیٰ) اس سے بہت سوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو۔“

اور خلقِ خدا کے لئے بھی یہ طرح طرح کے فتنوں کا باعث اور نت نئی گمراہیوں اور ضلالتوں کا سبب بنتے ہیں اس لئے کہ ان کا سارا ”قرآنی فکر“ اس آیت قرآنی کا مصداق بن جاتا ہے کہ:

﴿فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلٍ﴾ (آل عمران: ۷)

”تو وہ پیچھے پڑتے ہیں تشابہات کے تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان کی حقیقت و ماہیت معلوم کریں۔“

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جنہیں ”تدبر قرآن“ کا خاص ذوق عطا ہوا تھا اور جو کئی کئی برس ایک ایک سورت پر غور و فکر اور تدبر و تفہیم میں صرف کر دیتے تھے ان کے بارے میں یہ تصریح ملتی ہے کہ ان کے اس توقف کا اصل سبب یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن کے علم کی تحصیل کے ساتھ ساتھ اس پر پورے پورے عمل کا بھی حتی المقدور اہتمام کرتے تھے اور اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک انہیں یہ اطمینان نہیں ہو جاتا تھا کہ جتنا کچھ انہوں نے سیکھا اور پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق بھی انہیں حاصل ہو گئی ہے۔ آپ شاید یہ معلوم کر کے حیران ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کی کسی سورت یا اس کے کسی حصے کے حفظ کا مطلب صرف یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اسے یاد کر لیا جائے بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا علم و فہم بھی حاصل ہو جائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی بارگاہ رب العزت سے ارزانی ہو جائے اور اس طرح قرآن ان کے فکر و عمل دونوں پر حاوی ہو جائے۔

غرضیکہ قرآن سے استفادے کی صحیح صورت صرف یہ ہے کہ اس کا جتنا جتنا علم و فہم انسان کو حاصل ہوا ہے وہ ساتھ

کے ساتھ اپنے اعمال و افعال، عادات و اطوار اور سیرت و کردار کا جزو بنانا چلا جائے اور اس طرح قرآن مجید مسلسل اس کے ”خلق“ میں سرایت کرتا چلا جائے۔ بصورت دیگر اس کا خدشہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے اس قول مبارک کے مطابق کہ: ((الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَّكَ أَوْ عَلَيْكَ)) (قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف) قرآن کا علم و فہم الٹا انسان کے خلاف حجت قاطع اور اس کی بد عملی پر سزا و عقوبت کی شدت میں اضافے کا سبب بن جائے۔

یہاں یہ وضاحت البتہ ضروری ہے کہ ”عمل بالقرآن“ کے دو پہلو ہیں ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی۔ قرآن مجید کے ایسے تمام احکام جو انسان کی انفرادی و عجمی زندگی سے متعلق ہوں یا جن پر عمل کا اختیار اسے فی الفور حاصل ہو ان کو بجالانے پر ہر انسان اسی دم مکلف ہو جاتا ہے جس دم وہ اس کے علم میں آئیں اور ان کے معاملے میں تاخیر و تعویق کا کوئی جواز سرے سے موجود نہیں ہے۔ ایسے احکام کی اطاعت و تعمیل میں کوتاہی وہ جرمِ عظیم ہے جس کی سب سے بڑی سزا اخذ لان اور سلبِ توفیق کی شکل میں ملتی ہے، حتیٰ کہ قول و کردار اور علم و عمل کا یہ فرق و تفاوت اور ﴿لَهُمْ تَقْوَلُونَ مَالًا تَفْعَلُونَ﴾ کی یہ کیفیت بالآخر نفاق پر منتج ہوتی ہے۔ یہی حقیقت ہے جو آنحضور ﷺ کے اس قول مبارک میں بیان ہوئی کہ:

((اَكْفَرُ مِنْ اَلْفِیْ اَمْنِیْ قُرْءَا هَا)) (مسند احمد)

”میری امت کے منافقین کی سب سے بڑی تعداد قراء کی ہے۔“

لہذا سلامتی کی راہ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ قرآن کا جس قدر علم بھی انسان کو حاصل ہو اس پر وہ حتیٰ الامکان فوری طور پر عمل شروع کر دے۔

جس طرح فہم قرآن کے لئے قرآن مجید کی وسیع تر اصطلاح ”تذکر“ ہے اسی طرح قرآن پر ”عمل“ کے لئے قرآن کی سب سے جامع اور کثیر الاستعمال اصطلاح ”حکم بما أنزل اللہ“ ہے۔

”حکم“ کے ذیل میں قرآن مجید نے اصل الاصول تو یہ متعین کیا کہ:

﴿اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ﴾ (الانعام: ۵۷، یوسف: ۴۰ و ۶۷)

”حکم (کا اختیار) سوائے اللہ کے اور کسی کو حاصل نہیں۔“

پھر خود قرآن مجید کو ”حکم“ قرار دیا:

﴿وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا﴾ (الرعد: ۳۷)

”اور اسی طرح اتارا ہم نے اسے حکم بنا کر عربی زبان میں۔“

اور نبی اکرم ﷺ کا فرض منصبی یہ قرار دیا کہ:

﴿اِنَّا اَنْزَلْنٰكَ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ﴾ (النساء: ۱۰۵)

”بے شک اتاری ہم نے تجھ پر کتاب حق کے ساتھ تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں کے مابین اس سوچ کے ساتھ جو

اللہ نے تجھ کو عطا فرمائی ہے۔“

اور سورۃ المائدہ میں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق ”حکم“ نہ کریں وہی کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔

(آیات ۴۳، ۴۵، ۴۶ اور ۴۷)

”حکم“ کا مفہوم ایک لفظ میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ لفظ ”فیصلہ“ ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ بات پیش نظر رہے کہ انسان میں اصل اہمیت کی چیزیں دو ہیں ایک اس کا فکر اور دوسرے اس کا عمل۔ ”حکم“ ایک ایسی جامع اصطلاح ہے جو بیک وقت ان دونوں کا احاطہ بھی کرتی ہے اور خاص طور پر ان کے ربط و تعلق کو واضح اور ان کے مقام اتصال کو نمایاں کرتی ہے۔

آسمانی کتابوں پر عمل کے لئے قرآن مجید کی دوسری اصطلاح ”اقامت“ کی ہے جیسا کہ یہود و نصاریٰ کے بارے میں فرمایا گیا کہ:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ (المائدة: ۶۶)

”اور اگر وہ قائم رکھتے تو رات اور انجیل کو اور اس کو جو نازل ہوا ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے تو کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی۔“ اور اس کے متصل بعد یہ فیصلہ سنایا گیا:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾

(المائدة: ۶۸)

”کہہ دو (اے محمد ﷺ)! اے اہل کتاب! جب تک تم تورات، انجیل اور جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہ کرو تم کسی بنیاد پر نہیں ہو۔“

اس نظام عدل و قسط کے قیام کا تذکرہ کمال اجمال و غایت اختصار کے ساتھ سورۃ الحدید کی اس آیت میں ہوا ہے کہ:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (آیت ۲۵)

”ہم نے بھیجے اپنے رسول کھلی نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور میزان تاکہ لوگ سیدھی

طرح انصاف پر قائم رہیں!“

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾

”اور جس معاملے میں بھی تمہارے مابین اختلاف ہو اُس کے فیصلے کا حق اللہ ہی کو ہے۔“

پھر آیت نمبر ۳ میں اس حکم الہی کے دین و شریعت کی شکل میں ڈھلنے کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى

وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾

”راستہ مقرر کر دیا تمہارے لئے دین میں وہی جس کا حکم دیا تھا نوح کو اور جو وحی کیا ہم نے (اے نبی) تیری

طرف اور جس کا حکم دیا ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ قائم رکھو دین اور مت اختلاف میں پڑو اس کے

بارے میں!

پھر آیت نمبر ۱۵ میں آنحضور ﷺ سے خطاب کر کے فرمایا گیا:

﴿لَقَدْ لَئِكَ فَاذُعٌ ۖ وَاسْتَقِيمُ كَمَا أُمِرْتُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ ۖ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ﴾

”بس تو اسی کی دعوت دے اور قائم رہ جیسا حکم ہوا تجھے اور مت پیچھے چل ان کی خواہشوں کے اور کہہ دے کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو نازل فرمائی ہے اللہ نے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے مابین عدل کرو۔“

پھر آیت نمبر ۱۷ میں اس پوری بحث کا خاتمہ ان جامع الفاظ پر ہوا کہ:

﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۖ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۖ﴾

”اللہ ہی تو ہے جس نے اتاری کتابِ کامل حق کے ساتھ اور میزان بھی۔ اور تجھے کیا خبر شاید قیامت قریب

ہی ہے۔“

قرآن مجید تشیع و انتشار اور افتراق و اختلاف کا اصل سبب ”بَغْيًا بَيْنَهُمْ“ کو قرار دیتا ہے چنانچہ سورۃ الشوریٰ کے اس دوسرے رکوع میں بھی ”وَلَا تَفْقَرُوا فِيهِ“ کے تاکید کی حکم کے بعد آیت نمبر ۱۴ میں تفرقہ و انتشار کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ:

﴿وَمَا تَفْقَرُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ﴾

”اور نہیں تفرقے میں پڑے مگر اسکے بعد کہ ان کے پاس ’العلم‘ پہنچ چکا ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کی

غرض سے۔“

❁ پانچواں حق:

تبلیغ و تبیین

ماننے پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کے علاوہ قرآن مجید کا ایک اور حق بھی ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد عائد ہوتا

ہے اور وہ یہ کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔

پہنچانے کے لئے قرآن حکیم کی اصل اور جامع اصطلاح ”تبلیغ“ ہے، لیکن تبلیغ کے پہلو بھی بہت سے ہیں اور مدارج و مراتب بھی۔ حتیٰ کہ تعلیم بھی تبلیغ ہی کا ایک شعبہ اور تبیین بھی اسی کا ایک بلند تر درجہ ہے۔

قرآن حکیم خود اپنے مقصد نزول کی تعبیر ان الفاظ میں کرتا ہے:

﴿هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ﴾ (ابراہیم: ۵۲)

”یہ (قرآن) پہنچادینا ہے لوگوں کے لئے اور تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کر دیئے جائیں۔“

اور نبی اکرم ﷺ پر اپنے نزول کا اولین مقصد یہ قرار دیتا ہے کہ:

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغٌ﴾ (الانعام: ۱۹)

”اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن تاکہ میں تمہیں اور جنہیں بھی یہ پہنچ جائے انہیں اس کے ذریعے خبردار کر دوں۔“

ساتھ ہی اس بات کو غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیتا ہے کہ اس قرآن پاک کی بلا کم و کاست اور بعینہ تبلیغ آنحضور ﷺ کا وہ فرض منصبی ہے جس میں ادنیٰ کوتاہی بھی فرائض نبوت و رسالت میں نقصیر شمار ہوگی۔ چنانچہ سورۃ المائدہ میں انتہائی تاکید کی حکم دیا گیا:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ (المائدہ: ۶۷)
 ”اے رسول! جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی (بلا کم و کاست) تبلیغ کرو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے خدا کے فرض رسالت کو ادا نہیں کیا۔“

بعثت کی پہلی ساعت سے لے کر حیات دنیوی کی آخری گھڑی تک مسلسل تیس سال آنحضور ﷺ اپنے اس فرض منصبی کی ادائیگی کے لئے محنت و مشقت اٹھاتے اور شدائد و مصائب برداشت کرتے رہے اور اس عرصہ میں آپ کی دعوت اگرچہ بہت سے مراحل سے گزری جن میں آپ کی مصروفیات بہت متنوع نظر آتی ہیں، لیکن اگر بظرف غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے عرصے میں آپ کی جدوجہد کا اصل محور قرآن مجید ہی رہا، اور اسی کی تلاوت و تبلیغ اور تعلیم و تبیین میں آپ مسلسل مصروف رہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں چار مقامات پر آپ کے طریق دعوت و تبلیغ اور نچ اصلاح و انقلاب کی وضاحت ان الفاظ میں ہوئی ہے کہ:

﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آلِهَهُ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

(آل عمران: ۱۶۴، الجمعة: ۲)

”وہ (آنحضور ﷺ) تلاوت کرتے ہیں ان پر اس (خدا) کی آیات اور تزکیہ کرتے ہیں ان کا اور تعلیم دیتے ہیں ان کو کتاب اور حکمت کی۔“

بحالات موجودہ یہ ایک بہت دور کی بات اور سہانا خواب معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ واقعی صورت حال یہ ہے کہ وہ امت کو قرآن کو اقوام و امم عالم تک پہنچانے کی ذمہ داری بنائی گئی تھی آج اس کی محتاج ہے کہ خدا سے قرآن ”پہنچایا“ جائے۔ لہذا اس وقت اصل ضرورت اس کی ہے کہ خود امت مسلمہ میں تعلیم و تعلم قرآن کی ایک رچ بول لکے اور مسلمان درجہ بدرجہ قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگ جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، تبلیغ ہی کا ایک شعبہ تعلیم بھی ہے اور اسی کا ایک اعلیٰ درجہ وہ ہے جسے قرآن حکیم ”تبیین“ کا نام دیتا ہے۔ یعنی یہ کہ قرآن مجید کو صرف ”پہنچا“ ہی نہ دیا جائے بلکہ اس کی پوری وضاحت کی جائے۔ اور ایک تو جیسا کہ میں نے قرآن پر تدبر کے ضمن میں عرض کیا تھا، لوگوں کے ذہنوں کے قریب ہو کر کلام کیا جائے اور قرآن کا نور ہدایت وگوں کی نگاہوں کے عین سامنے روشن کر دیا جائے اور دوسرے یہ کہ اس کی سورت و آیات کے بدولت و مضمّنات کو پوری طرح کھول دیا جائے۔ قرآن حکیم نے اپنے آپ کو ”بیان“ کے لفظ سے بھی تعبیر کیا ہے جیسے:

﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۸)

”یہ وضاحت ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لئے۔“

اور اپنے لئے ”مبین“ اور اپنی آیات کے لئے ”بینات“ اور ”مبینات“ کی صفات کا استعمال نہایت کثرت سے کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ کتب الہی کی تبیین و توضیح انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری بھی ہے اور ان اُمتوں کی بھی جو ان کی حامل بنائی جاتی ہیں جیسا کہ آنحضور ﷺ سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل: ۴۴)

”اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ ”یاد دہانی“ تاکہ تو واضح کر دے لوگوں کے سامنے جو کچھ اترا ہے ان کے لئے۔“

اور اہل کتاب کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان سے تبیین کتاب کا عہد لیا گیا تھا:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران: ۱۸۷)

”اور جب عہد لیا اللہ نے ان سے جنہیں عطا فرمائی گئی کتاب کہ اس کو واضح کر دے لوگوں کے لئے۔“

لیکن جب انہوں نے اپنے اس فرض کو ادا نہ کیا اور اُلٹا کتمان حق کے مرتکب ہوئے تو لعنت خداوندی کے مستحق قرار دیے گئے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾ (البقرة: ۱۵۹)

”بے شک جو لوگ چمپاتے ہیں اس واضح تعلیم اور ہدایت کو جو ہم نے نازل فرمائی ہے اس کے بعد کہ واضح کر دیا ہم نے

اس کو لوگوں کے لئے اپنی کتاب میں تو لعنت کرتا ہے ان پر اللہ اور لعنت کرتے ہیں سب لعنت کرنے والے۔“

اس ”تبیین“ کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر قوم پر اس کی عام زبان اور آسان محاورے میں سہل انداز سے قرآن مجید کا سرسری

مفہوم واضح کر دیا جائے۔ اس لئے کہ کسی قوم کے لئے تبیین قرآن اس کی اپنی زبان ہی میں ہو سکتی ہے جیسا کہ فرمایا گیا کہ:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ (ابراہیم: ۴)

”اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر بولی بولنے والا اپنی قوم ہی کی تاکہ واضح کر دے ان پر (اللہ کا پیغام)۔“

﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾

”ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے پھر نہ اٹھایا انہوں نے اس (کی ذمہ داری) کو اس گدھے

کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ پیٹھ پر لا دے پھر رہا ہو۔“

اور پھر اس کے فوراً بعد واضح کر دیا گیا کہ ان کا طرز عمل آیات الہی کی تکذیب کے مترادف ہے۔

﴿بَشَرٌ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾

”مردی ہے مثال ان لوگوں کی جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیات کو۔“

اور ساتھ ہی یہ سنت اللہ بھی بیان کر دی گئی ہے کہ:

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

”اور اللہ (ایسے) ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میرا آپ کا شمار اللہ کے نزدیک ان لوگوں میں ہو اور دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن کا حامل بنائے۔

سورۃ الفرقان کی اس آیت کریمہ میں کہ:

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ (آیت ۳۰)

”اور کہا رسولؐ نے اے میرے رب! میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا۔“

اگرچہ اصلاً تذکرہ ان کفار کا ہے جن کے نزدیک قرآن سرے سے کوئی قابل التفات چیز ہے ہی نہیں، لیکن قرآن کے وہ ماننے والے یقیناً اسکے ذیل میں آتے ہیں جو عملاً قرآن کے ساتھ عدم توجہ و التفات کی روش اختیار کریں۔ چنانچہ مولانا شبیر احمد عثمانیؒ لکھتے ہیں:

”آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی صحیح قراءت کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔“

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُوْرًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ اِنَّ الْكَفْلَ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ۔

(آمین)

”پروردگار! ہم پر قرآن عظیم کی بدولت رحم فرما اور اسے ہمارے لئے پیشوا، نور اور ہدایت و رحمت بنادے۔ پروردگار! اس میں سے جو کچھ ہم بھولے ہوئے ہیں وہ ہمیں یاد کرا دے اور جو ہم نہیں جانتے ہمیں سکھا دے۔ اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس کی تلاوت کریں راتوں کو بھی اور دن کے حصوں میں بھی اور بنادے اسے دلیل ہمارے حق میں اے تمام جہانوں کے پروردگار!“ (آمین)



یہ کتاب دُعاؤں کے بیان میں ہے

دُعا کا معنی ہے ادنیٰ کا اعلیٰ سے بطریق عاجزی کچھ طلب کرنا اور علامہ نووی نے کہا ہے کہ تمام شہروں کے اہل فتویٰ کا اتفاق ہے۔ یعنی تمام زمانے میں وہ متفق رہے ہیں کہ دُعا کرنا مستحب ہے اور دلیل ان کی یہ ہے کہ قرآن وحدیث کے واضح دلائل کے علاوہ انبیاء علیہم السلام کا فعل اس پر شاہد ہے کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام دُعا کرتے تھے۔

اور بعض زہاد اور اہل معارف نے کہا ہے کہ دُعا کو ترک کرنا اپنی قسمت پر راضی ہونے کی خاطر اور مولیٰ کی رضا پر راضی ہونے کی وجہ سے افضل ہے۔ بعض زہاد کا قول خاص کیفیت وحالت پر محمول ہے۔ بعضوں کو ایک حالت ہوتی ہے کہ اس میں رضا بقضاء غالب ہوتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال تھا کہ آگ میں ڈالتے وقت جبرئیل علیہ السلام نے دُعا کے لئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا حال جانتا ہے مجھے سوال کی ضرورت نہیں ہے۔

الفصل الاول:

قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت کریں گے

۱/۲۱۰۵ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلْ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَلِيَّتِي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَا مَتَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَهَا نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ (رواه مسلم و للبخاری اقصر منه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۷۰/۱۱ حدیث رقم ۶۳۶۱۔ و مسلم فی صحیحہ ۲۰۰۷/۴ حدیث رقم (۲۶۰۰۸۸)

و احمد المسند ۳۱۷/۲

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لئے ایک دُعا ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے پس ہر نبی نے دُعا کرنے میں جلدی کی اور تحقیق میں نے اپنی امت کی شفاعت کے واسطے اپنی دُعا چپا رکھی ہے اور قیامت کے دن تک مؤخر کر دی ہے۔ پس وہ ان شاء اللہ میری امت میں سے اس شخص کو پہنچنے والی ہے جو اس حال

میں دنیا سے رخصت ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے اور بخاری شریف کی روایت اس سے کتر ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر نبی نے دُعا کی اور آپ ﷺ نے اپنی امت کی خاطر دُعا کو چھپائے رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر نبی کو دُعا کا حکم فرماتا تھا۔ کہ وہ اپنے مخالفین کی تباہی کے لئے بددعا کرے اور وہ کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا۔ پس ہر نبی نے اپنی دُعا کی جلدی کی۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کی بددعا کے لئے دُعا کی۔ یہاں تک کہ ان کی امت طوفان میں غرق کی گئی اور حضرت صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت کے لئے بددعا کی یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام کی آواز کے ساتھ ہلاک ہو گئی اور میں نے اپنی دُعا کو چھپا رکھا ہے یعنی ان کی ایذا پر صبر کیا ہے اور ان کے لئے بددعا نہیں کی اس لئے کہ میں رحمۃ للعالمین ہوں اور میں نے اس دُعا کو قیامت تک موقوف رکھا ہے کہ اس کے بدلے ہر اس شخص کے لئے شفاعت کروں گا کہ وہ با ایمان مرا ہو۔ اگرچہ گنہگار تھا۔ شفاعت کئی قسم کی ہوگی اور بعض تو حضور ﷺ کی شفاعت کی وجہ سے دوزخ میں داخل نہیں ہوئے اور بعض دوزخ سے جلدی نکل جائیں گے اور بعض لوگ جنت میں جلدی سے داخل ہو جائیں گے اور بعضوں کے درجے جنت میں بلند ہوں گے۔ اللہم ارزقنا شفاعۃ نبینا علیہ الف الف صلوة۔

نبی کریم ﷺ جہان والوں کے لئے رحمت بن کر آئے

۲/۲۱۰۶ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتَّخِذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَّنْ تُخَلِّفَنِیْهِ لِاَنَّمَا اَنَا بَشَرٌ فَاَیُّ الْمُؤْمِنِیْنَ اَذِیْبَتْهُ شَمَّتْهُ لَعْنَتُهُ فَاَجْعَلْهَا لَهٗ صَلَوةً وَرَزَاكَةً وَقُرْبَةً تَقْرِبُهُ بِهَا اِلَیْكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ۔

(متفق علیہ)

آخر جہ البخاری فی صحیحہ ۱۳۹۱۱ حدیث رقم ۶۳۳۸۔ و مسلم فی صحیحہ ۲۰۶۳/۴ حدیث رقم (۷-۶۷۸)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا یا اہل البی میں نے تجھ سے ایک حاجت مانگی ہے مجھے اس کے ساتھ بہرہ مند کر دیجئے اور مجھے اس میں ناامید نہ کر۔ یعنی میں امیدوار ہوں کہ میری حاجت ضرور پوری ہوگی۔ وہ حالت یہ ہے کہ میں ایک انسان ہوں۔ پس جس مؤمن کو میں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو یا میں نے اس کو برا بھلا کہا ہو یا میں نے اس پر لعنت کی ہو یا میں نے اس کو مارا ہو تو ان سب چیزوں کو تو رحمت کا باعث گناہوں سے پاکی کا ذریعہ اور اپنی نزدیکی کا ذریعہ بنادے کہ تو سب چیزوں کے ذریعے روز قیامت اس کو اپنا قرب عطا کرے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں لفظ فانما انا بشر۔ یہ عذر کی تمہید ہے کہ میں بھی آدمی ہوں کہ میں بتقاضائے بشریت کبھی خفا بھی ہو جاتا ہوں اور لفظ فَاَیُّ الْمُؤْمِنِیْنَ اس چیز کے بیان اور تفصیل کے لئے ہے کہ جس کا حضور ﷺ نے اپنے اس قول سے التماس کیا: اَللّٰهُمَّ اَتَّخِذْتُ عَهْدًا۔ پس حاصل یہ کہ جس کو ایذا دوں یہ رحمت کا سبب بنے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک دن اپنے حجرے سے نماز کے لئے نکلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے پاس آئیں اور انہوں نے آپ ﷺ سے کوئی چیز مانگی اور مانگنے میں مبالغہ کیا اور حضور ﷺ کا دامن پکڑ لیا۔ پس آپ ﷺ نے فرمایا: قطع اللہ یدک۔ یعنی اللہ تیرے

ہاتھ کاٹے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ کو چھوڑ دیا اور اپنے حجرے میں تنگدل ہو کر بیٹھ گئیں۔ پھر جب حضور ﷺ ان کے پاس آئے اور ان کو اس طرح دیکھا تو خوش کرنے کے لئے فرمایا: اللہم انی اتخذت عندک عہداً! جب کسی کے لئے بدعا کرے تو مسنون یہ ہے کہ اس کے لئے اس کے بدلے دعا کرے۔

دُعا کرتے وقت خدا تعالیٰ پر پورا یقین ہونا چاہیے

۳/۲۱۰۷ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ إِرْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ أَرْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ وَلْيَعِزِّمْ مَسْأَلَتَهُ أَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا مُكْرِهَ لَهُ۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳۹۱۱ حدیث رقم ۶۳۳۸۔ ومسلم فی صحیحہ ۲۰۶۳۴ حدیث رقم (۷-۶۷۸)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی دُعا مانگے تو یہ نہ کہے اے الہی! اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے اگر چاہے تو مجھ پر رحم کرے اور اگر چاہے تو مجھ کو روزی دے اور چاہیے کہ اپنے مانگنے میں عزم بالجزم کرے۔ شک کا کلمہ نہ کہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دُعا مضبوط ارادے سے مانگنی چاہیے یعنی مانگتے وقت عزم بالجزم ہونا چاہیے اور آدمی کہے یا اللہ ہمارا مطلب پورا کر دے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یہ نہ کہو کہ اگر چاہے تو دے۔ اس لئے یہ قبول کرنے میں شک کرتا ہے اور وہ اپنے وعدہ میں خلاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ تم دُعا کرو میں قبول کروں گا اور اللہ پر زبردستی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے تو لہذا یہ کہنا بے فائدہ ہے کہ اگر چاہے تو دے۔

دُعا عزم بالجزم سے مانگو

۳/۲۱۰۸ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ لِيَعِزِّمْ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاطَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۰۹۵۴ حدیث رقم (۹-۲۷۳۵)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی دُعا مانگے پس یہ نہ کہے۔ الہی مجھ کو بخش اگر تو چاہے۔ لیکن بغیر شک کے یقین کے ساتھ طلب کرے اور رغبت زیادہ کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز دینا مشکل نہیں ہے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ دُعا عزم بالجزم یعنی پختہ یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے کسی چیز کا عطاء کرنا مشکل نہیں ہے اس لیے بڑی رغبت اور یقین کے ساتھ مانگو۔

اللہ تعالیٰ سے ناامید نہیں ہونا چاہیے

٥/٢١٠٩ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْإِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرِ يَسْتَجِبْ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٩٥/٤ حديث رقم (٢٧٣٥٠٩) - (١) الترمذی فی السنن حديث رقم ٣٥٥٢ -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا بندے کی دُعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ گناہ کی دُعا نہ مانگے۔ یا رشتہ توڑنے کی دُعا نہ مانگے۔ جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ کہا گیا یا رسول اللہ! جلدی کیا ہے؟ فرمایا: وہ کہے کہ تحقیق میں نے دُعا مانگی اور تحقیق میں نے دُعا مانگی۔ یعنی اکثر بار میں نے دُعا مانگی۔ پس میں نے دیکھا کہ میری دُعا قبول نہ ہوئی۔ پھر وہ تھک جائے اور دُعا مانگنا چھوڑ دے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن کی دُعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی دُعا نہیں مانگتا جیسے کہ کہے یا اللہ مجھے فلاں آدمی کے قتل پر قدرت دے دے اور حال یہ ہو کہ وہ مسلمان ہو۔ یا یہ کہے کہ یا اللہ مجھے شراب نصیب کر۔ یا یہ کہے کہ فلاں آدمی کو بخش دے اور وہ یقیناً کافر مرا ہو اور اسی طرح محال چیزوں کا مانگنا بھی اسی طرح ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا بیداری کی حالت میں دیکھنا اور رشتہ ناتوڑنا جیسے کہ یہ کہے اے اللہ مجھ میں اور میرے باپ میں جدائی ڈال دے۔ حاصل یہ ہے کہ مومن کی دُعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ اور ناتوڑنے کی دُعا نہیں کرتا اور دُعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرتا اور جب گناہ کی دُعا وغیرہ کرتا ہے تو قبول نہیں کی جاتی اور تھک ہار کر دُعا کرنا چھوڑ دینا بندے کے لئے مناسب نہیں ہے کہ دُعا کرنے سے تھک جائے اس لئے کہ یہ عبادت ہے اور قبولیت میں تاخیر اس لئے ہوتی ہے کہ اس خیر کا ابھی وقت نہیں آیا ہوتا کیونکہ اس کے لئے ازل سے ایک وقت مقرر ہے یا اس لئے کہ ازل سے اس کی دُعا کا قبول ہونا دنیا میں نہیں ہوتا پس اس کو اس کے عوض آخرت میں ثواب دے دیا جاتا ہے یا قبولیت میں تاخیر اس لئے کی جاتی ہے۔ تاکہ مانگنے میں مبالغہ کرے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ دُعا میں مبالغہ کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔

غائب کی دُعا غائب کے لئے بہت جلد قبول ہوتی ہے

٦٢١١٠ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَبِّهِ مَلَكَ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا أَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكَ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ-

(رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ٢٠٩٤/٤ -- حديث رقم (٨٦-٢٧٣٢) - وابن ماجه في السنن ٩٦٦/٢ حديث رقم ٢٨٩٥ -

واحمد في المسند ١٩٥/٥ -

ترجمہ: حضرت ابودرداءؓ سے روایت ہے کہ مسلمان آدمی کی دُعا اپنے مومن بھائی کے لئے اس کے پیٹھ پیچھے یعنی غائب

آدمی کی دُعا غائب کے لئے قبول کی جاتی ہے۔ اس کے لئے ایک فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے یعنی دُعا مانگنے والے کے لئے ایک فرشتہ متعین کیا جاتا ہے جب وہ اپنے بھائی کے لئے بھلائی کی دُعا مانگتا ہے معین کیا گیا فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس کی دُعا قبول کر اور یہ بھی کہتا ہے کہ تیرے لئے بھی ایسا ہی ہو۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ غائب کی دُعا غائب کے لئے بہت جلد قبول ہوتی ہے اور اسی طرح اگر کسی مسلمان بھائی کے سامنے دل ہی دل میں دُعا کی جائے تو وہ بھی خلوص کی وجہ سے اس میں داخل ہے اور فرشتہ کہتا ہے یعنی فرشتہ بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ! اس کے بھائی کے حق میں اس کی دُعا قبول کر اور دُعا کرنے والے کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ تمہیں بھی اس طرح ملے جس طرح تو دوسرے کے لئے دُعا کرتا ہے۔

بد دُعا کرنے سے ممانعت

۷/۲۱۱۱ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تَوَالِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْئَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ.

(رواہ مسلم)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۸۸/۲ حدیث رقم ۱۵۳۲۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں کے خلاف بد دُعا نہ کرو اور نہ ہی اپنی اولاد کے خلاف بد دُعا کرو اور نہ ہی اپنے مالوں (یعنی غلام اور لونڈیوں اور جانوروں) کے خلاف بد دُعا کرو۔ مبادا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ساعت نہ ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہر سوال کو پورا کرتا ہے پس تمہاری بد دُعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے قبول کر لے اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی کو بد دُعا نہیں دینی چاہیے کیونکہ بعض اوقات قبولیت کے ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اس وقت تم بد دُعا کرو اور تمہاری بد دُعا قبول ہو جائے یا تم اپنے اوپر یا اپنی اولاد کے خلاف بد دُعا کرو اور وہ قبول ہو جائے پھر پشیمان ہو۔ بعض نادان غصے اور مصیبت کے وقت اپنے خلاف بد دُعا کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ ابن عباسؓ کی حدیث میں ہے کہ مظلوم کی بد دُعا سے ڈرو۔ یہ کتاب الزکوٰۃ میں مذکور ہے۔

الفصل الثالث:

ہر حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگو

۸/۲۱۱۲ وَعَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ (رواہ احمد والترمذی و ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ)

اخرجه الترمذی فی المسند ۲۷۹۴ حدیث رقم ۴۰۴۹۔ وابن ماجہ ۱۲۵۸/۲ حدیث رقم ۳۸۲۸ و احمد فی المسند ۲۶۷/۴۔

ترجمہ: حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا دُعا عبادت ہے پھر یہ آیت پڑھی اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھ سے دُعا مانگو میں تمہارے لئے قبول کروں گا۔ اس کو امام احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ دُعا مانگنا عبادت ہے۔ اس لئے کہ دُعا ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس میں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سوائے حق تعالیٰ کے ہر چیز سے منہ پھیرتا ہے اور امید و ڈراس کے سوا کسی سے نہیں رکھتا اور دُعا میں اخلاص حمد و شکر اور اللہ سے سوال اور وحدانیت کا اظہار کیا جاتا ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے دُعا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف التفات ہوتا ہے۔ دُعا کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل عاجز کر کے بندگی میں کمال کا اظہار کیا جاتا ہے اور دُعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے استعانت کی جاتی ہے۔ پھر آپ ﷺ نے اس حدیث کی توثیق کے لئے بطور سند ایک آیت اس لئے پڑھی تاکہ معلوم ہو جائے کہ دُعا مامور بہ ہے یعنی اس کے مانگنے کا حکم ہے اور اس پر ثواب ہوتا ہے اور جو چیز اس طرح کی ہو وہ عبادت ہے اور آیت میں بھی یہ دلیل ہے اس پر کہ دُعا عبادت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَمْدٌ خُلُونِ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (المومن: ۶۰) یعنی جو لوگ مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں قریب ہے کہ دوزخ میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہو گئے۔

دُعا عبادت کا مغز ہے

۹/۲۱۱۳ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ مُغْزُ الْعِبَادَةِ۔ (رواہ الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۲۵/۵ حدیث رقم ۳۴۳۱۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دُعا عبادت کا مغز ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ دُعا عبادت کا خلاصہ اور اس کا مقصود بالذات ہے۔ اس لیے کہ عبادت کی حقیقت ہے اور اس کا خلاصہ عاجزی اور اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا ہے اور دُعا کا حاصل یہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز دُعا ہے

۱۰/۲۱۱۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيْءٌ أَحْكَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۴۲۹/۱۲۵/۵۔ وابن ماجہ ۱۲۵۸/۲۔ حدیث رقم ۳۸۲۹۔ واحمد فی المسند ۳۶۲/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ معزز (یعنی بزرگ) چیز دُعا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور ابن ماجہ اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اذکار و عبادات میں سے کوئی چیز دُعا کے برابر نہیں ہے پس یہ اللہ تعالیٰ

کے قول: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ﴾ کے منافی نہیں ہے۔

دُعا تقدیر کو بدل دیتی ہے

۱۱/۲۱۱۵ وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا

يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ - (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۰۳/۳ حدیث رقم ۲۲۲۵۔ وابن ماجہ ۳۵۱۱ حدیث رقم ۹۰۔ (۱) البخاری فی صحیحہ

۱۷۹/۱۰ حدیث رقم ۵۷۲۹۔

ترجمہ: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا دُعا کے علاوہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں پھیرتی اور عمر سوائے نیکی کے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: تقدیر سے مراد ایک مکروہ چیز کا اترنا ہے جس سے آدمی ڈرتا ہے اور جب بندے کو دُعا کی توفیق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے اور تقدیر دو قسم پر ہے۔ ایک مبرم اور دوسری معلق تقدیر مبرم میں کچھ تغیر و تبدل نہیں ہوتا اور تقدیر معلق میں بعض اسباب سے تغیر و تبدل ہوتا ہے پس یہاں تقدیر معلق مراد ہے اور نیکی کے علاوہ عمر کو کوئی چیز زیادہ نہیں کرتی۔ عمر کی زیادتی تقدیر معلق کے اعتبار سے ہے تقدیر میں لکھا جاتا ہے اگر نیکی کرے گا اتنی عمر ہوگی اور اگر نہ کرے گا تو اتنی ہوگی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ لوح محفوظ میں لکھا جاتا ہے مثلاً اگر حج نہ کرے گا یا جہاد نہ کرے گا تو اس کی عمر چالیس برس کی ہوگی اور اگر حج اور جہاد کرے گا اس کی عمر ساٹھ برس کی ہوگی اور جب صرف ایک ہی چیز کی ہوگی اس کی عمر چالیس سے زیادہ نہ ہوگی۔ پس اس کی انتہائی عمر ساٹھ برس تھی اور بعضوں نے اس کے معنی یہ کہے ہیں جب نیکی کی تو اس کی عمر ضائع نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہوتی ہے۔

اپنے اوپر دُعا کو لازم کر لو

۱۲/۲۱۱۶ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ

يَنْزَلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالْدُّعَاءِ - (رواه الترمذی ورواه احمد عن معاذ بن جبل وقال الترمذی هذا حديث غريب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۱۲/۹ حدیث رقم ۳۶۱۶۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا دُعا نفع دیتی ہے اس چیز سے کہ جو اتاری اور اس چیز سے کہ جو نہیں اُتری۔ پس اللہ کے بندو! اپنے اوپر دُعا کو لازم کر لو۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور امام احمد نے معاذ بن جبل سے اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہونے والی مصیبت ہے اس کو دُعا دفع کر دیتی ہے اگر وہ تقدیر معلق ہوتی ہے اور اگر وہ مبرم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرماتا ہے۔ پس اس مصیبت پر تحمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں چاہتا کہ نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ لذت محسوس کرتا ہے جیسا کہ اہل دنیا نعمتوں سے لذت پاتے ہیں اور دُعا نفع دیتی ہے اس کو بلا کو نہیں اتارتی یعنی اس بلا کو اترنے نہیں دیتی بلکہ روک لیتی ہے۔

انسان کو وہی چیز ملے گی جو اس کے مقدر میں ہے

۱۳/۲۱۱۷ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ الشَّوْءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِأَنْفِهِ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ - (رواه الترمذی)

احرجہ الترمذی فی السنن ۱۳۰/۵ - حدیث رقم ۳۴۴۱ - واحمد فی المسند ۳۶۰ -

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ دعا مانگے مگر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے یعنی جو مانگتا ہے دیتا ہے یعنی اگر ازل سے اس کو دینا مقدر ہوتا ہے یا اس سے برائی کو بند کر دیتا ہے اس کے مانند۔ یعنی اس چیز کا دینا اس کے مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ دینے کی وجہ سے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ کی چیز مانگتا ہے تو گناہ کی دعا مانگنے اور ناتے کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور نہیں کرتا۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے اگر وہ گناہ یا رشتہ ناتہ توڑنے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے اگر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز نہیں دینا چاہتے تو نہ دینے کے عوض اللہ تعالیٰ اس سے برائی کو دور کر دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے فضل و مہربانی کا سوال کرو

۱۳/۲۱۱۸ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَنْتَظَارُ الْفَرَجِ - (رواه الترمذی وقال هذا حديث غريب)

احرجہ الترمذی فی السنن ۲۲۵/۵ - حدیث رقم ۳۶۴۲ -

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے کہ اس سے فضل مانگا جائے اور بہترین عبادت کشاہی کا انتظار کرنا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے کشاہی کا منتظر رہے۔ یعنی غم کے دور ہونے اور بلا کے دفع ہونے کا امیدوار رہے۔ غیر اللہ کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرے۔ یہ صبر کی طرف اشارہ ہے اور بے شک صبر کی جزا بے حد و حساب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو

۱۵/۲۱۱۹ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ -

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۲۶/۵ حدیث رقم ۳۴۳۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس لئے کہ انسان کو اللہ رب العزت سے سوال کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ خدا سے نہ مانگنا اور سوال کو ترک کر دینا تکبر ہے۔

بہترین دُعا عافیت کی دُعا ہے

۱۶/۲۱۲۰ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سَأَلَ اللَّهُ شَيْئًا يُعْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ۔

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۱۲/۵ حدیث رقم ۳۶۱۶۔

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے واسطے دُعا کا دروازہ کھول دیا گیا یعنی اس کو بہت زیادہ دُعا کی شرائط و آداب کے ساتھ توفیق دے دی گئی تو اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیئے گئے کہ کبھی اس کو مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے اور کبھی اس کی وجہ سے اس کی بیماری دفع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس چیز سے زیادہ محبوب سوال کوئی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا جائے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ عافیت مانگنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اس کے برعکس اور چیز کے مانگنے کو اتنا پسند نہیں کرتا اور عافیت کے معنی ہیں تمام آفات اور بیماریوں اور بلاؤں سے دنیا و آخرت میں اور ظاہری و باطنی کمزوریاں سے سلامتی و حفاظت اور یہ سب بھلائیوں کو شامل ہے۔ يُسْأَلُ اللَّهُ الْعَافِيَةَ۔

۱۷/۲۱۲۱ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ - (رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۳۰/۵ حدیث رقم ۳۴۴۵۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص کے لئے یہ بات پسندیدگی اور خوشی کا باعث ہو کہ تنگی اور سختی کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دُعا قبول کرے تو اسے چاہئے کہ وہ وسعت و فراخی کے زمانہ میں بہت دُعا کرتا رہے۔“ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

اللہ تعالیٰ غافل کی دُعا قبول نہیں کرتا

۱۸/۲۱۲۲ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلْبٌ غَافِلٌ لَاهٍ - (رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب۔)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۷۹/۵ حدیث رقم ۳۵۴۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ سے مانگو اور تم قبولیت کا یقین رکھتے ہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کھیلنے والے غافل دل کی دُعا قبول نہیں کرتا یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو اور خدا کے علاوہ میں مشغول ہو۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ تم قبولیت کا یقین بھی رکھو۔ یعنی دُعا کے وقت تمہاری ایسی حالت ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے تمہاری دُعا قبولیت کی مستحق ہو جائے یعنی اچھے کام کرتے ہو اور بری باتوں سے بچتے ہو اور دُعا کی شرائط کی رعایت حضور قلب کے ساتھ کرتے ہو۔ یہاں تک کہ قبولیت تمہارے دلوں کے اوپر غالب ہو جائے یا تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے وسیع فضل کی وجہ سے ناامید نہیں کرے گا۔

دُعا کیسے مانگنی چاہیے؟

۱۹/۲۱۲۳ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِطُحُونٍ أَكْفِكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا وَفِي رِوَايَةٍ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ سَلُوا اللَّهَ بِطُحُونٍ أَكْفِكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا قَرَعْتُمْ فَاْمْسَحُوا بِهَا وَجُوهَكُمْ۔ (رواه ابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۷۸۱۲ حدیث رقم ۱۴۸۶

ترجمہ: حضرت مالک بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت تم اللہ سے مانگو۔ تو اس سے ہاتھوں کے اندر کے جانب کے ساتھ مانگو اور اس سے ہاتھوں کے اوپر کی جانب سے نہ مانگو۔ پس جس وقت تم دُعا سے فارغ ہو جاؤ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر دتا کہ برکت جو ہاتھوں پر اترتی ہے چہرے پر بھی پہنچ جائے۔ اس کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دُعا مانگتے وقت ہاتھوں کی ہتھیلیاں اندر کی طرف ہونی چاہئیں یعنی دُعا کرتے وقت ہاتھوں کا رخ اس طرح رکھو کہ ہاتھوں کے اندر کا رخ منہ کے سامنے رہے جیسا کہ دُعا مانگنے کا معمول ہے اٹے ہاتھوں کے ساتھ دُعا نہیں مانگنی چاہیے اور حالت استسقاء اس سے متشبیہ ہے اس میں اٹے ہاتھ سے دُعا مانگنی چاہیے چنانچہ اس کا بیان باب الاستسقاء میں ہو چکا ہے۔

اللہ رب العزت کسی کی دعا رو نہیں کرتا

۲۰/۲۱۲۳ وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّ هُمَا صَفْرًا۔ (رواه الترمذی و ابوداؤد و البیہقی فی الدعوات الکبیر)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۷۸۱۲ حدیث رقم ۱۴۸۸۔ و الترمذی ۲۱۷/۵ حدیث رقم ۳۲۲۷۔

ترجمہ: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق پروردگار تمہارا بڑا حیا مند اور کریم ہے یعنی وہ حیا مندوں کا معاملہ کرتا ہے اور بغیر سوال کے عطاء کرنے والا ہے اور اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ اس کے

ہاتھوں کو خالی لوٹا دے جس وقت بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور ابو داؤد نے اور بیہقی نے دعوات کبیر ہیں۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کریم ہے اور کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو بغیر سوال کے عطاء کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دوں یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے والے بندے کو اپنی رحمت سے دور رکھے یہ بالکل ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے مانگنے والا بنادے۔ آمین۔ ثَمَّ آمین۔

دُعا کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا اور پیرے پر پھیرنا حضور ﷺ سے ثابت ہے

۲۱/۲۱۲۵ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحْطَهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ۔ (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۳۱/۵ حدیث رقم ۳۴۴۶۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جس وقت دونوں ہاتھ اپنی دُعا میں اٹھاتے تھے ان کو نہیں رکھتے تھے جب تک اپنے منہ پر نہ پھیر لیتے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دُعا کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا اور منہ پر پھیرنا مسنون ہے۔

جامع دُعا میں آپ ﷺ کو زیادہ پسند تھیں

۲۲/۲۱۲۶ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدْعُ مَا سِوَاهِ ذَلِكَ۔

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۷۷/۲ حدیث رقم ۱۴۸۲۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ جامع دُعاؤں کو اچھا جانتے تھے اور ان دُعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے جو جامع نہ ہوتی تھیں۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو جامع دُعا میں بہت زیادہ پسند تھیں۔ جامع اس کو کہتے ہیں جس کے الفاظ مختصر ہوں مگر معانی زیادہ ہوں۔ (دنیا و آخرت کے امور کو شامل ہوں) جیسے یہ دُعا میں ہیں۔

رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آذَابَ النَّارَ۔ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اس طرح کی بہت سی جامع دُعا میں حدیث شریف میں آئی ہیں یعنی جو دُعا میں کہ جامع نہ ہوں ان کو چھوڑ دیتے تھے اور جن میں خاص مطلب مذکور ہوں تو ان کو چھوڑ دیتے تھے جیسے ارزاقی زوجہ حسنہ۔ یعنی مجھ کو اچھی بیوی عنایت فرما اور اکثر اعتبار سے آپ جامع دُعا میں ہی مانگا کرتے تھے۔ خاص مطلب کی دُعا نہیں مانگا کرتے تھے اور کبھی کبھی خاص مطلب کی دُعا مانگنا بھی آپ ﷺ سے ثابت ہے۔

غائب کی دُعا غائب کے لیے بہت جلد قبول ہوتی ہے

۲۳/۲۱۲۷ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ اجَابَةُ

دَعْوَةِ غَائِبٍ لِغَائِبٍ - (رواه الترمذی و ابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۸۹/۲ حدیث رقم ۱۵۳۵۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ غائب کی دُعا غائب کے لئے بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور ابوداؤد نے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ غائب کی دُعا غائب کے لئے بہت جلد قبول ہوتی ہے کیونکہ یہ خلوص پڑنی ہوتی ہے اس میں کسی کو سنانے اور دکھلانے کا خیال نہیں ہوتا۔

کسی کو دُعا کے لئے کہنا مسنون ہے

۲۳/۲۱۲۸ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لِي وَقَالَ

أَشْرِكُنَا يَا أَحْيَىٰ فِي دُعَائِكَ وَلَا تَنْسِنَا فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنْ لِي بِهَا الدُّنْيَا۔

(رواه ابوداؤد و الترمذی و انتھت روايته عند قوله ولا تنسنا)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۸۰/۲ حدیث رقم ۱۴۹۸۔ و الترمذی ۲۲۰/۵ حدیث رقم ۳۶۳۳۔ وابن ماجہ فی السنن

۹۶۶/۲ حدیث رقم ۶۸۹۴۔ و آخر فی المسند۔

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے عمرہ کرنے کی اجازت مانگی۔ پس آپ نے مجھے اجازت دے دی اور فرمایا اے چھوٹے بھائی ہمیں بھی اپنی دُعاؤں میں شریک کرنا اور دُعا کے وقت ہمیں نہ بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ ایک کلمہ ساری دنیا کے بدلے میں پسند ہے۔ اس کو ابوداؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور ترمذی کی روایت وَلَا تَنْسِنَا کے لفظ کے ساتھ پوری ہو چکی ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی کو دُعا کے لئے درخواست پیش کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ ﷺ نے

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میرے لیے دُعا فرمانا۔ حدیث میں جو کلمے کا ذکر آیا ہے یا تو اس سے یہی بات مراد ہے جو حضور ﷺ نے ان کو فرمائی یا اور بات فرمائی ہوگی اور حضور ﷺ کا دُعا کے لئے التماس کرنا مقام بندگی میں عاجزی اور مسکینی کا اظہار ہے اور امت کو رغبت دلائی کہ اچھے لوگوں اور عابدوں سے طلب دُعا کریں اور خاص طور پر تنبیہ ہے کہ صرف اپنے ہی لیے دُعا نہ کریں بلکہ دوستوں رشتے داروں کو بھی دُعا میں شریک کریں خصوصاً قبولیت کے مقاموں پر اور اس حدیث مبارکہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بزرگی معلوم ہوئی۔

مظلوم کی دُعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں

۲۵/۲۱۲۹ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تَرُدُّ دَعْوَتَهُمُ الصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالدَّعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزَّتِي لَا نُصْرَتِكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ - (رواه الترمذی)

اخرجه ابن ماجه في السنن ۵۵۷/۱ حديث رقم ۱۷۵۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین شخصوں کی دُعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار جس وقت روزہ افطار کرتا ہے اس لئے کہ عبادت کی ادائیگی کے بعد یہ حالت عاجزی اور مسکینی کی ہوتی ہے اور دوسرا تمام لوگوں کا سردار جب وہ عدل کرے اور حدیث شریف میں آیا ہے ایک ساعت کا عدل ساٹھ (۶۰) سال کی عبادت سے افضل ہے اور تیسری مظلوم کی دُعا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت کی قسم میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگرچہ ایک مدت کے بعد ہو یعنی تیرا حق ضائع نہیں جائے گا اور تیری دُعا رد نہیں کروں گا اگرچہ لمبی مدت گزر جائے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اللہ تعالیٰ مظلوم کی دُعا کو بہت جلد قبول فرماتا ہے اور اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازوں کا کھلنا اور پر چڑھنے سے اور جلدی قبول ہونے سے کنایہ ہے۔

باپ اور مسافر کی دُعا بہت جلد قبول ہوتی ہے

۲۶/۲۱۳۰ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ - (رواه الترمذی وابوداؤد وابن ماجه)

اخرجه ابوداؤد في السنن ۸۹/۲ حديث رقم ۱۵۳۶۔ والترمذی في السنن ۱۶۶/۵ حديث رقم ۳۵۰۹۔ وابن ماجه ۱۲۷۰/۲ حديث رقم ۳۸۶۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین دعائیں قبول کی جاتی ہیں ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ باپ، مسافر اور مظلوم کی دُعا۔ اس کو امام ترمذی، ابوداؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ باپ بیٹے کے لئے دُعا کرے یا بددعا کرے بہت جلد قبول ہوتی ہے اور ماں کی دُعا نہایت شفقت و مہربانی کی وجہ سے بطریق اولیٰ قبول ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا اور مسافر کی دُعا کے بارے میں احتمال ہے کہ اس کی دُعا قبول ہوتی ہے اس شخص کے حق میں جو اس کے ساتھ احسان کرے اور بدعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے جو اس کو تکلیف دے اور اس سے بدسلوکی کرے یا یہ کہ مطلق اس کی دُعا قبول ہوتی ہے خواہ وہ اپنے لئے کرے یا دوسرے کے لئے کرے اور مظلوم کی دُعا قبول ہوتی ہے اس شخص کے حق میں جو اس کی مدد کرے یا اس کو تسلی دے اور مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے اس شخص کے حق میں جو اس پر ظلم کرے۔

الفصل الثالث:

اللہ تعالیٰ سے کسی حقیر چیز کے مانگنے میں بھی شرم نہیں کرنی چاہیے

۲۷/۲۱۳۱ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ زَادَ فِي رَوَايَةٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ مُرْسَلًا حَتَّى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ وَحَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَهُ إِذَا انْقَطَعَ - (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۴۲/۵ حدیث رقم ۲۶۸۲۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا چاہیے کہ تم میں سے کوئی ساری حاجتوں کا سوال اپنے پروردگار سے کرے۔ یہاں تک وہ اپنی پاپوش (یعنی جوتے کا تسمہ) بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ثابت بنانی سے امام ترمذی نے ایک روایت زیادہ کی ہے بطریق ارسال کے کہ یہاں تک کہ اس سے نمک مانگے اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: مصنف کو چاہیے تھا یوں کہتے: رواہ الترمذی و زاد فی روایۃ اور دوسری روایت میں: حتی یسأله شسعه تاکید کے لیے مکرر آیا ہے تاکہ یہ دلالت کرے وہاں سائل کے لئے رکاوٹ اور محرومی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں کو دیتا ہے جو مانگتے ہیں اس لئے بندے کو چاہیے کہ اسی سے التجاء کرے اور اسی پر اعتماد کرے۔ ابوعلی دقاق نے کہا ہے کہ معرفت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اپنی حاجتیں صرف اللہ ہی سے مانگے کم ہوں یا زیادہ ہوں۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رویت الہی کے مشتاق ہوئے: رب ارنی انظر الیک اور جب روٹی کے محتاج ہوئے تو کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔

آپ ﷺ کا دُعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کا طریقہ

۲۸/۲۱۳۲ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ۔

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۴۲/۵ حدیث رقم ۲۶۸۲۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ دُعا کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ حضور ﷺ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔

تشریح: اس حدیث میں آپ ﷺ کے دُعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ جب دُعا کے لیے ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے تو آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔

آپ ﷺ کا ہاتھ اٹھانے کا طریقہ

۲۹/۲۱۳۳ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يَجْعَلُ اصْبَعَهُ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَيَدْعُو.

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سروں کو اپنے مونڈوں کے برابر کر لیتے اور دُعا مانگتے تھے۔

تشریح: اس حدیث میں دُعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی حد بیان کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں جو مذکور ہوا ہے وہ اوسط درجہ ہے اور آپ ﷺ اکثر اسی طرح اٹھاتے تھے اور پہلی حدیث میں جو زیادہ ہاتھ اٹھانے کے بارے میں آیا ہے وہ بعض اوقات پر محمول ہے جب دُعا میں بہت زیادہ مبالغہ منظور ہوتا مثلاً حالت استسقاء میں اور سخت آزمائشوں میں ایسے مواقع پر اتنے ہاتھ اٹھاتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔

دُعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا حضور ﷺ سے ثابت ہے

۳۰/۲۱۳۳ وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ - (رواه البيهقي الا حاديث الثلاثة في الدعوات الكبير)

اخرجه الترمذی فی السنن ۵/حدیث رقم ۳۶۸۳۔

ترجمہ: حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ جس وقت دُعا مانگا کرتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور اپنے منہ پر پھیرتے۔ ان تینوں احادیث کو امام بیہقی نے دعوات کبیر میں نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ دُعا کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر منہ پر پھیرا کرتے تھے۔ علامہ طیبی نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب حضور ﷺ ہاتھ نہ اٹھاتے اپنی دُعا میں تو ہاتھوں کو منہ پر پھیرتے بھی نہ تھے۔ چنانچہ نماز اور طواف اور سونے کے وقت اور کھانے کے بعد اور طرح بعض دیگر مواقع میں جو حضور ﷺ سے دعائیں منقول ہیں ان میں نہ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور نہ ہی منہ پر پھیرا کرتے تھے۔

دُعا مانگنے کا طریقہ

۳۱/۲۱۳۵ وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْمَسْأَلَةُ أَنْ تَرَفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ أَوْ نَحْوَهُمَا وَالْإِسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِاصْبِعٍ وَاحِدَةٍ وَالْإِنْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ وَالْإِنْتِهَالُ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ - (رواه ابو داود)

اخر جہ ابو داؤد فی السنن ۷۹/۲ حدیث رقم ۱۴۸۹۔

ترجمہ: حضرت عمرؓ سے روایت ہے انہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ سوال کرنے کا ادب یہ ہے کہ دُعا کرنے والا اپنے دونوں ہاتھ مونڈوں کے برابر اٹھائے یا ان کے قریب اور استغفار کا ادب یہ ہے کہ ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کرے اور دُعا میں عاجزی اور مبالغہ کرنا اس طرح سے ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اس قدر دراز کرے کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عاجزی کرنی اس طرح سے ہے کہ اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور اپنے ہاتھوں کی پشت اپنے منہ کے قریب کرتے جیسا کہ استقاء میں آیا ہے اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ اشارہ ایک انگلی کے ساتھ کرے یعنی سبابہ کے ساتھ جس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں اور مقصود نفس امارہ کو ملامت کرنا اور شیطان مردود کو ملامت کرنا اور ان کے شر سے پناہ ڈھونڈنا ہے اور ایک کی قید اس لئے لگائی ہے کہ دو انگلیوں سے اشارہ کرنا مکروہ ہے چنانچہ یہ آیا ہے کہ آپ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ دو انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا۔ آپ ﷺ نے اس کو فرمایا کہ ایک انگلی سے اشارہ کرے اور اپنے دونوں ہاتھ اچھی طرح اٹھائے یہاں تک کہ بغلوں کی پسیدی ظاہر ہو جائے اور ہاتھ سر کے مقابل ہو گئے۔

ہاتھ اوپر اٹھانا باعتبار اختلاف حالات کے ہے

۳۲/۲۱۳۶ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ يَقُولُ إِنَّ رَفْعَكُمْ أَبَدَ يَكُمُ بَدْعُ مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا يَعْنِي إِلَى الصُّدُورِ۔ (رواہ احمد)

رواہ احمد۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے وہ یہ کہتے تھے۔ تحقیق تمہارا اپنے ہاتھوں کو (بہت زیادہ) اٹھانا بدعت ہے نبی کریم ﷺ سینہ تک ہاتھ اٹھاتے تھے اس سے زیادہ نہیں کیا۔ اس کو احمد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ابن عمرؓ نے ان پر انکار کیا ہے اس لئے کہ اکثر اوقات بہت زیادہ ہاتھ اٹھاتے تھے اور حالات میں فرق نہیں کرتے تھے کبھی ایک کام کے لئے سینہ تک اٹھاتے تھے اور کبھی دوسرے مقصد کی خاطر مونڈھوں (یعنی کندھے) تک اٹھاتے تھے۔ اور دوسرے مقصد کے لئے کندھوں سے اونچے اٹھاتے تھے۔ اس تقریر سے خوب تطبیق حاصل ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور ﷺ کا ہاتھ اٹھانا اختلاف حالات کے اعتبار سے مختلف تھا۔ کہ اکثر تو سینہ تک اٹھاتے تھے اور بعض اُمور کے لئے کندھوں تک اور بعض مقاصد کے لئے کندھوں سے اونچے اٹھاتے تھے اور اختلاف حالات کی رعایت نہیں کرتے تھے اس لیے ابن عمرؓ نے ان پر طعن کیا۔

کسی کے لیے دُعا مانگتے وقت اپنے آپ کو نہ بھولو

۳۳/۲۱۳۷ وَعَنِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا قَدَعَالَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ۔ (رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب صحیح)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۳۱/۵ حدیث رقم ۳۴۴۵۔

ترجمہ: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جس وقت کسی کا ذکر کرتے پھر اس کے لئے دُعا مانگتے یعنی دُعا مانگنے کا ارادہ کرتے تو سب سے پہلے اپنے واسطے دُعا مانگنی شروع کرتے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے صحیح ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی کے لیے دعا کرے تو سب سے پہلے اپنے لئے دُعا مانگے۔ پھر اس کے لیے مانگے: **ثَلَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِفُلَانٍ۔**

اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دُعا قبول کرتا ہے جب تک وہ گناہ کی دُعا نہ کرے

۳۳/۲۱۳۸ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِيْمٌ وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمَ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا أَحَدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَإِمَّا أَنْ يَتَخَرَّجَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ الشُّؤْمِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذَا نَكَّرُ قَالَ اللَّهُ اكْفُرْ۔ (رواه احمد)

احمد فی المسند ۱۸/۳۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی مسلمان گناہ کی اور رشتہ توڑنے کی دُعا نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وجہ سے تین چیزوں میں سے ایک چیز عطا کر دیتا ہے یا تو اس کا مطلب جلدی پورا کر دیتا ہے اور یا اس کی دُعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دیتا ہے اور یا اس کی مانند اس سے برائی کو پھیر دیتا ہے آخرت کے لئے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اب تو ہم بہت دُعا کیا کریں گے۔ اس لیے کہ ہم نے دُعا کے بڑے فائدے سنے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کا فضل بہت ہے اس کو امام احمد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے یعنی جو کچھ اپنے فضل سے کہہ دیتا ہے اور اپنی وسعت کرم سے تمہاری دُعا کے مقابلہ میں بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔

پانچ آدمیوں کی دُعا رد نہیں کی جاتی

۳۵/۲۱۳۹ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لِهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ حَتَّى يَنْتَصِرَ وَدَعْوَةُ الْحَاجِّ حَتَّى يَصْدُرَ وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حَتَّى يَقْعُدَ وَدَعْوَةُ الْعَرِيبِ حَتَّى يَرَأَوْهُ وَدَعْوَةُ الْآخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ثُمَّ قَالَ وَأَسْرَعُ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ إِبَابَةُ دَعْوَةِ الْآخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ۔

(رواه البيهقي في الدعوات الكبير)

اخرجه فی صحيحہ ۲۰۷/۴ الحدیث رقم (۳۹۹-۲۷۰۰)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا پانچ دعائیں قبول کی جاتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان دُعاؤں کو رد نہیں کرتا: ۱) مظلوم کی دُعا۔ یہاں تک کہ اپنی زبان یا ہاتھ کے

ساتھ ظالم سے بدلہ لے۔ ﴿۶﴾ حاجی کی دُعا جب تک وہ لوٹ کر اپنے شہر واپس نہ آ جائے۔ ﴿۷﴾ جہاد کرنے والے کی دعا۔ ﴿۸﴾ یا طلب علم کے لیے کوشش کرنے والے کی دُعا یہاں تک کہ وہ جہاد یا کوشش کرنے سے فارغ ہو کر بیٹھ جائے اور ﴿۹﴾ مریض کی دُعا یہاں تک کہ اچھا ہو جائے اور بھائی کی دُعا مسلمان بھائی کے لیے جو کہ غائب ہو پھر ان دُعاؤں میں سے بہت زیادہ قبولیت کے لائق وہ دُعا ہے جو دوسرے بھائی کی پشت کے پیچھے کی جائے۔ اس کو امام بیہقیؒ نے دعوات کبیر میں نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿۱۰﴾ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ پانچ آدمیوں کی دُعا رد نہیں کی جاتی جن کی تفصیل اوپر حدیث کے متن میں مذکور ہے۔

بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ

یہ باب اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کا قرب حاصل کرنے کے بیان میں ہے

فائدہ: اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے قرب حاصل کرنا یا نوافل پڑھ کر قرب حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی اور افضل یہ ہے کہ دل اور زبان دونوں سے ہو اور اگر ایک سے ہو تو دل کا ذکر افضل ہے پھر دل کا ذکر دو قسم پر ہے ایک تو عظمت خدا میں فکر کرنی ہے اور جبروت اور ملکوت میں اور اس کی قدرت میں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔

اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ذکر خفی ستر درجے افضل ہے جس کو اعمال لکھنے والے فرشتے بھی نہیں سنتے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ان کے حساب کے لئے جمع کرے گا اور ان کے یاد رکھنے والوں کو لائیں گے۔ جنہوں نے ان کے اعمال کو لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا کہ دیکھو کہ کیا باقی رہا ان کے لئے کچھ پس وہ کہیں گے ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ جمع نہ کی ہو ہم نے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو فرمائے گا تیرے لیے میرے پاس ایک نیکی ہے تو اس کو جانتا نہیں ہے میں اس کا تجھ کو بدلہ دوں گا اور وہ ذکر خفی ہے اور دل کے ذکر کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ امر و نہی کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور پہلی قسم افضل و اعلیٰ ہے۔

اور بعض فقہاء کہتے ہیں زبان کے علاوہ ذکر نہیں ہے کہ ذکر صرف نام اسی چیز کا ہے اور اس کا ادنیٰ مرتبہ قول مختار کے مطابق یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنائے۔ اس کے بغیر معتبر نہیں ہے اور جو دل سے ہوتا ہے۔ وہ دل کا فعل ہے علم و تصور سے ذکر نہیں ہوتا۔ ذکر وہ ہے جو زبان سے ہو۔ پس یہ اس بات کے خلاف ہے کہ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے صحاح و قاموس میں لکھا ہے کہ ذکر بیان کی ضد ہے اور یہ خود دل کا فعل ہے ہاں جو کچھ کہ زبان سے ہو۔ اس کو بھی ذکر کہتے ہیں پس ذکر کا لفظ مشترک ہے دل اور زبان کے فعل کے درمیان اور مشائخ طریقتؒ نے کہا ہے کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں قلبی اور زبانی اور ذکر قلبی کا اثر قوی تر ہے بنسبت زبانی ذکر کے۔ پس شاید بعض فقہاء کا یہ مقصود ہو کہ جہاں شریعت میں زبان سے ذکر کرنا آیا ہے تسبیحات اور قرأت نماز کی طرح اور ذکر کرنا نماز کے بعد اور ان کے علاوہ وہاں دل سے ذکر کرنا کافی نہیں ہے بلکہ زبان سے ذکر کرنا چاہیے۔ یہ بات نہیں ہے کہ

اس پر اخروی ثواب مرتب نہیں ہوتا۔

الفصل الاول:

ذاکرین کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں

۱/۲۱۴۰ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ۔

(رواہ مسلم)

اخرجه فی صحیحہ ۲۰۷/۴ الحدیث رقم (۲۷۰۰ - ۳۹)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ اور ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے دونوں نے کہا۔ جب ایک قوم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور راستوں میں اہل ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور ان کو رحمت ڈھانک لیتی ہے یعنی جو رحمت خاص ذاکرین کے لیے ہوتی ہے اور ان پر سکینہ اترتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان مخصوص کے ساتھ کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں یعنی ملائکہ مقربین اور ارواح انبیاء میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں سکینہ کا ذکر آیا ہے سکینہ دل کی خاطر جمعی کا نام ہے اس کی وجہ سے دنیا کی لذتوں کی خواہش دل سے نکل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان جم جاتا ہے اور سکینہ نازل ہوتی ہے اور جو کہ اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔

المفردون کون ہیں؟

۲/۲۱۴۱ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي طَرِيقٍ مَعَهُ قَمَرٌ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانٌ فَقَالَ سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفْرَدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفْرَدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ۔

اخرجه فی صحیحہ ۲۰۶۲/۴ الحدیث رقم (۱۶۷۶/۴)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کے راستے سے گزرتے ہوئے ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے جس کو جمدان کہا جاتا ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا چلو یہ جمدان ہے سبقت لے گئے مفردون! صحابہؓ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مفردون کون ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مفردون وہ مرد ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں المفردون کے بارے میں بتایا گیا ہے آپ ﷺ سے المفردون کے بارے میں پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی ﷺ المفردون کون ہیں تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ مفردون وہ مرد و عورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں۔ ما المفردون؟ یہ مفردون کی صفت کے بارے میں سوال ہے فرمایا حقیقی تنہائی نفس کی تنہائی کے لائق

واعتبار ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے کہ جب نبی کریم ﷺ جمدان پہاڑ پر پہنچے جو کہ مدینے سے ایک منزل دور ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہم وطن کے مشتاق ہوئے بعض دوسروں سے الگ ہو کر اپنے وطن کو پہلے روانہ ہوئے پیچھے رہنے والوں کو آپ ﷺ نے فرمایا کہ گھر قریب پہنچ چکا ہے جلدی چلو۔ یعنی بعض مفردوں الگ ہو کر جلدی پہنچ گئے صحابہؓ نے مفردوں کی صفت پوچھی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مفردوں کے معنی تو ظاہر ہیں اس کے بارے میں کیا سوال کرتے ہو۔ بلکہ نیکوں میں سبقت لے جانے والوں کے بارے میں پوچھو کہ جنہوں نے خالص اور اپنے نفس کو تنہا کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور لوگوں سے منقطع ہو کر اور گوشہ نشینی اختیار کر کے اکثر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور بہت زیادہ یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ ذکر پر ہمیشگی کرنے والے بغیر غفلت کے اور جب غفلت ہو بھی جائے تو جلدی سے دور کرے اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ نمازوں کے بعد ذکر کرنے سے اور صبح و شام ذکر کرنے سے اور سوتے بیٹھتے ذکر کرنے سے بھی اکثر طور پر ہمیشگی حاصل ہوتی ہے جو کہ حدیث شریف میں منقول ہے۔

ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال

۳/۲۱۴۲ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۰۸/۱۱ الحدیث رقم ۶۴۰۷ - و مسلم فی ۵۳۹/۱ الحدیث رقم (۲۱۱ - ۷۷۹)۔
ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے۔ زندے اور مردے کی طرح ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ ذکر کا دل ذکر سے زندہ ہوتا ہے اور غفلت سے اس کی موت ہوتی ہے جیسے کہ زندہ آدمی اپنی زندگی سے بہرہ مند ہوتا ہے ایسا ہی ذکر کرنے والا اپنے عمل سے بہرہ مند ہوتا ہے اور اسی طرح ذکر نہ کرنے والے کو اپنے عمل سے فائدہ نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کو بھولتا نہیں ہے

۳/۲۱۴۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٌ مِنْهُمْ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۸۴/۱۳ الحدیث رقم ۷۴۰۵ و مسلم فی ۲۰۶۱/۴ الحدیث رقم (۲ - ۲۶۷۵)۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پس اگر مجھ کو اپنی ذات میں یاد

کرے۔ پس میں اس کو اپنی ذات میں خفیہ یاد کرتا ہوں یعنی میں اس کو پوشیدہ ثواب دیتا ہوں اور خود اس کے ثواب کا متولی ہو جاتا ہوں۔ کسی دوسرے کے اس کو سپرد نہیں کرتا اور اگر وہ مجھ کو جماعت میں یاد کرے تو میں بھی اس کو اس جماعت میں یاد کرتا ہوں جو کہ ان سے بہتر ہے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں یعنی اس کے گمان اور توقع کے مطابق۔ اگر وہ غفوی امید رکھتا ہے تو غفور کرتا ہوں اور اگر وہ عذاب کا گمان رکھتا ہے تو عذاب کرتا ہوں اور یہ حدیث رغبت دلاتی ہے اس بات پر کہ امید اللہ تعالیٰ کے خوف پر غالب رکھے اور اچھا گمان رکھے کہ وہ مجھ کو بخش دے گا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت ایک شخص کو دوزخ میں لے جانے کا حکم کرے گا۔ جب وہ دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہوگا تو عرض کرے گا اے میرے رب میں تیرے ساتھ اچھا گمان کرتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو پھیر لاؤ۔ انا عند ظن عبدي بی اور امید کی حقیقت یہ ہے کہ وہ عمل کرے اور پھر وہ بخشش کا امیدوار رہے اور بغیر عمل کے امید رکھنا ایسا ہے کہ جیسے سر دلوہا کوٹنا یعنی یہ بے فائدہ ہوتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں یعنی میں توفیق دیتا ہوں اور رحمت نازل کرتا ہوں اور مدد و حفاظت کرتا ہوں۔

بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ پسند کرے گا

اور اتنا ہی زیادہ قریب کرے گا

۵/۲۱۳۳ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا وَأَزِيدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَحَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْسُئُ أَتَيْتُهُ هَرُوكَةً وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً۔ (رواه مسلم)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۹۵/۱۳ حدیث رقم ۷۴۰۵ و مسلم فی صحیحہ ۲۰۶۸/۴ حدیث رقم (۲۲-۲۶۸۷) والترمذی فی السنن ۲۰۸/۵ حدیث رقم ۳۶۰۸۔ وابن ماجہ ۱۲۵۵/۲ حدیث رقم ۳۸۲۱ واحمد فی المسند ۱۶۹/۵

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا۔ اس کے لیے دس کے برابر ثواب ہوتا ہے اور میں اور بھی زیادہ دیتا ہوں۔ یعنی جس کو چاہوں صدق و اخلاق کے موافق سات سو تک بلکہ اس سے بھی زیادہ کر کے دیتا ہوں اور جو شخص برائی لے کر آئے گا پس برائی کی سزا اس کے برابر یا میں بخش دیتا ہوں اور جس نے مجھ سے اطاعت کے ساتھ نزدیکی تلاش کی۔ میں اس کے ایک بالشت نزدیک ہوتا ہوں۔ یعنی ایک گز تک اپنی رحمت اس تک پہنچا دیتا ہوں جو شخص میرے ایک گز قریب آیا میں اس سے دونوں ہاتھوں کے پھیلائے کی مقدار قریب ہوتا ہوں اور جو شخص میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دو گز آتا ہوں اور جو شخص

میرے پاس زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہوگا (اگر میں اس کے لئے چاہوں گا) تو اس سے زمین کے برابر گناہوں کو بخش دوں گا۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تفسیر: ﴿اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ مہربان ہیں اور نہایت رحم والے ہیں بندے جتنی زیادہ توجہ اور التفات فرماتے ہیں اتنی ہی خدا کی طرف سے رحمت زیادہ ہوتی ہے۔﴾

اولیاء کو تکلیف نہیں دینی چاہیے یہ اللہ کے ساتھ کھلم کھلا جنگ ہے

۶/۲۱۴۵ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَا أُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَا أَعِذَّنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدْتُ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ (رواه البخاری)

الخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱ ج ۳ الحدیث رقم ۶۵۰۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو شخص میرے ولی (دوست) کو ایذا دے تحقیق میں اس کے ساتھ لڑائی کا اعلان کرتا ہوں اور مؤمن نے کسی چیز کے ساتھ قرب حاصل نہیں کیا جو میرے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہو اس چیز سے کہ میں نے فرض کیا ہے اس پر یعنی میرا بندہ ہمیشہ فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے جو قرب حاصل کرتا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور میرا بندہ غفلوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں اور جس وقت میں اسے پسند کرتا ہوں تو اس کی شنوائی بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے اور میں اس وقت اس کی بیانی بن جاتا ہوں۔ جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں کہ اس کے ساتھ پکڑتا ہے اور پاؤں بن جاتا ہوں۔ جس کے ساتھ وہ چلتا ہے اگر یہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں۔ اگر وہ برائیوں اور مکروہات سے پناہ پکڑتا ہے البتہ میں اس کو پناہ دیتا ہوں اور کسی ایسی چیز سے جو میں کرنے والا ہوں توقف اور تردد نہیں کرتا جتنا تردد مؤمن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں کیونکہ مؤمن موت کو ناپسند کرتا ہے اور حالت یہ ہے کہ میں اس کی ناخوشی کو ناپسند کرتا ہوں اور اس کو مرنے کے بغیر چارہ نہیں ہے اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تفسیر: ﴿اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا اور اس سے لڑائی کرے گا۔ میں اس کو لڑائی کے لیے خبردار کرتا ہوں گویا کہ وہ مجھ سے لڑنے والا ہے۔ ائمہ کرامؒ نے کہا ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں اس سے لڑنے والا ہوں سوائے اس گناہ کے اور سود کھانے والے کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ: فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پس اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں میں خطر عظیم ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندے سے لڑائی خاتمہ بد ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ان لیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ لڑائی کرتا ہے وہ

کبھی فلاح نہیں پاتا اور میں نے فرض کیا ہے جو کچھ میں نے اس پر واجب کیا ہے یعنی میری فرمانبرداری کرنی اور منہیات سے بچنا۔ ان کو ادا کر کے جو نیکی حاصل کرتا ہے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کے برابر کوئی اور چیز نہیں ہے جس کو ادا کر کے وہ نیکی حاصل کرے۔ میں اس کی شنوائی ہو جاتا ہوں کا مطلب علامہ خطابی نے کہا ہے کہ یہ ہے میں اس پر افعال آسان کر دیتا ہوں۔ جو ان اعضاء کی طرف منسوب کیے گئے ہیں اور میں ان افعال کی اس کو توفیق دے دیتا ہوں یہاں تک کہ گویا وہ اعضاء ہی جاتا ہوں اور بعض لوگوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حواس اور اس کے اعضاء کو اپنی رضا کا وسیلہ بنا لیتا ہے پس وہ نہیں سنتا مگر جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور بعضوں نے یہ معنی بھی کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے آپ کو غالب کر لیتا ہے یہاں تک کہ وہ چیز نہیں دیکھتا مگر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور کسی چیز سے تردد نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی عنایت کی وجہ سے بندے کو موت دینے میں تردد کرتا ہوں۔ اس وجہ سے کہ اس کو مرنا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن مرنے کے بغیر چارہ کار نہیں ہے اور وہ بزرگیوں اور عالی درجات کو پہنچتا ہے اور اللہ رب العزت کے پاس حاضری اور جنت حاصل ہوتی ہے اور تردد کے معنی دوامروں میں تھیر کرنا ہے کہ وہ نہ جانتا ہو کہ دونوں میں درست کونسا ہے اور اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر محال ہے۔ پس اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی امر میں متردد شخص کے توقف و خبر کی طرح کسی کام میں تاخیر و توقف نہیں کرتا مگر بندہ مؤمن کے روح قبض کرنے میں توقف کرتا ہوں تاکہ اس پر موت آسان ہو جائے اور اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے اور وہ اس کے ساتھ مشتاق ہو جائے پس وہ مقررین کے سلک میں داخل ہو اور اعلیٰ علیین میں قرار پکڑے۔

اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے

۷/۲۱۴۶ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَيْنَا حَاجَتَكُمْ قَالَ فَيَحْفَظُهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالَ يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيَكْبِّرُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ وَيَمَجِّدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُولُ كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَمَا نَرَا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمَجُّدًا وَأكْفَرَ لَكَ تَسْبِيحًا قَالَ فَيَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونَ قَالُوا يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَمَا نَرَاهَا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قَالَ فِيمَ يَتَعَوَّدُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ قَالَ فَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُولُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فَلَان لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْفَى جَلِيسُهُمْ (رواه البخاری وفي رواية مسلم) قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فَضَّلَا

يَتَوَنَّنَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعَدُوا إِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُولُونَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عَبْدِكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَيِّلُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُونِي قَالُوا يَسْأَلُونَكَ جَنَّتِكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا لَا أَرَى رَبَّ قَالَ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا وَيَسْتَغْفِرُونَكَ قَالَ وَمِمَّا يَسْتَغْفِرُونِي قَالُوا مِنْ نَارِكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا نَارِي قَالُوا لَا قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي قَالُوا يَسْتَغْفِرُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَاعْطِيهِمْ مَا سَأَلُوا وَاجْرُتْهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا قَالَ يَقُولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فَلَانٌ عَبْدٌ خَطَاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُولُ وَلَكِنَّ غَفَرْتُ لَهُمُ الْقَوْمَ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ-

اخرجه البخارى فى صحيحه ۳۴۸/۱۱ حديث رقم ۶۵۰۲- ومسلم فى صحيحه ۲۰۶۹/۴ حديث رقم (۲۵-۲۶۶۹)

واحمد فى المسند ۳۸۲/۲-

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق اللہ پاک کے لیے کتنے فرشتے ہیں جو راہوں میں پھرتے ہیں یعنی مسلمان کی راہیں تلاش کرتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں تاکہ ان سے ملیں اور ان کا ذکر سنیں پس جب ایک جماعت کو پاتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ اپنے مطلب کی طرف جلدی آؤ (یعنی ذکر سننے اور ذکر والوں کو ملنے کے لیے) حضور ﷺ نے فرمایا پس فرشتے ان کو اپنے پروں سے آسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ حالانکہ وہ فرشتوں کی بنسبت بہت جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندے تیری تسبیح کرتے ہیں یعنی تجھ کو پاکی سے یاد کرتے ہیں اور تیری بڑائی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں پھر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا پس فرشتے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم انہوں نے تجھ کو نہیں دیکھا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ (فرشتوں سے) فرماتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوتا اگر مجھ کو دیکھ لیتے؟ حضور ﷺ نے فرمایا پس فرشتے کہتے ہیں اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو آپ کی بہت زیادہ بندگی کرنے والے ہوتے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ پس فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے بہشت مانگتے ہیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے بہشت کو دیکھا ہے؟ پس حضور ﷺ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم! اے پروردگار! انہوں نے بہشت کو نہیں دیکھا۔ پس حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ پس حضور ﷺ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم! اے پروردگار! انہوں نے بہشت کو نہیں دیکھا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں اگر اس کو دیکھ لیتے تو جنت کی بہت زیادہ حرص کرنے والے ہوتے اور بہت زیادہ طلب کرتے اور بہت زیادہ رغبت کرتے۔ اس لیے کہ خبر دیکھنے کی مانند نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ دوزخ سے پناہ

مانگتے ہیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا فرشتے کہتے ہیں خدا کی قسم اے ہمارے پروردگار! انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوتا اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو بہت زیادہ بھاگنے والے ہوتے یعنی جو چیزیں کہ دوزخ کے داخل ہونے کا باعث ہیں ان سے بہت زیادہ بھاگتے اور اپنے دلوں میں بہت زیادہ ڈرنے والے ہوتے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ فرشتوں میں سے کہتا ہے کہ فلاں شخص ذکر کرنے والوں میں سے نہیں ہے بلکہ وہ کسی کام کے لیے آیا تھا پھر ان میں بیٹھ گیا یعنی وہ مغفرت کے لائق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بد بخت نہیں ہوتا۔ اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ فرشتے ہیں کہ ان کو ذکر کے حلقوں کے علاوہ کوئی اور چیز مقصود نہیں ہوتی یعنی وہ ذکر کی مجلس ڈھونڈتے ہیں پس جب وہ ذکر کی مجلس پاتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بعض ان کا بعض کو اپنے پروں کے ساتھ گھیر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ آسمان دنیا اور ذکر کرنے والوں کے درمیان فرشتے بھر جاتے ہیں۔ پس جس وقت ذکر کرنے والے جدا ہوتے ہیں فرشتے چڑھتے ہیں اور آسمان تک پہنچتے ہیں (یعنی ساتویں آسمان تک) حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے اور وہ ان کا حال خوب جانتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ پس فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تیرے بندوں کے پاس آئے ہیں کہ وہ زمین میں کہ وہ زمین میں تسبیح کرتے ہیں۔ تیری اور تیرا کلمہ پڑھتے ہیں اور تیری بزرگی کو یاد کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے بہشت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انھوں نے میری بہشت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں اے ہمارے رب! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا حال ہوتا اگر وہ میری بہشت دیکھ لیتے؟ اور فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ مجھ سے فرشتے کہتے ہیں کہ تیری آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے آگ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا حال ہوتا اگر وہ میری آگ دیکھ لیتے؟ فرشتے کہتے ہیں تجھ سے بخشش کی طلب بھی کرتے ہیں پس حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحقیق میں نے ان کو بخشا اور میں نے ان کو وہ چیز دی جو انہوں نے مانگی (یعنی بہشت) اور میں نے ان کو آگ سے پناہ دی۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! کہ ان میں فلاں بندہ گنہگار ہے۔ وہ کسی کام کے لیے گزرا تھا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ پس حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو میں نے بخش دیا وہ ایسی قوم ہے کہ اس کی وجہ سے اور اس کی برکت کی وجہ سے ان کے پاس بیٹھنے والا بد بخت نہیں ہوتا۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے ملائکہ کو الزام دینے کے واسطے سے کہ انہوں نے بنی آدم کے حق میں کہا تھا کہ یہ فسق و فساد کریں گے اور ہم تیری تسبیح و تقدس کرتے ہیں اور آخری حدیث میں اہل ذکر کی ہم نشینی پر رغبت دلاتی ہے۔ کسی عارفؒ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھو۔ اگر یہ نہ کر سکو تو اس شخص کے ساتھ تعلق رکھو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے دوام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ بخاری کی روایت میں جواب کیف لو راوا جنتی وغیرہ مذکور ہے لو انھم راوا اور اس میں مذکور نہیں ہے اس لیے

کہ بخاری کی روایت میں یہ جملہ فقط سوال ہی کے لیے ہے اور اس حدیث میں تعجب دلانے کے لیے ہے۔

دُنیاوی مشغولیت کی وجہ سے قلبی کیفیت کا بدل جانا قابل معاف ہے

۸/۲۱۴۷ وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَسَدِيِّ قَالَ لَقِيتُ أَبُوبَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ قُلْتُ نَافَقٌ حَنْظَلَةُ قَالَ مُبَحَّانَ اللَّهُ مَا تَقُولُ قُلْتُ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَ اللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا فَاذْهَبْ أَتَا أَبُوبَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ نَافَقٌ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُدَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَدْرُمُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةَ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً فَلَا تَمُرَّاتٍ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۲۱۰۶/۴ حديث رقم (۱۲) - (۲۷۵۰) - والترمذي في المسند ۷۵۰/۴ حديث رقم ۲۶۳۳ -

واحمد في المسند ۳۴۶/۴ - بتغير بسيط -

ترجمہ: حضرت حنظلہ بن ربیع السیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ حنظلہ تیرا کیا حال ہے؟ یعنی تیری استقامت کیسی ہے اس چیز پر کہ جو تو نے ﷺ سے سنی کہ آیا وہ موجود ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ یعنی حال کے اعتبار سے منافق ہے نہ کہ ایمان کے اعتبار سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ! تو کیا کہتا ہے میں نے کہا کہ ہم جب نبی کریم ﷺ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں دوزخ کے عذاب کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں کبھی جنت کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں۔ اس وقت ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ گویا ہم جنت و دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جس وقت ہم نبی کریم ﷺ کی صحبت سے نکل کر جاتے ہیں۔ بیبیوں اور اولاد میں اور زمینوں اور باغوں میں مشغول ہو جاتے ہیں یعنی ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں یعنی ایسی غفلت ہوتی ہے کہ جو کچھ حضور ﷺ کی صحبت میں سنتے ہیں اس میں سے بہت کچھ بھول جاتے ہیں وہ حالت نہیں رہتی جو حضور ﷺ کی صحبت میں ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یعنی جو کچھ کہ بیان کیا تو نے پس اللہ کی قسم ہم بھی اس حالت کو پہنچتے ہیں یعنی ہمارا بھی یہی حال ہے کہ حاضر و غائب میں تفاوت ہو جاتا ہے۔ پس میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے یہاں تک کہ ہم نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آئے۔ پس میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس قول کی کیا وجہ ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول! جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہمیں دوزخ کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں اور بہشت کے بارے میں گویا کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پس جس وقت آپ ﷺ کے پاس سے نکل جاتے ہیں ہم بیبیوں اور اولاد زمینوں اور باغوں میں مشغول

ہو جاتے ہیں اور ہم بہت سی نصیحتیں بھول جاتے ہیں۔ پس نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر ہمیشہ تم اس حالت پر رہو جس حالت پر تم میرے پاس ہو اور حالت ذکر میں یعنی صاف دل اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں تو البتہ تم سے فرشتے تمہارے بچھونوں اور تمہاری راہوں میں تم سے مصافحہ کریں لیکن اسے حظلہ! یہ ایک ساعت ہے اور ایک ساعت ہے یہ تین بار کہا اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

☆☆☆ تشریح ☆ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر تمہاری ایک ہی حالت رہے یعنی تم دل کے صاف رہو اور اللہ سے ڈرنے والے رہو۔ تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں یعنی اعلانیہ مصافحہ کریں گے ورنہ فرشتے اہل ذکر سے مخفی طور پر مصافحہ کرتے ہیں اور بچھونوں یعنی حالت فراغ اور شغل میں۔ اس سے مراد ہمیشہ ہے اور ایک ساعت جب حضوری ہوتی ہے تو اس کی حکمت یہ ہے کہ پروردگار کے حقوق ادا کر سکو اور جب نیت ہوتی ہے تو نفس کے حقوق ادا کر سکو۔

الفصل الثانی:

ذکر الہی جہاد سے بہتر ہے

۹/۲۱۳۸ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ أَعْمَلِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنَ الْبَقَايِ الدَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذَكَرُ اللَّهِ (رواه مالك و احمد و الترمذی و ابن ماجہ) الا ان مالكا وقفه على ابي الدرداء۔

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۲۷/۵ حدیث رقم ۳۴۳۷۔ وابن ماجہ ۱۲۴۵/۲ حدیث رقم ۳۷۹۰ و مالک فی الموطا۔ و احمد فی المسند ۴۴۷/۶۔

ترجمہ: حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بہترین اعمال کے بارے میں خبردار نہ کروں اور تمہارے بادشاہ کے نزدیک بہت زیادہ پاکیزہ عملوں کے اور بہت زیادہ بلند عملوں کے تمہارے درجوں میں اور تمہارے سونے اور روپیہ خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے دشمنوں سے (یعنی کافروں سے) ملو پھر تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا۔ ہاں خبر دیجئے۔ فرمایا وہ خدا کا ذکر ہے۔ اس کو امام مالک نے نقل کیا ہے احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ مگر یہ کہ مالک نے اس حدیث کو ابو درداء پر موقوف بیان کیا ہے۔

تشریح ☆ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ذکر قلبی باقی اعمال سے بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حدیث میں جس ذکر کا بیان کیا گیا ہے اس سے مراد وہ ذکر ہے جو دل اور زبان دونوں سے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ باقی تمام اعمال یعنی جہاد صدقہ کرنا اور باقی نیک اعمال سے اللہ عز و جل کا ذکر افضل ہے۔

سب سے بہتر عمل خدا کا ذکر ہے۔

۱۰/۲۱۳۹ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ - (رواه احمد والترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۸۷/۳ حدیث رقم ۲۴۳۱۔ والدارمی فی السنن ۳۹۸/۲ حدیث رقم ۲۷۴۸۔ واحمد فی المسند ۴۳/۵۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اس نے کہا کہ کونسا عمل بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس آدمی کے لیے خوشحالی ہے یعنی وہ خوش قسمت ہے کہ بہتر ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے عمل نیک ہوں کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول کونسا عمل بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تو دنیا سے جدا ہو رہا ہو اور زبان تیری ذکر اللہ سے تر ہو۔ اس کو امام احمد اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام اعمال سے بہترین عمل خدا کا ذکر ہے۔ زبان کا تر ہونا یہ کنایہ ہے زبان کی روانی سے اور زبان کی خشکی یہ کنایہ ہے اس کے رکنے سے یا یہ کنایہ ہے مرتے دم تک ذکر کرنے سے کہ ابھی تک ذکر کرنے سے زبان خشک نہیں ہوئی تھی کہ موت آگئی اور ذکر جلی اور خفی دونوں کو شامل ہے اور زبان قلبی اور قلابی دونوں کا احتمال رکھتی ہے یعنی دل و زبان سے ذکر کرے یا صرف زبان سے اور دونوں سے ہونا بہت ہی اچھا ہے۔

ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں

۱۱/۲۱۵۰ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا قَالُوا وَمَا رِیَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ - (رواه الترمذی)

رواه الترمذی فی السنن ۱۹۴/۵ حدیث رقم ۳۵۷۷۔ واحمد فی المسند ۶۵/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب میوے کھاؤ۔ تو صحابہؓ نے عرض کیا کہ کیا جنت کے باغ کیا ہیں فرمایا ذکر کے حلقے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ تشریح: اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے ذکر کے حلقوں کو جنت کے باغوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یعنی جب تم ایک جماعت کے پاس سے گزرو جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ مل کر خدا کو یاد کرو۔ ذکر اللہ کے حلقوں کو جنت کا باغ اس لیے کہا گیا ہے کہ بندہ ان کی وجہ سے بہشت کے باغوں میں داخل ہوگا۔

اور علامہ نوویؒ نے کہا ہے جیسے ذکر کرنا مستحب ہے ایسے ہی ذکر کے حلقوں میں بیٹھنا بھی مستحب ہے اور ذکر کبھی دل سے ہوتا ہے اور کبھی زبان سے اور افضل ذکر یہ ہے کہ دونوں سے ہو اور اگر ایک ہی ہو تو قلبی ذکر افضل ہے جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے اور اگر صرف زبان سے ہو تو بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ منقول ہے کہ ایک مرید نے اپنے شیخ سے کہا کہ میں اللہ کو یاد کرتا

ہوں اور میرا دل غافل ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تیرے ایک عضو کو اپنی یاد میں مشغول کیا ہے۔

ہر حال میں خدا کو یاد رکھنا چاہیے

۱۲/۲۱۵۱ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَعْدٍ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةً وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةً۔ (رواہ ابو داؤد)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۲۶۴۱/۴ حدیث رقم ۴۸۵۶۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک مجلس میں بیٹھے اور خدا کو یاد نہ کرے اس مجلس میں بیٹھنا اس کے لئے خدا کی طرف سے ہے اور افسوس اور خسارہ ہے اور جو شخص اپنی خوابگاہ میں خدا کو یاد نہ کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے افسوس ہوگا۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر حالت میں خدا کو یاد کرو۔ سوتے بھی اٹھتے بھی اور جاگتے بھی اور جو وقت ذکر سے خالی ہوگا قیامت کے دن وہ حسرت اور ندامت کا سبب ہوگا۔

چو اول شب آہنگ خواب آورم ☆ بہ تسبیح نامت ہشتاب آورم
وگر نیم شب سر بر آرم زہ خواب ☆ ترا خوانم وزیم از دیدہ آب
وگر بامراد ست راہم بہ قست ہمہ روز تا شب پناہم بہ قست

خدا کے ذکر کے بغیر مجلس نحوست سے خالی نہیں ہوتی

۱۳/۲۱۵۲ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ۔ (رواہ احمد و ابو داؤد)

اخرجه اخرجہ ابو داؤد فی السنن ۲۶۴۱/۴ حدیث رقم ۴۸۵۵ و احمد فی المسند ۳۸۹/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا نہیں ہے کوئی قوم کہ وہ مجلس سے کھڑی ہو اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کرے وہ ایسی ہے جیسے مردار گدھے کے پاس سے کھڑی ہو اور ان پر حسرت ہوگی۔ اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جس مجلس میں خدا کا ذکر نہ ہو رہا ہو وہ مجلس مردار گدھے کی طرح ہے اور جو لوگ وہاں سے اٹھے گویا کہ وہ مردار کھا کر اٹھے۔

خسارے والی مجلس وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے بغیر ہو

۱۳/۲۱۵۳ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ

وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تَرَةٌ فَإِنَّ شَاءَ عَذَابُهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ۔ (رواہ الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۲۹۱۵ حدیث رقم ۳۴۴۰ واحمد فی المسند ۴۵۳/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھتے اور وہ اللہ کا ذکر نہ کرے اور نہ ہی وہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجے۔ وہ مجلس ان کے لیے افسوس کا باعث بنے گی اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے ان کو عذاب دے اور اگر چاہے تو ان کو بخش دے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ مجلس اللہ کے ذکر کے بغیر ہو تو وہ مجلس افسوس کا باعث بنے گی اور اللہ رب العزت اگر چاہیں تو ان کو عذاب دیں۔ یہ ان کے اگلے پچھلے گناہوں کی بدولت ہوگا اور اگر چاہیں تو اپنے فضل و رحمت سے بخش دیں اور اس میں اشارہ ہے کہ جب اہل مجلس اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا بلکہ ان کو بخش دیتا ہے۔

نفع والا کلام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے

۱۵/۲۱۵۴ وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلَامٍ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا

أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب

اخرجه ابن ماجہ فی السنن ۱۳۱۵۲ حدیث رقم ۳۹۷۴۔

ترجمہ: حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا ہر کلام وبال ہے اس کو اس پر نفع نہیں ہے مگر نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور ابن ماجہ اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلام میں کوئی قسم مباح نہیں ہے لیکن یہ مبالغہ اور تاکید پر محمول ہے اور اس میں شک نہیں ہے کہ کلام مباح میں آخرت میں کوئی نفع نہیں ہے یا یوں کہا جائے گا کہ تقدیر کلام یوں ہے کہ ابن آدم کا کلام حسرت ہے اس میں اس کے لیے نفع نہیں ہے مگر ان چیزوں میں کہ جو مذکور ہوئیں۔ پس یہ حدیث باقی احادیث مذکورہ کے ساتھ موافق ہوگی اور اس سے امر مباح میں شراب کا اضطراب اٹھ جاتا ہے۔

سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے

۱۶/۲۱۵۵ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُكْخِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ

كُفْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ إِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي۔ (رواہ الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۵۲۵/۴ الحدیث رقم ۲۴۱۱۔

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے ذکر کے بغیر کلام زیادہ نہ کرو۔ اس لیے کہ بہت زیادہ کلام کرنا خدا کے ذکر کے بغیر دل کی سختی کا سبب ہے۔ سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور ہوتا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سخت دل آدمی اللہ کو ناپسند ہے یعنی زیادہ کلام کرنے والا حق بات نہیں سنتا اور مخلوق کے ساتھ مخاطب ہونے کی خواہش رکھتا ہے اور خدا کا خوف بہت کم رکھتا ہے اور آخرت سے بہت زیادہ غافل ہوتا ہے۔

انسان کا بہترین مال دل اور زبان ہے

۱۷/۲۱۵۶ وَعَنْ قُوتَبَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَصْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ نَزَلَتْ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَوْ عَلِمْنَا أَى الْمَالِ خَيْرٌ فَتَتَّخِذُهُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ۔ (رواه احمد والترمذى وابن ماجه)

اخرجه ابن ماجه فى السنن ۵۹۶/۱ حديث رقم ۱۸۵۶ مع تغيير۔ واحمد فى المسند ۲۷۸/۵۔

ترجمہ: حضرت قوتبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ یعنی وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ بعض سفروں میں تھے بعض اصحاب نے کہا یہ آیت سونے اور چاندی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ہم نے ان کے بارے میں حکم کو پہچانا اور ان کی مذمت کو بھی جان لیا۔ کاش کہ ہم یہ جانیں کہ کونسا مال سوائے سونا اور چاندی کے بہتر ہے تو ہم اس کو ذخیرہ کریں فرمایا بہترین مال زبان ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی ہو اور شکر کرنے والا دل اور مسلمان بیوی کہ اس کے ایمان پر اس کی مدد کرے۔ اس کو امام احمد ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا بہترین مال زبان اور دل ہے جو سونے چاندی سے بھی زیادہ محبوب مال ہے۔ حدیث پاک کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ سوال مال کی تعین کے بارے میں تھا لیکن ان کی مراد یہ تھی کہ ایسی چیز بیان کر دو۔ جو حاجتوں کے درپیش آنے کے وقت نفع دے۔ پس اسی لیے حضور ﷺ نے وہ چیزیں بتائیں جو ایمان کے لیے مفید ہیں یعنی اس کے دین کی مددگار ہیں کہ وہ نماز روزہ اور دوسری عبادتوں کو یاد دلائے اور اس کو زنا اور تمام حرام چیزوں سے منع کرے۔

الفصل الثالث:

عبادت میں مشقت و محنت اللہ کو بہت پسند ہے

۱۸/۲۱۵۷ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلَقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ مَا أَجْلَسْنَا غَيْرَهُ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ ههنا قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ

وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا أَمَا إِنِّي لَمْ أَتُحْلِفْكُمْ نَهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُ بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی واحد فی المسند ۹۲/۴۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک حلقہ کے پاس آئے جو مسجد میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ کس چیز نے تم کو (اس مجلس میں) بٹھلایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ کی قسم کیا نہیں بٹھلایا تم کو مگر اس ذات نے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم نہیں بٹھلایا ہم کو اس کے سوا کسی نے۔ معاویہ نے کہا۔ خبردار ہو۔ تحقیق میں نے تہمت رکھنے کے لیے تم کو قسم نہیں دی یعنی میں نے تم کو جھوٹا جان کر قسم نہیں دی بلکہ حضور ﷺ کی اتباع کرتے ہوئے کہ آپ نے بھی اس طرح کیا تھا۔ چنانچہ اس حدیث میں مذکور ہے اور کوئی شخص نبی کریم ﷺ کی بہ نسبت حدیث کو مجھ سے نقل کرنے میں میرے مرتبے میں کمتر نہیں تھا یعنی میں احتیاط کی وجہ سے بہت کم احادیث روایت کرتا تھا۔ اس سے مقصود یہ بتانا تھا کہ مجھے اپنے نہ بھولنے پر پورا وثوق ہے کیونکہ جو کہ بہت زیادہ روایت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں نسیان کا احتمال ہوتا ہے میں ایسا نہیں تھا اور تحقیق نبی کریم ﷺ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک حلقہ کے پاس سے گزرے آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے بٹھلایا ہے؟ عرض کیا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے اور ہم پر اس کے ساتھ منت رکھی ہے۔ پس حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم کیا نہیں بٹھلایا تم کو مگر اسی نے۔ انہوں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم اسی نے ہمیں بٹھلایا ہے۔ فرمایا خبردار ہو جاؤ۔ تحقیق میں نے تمہیں اس لیے قسم نہ دی کہ تم پر تہمت رکھوں یعنی جھوٹ کی تہمت لگاؤں۔ لیکن جبریل علیہ السلام منبر کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تم پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے حضور ﷺ نے قسم دے کر پوچھا یہ تاکید و تفریر کی زیادتی کے لیے پوچھا نہ کہ جھوٹی تہمت لگانے کے لئے حدیث کے آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے میرے ان بندوں کو دیکھو کہ میں نے ان پر نفوس اور خواہشوں اور شیطاں کو مسلط کیا ہے۔ اس کے باوجود وہ عبادت میں مشغول ہیں۔ اس لیے وہ تم سے زیادہ تعریف کے لائق ہیں اس لیے کہ تم عبادت میں مشقت نہیں پاتے ہو اور ان کی عبادت تمہاری بہ نسبت ایسی ہے کہ ان کو اس میں محنت اور مشقت ہی مشقت ہے۔

جامع اور آسان عمل

۱۹/۲۱۵۸ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَّ أَعْيُنِ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبُّتُ بِهِ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ -

(رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۲۶/۵ حدیث رقم ۳۴۳۵۔ وابن ماجہ ۱۲۴۶/۲ حدیث رقم ۳۷۹۳۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ! اسلام کے احکام یعنی نوافل مجھ پر بہت غالب ہیں اپنی کمزوری کی وجہ سے سب کے ادا کرنے پر میں عاجز ہوں۔ پس مجھے ایسی چیز بتائیں کہ میں اس پر بھروسہ کروں۔ یعنی ایسا عمل فرمائیے کہ جو بہت زیادہ ثواب رکھتا ہو اور جامع آسان ہو۔ کسی زمان و مکان کی حالت پر موقوف نہ ہو یعنی میں فرض کی ادائیگی کے بعد اپنا ورد کروں اور اس کی وجہ سے سب نوافل سے مستغنی ہو جاؤں فرمایا تیری زبان ہمیشہ تر رہے یعنی خدا کی یاد سے جاری رہے۔ اس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے آپ ﷺ سے جامع اور آسان عمل کے بارے میں سوال کیا۔ تو آپ ﷺ نے جواب دیا کہ تیری زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہے زبان سے مراد یا تو یہی بدن کی زبان ہے یا دل کی زبان مراد ہے۔

اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرنا شہادت سے افضل ہے

۲۰/۲۱۵۹ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ وَأَرْفَعُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنَ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا فَإِنَّ الذَّاكِرَ لِلَّهِ أَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً.

(رواہ احمد و الترمذی و قال هذا حدیث غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۲۷/۵ حدیث رقم ۳۴۳۶۔ واحمد فی المسند ۷۵/۳۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کون سا بندہ بہتر ہے یعنی بہت زیادہ ثواب پاتا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بلند تر ہے۔ فرمایا اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا یہ جہاد کرنے والے سے بھی افضل اور بلند ترین درجے میں ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا اگر وہ اپنی تلوار کا فروں یا مشرکوں میں مارے یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے۔ پس تحقیق خدا کو یاد کرنے والا اس سے درجہ میں بہتر ہے۔ اس کو امام احمد اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا شہادت سے بھی افضل ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول! کیا وہ بلند ترین درجے پر ہے؟ فرمایا جی ہاں وہ بلند ترین درجے پر ہے یعنی اگر جہاد اس حد تک پہنچ جائے تو پھر بھی خدا کو یاد کرنے والا افضل ہے چہ جائیکہ وہ لڑائی میں صرف زخمی ہو۔

غافل دل پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے

۲۱/۲۱۶۰ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَانُ جَائِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ

فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَسَنَ وَإِذَا غَفَلَ وَسُوسَ۔ (رواہ البخاری تعلیقاً)

رواہ البخاری تعلیقاً۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے دل کے اوپر لگا ہوا ہے پس جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو دل سے یاد کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جس وقت اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس کو امام بخاری نے بطریق تعلیق بغیر سند کے روایت کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کا دل غافل ہوتا ہے تو شیطان حملہ کرتا ہے اور جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے یعنی اس کو شیطانی خیالات سے باز رکھتا ہے اور وسوسوں نہیں آنے دیتا۔ ورنہ غفلت کی وجہ سے شیطانی جال میں پھنس جاتا ہے اور نفسانی خیالات اس کو غلط کاموں پر اکساتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین۔

ذکر کی فضیلت و اہمیت کا بیان

۲۲/۲۱۶۱ وَعَنْ مَا لِكَ قَالَ بَلَّغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ كَالْمَقَاتِلِ خَلْفَ الْفَارِسِ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ كَقَصْرِ أَخْضَرَ فِي شَجَرِ يَابِسٍ وَلَوْ رِوَايَةً مِثْلَ الشَّجَرَةِ الْخَضِرَاءِ فِي وَسْطِ الشَّجَرِ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ مِثْلُ مُصْبَحٍ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ يُرِيدُ اللَّهُ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ حَيٌّ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ يُغْفَرُ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ فَصِيحٍ وَأَعْجَمٍ وَالْفَصِيحُ بَنُو آدَمَ وَالْأَعْجَمُ الْبُهَائِمُ۔

رواہ رزین۔

ترجمہ: حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کا ذکر کرنے والا غافلوں میں ایسا ہے جیسے بھاگنے والوں کے پیچھے لڑنے والا یعنی ایک جماعت تو لڑائی سے پیچھے بھاگ گئی اور ان کے بعد ایک شخص کافروں سے لڑتا رہا۔ یہ بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور خدا کو یاد کرنے والا غافلوں میں ایسا ہے جیسے خشک درخت میں سبز ٹہنی ہوتی ہے اور ایک روایت میں درختوں کے درمیان سبز درخت کی طرح ہے اور اللہ کا ذکر کرنے والا غافلوں میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی کی حالت میں یعنی مکافہ کے ساتھ جنت میں اس کو ٹھکانہ دکھلاتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے والا غافلوں میں ایسا ہے کہ اس کے گناہ بقدر فصیح اور اعجم کی گنتی کے بخشے جاتے ہیں اور فصیح سے مراد بنو آدم ہیں اور اعجم سے مراد جانور۔ اس کو رزین نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں ذکر کرنے والوں کو مختلف چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے سب سے بڑی تشبیہ کافروں کے مقابلے میں لڑنے کے ساتھ اور فرمایا ذکر کرنے والا غافل لوگوں میں ایسا ہے جیسے اندھیرے گھر میں چراغ جل رہا ہو کیونکہ ذکر روشنی ہے اور حضور و سرور ہے اور غفلت ظلمت و نفور ہے یعنی بھاگتا ہے۔ ذکر کرنے سے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں جو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔

ذکر عذابِ الہی سے نجات کا باعث ہے

۲۳/۲۱۶۲ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ مَا عَمِلَ الْعَبْدُ عَمَلًا أَنْجِي لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ -

(رواہ مالک و الترمذی وابن ماجہ)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۲۸۱۵ حدیث رقم ۳۴۳۷۔ وابن ماجہ ۱۲۴۵۱/۲ حدیث رقم ۳۷۹۰۔ ومالک۔

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بندے نے کوئی عمل نہیں کیا سوائے اللہ کے ذکر کے جو اس کو اللہ کے عذاب سے نجات عطا کرے۔ اس کو امام مالک، ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ ذکر الہی عذابِ خداوندی سے نجات کا ذریعہ ہے یعنی ذکر کے برابر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دلا سکے۔
یعنی ذکرِ خداوندی تمام اعمال سے افضل ہے۔

ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے

۲۳/۲۱۶۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي

إِذَا ذَكَرَنِي وَتَحَوَّكْتُ بِي شَفَّعْتَاهُ - (رواہ البخاری)

اخرجه البخاری تعلیقاً ۵۸۰/۱۳ فی باب ((ولا تحرك لسانك لعجل به))۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں یعنی میں مدد کرتا ہوں اور میں توفیق دیتا ہوں رحمت و رعایت کرتا ہوں جس وقت وہ مجھ کو یاد کرتا ہے اور اپنے دونوں ہونٹ میرے ذکر کے ساتھ ہلاتا ہے یعنی مجھے اپنے دل اور زبان سے یاد کرتا ہے۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور اس کو نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اپنی رحمت و رعایت کا معاملہ کرتے ہیں جس وقت وہ دل اور زبان سے خدا کو یاد کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ذکر عذابِ الہی سے نجات دینے والا ہے

۲۵/۲۱۶۳ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ صَفَالَةٌ

وَصَفَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجِي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقُطِعَ - (رواہ البيهقي فی الدعوات الكبير)

اخرجه البخاری فی صحيحه ۲۱۴/۱۱ حدیث رقم ۶۴۱۰ ومسلم فی صحيحه ۲۰۶۲/۴ حدیث رقم (۵-۲۶۷۷)۔

وابن ماجہ ۱۲۶۹/۲ حدیث رقم ۳۸۰۔ ۸۳۸۶۱ واحمد فی المسند ۲۶۷/۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے فرمایا ہر چیز کے لیے صفائی ہے اور دلوں کی صفائی خدا کی یاد سے ہے اور اللہ کے ذکر کے علاوہ خدا کے عذاب سے زیادہ نجات دینے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا (اے اللہ کے رسول!) جہاد بھی نہیں جو خدا کے راستے میں کیا جائے؟ فرمایا: اور نہ ہی یہ کہ اپنی تلوار کے ساتھ مارے یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے۔ اس کو پہنچنے نے دعوات کبیر میں نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے ذکر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر جہاد اس درجے کو پہنچ بھی جائے تو پھر بھی ذکر افضل ترین ہے۔ ذکر کی بقیہ اعمال پر فضیلت دوسری حدیثوں میں واضح ہو چکی ہے۔

کِتَابُ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰی

اللہ تعالیٰ کے اسمائے مبارکہ

فائدہ: یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں یعنی سماع پر موقوف ہیں اور اذن شارح پر موقوف ہیں جو شریعت میں نام آئے وہ کہنا چاہیے اور اپنی طرف سے ازراہ عقل کے نہیں لینا چاہیے۔ اگرچہ دونوں ناموں کے ایک ہی معنی ہوں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کو نہ ہی عالم کہے اور نہ ہی عاقل کہے اور نہ ہی جواد کہے اور نہ ہی بخشنے والی اور نہ ہی شافی اور نہ ہی طیب اور انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے میں حاصل کرے جس قدر ہو سکے۔

چنانچہ ان اسمائے مبارکہ کا بیان شرح میں ہو چکا ہے اور بعض جگہ دوسری عبارتوں کی تشریح میں اللہ تعالیٰ کی صفات حصول کی جو تلقین کی گئی ہے ہر شخص کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللھم وفقنا ویسر لنا حصولنا اور منقول ہے ایک بزرگ سے کہ۔ جب ان کے پاس کوئی بیعت کے ارادہ سے آتا۔ تو اس کو وضو کا حکم کرتے جب وہ وضو کر کے آجاتا تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے اسمائے مبارکہ، عظمت و جلال کے ساتھ پڑھتے جس اسم مبارک کی تاثیر اس میں دیکھتے وہی تعلیم کرتے اور سمجھتے کہ اس سے اس کا مقصد جلد حاصل ہوگا چنانچہ وہی ہو جاتا یعنی مقصد پورا ہو جاتا۔

الفصل الاول:

اللہ عز وجل کے ننانوے نام

۱/۲۱۶۵ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَفِي رِوَايَةٍ وَهُوَ وَتَرْبُحُثُ الْوُتْرَ۔ (متفق علیہ)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جو کوئی ان کو یاد کرے گا بہشت میں داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ طاق ہے اور طاق ہی کو پسند کرتا ہے۔ (متفق علیہ)

تشریح: اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں تو اس سے حصر اور تحدید مراد نہیں ہے کہ اللہ

تعالیٰ کے بس اتنے ہی نام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت نام ہیں چنانچہ آگے صفحات میں ننانوے اسماء مبارکہ کے بعد کچھ اور نام بھی ذکر کئے جائیں گے انشاء اللہ، بلکہ یہاں ننانوے کا عدد ذکر کرنے سے مراد اور مقصود یہ ہے کہ حدیث میں اسماء باری تعالیٰ کی جو خاصیت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص انہیں یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا وہ انہیں ننانوے ناموں کے ساتھ مخصوص ہے۔

لفظ اَحْصَاہَا کی بابت علماء کی کئی آراء موجود ہیں۔ بخاری وغیرہ نے اس کے معنی وہی لکھے ہیں جو ترجمہ سے ظاہر ہیں ”یعنی ان ناموں کو یاد کیا“ اور یہی قول زیادہ صحیح ہے چنانچہ بعض روایتوں میں اَحْصَاہَا کی بجائے حفظہا ہی منقول ہے بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں ”ان کو پڑھایا یا ان کے معانی جانے اور ان پر عمل کیا۔“

ہو وتریحب الوتر: یعنی اللہ عزوجل طاق اعمال واذکار کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام اعمال میں اس عمل کو پسند کرتا ہے جس کی بنیاد فقط اور فقط رضائے الہی ہو۔

الفصل الثانی:

۲/۲۱۶۶ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنَ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيفُ الْمُقْبِتُ الْحَسِيبُ الْجَبَلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُخِي الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاحِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمَقْدَمُ الْمُؤَخَّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالَى الْبَرُّ الْتَوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفْوُ الرَّءُوفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَنَاعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ۔ (رواه الترمذی والبیہقی فی الدعوات الکبیر وقال الترمذی هذا حدیث غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۹۲/۵ حدیث رقم ۳۵۷۴۔

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جو شخص ان ناموں کو یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اسم ذات اللہ کے علاوہ ننانوے نام یہ ہیں: (۱) الرحمن (۲) الرحیم (۳) الملک (۴) القدوس (۵) السلام (۶) المؤمن (۷) المہیمن (۸) العزیز (۹) الجبار (۱۰) المتکبر (۱۱) الخالق (۱۲) الباری (۱۳) المصور (۱۴) الغفار (۱۵) القہار (۱۶) الوہاب (۱۷) الرزاق (۱۸) الفتاح (۱۹) العليم (۲۰) القابض (۲۱) الباسط (۲۲) الخافض (۲۳) الرافع (۲۴) المعز (۲۵) المذل (۲۶) السميع (۲۷) البصیر (۲۸) الحکم (۲۹) العدل (۳۰) اللطیف (۳۱) الخبیر

(۳۲) الحليم (۳۳) العظيم (۳۴) الغفور (۳۵) الشکور (۳۶) العلی (۳۷) الکبیر (۳۸) الحفیظ (۳۹) المقیّت (۴۰) الحسیب (۴۱) الجلیل (۴۲) الکریم (۴۳) الرقیب (۴۴) الحجیب (۴۵) الواسع (۴۶) الحکیم (۴۷) الودود (۴۸) المجید (۴۹) الباعث (۵۰) الشہید (۵۱) الحق (۵۲) الوکیل (۵۳) القوی (۵۴) المتین (۵۵) الولی (۵۶) الحمید (۵۷) المحیی (۵۸) المبدی (۵۹) المعید (۶۰) الحی (۶۱) المیت (۶۲) الحی (۶۳) القیوم (۶۴) الواجد (۶۵) الاحد (۶۶) الصمد (۶۷) القادر (۶۸) المتقدر (۶۹) المقدم (۷۰) المومخر (۷۱) الاول (۷۲) الاخر (۷۳) الظاهر (۷۴) الباطن (۷۵) الوالی (۷۶) المتعالی (۷۷) البر (۷۸) التواب (۷۹) المنتقم (۸۰) العفو (۸۱) الرؤف (۸۲) مالک الملک (۸۳) ذو الجلال والاكرام (۸۴) المقطع (۸۵) الجامع (۸۶) المغنی (۸۷) الغنی (۸۸) المانع (۸۹) الضار (۹۰) النافع (۹۱) النور (۹۲) البہادی (۹۳) البدریج (۹۴) الباقي (۹۵) الوارث (۹۶) الرشید (۹۷) البصیر (۹۸) الماجد (۹۹) الواحد۔ اس روایت کو ترمذی نے اور بیہقی نے دعوات کبیر میں نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿۱﴾ ھُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا ھُوَ: یہ جملہ متانفہ ہے۔ یعنی علیحدہ بیان ہے یہ ایک کم سونا مومن کا بیان ہے اور اس کلمے کے کئی مراتب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو منافق کہتا ہے کہ وہ تصدیق سے خالی ہوتا ہے پس یہ اس کو دنیا میں تو نفع دے گا۔ کہ اس سے جان و مال اور اس کے اہل و عیال محفوظ رہتے ہیں اور آخرت میں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ دل کا عقیدہ بھی ملا دے۔ محض تقلید کی خاطر اس کی صحت میں اختلاف ہے صحیح یہ ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس کے ساتھ اعتقاد ہو جو کہ قدرت الہی کی نشانیوں سے حاصل کیا گیا ہو۔ اکثروں کے نزدیک یہ معتبر ہے۔ اور چوتھا یہ اس کے ساتھ اعتقاد جازم ہو جو ازراہ قطعی دلیل حاصل ہوا ہو اور یہ اتفاقاً مقبول ہے۔

اور پانچواں یہ کہ اس کا کہنے والا اس کا معنی دل کی آنکھوں سے دیکھے اور یہ عالی رتبہ ہے اور اگر یہ کلمہ فقط دل ہی سے کہے اور اس حالت میں اگر وہ معذور ہے یعنی گونگا پن وغیرہ ہے تو اس کو دنیا و آخرت میں نفع دے گا اور اگر کچھ عذر نہیں ہے تو آخرت میں کچھ مفید نہیں ہے اس کو امام نوویؒ نے نقل کیا ہے اور اس پر اہلسنت کا اجماع ہے۔

اللہ کے لفظ کے معنی ہیں مستحق عبادت اور اکثر علماء کے نزدیک یہ نام سب ناموں سے بڑا ہے اور عوام کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس نام کو اپنی زبان پر جاری کریں اور بطور خشیت و تعظیم کے اس کا ذکر کریں اور خواص کو اس کے معنوں میں تامل کرنا چاہیے اور یہ جان لیں کہ اس کا اطلاق جامع صفات الوہیت کے لائق ہے۔

اور خواص الخاص کو چاہیے کہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ میں مستغرق رکھیں اور اللہ کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہ کریں اور نہ امید رکھیں اور نہ ہی ڈریں مگر اللہ سے اس لیے کہ وہ حق اور ثابت ہے اور اس کے علاوہ باطل ہے جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا بہت زیادہ سچا کلمہ شاعروں کے کلام میں لبید کا یہ کلمہ ہے۔

ع لا کل شی ما خلا اللہ باطلاً

لفظ اللہ کی خاصیت:

جو شخص اس نام کو ایک ہزار مرتبہ پڑھے وہ صاحب یقین ہو اور جو شخص اس کو نماز کے بعد سو (۱۰۰) بار پڑھے اس کا باطن کشادہ ہوگا اور صاحب کشف ہوگا۔

الرحمن الرحیم: بخشنے والا مہربان اور مومن کا نصیب ان دونوں ناموں سے یہ ہے کہ اس سے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس پر توکل کرے اور اپنے باطن کو مشغول رکھے اور اس کے غیر سے بے پروائی کرے اور بندگان خدا پر رحم کرے اور مظلوم کی مدد کرے اور ظالم کو ظلم سے نیک طریقے سے روکے اور غافل کو خبردار کرے اور گنہگار کی طرف دیکھے نظر رحمت کے ساتھ نہ کہ حقارت کے ساتھ۔

اور خلاف شروع چیز کو بقدر طاقت روکنے کی کوشش کرے اور محتاجوں کی حاجت روائی میں بقدر وسعت و طاقت کے کوشش کرے اور اس کی خاصیت میں سے یہ بھی ہے جو ہر نماز کے بعد الرحمن الرحیم کہے۔ حق تعالیٰ غفلت، نسیان اور قساوت اس کے دل سے اٹھا دیتا ہے اور جو کوئی سو (۱۰۰) بار الرحیم پڑھے اللہ کی تمام مخلوق اس پر مہربان و شفیق ہو جاتی ہے۔

الملک: حقیقی بادشاہ کہ دو جہاں کا مالک اسی کے قبضہ و قدرت میں ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں جب بندے نے یہ جان لیا تو اس کو چاہیے کہ اس کی درگاہ کا سوالی بن جائے اور اسی سے عزت مانگے اور واجب ہے کہ قدرت اور تصرف کے مالک کے ساتھ تعلق پکڑے اور سب سے بے نیاز ہو جائے اور اپنی احتیاج کسی سے ظاہر نہ کرے اور ان سے ڈر اور امید نہ رکھے اور اپنے نفس و دل کا مالک ہو جائے اور اپنے قالب، اپنے اعضا اور قوی کا مالک ہو اور ان کو حق کی اطاعت میں مخر کرے اور حکم شرع پر اپنے وجود کا صحیح طور پر حاکم بن جائے۔

الملک کی خاصیت: الملک جو کوئی اس اسم کو القدوس کے ساتھ ملازمت کرے۔ اگر وہ صاحب ہلک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو قائم و دائم رکھے گا۔ ورنہ اس کا نفس مطیع و فرمانبردار ہو جائے گا اور اگر عزت و حرمت کی خاطر پڑھے تو مجرب ہے اور حضرت شاہ عبدالرحمن نے اس کی خاصیت لکھی ہے جو شخص اس اسم کو نوے (۹۰) بار ہر روز پڑھے روشن اور تو نگر ہوگا یعنی مالدار ہوگا اور بادشاہ اس کے مخر ہونگے۔ عزت و حرمت کی زیادتی کے لیے مجرب ہے۔

القدوس: اس کا معنی ہے نہایت پاک۔ علامہ قشیری نے کہا ہے کہ جس نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نہایت پاک ہیں تو وہ آرزو کرے اس کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو عیبوں اور آفتوں سے اور گناہوں کی نجاستوں سے پاک کرے ہر حالت میں جو کوئی القدوس ہر روز زوال کے نزدیک پڑھے گا اس کا دل صاف ہوگا اور کوئی نماز جمعہ کے بعد اس کو السبوح کے نام کے ساتھ روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھائے گا۔ فرشتہ صفت ہو جائے گا اور دشمنوں سے پناہ حاصل کرنے کے لیے بھاگتے وقت جس قدر پڑھ سکے پڑھے اور اگر مسافر آدمی راستے میں مداومت کرے کبھی ماندہ اور عاجز نہیں ہوگا اور اگر وہ تیس بار شیرینی پر پڑھ دشمن کو کھلائے تو مہربان ہو جائے گا۔

السلام: اس کا معنی ہے سلامت و بے عیب اور بندے کا نصیب اس سے یہ ہے کہ وہ برے اخلاق سے اور برے کاموں سے بے عیب ہو جائے گا اور علامہ قشیری نے کہا ہے کہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے مولیٰ کی طرف قلب سلیم کے ساتھ رجوع

کرے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے سلامت رہیں بلکہ بہت زیادہ ان پر شفقت کرے۔ پس جب اپنے سے بڑی عمروالے کو دیکھے تو کہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے اس لیے کہ اس نے میری بہ نسبت اطاعت زیادہ کی ہے اور ایمان و معرفت میں مجھ سے سبقت رکھتا ہے۔

اور اگر چھوٹے کو دیکھے تو یہ کہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے اس لیے کہ اس نے میری بہ نسبت گناہ کم کیے ہیں اور اگر کسی مسلمان سے بھولے سے قصور ہو جائے اور وہ کوئی عذر کرے تو اس کو چاہیے کہ قبول کرے اور معاف کر دے۔

اور السلام کو جو شخص ایک سو گیارہ بار بیمار پر پڑھے حق تعالیٰ اس کو صحت و شفا دے گا اور اگر وہ اس پر مداومت کرے گا تو خوف سے ڈر ہوگا۔

المومن: امن دینے والا۔ بندے کا نصیب اس سے یہ ہے کہ وہ مخلوق کو اپنی برائی سے امن میں رکھے اور غیر کی برائی سے بچائے رکھے اور جو شخص اس اسم کو بہت پڑھے گا یا اپنے ساتھ رکھے گا حق تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے ڈر رکھے گا اور کوئی اس پر قدرت پانے والا نہیں ہوگا اور اس کا ظاہر و باطن حق تعالیٰ کی امان میں ہوگا اور جو کوئی اس اسم کو بہت زیادہ پڑھے گا اللہ کی مخلوق اس کی مطیع و فرمانبردار ہو جائے گی۔

الہیمن: ہر چیز کا خوب طرح سے نگہبان اور عارف کا نصیب اس سے یہ ہے اپنے دل کو برے عقیدوں اور برے خیالات حسد و کینہ وغیرہ سے بچائے رکھے اور اپنا احوال درست کرے اور اپنے قویٰ اور اعضاء کو دل کو غافل کر دینے والی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ جو کوئی غسل کرے اور ایک سو پندرہ (۱۱۵) مرتبہ پڑھے وہ غیبی اور باطنی چیزوں کے بارے میں مطلع ہو جائے گا۔ اور اگر اس پر مواظبت کرے گا تو تمام آفتوں سے پناہ حاصل کرے گا اور بہشت والوں میں سے ہوگا۔

العزیز: غالب و بے مثل کہ کو کوئی اس پر غالب نہیں ہے۔ نصیب بندے کا اس سے یہ ہے کہ وہ نفس و ہوا اور شیطان پر غالب ہو جائے گا اور علم و عمل اور عرفان میں بے مثل ہو جائے گا اور اپنے نفس کو مخلوق سے سوال کرنے کو ترک کرنے کے ساتھ اپنی ذات کو عزت بخشے اور سوال کر کے ذلیل نہ کرے۔ ابو العباس مرسی نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے عزت نہیں دیکھی مگر مخلوق کی بلند ہمتی رکھنے میں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے عزیز جانا کہ جس نے اس کی اطاعت کو عزیز جانا اور جس نے اس کے اوامر کو آسان جانا اس نے اس کی عزت نہ جانی۔ ارشادِ ربانی ہے: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾۔

اے عزیز جو کوئی نماز کے بعد اکتالیس (۴۱) بار اس کو پڑھے دنیا اور آخرت میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا اور بعد خواری کے عزیز ہوگا اور اس اسم عجیب و غریب کی کئی خاصیتیں ہیں۔

الجبار: بگڑے ہوئے کاموں کو درست کرنے والا اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں بندوں کو اس چیز پر لانے والا کہ جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ بندے کا نصیب اس سے یہ ہے کہ کمال و فضائل کو حاصل کرنے کے ساتھ نفس کے نقصان کو درست کرے۔ اپنے سرکش نفس پر غالب ہو جائے اور تقویٰ اور ہمیشہ کامل اطاعت کرنے کو لازم کرے۔

اور علامہ قشیریؒ نے فرمایا ہے کہ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے تو ارادہ کرتا ہے اور میں بھی ارادہ کرتا ہوں اور نہیں ہوتا مگر جو کچھ کہ میں ارادہ کرتا ہوں پس اگر تو اس چیز کے ساتھ راضی ہو جائے جو میں ارادہ کرتا ہوں

تو میں کفایت کرونگا تجھ کو اس چیز سے کہ جس کا تو ارادہ کرتا ہے اور اگر تو میرے ارادہ پر راضی نہ ہوا۔ تو میں تجھ کو کفایت نہیں کرونگا اس چیز سے کہ جس کا تو ارادہ کرتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے کہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں۔

جو کوئی سماعت عشر کے بعد اکیس (۲۱) بار یہ اسم پڑھے۔ ظالموں کے شر سے امن میں ہوگا اور جو کوئی اس پر مداومت کرے گا تو مخلوق کی غیبت اور بدگوئی سے نڈر ہوگا اور امان میں رہے گا اور اہل دولت اور سلطنت سے ہوگا اور اگر انگوٹھی پر نقش کر کے پہنے گا تو اس کی ہیبت اور شوکت مخلوق کے دل میں قرار پکڑے گی۔

التمکبر۔ نہایت بزرگ۔ تیرا نصیب اس سے یہ ہے کہ جب تو نے اللہ تعالیٰ کی بزرگی معلوم کی تو شہوات کی طرف میلان سے پرہیز کر اور الفت کی چیزوں کی طرف آرام پکڑ۔ رغبت کرنا جانوروں کا کام ہے اگر تو رغبت کرے گا تو ان کے ساتھ شریک ہو جائے گا بلکہ پرہیز کر ہر چیز سے کہ وہ تیرے باطن کو حق سے باز رکھے اور ہر چیز کو اس کی ذات کے علاوہ حقیر جان اور تواضع اور تذلل کے طریقے کو لازم کر اور اپنے سے تمام دعویٰ تکبر کو دور کرتا کہ نفس صاف ہو جائے اور اللہ کی محبت اس میں قرار پکڑے۔ نفس کے لیے کوئی اختیار اور غیر اللہ کے ساتھ قرار باقی نہ رہے۔

اگر کوئی شخص ہم بستی میں دخول سے پہلے دس بار پڑھے تو حق تعالیٰ اس کو فرزند خلف اور پرہیزگار عطا فرمائیں گے اور اگر ہر کام کی ابتداء میں پڑھے تو وہ اپنی مراد کو پہنچ جائے۔

الخالق: خلق یعنی مخلوق کا مشیت اور حکمت کے موافق اندازہ کرنے والا اور جو کوئی شخص اس اسم پر ملازمت کرے تو حق تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو قیامت تک اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور اس کا چہرہ اور دل نورانی ہو جائے گا اور شاہ عبدالرحمن نے لکھا ہے کہ جو کوئی اسم الخالق کو بہت زیادہ رات میں پڑھے گا اس کا دل اور اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا اور تمام کاموں میں تقویت ملے گی۔

الباری: کا معنی ہے پیدا کرنے والا اور جو شخص ایک ہفتہ میں سو (۱۰۰) بار اسم الباری پڑھے گا حق تعالیٰ اس کو قبر میں نہ چھوڑے گا اور ریاض قدس کی طرف لے جائے گا اور جو طیب اسم الباری پر مواظبت کرے گا جو علاج بھی کرے گا موافق رہے گا۔

المصور: صورت بنانے والا۔ بندے کا نصیب ان تینوں ناموں سے یہ ہے کہ جب بھی کسی شے کو دیکھے تو اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور عجائب میں غور و فکر کرے اور جو عورت بانجھ ہو وہ سات دن روزہ رکھے اور افطار کے وقت اکیس (۲۱) بار المصور کو پڑھے اور پانی پر دم کر کے پی لے۔ حق تعالیٰ نیک فرزند اور زینہ اولاد عطا فرمائیں گے اور جو شخص کثرت سے پڑھے گا اس کے دشوار کام آسان ہو جائیں گے۔

النفار: بندوں کو بخشنے والا بندے کے گناہوں کو بخشنے والا اور ان کے عیبوں کو ڈھانکنے والا۔ تیرا نصیب اس سے یہ ہے کہ تو یہ بات پہچان لے کہ سوائے اللہ کے اور کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا اور وہی لوگوں کے عیبوں کو ڈھانکتا ہے اور ان کے قصور معاف کرتا ہے اور خصوصاً سحری کے وقت استغفار کو لازم کر لے جو شخص نماز جمعہ کے بعد سو (۱۰۰) بار یا غفار اغفر لی ذنبی پڑھے تو حق تعالیٰ اس کو بخشے ہوئے لوگوں میں سے کر دیتا ہے۔

التمہار: کا معنی ہے کہ سب اس کی قدرت کے آگے عاجز و مغلوب ہیں۔ بندے کا نصیب اس سے یہ ہے کہ وہ خصوصاً

بڑے دشمنوں پر جو کہ نفس و شیطان ہیں پر غالب ہو جائے گا جو کوئی اس اسم کو بہت کثرت سے پڑھتا ہے حق تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت اٹھا دیتا ہے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت و شوق پیدا کر دیتا ہے۔ اور کسی بھی مقصد کے لیے کوئی شخص القہار (۱۰۰) بار پڑھے اس کا مقصد آسان ہو جائے گا اور اگر اس پر مداومت کرے گا تو دنیا کی محبت دل سے جاتی رہے گی۔ اگر سنت و فرض کے درمیان سو بار (۱۰۰) دشمن کو مقہور کرنے کے لیے پڑھے تو دشمن مقہور ہو جائے گا۔

الوہاب۔ بہت زیادہ بغیر عوض کے دینے والا۔ بندے کا نصیب اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان و مال بلا غرض اور بلا عوض خرچ کرے جو کوئی فقر و فاقہ میں مبتلا ہو تو وہ اس اسم پر مداومت کرے حق تعالیٰ اس کو ایسی نجات دیتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے اور جو شخص اس اسم کو لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہے وہ اس کا اثر ایسا ہی پاتا ہے اور اگر نماز چاشت کے بعد سجدہ کی آیت پڑھے اور سرجدہ میں رکھے اور سات (۷) بار پڑھے تو وہ خلقت سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اگر کسی کو حاجت درپیش ہو تو وہ رات کو گھر کے صحن میں یا مسجد کے صحن میں تین بار سجدہ کرے اور ہاتھ اٹھا کر سو بار پڑھے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور فراخی رزق کے لیے چاشت کے وقت چار رکعت پڑھے اور فراغت کے بعد سجدہ میں جائے اور سجدہ میں ایک سو چار (۱۰۴) بار یا وہاب پڑھے اور اگر فرصت نہ ہو تو پچاس (۵۰) مرتبہ پڑھے۔ مولانا عبدالعزیز۔

الرزاق: رزق پیدا کرنے والا اور مخلوقات کو رزق پہنچانے والا۔ رزق اس کو کہتے ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جائے پھر وہ دو قسم پر ہے ظاہری اور باطنی۔ ظاہری وہ ہے جس سے بدن کو فائدہ ہو۔ کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ اور اسباب یعنی کپڑا وغیرہ اور باطنی وہ کہ جس سے نفس اور دل کو فائدہ ہو علوم اور معارف کی طرح اور عارف کا نصیب اس سے یہ ہے کہ اس کا یقین کرے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی رزق کے دینے کے لائق نہیں ہے۔ پس اس کے علاوہ کسی سے توقع نہ رکھے۔ وہ اپنے امور سونپے اللہ تعالیٰ کی طرف اور ہاتھ اور زبان سے رزق جسمانی اور روحانی لوگوں کو پہنچائے یعنی مال خرچ کرے اور لوگوں کو ہدایت کرے اور علم سکھائے اور دعائے خیر کرے وغیرہ بلکہ بعض عارفین سے پوچھا گیا کہ تو کہاں سے کھاتا ہے؟ تو اس نے کہا جب سے میں اپنے خالق کو پہچانا ہے تو میں نے اپنے رزق میں شک نہیں کیا اور ایک عارف سے کہا گیا کہ قوت کیا ہے؟ پس اس نے کہا جو شخص حی الذی لا یموت طلوع صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے گھر کے ہر چاروں کونوں میں دس دس بار پڑھے اس گھر میں رنج اور مفلسی نہیں آئے گی۔ لیکن دائیں جانب سے شروع کرے اور قبلہ کی طرف سے منہ نہ پھیرے۔

الفتاح۔ حکم کرنے والا اور بعض نے کہا کہ رحمت اور رزق کے دروازوں کو کھولنے والا تیرا نصیب اس سے یہ ہے کہ تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں سعی کرے اور یہ کہ تو مظلوموں کی مدد کرے اور تو امور دنیا و آخرت میں لوگوں کی حاجت روائی کا ارادہ کرے۔

علامہ قشیریؒ نے کہا ہے کہ جس نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ رزق اور رحمت کے دروازوں کو کھولنے والا ہے اور اسباب کا میسر کرنے والا ہے اور امور کا درست کرنے والا ہے تو وہ اس کے غیر میں اپنا دل نہیں لگائے گا اور جو شخص نماز فجر کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر ستر بار پڑھے اس کے دل کا زنگ جاتا رہتا ہے اور صفائی آسان ہو جاتی ہے۔

العلیم: ظاہر و پوشیدہ کا جاننے والا۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ جس نے جانا کہ اللہ تعالیٰ میرا حال جاننے والا ہے۔ اس کی

آزماؤں پر صبر کرے اور اس کی عطا پر شکر کرے اور اپنی خطاؤں سے بخشش چاہے اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نہیں جانتے کہ میں تم کو دیکھتا ہوں تو تمہارے ایمان میں خلل ہے۔ اگر تم جانتے ہو کہ میں دیکھتا ہوں تو تم نے مجھ کو سب دیکھنے والوں میں حقیر تر سمجھا یعنی دوسروں سے شرم کرتے ہیں کہ تمہاری برائی اور عیب پر کوئی مطلع نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے کچھ شرم نہیں کرتے۔ العیاذ باللہ۔ جو شخص اس اسم کو کثرت سے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معرفت نصیب فرماتے ہیں۔ جو شخص نماز عشاء کے بعد یہ اسم سو بار پڑھے تو عالم الغیب حق تعالیٰ اس کو اہل کشف میں سے کر دے گا اور اگر چاہے گا کہ پوشیدہ کاموں سے آگاہی حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ شب جمعہ میں نماز عشاء کے بعد سو (۱۰۰) بار مسجد میں پڑھ کر سونے اس کام کی ماہیت اس پر واضح ہو جائے گی۔

القابض۔ کا معنی ہے روزی کا تنگ کرنے والا یا بندوں کا دل اور روح کا قبض کرنے والا۔ جو شخص چالیس روز تک اس کو چار نوالوں پر لکھ کر کھائے گا۔ عذاب قبر اور بھوک سے امن میں رہے گا۔

الباسط: بندوں کے رزق میں کشادگی پیدا کرنے والا یا ان کے دلوں میں وسعت پیدا کرنے والا۔ ان دونوں ناموں (القابض اور الباسط) سے انسان کا نصیب یہ متعلق ہے کہ وہ نہ تو مصائب و آفات کے وقت مایوسی کا شکار ہو اور نہ فراوانی کے وقت بے فکری اور غفلت کا مظاہرہ کرے اور اس کے انصاف کا نتیجہ سمجھے اور اس پر صبر اختیار کرے اور خوشحالی کو اس کا فضل سمجھے اور ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے۔ علامہ قشیریؒ فرماتے ہیں کہ دل کی یہ دونوں کیفیات (یعنی دل کا کشادہ ہونا اور تنگ ہونا) اہل معرفت کے قلوب پر طاری ہوتی ہیں کہ جب ان کے دل خوفِ الہی سے مغلوب ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے دل تنگ ہوتے ہیں اور جب رحمتِ الہی کی امید ان کے دلوں پر غالب ہوتی ہے تو اس وقت ان کے دل کشادہ اور وسیع ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں کسی نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ خوفِ الہی میرے دل کو تنگ اور رحمت کی امید میرے دل کو کشادہ کر دیتی ہے۔ حق (یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد) سے میرے دل کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے اور لوگوں کی صحبت سے میرے دل کی یکسوئی بکھر جاتی ہے (یعنی لوگوں کی صحبت سے میں پریشانی قلب میں گرفتار ہو جاتا ہوں)

بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ نگہ پریشانی میں مبتلا کرے تو بے قراری و بے چینی سے اجتناب کرے اور جب اللہ تعالیٰ کشادگی و وسعت عطا فرمائے تو اس وقت بیجا مسرت و گستاخی سے پرہیز کرے کیونکہ ان باتوں سے مقربین ڈرتے ہیں۔

خاصیت ☆ جو شخص صبح صادق کے وقت ہاتھ اٹھا کر اس اسم مبارک کا دس مرتبہ ورد کرے گا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرے گا تو اسے کبھی اپنی حاجت و ضرورت کی درخواست کسی کے سامنے کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوگی۔

الخافض: کفار کو ذلیل و رسوا کر کے یا ان کو اپنی درگاہ سے دور رکھ کر ان کی طرف پیٹھ کرنے والا۔

خاصیت ☆ جو شخص تین دن روزے رکھے اور چوتھے دن ایک جگہ بیٹھ کر اس اسم مبارک کا ستر ہزار مرتبہ ورد کرے تو اس کی برکت سے وہ دشمنوں پر غالب آجائے گا اور فتح سے ہمکنار ہوگا۔

الرافع: اہل ایمان کی نصرت و امداد کر کے یا ان کو اپنی درگاہ کے قریب کر کے ان کو رفعت بخشے والا۔ ان دونوں ناموں (الرافع اور الرفع) سے بندے کا نصیب یہ متعلق ہے کہ وہ نہ تو اپنی کسی حالت پر بھروسہ کرے اور نہ ہی اپنے علوم، اعمال و افعال میں سے کسی پر بھی اعتماد کرے اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مغلوب کرنے کا حکم دیا ہے اس کو مغلوب کرے۔ مثلاً خواہشات نفسانیہ اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے غالب کرنے کا حکم دیا ہے اس کو غالب کرے مثلاً دل اور روح۔

ایک واقعہ منقول ہے کہ کسی شخص کو لوگوں نے ہوا میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ تم نے اس مرتبے کو کیسے حاصل کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی نفسانی خواہشات کو پست کر دیا اور ان کو پس پشت ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت میرے لئے ہوا کو تابع کر دیا۔

خاصیت ☆ جو بندہ اس اسم مبارک کا نصف شب میں یا دوپہر کے وقت میں سو مرتبہ ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق میں نیک اور مالدار بنادے گا اور اسے ہر چیز سے مستغنی کر دے گا۔

المعز: عزت عطا کرنے والا۔

جو شخص اس اسم مبارک کا پیر کی رات یا جمعہ کی رات میں ایک سو چالیس بار ورد کرے گا مخلوق کی نگاہ میں اس کا خوف و دبدبہ اور شان و شوکت پیدا ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا۔

المذل: ذلیل و رسوا کرنے والا۔

ان دونوں ناموں سے بندے کا نصیب یہ متعلق ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت کی بدولت محبوب رکھا ہے وہ بھی ان کو محبوب رکھے اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کفر و گمراہی کے باعث ذلیل و رسوا کیا ہے ان لوگوں کو وہ بھی ذلیل و رسوا سمجھے۔

خاصیت ☆ اگر کوئی شخص کسی ظلم کرنے والے اور حسد کرنے والے سے خوفزدہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس اسم مبارک کا پچھتر مرتبہ ورد کرے اس کے بعد قبلہ رو ہو کر سجدہ کرے اور پھر یوں دعا کرے: اے اللہ! فلاں ظلم کرنے والے اور حسد کرنے والے کی برائی سے میری حفاظت فرما۔ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے ظالم و حاسد کے شر و اذیت سے محفوظ رکھے گا۔

السمیع: سننے والا البصیر: دیکھنے والا۔ ان اسماء سے بندے کا یہ نصیب متعلق ہے کہ وہ ایسی باتوں کو سننے اور ایسی چیزوں کو دیکھنے سے جو شریعت کے خلاف ہوں اجتناب کرے اور اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ اس کے اقوال و افعال سے واقف ہے اور اسے دیکھ رہا ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے غیر اللہ کی نگاہ سے اس چیز کو پوشیدہ رکھا جس کو وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رکھتا تو گویا اس نے اللہ کی نگاہ کو کمتر و حقیر سمجھا۔ پس جس شخص نے اس بات کا علم رکھنے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے گناہ کا ارتکاب کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا اور جس شخص نے اس خیال سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھ رہا تو اس شخص نے بڑے کفر کا ارتکاب کیا۔ اس لئے تعلق بالجمال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر تم اپنے اللہ کی

نافرمانی کرنے والا کوئی عمل کرو تو ایسی جگہ اس کا ارتکاب کرو جہاں تم اس کی نگاہ سے پوشیدہ رہو یا وہ تمہیں نہ دیکھ نہ سکے۔ مطلب یہ ہے کہ اس روئے زمین پر ایسا کوئی مقام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے مخفی ہو اور جب زمین پر ایسا کوئی مقام ہے ہی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو نہ دیکھے تو پھر گناہوں سے اجتناب کرو۔

خاصیت: جو شخص اس اسم مبارک ”السمیع“ کا جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد پانچ سو مرتبہ ورد کرے یا ایک روایت کے مطابق ہر روز چاشت کی نماز کے بعد سو مرتبہ ورد کرے اور دورانِ ورد کسی سے بات چیت نہ کرے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا وہ بارگاہِ الہی میں قبول ہوگی۔ اگر کوئی شخص فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان اسم مبارک ”البصیر“ کا کامل یقین کے ساتھ سو مرتبہ ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عنایات و مہربانیوں کے ساتھ خاص کرے گا۔ (ان شاء اللہ)۔

الحکم: حکم کرنے والا کہ جس کے حکم کو کوئی نال نہیں سکتا۔ اس اسم مبارک سے بندے کا نصیب یہ متعلق ہے کہ جب اس نے اس بات پر یقین کر لیا کہ حق تعالیٰ ایسا حاکم ہے کہ اس کے حکم کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا تو اب چاہیے کہ وہ حق تعالیٰ کے ہر حکم کو دل سے مانے اور اس کی چاہت و مرضی کا پیروکار بنے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اس کے حکم و فیصلے پر جان بوجھ کر راضی نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی چاہت اور فیصلہ زبردستی لازم کرے گا اور جو شخص رغبت اور دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں اور عنایت کے سائے سے ڈھانپ لے گا اور وہ راحت و اطمینان والی زندگی بسر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کے سامنے اپنی درخواست لے کر جانے کی ضرورت محسوس نہ کرے گا۔

خاصیت: جو شخص اس اسم مبارک کا جمعہ کی رات میں اور ایک روایت کے مطابق نصف رات میں اتنا ورد کرے گا کہ اس پر غشی طاری ہو جائے تو حق تعالیٰ اس کے دل کو ”معدنِ اسرار“ یعنی رازوں کا خزانہ بنادے گا۔

العدل: عدل و انصاف کرنے والا۔ اس بات پر یقین کر لینے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے بندے کو چاہیے کہ اس کے احکامات اور اس کے فیصلوں پر راضی رہے اور ان سے اپنے دل میں گھبراہٹ اور تنگی محسوس نہ کرے بلکہ اس بات پر سو فیصد یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے جو فیصلہ صادر فرمایا ہے وہ عین عدل و انصاف پر مبنی ہے لہذا اس پر یقین اور بھروسہ کے ذریعہ راحت و سکون پیدا کرے اور جو کچھ حق تعالیٰ اسے عطا کریں اس کو اس جگہ صرف کرے جہاں خرچ کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف سے ڈرتا رہے اور اس کے فضل و رحمت کی امید رکھے اور امور میں کمی و کوتاہی و زیادتی سے اجتناب کرے اور میانہ روی اختیار کرے۔

خاصیت: جو شخص اس اسم مبارک کو جمعہ کی رات میں روٹی کے بیس نوالوں پر لکھ کر تناول کرے گا اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اس کے تابع فرمادے گا

اللطیف: اپنے بندوں پر نرمی کرنے والا اور باریک بین کہ اس کے لئے دور و نزدیک یکساں ہیں۔ اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ امور دین و دنیا میں غور و فکر کرے اور نرمی کے ساتھ لوگوں کو راہ حق کی طرف بلائے۔

خاصیت: جو شخص کو اسبابِ معیشت مہیا نہ ہوں اور فقر و فاقہ میں مبتلا رہتا ہو یا غربت میں کوئی غمخوار نہ ہو یا

بیمار ہو اور کوئی اس کی تیمارداری نہ کرتا ہو یا اس کے لڑکی ہو کہ اس کا رشتہ وغیرہ نہ آتا ہو تو اسے چاہئے کہ پہلے اچھی طرح وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑھ کر اس اسم پاک کو اپنے مقصد کی نیت کے ساتھ سو بار پڑھے انشاء اللہ حق تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرے گا اسی طرح لڑکیوں کا نصیب کھلنے کے لئے، امراض سے صحت یابی کے لئے اور مہمات کی تکمیل کے لئے اس اسم کو سو بار پڑھنے پر بیشکی اختیار کرنی چاہیے اس اسم کے متعلق پیرانِ اخوانیہ کا عمل یہ ہے کہ ہر (دنوی اور دینی مہم کے لئے کسی خالی جگہ میں اس اسم کی دعا کی شرائط کے ساتھ سولہ ہزار تین سو اکتالیس مرتبہ پڑھا جائے انشاء اللہ مراد حاصل ہوگی۔

الخبیر ”دل کی باتوں اور تمام چیزوں کو خبر رکھنے والا“ اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ جب اس نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھیدوں پر مطلع ہے اور میرے دل کی باتیں تک جانتا ہے تو اب اس کے لئے لازم ہے کہ وہ بھی اس کو یاد رکھے اور اس کی یاد کے آگے اس کے ماسوا کو بھول جائے ضلالت کے راستوں سے پرہیز کرے اپنی ذات پر ریاکاری کے ترک اور تقویٰ کے اختیار کو لازم کرے باطن کی اصلاح میں مشغول رہے اس سے غفلت نہ برتے اور دین و دنیا کی بہترین کھلی باتوں کی خبر رکھنے والا ہو۔

خاصیت ☆ جو شخص نفسِ امارہ کے جال میں پھنسا ہوا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اسم مبارک کا ورد کثرت سے کرتا رہے۔ ان شاء اللہ نفسِ امارہ سے نجات پر کر نفسِ مطمئنہ کی دولت سے مالا مال ہوگا۔

الحلیم: بردبار برداشت کرنے والا اہل ایمان کو عذاب دینے میں عجلت سے کام نہیں لیتا بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر کے کامیابی حاصل کریں۔

اس اسم مبارک سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ برے لوگوں کی ایذا رسانی پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ ظالموں کو سزا دینے پر غور و فکر کرے اور غیظ و غضب سے پرہیز کرے اور بردباری کی انتہاء تک رسانی کی جدوجہد کرے اگر کوئی شخص اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو وہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔

خاصیت ☆ اگر کوئی شخص اس اسم مبارک کو کاغذ پر تحریر کر کے اس کاغذ کو دھولے اور اس کا پانی اپنے کھیت و کھلیان میں ڈالے تو اس کی ہر آفت سے حفاظت رہے گی اس کی پیداوار میں برکت ہوگی اور اس کو اپنی کھیتی سے مکمل پھل حاصل ہوگا۔

العظیم: اپنی ذات میں فہم و شعور کی حد رسانی سے بھی زیادہ بزرگ و برتر۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے اتنا عظیم و برتر ہے کہ انسان کی عقل و فراست اس کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتی۔

اس اسم مبارک سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ اللہ بزرگ و برتر کی ذاتِ عالی کے سامنے زمین و آسمان اور اس میں موجود ہر شے کو حقیر و کم تر سمجھے۔ دنیاوی مفاد و اغراض کی خاطر اپنے آپ کو سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہ جھکائے۔ اپنی ذات کو عاجز و حقیر سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن امور کو بجالانے کا حکم دیا ہے ان کو بجالائے اور جن امور سے باز رہنے کا حکم دیا ہے ان سے پرہیز کرے۔ ایسی چیزیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں ان میں اپنے آپ کو مصروف رکھ کر اپنے نفس کو ذلیل و رسوا کرے تاکہ رضائے الہی حاصل ہو۔

خاصیت ☆ جو شخص اس اسم مبارک کا ورد کرنے میں مداومت اختیار کرے گا وہ اللہ کی مخلوق کی نگاہ میں باعزت ہوگا۔ الغفور: بہت زیادہ بخشش کرنے والا۔

اس اسم سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ دن اور رات کے اکثر اوقات میں خاص طور پر سحری کے وقت توبہ و استغفار کرے اور جو شخص اس کے ساتھ ایذا رسانی کا معاملہ کرے اس کو معاف کر دے۔

خاصیت ☆ جس شخص پر بیماری مثلاً بخار، سر کا درد یا اور کوئی مرض غالب ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس اسم مبارک کو کاغذ پر تحریر کرے اور اس کے نقوش کو روئی پر جذب کر کے اس کو تناول کرے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر بیماری سے شفاء عطا فرمائے گا اگر کوئی شخص اس اسم مبارک کا ورد کثرت سے کرتا رہے تو اس سے اُس کے دل کی تاریکی دور ہو جائے گی۔

ایک روایت میں منقول ہے کہ جو شخص سجدے کی حالت میں یارب اغفر لی (اے میرے رب! میری بخشش فرما دے) تین مرتبہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے تمام (صغیرہ) گناہ بخش دے گا اور جو شخص سر کے درد کے مرض میں مبتلا ہو یا کسی اور مرض یا غم و رنج میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے ”یا غفور“ کے الفاظ تین مرتبہ مقطعات پر لکھ کر کھائے ان شاء اللہ اللہ اس کو ہر بیماری سے شفاء عطا فرمائے گا۔

الشکور: قدر کرنے والا، عمل صغیر پر بھی ثواب کے دریا بہا دینے والا۔

کتابوں میں یہ واقعہ منقول ہے کہ کسی ایسے شخص کو جو فوت ہو چکا تھا خواب میں دیکھا گیا تو اس سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرا حساب کتاب فرمایا تو میرے نیک اعمال کا پلڑا بلند ہو گیا، برے اعمال کا پلڑا اچھک گیا۔ پھر اچانک میرے نیک اعمال کے پلڑے میں ایک تھیلی آ کر گری جس سے وہ پلڑا اچھک گیا۔ جب اس نے پوچھا کہ یہ تھیلی کیسی ہے؟ تو اس سے کہا گیا کہ یہ ایک مٹھی بھر مٹی کی تھیلی ہے کہ جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کو قبر میں دفن کر کے اس کی قبر پر ڈالی تھی۔

اس واقعہ سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے معمولی سے عمل پر بھی اس پر بے شمار نعمتوں و مہربانیوں کی بارش کرتا ہے۔ اس اسم مبارک سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی عنایات پر شاکر رہے اس طور پر کہ اس بات پر یقین کرے کہ تمام نعمتوں کو عطا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اپنے ہر عضو کو اسی کی اطاعت میں مصروف رکھے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق فرمایا ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرے اور ان کی مہربانیوں پر ان کا شکر ادا کرتا رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے: ”جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔“

خاصیت ☆ جس شخص کی آمدنی کم ہو اور اس کی آنکھ کی بینائی اور اس کے دل کا نور کم ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس اسم مبارک کو اکتالیس مرتبہ پانی پر دم کر کے پئے اور اس پانی کو آنکھوں پر ملے۔ ان شاء اللہ المالداری حاصل ہوگی اور ہر مرض سے شفا یاب ہوگا۔

العلی: بلند مرتبہ۔

اس اسم مبارک سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری و باطنی فرمانبرداری اور عبادات کے ذریعے اپنے نفس کو ذلیل و متعیر جانے اور اپنی تمام طاقت و قوت علم کے حصول میں لگائے اور اس علم پر عمل بھی کرے یہاں تک کہ وہ بلند درجات و کمالات تک رسائی حاصل کرے۔

ایک روایت میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند کاموں کو پسند فرماتے ہیں (کیونکہ اس کے باعث بندہ بلند درجات و

مراتب تک رسائی حاصل کرتا ہے) اور اللہ تعالیٰ حقیر و کمتر کاموں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اسی لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے: بلند ہمتی ایمان ہی کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔

خاصیت ☆ جو شخص اس اسم مبارک کے ورد پر بیعتی اختیار کرے گا یا اس کو تحریر کر کے اپنے پاس رکھے گا تو اگر وہ حقیر و کمتر ہو تو اس اسم مبارک کے ورد کی بدولت بزرگی و بلند درجات پالے گا۔ اگر غربت میں مبتلا ہوگا تو مالدار ہو جائے گا۔ اگر سفر کے مصائب و آفات میں گرفتار ہو تو اپنے وطن مالوف کو لوٹنا نصیب ہوگا۔

الکبیر: بڑا ایسا بڑا کہ اس کی بڑائی و عظمت میں کوئی اس کا ثانی نہیں۔ اس اسم مبارک سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ اس عظیم و کبیر ذات کی بڑائی کو ہمیشہ یاد رکھے حتیٰ کہ غیر اللہ کی بڑائی کو مکمل طور پر بھلا دے۔ علم کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے ذریعے اپنے نفس کو کامل بنانے کی جدوجہد کرے تاکہ اس کے کمالات و فیوضات سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرے اور خدمت اولیٰ کو اپنائے اور بے پروائی اور بے ادبی سے اجتناب کرے۔

خاصیت ☆ جو شخص اس اسم مبارک کا ورد کثرت سے کرتا ہے وہ بلند مرتبہ اور باعزت ہوتا ہے۔ اگر حکام و بادشاہ اس اسم مبارک کا ورد کثرت سے کریں تو عوام پر ان کی ہیبت و دبدبہ قائم رہے گا اور ان کے تمام امور اچھے طریقے سے پورے ہو جائیں گے۔

الحفیظ: دنیا کی آفات و مصائب سے حفاظت کرنے والا۔

اس اسم مبارک سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے اور اپنے دل کو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے محفوظ رکھے اور اپنے تمام معاملات و امور میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور اس کی چاہت کو کافی سمجھے اور اس کے فیصلوں پر راضی و خوش رہے۔

ایک اللہ والے کا قول منقول ہے: ”اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے ارتکاب سے جس شخص کے اعضاء کو محفوظ رکھا، اس کے دل کو بھی محفوظ رکھا اور جس کا دل محفوظ رکھا اس کے رازوں کو بھی محفوظ رکھا۔“

ایک واقعہ کتابوں میں منقول ہے کہ ایک روز اتفاقاً ایک بزرگ کی نگاہ کسی شئی ممنوعہ پر پڑی۔ وہ بزرگ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنے لگا: ”اے اللہ! مجھے اپنی بینائی کی سلامتی کی صرف اسی لئے آرزو تھی تاکہ میں اس کو تیری عبادت میں صرف کروں لیکن اب میری بینائی تیرے حکم کے خلاف استعمال ہوئی ہے تو اے پروردگار! اس نعمت کو مجھ سے سلب کر لے۔ اس دعا کے بعد منقول ہے کہ ان بزرگ کی بینائی آہستہ آہستہ جاتی رہی یہاں تک کہ وہ نابینا ہو گئے۔ ان بزرگ کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر رات میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ نابینا ہونے کے بعد رات کے وقت ان کو نماز پڑھنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ وہ رات کے اندھیرے میں طہارت کے حصول کے لئے اور وضو کرنے کے لئے پانی لینے کے بھی محتاج ہو گئے۔ جب وہ بزرگ رات کی تاریکی میں اپنے نابینا پن کے باعث طہارت اور وضو کا پانی حاصل نہ کر سکے اور اس بناء پر عبادت نہ کر سکے تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دوبارہ درخواست کی۔ اے پروردگار! میرے کہنے ہی پر میری بینائی مجھ سے سلب کر لی گئی لیکن رات کی تاریکی میں تیری عبادت کرنے کے لئے مجھے اس کی اشد ضرورت ہے تو مجھ کو میری بینائی واپس لوٹا دے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس لوٹا دی اور وہ بینا ہو گئے۔

خاصیت ☆ اگر کوئی شخص اس اسم مبارک کو تحریر کر کے اپنے دائیں بازو پر باندھ لے تو پانی میں ڈوبنے آگ سے جلنے، جادو اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔
المعیت: جسم اور روح کے لئے غذا پیدا کرنے والا۔

اس اسم مبارک سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ جب بندے نے اس بات پر یقین کر لیا کہ اللہ وہی ذات ہے کہ جو غذا پیدا کرنے والی ہے اور قوت دینے والی ہے تو اب اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کے سامنے اپنی غذا کی فکر مہول جائے کیونکہ حقیقت میں غذا تو اس کا ذکر ہے۔

حضرت سہل سے منقول ہے کہ جب ان سے غذا کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ: ﴿الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ (یعنی ایسا زندہ ہے کہ جس کو موت نہیں) کی یاد ہے۔

نیز بندے کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی غذا اور قوت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے طلب نہ کرے۔ ارشاد خداوندی ہے۔
﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ (الحجر: ۲۱)
”ایسی کوئی شئی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہوں اور ہم اسے اپنے مقرر انداز کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں۔“

نیز بندے کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنے متعلقین کو غذا فراہم کرے جس کا وہ استحقاق رکھتے ہیں تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچاں اور گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانا اور بھوکوں کو کھانا کھانا اس کی عادت بن جائے۔

علامہ قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: غذا کی مختلف انواع ہیں: ایک نوع تو یہی ظاہری خوراک ہے جس پر انسانی زندگی کا دارومدار ہے لیکن بعض بندگان الہی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس کی غذا عبادات کی توفیق کو اور ان کے دل کی غذا ماکات صدر اور ان کی روح کی غذا مدامت مشاہدہ کو بنا دیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب اپنی عبادت میں مشغول فرماتا ہے اس طور پر کہ وہ اپنی خواہشات نفسانیہ سے منقطع ہو کر پوری توجہ اور صدق و اخلاص کے ساتھ اپنے مالک کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کسی ایسے شخص کو متعین فرمادیتے ہیں جو اس کی خبر گیری اور خدمت کرتا ہے اور اس کی زندگی کی ضروریات خود بخود پوری ہوتی رہتی ہیں لیکن جب بندہ اپنے مالک کی طرف توجہ کرنے کے بجائے اپنی خواہشات نفسانیہ کی طرف اپنی توجہ مبذول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات کی تکمیل کو اس پر چھوڑ دیتا ہے اور اس کے اوپر سے اپنی رحمت اور مہربانیاں اٹھا لیتا ہے۔

خاصیت ☆ اگر کوئی شخص کسی کو غربت میں مبتلا دیکھے یا خود غربت کا شکار ہو جائے یا کوئی بچہ اپنی بری عادتوں سے باز نہ آتا ہو یا کثرت سے روتا ہو تو کسی خالی پلیٹ پر سات مرتبہ اس اسم مبارک کا ورد کر کے دم کرے اور پھر اس پلیٹ میں پانی ڈال کر اس کو پی جائے یا جو مذکورہ بالا مسائل کا شکار ہو اس کو پلا دے۔ اسی طرح اگر کسی روزہ دار کو بھوک و پیاس کی شدت کے باعث ہلاکت کا خوف ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس اسم مبارک کا ورد کر کے پھول پر دم کرے اور پھر اس کو سونگھے۔ ان شاء اللہ اس کو اللہ کی طرف سے ایسی قوت حاصل ہوگی کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے گا۔

الحسب ”ہر حال میں کفایت کرنے والا

روزِ قیامت حساب لینے والا اس اسم مبارک سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ ضرورت مندوں کو کفایت کرنے والا ہو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔

علامہ قشیریؒ نے اس موقع پر جو بات ارشاد فرمائی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کفایت اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہر حال میں اور ہر کام میں مدد فرماتا ہے۔ پس جب بندے نے اس بات پر یقین کر لیا کہ اللہ کی ذات میرے لئے کافی ہے اور میرے ہر مقصد اور میرے ہر کام کو پورا کرنے والی ہے تو اب اس کو چاہیے کہ وہ دنیاوی سہاروں پر بالکل بھی اعتماد نہ کرے بلکہ اگر اس کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کسی بھی دنیاوی سہارے سے ضرورت کے وقت فائدہ نہ پہنچے جب کہ اسے اس سہارے پر بھروسہ بھی ہو تو اس سے پریشان خاطر نہ ہو بلکہ اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں جو طے فرمادیا ہر صورت میں وہی ہوگا۔ اگر قسمت میں مقصد کا حاصل ہونا لکھا جا چکا ہے تو مقصد ضرور حاصل ہوگا خواہ دنیاوی سہارا کتنا ہی مایوس کن کیوں نہ ہو اور اگر قسمت میں مقصد کا حاصل ہونا نہیں لکھا تو مقصد حاصل نہیں ہوگا خواہ دنیاوی سہارا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ پھر جو شخص اللہ کی جانب سے آنے والی چیز پر جو کہ اس کا مقصود نہیں ہے اکتفا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس چیز پر راضی کر دے گا جو اس نے اس شخص کے لئے مقرر فرمادی۔ پس اس کا اثر یہ ہوگا کہ ایسا بندہ اپنی اس صفت (یعنی اللہ کے فیصلہ پر راضی رہنے کی) بناء پر اپنے مقصد کے حاصل نہ ہونے کو اس کے مقابلے میں فقر و فاقہ کو غنا کے مقابلے میں خوشی و رغبت کے ساتھ قبول کرے گا۔

خاصیت ☆ جو شخص کسی سارق (چور) حاسد یا برے پڑوس یا دشمن کے شر سے ڈرتا ہو یا آنکھ کے زخم کے باعث تکلیف میں ہو تو وہ ایک ہفتہ تک ہر صبح و شام ستر مرتبہ حسبی اللہ الحسب (اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے جو کفایت کرنے والا ہے) کا ورد کر لیا کرے اللہ تعالیٰ اسے مذکورہ بالا چیزوں کے شر سے حفاظت میں رکھے گا۔

الجلیل : بزرگ قدر۔ اس اسم سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ صفات کمالیہ کے ذریعے اپنے نفس کو خوبصورت بنائے اور بلند مرتبہ حاصل کرے۔

خاصیت ☆ اگر کوئی شخص اس اسم مبارک کو مشک و زعفران سے تحریر کر کے اپنے پاس رکھے یا کھالے تو تمام لوگ اس کی عزت و تعظیم کرنے لگیں گے۔

الکریم : بڑا فیاض، کثرت سے دینے والا کہ اس کا دینا کبھی منقطع نہیں ہوتا اور نہ اس کے خزانوں میں کمی آتی ہے۔ اس اسم مبارک سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مخلوق کو بغیر وعدے کے مال دیتا ہے اور ان کی امداد کرتا رہے۔ نیز بد اخلاقی اور فعلِ سوء سے اجتناب کرے۔

خاصیت ☆ جو شخص اپنی خواہگارہ پر پہنچ کر کثرت کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کرے کہ ورد کرتے کرتے سو جائے تو اس کے لئے فرشتے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں: اکر ملک اللہ (اللہ تعالیٰ تجھے بلند مرتبہ پر فائز کرے۔)

روایات میں منقول ہے کہ اس اسم مبارک کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کثرت سے پڑھتے تھے اسی بناء پر انہیں ”کرم اللہ وجہہ“ کہا جانے لگا۔

الوقیب: ہر چیز پر نگہبان۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بندوں کے احوال و افعال سے واقفیت رکھنے والا۔ اس اسم سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے۔ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر اس کو نگہبان و گمران مقرر فرمایا ہے ان کی نگرانی و نگہبانی میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا یعنی جن لوگوں کی دیکھ بھال اور نگہبانی پر تمہیں مقرر کیا گیا تھا ان کی نگہبانی و دیکھ بھال کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنا فرض کتنا ادا کیا؟

علامہ قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جماعت یعنی اولیاء اللہ کی جماعت کے ہاں مراقبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد غالب ہو اور اس بات پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے باخبر ہے۔ پس ہر حال میں وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اور ہر لمحہ اس کے غضب و عذاب سے پناہ مانگے۔ چنانچہ صاحب مراقبہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور حیاء کے باعث شریعت کے خلاف کاموں کو اس شخص سے زیادہ ترک کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک کرتا ہے اور جو بندہ اپنے دل کی رعایت کرتا ہے یعنی دل کے صحیح تقاضوں پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کا کوئی پل اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت کے بغیر نہیں گزرتا کیونکہ یہ بات اچھی طرح اس کے علم میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک پل اور میرے ہر ایک عمل کا محاسبہ کرے گا چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔

پس اللہ کے ولی کے بارے میں ایک واقعہ منقول ہے کہ ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ عز و جل نے میری بخشش فرمادی اور میرے ساتھ احسان والا معاملہ فرمایا لیکن مجھ سے میرے اعمال کا حساب پورا پورا لیا حتیٰ کہ مجھ سے اس عمل کا بھی حساب لیا کہ ایک روز میں روزہ دار تھا جب روزہ افطار کرنے کا وقت ہوا تو میں نے اپنے ایک دوست کی دکان سے گندم کا ایک دانہ اٹھایا اور اس کو میں نے توڑا اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ گندم کا دانہ تو میرا نہیں ہے یعنی میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے یہ دانہ اسی جگہ رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے میرے اعمال کا حساب لیا تو اس گندم کے دانے کے توڑنے کے برابر نیکی میرے نامہ اعمال سے لے لی۔

غور طلب بات ہے کہ جس شخص کے علم میں یہ بات ہو کہ اسے ایک دن اللہ کی عدالت میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی حساب دینا ہے تو کیا وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنی ساری عمر گناہوں میں برباد کر دے اور اپنے اوقات کو کوتاہیوں اور غفلتوں میں ضائع کرے۔

ایک حدیث میں منقول ہے کہ ”تم اپنے اعمال کا حساب خود کرو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کا محاسبہ کیا جائے۔“

خاصیت ☆ جو شخص اس اسم مبارک کا سات مرتبہ ورد کر کے اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کے چاروں طرف دم کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دشمنوں اور تمام مصائب سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔

المحبیب: عاجزوں کی دعا کو شرف قبولیت بخشے والا اور پکارنے والا اس اسم مبارک سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ کرنے والے کاموں میں اور نہ کرنے والے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرے۔

خاصیت ☆ جو شخص اس اسم مبارک کا کثرت سے ورد کرے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلد قبول فرمائے گا اور اگر اس اسم مبارک کو تحریر کر کے اپنے پاس رکھے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا۔

الواسع: وسیع علم رکھنے والا اور اپنی نعمتیں سب کو عطا کرنے والا۔ اس اسم مبارک سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ اپنے علم میں اپنی فیاضی میں اور اخلاق میں کشادگی پر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ہر ایک سے خندہ پیشانی سے پیش آئے اور دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کی فکر میں نہ لگا رہے۔

خاصیت ☆ جو شخص اس اسم مبارک کا ورد کثرت سے کرے اور اس کے ورد کرنے میں مداومت سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اسے قناعت اور برکت عطا فرمائے گا۔

الحکیم: عظیم حکمت والا اس اسم سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن صفات حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے ان کو اپنائے اور ان صفات سے تعلق کمال پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اپنے تمام اعمال میں استواری کو پیدا کرنے کی کوشش کرے نیز اسے چاہیے کہ وہ احق بننے سے اجتناب کرے اور کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مشیت کے خلاف نہ کرے۔

روایات میں حضرت ذوالنون مصری کے بارے میں ایک واقعہ منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے سنا کہ مغرب کی جانب علاقے میں ایک شخص ہے جو اپنے علم و حکمت کے باعث بہت شہرت رکھتا ہے تو وہ اس شخصیت کی زیارت کی نیت سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور چالیس روز تک ان کے گھر کے دروازے کے باہر پڑا رہا۔ جب بھی وہ نماز کے لئے مسجد تشریف لاتے تو حیرانی و پریشانی کے عالم میں مسجد میں چکر لگانے لگتے اور میری طرف ذرہ بھر بھی توجہ نہ فرماتے اس معاملے کو دیکھ کر جب میں تنگ آ گیا تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت! میں چالیس روز سے آپ کی چوکھٹ پر پڑا ہوں آپ نہ تو میری طرف متوجہ ہوئے اور نہ ہی مجھ سے بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے وعظ و نصیحت فرمائیں اور مجھے حکمت سے بھری ہوئی باتیں بتائیں تاکہ میں ان کو یاد رکھوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم ان باتوں پر عمل کرو گے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ بتوفیق الہی ضرور عمل کروں گا۔ پھر انہوں نے حکمت و نصیحت سے لبریز باتیں مجھے بتائیں کہ دنیا کو دوست نہ رکھو، فقر کو غنیمت سمجھو، مصیبت کو نعمت سمجھو، منع یعنی نہ ملنے کو اللہ کی عطا جانو، غیر اللہ کے ساتھ انس و محبت نہ کرو اور نہ ان کی صحبت و مجلس میں اپنے آپ کو



مشغول کرو۔ ذلت و خواری کو عزت گردانو موت کو حقیقی زندگی سمجھو اللہ کی فرمانبرداری و عبادت کو اپنی عزت کا ذریعہ سمجھو اور اللہ پر توکل کو اپنی روزی سمجھو۔

از سببہ مخوکن ہمہ نام و نشان غیر ☆ الا کے کمی دید از وے نشان ترا

خاصیت ☆ اگر کوئی شخص اپنے کام کے معاملے میں پریشانی میں مبتلا ہو اور وہ کام پایہ تکمیل تک نہ پہنچ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس اسم مبارک کا ورد کرنے میں مداومت اختیار کرے۔ ان شاء اللہ اس کے کام پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔
الودود: اطاعت گزاروں اور تابع فرمانوں کو دوست رکھنے والا اللہ کے اولیاء کے دلوں میں محبوب۔

اس اسم مبارک سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے لئے اس چیز کو پسند کرے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے اور ان پر اپنی حیثیت کے مطابق احسان کرتا رہے۔ آقائے دو جہاں رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے: ”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے اسی چیز کو محبوب نہ جانے جس کو وہ اپنے لئے محبوب سمجھتا ہے۔“

”اللہ تعالیٰ بندوں کو دوست رکھتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے ان کی مدح کرتا ہے اور ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرتا ہے اور ”بندوں کا اللہ تعالیٰ کو دوست رکھنا“ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی تعظیم کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو اس کے خوف و ہیبت سے آباد رکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں منقول ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دوستوں میں سب سے اچھا دوست وہ ہے جو بغیر عطا کی امید پر میری عبادت کرتا ہے یعنی وہ عطا اور بخشش کی امید کے لئے میری عبادت نہیں کرتا بلکہ صرف میری خوشنودی و رضا کے حصول کے لئے عبادت کرتا ہے۔

خاصیت ☆ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان ناراضگی ہو جائے یا ان کے آپس کے تعلقات مجڑب جائیں تو اس اسم مبارک کو کسی کھانے کی چیز پر ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں پھر دونوں میں سے اس کو کھلایا جائے جس کی جانب سے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ ان شاء اللہ ان دونوں کے درمیان اس اسم مبارک کی برکت سے محبت و الفت دوبارہ قائم ہو جائے گی۔
المجید: بزرگ شریف ذات۔ اس اسم مبارک سے بندے کا نصیب وہی ہے جو اسمائے الہیہ میں سے ”العظیم“ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔

خاصیت ☆ جس شخص کے جسم پر آبلے پڑ جائیں یا اس کے جسم کا کوئی حصہ جل جائے یا وہ برص، جذام جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ایام بیض یعنی چاند کی تیر ہویں، چودہویں اور پندرہویں تاریخ کا روزہ رکھے اور جب روزہ اور افطار کرنے لگے تو اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھ کر پانی پر دم کرے ان شاء اللہ بیماریوں سے شفاء پائے گا اور جس شخص کا اپنے ہم عمروں کے درمیان عزت و احترام نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روز صبح کے وقت اس اسم مبارک کو ننانوے مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے اور اسے اپنے ہم عمروں میں عزت و احترام حاصل ہو جائے گا۔

الباعث: مردوں کو قبروں سے اٹھا کر زندہ کرنے والا اور غافلوں کے قلوب کو غفلت کی نیند سے جگانے والا۔

اس اسم مبارک سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ جاہل نفوس کو تعلیم سے آراستہ کر کے اور ان کو نصیحت کر کے ان کو دنیا سے

ہے رغبتی کا احساس دلائے اور آخرت کی لافانی نعمتوں کو راغب کرے اور غفلت کی نیند سے ان کو بیدار کرے اور ان کے مردہ دلوں کو زندہ کرے اور اس کام کی ابتداء اپنے سے کرے اپنی اصلاح کرنے کے بعد پھر دوسروں کی طرف توجہ کرے اور ان کی اصلاح کی فکر کرے۔

خاصیت ☆ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے دل کو حقیقی حیات حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ سونے کے وقت اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس اسم مبارک کو سو مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس اسم کی برکت سے اس کے دل کی مردنی کو دفع کر دے گا اور اس کو زندہ کر کے اپنے انوار کا مرکز بنا دے گا۔

الشہید: حاضر، ظاہر و باطن سے باخبر۔

علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل معرفت (یعنی اللہ کے پہچاننے والے) اس کی ذات کے سوا اور کسی کی خواہش نہیں رکھتے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ کی ذات پر خوش و مطمئن رہتے ہیں کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ان کے تمام احوال و افعال سے باخبر ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

﴿اَوَلَمْ يَكُنْ فِیْ رَبِّكَ اَنَّہٗ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدٌ﴾ (فصلت: ۵۳)

”کیا تمہارا رب تمہارے لئے اس بات میں کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر مطلع ہے۔“

اس اسم مبارک سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے آپ کو ایسے مقامات پر جانے سے روکے جو اس کے لئے اس کے پروردگار نے ممنوع قرار دیئے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے مقامات پر حاضر کرے جہاں حاضر ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے (یعنی بھلائی کے مقامات) اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے احوال کا مجھ سے زیادہ بہتر علم رکھتا ہے اور میرے احوال کو اچھی طرح دیکھتا ہے۔ اپنے آپ کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے اور اس کے سامنے اپنی ضروریات پیش کرنے اور اس کی جانب رغبت و میلان رکھنے سے احتراز کرے۔ نیز اس اسم کا بندے پر ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ صرف سچائی کی گواہی دے۔

خاصیت ☆ اگر کسی شخص کا لڑکا نا فرمان ہو یا اس کی لڑکی پاکدامن نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ہر روز صبح کے وقت اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے اور اس کا چہرہ آسمان کی جانب کر کے اکیس مرتبہ ”یا شہید“ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نام کی برکت سے اسے فرمانبردار اور نیک بنائے گا۔

الحق: بادشاہی کے ساتھ قائم رہنے والا اور خدائی کے لائق۔ اس اسم مبارک سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ جب بندے کے علم میں یہ بات آگئی کہ اللہ ہی کی ذات حق ہے تو اب اس کو چاہیے کہ مخلوق کی یاد کو اس کے مقابلے میں فراموش کر دے نیز اس اسم مبارک کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے تمام اقوال و افعال اور احوال میں حق کے دامن کو مضبوط سے تھام لے۔

خاصیت ☆ اگر کسی شخص کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ ایک کاغذ کے چاروں کونوں پر اس اسم کو لکھے اور پھر اس کاغذ کے درمیان گمشدہ چیز کا نام تحریر کرے پھر نصف شب کے وقت اس کاغذ کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف کرے۔ اس اسم مبارک کی برکت اور اس کے وسیلے کے ذریعے اس گمشدہ چیز کے دوبارہ مل جانے کی دعا کرے۔ ان شاء

اللہ اس عمل سے یا تو وہی چیز مل جائے گی یا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ حاصل ہو جائے گا۔

اگر کوئی قیدی نصف شب میں اس اسم مبارک کا ننگے سر ہو کر ایک سو آٹھ مرتبہ ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قید سے رہائی نصیب فرمائے گا۔

الوکیل : کارساز ارشاد خداوندی ہے: ﴿وَكُفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ (النساء: ۸۱) ”یعنی اللہ تعالیٰ کارساز ہونے میں کفایت کرتا ہے۔“

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (المائدة: ۲۳) ”اگر تم ایمان والے ہو تو اپنا ہر کام اللہ کے سپرد کر دو۔“
 ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (الطلاق: ۳) ”جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔“
 ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ (الفرقان: ۵۸) ”یعنی ایسے زندہ پر بھروسہ کرو جس کے لئے موت نہیں ہے۔“
 ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ (الشعراء: ۲۱۷) ”اس ذات پر بھروسہ کرو جو غالب اور مہربان ہے۔“

اس اسم مبارک سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ کمزوروں اور لاچاروں کی مدد کرے اور ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹائے اور ان کی ضروریات کو اس طور پر پورا کرنے کی کوشش کرے جیسا کہ وہ ان کا وکیل ہے۔

خاصیت ☆ اگر کسی شخص کو آسمان سے بجلی گرنے کا اندیشہ ہو یا آگ کے جلانے سے کسی نقصان کا خوف ہو تو اس کو چاہیے کہ اسم مبارک کا کثرت سے ورد کرے، ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل اسے اپنی پناہ میں لے لے گا۔ اگر کوئی شخص اس اسم مبارک کو کسی ایسی جگہ پڑھے جہاں وہ خوف محسوس کرے تو اللہ تعالیٰ اس اسم مبارک کی برکت سے اسے بے خوف و خطر کر دے گا۔

القوی۔ المتمن: قوت و طاقت والا اور تمام امور میں استوار۔ اس اسم مبارک سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفسانیہ پر غالب ہو اور طاقت والا ہو اور دین کے معاملات میں سخت اور چست ہو اور احکامات شریعہ کے نفاذ میں اور ان کی اشاعت میں کسی بھی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کرے۔

خاصیت ☆ اگر کسی شخص کا دشمن طاقتور ہو اور وہ اپنے دشمن سے اپنے دفاع کرنے میں کمزور ہو تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا آٹا گوندھ کر اس کی ایک ہزار ایک سو گولیاں بنا لے پھر ہر ایک گولی پر ”یا قوی“ پڑھ کر دم کرتا رہے۔ پھر ان گولیوں کو کسی مرغ کو اس نیت سے کھلائے کہ وہ اپنے دشمن سے اپنی حفاظت چاہتا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کو مغلوب کر دے گا اور اگر کوئی شخص اس اسم کو شب جمعہ میں کثرت سے پڑھے تو اس کی برکت سے نسیان یعنی بھولنے کا مرض جاتا رہے گا۔

اگر کسی بچے کا دودھ چھڑایا گیا ہو اور وہ بچہ اس کی وجہ سے صبر نہ پاتا ہو تو اس اسم کو کاغذ پر لکھ کر اس کو پانی میں دھو کر پلا دے اس عمل سے بچے کو صبر آ جائے گا۔

اسی طرح اگر کسی بچے والی عورت کے دودھ میں کمی ہو تو اس اسم مبارک کو کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پانی پلا دیا جائے اس اسم کی برکت سے اس کے دودھ میں کمی رفع ہو جائے گی۔

اگر کوئی شخص ملک و حکومت کے کسی عہدے کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اتوار کے دن صبح کے وقت اپنے مقصد کی نیت سے اس اسم ”المتین“ کو تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھے ان شاء اللہ اس اسم کی برکت سے اس کو وہ عہدہ حاصل ہو جائے گا۔

الولی: مددگار اہل ایمان کو دوست رکھنے والا۔

اس اسم سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ میل جول اور دوستی رکھے دین کو پھیلانے اور اس کی حمایت میں جدوجہد کرے اور اللہ کی مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔

علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا دوست بنالیتا ہے تو ہمیشہ نیکی و بھلائی کی توفیق بخشتا رہتا ہے حتیٰ کہ اگر وہ بندہ بشری تقاضے کی بناء پر گناہ کا ارتکاب بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ارتکاب سے اس کو محفوظ رکھتا ہے کہ اگر وہ کسی برائی میں مبتلا ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس برائی میں مبتلا ہونے سے بچالیتا ہے بلکہ جلد ہی اس کو توبہ و استغفار کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے: ”اذا احب اللہ عبد لم یضربہ ذنب۔“ (یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا دوست بنالیتا ہے تو اس کو گناہ سے نقصان نہیں پہنچاتا)۔

اگر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادات و طاعات میں سستی اور کوتاہی کی جانب مائل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عبادات و طاعات میں مشغول رہنے کی توفیق بخشتا ہے یہی بات بندے کی نیک بختی و خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے جب کہ اس کے برخلاف بندے کی بد بختی و بد قسمتی کی علامت ہوتی ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ کی دوستی کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی محبت اپنے اولیاء کے دلوں میں پیوست کر دیتا ہے جس کے باعث اس بندے سے اولیاء کرام محبت و مہربانی سے پیش آتے ہیں۔

خاصیت ☆ جو شخص اسم اسم مبارک کا کثرت سے ورد کرتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے دل کی باتوں سے باخبر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کی بیوی یا اس کی کنیز ایسے مزاج کی مالک ہو جو اس کے لئے اذیت کا باعث ہو تو اسے چاہیے کہ جب بھی وہ اپنی بیوی یا کنیز کے پاس جائے تو اس اسم مبارک کا ورد کثرت سے کرے۔ ان شاء اللہ اس اسم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بیوی یا کنیز کی اصلاح و درستی کے راستے پر گامزن کرے گا۔

الحمید: اپنی ذات و صفات کی مدح کرنے والا یا جس کی تعریف کی جائے۔ اس اسم مبارک سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرتا رہے اور اپنی ذات کو صفات حمیدہ و کمالیہ کے ساتھ مزین کرے یا اپنے پاکیزہ اعمال اور حسن اخلاق کی بدولت اللہ اور اللہ کی مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو ایسا ثابت کرے کہ اس کی تعریف کی جائے۔

خاصیت ☆ جو شخص اس اسم مبارک کا کثرت سے ورد کرے اس کے اعمال پسندیدہ ہوں گے اگر کسی شخص پر بدگوئی اور بدزبانی اتنی غالب ہو کہ وہ اس سے اپنی زبان کو قابو کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس اسم مبارک کو کسی پلیٹ پر تحریر کرے یا بعض حضرات کے بقول اس اسم مبارک کو کسی پلیٹ پر نوے مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور اس میں پانی پیئے اور یہ عمل

متواتر کرتا رہے۔ ان شاء اللہ بدزبانی و بدگوئی سے حفاظت رہے گی۔

المحصی: ”اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور اس کے نزدیک تمام مخلوقات کی تعداد ظاہر ہے“ اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ خواہ حرکت کی حالت میں ہو یا سکون کی حالت میں یعنی کسی بھی لحظہ اور کسی بھی لمحہ غفلت میں مبتلا نہ ہو اور اس کا ایک ایک سانس یا دالہلی کے ساتھ باہر آئے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ ”اہل جنت اس لمحہ پر حسرت و افسوس کریں گے جو یاد الہی کے بغیر گزرا ہوگا۔“

نیز اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے اعمال اور باطنی احوال پر مطلع رہے اور اس اسم کا تقاضہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اسے جن نعمتوں نوازا ہے ان کو شمار کرتا رہے تاکہ وہ ان کا شکر ادا کر کے خدا کے سامنے اپنے آپ کو عاجز محتاج سمجھے اور اپنے گناہوں کی شمار کرے ان کی وجہ سے شرمندہ و شرمسار و معذرت خواہ ہو اور ان ایام اور لحات کو یاد کر کے حسرت و افسوس کرے جو اللہ تعالیٰ کی طاعت اور اس کی یاد سے خالی رہے ہوں۔

خاصیت ☆ جو شخص جمعہ کی رات میں اس اسم پاک کو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے حق تعالیٰ اسے عذاب قبر اور عذاب قیامت سے محفوظ رکھے گا۔

المبیدی ”المعید“: پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا اور دوبارہ پیدا کرنے والا“ ان ناموں سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ ہر معاملہ اور ہر چیز میں اللہ رب العزت کی طرف اول بار بھی رجوع کرے نیکیاں پیدا کرنے میں سعی و کوشش کرے اور جو نیک عمل کرنے سے رہ گیا ہو یا جس عمل میں کوئی کمی اور کوتاہی ہوگئی ہو اس کا اعادہ کرے یعنی ان کو دوبارہ کرے۔

خاصیت ☆ کسی کی زوجہ کو حمل اور اسقاط حمل کا خوف ہو یا ولادت میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہو تو خاندن کو چاہئے کہ وہ اس اسم پاک ”المبیدی“ کو نوے بار پڑھے اور شہادت کی انگلی اس کے پیٹ کے چاروں طرف پھیرے انشاء اللہ حمل ساقط ہونے کا خوف نہیں رہے گا اور ولادت سے باطمینان اور بلا کسی ضرر جلد فراغت حاصل ہوگی اور جو شخص اس اسم پاک پر مداومت کرے یعنی اس کو پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے تو اس کی زبان سے وہی بات نکلے گی جو صحیح اور باعث ثواب ہوگی۔

کسی شخص کا کوئی قریبی گم ہو گیا ہو اور اسکی آمد یا خیریت کی طلب کا خواہش مند ہو تو اس وقت جب کہ اس کے گھر والے سو گئے ہوں اس اسم پاک کو گھر کے چاروں کونوں میں ستر بار پڑھے اور اسکے بعد کہے یا معید فلاں شخص کو میرے پاس واپس بلا دے یا اس کی خیریت معلوم کرادے“ سات دن بھی گزرنے نہ پائیں گے کہ یا تو عائب آجائے گا یا اس کی خیریت معلوم ہو جائے گی اور اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہوگئی تو وہ اس اسم ”المعید“ کو بہت زیادہ پڑھتا رہے انشاء اللہ اس کی وہ چیز مل جائے گی۔

المحی۔ الممیت: ”زندہ کرنے والا اور مارنے والا“ یعنی اللہ تعالیٰ نور ایمان کے ذریعہ قلوب کو زندہ کرتا ہے اور جسم میں زندگی پیدا کرتا ہے نیز وہی جسم کو موت دیتا ہے اور قلوب کو غفلت و نادانی کے ذریعہ مردہ کرتا ہے۔

ان دونوں ناموں سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ علم سے نفع پہنچا کر مخلوق خدا کو اور مغفرت الہی کی شمع جلا کر قلوب کو زندگی و تازگی کی دولت بخشے اور نفسانی خواہشات اور شیطانی خطرات و دوسواں کو موت کے گھاٹ اتارے نیز یہ حیات کی تمتا کرے اور نہ موت کی آرزو بلکہ قضاء و قدر الہی کا تابعدار بنے اور یہ دعا جو نبی کریم ﷺ سے منقول ہے پڑھتا رہے۔

اللّٰهُمَّ احْيِنِي مَا كَانَ الْحَيٰوةَ خَيْرَ اِلَى وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرَ اِلَى وَاجْعَلْ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً فِى كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً مِنْ كُلِّ شَرٍّ -

”اے اللہ مجھے زندگی دے جب تک کہ زندگی میرے لئے بہتر ہو اور مجھے موت دے جب کہ موت میرے لئے بہتر ہو اور میری زندگی کو ہر خیر و بھلائی میں زیادتی کا سبب اور موت کو ہر برائی سے راحت کا باعث بنادے۔“

خاصیت ☆ جو شخص کسی درد رنج و تکلیف اور کسی عضو کے ضائع ہو جانے کے خوف میں مبتلا ہو تو وہ اس اسم ”الحی“ کو سات بار پڑھے حق تعالیٰ اسے خوف سے نجات دے گا نیز درد ہفت اندام کو دور کرنے کے لئے سات روز تک یہ اسم پڑھا کرے اور ہر روز پڑھ کر دم کیا جائے اور جو شخص اس اسم پاک کو پڑھنے پر ہیشگی اختیار کرے تو اس کے دل کو زندگی اور بدن کو قوت حاصل ہوگی جو شخص اپنے نفس پر قادر نہ ہو کہ اتباع شریعت کے معاملہ میں اس کا نفس اس پر غالب ہو یعنی اسے اتباع شریعت سے باز رکھتا ہو تو اسے چاہئے کہ وہ سوتے وقت سینہ پر ہاتھ رکھ کر اسم پاک ”الحی“ اتنا زیادہ پڑھا کرے کہ پڑھتے ہوئے سو جائے تو حق تعالیٰ اس کے نفس کو مطیع و فرمانبردار بنادے گا۔

الحی: ”ازل سے ابد تک زندہ رہنے والا“ اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے ذریعے زندہ رہے اور اپنی جان اس کی راہ میں قربان کر دے یعنی خدا کی راہ میں شہید ہو کر ابدی حیات حاصل کرے۔

خاصیت ☆ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اس اسم پاک کو بہت پڑھتا رہے یا کوئی دوسرا شخص اس بیمار پر اور بعض حضرات کے قول کے مطابق آنکھ سامنے کر کے اسے بہت پڑھے تو حق تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے گا اور جو شخص ہر روز ستر بار اس اسم کو پڑھ لیا کرے تو اس کی عمر دراز ہوگی اور اس کی وقت روحانیہ میں اضافہ ہوگا۔

القیوم ”خود بھی قائم اور مخلوقات کا قائم رکھنے والا اور خبر گیری کرنے والا“ اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ ماسوا اللہ سے بالکل بے پروا ہو جائے۔

قیوم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ قیوم ہے تو اس نے تدبیر و احتیال کے رنج و فکر سے نجات پائی اور راحت و تقویٰ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری لہذا اب نہ تو بخل کرے گا اور نہ دنیا کی کسی بھی چیز کو کوئی اہمیت دے گا۔

خاصیت ☆ جو شخص بوقت سحر اس اسم کو بہت زیادہ پڑھا کرے تو لوگوں کے قلوب میں اس کا تصرف ظاہر ہوگا یعنی تمام لوگ اسے محبوب و دوست رکھیں گے اور اگر کوئی شخص اس اسم کو بہت زیادہ پڑھے تو اس کے تمام امور بحسب دلخواہ پورے ہوں گے۔

الواجد: ”غنی کہ کسی چیز کا محتاج نہیں“ اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ ضروری کمالات عالیہ حاصل کرنے میں سعی و کوشش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ماسوی اللہ سے مستغنی اور بے پروا ہو۔

خاصیت ☆ اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت ہر نوالے کے ساتھ یہ اسم پاک پڑھے تو وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور اگر کوئی غلوت میں اس اسم کو پڑھے تو تو نگر ہوگا۔

الماجد: ”بزرگ نصیب“ اس اسم سے بندہ کا نصیب وہی ہے جو اس سے پہلے نام کے سلسلہ میں ذکر کیا گیا ہے۔

خاصیت ☆ جو شخص اس اسم پاک کو غلوت میں پڑھے اتنا کہ بے ہوش ہو جائے اس کے دل پر انوار الہی ظاہر

ہوں گے اور اگر کوئی شخص اس کو بہت پڑھتا رہے تو مخلوق خدا کی نظروں میں بزرگ مرتبہ ہو۔

الواحد ”الاحد“: ”ذات و صفات میں یکتا و یگانہ“ اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ عبادت و بندگی میں یکتا و یگانہ بنے جیسا کہ اس کا معبود خدائی میں یکتا و یگانہ ہے اور ایسے فضائل سے اپنی ذات کو آراستہ کرے کہ اس کا کوئی ہم جنس اس کے مثال نہ ہو۔

خاصیت ☆ اگر کسی کا دل خلوت سے ہر اس اہم ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اس اسم پاک کو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھے انشاء اللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا اور بارگاہ حق جل مجدہ کا مقرب ہوگا اور اگر کسی کو فرزند پیدا ہونے کی تمنا ہو تو وہ اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے اللہ تعالیٰ اسے فرزند عطا فرمائے گا۔

الصمد: بے پروا کہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ اپنی ہر حاجت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اپنے رزق سے بے فکر رہے اس کی ذات پر توکل کرے دنیا کی حرام چیزوں سے بچے دنیا کی زینت کی چیزوں کی طرف رغبت نہ کرے دنیا کی حلال چیزوں کی حصول کی بھی ہوس نہ کرے مخلوق سے اپنے آپ کو بے پروا رکھے اور مخلوق خدا کی حاجت روائی کی سعی و کوشش کرتا رہے۔

خاصیت ☆ جو شخص بوقت سحر یا آدھی رات کو سجدہ کرے اور اس اسم پاک کو ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے صادق الحال بنائے گا اور کسی ظالم کے ہاتھ نہیں لگے گا اور جو شخص اس اسم پاک کو بہت زیادہ پڑھتا رہے ہو بھوکا نہیں رہے گا اور اگر حالت وضو میں اسے پڑھے گا تو مخلوق خدا سے بے پروا ہو۔

القادر۔ المقتدر: ”قدرت والا اور قدرت ظاہر کرنے والا“ اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو خواہشات و لذات سے باز رکھنے پر قادر ہو۔

خاصیت ☆ اگر کوئی شخص وضو میں وضو کے ہر عضو کو دھوتے وقت اسم پاک ”القادر“ پڑھ لیا کرے تو وہ کسی ظالم کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہوگا اور کوئی دشمن اس پر فتیاب نہ ہوگا اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اکتالیس مرتبہ یہ اسم پڑھ لیا جائے خدا نے چاہا تو کام بحسن و خوبی انجام پذیر ہوگا۔

اگر کوئی شخص اسم پاک ”المقتدر“ کو پابندی کے ساتھ پڑھتا رہا تو غفلت ہو شکاری میں بدل جائے گی اور جو شخص سوکراٹھتے وقت یہ اسم پاک بیس بار پڑھ لیا کرے تو اس کے تمام کام حق تعالیٰ کی طرف راجع ہوں۔

المقدم۔ المؤخر: ”دوستوں کو اپنی درگاہ عزت کا قرب بخش کر آگے بڑھانے والا اور دشمنوں کو اپنے لطف و کرم سے دور رکھ کر پیچھے ڈالنے والا“ ان دونوں اسم پاک ناموں سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں پیش قدمی اختیار کر کے اپنے آپ کو آگے کرے یعنی دوسروں کے مقابلہ میں اپنے آپ کو افضل بنائے اور ان لوگوں کو آگے کرے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ عزت کے مقربین میں سے ہیں یعنی ان کو عزیز رکھے اور نفس اور شیاطین کو اور ان لوگوں کو جو بارگاہ کبریائی کے ٹھکرائے ہوئے ہیں پس پشت ڈالے نیز اپنے تمام امور و اعمال کو ضابطہ و قاعدہ کے مطابق انجام دے مثلاً پہلے وہ کام اور عمل کرے جو سب سے زیادہ ضروری ہو اور جسے خدا نے سب سے مقدم کیا ہو اور سب سے بعد میں اس عمل کو اختیار کرے جو سب سے کم ضروری ہو۔

خاصیت ☆ اگر کوئی شخص معرکہ جنگ میں اس اسم پاک ”المقدم“ پڑھے یا اسے لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اسے کوئی

گزند نہیں پہنچے گا اور جو شخص اس اسم پاک کو بہت پڑھتا رہے تو اس کا نفس طاعت الہی کے لئے فرمانبردار و مطیع ہو جائے گا۔
جو شخص یہ اسم پاک ”المؤخر“ سومرتبہ پڑھے اس کے دل کو غیر اللہ کے ساتھ قرار نہیں ملے گا اور جو شخص روزانہ اس اسم پاک کو سو بار پڑھ لیا کرے تو اس کے تمام کام انجام پذیر ہوں اور جو شخص اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھے اس کا نفس مطیع و فرمانبردار ہو۔
الاول۔ الاخر: ”سب سے پہلے اور سب سے پیچھے“ ان سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ اللہ کی عبادات اور اس کے احکام بجا لانے میں جلدی کرے اور اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی جان قربان کرے تاکہ حیات ابدی حاصل ہو۔

☆ **خاصیت** اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو اس اسم پاک ”الاول“ چالیس دن تک ہر روز چالیس مرتبہ پڑھے اس کی مراد پوری ہوگی بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فرزند غنایا اور کسی چیز کی حاجت و تمنا ہو تو وہ چالیس جمعوں کی راتوں میں ہر رات ایک ہزار مرتبہ یہ اسم پڑھے انشاء اللہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔
جو شخص اپنی عمر کے آخری مرحلہ پر ہو اور اسکی پوری زندگی بد عملیوں اور گناہوں میں گزری ہو تو وہ اس اسم پاک ”الآخر“ کو اپنا ورد قرار دے لے حق تعالیٰ اس کا خاتمہ بخیر کرے گا۔

الظاہر۔ الباطن: اپنی مصنوعات اور مخلوقات کے اعتبار سے کہ جو اس کے کمال صفات کی دلیل ہیں آشکارا اور اپنی ذات کی حقیقت و کہنہ کے اعتبار سے وہم خیال سے مخفی۔

☆ **خاصیت** جو شخص اشراق کی نماز کے بعد ”الظاہر“ پانچ سومرتبہ پڑھ لیا کرے حق تعالیٰ اس کی آنکھیں روشن و منور کرے گا اگر طوفان باد و باران وغیرہ کا خوف ہو تو یہ اسم پاک بہت زیادہ پڑھا جائے امن و عافیت حاصل ہوگی اگر اس اسم پاک کو گھر کی دیواروں پر لکھ دیا جائے تو وہ دیواریں محفوظ و سلامت رہیں گی۔
جو شخص ہر روز ”یاباطن“ تینتیس بار کہہ لیا کرے حق تعالیٰ اسے صاحب اسرار الہی بنائے گا اور اگر کوئی شخص اس پر مداومت اختیار کرے تو اس پر جس کی بھی نظر پڑے گی اس کا دوست بن جائے گا۔

الوالی: کار ساز و مالک۔ اس اسم پاک سے بندہ کا نصیب وہی ہے جو اسم پاک الوکیل کے ضمن میں نقل کیا جا چکا ہے۔
”اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کا یا اس کے علاوہ کسی اور کا گھر معمر و آباد ہو اور بارش و دیگر آفات سے محفوظ رہے تو اس کو چاہئے کہ کوزہ آب نارسیدہ پر یہ اسم لکھے اور اس کوزہ میں پانی ڈال کر اس کوزہ کو گھر کی دیوار پر مارے گھر اور درود دیوار محفوظ سلامت رہیں گے۔

بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اسم پاک ”الوالی“ کو تین سومرتبہ پڑھنے سے بھی یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے اور اگر کسی شخص کی تخییر کی نیت سے یہ اسم پاک گیارہ مرتبہ پڑھا جائے تو وہ شخص اس کا مطیع و فرمانبردار ہو جائے گا۔

المتعالی: ”بہت بلند مرتبہ“ اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ جو اس نام پاک ”العلی“ کے سلسلہ میں نقل کیا جا چکا ہے۔
☆ **خاصیت** اگر کوئی شخص اس اسم پاک کو بہت زیادہ پڑھتا رہے تو اس کو بھی جو دشواری پیش آئے گی حل ہو جائے گی اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ جو عورت ایام حمل میں یہ اسم پاک پڑھتی رہا کرے تو وہ حمل کی تمام تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات پائے گی۔

البدر: ”انتہائی احسان کرنے والا“ اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ ہو اپنے ماں باپ، استاد بزرگان دین، عزیز و

اقارب اور تمام لواحقین و متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔

خاصیت ☆ طوفان باد و باران اور کسی آفت و بلا کے وقت یہ اسم پاک پڑھنا چاہیے انشاء اللہ کوئی نقصان و گزند نہیں پہنچے گا اگر اس اسم پاک کو سات مرتبہ پڑھ کر حق تعالیٰ کی امان میں دے دیا جائے تو وہ بچہ بالغ ہونے تک ہر آفت و بلا اور ہر تکلیف و مصیبت سے محفوظ رہے گا بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب نوشی اور زنا میں مبتلا ہو تو وہ ہر روز سات مرتبہ یہ اسم پاک پڑھ لیا کرے حق تعالیٰ اس کے دل کو ان مصیبتوں سے پھیر دے گا۔

العواب: توبہ قبول کرنے والا، توبہ کے اصلی معنی ہیں رجوع کرنا یعنی پھرنا، جب اس لفظ کی نسبت بندہ کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ ”گناہ سے پھرنا“، یعنی اپنے گناہ پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور جب حق تعالیٰ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس لفظ کی مراد ہوتی ہے رحمت و درگزر کے ساتھ پھرنا یعنی بندہ کی طرف نظر رحمت و توفیق متوجہ ہونا، اس تفصیل کو ذہن میں رکھ کر سمجھئے کہ جب کوئی بندہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو حق تعالیٰ اس کی توبہ کے اسباب میسر کرتا ہے اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور اس کو گناہوں کے عواقب سے ڈرا کر عذاب کا خوف دلا کر اور آخرت کی سزا کا احساس بخش کر اسے خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے اور اس کے قلب و شعور میں اپنے جرم کا احساس اور گناہ پر پندامت و شرمندگی کی توفیق عطا فرماتا ہے اس کے بعد وہ بندہ توبہ و ندامت کے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر حق تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ساتھ اس بندہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی اسے بخش دیتا ہے، لہذا حقیقت میں حق تعالیٰ کی توبہ یعنی اس کی توجہ بندہ کی توبہ یعنی اس کے رجوع پر مقدم ہوتی ہے اگر حق تعالیٰ کی توجہ نہ ہو تو بندہ کو رجوع کی نوبت نہیں آسکتی اس لئے فرمایا گیا ہے کہ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں (یعنی توبہ کریں)۔

☆ توبہ کنتم بشکنم توبہ دہی نشکنم

اس لئے بندہ کو چاہئے کہ وہ ہمیشہ حق تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے قبولیت توبہ کا یقین رکھے، ناامیدی کے دروازہ کو بند کر دے بایں طور کہ اس کی رحمت کے نزول سے ناامید نہ ہو دوسروں کی خطائیں معاف کرے معذرت خواہ کی معذرت قبول کرے چاہے کتنی بار معذرت قبول کرنی پڑے اور اگر کسی سے کوئی قصور و کوتاہی ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس سے درگزر کرے بلکہ انعام و اکرام کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جناب باری تعالیٰ سے توبہ طلب کرے، گناہوں پر شرمندہ و نادم ہو گوشِ عبرت کھلے رکھے اور توبہ میں تاخیر نہ کرے تاکہ اس حکم عَجَلُوا التَّوْبَةَ قَبْلَ الْمَوْتِ (مرنے سے پہلے توبہ میں جلدی کرو) بجا آوری ہو۔

اس موقع پر ایک عبرت انگیز اور سبق آموز حکایت سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ کسی سلطنت کا ایک وزیر تھا جس کا نام عیسیٰ ابن عیسیٰ تھا ایک دن وہ سواروں کی ایک جماعت کے ہمراہ چلا جا رہا تھا جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے لوگ آپس میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ کون ہے راستہ میں کہیں ایک بڑھیا بھی بیٹھی ہوئی تھی اس نے جو لوگوں کو پوچھتے سنا تو کہنے لگی کہ ”لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے ہوتا کون! یہ ایک بندہ ہے جو نظر حق عنایت سے گرا ہوا ہے اور اس حالت میں مبتلا ہے (یعنی دنیاوی جاہ و جلال میں اس طرح مگن اور مطمئن ہے) عیسیٰ ابن عیسیٰ نے یہ بات سن لی۔ بس پھر کیا تھا فوراً اپنے مکان کو لوٹا وزارت پر لات ماری اور توبہ کی دولت سے مشرف ہوا اور اس طرح وہ تمام دنیاوی جاہ و چشم کو پس پشت ڈال کر مکہ مکرمہ میں مقیم ہوا اور وہیں مجاور ہو گیا۔

خاصیت ☆ اگر کوئی شخص نماز چاشت کے بعد اس اسم پاک کو تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھے تو حق تعالیٰ اسے توبہ

نصوح (یعنی ایسی پختہ توبہ کہ اس کے بعد گناہ سرزد نہ ہو) کی سعادت سے نوازے گا اور اگر کوئی شخص اس اسم پاک کو بہت زیادہ پڑھتا رہے تو اس کے تمام امور انجام و صلاح پذیر ہوتے رہیں گے اور نفس کی اطاعت و عبادت کے بغیر سکون و قرار نہیں ملے گا اور جو شخص نماز چاشت کے بعد یہ دعا پڑھا کرے۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

المنتقم: ”کافروں اور سرکشوں سے عذاب کے ذریعہ بدلہ لینے والا“ اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنے بڑے دشمنوں سے کہ وہ نفس اور شیطان ہیں بدلہ لیتا رہے اور سب سے بڑا دشمن نفس امارہ ہے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جب بھی گناہ میں مبتلا ہو یا عبادت میں کوئی کوتاہی کرے تو اس سے انتقام لے باس طور کہ اسے عقوبت و سختی میں مبتلا کرے۔ چنانچہ حضرت بایزید بسطامی کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ”راتوں میں اور اودو ضائف میں مشغول رہا کرتا تھا کہ ایک رات میرے نفس نے نکال کیا اس کی سزا میں نے اس کو یہ دی کہ ایک برس تک اپنے نفس کو پانی سے محروم رکھا۔“

خاصیت ☆ جو شخص اپنے دشمن کے ظلم و جور پر صبر اور اس کا دفاع نہ کر سکے وہ تین جمعوں تک اس اسم پاک کو پابندی سے پڑھتا رہے اس کا دشمن دوست بن جائے گا اور اس کے ظلم سے نجات مل جائے گی، نیز اگر کسی بھی مقصد کے حصول کے لئے اس مقصد کی نیت کے ساتھ اس اسم پاک کو آدھی رات کے وقت پڑھا جائے تو وہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔

ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ایک اور صحابی سے منقول ہے کہ اس موقع پر باری تعالیٰ کا ایک اسم المنعم بھی نقل کیا گیا ہے جو شخص اس اسم پاک ”المنعم“ پر مداومت کرے کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔

العفو: ”گناہوں اور تقصیرات سے درگزر کرنے والا“ اس اسم سے بندہ کا نصیب وہی ہے جو ”العفو“ کے ضمن میں نقل کیا گیا ہے حضرت شیخ عبدالحق شرح اسماء حسنیٰ میں لکھتے ہیں کہ ”العفو“ جس کے معنی ہیں سینات کو بخون کرنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا اگرچہ معنی و مفہوم کے اعتبار سے ”غفور“ کے قریب ہے لیکن عفو غفور سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ غفران کے معنی ہیں ستر و کتمان اس لئے غفار کے معنی ہوں گے گناہوں کو چھپانے والا جب کہ غفور مشعر بمحو و معدوم کر دینے کے ہے جس کا مطلب ہے گناہوں کو معاف کر کے ختم و معدوم کر دینے والا۔

لہذا بندہ کتنا ہی گنہ گار کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی شان غفو کے پیش نظر اس کی طرف سے معافی و بخشش کا پوری طرح امیدوار ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی گنہ گار کے ساتھ تحقیر و تذلیل کا برتاؤ نہ کیا جائے کیونکہ یہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے حدود شرع اور احکام دین کی پابندی کی بنا پر بخش دے اور اس کے گناہوں کو یکسر محو کر دے۔

ردکن بدراً چہ دانی درازل ☆ نام او درنامہ نیکاں بود

ورود و بر جائے نیکاں ایں گمان ☆ بر تو روز جزا تاواں بود

اسم پاک کا بندہ پر تقاضہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی تقصیرات اور ان کی خطاؤں سے چشم پوشی کر کے انہیں معاف کر دے تاکہ اَلْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (غصہ کو نگل جانے والوں اور لوگوں کو معاف کرنے والوں) کے زمرہ میں داخل ہو۔ جو شخص زیادہ گناہ گار ہو اسے چاہئے کہ وہ اس اسم پاک کو اپنا ورد قرار دے لے انشاء اللہ اسکے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔

الروف: ”بہت مہربان اس اسم سے بندہ کا نصیب وہی ہے جو اسم پاک ”الرحیم“ کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے۔“

منقول ہے کہ ایک شخص کا ہمسایہ بہت برا تھا جب اس کا انتقال ہوا تو اس شخص نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی بعد میں اس کو کسی اور شخص نے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس شخص نے کہا کہ ”مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے لیکن وہ ذرہ ان صاحب سے (جنہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی) یہ ضرور بتا دینا کہ: ﴿قُلْ لَّوِ اَنَّتُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ اِذَا لَا مُسْكِنُكُمْ خَشِيَةَ الْاِنْفَاقِ ط﴾ [الاسراء: ۸۰۰] (اگر میرے رب کی رحمتوں کے خزانے تمہاری ملکیت میں ہوتے تو تم انہیں خرچ ہو جانے کے خوف سے ضرور دبا کر بیٹھ جاتے) یہ گویا اس نے نماز جنازہ نہ پڑھنے والے پر طعن کیا کہ میرا رب تو بہت مہربان ہے اس نے مجھے بخش دیا ہے اگر کہیں تمہارا بس چل جاتا تو نہ معلوم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔

خاصیت ☆ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کسی مظلوم کو ظالم کے ہاتھوں سے بچالے تو وہ اس اعظم کو دس بار پڑھے ظالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور اپنے ظلم سے باز آجائے گا اگر کوئی شخص اس اسم پاک پر مداومت کرے تو اس کا دل نرم رہے گا وہ سب کو دوست رکھے گا اور سب اسے دوست رکھیں گے۔

مالك الملك: سارے جہان کا مالک، اس اسم سے بندہ کا نصیب وہی ہے جو اسم پاک ”الملك“ کے ضمن میں بہت گزر چکا ہے شاذی فرماتے ہیں کہ ”اے شخص! ایک دروازہ پر بٹھریں یعنی صرف اللہ کے دروازہ پر آ، تاکہ تیرے لئے بہت سے دروازے کھولے جائیں اور صرف ایک بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گردن جھکا تاکہ تیرے سامنے بہت سی گرونیں جھکیں ارشاد ربانی ہے: ﴿وَكَانَ مِنْ شَيْءٍ اَلَا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾ (ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس جس کے خزانے نہ ہوں۔)

خاصیت ☆ جو شخص اس اسم پاک پر مداومت اختیار کرے تو اگر ہو اور اس کے دنیا و آخرت کے تمام امور اور تمام مقاصد نیک ثمرہ انجام پذیر ہوں اس کے بعد ذکر کئے جانے والے اسم پاک ”ذوالجلال والاکرام“ کی بھی یہی خاصیت ہے۔
ذوالجلال والاکرام: ”بزرگی اور بخشش کا مالک“ جس نے خدا کا اجلال جانا تو اس کی بارگاہ میں تذلیل اختیار کرے اور جس نے اس کا اکرام دیکھا تو اس کا شکر گزار ہو پس نہ تو غیر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے نہ خدا کے علاوہ کسی اور سے اپنی حاجت بیان کی جائے اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنے نفس کے لئے بزرگی کے حصول کی کوشش کرے اور بندگان خدا سے اچھا سلوک کرے۔

المقسط: ”عدل کرنے والا“ اس اسم سے بندہ کا نصیب وہی ہے جو اسم پاک ”العدل“ کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔
خاصیت ☆ جو شخص اس اسم پاک کو سو بار پڑھے وہ شیطان کے شر اور اس کے دوسوں سے محفوظ رہے گا اور اگر سات سو بار پڑھے تو اس کا جو بھی مقصد ہو گا حاصل ہوگا۔

الجامع: ”قیامت میں لوگوں کو جمع کرنے والا“ اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ علم اور عمل اور کمالات نفسانیہ و جسمانیہ کا جامع ہے اور خدا کی ذات میں محویت استغراق اور غور و فکر ذکر اللہ کے ذریعہ تسکین قلب و خاطر جمعی ذات و صفت باری تعالیٰ کا عرفان جیسی صفات حمیدہ کی سعادتیں اپنے اندر جمع کریں۔

در جمعیت کوش تاہمہ ذات شوی ☆ ترسم کہ پراگندہ شوی مات شوی
خاصیت ☆ جس شخص کے عزیز و اقارب اور اہل خانہ منتشر اور تتر بتر ہوں وہ چاشت کے وقت غسل کرے اور

آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اس اسم پاک کو دس مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر مرتبہ ایک انگلی بند کرتا جائے اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے انشاء اللہ تھوڑے عرصہ میں وہ سب جمع و یکجا ہو جائیں گے۔

المغنی: ”ہر چیز سے بے پروا“

خاصیت ☆ جو شخص حرص و طمع کی بلا میں مبتلا ہو وہ اپنے جسم کے ہر عضو پر ہاتھ رکھ کر اسم پاک ”المغنی“ پڑھے اور ہاتھ کو اس عضو کے اوپر نیچے کی طرف لائے حق تعالیٰ اسے اس بلا سے نجات دے گا اور جو شخص یہ اسم پاک ہر روز ستر بار پڑھے اس کے مال میں برکت ہوگی اور کبھی محتاج نہ ہوگا۔

المغنی: ”جس کو چاہئے بے پروا کرنے والا“ ان ناموں سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ ماسوی اللہ سے مکمل استغناء اور بے پرواہی برتے اور خدا کے علاوہ اور کسی کو حاجت روا قرار نہ دے۔

خاصیت ☆ جو شخص مسلسل دس جمعہ تک اس اسم پاک کو پڑھنے میں باقاعدگی اختیار کرے بایں طور کہ ہر جمعہ کے روز ایک ہزار بار پڑھے تو مخلوق سے بے پروا ہو جائے گا۔

المانع: ”اپنے بندوں کو دین و دنیا کی ہلاکت و نقصان سے باز رکھنے والا“ اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ اپنے نفس اور اپنی طبیعت کو خواہشات نفسانی سے باز رکھ کر اپنے آپ کو دینی و دنیاوی ہلاکت و نقصان سے محفوظ رکھے۔

خاصیت ☆ اگر شوہر بیوی کے درمیان ناچاقی ہو تو بستر پر جاتے وقت اس اسم پاک کو بیس مرتبہ پڑھ لیا جائے تاکہ حق تعالیٰ غصہ و ناچاقی کی بد مزگی سے بچائے گا۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے شرح اسماء حسنیٰ میں اسم پاک ”المانع“ سے پہلے اسم پاک ”المعطی“ بھی نقل کیا ہے اور انہوں نے ان دونوں ناموں کی ترجمانی کی وضاحت یوں کی کہ وہ جس کو جو کچھ چاہئے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ لا مانع لما أعطی ولا معطى لما منع (جان لو جس کو وہ دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو نہ دے اس کو کوئی دینے والا نہیں) لہذا جب بندہ نے جان لیا کہ حق تعالیٰ ہی (معطی) دینے والا اور مانع (نہ دینے والا) ہے تو اس کی عطا کی امید وار اور اس کے منع سے خائف رہے! بندہ پر اس اسم کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ خدا کے نیک بندوں اور مستحقین کو اپنے عطا سے نوازے اور فاسقوں و ظالموں کو عطا کرنے سے باز رہے یا یہ کہ اپنے قلب و روح کو حضور و طاعت کے انوار عطا کرے اور اپنے نفس و طبیعت کو خواہشات و ہوس سے باز رکھے! حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں جو یہاں ذکر کی گئی ہے ”المعطی“ کا ذکر نہیں ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت کے پیش نظر ”منع“ کی وضاحت ”رد و ہلاک“ کی جاتی ہے۔

اس کے بعد حضرت شیخ اسم پاک ”المعطی“ کی خاصیت یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص ”المعطی“ کو اپنا ورد بنالے اور یا معطی السائلین بہت پڑھتا رہا کرے تو کسی سے سوال کا محتاج نہیں ہوگا۔

الضار۔ النافع: ”جس کو چاہے ضرر پہنچانے والا“ اور جس کو چاہے نفع پہنچانے والا“ قشیریؒ کہتے ہیں کہ ان اسماء میں اس طرف اشارہ ہے کہ ضرر و نفع اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہے لہذا جو شخص اس کے حکم یعنی اس کی قضاء و قدر کا تابعدار ہو وہ راحت و سکون کی زندگی پائے گا اور جو شخص اس کا تابع دار نہ ہو وہ آفت و مصیبت میں پڑیگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَنْ اسْتَسْلَمَ لِقَضَائِيْ وَصَبَرَ عَلَىٰ هَلَاكِيْ وَشَكَرَ عَلَىٰ نِعَمَائِيْ كَانَ عَبْدِيْ حَقًّا وَمَنْ لَّمْ يَسْتَسْلِمْ لِقَضَائِيْ وَلَمْ يَصَبِرْ عَلَىٰ هَلَاكِيْ وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَىٰ نِعَمَائِيْ فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَانِيْ۔

”جس شخص نے میری قضا و قدر کو تسلیم کیا میری ہلا پر صبر کیا اور میری نعمتوں پر شکر کیا وہ میرا سچا بندہ ہے اور جس شخص نے میری قضا و قدر کو تسلیم نہ کیا میری ہلا پر صبر نہ کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تو وہ میرے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے۔“

حضرت شیخ نے شرح اسماء حسنیٰ میں ان دونوں اسماء الضار اور النافع کی وضاحت کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ خیر و شر اور نفع و ضرر کا صرف اللہ تعالیٰ مالک ہے اور گرمی سردی خشکی اور تری میں درد و تکلیف رنج و پریشانی اور شفا کا پیدا کرنے والا وہی ہے یہ قطعاً گمان نہ کیا جائے کہ دوا بذات خود فائدہ دیتی ہے نہ ہر بذات خود ہلاک کرتا ہے کھانا بذات خود سیر کرتا ہے اور پانی بذات خود سیراب کرتا ہے بلکہ یہ تمام اسباب عادی ہیں بایں معنی کہ یہ عادت قائم ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو اسباب بنا دیا ہے کہ مذکورہ چیزیں ان کے واسطے سے پیدا کرتا ہے اگر وہ چاہے تو ان چیزوں کو اس واسطوں اور اسباب کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے اور اگر چاہے تو ان کے باوجود بھی ان چیزوں کو پیدا نہ ہونے دے۔ اسی طرح عالم علویات و سفلیات کی تمام چیزیں اور تمام اجزاء محض واسطے اور اسباب کے درجہ میں ہیں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے زیر اثر ہیں اور ان تمام کی حیثیت بہ نسبت قدرت ازیلیہ وہی ہے جو لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم کی ہوتی ہے لہذا بندہ کو چاہئے کہ تمام نقصانات اور تمام فائدوں کو حق تعالیٰ کے فیصلے جانے عالم اسباب کو اس قدرت کے زیر اثر سمجھے اور حکم و قضا الہی کا تابعدار ہو کر اپنے تمام امور اسی کے سپرد کرے تاکہ وہ ایک ایسی زندگی کا حامل بن جائے جو مخلوق سے محفوظ اور مطمئن ہو۔

ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دانتوں کے درد سے پریشان ہو کر بارگاہ حق میں فریاد کی تو وہاں سے حکم ہوا کہ فلاں گھاس دانتوں پر ملو تاکہ آرام ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ گھاس دانتوں پر ملی تو آرام ہو گیا۔ ایک مدت کے بعد پھر ایک دانت میں درد ہوا تو انہوں نے وہی گھاس استعمال کی اس مرتبہ درد کم تو کیا ہوتا اور بڑھ گیا بارگاہ حق میں عرض رساں ہوئے ”اللہ العالمین! یہ تو وہی گھاس ہے جس کو استعمال کرنے کا آپ نے حکم فرمایا تھا مگر اب اس کے استعمال سے درد اور بڑھ گیا ہے! بارگاہ حق سے عتاب کے ساتھ یہ ارشاد ہوا ”اس مرتبہ تم نے ہماری طرف توجہ کی تھی تو ہم نے شفا دی اور اس مرتبہ تم نے گھاس کی طرف توجہ کی اس لئے ہم نے درد میں اضافہ کر دیا تاکہ تم یہ جان لو کہ شفا دینے والے تو ہم ہی ہیں نہ کہ گھاس۔“

بندہ ان پر ان اسماء کا تقاضہ یہ ہے کہ امر الہی اور حکم شریعت کے ذریعہ دشمنان دین کو ضرر پہنچائے اور انہیں متنبہ کرے اور بندگان خدا کو نفع پہنچائے اور ان کی مدد کرتا رہے۔

خاصیت ☆ اگر کسی شخص کو کوئی حال اور مقام میسر ہو تو وہ اسم پاک الضار کو جمعہ کی راتوں میں سو بار پڑھا کرے حق تعالیٰ اسے اس مقام پر استقامت عطا فرمائے گا اور وہ مرتبہ اہل قرب کو پہنچے گا۔ اگر کوئی شخص کشتی یا پانی کے جہاز میں سفر کرے تو وہ روزانہ اسم پاک ”النافع“ کو اکتالیس مرتبہ پڑھے انشاء اللہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور اپنے ہر کام کی ابتداء میں ”النافع“ اکتالیس بار پڑھ لیا کرے تو اس کے تمام کام حسب خواہش انجام پذیر ہوں گے۔

العور: ”آسمان کو ستاروں کے ساتھ زمین کو انبیاء و علماء وغیرہ کے ذریعہ اور مسلمانوں کے قلوب کو نور معرفت و طاعت

کے ذریعہ روشن کرنے والا“ اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ ایمان و عرفان کے نور سے اپنی ذات کو روشن و منور کرے۔

خاصیت ☆ جو شخص جمعہ کی شب میں سورہ نور سات مرتبہ اور یہ اسم پاک ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھے حق تعالیٰ اس کے دل میں نورانیت پیدا فرمادے گا اور جو شخص روزانہ صبح اس اسم پاک کو پڑھنے کا التزام رکھے تو اس کا دل منور ہوگا۔

الہادی: ”راہ دکھانے والا“ اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ بندگان خدا کو خدا کی راہ دکھائے! اس بات کو حضرت شیخ نے شرح اسماء حسنیٰ میں وضاحت کے ساتھ یوں بیان کیا ہے کہ ”ہدایت“ کا مطلب ہے ”راہ دکھانا اور منزل و مقصود تک پہنچانا“ لہذا اللہ تعالیٰ تمام راہ رووں کا رہنما ہے اگر کوئی دنیا کی راہ پر ہوتا ہے تب بھی راہنما ہے اور اگر کوئی آخرت کی راہ پر چلتا ہے تو بھی راہبر اسی کی ذات ہے۔

گر نہ چراغ لطف تو راہ نماید از کرم ☆ قافلہائے شب رواں پے نبرد بمنزلے حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی انواع ہدایت کی کوئی حدود شمار نہیں ہے۔ الذی اعطیٰ کل شیء خلقه ثم ہدٰی (وہ ایسی ذات ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے اور پھر اس کی راہ بتائی) چنانچہ یہ حق تعالیٰ ہی ہے جو بچہ کو پیٹ سے باہر لاتے ہی ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینے کی راہ بتاتا ہے، چوڑہ کو انڈے سے نکلنے ہی دانہ چننے کی راہ پر لگاتا ہے اور شہد کی مکھی کو کیا عجیب و غریب گھربنانے کی راہ دکھاتا ہے حاصل یہ ہے کہ کائنات کا ایک ایک فرد اپنے ایک ایک لمحہ اور اپنے ایک ایک فعل میں اسی کی ہدایت و رہنمائی کا مہربون منت ہوتا ہے۔

لیکن سب سے افضل اور سب سے عظیم الشان ہدایت وہ راستہ ہے جو بارگاہ حق جلن مجدہ تک اور دیدار باری تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ تک پہنچاتا ہے اور خواص کے باطن میں توفیق الہی اور اسرار تحقیق کو وہ نور پیدا کرنا ہے جو ہدایت معرفت اور طاعت کا سبب بنتا ہے۔

بندوں میں اس اسم پاک ”الہادی“ سے سب سے زیادہ بہرہ مند انبیاء اولیاء اور علماء ہیں جو مخلوق خدا کو صراط مستقیم کی طرف راہ دکھانے والے ہیں۔ سید انبیاء اور ختم رسل دو عالم ﷺ کی ذات گرامی اس اسم پاک کا حقیقی پرتو ہے جو اس دنیا میں پوری انسانیت اور پوری کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے بلند مرتبہ راہنما اور راہبر ہیں۔ اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْھِمْ وَكَالضَّالِّیْنَ۔

حضرت ذوالنون مصریٰ فرماتے ہیں کہ ”تین چیزیں ایسی ہیں جن کا عارفین کی صفات عالیہ میں شمار ہوتا ہے (۱) تنکدل اور غمزدوں کو کسادگی اور فرحت کی طرف لانا (۲) غافلین کو حق تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانا (۳) زبان توحید سے مسلمانوں کو حق کی راہ دکھانا، یعنی ان کے قلوب کی توجہ دنیا سے دین کی طرف اور معاش سے معاد کی طرف پھیرنا“

خاصیت ☆ جو شخص ہاتھ اٹھا کر اور اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھا کر اس اسم پاک ”الہادی“ کو بہت زیادہ پڑھا کرے اور پھر ہاتھوں کو آنکھوں اور منہ پر پھیر لیا کرے تو حق تعالیٰ اسے اہل معرفت کا مرتبہ بخشے گا۔

البدیع: ”عالم کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا“ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو شخص قول و فعل میں اپنے نفس پر سنت کو امیر (حاکم) بناتا ہے وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے یعنی اس کا ذہن اس کا فکر اس کی زبان حکمت و شریعت ہی کے ڈھانچے میں ڈھل جاتی ہے اور وہ شخص قول و فعل میں اپنے نفس پر خواہش کو امیر بناتا ہے وہ بدعت ہی کی باتیں کرتا ہے“ اس کا ذہن اس کا فکر اور اس

کی زبان بدعت ہی کے چکر میں پڑھی رہتی ہے۔“

تیسری فرماتے ہیں کہ ”ہمارے مسلک کے تین اصول ہیں“ (۱) اخلاق و افعال میں اور کھانے پینے میں کہ وہ حلال ہو نبی کریم ﷺ کی پیروی کرنا۔ (۲) ہمیشہ سچ بولنا۔ (۳) تمام اعمال میں نیت کو خالص کرنا“ نیز یہ بھی فرمایا کہ ”جو شخص بدعتی کے بارے میں مدھمت کرتا ہے یعنی اس سے نرمی برتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے سنت کی حلاوت اٹھالیتا ہے اور جو شخص بدعتی کو دیکھ کر ہنستا ہے یعنی بدعتی کے ساتھ احترام کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کا نور سلب کر لیتا ہے

خاصیت ☆ جس شخص پر کوئی غم پڑے یا کوئی دشوار کام پیش آئے تو وہ **يَا بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** ستر ہزار بار اور ایک قول کے مطابق ایک ہزار بار پڑھے انشاء اللہ وہ غم دور ہو جائے گا اور اس کا کام پورا ہو جائے گا اور اگر کوئی شخص با وضو ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ اتنا پڑھے کہ سو جائے تو وہ خواب میں جس چیز کے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو گا دیکھ لے گا۔

الباقی: ”ہمیشہ باقی رہنے والا“

خاصیت ☆ جو شخص اس اسم پاک کو جمعہ کی شب میں سو بار پڑھ لیا کرے اس کے تمام اعمال قبول ہوں گے اور کوئی رنج و غم اسے نہ ستائے گا۔

الوارث: ”موجودات کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہنے والا اور تمام مخلوقات کا مالک“ جیسا کہ بتایا گیا وارث سے مراد ہے موجودات کے فنا ہو جانے کے بعد باقی تمام املاک اپنے مالکوں کے فنا ہو جانے کے بعد اس کی طرف رجوع کریں گی، لیکن یہ مطلب ”وارث“ کے ظاہری مفہوم کے اعتبار سے ہے ورنہ تو حقیقت میں کائنات کی ایک ایک چیز کا علی الاطلاق ازل سے ابد تک ملکیت میں بغیر کسی تبدل و تغیر کے وہی مالک ہے تمام ملک و ملکوت بلا شرکت غیرے اسی کے لئے ہیں اور وہی سب کا حقیقی مالک ہے چنانچہ ارباب بصائر ہمیشہ یہ نداء **لَيَنَّ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ** (گوش ہوش سے سنتے ہیں) لہذا بندہ کو چاہئے کہ وہ اپنے مال و میراث کے فکر میں نہ رہے بلکہ یہ جانے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے جانا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ **مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا** عارفوں کا شعار ہے۔

۴ دل بریں منزل فانی چہ نبی رخت بہ بند

بندہ پر اس اسم پاک کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ ان اعمال میں اپنی زندگی صرف کرے جو باقیات صالحات میں سے ہیں جیسے تعلیم و تعلم اور صدقہ جاریہ وغیرہ نیز دین کے علوم و معارف کی پوری سعی و کوشش کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حاصل کرے تاکہ صحیح معنی میں انبیاء کا وارث قرار پائے۔

خاصیت ☆ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت اس اسم پاک کو سو بار پڑھا کرے اس کو کوئی رنج و غم نہیں پہنچے گا اور جو شخص اس اسم کو بہت زیادہ پڑھتا رہے اس کے تمام کام بحسن و خوبی انجام پذیر ہوں گے۔

الرشید: ”عالم کا رہنما“ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ”اپنے بندہ کو اللہ کی راہ دکھانا یہ ہے اور وہ اس کے نفس کو اپنی اطاعت و عبادت کی راہ دکھاتا ہے اس کے قلب کو اپنی مغفرت کی راہ دکھاتا ہے اور اس کی روح کو اپنی محبت کی راہ دکھاتا ہے اور جس بندہ کا نفس سنوارنے کے لئے حق تعالیٰ اس کو راہ دکھاتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور میں توکل و تفویض الہام فرماتا ہے۔“

منقول یہ ہے کہ ایک دن حضرات ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کو بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے ایک شخص کو ایک چیز دی جو ان کے پاس موجود تھی اور اس سے کہا کہ اس کو گروی رکھ کر کھانے کا انتظام کر دے جب وہ شخص وہ چیز لے کر وہاں سے نکلا تو اچانک اس کو ایک اور شخص ملا جو ایک خچر کے ساتھ چلا آ رہا تھا اس خچر پر چالیس ہزار دینار لدے ہوئے تھے اس نے اس شخص سے حضرت ابراہیم بن ادہم کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ یہ چالیس ہزار دینار ابراہیم کی میراث ہیں جو ان تک ان کے والد کے مال سے پہنچی ہے میں ان کا غلام ہوں میراث کا یہ مال میں ان کی خدمت میں لایا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا اور چالیس ہزار دینار ان کے حوالہ کئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر تم سچ کہتے ہو کہ تم میرے ہی غلام ہو اور یہ مال بھی میرا ہی ہے تو میں تمہیں خدا کی خوشنودی کے لئے آزاد کرتا ہوں اور یہ چالیس ہزار دینار بھی تمہیں بخشا ہوں۔ بس اب تم میرے پاس سے چلے جاؤ! جب وہ شخص وہاں سے چلا گیا تو ابراہیم نے کہا کہ ”پروردگار“ میں نے تو تیرے سامنے صرف روٹی کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو نے مجھے اتنی مقدار میں دینا دے دی پس قسم ہے تیری ذات کی اب اگر تو مجھے بھوک سے مار بھی ڈالے تو تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔

خاصیت ☆ اگر کوئی شخص اپنے کس کام کے بارے میں کچھ طے نہ کر پا رہا ہو تو وہ عشاء کی نماز کے اور اپنے سونے کے درمیان اس اسم پاک کو ایک ہزار مرتبہ پڑھے اس کام کے بارے میں جو صحیح اور مفید بات ہوگی اس پر ظاہر ہو جائے گی اور جو شخص اس اسم پاک پر مداومت کرے اس کے تمام امور بغیر سعی و کوشش کے انجام پذیر ہوں گے۔

الصبور: ”بردار کہ گنہگاروں کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا“ لغت میں ”صبر کے معنی ہیں شکیبائی کرنا اور ”صبور“ وہ کہ گنہگاروں کو پکڑنے اور ان کو سزا دینے میں جلدی نہ کریں۔ ”صبور“ معنی و مفہوم کے اعتبار سے ”حلیم“ کے قریب ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے ”صبور“ اس بات پر مشعر ہے کہ اگر چہ فی الوقت بردباری کی لیکن آخرت میں پکڑے گا اور عذاب دے گا جب کہ ”حلیم“ بردباری کے مفہوم میں مطلق ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ ”صبور“ کے معنی بندہ کو اس کی مصیبت و بلاء میں صبر دینے والا لہذا مبارک امانت کے تحمل پر صبر دینے والا، شہوات و خواہش کی مخالفت پر صبر دینے والا اور اداء عبادت میں مشقت پر صبر دینے والا وہی حق سبحانہ و تعالیٰ ہے اس لئے بندہ کو چاہئے کہ وہ ہر مصیبت و رنج و آفت و بلاء میں خدا سے صبر چاہے اور اس کی نافرمانی سے دور رہے نیز اس اسم پاک کا بندہ پر تقاضہ یہ ہے کہ وہ کسی کام میں سبکی اور جلدی نہ کرے بلکہ وقار و طمانیت اور تمکین اختیار کرے اور ہر رنج میں اللہ تعالیٰ کی ہی پناہ طلب کرے۔ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔

مشائخ میں سے ایک شخص کا یہ مقولہ ہی کتنا عارفانہ ہے ”جام صبر پیو اگر مارے جاؤ گے شہید اور اگر زندہ رہو گے تو سعید کہلاؤ گے۔“
خاصیت ☆ کسی کو رنج و مشقت، درد و تکلیف اور کوئی مصیبت پیش آئے تو یہ اسم تینتیس مرتبہ پڑھے اطمینان باطن پائے گا دشمنوں کی زبان بندی و پسائی، حکام کی خوشنودی اور لوگوں کے دلوں میں مقبولیت کے لئے آدھی رات کے وقت یا دوپہر میں اس اسم پاک کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا بڑی خاصیت اور تاثیر رکھتا ہے۔

مشکوٰۃ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں حق تعالیٰ کے جو ننانوے نام منقول ہیں ان کی وضاحت ختم ہوئی ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث میں ان ناموں کے علاوہ بھی کچھ نام اور منقول ہیں چنانچہ قرآن کریم میں یہ نام بھی آتے ہیں۔

الرَّبُّ . الْاَكْرَمُ . الْاَعْلٰی . الْحَافِظُ . الْخَالِقُ . السَّائِرُ . السَّاتِرُ . الشَّاکِرُ . الْعَادِلُ . الْعَلَامُ . الْغَالِبُ . النَّاطِقُ . الْخَالِقُ . الْقَدِيرُ . الْقَرِيبُ . الْقَاهِرُ . الْكَفِيلُ . الْكَافِي . الْمُنِيرُ . الْمَحِيطُ . الْمَلِكُ . الْمَوْلٰی . النَّصِيرُ . اُحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ . اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ . اَحْسَنُ الْغَالِقِيْنَ . ذُو الْفَضْلِ . ذُو الطُّوْلِ . ذُو الْقُوَّةِ . ذُو الْمَعَارِجِ . ذُو الْعَرْشِ . رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ . قَابِلُ التَّوَابِ . اَلْفَعَالُ لَمَّا يُرِيدُ . مُخْرَجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ اور احادیث میں یہ نام بھی آئے ہیں: الحنان، المنان، المغیث، نیز ان کے علاوہ دیگر آسمانی کتب مثلاً توریت وغیرہ سے اللہ تعالیٰ کے کچھ اور نام نقل کئے جاتے ہیں۔

اسم اعظم کی برکات

۳/۲۱۶۸ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلٌ يُصَلِّي فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ أَسْأَلُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ۔ (رواه الترمذی و ابو داود او النسائی وابن ماجه)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۷۹/۲ حدیث رقم ۱۴۹۵۔ والنسائی واخرجه ابن ماجه ۱۲۶۸/۲ حدیث رقم ۳۸۵۸۔ واحمد فی المسند ۱۲۰/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا اے الہی! میں تجھ سے اپنا مطلب مانگتا ہوں اس ویلے سے کہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو مہربان ہے بہت دینے والا ہے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اے بزرگی اور بخشش والے۔ اے زندہ اے خیر گیری کرنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ پس نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو دیتا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی نے بڑی جامع دعا کی۔ اس دعا کا ذکر مذکورہ حدیث میں موجود ہے۔

اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اسم اعظم پڑھ کر دعائے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔

اسم اعظم ان مذکورہ دو آیتوں میں موجود ہے

۵/۲۱۶۹ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَالْهُكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَلَقَاتِحَةُ آلِ عِمْرَانَ اَلَمْ يَلَمْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ۔

(رواه الترمذی و ابو داؤد وابن ماجه والدارمی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۸۰/۲ حدیث رقم ۱۴۹۶۔ والترمذی ۱۷۸/۵ حدیث رقم ۳۵۴۳ وابن ماجه ۱۲۶۷/۲۔

حدیث رقم ۳۸۵۵۔ والدارمی ۵۴۲/۲ حدیث رقم ۳۳۸۹۔

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم ان دونوں آیتوں میں ہے ”تمہارا معبود ایک ہی ہے کوئی معبود نہیں مگر وہی بخشنے والا ہے مہربان ہے اور سورۃ ال عمران کے ابتداء میں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر زندہ ہے خبر گیری کرنے والا۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور ابو داؤد اور ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اسم اعظم دو آیتوں میں موجود ہے پہلی آیت یہ ہے۔ وَاللّٰهُمَّ اِلٰہَ وَاحِدٌ لَا اِلٰہَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ۔ دوسری آیت آل عمران کا آغاز اَللّٰهُ لَا اِلٰہَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام کی جامع دُعا

۶/۲۱۷۰ وَعَنْ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذَا دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ۔ (رواه احمد والترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۹۱/۵ حدیث رقم ۳۵۷۲۔ واحمد فی المسند ۱۷۰/۱۔

ترجمہ: حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت یہ دُعا مانگی جب مچھلی کے پیٹ میں تھے دُعا یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو پاک ہے تحقیق میں ظالموں میں سے تھا۔ جب بھی کوئی شخص مسلمان اس کے ساتھ دُعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دُعا قبول کرتا ہے۔ اس کو امام احمد اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ مختصر اقصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہر نیوا والوں کی طرف بھیجا پس انہوں نے ان کو ایمان کی طرف بلایا وہ ایمان نہ لائے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ان کو آگاہ کر دو کہ تم پر تین دن کے بعد عذاب آئے گا۔ وہ یہ بات کہہ کر نکل گئے پس ان پر ایک سیاہ بادل ظاہر ہوا اور قریب ہوا یہاں تک کہ ان کے شہر پر ٹھہرا اور اس میں سے ایک دھواں نکلا۔ پس جب انہوں نے یقین کیا کہ عذاب کا آنا قریب ہو گیا ہے وہ اپنی بیبیوں اور اولاد اور اپنے جانوروں کو لے کر جنگل کی طرف نکلے اور آدمیوں اور جانوروں کے بچوں کو ماؤں سے جدا کیا اور آہ وزاری کے ساتھ آواز بلند کی اور ایمان لے آئے اور کفر اور گناہوں سے توبہ کی اور کہا: یا حی حین لا حی لا الہ الا انت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ پھر حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے شہر کے قریب آئے۔ تاکہ ان کا حال معلوم ہو۔ پس دور سے دیکھا کہ ان کا شہر آباد ہے جیسا کہ اور لوگ اس کے زندہ ہیں پس انہوں نے حیا کی اور کہا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ تم پر تین دن بعد عذاب نازل ہوگا اور اب تک نازل نہ ہوا۔ پس ان کو معلوم نہ ہوا کہ عذاب اُتر اٹھا یا نہیں؟ یہاں تک کہ وہ ایک کشتی کے پاس آئے اور اس میں بیٹھے۔ پس جب وہ بیٹھے تو کشتی ٹھہر گئی۔ پس اس کے جاری کرنے میں مبالغہ کیا وہ جاری نہ ہوئی۔ پس ملاحوں نے کہا کہ یہاں کوئی بھاگا ہوا غلام موجود ہے پھر انہوں نے کشتی والوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ پس قرعہ یونس علیہ السلام کے نام نکلا انہوں نے کہا کہ میں بھاگا ہوا غلام ہوں پس انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ پس مچھلی اللہ کے حکم سے انہیں نگل گئی اور مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ یہ ان کو محفوظ رکھے۔ پس وہ ان کے پیٹ میں ٹھہرے رہے اور مچھلی

نے ان کو دریائے نیل، فارس اور دجلہ کی سیر کروائی۔

پھر فرمایا: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یعنی میں تیری اجازت سے قبل قوم سے بھاگنے کی وجہ سے ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور چھٹی کو حکم دیا کہ نصیبین کی زمین کی طرف ڈال دے۔ وہ شام کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔

الفصل الثالث:

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اسم اعظم کی خوشخبری سنانا

۷۲۱/۱ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ عِشَاءً وَادَّارَ رَجُلٌ يَقْرَأُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقُولُ هَذَا مُرَاءٍ قَالَ بَلْ مُؤْمِنٌ مُنِيبٌ قَالَ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يَقْرَأُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَسَمَعُ لِقِرَاءَةِ نَمٍ جَلَسَ أَبُو مُوسَى يَدْعُو فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ أَنْكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْهُ بِمَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ نَعَمْ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَنْتَ الْيَوْمَ لِي أَخٌ صَدِيقٌ حَدَّثَنِي بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواہ رزین)

اخرجه رزین۔

ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ داخل ہوا پس اچانک ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا اور اپنی آواز بلند کرتا تھا۔ پس میں نے کہا اے اللہ کے نبی! آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آیا کہ یہ ریاکاری کرنے والا ہے یعنی منافق ہے کہ سنانے اور دکھانے کے لیے پکار کر پڑھتا ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا بلکہ مسلمان ہے غفلت سے ذکر کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے جو شخص بلند آواز سے پڑھ رہا تھا وہ ابوموسیٰ ہی تھے۔ چنانچہ رسول خدا ﷺ نے ان کی قرأت سننی شروع کی پھر ابوموسیٰ بیٹھے۔ یعنی شاید کہ وہ تشہد میں یا نماز کے بعد دعا مانگنے کے لئے بیٹھے۔ پس کہنے لگے اے الہی تحقیق میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں یعنی میں تیرے حق میں اعتقاد کرتا ہوں کہ تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو ایک ہے بے نیاز ہے نہ جناب ہے اور جنایا گیا اور تیرے واسطے ہمسر بھی نہیں ہے پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ سے ایسے نام کے ساتھ جب کوئی مانگتا ہے تو جب سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور جس وقت اس نام کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچا دوں جو بات میں نے آپ ﷺ سے سنی ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں پھر ان کو نبی کریم ﷺ کے فرمانے کی خبر دی۔ ابوموسیٰ نے کہا کہ آج کے دن تو میرا سچا بھائی ہے تو نے مجھ سے حدیث رسول ﷺ بیان کی ہے۔ ان کو رزین کے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں اسمِ اعظم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اسمِ اعظم کے بارے میں بہت سے اقوال وارد ہوئے ہیں بعضوں نے کہا ہے کہ اسمِ اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور بعضوں نے لفظ ہو کہا ہے اور بعضوں نے الحی القیوم اور بعضوں نے مالک الملک کو اور بعضوں نے کلمہ تو حید اور بعضوں نے اللہ الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم اور حضرت امام زین العابدینؑ سے منقول ہے کہ انہوں نے رب العزت سے سوال کیا کہ مجھ کو اسمِ اعظم سکھا دیں۔ پس ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ اسمِ اعظم لا الہ الا اللہ ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ اسمائے حسی میں مخفی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اللہ ہے اور بعضوں نے کہا کہ اللہم ہے اور بعضوں نے کہا ہے جو شخص اسمائے الہی میں سے کسی اسم سے اللہ کو یاد کرے حضور واستغراق کے طریقے سے اس طرح کہ اس کے باطن میں سوائے اس کے اور کچھ نہ ہو وہ اسمِ اعظم ہے اور اس کے ساتھ دُعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے یہ حضرت امام جعفرؑ کا قول ہے اور ابوسیلمانؑ دارانی نے کہا ہے کہ میں نے بعض مشائخ سے اسمِ اعظم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیا تو اپنے دل کو پہچانتا ہے مومن نے کہا کہ ہاں جس وقت تو اپنے دل کو دیکھے کہ اللہ کی طرف کے متوجہ ہو رہا ہے اور نرم ہوا ہے تو اپنی حاجت مانگو کہ یہی اسمِ اعظم ہے اور ابوالریح سے کسی نے پوچھا کہ مجھ کو اسمِ اعظم تعلیم کرو۔ فرمایا لکھو: اطلع اللہ یطعمک۔ یعنی اللہ کی فرمانبرداری کر اللہ تعالیٰ تیری عرض قبول کرے گا۔

الحاصل کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اسمِ اعظم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مہربان ہوتا ہے اور دُعا قبول کرتا ہے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کن کی طرح ہے الرحیم یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کن کے کہنے سے جو چاہے پیدا کر دیتا ہے ویسے ہی بندے کے لیے بسم اللہ کی برکت ایسی ہے کہ جس کام کو چاہے وہ سرانجام ہو جاتا ہے۔ اور بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ دُعا سب اقوال کی جامع ہے۔ یعنی اس دُعا میں سب اسمِ اعظم جو تمام بزرگوں سے منقول ہیں آ جاتے ہیں۔

دعا یہ ہے:

اللہم انی اسئلك بان لك الحمد لا الہ انت یا حنان یا منان یا بدیع السموات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا خیر الوارثین یا ارحم الراحمین یا سمیع الدعاء یا اللہ یا اللہ یا عالم یا سمیع یا علیم یا حلیم یا مالک الملک یا ملک یا سلام یا حق یا قدیم یا قائم یا غنی یا محیط یا مقسط یا حی یا قیوم یا احمد یا حمد یا رب یا رب یا رب یا وھاب یا غفار یا قریب یا لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین انت حسبی ونعم الوکیل -

بَابُ ثَوَابِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ

تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر کے ثواب کا بیان

الفصل الاول:

بہترین کلام چار کلمے ہیں

۱/۲۱۷۲ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَفِي رِوَايَةٍ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بَابِيهِنَّ بَدَأَتْ - (رواه مسلم)

اخرجه الرواية الاولى البخارى تعليقا ۵۶۶/۱۱ باب ۱۹ من كتاب الايمان والنذر واخرجه ابن ماجه فى السنن ۲/۲۵۳،

حديث رقم ۳۸۱۱ واحمد فى المسند ۱۰/۵ واخرج الرواية الثانية مسلم فى صحيحه ۱۶۸۵/۳ حديث رقم (۱۲-۲۱۳۷)۔

ترجمہ: حضرت سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ آدمی کا بہترین کلام چار کلمے ہیں:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اور ایک روایت میں ہے سب سے پسندیدہ کلام اللہ تعالیٰ کے

نزدیک چار کلمے ہیں: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ کسی کے ساتھ بھی آغاز کرنے میں کوئی

حرج نہیں ہے یعنی کسی بھی کلمے کے ساتھ شروع کر لو مضائقہ نہیں ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد بندوں کے کلاموں میں چار کلمے افضل

ہیں یہ اس لیے کہ چوتھا کلمہ قرآن میں نہیں آیا اور جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ افضل نہیں ہے اس چیز سے کہ جو قرآن میں ہے

اور ایک حدیث میں آیا ہے: ((افضل الكلام بعد القرآن وهى من القرآن)) اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کلام کلام اللہ کو بھی

شامل ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے کلاموں میں سے بھی یہ کلمے افضل ہوں اس لیے کہ تین تو قرآن مجید میں بعینہ موجود ہیں اور چوتھا

قرآن میں معنی میں ہے: ﴿وَكَبِيرَةً تَكْبِيرًا﴾ اور یہ کلمے افضل ہیں لیکن جو ذکر حدیث سے ثابت ہوا ہے کسی

حال میں یا وقت میں مشغول ہونا اس کے ساتھ افضل تسبیح ہے اور کسی کے ساتھ بھی ان میں سے شروع کرے۔ یعنی پہلے سُبْحَانَ

اللہ کہے یا: الْحَمْدُ لِلَّهِ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَا اللَّهُ أَكْبَرُ۔ علامہ طیبیؒ نے لکھا ہے کہ مذکورہ ترتیب سے پڑھنا عزیمت ہے یعنی

اولیٰ ہے اور بغیر ترتیب کے پڑھنے میں رخصت ہے۔ یعنی جائز ہے۔

۲/۲۱۷۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ - (رواه مسلم)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۰۶/۱۱ حدیث رقم ۶۴۰۵۔ ومسلم فی صحیحہ من حدیث طویل ۲۰۷/۱۴ حدیث رقم (۲۸-۲۶۹۱)۔ واحمد فی المسند ۳۷۵/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا البتہ میرا سُبْحَانَ اللہ اور اَلْحَمْدُ لِلّٰہ اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہنا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے ہر اس چیز سے کہ جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے یعنی دنیا اور دنیا کی چیزیں اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ چار کلمات رسول اللہ ﷺ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ چار کلمات اوپر حدیث پاک میں مذکور ہیں۔

سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی فضیلت

۳/۲۱۷۴ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةً حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۰۶/۱۱ حدیث رقم ۶۴۰۵۔ ومسلم فی صحیحہ من حدیث طویل ۲۰۷/۱۴ حدیث رقم (۲۸-۲۶۹۱)۔ واحمد فی المسند ۳۷۵/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں سو بار کہا اس کے گناہ دور کیے جاتے ہیں اگرچہ وہ دریا کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: علامہ طیبی نے کہا کہ سو بار متفرق پڑھے یا اکٹھے دن کے پہلے حصے میں پڑھے یا دن کے آخر میں۔ دن کے پہلے حصے میں اکٹھے پڑھنا اولیٰ ہے۔

صبح و شام کا بہترین ذکر

۳/۲۱۷۵ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةً مَرَّةً يَأْتِ أَحَدُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلِ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدًا قَالَ مِثْلُ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ۔

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۰۷/۱۴ حدیث رقم (۲۹-۲۶۹۲)۔ والترمذی فی السنن ۱۷۵/۵ حدیث رقم ۳۵۳۶۔ واحمد فی المسند ۳۷۱/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے صبح اور شام کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سو بار پڑھا قیامت کے دن کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس کی مانند کہا ہو گا یا اس سے زیادہ کہا ہو گا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص صبح و شام کے وقت سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا۔ قیامت کے دن اس کا عمل تمام اعمال سے بہتر شمار ہوگا۔ یہاں ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ عبارت کے ظاہر سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس نے پہلے شخص کی مانند کہا کہ وہ افضل لائے گا اس چیز سے کہ وہ لایا حالانکہ یوں نہیں ہے بلکہ جس نے کہا اس چیز کی مانند

وہ مانند اس چیز کے لائے گانہ کہ اس سے افضل۔ جواب ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس کے برابر لائے گا اور جس نے اس چیز سے زیادہ کہا۔ وہ اس چیز سے افضل لائے گا یا یہ کلمہ بمعنی واو ہے۔

اللہ کے نزدیک دو محبوب کلمے

۵/۲۱۷۲ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۶۶/۱۱ حدیث رقم ۶۶۸۲۔ و مسلم فی صحیحہ ۲۰۷۲/۴ حدیث رقم (۳۱۔ ۶۹۴) و الترمذی فی السنن ۱۷۴/۵ حدیث رقم ۳۵۳۴۔ و ابن ماجہ ۱۲۵۱/۲ حدیث رقم ۳۸۰۶۔ و احمد فی المسند ۳۳۲/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا دو کلمے ہیں زبان پر ہلکے ہیں ترازو میں بھاری ہیں یعنی ان کا ثواب زیادہ ہوگا۔ میزان اعمال میں بخشنے والے (یعنی مہربان خدا کے نزدیک دو محبوب کلمے) یہ ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اپنی حمد کے ساتھ موصوف ہے اللہ تعالیٰ بڑا پاک ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں اللہ کے نزدیک دو محبوب کلموں کا ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا کہ دوایسے کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں۔ ملا علی قاریؒ نے اس کی تشریح مرقات میں یوں بیان کی ہے: تجربان علی اللسان۔ زبان پر بڑی سہولت کے ساتھ جاری ہو جاتے ہیں اور از روئے ثواب کے میزان اعمال میں بھاری ہوں گے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کو بھی جسم عطا فرمائے گا اور پھر ان کا ظاہر آترزو میں وزن کیا جائے گا۔

ایک ہزار نیکیوں والا عمل

۶/۲۱۷۷ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْعِثُوا أَحَدَكُمْ أَنْ يَكْتَسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْتَسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحِطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ۔ (رواه مسلم وفي كتابه في جميع الروايات) عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ أَوْ يُحِطُّ قَالَ أَبُو بَكْرِ الْبَرْقَانِيُّ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَابُو عَوَانَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُوسَى فَقَالُوا وَيُحِطُّ بِعِزِّ أَلْفِ هَكَذَا فِي كِتَابِ الْحَمِيدِ

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۰۷۳/۴ حدیث رقم (۳۷۔ ۲۶۹۸)۔ و احمد فی المسند ۱۷۴/۱۔

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس تھے۔ پس آپ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی عاجز ہے کہ ہر روز ایک ہزار نیکیاں کمائے؟ ان کے ہم نشینوں میں سے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ہم میں سے کوئی ایک ہزار نیکیاں سہولت کے ساتھ کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ وہ سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھے اس کے لیے ایک ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یعنی اس حساب سے ہر نیکی کی دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اس سے ہزار گناہ دور کیے

جائیں گے۔ یعنی صغیرہ یا کبیرہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے اور مسلم شریف کی کتاب میں یعنی صحیح مسلم کی تمام روایتوں میں موسیٰ جہنی سے لفظ اویحط کا ہے اور ابو بکر رقائق نے کہا ہے اور اس کو شعبہ اور ابو عوانہ اور یحییٰ بن سعید قطان نے موسیٰ جہنی سے روایت کیا ہے پس انہوں نے یعنی شعبہ وغیرہ نے کہا ہے وویحط کا لفظ بدون الف کے ہے اور اسی طرح حمیدی کی کتاب میں ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص روزانہ سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہزار نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دیتا ہے اور ایک ہزار گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اویحط کے معنی یہ ہیں کہ دونوں باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے یا نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا گناہ جھڑتے ہیں اور وویحط معنی یہ ہیں کہ نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور گناہ بھی جھڑتے ہیں اور روایتیں اس کی مؤکد ہیں ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ اور ابن حبان وغیرہ سے جو منقول ہے ان میں بھی وویحط واؤ سے ہے۔

ظاہر ان روایتوں سے منافات معلوم ہوتی ہے ان میں تطہیق یوں دی جائے گی کہ کبھی واؤ بمعنی او کے آتا ہے اس لحاظ سے دونوں روایتوں میں منافات نہیں ہے اور معنی اس طرح سے ہوں گے کہ جس نے تسبیح پڑھی اس کے لیے ایک ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں اگر اس کے ذمے گناہ نہ ہوں اگر اس کے ذمے گناہ ہوں تو اس سے ایک ہزار گناہ جھڑ جاتے ہیں۔

فرشتوں کے لیے انتخاب کردہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے

۸/۲۱۷۸ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ الْكَلَامِ أَفْضَلَ قَالَ مَا أَصْطَفَى اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۰۹۳/۴ حدیث رقم (۸۴-۲۷۳۱)۔

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے پوچھا گیا کہ کونسا کلام بہتر ہے؟ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ کلام جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے انتخاب فرمایا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک کا یہ خلاصہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ اس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے اس کلمہ کو پسند فرمایا ہے۔ یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔

رسول اللہ ﷺ کا محبوب ترین ذکر

۸/۲۱۷۹ وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَصْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ قَالَ مَا زِلْتُ عَلَى الْحَالِ الْيَتَّى فَارَقْتُكَ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدُكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وَزَنْتُ بِمَا قُلْتُ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوْ زَنْتَهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۰۹۰/۴ حدیث رقم (۷۹-۲۷۲۶)۔ وابن ماجہ ۱۲۵۱/۲ حدیث رقم ۳۸۰۸۔

ترجمہ: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا جو کہ حضور ﷺ کی بیوی تھیں سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ان کے پاس سے نکلے۔ صبح کے وقت اس وقت آپ ﷺ نے صبح کی نماز کا ارادہ فرمایا اور وہ اپنے مصلے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر حضور ﷺ چاشت کے وقت لوٹے تو وہ اپنی اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت سے میں گیا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک بیٹھی ہوئی ہے چاشت کا وقت ہو چکا ہے۔ تو ابھی تک ذکر میں مشغول ہے انہوں نے کہا ہاں! نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ تحقیق میں نے تیرے پاس سے جانے کے بعد چار کلمات تین مرتبہ پڑھے ہیں اگر ان کلمات کا وزن کیا جائے ان کلمات سے جو آج کے دن تو نے کہے ہیں۔ تو وہ غالب آجائیں گے باقی اذکار پر یعنی ان چار کلمات کا ثواب زیادہ ہوگا ان اذکار سے جو تو نے کیے ہیں۔ وہ چار کلمے یہ ہیں: میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی مخلوقات کی گنتی کے برابر اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس کی ذات کی مرضی کے موافق اور اس کے عرش کے بوجھ کے موافق اور اس کے کلموں کی مقدار کے موافق اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں جو کلمات کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد کلمات کی کتابیں اور صحیفے ہیں یا اسماء یا صفات یا اور اس کے علاوہ اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ذکر میں اعتبار کیفیت کا ہے نہ کہ کثرت کا یعنی تسبیحات وغیرہ کہ ان کا مضمون خوب ہو اور حضور دل سے پڑھے۔ اگر چہ وہ کم ہوں تسبیحات سے جو اس طرح کی ہوں یعنی جامع نہ ہوں افضل ہیں اگر چہ وہ زیادہ ہوں اور اس پر قراءت قرآن کو قیاس کر لیجئے جو تہ برونگھار اور حضور دل کے ساتھ پڑھی جائے اگر چہ وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو اور اس قراءت سے افضل ہے جو ان مذکورہ چیزوں سے خالی ہو اگر چہ وہ قراءت بہت زیادہ ہو۔

تسبیح مذکورہ سو غلاموں کے آزاد کرنے سے افضل ہے

۹/۲۱۸۰ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمِيسَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِالْفَضْلِ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۰۱۱/۱ - حدیث رقم ۶۴۰۳ و مسلم فی صحیحہ ۲۰۷۱/۴ حدیث رقم ۲۸۱ - ۲۶۹۱ (۲۶۹۱) و الترمذی فی السنن ۱۷۵۱۵ حدیث رقم ۳۵۳۵ - و احمد فی المسند ۶۰۱۴ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بادشاہت اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یہ ایک دن میں سو بار کہے گا تو اس کو دس بردوں (غلاموں) کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا اور اس کے لیے سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے سو برائیاں دور کی جاتی ہیں اور اس دن شام تک اس کے لیے شیطان سے پناہ ہوتی ہے اور کوئی شخص قیامت کے دن اس سے بہتر عمل نہیں لائے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اس سے زیادہ عمل کیا ہو۔

تشریح: حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر تسبیح مذکور شام کو پڑھے گا تو صبح تک اسی طرح پناہ میں رہے گا

احتمال یہ ہے کہ یہ راوی کا اختصار ہے یا حضور ﷺ نے ہی اسے بیان نہ کیا ہو۔ اس لیے کہ یہ ظاہر ہے واللہ اعلم اور علامہ نوویؒ نے کہا ہے یہ ثواب مذکور اس شخص کو ملے گا جو اس وظیفے کو سو بار مرتبہ پڑھے گا اور جو زیادہ پڑھے گا تو زیادہ پائے گا اور خواہ یہ وظیفہ اکٹھے پڑھے یا متفرق پڑھے یہی ثواب پائے گا لیکن افضل یہ ہے کہ اکٹھے پڑھے اور دن کے پہلے حصے میں پڑھے تاکہ تمام دن شیطان سے پناہ میں رہے۔

نری کے ساتھ تکبیر پڑھنے کا حکم

۱۰/ ۲۱۸۱ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَأَنَا خَلْفُهُ أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فِي نَفْسِي فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِنِ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۸۷/۱۱۔ حدیث رقم ۶۳۸۴۔ ومسلم فی صحیحہ ۲۰۷۶/۴ حدیث رقم ۴۴۔ ۲۷۰۴۔

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۷۲/۵ حدیث رقم ۳۵۲۸۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے۔ لوگ بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اے لوگو! اپنی جانوں پر نری کرو۔ یعنی اتنی چلا کر تکبیر نہ کہو تم بہرے یا غائب کو نہیں پکارتے۔ تحقیق تم دیکھنے والے سننے والے کو پکارتے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہے یعنی تمہارے حال پر مطلع ہے تم جہاں بھی ہو برابر ہے کہ تم پکار کر یاد کرو یا چپکے سے اور جسے تم پکارتے ہو وہ تمہاری سواری کی گردن کے زیادہ نزدیک ہے۔ ابو موسیٰؓ نے کہا میں حضور ﷺ کے پیچھے تھا یعنی اونٹ پر اور میں لاحول ولاقوۃ الا باللہ اپنے دل میں کہتا تھا پس حضور ﷺ نے فرمایا اے عبد اللہ بن قیس! جو کہ ابو موسیٰ اشعریؓ کا نام ہے کہ کیا میں تمہیں بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ضرور بتائیے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا وہ خزانہ یہ ہے: لاحول ولاقوۃ الا باللہ۔ اس کو بخاریؒ و مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں پکار کر پڑھنے سے مراد یہ ہے یعنی بلند جگہ پر چڑھتے ہوئے تکبیر پڑھنا سنت ہے پکار کر کہتے تھے یا اس سے مراد تکبیر اور اس کے مانند ہے یعنی اللہ کے ذکر کو پکار کر کرتے تھے اور حدیث کے آخر میں لاحول ولاقوۃ کو گنج اس لیے کہا کہ اس کے پڑھنے والے کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے دنیا کے خزانے کی طرح۔ دنیا کے خزانے کی اس کے آگے کوئی بھی حقیقت نہیں ہے اور مشائخ نے لکھا ہے اور کوئی ذکر عمل پر مدد کرنے والا اس سے زیادہ نہیں ہے۔

الفصل الثانی:

جنت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے

۱۱/۲۱۸۲ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ - (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۷۴/۵ حدیث رقم ۳۵۳۲۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے بہشت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ بیان کیا گیا ہے جو شخص سبحان اللہ و حمدہ کہے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جائے گا۔ کھجور کے درخت کو کثرت منفعت کے لیے اور اس کے اچھے پھل ہونے کی وجہ سے خاص کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم

۱۲/۲۱۸۳ وَعَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مُنَادٍ يَنَادِي سَبِّحُوا الْمَلِكَ الْقُدُّوسَ - (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۲۳/۵ حدیث رقم ۳۶۲۰۔

ترجمہ: حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کوئی صبح ایسی نہیں ہے کہ جب بندے صبح کریں اس میں مگر ایک فرشتہ پکارنے والا پکارتا ہے پاکی کے ساتھ اپنے پاک بادشاہ کو یاد کرو۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ پاک بادشاہ کی تسبیح بیان کرو۔ یعنی سبحان الملك القدوس کہو یا سبح قدوس رب الملائكة والروح یا معنی یہ ہے کہ اعتقاد کرو کہ وہ سب عیبوں سے پاک ہے۔

افضل الذکر کا بیان

۱۳/۲۱۸۴ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ - (الترمذی وابن ماجہ)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۳۰/۵ حدیث رقم ۳۴۴۳۔ وابن ماجہ فی السنن ۲۲۴۹۰/۲ حدیث رقم ۳۸۰۰۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمد للہ ہے۔ اس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا لا الہ الا اللہ

ہے لا الہ الا اللہ اس لیے افضل ہے کہ اس کے بغیر ایمان درست نہیں ہے اور بعض محققین نے کہا ہے کہ یہ کلمہ سب کلموں سے افضل ہے اس لیے کہ یہ باطن کو برے اوصاف سے پاک کرنے میں عجیب تاثیر رکھتا ہے جو ذکر کے باطن میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اَفْرَايْتُ مَنْ اتَّخَذَ الْهَوَا - پس جب بندہ لا الہ کہتا ہے تو معبودوں کی نفی ہو جاتی ہے اور لا الہ کہنے سے ایک معبود ثابت ہو جاتا ہے یعنی اللہ اور ظاہر زبان سے ذکر دل کی گہرائی کی طرف رجوع کرتا ہے پھر اس میں قرار پڑتا ہے اور اس کے اعضاء پر غالب آ جاتا ہے اس نے اس کی حلاوت پائی اور اس کا مزا چکھا اور الحمد للہ کو دعاس لئے کہا کہ کریم ذات کی تعریف دعاسوال کے معنی میں ہے اور افضل اس لیے کہا ہے کہ خدا کی حمد وہ منعم حقیقی ہے شکر کے معنی میں ہے اور شکر نعمت کی زیادتی کا سبب ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔

خدا کی حمد شکر کی بنیاد ہے

۱۳/۲۱۸۵ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ مَا شَكَرَ اللَّهُ عَبْدٌ لَا يَحْمَدُهُ۔

اخرجه البيهقي في شعب الايمان ۹۶/۴ الحديث رقم ۴۳۹۵۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تعریف کرنا شکر کا سر (بنیاد) ہے۔ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کا کامل شکر ادا نہیں کیا جس نے اس کی تعریف نہیں کی۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا کی تعریف کرنا شکر کی بنیاد ہے حمد فقط زبان سے ہوتی ہے اور شکر دل اور اعضاء سے ہوتا ہے۔ پس حمد ایک شکر کی شاخ ہے اور حمد کو شکر کا سر اس لیے کہا ہے کہ زبان کا فعل ہے اور زبان سے نعمت و تعریف الہی کا خوب بیان ہوتا ہے اور زبان تمام اعضاء کی نائب ہے پس گویا حمد بھی مجمل شکر ہے اور مفصل شکر کا جز اعظم ہے اس لیے فرمایا ہے کہ اس بندے نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جس نے اس کی حمد نہیں کی اور اس کلام میں اشارہ ہے اس پر کہ آدمی کو چاہیے کہ باوجود تصفیہ باطن کے ظاہر کی بھی محافظت کرے۔

اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر یہ ادا کرنے پر انعام

۱۵/۲۱۸۶ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ (رواهما البيهقي في شعب الايمان)

اخرجه البيهقي في شعب الايمان ۹۰/۴ الحديث رقم ۴۳۷۳۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو قیامت کے دن بہشت کی طرف بلایا جائے گا خوشی کے وقت اور سختی کے وقت یعنی بہر حال مولیٰ کی رضا مندی کے ساتھ۔ یہ دونوں حدیثیں بیہقی نے شعب الايمان میں نقل کی ہیں۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر یہ ادا کرنا چاہیے خوشی کے وقت بھی اور تنگی کے

وقت بھی۔ جو شخص ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے اس کو جنت کی طرف بلائے گا اور خصوصی انعام سے نوازے گا۔

لا الہ الا اللہ کی فضیلت

۱۶/۲۱۸۷ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ أَوْ أَذْعُوكَ بِهِ فَقَالَ يَا مُوسَى قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخُصِّنِي بِهِ قَالَ يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرُهَا مِنْ غَيْرِي وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعَ وَضَعْنِي فِي كِفَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ لَمَّا كُنْتُ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ (رواہ فی شرح السنۃ)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴۹۲۷۵ الحدیث رقم ۳۴۳۰۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار! مجھے ایک چیز سکھادے کہ میں تجھے اس کے ساتھ یاد کروں یا میں تجھ سے اس کے ساتھ دُعا کروں پس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے موسیٰ! لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار! یہ تو تیرے سارے بندے یعنی موحدین کہتے ہیں میں ایسی چیز چاہتا ہوں کہ تو مجھے اس کے ساتھ خاص کرے (یعنی ذکر اور دُعا میرے لیے خاص فرما اور اس میں میرے ساتھ شریک نہ ہو) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ! اگر ساتوں آسمان اور ان کے آباد کئے والے۔ میرے علاوہ اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کا ثواب ایک پلڑے میں رکھا جائے البتہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا ان چیزوں کے پلڑے سے جھک جائے گا۔ شرح السنہ میں بغویؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر و دعا ایسی طلب کی تھی کہ اس کی وجہ سے اوروں پر فائق ہوں۔ لہذا جواب کے ساتھ سوال کی مطابقت کیا ہوئی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے سوال کچھ اور تھا اور جواب کچھ اور دیا گیا۔ جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ایک محال چیز طلب کی ہے اس واسطے کہ کوئی ذکر و دعا اس سے افضل نہیں ہے۔ وہ تو سب بہت پڑھتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقاضائے بشریت کے ذکر و دعا کو خاص طور پر طلب کیا کہ آدمی اس وقت تک خوش نہیں ہوتا جب تک اس کے لیے کوئی چیز خاص نہ کی جائے اور وہ چیز دوسرے کے پاس نہ ہو۔ مثلاً اگر اس کے پاس ایسا جوہر ہو جو دوسرے کے پاس نہ ہو تو بہت خوش ہوتا ہے اور اسی طرح علوم نادرہ دُعاؤں اور ہنر کا حال ہے کہ ان میں سے آدمی کے پاس ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ چیز دوسرے کے پاس نہیں ہوتی تو وہ نہایت خوش ہوتا ہے باوجودیکہ اللہ کی عادت عام رحمت کی وجہ سے اس پر جاری ہے کہ عزیز تر چیزیں یعنی پسندیدہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں جیسے زندگی اور نمک اور پانی کہ یہ چیزیں کیسی عزیز ہیں۔ بخلاف موتی اور یاقوت اور زعفران وغیرہ کہ یہ ان کے برابر عزیز نہیں ہیں اور یہ چیزیں بہت زیادہ کم ہیں اور مصحف شریف سب کتابوں سے افضل ہے اور بکثرت پایا جاتا ہے اور علم کیمیا وغیرہ کی اس کے آگے کیا حقیقت ہے۔ وہ کم پایا جاتا ہے اور جاہل اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں کہ قرآن وحدیث کے علم سے ایسے خوش نہیں ہوتے اور کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کہ وہ سب کلمات سے اشرف ہیں اور سب عبادتوں سے نفیس تر ہیں اور سب ذکر و

میں سے افضل ہیں اور سب حسنات میں سے کامل تر ہیں حالانکہ وجود میں اکثر ہیں اور حصول میں آسان تر ہیں اور عوام نے ان کو ترک کر دیا ہے اور وہ اسمائے غریبہ اور دُعائے عجیبہ میں مواظبت کرتے ہیں کہ اکثر اس میں ایسی ہیں جن کی کتاب و سنت میں کچھ اصل ہی نہیں ہے سب مثالوں کے بیان سے حاصل یہ ہے کہ اکثر چیزیں حقیقت میں خوب ہیں۔ لیکن کثیر ہونے کی وجہ سے لوگ ان کی قدر نہیں جانتے اور بعض چیزیں اس درجے کی عزیز نہیں ہیں اور لوگ ان کو قلت کی وجہ سے عزیز رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ سوال الہام کیا۔ تاکہ وہ پوچھیں اور اللہ تعالیٰ جواب دے اور اس کی بزرگی ہر عام و خاص پر ظاہر ہو اور اس کا ہر وقت اور مقام میں ورد کریں۔

مذکورہ تسبیحات کی فضیلت

۱۷/۲۱۸۸ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ صَدَّقَهُ رَبُّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ يَقُولُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِي الْحَمْدُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمَهُ النَّارُ - (رواه الترمذی وابن ماجہ)

احرحہ الترمذی فی السنن ۱۵۶/۵ حدیث رقم ۳۴۹۰۔ وابن ماجہ ۱۲۴۶/۲ حدیث رقم ۳۷۹۴۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے دونوں نے کہا کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ بہت بڑا ہے اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے اور ان اقوال کو قبول کرتا ہے اور اس کے موافق کہنے کے فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں بہت بڑا ہوں اور جس وقت بندہ کہتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر تنہا اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی معبود نہیں ہے مگر میں میرے ہی لیے بادشاہت ہے اور میرے ہی لیے تعریف ہے اور جب بندہ کہتا ہے کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعالیٰ اور گناہ سے باز رہنا اور طاعت پر قوت پانا مگر اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر میں اور گناہ سے بچنا اور میری طاعت پر قوت کا پانا میری مدد کے بغیر نہیں ہے اور حضور ﷺ فرماتے تھے کہ جس شخص نے ان کلمات کو سوائے مذکورہ جوابوں کے اپنی بیماری میں کہا پھر وہ مر گیا تو اس کو آگ نہیں جلائے گی۔ اس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں تسبیحات مذکورہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس شخص نے ان تسبیحات کو یعنی کلمات کو اپنی بیماری میں پڑھا اور پھر وہ مر گیا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی یعنی وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ و مامون رہے گا۔

تسبیحات گو گھلیوں پر شمار کرنا حدیث سے ثابت ہے

۱۸/۲۱۸۹ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَىٰ أَوْ حَصَىٰ تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ
أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ
عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلُ
ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ۔

(رواہ الترمذی و ابو داؤد و قال الترمذی هذا حدیث غریب)

خرجه ابو داؤد فی السنن ۸۰۱۲ حدیث رقم ۱۵۰۰۔ و الترمذی فی السنن ۲۲۲/۵ تحت رقم ۳۶۳۹۔

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک عورت کے پاس داخل ہوئے اور اس کے آگے بھجور کی گھلیاں تھیں یا کنکریاں تھیں ان کے ساتھ تسبیح پڑھتی (کنتی) تھیں۔ پس حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نہ بتاؤں وہ تسبیح جو تجھ پر بہت زیادہ آسان ہو اس سے اور اس سے بہتر ہو وہ تسبیح یہ ہے کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کی کنتی کی بقدر جو کہ اللہ نے آسمان میں پیدا کی اور پاک ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کی کنتی کے موافق جو زمین میں پیدا کی اور پاک ہے اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کنتی کے موافق جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے درمیان پیدا کی ہے اور پاک ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کی کنتی کے موافق کہ وہ اس چیز کو پیدا کرنے والا ہے یعنی اس کے بعد۔ ازل سے ابد تک اور اس سے مراد ہمیشگی ہے اور اللہ اکبر اس کی مانند ہے اور الحمد للہ بھی اس کی طرح ہے اور لا الہ الا اللہ بھی اس کی طرح ہے اور لا حول و لا قوۃ الا باللہ بھی اس کی طرح ہے۔ اس کو امام ترمذی اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ تسبیحات گو گھلیوں پر شمار کرنا جائز ہے۔ حدیث پاک میں جو عورت کے بارے میں آیا ہے وہ عورت حضور ﷺ کی بیویوں میں سے تھیں جو یہ تسبیح تھیں یا اور کوئی اور کنکریاں یہ راوی کو شک ہے کہ گھلیاں تھیں یا کنکریاں اور اس طرح کی تسبیح جو اب متعارف ہے حضور ﷺ کے زمانہ شریف میں نہ تھی۔ بعض گھلیوں یا سنگریزوں پر پڑھتے تھے اور بعض ڈوروں میں گز ہیں دیئے جاتے تھے لیکن یہ حدیث اصل صحیح ہے اس تسبیح کے جائز ہونے کے لیے بھی اس لیے کہ حضور ﷺ نے اس کو جائز رکھا ہے لہذا یہ تسبیح اسکے حکم میں ہے کیونکہ پروئے ہوئے اور بغیر پروئے دانوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور اعتماد نہ کیا جائے اس کے قول پر جس نے اس کو بدعت کہا ہے اور مشائخ نے کہا ہے یہ شیطان کے لیے کوڑا ہے۔

اور منقول ہے کہ کسی نے جنید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ان کی آخری حالت میں تسبیح دیکھی پس ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے ہم کیونکر اس کو چھوڑیں اور اللہ اکبر اسی کی طرح ہے یعنی اللہ اکبر کہا۔ اللہ اکبر عدد ما خلق فی السماء اور احتمال ہے کہ لفظ مثل ذلك کا کہا ہو۔ بجائے عدد ما خلق فی السماء اور اسی طرح اس کے مابعد کے جملوں میں دونوں احتمال ہیں۔

متفرق تسبیحات کے فضائل

۱۹/۲۱۹۰ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَجْدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةً بِالْعَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعِشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَاجَّةٍ وَمَنْ حَمِدَ اللَّهَ مِائَةً بِالْعَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعِشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ هَلَّلَ اللَّهَ مِائَةً بِالْعَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعِشِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ مِائَةً بِالْعَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعِشِيِّ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَ أَحَدٌ بِكُفْرٍ مِمَّا أَتَى بِهِ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ۔ (رواه الترمذی وقال هذا حديث حسن غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۷۶/۵ حدیث رقم ۳۵۳۸۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص دن کے اوّل میں اور دن کے آخر میں سو بار سبحان اللہ کہے تو وہ اس شخص کی مانند ہوتا ہے کہ اس نے لوگوں کو اللہ کے راستے میں سو گھوڑوں پر سوار کیا اور جس نے لا الہ الا اللہ دن کے شروع میں سو بار اور دن کے آخر میں سو بار پڑھا کوئی شخص قیامت کے دن اس شخص سے زیادہ ثواب نہیں لے کر آئے گا مگر وہ شخص جو اس طرح کہے یعنی وہ کہنے والا اس کے برابر ہوگا یا اس سے زیادہ پڑھے گا۔ یعنی وہ اس سے افضل ہوگا۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سو بار سبحان اللہ کہنے سے سوچ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ذکر سہل اللہ تعالیٰ کی حضوری کے ساتھ عبادات شاقہ سے افضل ہے کہ جو غفلت کے ساتھ ہیں اور بعضوں نے کہا ہے کہ مضاعف تسبیح کا ثواب اصل ثواب حج کے برابر ہوتا ہے اور خدا کی راہ میں دے یعنی جہاد کے لیے دے یا حدیث دے اور اس میں ذکر کی رغبت دلائی ہے تاکہ دنیا کی طرف توجہ نہ کرے اور حضوری کے ساتھ اپنی ہمت کو جمع کرے۔ اس لیے کہ تمام عبادات بدنہ اور مالیہ کا مقصود اور مرکب بدنی اور مالی صرف اللہ کا ذکر ہے اور کچھ نہیں ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مطلوب وسیلے سے اولیٰ ہوتا ہے اور سوغلام آزاد کیے اس میں محتاج ذکر کرنے والوں کے لیے تسلی ہے کہ وہ مالی عبادتوں سے عاجز ہیں کہ جو صرف غنی ادا کرتے ہیں۔

اور اولاد اسماعیل سے مراد عرب ہیں اس لیے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے افضل ہیں۔

اور ظاہر اُحدیث کے آخر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اکبر تمام تسبیحات سے افضل ہے جو اوپر مذکور ہوئی ہیں اور بہت سی صحیح احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان سب میں سے افضل لا الہ الا اللہ ہے پھر الحمد للہ اور پھر اللہ اکبر اور سبحان اللہ پس اس میں تاویل یہ کی جائے گی۔ کہ اس دن کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور الحمد للہ پڑھنے والے کے مثل زیادہ ثواب نہیں لائے گا۔

تسبیح و تحمید و تہلیل کی فضیلت

۲۰/۲۱۹۱ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلُؤُهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللَّهِ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ۔

(رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب ولیس اسنادہ بالقوی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۹۷/۵ حدیث رقم ۳۵۸۴۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہنا اعمال کے آدھے ترازو کو بھردیتا ہے۔ یعنی ایک پلڑا ہے جو مقرر ہے نیکیوں کو تولنے کے لیے اس کو بھر دیگا اور الحمد للہ کہنا ساری ترازو کو بھردیتا ہے اور لا الہ الا اللہ نہیں ہے اس کے واسطے پردہ اللہ کے علاوہ یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف پہنچتا ہے۔ امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد قوی نہیں ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں تسبیح و تحمید و تہلیل کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ صرف الحمد للہ کا ثواب ساری ترازو کو بھر دیتا ہے اور سبحان اللہ سے افضل ہے یا یہ مراد ہے کہ الحمد للہ سبحان اللہ کے برابر ہے کہ وہ آدھی ترازو کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ کا ثواب آدھی ترازو کو بھر دیتا ہے اور الحمد للہ کا ثواب آدھی ترازو کو بھر دیتا ہے۔ دونوں مل کر ساری ترازو کو بھر دیتے ہیں اور حدیث کے آخر کے معنی یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ بہت جلد اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے اور اس کا بڑھنے والا بہت زیادہ ثواب حاصل کر لیتا ہے اور اس حدیث میں ظاہر الدلائل موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اور الحمد للہ سے افضل ہے۔

خلوص سے لا الہ الا اللہ پڑھنا آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے

۲۱/۲۱۹۲ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا قَطُّ إِلَّا فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكِبَائِرَ۔

(رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۳۳/۵ حدیث رقم ۳۶۶۰۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ عرش تک جا پہنچتا ہے یعنی جلدی قبول ہو تا ہے جب تک وہ کبیرہ گناہ سے بچتا ہے امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیتا ہے لیکن جلدی قبول ہونے کے لیے کبیرہ گناہوں سے بچنا شرط ہے یعنی جلدی قبول جب ہی ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچے اور اصل ثواب بہر حال ملتا ہے۔

جنت کے درختوں کی کیفیت

۲۲/۲۱۹۳ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرَى بِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اقْرَأْ أَمَّا مَنِي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيَعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔

(رواہ الترمذی وقال هذا حديث حسن غریب اسناداً)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۸۱/۲ حدیث رقم ۱۵۰۱۰۔ والترمذی فی السنن ۲۳۰/۵ حدیث رقم ۳۶۵۳۔ واحمد فی المسند ۳۷۱/۶۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات میں ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملا وہ بیت المعمور سے تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد ﷺ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور ان کو خبر دینا تحقیق جنت کی مٹی پاکیزہ ہے یعنی مشک و عفران ہے۔ پانی اس کا شیریں ہے اور وہ میدان ہے یعنی بالکل ہموار درختوں سے خالی ہے اور تحقیق اس کے درخت سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور یہ حدیث حسن غریب ہے ازراہ اسناد کے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں جنت کی زمین اور درختوں کا ذکر ہے اور دوسرا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام نے نبی کریم ﷺ کی امت کو سلام بھیجا ہے لہذا جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سلام کو پڑھے یا سنے تو اسے چاہیے کہ جواب میں یوں کہے: وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اس کے درخت سبحان اللہ ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی امت کو ان کلمات کے پڑھنے سے آگاہ کرو۔ آدمی جنت میں داخل ہوتا ہے اور جنت میں بہت سے درخت لگائے جاتے ہیں یعنی ہر کلمے کے پڑھنے سے ایک درخت لگتا ہے پس جتنے زیادہ کلمات پڑھے گا اتنے ہی زیادہ درخت لگائے جائیں گے۔

۲۳/۲۱۹۳ وَعَنْ يَسِيرَةَ كَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئَلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسِينَ الرَّحْمَةَ۔

(رواہ الترمذی و ابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۸۱/۲ حدیث رقم ۱۵۰۱۰۔ والترمذی فی السنن ۲۳۰/۵ حدیث رقم ۳۶۵۳۔ واحمد فی المسند ۳۷۱/۶۔

ترجمہ: حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے اور وہ ہجرت کرنے والیوں میں سے تھیں۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور سبحان القدوس یا سبحو رب الملائکۃ والروح کو لازم کرو اور اپنی انگلیوں کے ساتھ تسبیحات کو شمار کرو۔ اس لیے کہ وہ پوچھی جائیں گی ان کو بلوایا جائے گا اور تم غافل نہ ہونا یعنی ذکر نہ چھوڑنا پس رحمت سے بھلائی جاوے گی۔ یعنی اگر ذکر چھوڑو گی تو اس کے ثواب سے محروم رہو گی۔ اس کو امام ترمذی اور ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں لفظ پوچھی جائیں گی جو آیا ہے یعنی قیامت کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے کیا کہا تھا اور اللہ تعالیٰ ان میں گویائی پیدا کر دیا اور پھر وہ اپنے اصحاب کے اعمال پر گواہی دیں گے اور ایسا ہی حال دوسرے اعضا کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ اور اس میں اس چیز پر رغبت دلائی ہے کہ اعضاء کو اس چیز میں استعمال کرے کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور گناہوں سے بچائے اس سے معلوم ہوا ہے کہ انگلیوں پر اذکار کا پڑھنا افضل ہے۔ اگرچہ تسبیح پر پڑھنا جائز ہے۔

الفصل الثالث:

آپ ﷺ کا مذکورہ دُعا کے پڑھنے کی تلقین کرنا

۲۳/۲۱۹۵ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ جَاءَ أَغْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِّمْنِي كَلَامًا أَقُولُهُ قَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَبِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ قَالَ فَهَلْ لَكَ لِرَبِّي فَمَالِي فَقَالَ قُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي شَكَ الرَّائِي فِي عَافِيِي - (رواه مسلم)

آخر جہ مسلم فی صحیحہ ۲۰۷۲/۴ حدیث رقم (۲۶۹۶-۲۳)۔

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اس نے کہا مجھے ایک ذکر سکھلاؤ میں اس کو پڑھتا رہوں یعنی اس کا ورد کروں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے واسطے بہت زیادہ تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور جہانوں کو پالنے والا ہے اور گناہوں سے کوئی روک نہیں سکتا اور عبادت پر طاقت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ جو غالب حکمت والا ہے۔ اس نے کہا یہ الفاظ تو میرے رب کے ذکر کے واسطے ہیں۔ پس میرے لیے کیا ہے کہ میں اپنے لئے اس کے ساتھ دعا کروں۔ پس فرمایا کہ ہوائے الہی! بخش مجھ کو اور رحم کر مجھ پر اور توفیق دے مجھے حرکات و سکنات کی طاعت میں اور مجھ کو بہتر احوال کی ہدایت دے اور مجھے حلال مال سے روزی دے اور مجھے عافیت سے رکھ۔ راوی نے عافیتی کے لفظ میں شک کیا ہے کہ یہ لفظ ہے یا نہیں ہے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں: الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ہے الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کا لفظ آیا ہے۔ یہ بزرگی کی روایت ہے اور مشہور بھی الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ہی ہے۔ اگرچہ وارد نہیں ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ ہے۔

تسبیحات گناہوں کو جھاڑ دیتی ہیں

۲۵/۲۱۹۶ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى شَجَرَةٍ يَابِسَةِ الْوَرْقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَازَرَتِ الْوَرْقُ فَقَالَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَسْقِطُ ذُنُوبَ

الْعَبْدُ كَمَا يَسَاقُطُ وَرَقِيْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ۔ (رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۰۳/۵ حدیث رقم ۳۵۹۹۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک خشک بتوں والے درخت کے پاس سے گزرے۔ پھر اپنی لاشی سے ٹہنیوں کو مارا۔ پتے جھڑے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: الْحَمْدُ لِلّٰہِ اور سُبْحَانَ اللّٰہِ اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰہُ اور اللّٰہُ اکْبَرُ کہنا۔ بندوں کے گناہوں کو جھاڑتا ہے جیسے کہ اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے گناہوں کے جھڑنے کو خشک درختوں کے پتوں کے جھڑنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں اسی طرح مذکورہ تسبیحات کے پڑھنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔

لاحول ولا قوۃ کی برکت سے ستر قسم کی تکلیفیں اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے

۲۶/۲۱۹۷۔ وَعَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوا مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ مَكْحُولٌ فَمَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مُنْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَهِ كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الضَّرِّ أَذْنَاهَا الْفَقْرُ۔

(رواہ الترمذی وقال هذا حدیث لیس اسنادہ بم متصل ومکحول لم یسمع عن ابی ہریرۃ)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۳۸/۵ ۳۶۷۱۔ واحمد فی المسند ۳۳۳/۴۔

ترجمہ: مکحول رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے فرمایا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مُنْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَهِ كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الضَّرِّ أَذْنَاهَا الْفَقْرُ۔ کہ جو شخص کہے کہ دفع ضرر کے واسطے کوئی حیلہ نہیں ہے اور نفع کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر محافظت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ اور اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں ہے۔ مگر اس کی طرف رجوع کرنے میں اس کی رضا اور اس کی رحمت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس سے ضرر کی ستر قسمیں دور کر دیتا ہے کہ ادنیٰ ان کی محتاجی ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے اس لیے کہ مکحول نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت کا ذخیرہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا اس سے اُس دن نفع اٹھائے گا کہ جس میں مال اور اولاد نفع نہ دے گا اور فقر سے مراد دل کی محتاجی ہے جو کہ حدیث میں آئی ہے: كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا۔ پس اس کے پڑھنے سے دل کی محتاجی دور ہوتی ہے اس لیے کہ جب اس کے پڑھنے والے اس کے معنی کا تصور کریں تو ان کے دل میں یقین ہوتا ہے ہر امر اللہ کی طرف سے ہے اور نفع اور ضرر اور دینا اور نہ دینا اسی کے ہاتھ ہے پس وہ بلا پر صبر کرتا ہے اور نعمتوں پر شکر کرتا ہے اور اپنا امر اللہ تعالیٰ پر سونپتا ہے اور اس کی قضاء و قدر پر راضی ہوتا ہے۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ شیخ امام قطب ابوالحسن شاذلی نے کہا میں

نے اپنی سیاحت میں ایک شخص کے ساتھ صحبت رکھی پس اس نے مجھے وصیت کی کہ اقوال میں سے کوئی چیز نیک اعمال پر لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کے برابر ممد و معاون نہیں ہے اور کوئی چیز افعال میں سے اللہ کی طرف جھکنے اور اس کے فضل کے چنگل کو مارنے سے زیادہ ممد و معاون نہیں ومن يعتصم باللّٰه فقد هدى الى صراط مستقیم۔ اس کی سند متصل نہیں ہے۔ اگرچہ یہ حدیث منقطع ہے لیکن اس حدیث کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ والی حدیث تقویت دیتی ہے کہ مرفوع ہے: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ اس کو صحاح ستہ والوں نے روایت کیا ہے اور نہائی اور بزار نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی ہے۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا مَنجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ كُنْزٌ مِنَ الْجَنَّةِ۔

بہترین کلمہ جو عرش کے نیچے سے اُترتا ہے

۲۷/۲۱۹۸ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ دَوَاءٌ مِنْ تَسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دَاءً أَيْسَرُهَا اللَّهُمَّ۔

اخرجه ابن ابی الدنيا ذكره في كنز العمال ۴۵۴/۱ الحديث رقم ۱۹۵۶۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ننانوے بیماریوں کی دوا ہے جن میں سب سے ادنیٰ بیماری ہماری غم ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تابعدار ہو چکا ہے اور بہت زیادہ فرمانبردار بن چکا ہے۔

بہترین کلمہ جو عرش کے نیچے سے اُترتا ہے

۲۸/۲۱۹۹ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ۔

(رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ)

اخرجه الحاكم في المستدرک۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایک کلمہ نہ بتاؤں۔ کہ وہ عرش کے نیچے سے اُترتا ہے بہشت کے خزانے سے۔ وہ کلمہ یہ ہے: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرا تابعدار ہوا اور بہت فرمانبردار ہوا۔ یہ دونوں حدیثیں بیہقی نے دعوات کبیر میں نقل کی ہیں۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تابعدار ہو چکا ہے اور بہت زیادہ فرمانبردار بن چکا ہے۔

خُلُوصِ دِل کے ساتھ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ پڑھنے والے کو فرمانبردار کا

خطاب ملتا ہے

۲۹/۲۲۰۰ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّہُ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ هِيَ صَلَوةُ الْخَلَائِقِ وَالْبَحْمَدُ لِلّٰهِ كَلِمَاتُ الشُّكْرِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ تَمَلَّا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى أَسْلَمَ وَاسْتَسْلَمَ - (رواہ رزین)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۰۱/۱۱ - حدیث رقم ۶۳۰۷ - وابن ماجہ فی السنن ۱۲۵۴/۲ حدیث رقم ۳۸۱۶ - واحد فی المسند ۳۴۱/۲

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سبحان اللہ مخلوقات کی عبادت ہے اور الحمد للہ شکر کا کلمہ ہے اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اخلاص کا یعنی توحید کا کلمہ ہے یعنی اپنے پڑھنے والے کے لئے آگ سے خلاصی کا سبب ہے اور اللہ اکبر کا ثواب آسمان وزمین کے درمیان کو بھردیتا ہے اور جب بندہ حضور قلب کے ساتھ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرمانبردار ہوا اور بہت فرمانبردار ہوا۔ اس کو رزینؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ سبحان اللہ مخلوقات کی عبادت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: **وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبَحُ بِحَمْدِهِ**۔

اس حدیث مبارکہ کے ترجمہ و تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات میں سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے اس وجہ سے سبحان اللہ کو مخلوقات کی عبادت کہا گیا ہے۔

بَابُ الْإِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ

استغفار و توبہ کا بیان

استغفار کے معنی طلب مغفرت کے ہیں اور کبھی لفظ استغفار توبہ کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اور کبھی متضمن نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے علیحدہ طور پر لفظ توبہ لائے ہیں یا استغفار زبان سے ہوتا ہے اور توبہ دل سے اور پھر توبہ و استغفار معصیت سے توبہ کی طرف یا غفلت سے ذکر کی طرف اور رعیت سے حضور کی طرف لوٹ جانے کو کہتے ہیں اور یہ شریعت کے مقاصد میں ایک اہم مقصد ہے اور سالک آخرت کے مقامات میں سے پہلا مقام ہے اور اللہ کی بندے کیلئے مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک دنیا میں بندے کے گناہ کو اس طرح چھپا دے کہ کسی کو اس پر اطلاع نہ ہونے پائے اور آخرت میں اس گناہ پر سزا نہ دے۔ امام طہیؒ فرماتے ہیں کہ توبہ ابتدا میں گناہ کو اس کی قباحت کی وجہ سے ترک کر دینے اور جو کچھ اس سے صادر ہوا ہے اس پر شرمندہ ہو جانے اور ترک معاوۃ پر پختہ ارادہ کرنے اور ممکن حد تک تدارک کرنے کا نام ہے۔ لہذا موقوفہ اعمال کا اعادہ کی صورت میں تدارک

کرے یہ امام راغب کا کلام ہے۔

علامہ نوویؒ کچھ زیادتی کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ اگر گناہ بنی آدم کے متعلق ہے تو اس کیلئے یہ بھی شرط ہے کہ دبایا ہوا حق صاحب حق کی طرف رد کرے یا اس سے براءۃ حاصل کرے اور علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں۔ پھر اگر اس پر کوئی حق ہو جیسے قتل نماز تو وہ اس وقت کو محل یا فرض کفایہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے تسامح سے کام نہ لے۔ اس لئے کہ فسق سے نکلنا اس قضاء نماز کی توبہ سے نکلنے پر موقوف ہے تو وہ آدمی مثلاً جب تک نفل پڑھتا رہے گا تو وہ اسی فسق میں باقی رہے گا۔ باوجودیکہ اس کو اس سے پر نکلنے پر قدرت ہے اور قضا نماز کے باوجود نفل میں باقی رہنا فسق ہے جیسا کہ یہ بات واضح ہے۔

الفصل الاول:

آپ ﷺ کے استغفار کا ذکر

۱/۲۲۰۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا سَتْفِيرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۰۱/۱۱ - حدیث رقم ۶۳۰۷ - وابن ماجہ فی السنن ۱۲۵۴/۲ حدیث رقم ۳۸۱۶ - واحمد فی المسند ۳۴۱/۲

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے۔ کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں ستر بار سے زیادہ توبہ واستغفار کرتا ہوں۔ اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں آپ ﷺ کے استغفار کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ آپ ﷺ ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار فرمایا کرتے تھے حضور ﷺ گناہ کی وجہ سے استغفار نہ کرتے تھے اس لیے کہ حضور ﷺ معصوم تھے بلکہ اس لیے تھا کہ حضور ﷺ اپنے اعتقاد میں جانتے تھے کہ مجھ سے بندگی میں قصور ہوا ہے جو بندگی اللہ والجلال والا کرام کے لائق تھی اس درجے کی بندگی مجھ سے نہ ہو سکی اور مقصود و منظور امت کو توبہ واستغفار پر رغبت دلانا تھی کہ حضور ﷺ باوجودیکہ معصوم اور خیر المخلوقات تھے جب انہوں نے توبہ واستغفار ہر دن ستر مرتبہ سے زیادہ کی تو گنہگاروں کو بطریق اولیٰ اس کی کثرت کرنی چاہیے حضرت علیؓ نے فرمایا کہ زمین میں دو چیزیں خدا کے عذاب سے امان تھیں۔ پس ایک تو اٹھ گئی اور دوسری موجود ہے پس اس کے ساتھ جنگ مارو۔ وہ امان جو اٹھ گئی ہے وہ رسول خدا ﷺ تھے اور باقی رہنے والی استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

آپ ﷺ کا استغفار کے بارے میں معمول

۲/۲۲۰۲ وَعَنِ الْأَعْرَبِيِّ الْمَزْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيَغَانُ عَلَى قَلْبِي وَلَئِنْ لَأَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۰۷۵/۴ حدیث رقم ۴۱ - ۲۷۰۲ - واحمد فی المسند ۴۱۱/۵

ترجمہ: ”اغرمزنی“ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تحقیق شان یہ ہے۔ البتہ میرے دل پر پردہ کیا جاتا ہے اور البتہ میں دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ پسند کرتے تھے کہ میرا دل ہر وقت اللہ کے حضور حاضر رہے اور غافل نہ رہے۔ کھانے اور بیویوں کے ساتھ اختلاط میں مشغول ہونا مباح ہے اس وجہ سے خدا تعالیٰ کی طرف سے غفلت ہوتی بھی تھی تو اس کو گناہ سمجھ کر استغفار کرتے تھے اور علماء نے اس کے اور بھی معنی لکھے ہیں طوالت کے خوف کی وجہ سے ذکر نہیں کیے اور مختار وہی ہے کہ کچھ اچھے لوگوں نے لکھا ہے مختار یہ ہے کہ یہ حدیث تشابہات سے ہے اس کا علم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ہے لہذا اس پر ایمان لے آئے اور اس کے معنی سمجھنے کے درپے نہ ہو جائے۔

توبہ کرنے کی ترغیب

۳/۲۲۰۳ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوُبُّوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ. (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۰۷۵/۴ حدیث رقم ۴۲-۲۷۰۲۔

ترجمہ: ”اغرمزنی“ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے لوگو! اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ پس میں دن میں اس سے سو بار توبہ کرتا ہوں یعنی تمہیں بطریق اولیٰ چاہیے کہ تم اس سے توبہ کرو۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ دن میں سو مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ اے لوگو تم بھی توبہ کرو اور نبی کریم ﷺ تو معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود بھی توبہ کرتے تھے اور لوگوں کو توبہ بدرجہ اولیٰ توبہ کرنی چاہیے اور ایک ساعت میں ہزار بار توبہ مانگی چاہیے۔

حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کا اظہار فرمایا ہے

۳/۲۲۰۴ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَوِي عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالِمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَقْطَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ

الْمَغْشُطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبُحْرَ يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصَيْهَا عَلَيْكُمْ ثُمَّ أَوْفَيْكُمْ بِهَا لَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ۔

اخرجه مسلم فی صحيحه ۱۹۹۴/۴ حديث رقم (۲۵۷۷-۵۵)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ان حدیثوں کے بارے میں جو آپ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے تھے یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے! تحقیق میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے یعنی ظلم سے پاک ہوں پس وہ میرے حق میں ایسا ہے جیسا کہ لوگوں کے حق میں حرام اور میں نے اس کو تمہارے درمیان حرام کیا ہے پس آپس میں اے میرے بندو! ظلم نہ کرو۔ تم سب گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دوں پس تم مجھ سے ہدایت مانگو اے میرے بندو! میں تم کو ہدایت دوں گا۔ تم سب بھوکے ہو یعنی کھانے کے محتاج ہو مگر جس کو میں کھلاؤں یعنی اس پر رزق فراخ کروں اور اس کو بے پردا کروں۔ پس مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب ننگے ہو۔ یعنی محتاج ہو ستر عورت اور لباس کے بارے میں میں نے تم کو پہننے کو دیا پس مجھ سے لباس مانگو میں تم کو لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو۔ تم اکثر اوقات اور دن میں خطا کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشا ہوں۔ اے میرے بندو۔ تحقیق تم ہر گز مجھے ضرر نہیں پہنچا سکو گے اور میرے نفع کو ہر گز نہیں پہنچ سکو گے تاکہ تم مجھ کو گناہ کرنے میں نفع پہنچا سکو۔ اللہ کے بارگاہِ صمدیت میں کوئی نقصان نہیں اور نہ ہی کچھ فائدہ ہے بلکہ نقصان و فائدہ تمہارے لیے ہے۔ چنانچہ تفصیل سے فرمایا ہے کہ اے بندو! تحقیق اگر آنے والے تمہارے اور پچھلے تمہارے تمہارے آدمی اور تمہارے جن سب مل کر ایک پرہیزگار آدمی کے دل کی مانند ہو جائیں تو سب مل کر میری مملکت کو کچھ زیادہ نہیں کر سکو گے۔ یعنی اگر تم سارے مل کر نہایت پرہیزگار بن جاؤ۔ جیسے حضور ﷺ پرہیزگاری میں سب سے آگے ہیں تو میری مملکت میں کچھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور پچھلے آدمی اور جن سب جمع ہو کر ایک بدترین آدمی کی طرح ہو جائیں یعنی شیطان کی طرح ہو جائیں۔ تو میری بادشاہت میں کچھ کمی نہیں کر سکو گے۔ پس اے میرے بندو! تمہارے اگلے پچھلے تمہارے آدمی اور تمہارے جن ایک مقام پر کھڑے ہو کر دعا مانگیں۔ پس ہر آدمی کو اس کے مانگنے کے موافق دوں گا یعنی ایک ہی وقت میں اور ایک ہی مکان میں میرے نزدیک دنیا میں ایک سوئی کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی یعنی جب سوئی کو دور یا بے شور میں ڈالا جائے تو پانی میں کمی نہیں آئے گی۔ اے میرے بندو! علاوہ اس کے نہیں ہے کہ تمہارے اعمال یاد رکھتا ہوں اور تم پر لکھتا ہوں۔ پھر تم کو پورا بدلہ دوں گا۔ پس جو شخص نیکی پائے گا یعنی نیکی کی توفیق پائے گا۔ تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے حاصل کرتا ہے اور اس کو چاہیے کہ عمل خیر کرے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور جو بھلائی کے علاوہ کوئی چیز پائے یعنی برائی۔ پس اس میں اپنے نفس کو ملامت کرے یعنی اس لیے کہ وہ اس کے نفس کی طرف سے صادر ہوئی۔

تشریح: اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعنی تم سب گمراہ ہو۔ یعنی ہر کمال اور سعادت دینیہ اور دنیویہ سے جس کو میں ہدایت دوں مراد یہ ہے اگر لوگوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا جائے اس حالت میں کہ ان کی طبیعت میں گمراہ ہونا ہے تو وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں لیکن میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت کرتا ہوں اور یہی معنی ہے نبی کریم ﷺ کے قول: کان اللہ خلق الخلق فی ظلمة ثم رش علیہم من نورہ اور یہ اس حدیث کے منافی نہیں ہے: کل مولود یولد علی الفطرة۔

اس لیے کہ فطرت سے مراد توحید ہے اور ضلالت سے مراد نہ جاننا ہے ایمان کے احکام کو تفصیل کے ساتھ اور حدود اسلام کو تفصیل کے ساتھ اور توبہ و استغفار کے ساتھ میں سب گناہوں کو بخش دیتا ہوں یا مراد یہ ہے کہ سوائے شرک کے بخش دیتا ہوں۔ اگر میں چاہتا ہوں۔

اور حدیث پاک میں مگر گھٹاتی ہے سوئی۔ علامہ طیبیؒ نے کہا سوئی کا گھٹانا عقل کے نزدیک محسوس اور قابل اعتماد نہیں ہے بلکہ وہ کالعدم ہے اس لیے اس کے ساتھ مشابہت دی ہے ورنہ اللہ کے خزانے میں کمی کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا اور ابن مالک کا کہنا ہے کہ یہ قبیلہ بالفرض والتقدیر کے ہے یعنی اگر فرض کریں اللہ کے خزانے میں کمی تو اس قدر ہو سکتی۔

صدقِ نیت سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمالیتا ہے

۵/۲۲۰۵ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ نِسْعَةَ وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَاتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ أَلَمْ تَتُوبْ قَالَ لَا فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّكَ قَرِيبٌ كَذًا وَكَذًا فَادْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقْرُبِي وَإِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعِدِي فَقَالَ فَبَسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِيرٍ فَغَفَرَ لَهُ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۱۲/۶ حدیث رقم ۳۴۷۰۔ وخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۱۱۸/۴ حدیث رقم (۴۶-۲۷۶۶) حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اس نے ننانوے (۹۹) آدمی قتل کیے۔ پھر وہ لوگوں سے اپنی توبہ کے قبول ہونے کے بارے میں پوچھتا تھا۔ وہ ایک عابد زاہد کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ میرے لیے کیا ہے؟ یعنی کیا حکم ہے اس قتل کے متعلق یا ایسا کام کرنے والے کے متعلق یعنی میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو اس شخص نے اس عابد زاہد کو بھی مار ڈالا اور پوچھنا شروع کیا۔ پس ایک شخص نے اس کو کہا کہ فلاں بستی میں جا۔ یعنی اس بستی کا نام لیا اور اس کا وصف بیان کیا۔ کہ وہ بہت اچھی بستی ہے اور اس میں ایک عالم رہتا ہے پس وہ تجھے تیری توبہ کے قبول ہونے کا فتویٰ دے گا۔ جب وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا اور جب آدمی راہ کے قریب پہنچا تو اس کو مرنے کی علامت معلوم ہوئی تو اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا یا پس رحمت کے اور عذاب کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے جھکڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو حکم دیا کہ تو میت کے قریب ہو جا۔ کیونکہ وہ میری توبہ کے لیے نکلا تھا اور حکم دیا اس بستی کو جس میں راہب کو مارا تھا کہ تو میت سے دور ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ان فرشتوں کو کہ تم دونوں بستیوں کے درمیان نا پو۔ یعنی جس بستی کے قریب ہوگا۔ اس کے فرشتوں کے حوالے ہوگا پس اس بستی کی طرف ایک بالشت کی بقدر پایا گیا کہ جس کی طرف چلا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔

تشریح ۛ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ روح قبض کرنے والے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے روح لینے کے لئے جھپٹنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا ہم اس کو رحمت کی طرف لے جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ اس بستی کی طرف توبہ کی جانب متوجہ ہونے کی وجہ سے تاب تھا اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ اس

لیے کہ اس نے سو آدمیوں کو قتل کیا ہے اور اب تک توبہ نہیں کی اور یہ حدیث توبہ کرنے والے کے لئے اللہ کی رحمت کے فرائض ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

اور علامہ طبریؒ نے کہا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے دشمنوں کو اس سے راضی کر دیتا ہے اور حدیث میں توبہ پر رغبت دلائی ہے اور لوگوں کو ناامید ہونے سے منع فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ گنہگار بخشش مانگنے والے کو پسند کرتا ہے

۶/۲۲۰۶ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كُنْتُمْ تَذْنِبُونَ لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَكِنَّا بِقَوْمٍ يَذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لَهُمْ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۱۱۳/۴ حدیث رقم (۱۱-۲۷۴۹) و اخرجه احمد فی المسند ۳۰۹/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم کو لے جائے گا اور ایک ایسی قوم کو لائے گا۔ کہ وہ گناہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ ایسا بخشے والا ہے کہ اسم غفور کو ظاہر کرنے والا ہے تاکہ لوگ توبہ کرنے میں رغبت کریں۔ گناہ پر رغبت دلانا مقصود نہیں ہے اس لیے کہ اس سے منع کیا گیا ہے اور آپ ﷺ کو اسی لئے مبعوث کیا گیا ہے: (فخر الدین رحمہ اللہ)

اللہ تعالیٰ کی رحمت توبہ کرنے والے کے لیے بڑی وسیع ہے

۷/۲۲۰۷ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَسْطُرُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَسْطُرُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ فَيَسْتَغْفِرُونَ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا -

(رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۱۱۳/۴ حدیث رقم (۱۱-۲۷۴۹)۔ و احمد فی المسند ۳۹۵/۴۔

ترجمہ: حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے اور اپنا ہاتھ دن کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے یہاں تک کہ آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع ہو۔ اس کو مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ ہاتھ پھیلانے سے مراد طلب کرنے سے کنایہ ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کی عادت ہے کہ جب کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ پس اس کے معنی یہ ہیں کہ گنہگاروں کو توبہ کی طرف بلاتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مغفرت و وسعت سے کنایہ ہے یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو یعنی جب آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بن ہو جائے گا۔ پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔

گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرنا محبوب عمل ہے

۸/۲۲۰۸ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری ۴۳۱۷ - حدیث رقم ۴۱۴۱ - و مسلم فی صحیحہ ۲۱۲۹/۴ حدیث رقم (۵۶ - ۲۷۷۰)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمالتا ہے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جو گناہ کا اقرار کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمالتے ہیں۔

توبہ کو لازم پکڑو مبادا کہ موت آ جائے

۹/۲۲۰۹ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۰۷۶/۴ حدیث رقم (۴۳ - ۲۷۰۳) واحمد فی المسند ۵۰۶/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمالتا ہے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کے بارے میں علامہ طیبی نے کہا ہے کہ آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے یہ توبہ کے قبول ہونے کی حد ہے اس کے بعد توبہ قبول نہ ہوگی۔ اس کی ایک حد اور ہے کہ غرغہ کی حالت سے پہلے توبہ کر لے کہ غرغہ کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔

اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے

۱۰/۲۲۱۰ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللَّهِ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَأَنْتَ رَاحِلَتُهُ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَأَنْفَلْتُ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيَسَ مِنْهَا لَأَنِّي شَجَرَةٌ فَاصْطَبَعْتُ فِي ظِلِّهَا لَقَدْ آيَسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَيَسْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ فَاخَذَ بِحِطَايَهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ أَلْهَمْتُ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَا مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۱۰۴/۴ حدیث رقم ۲۷۴۷۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بہت خوش ہوتا ہے جس وقت وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے کہ تم میں سے کسی کی سواری جھگ کی طرف ہو اور وہ سواری اس سے جاتی رہے اور

اس پر اس کا کھانا اور پینا ہو۔ وہ تلاش کرنے کے بعد ناامید ہو کر ایک درخت کے پاس آ کر اس کے سایہ میں لیٹ گیا۔ پس اس وقت اس نے ناگہاں (اچانک) دیکھا کہ سواری اس کے نزدیک کھڑی ہے چنانچہ اس نے مہار (لگام) پکڑی اور نہایت خوشی کے ساتھ کہا۔ اے الہی! تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے مارے چوک گیا۔ یعنی بھول گیا۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا گیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بندے کو کہنا چاہیے کہ یا اللہ! تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ لیکن نہایت خوشی میں مدھوش ہو کر کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اس کے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے نہایت خوش ہوتا ہے اور توبہ قبول کرتا ہے اس کو اس شخص کی خوشی کے ساتھ مشابہت دی ہے کہ جس شخص کی سواری گم ہو جائے اور پھر جنگل میں اچانک اس کو اس کی سواری مل جائے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے بندہ بار بار گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے اور

اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے

۱۱/۲۲۱۱ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ رَبُّهُ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ فَاغْفِرْهُ لِي فَقَالَ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۶۶۱/۱۳ - حدیث رقم ۷۵۰۷ - ومسلم فی صحیحہ ۲۱۱۲/۴ حدیث رقم ۲۹ -

۲۷۵۸ - واحمد فی المسند ۴۰۵/۲

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق ایک بندے نے یعنی اس امت میں سے یا پہلی امتوں میں سے گناہ کیا پھر اس نے کہا اے میرے پروردگار میں نے گناہ کیا پس اس گناہ کو بخش پس اس کے پروردگار نے فرمایا۔ کیا میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اس کے لیے پروردگار ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے یعنی جب چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے پھر وہ گناہ کرنے سے ایک مدت تک رک گیا جب تک اللہ نے چاہا۔ پھر اس نے گناہ کیا اور کہا اے میرے پروردگار میں نے گناہ کیا ہے اس کو بخش دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میرے بندے نے جان لیا ہے کہ تحقیق پروردگار گناہ بخشتا ہے اور اس کے ساتھ پکڑتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخشتا پھر بندہ اتنی مدت تک ٹھہرا جب تک اللہ نے چاہا۔ پھر اس نے گناہ کیا اور کہا اے میرے پروردگار میں نے گناہ کیا پس اس کو میرے لیے بخش۔ فرمایا کہ کیا میرے بندے نے جانا ہے

کہ تحقیق اس کے واسطے پروردگار گناہوں کو بخشتا ہے اور اس کی وجہ سے پکڑتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخشتا ہے پس چاہیے کہ جو چاہے کرے۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر استغفار کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے حاصل یہ کہ جب تک گناہ کرتا رہے گا اور استغفار بھی کرتا رہے گا تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا اس سے استغفار کی فضیلت اور اس کی تاثیر بیان کرنا مقصود ہے اور اس کی تاثیر گناہوں سے بخشش مانگنا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے

۲/۲۲۱۲ اَوْ عَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ إِنِّي لَا أَغْفِرُ لِفُلَانٍ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَبْتُ عَمَلَكَ أَوْ كَمَا قَالَ۔

اخرجه مسلم فی صحيحه ۲۰۲۳/۴ الحديث رقم (۱۳۷)۔ (۲۶۲۱)۔

ترجمہ: حضرت جندبؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حدیث بیان فرمائی کہ اس امت میں سے یا پہلی امتوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں بخشنے گا اور حضور ﷺ نے حدیث بیان فرمائی کہ تحقیق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون شخص مجھ پر قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو نہیں بخشوں گا پس تحقیق میں نے فلاں آدمی کو بخش دیا ہے اور تیرے عمل کو ضائع کر دیا ہے جو تو نے اس طرح کہا۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے کوئی شخص گناہ بہت زیادہ کرتا تھا کسی نے اس کو کہا کہ فلاں آدمی کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشنے گا۔ یہ بطور تکبر کے کہا اور اس کو بہت زیادہ گناہ گار جانا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھا۔ اس پر عتاب ہوا اور وہ گناہ گار بخشا گیا۔ پس کسی کو قطعی دوزخی یا جنتی کہنا بالکل جائز نہیں ہے۔ مگر حق میں نص وارد ہوئی ہے اُن کو کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

افضل الاستغفار کا ذکر

۱۳/۲۲۱۳ اَوْ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مَوْفِقًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمِيسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی الصحيح ۹۷/۱۱۔ حدیث رقم ۶۳۰۶۔ والترمذی ۱۳۵۰۵ حدیث رقم ۳۴۵۳۔

ترجمہ: حضرت شداد بن اوسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا افضل استغفار یہ ہے کہ تو کہے اے الہی!

تو میرا پروردگار ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو نے مجھ کو پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد پر ہوں اور میں عہد بیثاق کے پورا کرنے پر مستقیم ہوں اور تیرے وعدے پر ہوں یعنی تیرے حشر کے ہونے والے وعدے پر یقین کر رہا ہوں اور تیرے وعدے پر ہوں اور اس کے علاوہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اس چیز کی برائی سے جو میں نے کی اور میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تیری طرف سے مجھ پر ہیں اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں پس مجھ کو بخش دے۔ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشت۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جو ان کے معنوں پر یقین کر کے ان لفظوں کو دن میں پڑھے گا۔ پھر اس دن شام ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا اور جو کوئی یقین کے ساتھ ان الفاظ کو رات کو پڑھے گا معنوں پر یقین کرتے ہوئے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں افضل الاستغفار کا ذکر کیا گیا ہے جو یقین کے ساتھ ان الفاظ کو رات کو سوتے وقت پڑھے گا اور اگر صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو جنتیوں میں سے اٹھایا جائے گا اور اگر دن کے وقت پڑھے گا اور شام ہونے سے پہلے مر گیا تو جنتیوں میں اٹھایا جائے گا۔

الفصل الثانی:

مشرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا

۱۳/۲۲۱۳ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أَبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تَشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتَكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً۔

(رواہ الترمذی ورواہ احمد والدارمی عن ابی ذر وقال الترمذی هذا حديث حسن غریب)

اندرجہ الترمذی فی السنن ۲۰۸/۵ حدیث رقم ۳۶۰۸۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے! کہ تھمتی جب تک تو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے گا اور مجھ سے امید رکھے گا۔ تو میں تجھ کو عمل بد پر بخش دوں گا اور میں پروا نہیں کرتا۔ میرے نزدیک بڑے گناہگار کو بخشا بڑی چیز نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر مجھ سے بخشش مانگے تو میں تم کو بخش دوں گا اور میں کوئی پروا نہیں کرتا ہوں۔ اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین کے بھراؤ کے برابر خطاؤں سے مجھے اس حال میں ملے گا۔ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہوا بلکہ تیرے پاس زمین کے بھراؤ کے برابر بخشش لے کر آؤں گا۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور اس کو نقل کیا ہے احمد اور دارمی نے ابو ذر سے اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مسرہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں گناہگار کو معاف

کردوں گا۔ اگرچہ آسمان کے بھراؤ کے برابر بھی گناہ لے کر آجائے لیکن مشرک کو معاف نہیں کروں گا اور میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں تیرے پاس زمین کے بھراؤ کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا بشرطیکہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔

اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے

۱۵/۲۲۱۵ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ عَلِمَ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي مَا لَمْ يُشْرِكْ بِي شَيْئًا۔ (رواہ فی شرح السنۃ)

شرح السنۃ ۳۸۸/۱۴ الحدیث رقم ۴۱۹۱۔ والحاکم فی المستدرک ۲۶۲/۴۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان لیا کہ میں گناہوں کے بخشنے پر قادر ہوں اس کے گناہوں کو بخشا ہوں اور میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا جب تک وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس کو شرح السنہ میں نقل کیا گیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور خدا بخشنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا جب تک وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بندے کا یقین کر لینا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے پر قادر ہے۔ یہ اس کی مغفرت کا سبب ہے اس لیے کہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے بخشنے پر قادر ہے گویا کہ وہ اس سے امید رکھتا ہے اور جو کوئی کریم سے امید رکھتا ہے وہ اس کو محروم نہیں کرتا تو یہ حدیث اس حدیث کی طرح ہے۔ انا عند ظن عبدی بی۔ منقول ہے کہ حماد بن سلمہ نے سفیان ثوری کی عیادت کی۔ پس سفیان نے حماد سے کہا کہ کیا تو گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے کو بخش دے گا۔ حماد نے کہا کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حساب لینے سے اور میرے باپ کے حساب لینے کے درمیان تو میں اللہ تعالیٰ ہی کو اختیار کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ باپ سے زیادہ رحم کرتا ہے۔

حاصل یہ کہ تم مغفرت کے امیدوار رہو کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے۔

استغفار کی فضیلت

۱۶/۲۲۱۶ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ صِغْبَةٍ مَغْرَجًا وَمِنْ كُلِّ فَرْجٍ وَرَقَةً مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ (رواہ احمد وابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۸۵۱۲ حدیث رقم ۱۵۱۸۔ وابن ماجہ ۱۲۵۴/۲ حدیث رقم ۳۸۱۹۔ واحمد فی المسند ۲۴۸/۱۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو کوئی استغفار کو لازم کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم سے خلاصی دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے حلال روزی دیتا ہے کہ وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اس کو امام احمد اور ابوداؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ استغفار کو لازم کر لو۔ یعنی جب گناہ صادر ہو جائے اور آزمائش کے

ظاہر ہونے کے وقت پڑھا کرو یا یہ معنی ہیں کہ وہ اس پر مداومت کرے اس لیے کہ وہ ہر دم محتاج ہے اس لیے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفاراً کثیراً۔ اور یہ مذکورہ فضیلت اس لیے ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم کرتا ہے تو دل کا تعلق اور اعتماد اللہ پر ہوتا ہے اور اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں پس وہ متقی اور متوکل کے حکم میں ہو جاتا ہے اور ان کی شان میں یہ آیت وارد ہوئی ہے: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ پس یہ حدیث اس آیت سے نکالی گئی ہے اور استغفار کی فضیلت اور اس کا فائدہ مند ہونا ان آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے: ﴿وَيَقُولُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ - ﴿وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيُبْنِيَنَّ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے قحط سالی کا شکوہ کیا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ پھر ایک شخص نے محتاجی کا شکوہ کیا پھر دوسرے نے اولاد کی کمی کا۔ پھر ایک اور نے اپنی زمین میں پیداوار کی کمی کا شکوہ کیا۔ آپ نے سب کو استغفار کا حکم کیا۔ پس ان سے کہا گیا کہ لوگوں نے تم سے کئی چیزوں کا شکوہ کیا اور تم نے ان سب کو استغفار کرنے کا حکم کیا۔ پس انہوں نے یہ آیت پڑھی: ﴿فَلْيَتَلَوَّ اسْتَغْفِرُوا﴾ یعنی جتنے جواب دیئے ہیں سب آیت سے ثابت ہیں۔

استغفار کرنے سے کثیر گناہ معاف ہو جاتے ہیں

۱۷/۲۳۱۷ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْرٌ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً - (رواه الترمذی و ابوداود)

اخرجہ ابو داؤد فی السنن ۸۴/۲ حدیث رقم ۱۰۱۴۰۔ و الترمذی ۲۱۸/۵ حدیث رقم ۳۶۳۰۔
ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس شخص نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، جس نے استغفار کی ہوا گر چہ وہ دن میں ستر بار عود کرے یعنی بار بار وہی گناہ کرے۔ اس کو امام ترمذیؒ اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔
تفسیر: اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ گناہ پر دوام اختیار کرنا بہت برا ہے کہ اگر صغیرہ پر اصرار کرے تو کبیرہ بن جاتا ہے اور کبیرہ پر اصرار کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے پس فرمایا جو شخص اپنے صغیرہ یا کبیرہ پر شرمندہ ہوتا ہے وہ حد اصرار سے خارج ہو جاتا ہے مصروہی ہے جو استغفار نہ کرے اور شرمندہ نہ ہو۔

بہترین خطا کا رتبہ کرنے والے ہیں

١٨/٢٣١٨ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ
التَّوَّابُونَ - (رواه الترمذی وابن ماجه والدارمی)

اخرجہ الترمذی فی السنن ۷۰/۴ حدیث رقم ۲۶۱۶۔ وابن ماجہ ۱۴۲۰/۲ حدیث رقم ۴۲۵۱۔ واحمد فی المسند ۱۹۸/۳۔
ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں (یعنی انبیاء علیہم السلام کے علاوہ اس لیے کہ وہ خطا سے معصوم ہیں) اور بہترین خطا کرنے والے توبہ کرنے والے ہیں۔ اس کو امام ترمذی، ابن ماجہ

اور داری نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام ابن آدم خطا کاہ ہیں سوائے انبیاء علیہم السلام کے۔ اس لیے کہ وہ خطا سے معصوم ہیں اور خطا کرنے والے اور پھر توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔

گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے

۱۹/۲۲۱۹ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَمَا نَتَّ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُفِّلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبُهُ فَلَذَا لَكُمْ الرَّأْيُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔

(رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۰۵/۵۔ حدیث رقم ۳۳۹۰۔ وابن ماجہ ۱۴۱۸/۲۔ حدیث رقم ۴۲۵۱۔ واحمد فی المسند ۱۹۸/۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے اور بخشش کی طلب کرتا ہے تو اس کا دل صاف کیا جاتا ہے اور اگر وہ گناہ زیادہ کرتا ہے تو وہ نقطہ زیادہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے پس یہ ران یعنی زنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس آیت میں کیا ہے ہرگز نہیں بلکہ زنگ باندھا ہے ان کے دلوں پر اس چیز نے کہ جو وہ کرتے تھے۔ یعنی وہ گناہ کرتے تھے یہاں تک کہ کوئی خیر باقی نہیں رہی۔ اس کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ گناہ دل کے نور کو ڈھانپ لیتا ہے پس دل بینائی سے اندھا ہو جاتا ہے لہذا وہ نفع دینے والوں علموں کو نہیں دیکھ سکتا اور فائدہ مند حکمتوں کو نہیں دیکھ سکتا اور شفقت و رحمت جاتی رہتی ہے کہ وہ نہ اپنے اوپر رحمت کرتا ہے اور نہ ہی دوسروں پر رحمت کرتا ہے اور اس کے دل میں ظلم اور فتنہ کے آثار پیدا ہوتے ہیں اور گناہوں پر جرات کرتا ہے۔

غرغرے کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی

۲۰/۲۲۲۰ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَغْرُغْ۔

(رواہ الترمذی وابن ماجہ)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۵۶/۵۔ حدیث رقم ۳۶۰۳۔ وابن ماجہ ۱۴۲۰/۲۔ حدیث رقم ۴۲۵۳۔ واحمد فی المسند ۱۳۲/۲۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغرے کی کیفیت نہ شروع ہو۔ اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جب تک غرغرے ہو یعنی جب تک موت کا یقین نہ ہو تب تک توبہ

قبول ہو جاتی ہے اور جب موت کا یقین ہو جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی اور اس حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مطلق توبہ موت کے وقت درست نہیں ہے خواہ کفر سے توبہ کرے اور خواہ گناہوں سے کرے اور ظاہر آیت میں نیست التوبہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ گناہوں سے توبہ کرنا درست ہے نہ کہ کفر سے۔ پس ان کے نزدیک یاس ناامید کا ایمان غیر مقبول ہے اور توبہ یاس کی مقبول ہے اور علامہ طبریؒ نے کہا ہے یہ حکم گناہوں سے توبہ کرنے کا ہے اور اگر ایسی حالت میں کسی سے اس کا حق بخشوادے تو درست ہے۔

مرتے دم تک شیطان انسان کو گمراہ کرتا رہے گا

۲۱/۲۲۲۱ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي۔ (رواہ احمد)

اخرجه احمد فی المسند ۲۹/۳۔

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تحقیق شیطان نے پروردگار سے عرض کیا تیری عزت کی قسم اے میرے رب! میں تیرے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ارواح ان کے بدنوں میں ہوں گی۔ پس پروردگار عزوجل نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور بزرگی کی قسم اور اپنے مرتبہ کی بلندی کی قسم! میں ہمیشہ گناہوں کو بخشا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے۔ اس کو امام احمدؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے جب تک انسان کے بدن میں روح باقی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک بندے کے گناہوں کو بخشا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتا رہے گا۔

توبہ کے دروازے کی مسافت کا ذکر

۲۲/۲۲۲۲ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مِيسِرَةٌ سَبْعِينَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ قَلْبِهِ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ الْآيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۵۵/۵ حدیث رقم ۳۶۰۲۔ وابن ماجہ ۱۳۵۳/۲ حدیث رقم ۴۰۷۰۔

ترجمہ: حضرت صفوان بن عسالؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب ایک دروازہ توبہ کے لیے پیدا کیا ہے اس کا عرض مسافت ستر برس ہے وہ بندہ نہ کیا جائے گا جب تک کہ آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو یعنی آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع توبہ قبول ہونے سے مانع ہے اس دن بعض نشانیاں آئیں گی تیرے پروردگار کی جانب سے کہ نفع نہیں دے گا کسی جان کو اس کا ایمان ایسی جان کہ پہلے سے یعنی

بعض نشانیوں کے آنے سے پہلے ایمان نہیں لاتی تھی۔ اس کو امام ترمذیؒ اور ابن ماجہؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے یعنی توبہ کرنے والوں کے لیے یا صحت توبہ کے لیے علامت ہے اور قبول توبہ کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک سورج مغرب کی طرف سے نہیں نکلے گا توبہ کی طرف سے سورج نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو اس وقت نہ ایمان مقبول ہوگا اور نہ گناہوں سے توبہ اور اس دن تیرا رب بعض نشانیاں ظاہر کرے گا۔ جب کہ قیامت کی نشانی قریب ہوگی وہ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے اور باقی آیت یہ ہے ﴿وَإِذْ كَسَبَتْ فَيْفُؤُا۟ اِيْمَانَهَا﴾ اور جان لو کہ جس نے ایمان کی حالت میں توبہ نہ کی۔ تو اس کو توبہ نفع نہیں دے گی۔ حاصل آیت یہ ہے کہ جس دن آفتاب مغرب کی جانب سے نکلے گا تو جو کوئی اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا یا ایمان پر ہوگا اور توبہ نہ کی ہوگی تو اس کو ایمان یا توبہ نفع نہیں دے گی۔

توبہ کا دروازہ قیامت تک بند نہیں ہوگا

۲۳/۲۲۲۳ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْقُطُ الْهَجْرَةُ حَتَّى تَنْقُطَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقُطَ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا۔ (رواه احمد وابوداؤد والدارمی)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۳/۳۱۳ حدیث رقم ۲۴۷۹۔ واحمد فی المسند ۳/۳۱۲ والدارمی فی السنن ۳/۳۱۲ حدیث رقم ۲۵۱۳۔
ترجمہ: حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا گناہوں سے توبہ کی طرف ہجرت موقوف نہیں ہوگی یعنی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ توبہ موقوف ہو اور توبہ موقوف نہیں ہوگی یہاں تک کہ آفتاب مغرب کی طرف سے نکلے۔ اس کو امام احمدؒ اور ابوداؤد اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونا گناہ ہے

۲۳/۲۲۲۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَيْتِ إِسْرَآئِيلَ مُتَحَابِّينِ أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ وَالْآخَرُ يَقُولُ مُذْنِبٌ فَيَجْعَلُ يَقُولُ أَقْصِرْ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ لِيَقُولَ خَلِّينِي وَرَبِّي حَتَّى وَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ اسْتَعْظَمَ فَقَالَ أَقْصِرْ فَقَالَ خَلِّينِي وَرَبِّي أَيْعُتْ عَلَى رَقِيبًا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَبَدًا وَلَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمَا مَلَكًا فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَقَالَ لِلْآخَرِ اتَّسِطِيعُ أَنْ تَحْظَرَ عَلَى عَبْدِي رَحْمَتِي فَقَالَ لَا يَأْرَبُ قَالَ إِذْ هَبَا بِهِ إِلَى النَّارِ۔ (مسند احمد)

اخرجه احمد فی المسند ۳/۳۲۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں سے دو شخص تھے وہ آپس میں دوست تھے ایک ان میں سے بندگی کرنے میں بہت محنت کرتا تھا اور دوسرا کہتا تھا کہ میں گنہگار ہوں۔ یعنی اپنے گناہ کا اقرار کرتا تھا پس عبادت کرنے والا گنہگار کو کہتا تھا کہ باز آ جا اس چیز سے جس میں تو ملوث ہے۔ گنہگار کہتا تھا کہ مجھے میرے پروردگار کے ساتھ چھوڑ دو۔ یہاں تک اس عابد نے اس کو ایک دن گناہ کرتے ہوئے پایا اور اس کو بڑا جانا۔ پس اس نے کہا کہ باز آ جا۔ پس گنہگار نے کہا کہ مجھے میرے پروردگار کے ساتھ چھوڑ دے کیا تو مجھ پر داروغہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پس عبادت کرنے والے نے کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ کبھی تجھے بہشت میں داخل نہیں کرے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف فرشتہ بھیجا اور ان دونوں کی رحوں کو قبض کیا، دونوں کی رحوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکٹھی ہوئیں۔ یعنی برزخ میں یا عرش کے نیچے پس گنہگار کو فرمایا کہ میری رحمت کی وجہ سے بہشت میں داخل ہو جا اور دوسرے کو فرمایا کہ کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ میرے بندے کو میری رحمت سے محروم کرے۔ اس نے کہا کہ میں طاقت نہیں رکھتا ہوں اے میرے پروردگار۔ پروردگار نے فرشتوں کو فرمایا جو کہ دوزخ پر متعین ہیں کہ اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ اس کو امام احمد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس شخص نے اپنے عمل پر جو عجب و اعتماد کیا اور اس گنہگار کو حقیر جانا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا اس کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہوا۔ اس لیے کسی بزرگ نے کہا ہے جس گناہ کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو ذلیل و حقیر جانے وہ اس طاعت سے بہتر ہے کہ جو عجب و تکبر کو لازم کرے۔

خدا کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے

۲۵/۲۲۲۵ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ بَرْزَنْدَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يَكِلَىٰ

(رواہ احمد و الترمذی و قال هذا حدیث حسن غریب وفی شرح السنۃ یقول بدل یقرأ)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴۸/۵ حدیث رقم ۳۲۹۰۔

ترجمہ: اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ بتی ہیں کہ میں نے پیغمبر ﷺ کو پڑھتے ہوئے سنا کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کے گناہ بخشتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کو امام احمد اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے اور شرح السنۃ میں یقرا کے بدلے بقول کا لفظ آیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگار آدمی کے گناہ اپنی رحمت کاملہ سے بخش دیتا ہے یعنی اگر وہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے گناہ توبہ کرنے کی وجہ سے بخش دیتا ہے اور مومنوں کے گناہ اگر چاہے تو توبہ کے ساتھ اور اگر چاہے تو بغیر توبہ کے بخش دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے وہ چھوٹے اور بڑے گناہوں کو اپنی رحمت سے

معاف فرما دیتا ہے

۲۶/۲۳۲۶ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا اللَّئِمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

تَغْفِرُ اللَّهُمَّ تَغْفِرُ جَمًّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا - (رواه الترمذی وقال هذا حديث حسن صحيح غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۷۱/۵ حدیث رقم ۲۳۳۸۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اللہ تعالیٰ کے قول إِلَّا اللَّئِمَ کی تفسیر کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا الہی! اگر تو بخشے تو بخش دے بہت بڑے گناہ اور تیرا کونسا بندہ ہے جس نے چھوٹے گناہ نہیں کیے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث صحیح حسن غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے ہر بندہ خطا کار ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے حدیث کے اندر جو لفظ اللَّئِمَ آیا ہے وہ پوری آیت اس طرح سے ہے:

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِنَّمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّئِمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ۔

”اور (جن نیکو کاروں کا پیچھے ذکر ہوا) یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیز کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے علاوہ چھوٹے گناہوں کے (کہ جن سے بچنا ممکن نہیں ہے) اور بے شک تیرا وسیع رب مغفرت والا ہے۔“

پس اس آیت میں جو ہے سوائے چھوٹے گناہوں کے حضور ﷺ نے بطور دلیل کے یہ شعر پڑھا کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن چھوٹے گناہوں سے خالی نہیں ہوتا اور حاصل یہ ہے کہ تیری شان و فضل یہ ہے اگر چاہے تو کبیرہ گناہوں کو بھی بخش دے۔ تو چھوٹوں کی کیا حقیقت ہے اور تیرا کون سا بندہ ایسا ہے جو چھوٹے گناہ نہیں کرتا بلکہ نیکیوں کی وجہ سے تو ان کو جھاڑ دیتا ہے اور یہ شعر امیہ بن خلف کا ہے جو کہ زمانہ جاہلیت کے شاعروں میں سے ہے وہ اس وقت بہت زیادہ عبادت کرتا تھا اور قیامت پر یقین رکھتا تھا۔ اسلام کا زمانہ پایا لیکن مسلمان نہیں ہوا اور وہ حکمت آمیز شعر کہتا تھا۔ اس لیے آپ ﷺ اس کے شعر سنتے تھے اور کبھی خود بھی پڑھتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ کا بیان

۲۷/۲۳۲۷ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ صَالٌّ

إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَاَسْأَلُونِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فُقَرَاءُ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ فَاَسْأَلُونِي ارْزُقْكُمْ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ

إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَمَنْ عِلْمُ مِنْكُمْ إِنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاَسْتَغْفِرْنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ

وَإِخْوَكُمْ وَحَيِّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَبِّكُمْ وَيَا بِسْكُمْ اجْتَمِعُوا عَلَى اتَّقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِكَ فِي

مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتَكُمْ وَرَطَّبَكُمْ وَيَبَسَّكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبٍ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتَكُمْ وَرَطَّبَكُمْ وَيَبَسَّكُمْ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ لَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمِّيَّتُهُ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ لَفَقَسَ فِيهِ ابْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا ذَلِكَ بَائِسٍ جَوَادٍّ مَا جَدَّ أَفْعَلٌ مَا أُرِيدُ عَطَائِي كَلَامٌ وَعَذَابِي كَلَامٌ إِنَّمَا أَمْرِي لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ - (رواه احمد والترمذی وابن ماجه)

اخرجه الترمذی فی السنن ۶۷/۴ حدیث رقم ۲۶۱۳۔ بی ماہ ۱۴۲۲/۲ حدیث رقم ۴۲۵۷۔ واحمد فی المسند ۱۵۴/۵۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو! تم سب راہ سے گم ہو گئے ہو۔ مگر جس کو میں نے ہدایت کی۔ مجھ سے ہدایت مانگو۔ میں تم کو ہدایت کروں گا اور تم سب محتاج ہو۔ یعنی تم ظاہر و باطن میں سب محتاج ہو۔ مگر جس کو میں نے دولت مند کیا پس مجھ سے روزی مانگو میں تم کو دوں گا۔ یعنی حلال طیب اور تم سب گنہگار ہو یعنی سب سے گناہ متصور ہے مگر جس کو میں نے بچا لیا۔ یعنی انبیاء علیہم السلام کو۔ پس جس نے یہ جان لیا کہ میں بخشے پر قادر ہوں۔ پھر وہ مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخشوں گا اور میں پرواہ نہیں کرتا۔ اگر تمہارے پہلے اور پچھلے تمہارے زندہ اور مردہ تمہارے تر اور خشک یعنی جوان و بوڑھے تمہارے عالم و جاہل اور تمہارے فرمانبردار و گنہگار الغرض سب مخلوقات جمع ہو جائیں میرے بندوں میں سے ایک بڑے متقی بندہ یعنی حضور ﷺ کی طرح ہو جائیں۔ یہ سب مل کر میرے ملک میں پھر کے برابر بھی زیادتی نہیں کر سکتے اور اگر تمہارے پہلے لوگ اور بعد والے اور تمہارے زندہ اور مردہ اور تمہارے تر اور خشک جمع ہو کر میرے بندوں میں سے ایک بد بخت بندے کی طرح ہو جائیں یعنی ابلیس لعین بن جائیں۔ تو سب جمع ہو کر میرے ملک میں ایک پھر کے پر کے برابر بھی کی نہیں کر سکتے اور اگر تمہارے پہلے اور بعد والے اور تمہارے زندہ اور مردہ اور تمہارے تر اور خشک سب ایک جگہ جمع ہو جائیں پھر تم میں سے ہر آدمی اپنی آرزو کے بقدر مانگے میں ہر مانگنے والے کو دوں گا یعنی اس کے مقاصد اور یہ دینا اور حاجت روائی کرنا میری ملک میں کوئی کمی نہیں کر سکے گا جیسا کہ تم میں کوئی شخص دریا کے قریب سے گزرے اور اس میں ایک سوئی ڈالے پھر اس کو اٹھا لے یعنی بالفرض والتقدیر اگر کسی ہوگی تو جتنا پانی سوئی میں لگ جاتا ہے ورنہ اس کی ملکیت میں کمی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کتنا ہی دے اس کے ہاں ہرگز کمی کا تصور ہو ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی حاجتوں کا کم ہونا یا پورا ہونا اس کی وجہ سے ہے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں۔ جو چاہتا ہوں کرتا ہوں یعنی تمام سخاوت و کرم میرے ارادہ و اختیار کے ساتھ ہے بندے کے ارادہ کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے میرا دینے کا حکم کرنا اور عذاب کا حکم کرنا یعنی یہ ایک ہی حکم سے ہوتا ہے اور میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں۔ میرا امر کسی چیز کے واسطے نہیں ہے مگر جس وقت کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اس کو امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ساری دنیا کی مخلوقات مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کچھ زیادتی نہیں کر سکتیں

اور ساری مخلوقات مل کر شیطان لعین کی طرح ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں کر سکتیں۔

اللہ تعالیٰ کو شرک ناپسند ہے

۲۸/۲۲۲۸ وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ أَنَا أَهْلُ أَنْ تَقْبَلَ مِنِّي اتَّقَانِي فَأَنَا أَهْلُ أَنْ أَغْفِرَ لَكُمْ۔ (رواه الترمذی وابن ماجہ والدارمی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۰۲/۵۔ حدیث رقم ۳۳۸۴۔ وابن ماجہ ۱۴۳۷/۲۔ حدیث رقم ۴۲۹۹۔ والدارمی ۳۹۲/۲۔ حدیث رقم ۲۷۲۴۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی: وہی تقویٰ والا اور بخشش والا ہے۔ حضور ﷺ نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ میں اس کے لائق ہوں کہ لوگ شرک کرنے سے پرہیز کریں پس جو شخص میرے ساتھ شریک کرنے سے پرہیز کرتا ہے پس میں اس کے لائق ہوں کہ میں اس کو بخش دوں گا۔ اس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس آیت کا مضمون اس آیت کی طرح ہے: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔ ”اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اس (شرک) کے علاوہ (ہر گناہ) کو جس کے لئے چاہے معاف کر دیتا ہے۔“

آپ ﷺ کی دُعا کا ذکر

۲۹/۲۲۲۹ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنْ كُنَّا لَتَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِائَةَ مَرَّةٍ۔ (رواه احمد والترمذی وابوداؤد وابن ماجہ)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۸۵/۲۔ حدیث رقم ۱۵۱۶۔ والترمذی ۱۵۸/۵۔ حدیث رقم ۳۸۱۴۔ وابن ماجہ ۱۲۵۳/۲۔ حدیث رقم ۳۸۱۴۔ واحمد فی المسند ۲۱/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم شمار کیا کرتے تھے کہ نبی کریم ﷺ ایک مجلس میں سو مرتبہ کہتے تھے: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہ اے میرے پروردگار! مجھے بخش اور میری توبہ کو قبول کر تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں آپ ﷺ کا معمول بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ مجلس میں بیٹھ کر اکثر یہ دُعا پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات سو مرتبہ پڑھتے تھے۔

جو شخص اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکے سوال کو پورا کر دیتا ہے

۳۰/۲۲۳۰ وَعَنْ بِلَالِ بْنِ يَسَارٍ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتَّوَبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الرَّحْفِ -

(رواہ الترمذی و ابو داؤد والکنہ عند ابی داؤد ہلال ابن یسار وقال الترمذی هذا حدیث غریب)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۸۵۲/۲ حدیث رقم ۱۰۱۷۔ و الترمذی ۲۲۸/۵ حدیث رقم ۳۶۴۸۔

ترجمہ: آپ ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت زیدؓ کے پوتے حضرت بلال بن یسارؓ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی مجھ سے میرے باپ نے اور انہوں نے میرے دادا سے نقل کیا کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے سنا فرماتے تھے جو شخص یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہ زندہ خبر گیری کرنے والا ہے اور میں اس سے بخشش مانگتا ہوں۔ اس کیلئے بخشش کر دی جاتی ہے اگرچہ وہ کفار کی لڑائی سے بھاگا ہوا ہو کہ وہ کبیرہ گناہ ہے اسکو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور ابو داؤد نے لیکن ابو داؤد کے نزدیک ہلال بن یسارؓ ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے بخشش کے طالب کو بخش دیا جاتا ہے اور حدیث میں لفظ الْحَيُّ الْقَيُّومُ جو آیا ہے اس میں زیر بھی ہے اور پیش بھی لیکن زیر مشہور تر ہے اور اکثر روایتوں میں ہے اور جب کوئی استغفار پڑھے تو صدق دل سے پڑھے چنانچہ یہ آیا ہے کہ گناہ سے استغفار کرنے والا اس حال میں کہ وہ اس وقت گناہ میں مشغول بھی ہو۔ ایسا ہے جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مذاق کرنے والا ہے۔ العیاذ باللہ۔

الفصل الثالث:

نیک آدمی کا درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے

۳۱/۲۲۳۱ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ يَقُولُ يَا رَبِّ أَنِّي لَمِنْ هَذِهِ يَقُولُ يَا سَافِقًا وَلَكَ لَكَ - (رواہ احمد)

اخرجه ابن ماجہ فی السنن ۱۲۰۷/۲ حدیث رقم ۳۶۶۰۔ و احمد فی المسند ۵۱۹/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ عزوجل نیک بخت بندے کا درجہ بہشت میں بلند کرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے یہ درجہ کہاں سے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ درجہ تیرے بیٹے کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اس کو امام احمد نے نقل کیا ہے۔

مردے کے لیے بہترین تحفہ استغفار ہے

۳۲/۲۲۳۲ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْعَرَبِيِّ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ تَلْحَقَهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ

الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْعَالَ الْجِبَالِ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ۔ (رواه البيهقي في شعب الایمان)

اخرجه البيهقي في شعب الایمان ۲۰۲/۶ الحديث رقم ۷۹۰۴۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مردہ قبر میں ڈوبنے والے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے وہ منتظر دعا ہوتا ہے کہ اس کو ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے یا بھائی کی طرف سے یا دوست کی طرف سے کوئی دعا پہنچے۔ پس جس وقت اس کو دعا پہنچتی ہے اس کو دعا کا پہنچنا دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اور تحقیق اللہ تعالیٰ قبر والوں کو زمین والوں کی دعا کی وجہ سے پہاڑوں کی مانند ثواب رحمت اور بخشش پہنچاتا ہے اور تحقیق زندوں کا تحفہ مردوں کی طرف ان کے لئے استغفار کرنا ہے۔ اس کو نبیؐ نے نقل کیا ہے شعب الایمان میں۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں مردے کی قبر میں کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ مردہ قبر میں ڈوبنے والے فریاد کرنے کی طرح ہوتا ہے جو لواحقین کی طرف سے دعا کا منتظر رہتا ہے اور دنیا کی تمام چیزوں سے اس کو یہ زیادہ محبوب ہوتی ہے گویا کہ زندوں کا مردے کے لئے استغفار کرنا یہ ان کے لیے بہترین تحفہ ہے۔

خوشحال شخص کا ذکر

۳۳/۲۲۳۳ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا۔ (رواه ابن ماجه وروى النسائي في عمل يوم وليلة)

اخرجه النسائي عمل اليوم والليلة۔ وابن ماجه في السنن ۱۲۵۴/۲ حديث رقم ۳۸۱۸۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے خوشحالی ہے کہ جو اپنے اعمال نامے میں بہت زیادہ استغفار پائے یعنی مقبول استغفار۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور نسائی نے اپنی کتاب عمل يوم وليلة میں نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص بڑا خوشحال ہے جس کے اعمال نامے میں بہت زیادہ استغفار پایا جائے۔ بزاز نے انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے ہر روز دونوں فرشتے اعمال لکھنے والے بندے کے اعمال نامہ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے پہلے اعمال نامے میں اور آخر میں استغفار کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کے وہ گناہ بخش دیے جو دونوں طرفوں کے اعمال نامہ میں رہے ہیں۔ حاصل یہ کہ صبح و شام کے استغفار سے یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔

آپ ﷺ کو استغفار کرنے والا شخص بہت پسند ہے

۳۳/۲۲۳۳ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا

اِسْتَبْشَرُوا وَاِذَا اَسَاءَ وَاَسْتَغْفَرُوا۔ (رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی الدعوات الکبیر)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۰۲/۱۱۔ حدیث رقم ۶۳۰۸۔ ومسلم فی صحیحہ ۲۱۰۲/۴۔ حدیث رقم (۲۷۴۴-۳) واحمد فی المسند ۳۸۳/۱۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کہتے تھے اے الہی! مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جب وہ نیکی کریں تو خوش ہوں اور جب وہ برائی کریں تو استغفار کریں اس کو این ماجد اور نبیؐ نے دعوات کبیر میں نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ الہی! مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو نیکی کر کے خوش ہوں اور برائی کر کے پریشان ہوں اور اس پر استغفار کریں۔

اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ بڑی محبوب ہے

۳۵/۲۲۳۵ وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأُخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا أَيْ بِيَدِهِ فَلَذَبَهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلَّهِ أَفْرُحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي أَرْضٍ دَوِيَّةٍ مُهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشِرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ قَنَامَ نَوْمَةٍ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ فَعَلَّكَبَهَا حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ وَمَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَلَانَامُ حَتَّى أَمُوتَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَشِرَابُهُ فَالْتَمَسَ قَرْحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ۔

(روی مسلم المرفوع الی رسول اللہ منہ فحسب وروی البخاری الموقوف علی ابن مسعود ایضاً)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۰۲/۱۱۔ حدیث رقم ۶۳۰۸۔ ومسلم فی صحیحہ ۲۱۰۲/۴۔ حدیث رقم (۲۷۴۴-۳) واحمد فی المسند ۳۸۳/۱۔

ترجمہ: حضرت حارث بن سويد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مجھ سے دو حدیثیں بیان کی۔ ایک ان میں سے نبی کریم ﷺ سے نقل کی اور دوسری اپنی طرف سے نقل کی وہ یہ ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے کہ گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اس سے ڈرتا ہے کہ پہاڑ اس پر گر پڑے اور فاجر اپنے گناہوں کو کبھی کی طرح دیکھتا ہے کہ وہ اس کی ناک پر اڑے پس اس طرح سے اس کبھی کے ساتھ اشارہ کیا یعنی اپنے ہاتھ سے اس کبھی کو ناک سے اڑا دے یعنی مومن گناہ سے بہت ڈرتا ہے اور خوف کرتا ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں اور فاجر گناہ کرنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر عبد اللہ نے کہا یعنی جو حدیث حضور ﷺ سے سنی تھی وہ بیان کی۔ میں نے پیغمبر ﷺ سے سنا۔ آپ ﷺ فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے پر توبہ کرنے کی وجہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ بہ نسبت اس شخص کے کہ وہ ایک ایسے میدان میں اترا

جو درخت اور گھاس سے خالی ہے اور وہ ہلاکت کی جگہ ہے اور اس کے پاس سواری اور اس پر اس کا کھانا اور پینا تھا پھر اس نے اپنا سراسر راحت کے لیے زمین پر رکھا اور سو گیا پھر جاگا۔ اس حال میں کہ اس کی سواری جا چکی تھی۔ وہ اس کی تلاش میں لگ گیا یہاں تک کہ جب سخت گرمی ہو گئی اور پیاس بھی (شدید لگی) اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اس نے کہا کہ میں لوٹ جاؤں اپنے مکان کی طرف اور سو جاؤں یہاں تک کہ مر جاؤں پھر اس نے اپنا سراپے بازو پر رکھا تا کہ مر جائے پھر وہ جاگا کہ اچانک سواری اس کے پاس حاضر ہے اس پر اس کا توشہ اور پانی ہے پس اللہ تعالیٰ مؤمن بندے کے توبہ کرنے کی وجہ سے بڑا خوش ہوتا ہے یعنی جس طرح بندہ اپنی سواری اور توشہ ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ امام مسلمؒ نے ان دونوں حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ اس سے کہ یہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف مرفوع ہے یعنی جس میں سواری کے بھاگنے اور پانی کا قصہ ہے اور جو حدیث ابن مسعودؓ پر موقوف ہے کہ مؤمن گناہ کو پہاڑ کے برابر دیکھتا ہے وہ ذکر نہیں کی اور امام بخاریؒ نے حدیث موقوف بھی نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث مرفوع متفق علیہ ہے اور حدیث موقوف افراد بخاری سے ہے اور اس حدیث میں یعنی اس آیت کی طرف اشارہ ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ امام غزالیؒ نے کہا ہے کہ بڑے عالم باعمل استاد ابواسحاق اسفرائینی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تیس برس تک دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے توبۃ النصوح نصیب کرے پس میری دعا قبول نہ ہوئی میں نے تعجب کیا کہ میں نے ایک حاجت کے لیے تیس برس تک دعا کی وہ اب تک پوری نہ ہوئی۔ پس میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھ کو کہہ رہا ہے کیا تو نے تعجب کیا ہے اور جانتا بھی ہے تو کیا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دوست رکھے کیا تو نے اللہ تعالیٰ سے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ پس یہ حاجت کس قدر آسان ہے۔

گناہوں کے بعد بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا بہت محبوب ہے

۳۶/۲۳۳۶ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُتَقِنَ التَّوَّابَ۔

اخرجه احمد في المسند ۸۰۱۔

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا محقق اللہ تعالیٰ بندہ مؤمن کو پسند کرتا ہے جو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور بہت توبہ کرتا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کے بعد توبہ کرنے کی وجہ سے بندے سے محبت کرتا ہے۔ نہ کہ گناہ کی وجہ سے کیونکہ توبہ میں بندے کو انابت الی اللہ نصیب ہوتی ہے اور یہ انابت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔

لَا تَقْنَطُوا کی فضیلت

۳۷/۲۳۳۷ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَحَبُّ أَنْ لِيَ الدُّنْيَا بِهَيْلَةٍ الْآيَةِ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا الْآيَةَ فَقَالَ رَجُلٌ لَمَنْ أَشْرَكَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ آلا وَمَنْ أَشْرَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ۔

اخرجه احمد في المسند ۲۷۵۱۵۔

ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میرے لیے اس آیت کے بدلے دنیا ہو اور میرے بندو! جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آخر آیت تک۔ پھر ایک شخص نے کہا جس نے شرک کیا۔ یعنی وہ بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے یا نہیں یعنی وہ بخشا جائے گا یا نہیں۔ پس نبی کریم ﷺ حکم الہی کے منتظر رہ کر خاموش رہے یا جواب دینے کے لیے فکر و تامل میں مصروف ہو گئے۔ پھر بموجب وحی کے یا اپنے اجتہاد سے فرمایا کہ خیر دار ہو جاؤ کہ جس شخص نے شرک کیا اور پھر اپنی زندگی میں شرک سے توبہ کر لی اس کی توبہ قبول ہو جائے گی پس وہ بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے یہ کلمہ تین بار فرمایا۔

تشریح: اس حدیث میں آپ ﷺ نے بیان فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ اس آیت کے بدلے تمام دنیا کی چیزیں مجھ کو ملیں اور میں ان کو اللہ کے لیے دوں اور اس کی لذت والی چیزوں سے لذت اٹھاؤں۔ اس لیے کہ اس میں گناہوں کی مغفرت کی خوشخبری ہے اور لَا تَقْنَطُوا والی پوری آیت یوں ہے:

يُحْيِيكَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔
”اے میرے وہ بندو جنہوں نے (گناہوں کے ذریعہ) اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے ناامید و مایوس نہ ہو بلا شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشا ہے اور وہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔“

اسی مضمون کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان اشعار کے ذریعہ ادا کیا ہے۔

آيَا صَاحِبِ الذَّنْبِ لَا تَقْنَطَنَّ ۝ فَإِنَّ إِلَهَهُ رَوْفٌ رَوْفٌ

”اے گنہگار شخص ناامید اور مایوس مت ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے بڑا ہی مہربان۔“

وَلَا تَرْجَلَنَّ ۝ بَلَا عِدَّةٍ ۝ فَإِنَّ الْعَطْرَ يُقَىٰ مَخُوفٌ مَخُوفٌ

”بغیر زاد راہ کے کوچ نہ کر۔ کیونکہ راستہ بڑا دہشت ناک ہے بڑا ہی دہشت ناک۔“

اور یہی مضمون فارسی کے ان شعروں میں ہے۔

عاقِل مرد کہ مرکب مرداں مردا ۝ در سگ لاخ باد یہ مہیا بریدہ اند

نومید ہم باش کہ رنداں بادہ نوش ۝ ناکہ بیک خردش بمنزل رسیدہ اند

شرک خدا کی رحمت اور بندے کے درمیان پردہ ہے

۳۸/۲۲۲۸ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَيَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقَعِ

الْحِجَابُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الْحِجَابُ قَالَ أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ

رَوَى الْإِسْلَامِيُّ فِي الْمَلَائِكَةِ - (احمد وروی البیہقی الاخیار فی کتاب البعث والنشور)

اخرجه احمد في المسند ۱۷۴۱۵۔

ترجمہ: حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بخشتا ہے یعنی جو کچھ گناہوں سے چاہتا ہے جب تک خدا کی رحمت اور بندے کے درمیان پردہ نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول پردہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آدمی اس حال میں مرے کہ وہ شرک کرنے والا ہو۔ یہ تینوں حدیثیں احمد نے نقل کیں ہیں اور بیہقی نے اخیر کی کتاب بعث وثور میں نقل کی ہیں۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک اللہ کی رحمت اور بندے کے درمیان بطور پردہ کے ہوتا ہے۔ جب تک یہ پردہ حائل رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول! پردہ کیا ہے؟ فرمایا بندہ اس حال میں مرے کہ وہ شرک کرنے والا ہو۔

اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر گناہ معاف کر دے گا بشرطیکہ وہ شرک نہ کرتا ہو

۳۹/۲۲۳۹ و عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَعْدِلُ بِهِ شَيْئًا فِي الدُّنْيَا كَانَ عَلَيْهِ مِغْلٌ جَبَالٍ ذُنُوبٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ۔ (رواه البيهقي في كتاب بعث و الثور)

اخرجه ابن ماجه في السنن ۱۴۱۷/۲ حديث رقم ۴۲۵۰۔

ترجمہ: حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے یعنی اس حال میں مرے کہ دنیا میں کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر نہ کرتا ہو پھر اس پر پہاڑ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دے گا، اگر چاہے گا۔ اس کو بیہقی نے کتاب بعث وثور میں نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شریک کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص خدا کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو اور پہاڑ کے برابر بھی گناہ لے کر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمادیں گے۔

شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے

۴۰/۲۲۴۰ و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّانِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الایمان وقال تفرد به النهرانی وهو مجهول وفي شرح السنة رواه عنه موقفا قال) النَّدَمُ تَوْبَةً وَالثَّانِبُ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔

اخرجه ابن ماجه في السنن ۱۴۱۷/۲ حديث رقم ۴۲۵۰۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا یعنی توبہ صحیح کرنے والا اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کو ابن ماجہ اور بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے اور امام بیہقی نے کہا ہے اس کو فقط نہروانی نے نقل کیا اور وہ مجهول ہے اور بخوئی نے شرح السنۃ میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بطریق موقوف روایت کی ہے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ پشیمانی توبہ کا بڑا رکن ہے اور توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے کہ اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ توبہ جب معتبر شرائط کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اس کی مغفرت فرمادیتے ہیں اپنے وعدے کے مطابق: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ اور استغفار اگر توبہ کے بغیر ہو تو وہ کبھی اپنی جتنی اور کس نفسی کی بنا پر گناہوں کو مٹا دینے والی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ لیکن استغفار کرنے والا البتہ ثواب پاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مشیت ایزدی پر موقوف ہے اگر چاہتا ہے تو استغفار سے گناہوں کو دور کر دیتا ہے اور اگر چاہتا ہے تو دور نہیں کرتا۔

بَاب

رحمت باری تعالیٰ کی وسعت کا بیان

مقلوۃ کے اکثر نسخوں میں فقط لفظ ”باب“ ہے اور بعض نسخوں میں ”باب فی سعة رحمة“۔

الفصل الاول

اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے

۲۳۳۱/ اَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ

عِنْدَهُ قَوْفُ عَرْشِهِ اِنْ رَحِمْتِي سَبَقَتْ غَضَبِي وَفِي رِوَايَةٍ غَلَبَتْ غَضَبِي۔ (متفق علیہ)

اخرجه البعاری فی صحیحہ ۵۲۲/۱۳۔ حدیث رقم ۷۴۰۴۔ و مسلم فی صحیحہ ۲۱۰۷/۴۔ حدیث رقم (۴۱)۔

(۲۷۵۱)۔ وابن ماجہ فی السنن ۱۴۳۵/۲۔ حدیث رقم ۴۲۹۵۔ واحمد فی المسند ۴۳۳/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کو مقدر کیا۔ یعنی بیخاک کے دن یا ان کا پیدا کرنا شروع کیا۔ یعنی فرشتوں کو یا قلم کو لکھنے کا حکم کیا۔ پس وہ کتاب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے عرش کے اوپر ہے اس میں یہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اس حکم کی کتاب عرش کے اوپر اس کی بزرگی قدر کی وجہ سے رکھی گئی ہے اور سبقت رحمت اور اس کے غلبہ سے مراد رحمت کی نشانیوں کا غالب ہونا ہے اور اس کی بخشش و انعام کا تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہونا ہے اور بے انتہا ہے اور غضب کی نشانیاں کم ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اور فرمایا: عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء اور بندے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ادا کرنے میں کمی کرتے ہیں وہ حد سے زیادہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ولو يؤاخذ اللہ الناس بظلمهم ماتوا علی ظہر ہامن دابة۔ پس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ان کو باقی رکھتا ہے اور روزی دیتا ہے اور نعمت پہنچاتا ہے اور عذاب نہیں دیتا یہ تو دنیا میں اس کی رحمت کا ظہور ہے اور آخرت میں اس سے زیادہ ہوگا۔ جیسا کہ آئندہ حدیث میں اس کا بیان ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوقات پر رحمتوں کی تقسیم کا بیان

۲/۲۲۳۲ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالْأَنْهَامِ وَالْهَوَامِ فِيهَا يَتَعَاطَفُونَ بِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعَطَّفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَآخَرُ اللَّهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (متفق عليه، وفي رواية لمسلم عن سَلْمَانَ نَحْوَهُ وَفِي آخِرِهِ قَالَ وَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرِّحْمَةِ)۔

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۳۱/۱۰۔ حدیث رقم ۶۰۰۔ ومسلم فی صحیحہ ۲۱۰۸/۲۔ حدیث رقم (۱۷)۔ (۲۷۵۲)۔
والترمذی فی السنن ۲۰۹/۵۔ حدیث رقم ۳۶۰۹۔ وابن ماجہ ۱۴۳۵/۲۔ حدیث رقم ۴۲۹۳۔ والدارمی ۴۱۳/۲۔ حدیث رقم ۲۷۸۵۔ واحمد فی المسند ۵۱۴/۲۔ اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۲۱۰۹/۴۔ الحدیث رقم (۲۱)۔ (۳۷۵۳)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ کے لیے سو (۱۰۰) رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت جن آدمیوں چار پاؤں اور زہریلے جانوروں کے درمیان ہے۔ اسی رحمت کی وجہ سے آپس میں میل کرتے ہیں اور اسی رحمت کی وجہ سے آپس میں رحم کرتے ہیں اور اسی رحمت کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر مہربانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ننانوے (۹۹) رحمتیں رکھی ہیں کہ ان کے ساتھ اپنے بندوں پر رحمت کرے گا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے اور مسلم شریف کی ایک روایت مسلمان سے مروی ہے اسی طرح ہے اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے یہ فرمایا جس وقت قیامت کا دن ہوگا۔ ان شاء اللہ ننانوے رحمتوں کو پورا کرے گا اس رحمت کے ساتھ جو دنیا میں پہنچی ہوگی۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوا ہے کہ یہاں بھی رحمت ہوگی اور ننانوے اور ہوں گی وہ سب مل کر سو رحمتیں ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو مخلوقات پر تقسیم کیا ہے یہاں تک کہ زہریلے جانوروں کو بھی محروم نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ سے ناامید نہیں ہونا چاہیے

۳/۲۲۳۳ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمَعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۰۱/۱۱۔ حدیث رقم ۶۶۶۹۔ ومسلم فی صحیحہ ۲۱۰۹/۴۔ حدیث رقم (۲۳)۔ (۲۷۵۵)۔ واحمد فی المسند ۳۳۴/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر مومن آدمی اس چیز کو کہ جو اللہ کے نزدیک عذاب سے ہے جان لے تو کوئی بہشت کی طمع نہ کرے اور اگر کافر آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جان لے تو وہ اس کی جنت سے ناامید نہ ہو۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: یہ حدیث پاک کثرت رحمت کے بیان میں وارد ہوئی ہے اور اس کے عذاب کے بارے میں وارد ہوئی ہے

تاکہ مؤمن اس کی رحمت کے ساتھ مغرور نہ ہوں اور اس کے عذاب سے ڈر نہ ہو جائیں اور کافراں کی رحمت سے ناامید نہ ہو جائے اور توبہ کرنی نہ چھوڑ دے اور حدیث کا حاصل یہ ہے کہ بندوں کو لائق ہے کہ وہ خوف ورجا کے درمیان رہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر پکارا جائے ایک شخص کو قیامت کے دن کہ وہ جنت میں داخل ہوگا تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہوں اور اسی طرح اگر پکارا جائے ایک شخص کو دوزخ کی طرف تو مجھے اندیشہ ہوگا کہ وہ میں ہوں۔

جنت اور دوزخ بہت زیادہ قریب ہیں

۴/۲۲۳۳ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِعْلُ ذَلِكَ۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۱۲/۱۱۔ حدیث رقم ۶۴۸۱۔ ومسلم فی صحیحہ ۲۱۰۹/۴۔ حدیث رقم (۲۴-۲۷۵۶)
ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ نزدیک ہے اور دوزخ بھی اسی طرح ہے۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔
تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ بہت زیادہ قریب ہیں اس کو چاہیے کہ اچھے کام کرے اور برے کاموں سے بچے اور دوزخ سے ڈرتا رہے۔

اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اپنے بندے کو معاف کرنے کیلئے بہانے ڈھونڈتا ہے

۵/۲۲۳۵ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَفْعَلْ خَيْرًا قَطُّ لَا هِلْهُ وَلَهُ رِوَايَةٌ اسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بِنَفْسِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ أَذْروا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ قَوْلَ اللَّهِ لَئِنْ قَدَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا مَاتَ قَعَلُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ الْبَحْرُ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ لَفَعَفَرُ لَهُ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۱۲/۱۱۔ حدیث رقم ۶۴۸۱۔ ومسلم فی صحیحہ ۲۱۰۹/۴۔ حدیث رقم (۲۴-۲۷۵۶)
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کبھی بھلائی نہیں کی تھی اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے نفس پر زیادتی کی تھی یعنی بہت گناہ کئے تھے جب اس کو موت آئی۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب وہ مر جائے تو اس کو جلادو۔ پھر اس کی آدھی راکھ جنگل میں اور آدھی راکھ دریا میں اڑادو۔ پس خدا کی قسم اگر اللہ اس پر تنگی کرے گا اور حساب میں مناقشہ کرے گا تو البتہ اسے عذاب کرے گا ایسا عذاب کہ عالم میں ایسا عذاب کسی کو نہ کرے گا۔ پس جب وہ مر گیا۔ اس کے بیٹوں نے وہ کیا جو اس نے ان سے کہا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا پس دریا نے اس چیز کو جمع کیا جو اس میں تھی اور جنگل کو حکم کیا اس چیز کا جو اس میں تھی یعنی دریا اور جنگل نے اس شخص کے سب اجزاء جمع کیے اور وہ شخص درست ہو کر پیدا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کس واسطے تو نے یہ

کام کیا تھا؟ اس شخص نے کہا اے میرے پروردگار! میں نے تیرے ڈر سے یہ کام کیا اور تو دانا تر ہے (یعنی تو بہت زیادہ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس شخص کا جو واقعہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو حکم کیا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو جلا کر اس کی آدمی راکھ دریا میں اور آدمی جنگل میں ڈال دینا۔ یہ حکم اس لیے کیا تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ عذاب اسی کو ہوتا ہے جو دفن کیا جاتا ہے پس اس نے اللہ سے ڈر کر ایسا حکم کیا اور اللہ تعالیٰ عتہ نواز ہے اور اس کو یہ بات پسند آگئی اور معاف کر دیا اور قدر اللہ کے لفظی معنی تو یہی ہیں جو مذکور ہوئے اس صورت میں کوئی اشکال وار نہیں ہوتا اور اگر اس کے یہ معنی لیں اگر اللہ تعالیٰ قادر ہوگا تو یہ اشکال لازم آتا کہ یہ قدرت باری تعالیٰ میں شک کرنا ہے اور یہ کفر ہے۔ پس اس کا جواب بعضوں نے یہ دیا ہے کہ وہ شخص زمانہ فترت میں تھا یعنی اس وقت کوئی نبی نہیں تھا پس اس وقت فقط توحید کافی تھی اور بعضوں نے کہا کہ غلبہ حیرت و دہشت سے یہ واقع ہوا ہے کہ اس صورت میں آدمی مجنون اور مغلوب العقل ہوتا ہے وہ باخود نہیں ہے جیسے کہ ایک شخص کا ذکر اوپر کے باب میں ہوا ہے کہ اس نے سواری کے پانے کی وجہ سے نہایت خوشی سے کہا: انت عبدی وانا ربک واللہ اعلم۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے

۶/۲۳۳۶ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبِيٌّ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحَلَّبَ لَدَيْهَا تَسْعَى إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَالْصَّقَتْهُ بِطَنْيْهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّزَوْنَ هَلِهِمْ عَارِحَةً وَلَكِنَّهَا فِي النَّارِ فَقُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَلِهِمْ بَوْلَدَهَا۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۲۶/۱۰۔ حدیث رقم ۵۹۹۹۔ و مسلم فی صحیحہ ۲۱۰۹/۴۔ حدیث رقم (۲۲۰-۲۷۵۴) ترجمہ: حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس کچھ قیدی آئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی کہ اس کی چھاتی بہتی تھی یعنی دودھ بہہ رہا تھا کثرت کی وجہ سے اس لئے کہ اس کے ساتھ بچہ نہیں تھا۔ یعنی وہ بچے کی تلاش میں دوڑتی تھی جب وہ قیدیوں میں سے کسی بچے کو پالیتی تو اس کو اپنے پیٹ سے لگاتی اور اس کو اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے دودھ پلاتی۔ پس نبی کریم ﷺ نے فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ یہ اپنا بچہ آگ میں ڈالے گی؟ یعنی جب غیر کے بچے پر یہ محبت رکھتی ہے تو کیا گمان کرتے ہو کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ پس ہم نے کہا کہ نہیں ڈالے گی۔ جب وہ نہ ڈالنے پر قدرت رکھتی ہو۔ پس فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے (مومن) بندوں پر اس عورت کی بہ نسبت زیادہ رحم کرنے والا ہے جو اس کو اپنے بچے پر ہے۔ اس کو بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے بلکہ اس عورت سے بھی زیادہ جو اپنے بچے کے ساتھ والہانہ محبت رکھتی ہے۔

قیامت میں نجات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگی

۲۲۳۷/۷ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ فَنَسِدُودُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرَوْحُوا وَشَيْءٌ مِنَ الذُّلْبَةِ وَالْقَصْدِ الْقَصْدُ تَبَلُّغُوا - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۹۴/۱۱ حدیث رقم ۲۴۶۳۔ و مسلم فی ۲۱۶۹/۴ حدیث رقم (۷۸-۲۸۱۶)۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کسی کو اس کا عمل آگ سے نجات نہیں دے گا یعنی صرف عمل نفع نہیں دے گا بلکہ جب اس کے فضل اور رحمت کے ساتھ ہو تو مفید ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا آپ کو بھی باوجود کامل ہونے کے عمل نجات نہیں دے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا مجھ کو بھی نہیں۔ مگر مجھ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ پس اپنے عمل کو تیر کی طرح درست کرو اور عمل میں میانہ روی اختیار کرو یعنی عمل کی اور زیادتی نہ کرو اور دن کے ابتدائی حصہ میں اور آخری حصہ میں عبادت کرو اور کچھ رات میں نماز تہجد پڑھو اور عمل میں میانہ روی اختیار کرو۔ یعنی عبادت میں میانہ روی اختیار کرو تا کہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کا عمل نفع نہیں دے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے وہ بخشا جائے گا لہذا تم اعمال کرتے رہو اور عمل میں میانہ روی اختیار کرو۔ یعنی عبادت کرنے میں میانہ روی سے کام لو تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخلہ ہوگا

۲۲۳۸/۸ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا أَنَا إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۱۷۱/۴ حدیث رقم ۷۷-۲۸۱۷۔
ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ اس کو دوزخ سے بچائے گا۔ یعنی اس کا عمل اور نہ مجھ کو میرا عمل جنت میں داخل کرے گا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ بندہ اعمال سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو گا اور وہ جنت میں داخل ہونے والے کام کرے گا اور بہشت میں داخلہ محض فضل الہی کے ساتھ ہوگا اور اس کو اعمال کے موافق درجات ملیں گے۔

یہ اللہ کا فضل و رحمت ہے کہ وہ ایک نیکی کا ثواب سات سو گنا تک بڑھا دیتا ہے

۹/۲۳۹۹ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسَنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَّهَا وَكَانَ بَعْدُ الْفَقَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۹۸۸۱۔ حدیث رقم ۴۱۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت، بندہ اسلام لے آئے۔ پس اس کا اسلام اچھا ہو یعنی نفاق سے خالص ہو اور ظاہر و باطن یکساں ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر گناہ جھاڑتا ہے جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا تھا اور اس کے بعد بدل ہوتا ہے یعنی اسلام لانے کے بعد جو عمل کرتا ہے اس پر بدلہ ملتا ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب سات سو گنا تک لکھا جاتا ہے بلکہ سات سو سے زیادہ اور اس کے ساتھ ساتھ برائی یعنی جتنی کرتا ہے اتنی ہی لکھی جاتی ہے مگر یہ کہ اللہ اس سے درگزر کرے۔ اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا کا فضل ہے کہ وہ نیکی کا ثواب ایک سو (۱۰۰) سے سات سو گنا تک دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے مشقت اور صدق اور اس کے اخلاص کی وجہ سے زیادہ بھی دیتا ہے اور وہ جتنی برائی کرتا ہے اتنی ہی لکھی جاتی ہے اور جس سے چاہتا ہے درگزر بھی کرتا ہے۔

محض نیکی کا ارادہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہے

۱۰/۲۳۵۰ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لِمَنْ هُمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَمْلِكْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ فَإِنْ هُمْ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَمْلِكْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ فَإِنْ هُوَ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةً۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۲۳۱۱۔ حدیث رقم ۶۴۹۱۔ ومسلم فی صحیحہ۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھیں یعنی فرشتوں کو ان کو لوح محفوظ میں لکھنے کا حکم فرمایا اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو شخص نیکی کا قصد کرے پھر نیکی نہ کرے پھر کسی عذر کی وجہ سے کرنا میسر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی پوری لکھ دیتا ہے اور پھر اگر نیکی کا قصد کرے اور اس کو کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس سے سات سو گنا تک لکھ دیتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ یعنی جس کے لیے اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم کی وجہ سے اخلاص کے موافق اور اس کے آداب و شرائط کو بجالانے کے ساتھ زیادہ بھی لکھتا ہے اور جس شخص نے برائی کا قصد کیا پھر خوفِ الہی کی وجہ سے برائی نہ کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے پس اگر برائی کا قصد کیا پھر برائی کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک برائی لکھتا ہے۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿۱﴾ اس حدیث پاک میں نیکیوں کا ذکر آیا ہے نیکیوں سے مراد وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور برائیوں سے مراد وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے بندہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے اور جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نیکی نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے کیونکہ عمل کا ثواب نیت پر موقوف ہے اور مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اس لیے اس کو نیت پر ثواب دیا جاتا ہے بغیر عمل کے اور بغیر نیت کے عمل پر ثواب نہیں دیا جاتا۔ نیکی کا ثواب سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس زیادتی کی مقدار کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس قدر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھا ہے اس لیے کہ مبہم کا ذکر کرنا رغبت دلانے میں محین کے ذکر کرنے سے زیادہ قوی ہے۔ چنانچہ اسی لیے فرمایا ہے: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ۔

الفصل الثانی:

برائی کو تنگ زرہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے

۱۱/۲۲۵۱ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَأَنْفَقَتْ حَلَقَةً ثُمَّ عَمِلَ أُخْرَى فَأَنْفَقَتْ أُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ۔ (رواہ فی شرح السنة)

اخرجه احمد فی المسند ۱۴۵/۴۔

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا حال کہ وہ برائیاں کرتا ہو۔ پھر نیکیاں کرے اس شخص کے حال کی طرح ہے جس پر تنگ زرہ ہے۔ زرہ کے حلقوں نے اس کو تنگ کیا ہے پھر اس نے نیکی کی اور اس کے حلقے کھل گئے پھر عمل کیا یہاں تک کہ زرہ کشادہ ہو کر زمین کی طرف نکل پڑی۔ یہ شرح السنۃ میں ہے۔

تشریح ﴿۲﴾ اس حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ برائی کرنے سے انسان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور امور میں متعیر ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو دشمن رکھتے ہیں اور نیکی کرنے سے سینہ فراخ ہوتا ہے اور اس کے امور آسان ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں محبوب ہو جاتا ہے اس کو تنگ زرہ پہننے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ زرہ کا تنگ ہونا سانس گھٹنے کا سبب ہے اور اس کا کھلنا فراخی کا سبب ہے اور خوشدلی کا باعث ہے۔

اللہ عزوجل سے ڈرنے والے کے لیے خوشخبری

۱۲/۲۲۵۲ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْصُصُ عَلَى الْيَمَنِ وَهُوَ يَقُولُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ فَقُلْتُ النَّبِيُّ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ فَقُلْتُ النَّبِيُّ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ۔ (رواہ احمد)

اخرجه احمد فی المسند ۴۴۲/۶۔

ترجمہ: حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے سنا آپ ﷺ منبر پر نصیحت فرماتے تھے اور اس شخص کے لیے فرماتے تھے جو اپنے پروردگار کے سامنے (قیامت کے دن حساب کے لئے) کھڑا ہونے سے ڈرا قیامت کے دن دو بہشتیں ہیں میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! اگرچہ زنا کیا ہو یا اگرچہ چوری کی ہو۔ پھر دوسری بار فرمایا اور اس شخص کے واسطے جو پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا دو جنتیں ہیں پھر میں نے دوسری بار کہا اگرچہ زنا کرے اور اگرچہ چوری کرے؟ رسول اللہ ﷺ نے تیسری بار فرمایا: اس شخص کے واسطے دو جنتیں ہیں جو پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ پھر میں نے تیسری بار کہا: اے اللہ کے رسول! اگرچہ وہ زنا کرے اور اگرچہ چوری کرے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اگرچہ ابودرداء کی ناک خاک آلود ہو۔ اس کو امام احمد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے لئے دو جنتیں ہوں گی۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک بہشت میں سونے کے مکان اور محل اور زیور وغیرہ ہیں اور ایک بہشت ہے کہ اس میں چاندی کا سامان ہے اور ابودرداء نے اس حکم کو بعید جانا حضور ﷺ نے فرمایا اگرچہ ابودرداء کی ناک خاک آلود ہو۔ یعنی اگرچہ وہ اس حکم پر ناخوش ہی ہو۔ حقیقت میں یہ حکم ایسا ہی ہے۔

آپ ﷺ پرندوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے

۱۳/۲۲۵۳ وَعَنْ عَامِرِ الرَّامِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ يَغْنَى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ قَدِ انْتَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَرْتُ بِغِيْضَةِ شَجَرٍ فَمَسَمْتُ فِيهَا أَصْوَاتَ فِرَاحٍ طَائِرٍ فَأَخَذْتُهُنَّ فَوَضَعْتُهُنَّ فِي كِسَائِي فَجَاءَتْ أُمُّهُنَّ فَاسْتَدَارَتْ عَلَى رَأْسِي فَكَشَفْتُ لَهَا عَنْهُنَّ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِنَّ فَلَفَفْتُهُنَّ بِكِسَائِي فَهُنَّ أَوْلَاءٌ مَعِيَ قَالَ ضَعْنَهُنَّ فَوَضَعْتُهُنَّ وَابَتْ أُمُّهُنَّ إِلَّا لَزُوْمَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَعَجَّبُونَ لِرَحْمِ أُمِّ الْاَفْرَاحِ فِرَاحِهَا قَوْلَ الْاَلِدَى بَعْنَى بِالْحَقِّ اَللَّهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ اُمِّ الْاَفْرَاحِ بِفِرَاحِهَا اِرْجِعْ بِهِنَّ حَتَّى تَضَعْنَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُنَّ وَأُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ فَرَجَعَ بِهِنَّ۔ (رواه ابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۱۸۲/۳ حدیث رقم ۳۰۸۹۔

ترجمہ: عامر بن انداز سے روایت ہے کہ میں اس وقت نبی کریم ﷺ کے نزدیک تھا۔ کہ اچانک ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں کملی تھی اور اس کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی اس پر کملی لپیٹ رکھی تھی اس نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ میں درختوں کے پاس سے گزرا۔ اس میں سے میں نے جانوروں کے بچوں کی آوازیں سنی۔ میں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو میں نے اپنی کملی میں رکھ لیا۔ پھر بچوں کی ماں میرے پاس آئی میرے سر پر پھرنے لگی۔ پس میں نے ماں کے لیے بچوں کے اوپر سے کملی کھول دی۔ تاکہ بچوں کو دیکھ لے۔ پس وہ ان پر آ پڑی۔ پھر میں نے ماں اور بچوں کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا پس یہ سب میرے پاس ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا رکھ دے پس میں نے ان کو رکھ دیا ان کو کھول دیا اور ان کی ماں نے

سوائے ان سے چمٹنے کے ہر چیز چھوڑ دی۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا تم بچوں کی ماں کے رحم کرنے کے بارے میں تعجب کرتے ہو؟ پس قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے بہ نسبت بچوں والی ماں کے جو اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے پھر فرمایا ان کو لے جا یہاں تک کہ رکھ دے جہاں سے تو نے ان کو پکڑا تھا حالانکہ ان کی ماں اس کے ساتھ ہو۔ پھر وہ ان کو لے گیا۔ اس روایت کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ۴۰ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ ﷺ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے تھے حتیٰ کہ پرندوں کو بھی بے چین دیکھا تو صحابی کو حکم دیا کہ ان کو ان کی جگہ پر رکھ دو۔

الفصل الثالث:

اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر خصوصی رحمت

۱۳/۲۵۴ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فَمَرَّ بِقَوْمٍ فَقَالَ مِنَ الْقَوْمِ قَالُوا نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ وَأَمْرًا تَخْضِبُ بِقُدْرِهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَإِذَا ارْتَفَعَ وَهَجٌ تَنَحَّتَ بِهِ قَاتِلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ يَا بَنِي أَنْتَ وَامْنِ الْيَسَّ اللَّهُ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ قَالَ بَلَى قَالَتْ الْيَسَّ اللَّهُ أَرْحَمَ بَعَادِهِ مِنَ الْأُمِّ يَوْلِدُهَا قَالَ بَلَى قَالَتْ إِنَّ الْأُمَّ لَا تُلْقِي وَلَدَهَا فِي النَّارِ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ يَبْكِي ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الْمَارِدَ وَالْمُتَمَرِّدَ وَالَّذِي يَتَمَرَّدُ عَلَى اللَّهِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - (رواه ابن ماجه)

اخرجه ابن ماجه في السنن ۱۴۳۶/۲ حديث رقم ۴۲۹۷۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ کسی غزوہ میں تھے پھر حضور ﷺ کا گزرا ایک قوم پر ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم مسلمان ہیں اور ایک عورت ہانڈی کے نیچے آگ جلاتی تھی اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جس وقت آگ کی لپٹ اٹھتی وہ لڑکے کو دوڑ کر لیتی یعنی تاکہ آگ کی گرمی سے رنج نہ اٹھائے پھر وہ عورت نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور اس نے کہا تم خدا کے رسول ہو؟ فرمایا: ہاں۔ اس عورت نے کہا میری ماں اور میرا باپ تم پر قربان ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں میں سے بہت زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے؟ فرمایا کہ ہاں! اس عورت نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے ماں سے اپنے بچے کے ساتھ؟ فرمایا کہ ہاں! اس عورت نے کہا کہ تحقیق ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی۔ پس نبی کریم ﷺ نے روتے ہوئے اپنا سر جھکایا پھر اس عورت کی طرف اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو (ہمیشہ) عذاب نہیں کرتا مگر سرکشی کرنے والے کو ایسی سرکشی پر کہ وہ اللہ تعالیٰ پر سرکشی کرے یعنی اس کے حکم کے خلاف کرے اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا انکار کرے۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ۴۱ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ماں سے بھی بہت

زیادہ جو اپنے بچے سے والہانہ محبت رکھتی ہے۔

نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے

۱۵/۲۲۵۵ وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ مَرْضَاةَ اللَّهِ فَلَا يَزَالُ بِذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِحَبْرَيْلَ إِنَّ فَلَانًا عَبْدِي يَلْتَمِسُ أَنْ يُرَضِّيَنِي إِلَّا وَإِنَّ رَحْمَتِي عَلَيْهِ لَيَقُولُ حَبْرَيْلُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى فَلَانٍ وَيَقُولُهَا حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتَّى يَقُولَهَا أَهْلُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ثُمَّ تَهْبِطُ لَهُ إِلَى الْأَرْضِ - (رواه احمد)

اخرجه احمد في المسند ۲۷۹/۵۔

ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق نیک بندہ اللہ کی مرضی (رضا) تلاش کرتا ہے یعنی نیکیوں کو ادا کرنے کے ساتھ پھر ہمیشہ اس کو تلاش کرتا رہتا ہے پس اللہ تعالیٰ جبریل کو فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ تلاش کرتا ہے یہ کہ وہ مجھ کو راضی رکھے۔ خبردار میری رحمت کاملہ اس پر ہے پھر جبریل علیہ السلام کہتا ہے کہ خدا کی رحمت فلاں پر ہوا اور یہی بات عرش کے اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں اور وہ فرشتے بھی کہتے ہیں جو ان کے گرد ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس بات کو ساتویں آسمانوں کے فرشتے کہتے ہیں پھر اس شخص کے لیے رحمت زمین کی طرف اترتی ہے۔ اس کو امام احمد نے نقل کیا ہے۔

تفسیر: اس حدیث پاک میں جو رحمت کے اترنے کا ذکر آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھی جاتی ہے یعنی لوگ اس کو عزیز رکھتے ہیں یعنی پسند کرتے ہیں اور یہ مذکورہ حدیث اس حدیث کی طرح ہے جس میں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں تو جبریل آسمان سے پکار کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کو پسند کرتا ہے۔ تو بھی اس کو دوست رکھو۔ پھر جبریل علیہ السلام بھی اس کو پسند کرتے ہیں پھر جبریل آسمان میں پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کو پسند کرتا ہے پس تم اس کو دوست رکھو۔ پس آسمان والے اس کو دوست رکھتے ہیں پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت ہو جاتی ہے یعنی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دشمن رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو پکارتا ہے کہ میں فلاں کو دشمن رکھتا ہوں۔ تو بھی اس کو دشمن رکھو پھر اس کو جبریل علیہ السلام دشمن رکھتا ہے پھر آسمان والوں میں پکارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کو دشمن رکھتا ہے پس تم اس کو دشمن رکھو پھر وہ اس کو دشمن رکھتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں دشمنی رکھی جاتی ہے یعنی لوگ اس کو دشمن رکھتے ہیں انتہی۔ یہی سبب ہے اولیاء اللہ کی شہرت اور قبولیت کا کہ سب ان کو پسند کرتے ہیں اور وہ کمزور فریب کے ساتھ اور مال خرچ کر کے عوام کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں وہ دائرہ اعتبار سے خارج ہیں۔

ایمان والا ہر حال میں جنتی ہے خواہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو

۱۶/۲۲۵۶ وَعَنْ أَسَمَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ تَلَفَسَ بِهِ

وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ قَالَ كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ - (رواہ البیہقی فی کتاب البعث والنشور)

رواہ البیہقی فی کتاب البعث والنشور۔

ترجمہ: اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اللہ عزوجل کے قول کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ بعض ان میں سے اپنے نفس کے واسطے ظالم ہیں اور بعض ان میں سے میانہ روی ہیں یعنی میانہ روی کرنے والے ہیں اور بعض ان میں سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ فرمایا: یہ بہشت میں ہیں۔ اس کو بیہقی رحمہ اللہ نے بحث و نشور میں نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا ہے شروع سے آیت یوں ہے: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو ایمان و اسلام کے لحاظ سے اپنے بندوں میں سے چنا۔ پس بعض برگزیدہ بندوں میں سے وہ ہیں کہ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں یعنی منہیات کے مرتکب ہوتے ہیں اور بعض ان میں سے میانہ روی کرتے ہیں یعنی نیکی بھی کرتے ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں اور بعض ان میں سے بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں یعنی علم سیکھنے اور عمل کرنے میں نہایت جدوجہد کرتے ہیں اور علم و عمل کے باوجود دوسروں کو تعلیم و نصیحت بھی کرتے ہیں اور حسن بھری کہتے ہیں کہ سبقت کرنے والا وہ ہے کہ جس کی نیکیاں برائیوں پر غالب ہوں اور میانہ روی کرنے والا وہ ہے کہ جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں اور ظالم وہ ہے جس کی برائیاں نیکیوں پر غالب ہوں۔ یہ تینوں قسمیں پسندیدہ بندوں کی ہیں وہ سب مراتب اور درجات کے تفاوت کے حساب سے بہشت میں داخل ہوں گے اور اس سے رحمت باری تعالیٰ کی فراخی معلوم ہوئی۔

بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ وَالْمَنَامِ

صبح، شام اور سوتے وقت پڑھی جانے والی دُعاؤں کا بیان

الفصل الاول:

آپ ﷺ سے منقول صبح و شام کی دُعا میں

۱/۲۵۷ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُمْسَى قَالَ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسَوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ - (رواہ مسلم)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱/۱ حدیث رقم ۶۳۶۵۔ و مسلم فی صحیحہ ۲۰۸۸/۴ حدیث رقم (۷۴-۲۷۲۳)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جس وقت شام کرتے تھے فرماتے تھے کہ ہم شام میں داخل ہوئے اور ملک شام میں داخل ہوا۔ اس حال میں کہ ملک اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے الہی! تحقیق میں اس رات کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی جو اس میں ہے تجھ سے مانگتا ہوں جو چیز رات میں پیدا ہوتی ہے اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ (یعنی تجھ سے) اس رات کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں ہے اے الہی! میں نیکی کرنے میں کامیابی سے اور نہایت بڑھاپے سے کہ بعض قویٰ میں خلل آجائے اور بڑھاپے کی برائی سے یعنی عقل جاتی ہے اور وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے برا حال پیدا ہو تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اور میں دنیا کے فتنے سے یعنی دنیا کے فتنوں سے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے سے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور جس وقت حضور ﷺ صبح کرتے تھے تو جو کچھ شام میں پڑھتے تھے وہی سب کچھ صبح میں بھی پڑھتے تھے لیکن امسینا اور امسی الملک للہ کے بدلے اصبحنا واصبح الملک للہ اور ایک روایت میں سوء الکبیر کے یہ بھی ہے کہ اے میرے رب میں تیرے عذاب کے ساتھ کہ وہ دوزخ میں ہے اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ صبح و شام کے وہ دعائیں جو آپ ﷺ پڑھا کرتے تھے۔ صبح کے وظیفے میں اللیلۃ کی بجائے الیوم پڑھتے یعنی اس طرح اللہم انی اسئلك من خیر هذا الیوم اور مؤنث ضمائر پڑھتے یعنی ہا کی جگہ ہ پڑھتے۔

سوکر اٹھنے کی مسنون دُعا

۲/۲۲۵۸ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَىٰ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ - (رواه البخاری و مسلم عن البراء)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳/۱ حدیث رقم ۷۳۹۴۔ و ابوداؤد فی السنن ۳۱۱/۴ حدیث رقم ۵۰۴۹۔ و الترمذی فی السنن ۱۴۶/۵ حدیث رقم ۳۴۷۷۔ و ابن ماجہ فی السنن ۱۲۷۷/۲ حدیث رقم ۳۸۸۰۔ و احمد فی المسند ۱۵۴/۵۔

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جس وقت بچھونے پر تشریف لاتے تھے۔ تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے پھر کہتے اے الہی! تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں یعنی سوتا ہوں اور جاگتا ہوں اور جس وقت جاگتے۔ تو کہتے سب تعریفیں اس خدا کے واسطے ہیں کہ جس نے ہم کو ہمارے مارنے کے بعد جلایا (یعنی جگایا)۔ یعنی سلانے کے بعد اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں سوکر اٹھنے کی مسنون دُعا کا ذکر ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ اسی کی طرف رجوع ہے

یعنی موت کے بعد حساب اور جزا کے لیے قیامت کے دن اسی خدائے پاک کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔

الفصل الثانی:

سونے کا مسنون طریقہ

۳/۲۳۵۹ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَا خِلَةٍ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْدَرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَأَرْحَمَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَأَحْفَظْهَا بِهَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ لِيُطْطِجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقْلُ بِاسْمِكَ (متفق عليه) وَفِي رِوَايَةٍ فَلْيَنْفُضْ بِصِيفِهِ ثَوْبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لَهَا۔

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱۵/۱۱۔ حدیث رقم ۶۳۲۰۔ ومسلم فی صحیحہ ۲۰۸۴/۴۔ حدیث رقم (۶۴)۔
۲۷۱۴ (وابوداؤد فی السنن ۳۱۱/۴۔ والترمذی فی السنن ۱۳۹/۵۔ حدیث رقم ۳۴۶۱۔ وابن ماجہ ۱۲۷۵/۲۔ حدیث رقم ۳۸۷۴۔ والدارمی ۳۷۶/۲۔ حدیث رقم ۲۶۸۴۔ واحمد فی المسند ۲۹۵/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے پس اس کو چاہیے کہ اپنے بستر کو اپنی لنگی کے اندر کے حصے کے ساتھ جھاڑ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے بستر پر کیا چیز تھی اور پھر یہ دعا پڑھے: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَأَرْحَمَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَأَحْفَظْهَا بِهَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے بستر کو جھاڑے پھر اپنی داہنی کروٹ پر لیٹے اور پھر باسمک مذکورہ بالا دعا آخر تک پڑھے اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بستر کو اپنے کپڑے کے کونے سے تین مرتبہ جھاڑے اور اس روایت میں: وَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لَهَا یعنی مذکورہ بالا دعا میں فارحما کے بجائے فاغفر لہا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں سونے کا مسنون طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی سونے کے لیے جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بستر جھاڑ لے کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں بستر پر کیا چیز آ پڑی ہے۔

سونے کے لیے بستر کو جھاڑنا مسنون ہے

۴/۲۳۶۰ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَاءَتْ ظَهْرِي إِلَيْكَ وَرَغَبَ إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ

الَّذِي أَرْسَلْتَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ هُنَّ ثَمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ يَا فُلَانُ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَتَوَضَّأَ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ إِلَى قَوْلِهِ أَرْسَلْتَ وَقَالَ فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلِكَ مِتُّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتُ أَصْبَحْتُ خَيْرًا - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۶۲/۱۳ - حدیث رقم ۷۴۸۸ - ومسلم فی صحیحہ ۲۰۸۱/۴ حدیث رقم (۵۶) - (۲۷۱۰) - والترمذی فی السنن ۱۳۵۰/۵ حدیث رقم ۲۳۴۵۴ - وابن ماجہ ۱۲۷۵/۲ حدیث رقم ۳۸۷۶ - والدارمی ۳۷۶/۲ حدیث رقم ۲۶۸۳ - واحمد فی المسند ۲۸۵/۴ -

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب اپنے بستر پر سوتے تو دائیں کروٹ پر سوتے تھے اور سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَنَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي اَرْسَلْتَ - آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سونے سے پہلے ان کلمات کو پڑھا اور پھر وہ اسی رات مر گیا - تو وہ دین اسلام پر مرا - ایک اور روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص سے فرمایا: اے فلاں شخص! جب تم اپنے بستر پر لیٹو تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرو اور پھر دائیں کروٹ پر لیٹو اور اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي سے اَرْسَلْتَ تک پڑھو - یعنی مذکورہ بالا دعا پڑھو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس رات تمہاری موت واقع ہو جائے تو تم دین اسلام پر مردے اور اگر تم نے صبح کر لی تو بہت زیادہ بھلائیوں کو پا لو گے -

۵/۲۲۶۱ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَّفَنَا وَأَوَانَا وَمَنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوَى - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۰۸۵/۴ حدیث رقم (۶۴) - (۷۱۵) - وابوداؤد فی السنن ۳۱۲/۳ حدیث رقم ۵۰۵۳ - والترمذی ۱۳۶/۵ حدیث رقم ۳۴۵۶ -

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یہ کہتے: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَّفَنَا وَأَوَانَا وَمَنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوَى - (مسلم)

۶/۲۲۶۲ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُرُ إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدَيْهَا مِنَ الرَّحْمَى وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ دُفِيقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ لَدَكْرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ قَالَ لَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَدَعَبْنَا نَقْرُومَ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا لَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بُرْدًا لَدَيْهِ عَلَى بَطْنِي فَقَالَ أَلَا أَوْلَاكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبِّحَا قَلِيلًا وَقَلِيلَيْنِ وَاحْمَدَا قَلِيلًا وَقَلِيلَيْنِ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَقَلِيلَيْنِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۰۶/۹۱ - حدیث رقم ۵۳۶۱ - ومسلم ۲۰۹۱/۴ حدیث رقم (۸۰) - (۲۷۲۷) - وابوداؤد فی السنن ۳۱۵/۴ حدیث رقم ۵۰۶۲ - والترمذی ۱۴۲/۵ حدیث رقم ۳۴۶۹ - واحمد ۸۰/۱ -

ترجمہ: ”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ (میری زوجہ محترمہ اور نبی کریم ﷺ کی صاحبزادی) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کے ہاں اس غرض سے حاضر ہوئیں کہ بچہ پینے کی وجہ سے ان کے ہاتھ جس زحمت و مشقت میں مبتلا تھے اس کی شکایت آنحضرت ﷺ سے کریں (اور کوئی خدمتگار مانگیں) کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا تھا کہ آنحضرت ﷺ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں مگر (اس وقت) آپ ﷺ سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی چنانچہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس کا تذکرہ کیا (یعنی ان سے کہا کہ جب آنحضرت ﷺ تشریف لائیں تو کہہ دیجئے گا کہ فاطمہ اپنی مشقت و تکلیف کے پیش نظر ایک غلام مانگنے حاضر ہوئی تھی) پھر جب آنحضرت ﷺ تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پیغام آپ ﷺ تک پہنچا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آنحضرت ﷺ ہمارے ہاں اس وقت تشریف لائے جب کہ ہم اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے (آپ ﷺ کو دیکھ کر ہم نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اپنی جگہ پر لیٹے رہو“ پھر آپ ﷺ ہمارے نزدیک) تشریف لائے اور میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان بیٹھ گئے یہاں تک کہ میں نے اپنے پیٹ پر آپ ﷺ کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک محسوس کی پھر آپ ﷺ نے فرمایا (مجھے فاطمہ کا پیغام مل گیا ہے) کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو اس چیز (یعنی غلام) سے بہتر ہے جو تم نے مانگی تھی اور وہ یہ کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد للہ اور چونتیس بار اللہ اکبر کو تمہارے لئے خادم سے یہ چیز بہتر ہے۔“ (بخاری و مسلم)

۷/۲۲۶۳ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ عَاقِدًا فَقَالَ لَا أَذْكَكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ عَاقِدٍ تُسَبِّحِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَتَلَايَيْنَ وَتَحْمَدِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَتَلَايَيْنَ وَتُكَبِّرِينَ اللَّهَ أَرْبَعًا وَتَلَايَيْنَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَعِنْدَ مَنَامٍ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۰۹۲/۴ حدیث رقم (۸۱-۲۷۲۸)۔

ترجمہ: ”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اس مقصد سے حاضر ہوئیں کہ آپ ﷺ سے کوئی خادم مانگیں لیکن آپ ﷺ سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ جب آنحضرت ﷺ کو یہ معلوم ہوا تو آپ ﷺ (حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو خادم سے بہتر ہے۔ (اور وہ یہ ہے کہ) ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت سبحان اللہ تینتیس بار اور الحمد للہ تینتیس بار اور اللہ اکبر چونتیس بار پڑھ لیا کرو۔“

الفصل الثانی:

صبح و شام کی دُعا

۸/۲۲۶۴ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَإِذَا أَمْسَى قَالَ اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ - (رواه الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۳۱۷/۴ حدیث رقم ۵۰۶۸۔ والترمذی ۱۳۴/۵ حدیث رقم ۳۴۵۱۔ وابن ماجہ ۱۲۷۳/۲ حدیث رقم ۳۸۶۸۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جس وقت صبح کرتے تو کہتے اے الہی! ہم نے تیرے نام اور قدرت کے ساتھ صبح کی اور تیری قدرت کے ساتھ ہم نے شام کی اور تیرے نام کے ساتھ ہم جیتے ہیں یعنی زندہ ہوتے ہیں اور تیرے نام کے ساتھ ہم مرتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے اور جس وقت شام کرتے تھے تو کہتے تھے الہی تیری قدرت کے ساتھ ہم نے شام کی اور تیری قدرت کے ساتھ ہم نے صبح کی اور تیری مدد کے ساتھ ہم زندہ رہتے ہیں اور تیری مدد کے ساتھ ہم مرتے ہیں اور تیری طرف ہی اٹھنا ہے یعنی مرنے کے بعد۔ اس کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں آپ ﷺ کی صبح و شام کی دعا کا بیان ہے جو آپ ﷺ اپنے معمول کے مطابق پڑھا کرتے تھے اور امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ اس سنت پر عمل کر کے دو جہانوں کے منافع کو سمیٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ ثم آمین۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے تجویز کردہ وظیفہ

۹/۲۲۶۵ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكُمْ قُلُّهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ وَإِذَا أَخَذْتُ مَضَجَعَكَ۔ (رواه الترمذی و ابوداؤد والدارمی)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۳۱۷/۴ حدیث رقم ۵۰۶۷۔ والترمذی ۱۳۴/۵ حدیث رقم ۳۴۵۲۔ والدارمی ۳۷۸/۲ حدیث رقم ۲۶۸۹۔ واحمد فی المسند ۱۹۶/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول! مجھے ایک چیز کا حکم کیجیے میں اس کو ہمیشہ بطور ورد کے پڑھتا رہوں جس وقت میں صبح کروں اور جس وقت میں شام کروں۔ فرمایا کہ اے الہی! تو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اے ہر چیز کے رب اور ہر چیز کے مالک میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے میں تجھ سے اپنے نفس کی ہر برائی سے شیطان کی برائی سے اور شیطان کے شریک کروانے سے پناہ مانگتا ہوں تو اس کو جس وقت صبح کرے کہہ لے اور جس وقت تو شام کرے اور جس وقت تو اپنے سونے کی جگہ پر جائے۔ اس کو امام ترمذیؒ اور ابوداؤد اور دارمیؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ ورد کرنے کے لیے آنحضرت ﷺ سے وظیفہ پوچھا۔ تو آپ ﷺ نے ان کیلئے یہ وظیفہ تجویز فرمایا: اللَّهُمَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكُمْ اور فرمایا سوتے جاگتے یہ وظیفہ پڑھتے رہیں۔

مذکورہ دُعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے حفاظت میں رکھتا ہے

۱۰/۲۲۶۶ وَعَنْ ابَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ فَكَفَانَ أَبَانَ قَدْ أَصَابَهُ طَرَفٌ فَالَجَّ فَبَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبَانَ مَا تَنْظُرُ إِلَى أَمَّا إِنَّ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ وَلَكِنَّ لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ لِيَمْضِيَ اللَّهُ عَلَى قَدْرَةٍ (رواه الترمذی وابو داؤد وابن ماجہ وفی روايته) لَمْ تُصِبْهُ فُجَاءَةٌ بَلَاءٌ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ تُصِبْهُ فُجَاءَةٌ بَلَاءٌ حَتَّى يَمُوتَ -

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۲۳/۴ حدیث رقم ۵۰۸۸۔ والترمذی ۱۳۲/۵ حدیث رقم ۳۴۴۸۔ وابن ماجہ ۱۲۷۳/۲

حدیث رقم ۳۸۶۹۔ واحمد فی المسند ۶۲/۱۔

حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہتے تھے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر روز صبح کے وقت اور ہر رات شام کے وقت کہے کہ میں نے اللہ کے نام کے ساتھ صبح کی اور میں نے اس کے نام کے ساتھ شام کی کوئی چیز زمین و آسمان میں ضرر نہیں کرتی اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے اس کو تین بار کہے یعنی جو کوئی صبح و شام اس دُعا کو تین بار پڑھ لے۔ تو کوئی چیز زمین و آسمان میں اس کو ضرر نہیں پہنچائے گی اور نہ ہی اس کو کوئی آفت پہنچے گی۔ پس ابان ان کو ایک قسم کی فالج کی بیماری پہنچی تھی پس سننے والے شخص نے ابان کو بہ نگاہ تعجب دیکھنا شروع کیا۔ یعنی ازراہ تعجب کے دیکھتا تھا کہ یہ روایت کرتے ہیں جو کوئی اس دُعا کو پڑھے گا اس کو کچھ ضرر نہیں پہنچے گا اور خود فالج کی بیماری میں گرفتار ہے پس ابان نے کہا تو میری طرف کیا دیکھتا ہے؟ خبردار ہو جاؤ! تحقیق حدیث اسی طرح ہے جس طرح میں نے تجھ سے بیان کی ہے یعنی صحیح ہے لیکن میں نے اس دن وہ دعا نہیں پڑھی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی تقدیر جاری کرے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے: لم تُصِبْهُ فُجَاءَةٌ بَلَاءٌ: جو شخص یہ دُعا ہر شام کو تین بار پڑھے اس کو صبح تک ناگہانی مصیبت نہیں پہنچتی اور جو شخص صبح کے وقت اس دُعا کو پڑھے اس کو شام تک ناگہانی مصیبت نہیں پہنچتی۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص یہ مذکورہ دُعا صبح کے وقت یا شام کے وقت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ ابان کہتے ہیں کہ جس دن مجھے فالج ہوا میں نے یہ دُعا نہیں پڑھی تھی۔ اس دُعا کی اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو ہر بیماری سے حفاظت میں رکھتے ہیں۔

صبح و شام کی دُعا

۱۱/۲۲۶۷ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَى أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ

أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ
أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوءِ الْكِبَرِ أَوْ الْكُفْرِ وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ سُوءِ الْكِبَرِ وَالْكِبَرِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ
عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ

(رواه الترمذی و ابوداؤد وفی روایۃ لم يذكر من سوء الكفر)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۲۰۸۸/۴ حدیث رقم (۷۴-۲۷۲۳)۔ و ابوداؤد فی السنن ۳۱۷/۴ حدیث رقم ۵۰۷۱۔
و الترمذی ۱۳۳/۵ حدیث رقم ۳۴۵۰۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب شام کرتے تو فرماتے تھے کہ ہم نے شام کی
اور ملک اللہ کے واسطے شام میں داخل ہوا اور تمام تعریفیں خدا کے واسطے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک
نہیں ہے۔ اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے میرے پروردگار! میں تجھ
سے اس چیز کی بھلائی مانگتا ہوں جو اس شب میں واقع ہو اور اس چیز کی بھلائی جو اس شب کے بعد واقع ہو اور میں تیرے
ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے کہ جو اس رات میں واقع ہو اور اس چیز کی برائی سے کہ جو اس رات کے بعد واقع
ہو۔ اے میرے پروردگار! میں تجھ سے کاہلی سے (یعنی عبادت میں سستی سے) اور بڑھاپے کی برائی سے یا کہا کہ کفر کی
برائی سے پناہ مانگتا ہوں اور ایک روایت میں آیا ہے کہ میں تجھ سے بڑھاپے کی برائی سے اور تکبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے
میرے پروردگار! میں تجھ سے دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور جس وقت آپ ﷺ صبح
کرتے تو اس کو کہتے یعنی جو شام کے وقت صبح کے وقت بھی پڑھتے لیکن امسینا اور امسی المملک للہ کی بجائے
اصبحنا واصبح المملک للہ پڑھتے۔ اس کو ابوداؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور ترمذی کی روایت میں من سوء
الکفر کا ذکر نہیں ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں آپ ﷺ کی صبح و شام کے وقت دُعا پڑھنے کا ذکر ہے کہ آپ
ﷺ صبح و شام مذکورہ دُعاے مسنونہ پڑھا کرتے تھے۔

آپ ﷺ اپنی بیٹیوں کو دُعا سکھلاتے تھے جو کہ اوپر مذکور ہے

۱۲/۲۲۶۸ وَعَنْ بَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهَا
فَيَقُولُ قَوْلِي حِينَ تَصْبِحِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ
أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ حَفِظَ
حَتَّى يُمُتَّى وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمُتَّى حَفِظَ حَتَّى يُصْبِحَ (رواه ابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۳۱۹/۴ حدیث رقم ۵۰۷۵۔

ترجمہ: نبی کریم ﷺ کی بعض بیٹیوں سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ان کو سکھلاتے تھے۔ پس فرماتے کہ جس وقت تو
صبح کرے تو یہ دُعا پڑھا کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے اللہ کی مدد کے سوا قوت نہیں ہے کہ جو چاہا اللہ تعالیٰ

نے ہو گیا اور جونہ چاہا نہ ہوا اور میں جانتا ہوں یعنی اعتقاد رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو از روئے جاننے کے گھیر رکھا ہے۔ پس تحقیق جس شخص نے یہ کلمات صبح کے وقت کہے وہ شام تک بلاؤں اور خطاؤں سے محفوظ رہتا ہے اور جس نے شام کے وقت یہ کلمے کہے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ اس کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ آپ ﷺ اپنی بیٹیوں کو صبح و شام پڑھنے کے لیے دعا سکھایا کرتے تھے اور دُعا اور حدیث پاک میں مذکور ہے۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ كَسْبَحَانَ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ إِلَى قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ أَذْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي أَذْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَةٍ.

(رواه ابوداؤد)

انخرجه ابوداؤد ۳۱۹/۴ حدیث رقم ۵۰۷۶۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کے وقت کہے کہ اللہ پاک ہے جس وقت تم شام کرو اور جس وقت تم صبح کرو اور اسی کے لئے آسمانوں اور زمین میں تعریفیں ہیں اور پڑھو اس وقت کہ جب تم شام کرتے ہو یعنی مغرب اور عشاء کے وقت اور اس وقت کے صبح کرتے ہو اور اس کے لیے تعریف آسمانوں اور زمین میں ہے اور پانی کے ساتھ یاد کرو یا نماز پڑھو عصر کے وقت اور ظہر کے وقت اس قول تک وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ تک جس نے یہ آیتیں صبح کے وقت پڑھیں اس نے وہ چیز پائی جو اس کو اس دن نہ ملی تھی اس سے اس دن میں رہ گئی تھی اور جس نے یہ آیتیں شام کے وقت پڑھیں اس نے وہ چیز پائی جو اسے اس رات میں نہ ملی تھی۔ اس کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ تَظْهِرُونُ کے لفظ کے بعد آیت یوں ہے: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمُوتِ وَيُخْرِجُ الْمَمُوتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَمْوَاتَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے یعنی بچے کو مٹی اور انڈے سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے یعنی مٹی کو آدمی سے اور انڈے کو جانور سے اور زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے یعنی اس کے خشک ہونے کے بعد اس کو سرسبز و شاداب کرتا ہے اور اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے اور حدیث کا حاصل یہ ہے جو کوئی شخص یہ آیت صبح کو پڑھتا ہے تو جو بھلائی اور درد اس دن میں فوت ہو جاتا ہے اس کو اس کا ثواب دیا جاتا ہے اور اس طرح شام کے وقت کلمات پڑھنے سے رات کی بھلائی اور درد فوت ہونے کا ثواب پاتا ہے اور معالم التفریل میں لکھا ہے کہ نافع بن ارزق نے ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ کیا تم قرآن پاک میں پانچوں نمازوں کا ذکر پاتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اور پھر یہ دونوں آیتیں پڑھیں۔ یعنی فسیحان اللہ سے تظہرون تک اور کہا کہ ان آیتوں نے پانچوں نمازوں کو اور ان کے وقتوں کو قرآن میں جمع کیا ہے۔

مذکورہ وظیفہ پڑھنے سے غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے

١٣/٢٢٤٠ وَعَنْ أَبِي عِيَّاشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَحَدَّثَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِزٌّ رَاقِبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حَرْبٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمَسِّيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ قَرَأَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَى النَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا عِيَّاشٍ يُحَدِّثُ عَنْكَ بِكَذِّ وَكَذَّا قَالَ صَدَقَ أَبُو عِيَّاشٍ - (رواه ابو داود وابن ماجه)

اخرجه ابو داود في السنن ۳۱۹/۴ حديث رقم ۵۰۷۷۔ وابن ماجه ۱۲۷۳/۲ حديث رقم ۳۸۶۷۔

ترجمہ: ابو عیاشؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کے وقت کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہارا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے دس برائیاں دور کی جاتی ہیں اور اس کے لیے دس درجے بلند کئے جاتے ہیں اور شیطان سے یعنی اس کے شر کے بہکانے سے شام تک پناہ میں ہو جاتا ہے اور جس نے ان کلمات کو شام کے وقت پڑھا اس کے لیے اسی طرح صبح تک ہوتا ہے حماد بن سلمہ اس حدیث کا ایک راوی ہے پس ایک شخص نے رسول خدا ﷺ کو خواب میں دیکھا پس کہا اے اللہ کے رسول! تحقیق عیاش آپ ﷺ سے ایسی اور ایسی حدیث نقل کرتا ہے یعنی جو مذکور ہوئی ہے فرمایا ابو عیاشؓ نے سچ کہا ہے۔ اس کو ابو داود اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں جو وظیفہ ذکر کیا گیا ہے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص صبح کے وقت اس کو پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب لکھا جائے گا اور دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور دس برائیاں دور کی جائیں گی اور دس درجے بلند کئے جائیں گے اور وہ شیطان کے بہکانے سے پناہ میں رہے گا۔

مذکورہ دعا پڑھنے کی برکت سے آگ سے خلاصی کا وعدہ

۱۵/۲۲۷۱ وَأَعِنِ الْحَارِثَ بْنَ مُسْلِمٍ التَّمِيمِيَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَسْرَأَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا اَللَّهُمَّ اجْزِنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثَمَّ مِتُّ فِي لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِنْهَا وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذَلِكَ فَإِنَّكَ إِذَا مِتُّ فِي يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِنْهَا۔

اخرجه ابو داود في السنن ۳۲۰/۱۴ حديث رقم ۵۰۷۹۔

ترجمہ: حضرت حارث بن مسلمؓ تمیمی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے چپکے سے ان سے بات کہی۔ پس جس وقت تو مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائے تو کسی سے کلام کرنے سے پہلے سات بار کہہ اے الہی! تو مجھ کو آگ سے پناہ دے۔ پس تحقیق تو جس وقت یہ کہے گا اور اس

رات اگر مر گیا تو تیرے لیے آگ سے خلاصی لکھی جائے گی اور جس وقت توجہ کی نماز پڑھے پھر اس دعا کو کسی کلام کرنے سے پہلے کہے پس تحقیق اگر تو اس دن مر جائے گا تو تیرے لیے آگ سے خلاصی لکھی جائے گی۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں: اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر کسی سے بات کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔

مذکورہ دعا پر آپ ﷺ کی مواظبت

۱۶/۲۲۷۲ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِیْ دِیْنِیْ وَدُنْیَایْ وَآهْلِیْ وَمَالِیْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِیْ وَامِنْ رَّوْعَاتِیْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِیْ مِنْ بَیْنِ يَدَیْ وَ مِنْ خَلْفِیْ وَعَنْ يَمَیْنِیْ وَعَنْ شَمَالِیْ وَمِنْ فَوْقِیْ وَاعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِیْ یَعْنِی الْخُسْفِی . (رواہ ابو داؤد)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۱۸/۴ حدیث رقم ۵۰۷۴۔ وابن ماجہ ۱۲۷۳/۲ حدیث رقم ۳۸۷۱۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ان کلمات کو صبح کے وقت اور شام کے وقت چھوڑا نہیں کرتے تھے اے الہی! تحقیق میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے الہی! تحقیق میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور دین کے کاموں میں اور اپنی دنیا کے کاموں میں عیبوں سے سلامتی مانگتا ہوں۔ اپنے اہل اور مال کے حق میں تجھ سے سلامتی مانگتا ہوں۔ اے الہی! میرے عیبوں کو ڈھانک دے اور خوف کی چیزوں سے امن میں رکھ۔ یعنی مجھ سے بلائیں دور کر دے۔ اے الہی! مجھ کو میرے آگے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور بائیں سے اور میرے اوپر سے محفوظ رکھ اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری بڑائی سے کہ میں اچانک اپنے نیچے سے یعنی زمین میں دھنس جانے سے ہلاک کیا جاؤں۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ مذکورہ دعا پر مواظبت فرمایا کرتے تھے اور صبح و شام اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

مذکورہ کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے

۱۷/۲۲۷۳ اَوْعَنْ اَتَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ اَصْبَحْنَا نُسْهَدُكَ وَنُشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِیْعَ خَلْقِكَ اِنَّكَ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاَنْتَ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا اَصَابَهُ فِیْ یَوْمِهِ ذَلِكُمْ مِنْ ذَنْبٍ وَاِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِیْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا اَصَابَهُ فِیْ بَلَدٍ اِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبًا . (رواہ الترمذی و ابو داؤد و قال الترمذی هذا حدیث غریب)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۳۲۰/۴ حدیث رقم ۵۰۷۸۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کے وقت کہے اے الہی! ہم نے صبح کی اس حال میں کہ تیرے عرش کے اٹھانے والوں کو اور تیرے فرشتوں کو اور تیری سب مخلوقات کو اس بات کے ساتھ گواہ بناتے ہیں کہ تحقیق تو اللہ ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور تحقیق محمد ﷺ تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں۔ جو شخص بھی ان کلمات کو صبح کے وقت کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ بخش دیتا ہے جو اس سے اس دن و رات میں صادر ہوئے ہیں یعنی سوائے کبیرہ گناہوں اور حقوق العباد کے اور اگر ان کلمات کو شام کے وقت کہے اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ بخش دیتا ہے جو کہ اس سے اس رات میں صادر ہوئے ہیں۔ اس کو امام ترمذیؒ اور ابوداؤد نے نقل کیا ہے اور امام ترمذیؒ نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں مذکورہ کلمات کے صبح کے وقت پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جو شام کے وقت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رات کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔

صبح و شام کے پڑھنے کا وظیفہ

۱۸/۲۲۷۴ وَعَنْ قُتَيْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ إِذَا أَمْسَى وَإِذَا أَصْبَحَ ثَلَاثًا رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (رواه احمد والترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۳۳/۵ حدیث رقم ۳۴۴۹۔ وابن ماجہ ۱۲۷۳/۲ حدیث رقم ۳۸۷۰۔ واحمد فی المسند ۳۶۷/۵۔ ترجمہ: حضرت قوتب بن ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ مسلم شام کے وقت اور صبح کے وقت تین بار یہ کلمات کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رب ہونے کی حیثیت سے راضی ہوا اور اسلام کے ساتھ دین ہونے کی حیثیت سے راضی ہوا اور محمد (ﷺ) کے ساتھ نبی ہونے کی حیثیت سے راضی ہوا مگر ازراہ فضل و کرم کے اللہ تعالیٰ پر لازم ہوگا کہ اس کو قیامت کے دن راضی کرے گا یعنی اتنا ثواب دے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اس کو امام احمدؒ اور ترمذیؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ بعض حدیثوں میں لفظ نبیاً ہے اور بعض میں رسولاً کا لفظ آیا ہے پس مستحب ہے کہ دونوں لفظ نبیاً و رسولاً پڑھے۔

سوتے وقت نبی کریم ﷺ کی مسنون دُعا

۱۹/۲۲۷۵ وَعَنْ حَذِيفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فِينِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ أَوْ تَبْعُثُ عِبَادَكَ۔ (رواه الترمذی واحمد عن البراء)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۳۷/۵ خلیث رقم ۳۴۵۸۔ وابن ماجہ ۱۳۷۶/۲ حدیث رقم ۳۸۷۷۔

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جس وقت سونے کا ارادہ کرتے تھے اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھتے۔ پھر کہتے اے الہی! مجھ کو اپنے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا یا فرمایا تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا یعنی راوی کو شک ہوا ہے کہ تَجْمَعُ عَلَیْكَ کہا یا بجائے اس کے تَبْعُ عِبَادَكَ کہا۔ اس کو امام ترمذی نے احمد اور براء سے نقل کیا۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ دست مبارک سر کے نیچے رکھتے تھے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ رخسار کے نیچے رکھتے، تطبیق اس میں یوں دی جائے گی کہ کبھی سر کے نیچے رکھتے ہونگے اور کبھی رخسار کے نیچے رکھتے ہونگے جس راوی نے جو دیکھا وہ عمل روایت کر دیا یا کہ کچھ ہاتھ سر کے نیچے ہوتا اور کچھ رخسار کے نیچے ہوتا۔ پس ہر راوی نے اپنی دیکھی ہوئی چیز بیان کی۔

سونے کا مسنون طریقہ

۲۰/۲۲۷۶ وَعَنْ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خِدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ

اَللّٰهُمَّ فِیْ عَذَابِكَ یَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ۔ (رواہ ابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۳۱۰/۴ حدیث رقم ۵۰۴۵۔

ترجمہ: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب سونے کا ارادہ کرتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے گلے یعنی (رخسار گال) کے نیچے رکھتے۔ پھر تین بار کہتے: اے الہی! تو مجھ کو اپنے اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ اس کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں آپ ﷺ کے سونے کا مسنون طریقہ بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ حضور ﷺ کا معمول تھا کہ سونے سے قبل یہ دعا پڑھ کر سو جاتے۔

سوتے وقت آپ ﷺ کی مذکورہ دعا پڑھا کرتے تھے

۲۱/۲۲۷۷ وَأَعْنِ عَلَيَّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضَجِهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ

الْكُرْهِمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ إِحْدُ بِنَاصِيَتِهِ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْتَمَ اَللّٰهُمَّ لَا يَهْزَمُ

جُنْدُكَ وَلَا يُخْلَفُ وَعُدُّكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجِدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ۔ (رواہ ابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۳۱۲/۴ حدیث رقم ۵۰۵۲۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سوتے وقت فرماتے تھے اے الہی! تجھ میں تیری بزرگی کے ساتھ اور تیرے پورے کلمات کے ساتھ یعنی اسما و صفات کے ساتھ یا تیری کتابوں کے ساتھ اس چیز کی برائی سے کہ اس کی پیشانی کے بال پکڑنے والا ہے۔ یعنی جو چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے یعنی ہر چیز کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ الہی تو

قرض اور گناہ کو دور کرتا ہے۔ اے الہی! تیرا شکر شکست نہیں دیا جاتا۔ آخر الامر میں مغلوب نہیں ہوتا اور تیرا وعدہ خلاف نہیں کیا جاتا اور دولت مند کو تیرے عذاب سے دولت مندی نفع نہیں دیتی بلکہ عمل صالح نفع دیتے ہیں۔ تو پاک ہے اور میں تیری تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرتا ہوں۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ ہر وقت یہ مذکورہ دعا پڑھا کرتے تھے اور اوپر جو دعا مذکورہ ہوئی بڑی جامع ہے۔

استغفار کی فضیلت

۲۲/۲۲۷۸ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَأْتِي إِلَى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غُفِرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِغْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ أَوْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ أَوْ عَدَدَ ذَوْرَقِ الشَّجَرِ أَوْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا۔ (رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب)

احقر جہ الترمذی فی السنن ۱۳۷/۵ حدیث رقم ۳۴۵۷۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بچھونے پر جاتے ہوئے کہے: میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں ایسا کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہ مخلوق کی زندہ خبر رکھنے والا ہے اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ تین بار کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اگرچہ وہ دریا کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت (عالج) کے ذروں کے برابر یا درخت کے چوں کی تعداد کے برابر یا دنیا کے دنوں کی گنتی کے برابر۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں عالج کا لفظ آیا ہے یہ لفظ لام کے زبر اور زیر کے ساتھ ہے اور یہ ایک جنگل کا نام ہے مغرب کی زمین میں وہاں ریت بہت ہوتی ہے اور غرض ان چیزوں کے بیان سے یہ ہے اگر بہت زیادہ گناہ ہو گئے تو بھی بخشے جائیں گے۔

قرآن کی سورۃ کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمادیتے ہیں

۲۳/۲۲۷۹ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ يَقْرَأُ فِيهِ سُورَةَ مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا فَلَا يَقْرَأُ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَهَبَ مَنَىٰ هَبًا۔ (رواه الترمذی)

احقر جہ الترمذی فی السنن ۱۴۱/۵ حدیث رقم ۳۴۱۸۔

ترجمہ: حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو کوئی مسلمان اپنی آرامگاہ میں (سونے کے وقت) قرآن مجید کی کسی سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے تاکہ ضرر پہنچانے والی چیزوں سے اس کی حفاظت کرے۔ پس جب تک وہ بیدار نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی چیز اس کو ضرر و نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿۱۰﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کتاب اللہ کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے جو اس کی نگہبانی کرتا ہے اور ضرر دینے والی چیزوں سے بچا کر رکھتا ہے اور انس و جنوں سے بطریق مرفوع ایک روایت منقول ہے کہ جب کوئی شخص اپنا پہلو بچھونے پر رکھے اور فاتحہ الکتاب اور قل ھو اللہ احد پڑھے، پس تحقیق وہ موت کے سوا ہر چیز سے امن میں رہے گا۔

نماز کے بعد اور سوتے وقت تسبیحات کا بیان

٢٢٨٠/٢٣ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّتَانِ لَا يَخْصِمُهُمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِلَّا وَمَا يَسِيرُ وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيَكْبِّرُهُ عَشْرًا قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ قَالَ فِئْتِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةً بِاللِّسَانِ وَالْفُ فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَخَذَا مَضْجَعَهُ يُسَبِّحُهُ وَيَكْبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ مِائَةً فِئْتِكَ مِائَةً بِاللِّسَانِ وَالْفُ فِي الْمِيزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ الْفُي وَخَمْسَ مِائَةٍ سَبْتَةٍ قَالُوا وَكَيْفَ لَا نُحْصِيهِمَا قَالَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا حَتَّى يَفْقِئَ فَلَغَلَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ وَيَأْتِيهِ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يَنْوِمُهُ حَتَّى يَنَامَ (رواه الترمذى وابوداود والنسائى وفى رواية ابى داود) قَالَ خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَالْفُ وَخَمْسَ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ يَكْبُرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَفِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -

اخرجه ابوداؤد ۳۱۶۱۴ حدیث رقم ۵۰۶۵۰۔ والترمذی فی السنن ۱۴۳۵۰ حدیث رقم ۳۴۷۱۔ واخرجه النسائی ح۔۔۔۔۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر جو مسلمان مرد محافظت کرتا ہے بہشت میں داخل ہوتا ہے یعنی نجات پانے والوں کے ساتھ داخل ہوگا۔ خبردار ہو جاؤ وہ دونوں چیزیں آسان ہیں۔ (اس طور پر کہ اللہ ان چیزوں پر عمل کرنا جن لوگوں کے لئے آسان کر دے ان لوگوں کے لئے وہ چیزیں مشکل نہیں ہیں) مگر ان پر کام کرنے والے کم ہیں یعنی اللہ کی توفیق نہ ہونے کے باعث ان پر مداومت کرنے والے نادر ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکی کے ساتھ اللہ کو یاد کرے یعنی ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ دس بار پڑھے اور خدا کی حمد کرے یعنی الحمد للہ کہے دس مرتبہ اور اللہ اکبر کہے دس مرتبہ۔ ابن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا ہے پس میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا ہے کہ وہ ان تسبیحات کو اپنے ہاتھوں سے گنتے تھے یعنی اگلیوں پر حضور ﷺ نے فرمایا یہ ڈیڑھ سو ہیں یعنی پانچوں نمازوں کی وجہ سے زبان پر اور ڈیڑھ ہزار میزان میں ہیں یعنی میزان اعمال میں اس کے حساب سے کہ ہر نیکی دس کے برابر لکھی جاتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب سونے کے لیے بستر پر جائے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے اور بہت زیادہ تکبیر کہے اور جو شخص سبحان اللہ کو سو (۱۰۰) بار پڑھے گا یعنی سبحان اللہ ۳۳ بار اور اللہ اکبر چونتیس مرتبہ اور الحمد للہ ۳۳ مرتبہ سب مل کر سو (۱۰۰)

مرتبہ ہو جائے پس یہ سو (۱۰۰) مرتبہ زبان پر ہے اور میزان و اعمال میں ہزار ہیں پس تم میں سے کون شخص ہے جو دن رات میں اڑھائی ہزار برائیاں کرتا ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہم کس طرح ان چیزوں پر محافظت کریں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جب شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنی نماز میں ہوتا ہے پھر شیطان کہتا ہے فلائی چیز کو یاد کر فلائی چیز کو یاد کر یعنی امور دنیا اور احوال نفسانیہ سے یا جو کچھ کہ نماز کے ساتھ متعلق نہیں اگرچہ امور آخرت سے ہو۔ یہاں تک کہ نماز پڑھ کر پھرتا ہے پس شاید کہ وہ ان کلمات پر محافظت کرے اور شیطان اس کی خوابگاہ میں آتا ہے۔ پس ہمیشہ سلاتا رہتا ہے اس کو یہاں تک کہ سو جاتا ہے اس کو امام ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد کی روایت میں اختلاف ہے بعض لفظوں میں اسی طرح ہے آیا ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا دو خصلتیں ہیں یا فرمایا دو خصلتیں ہیں۔ راوی کو شک ہو گیا ہے کہ وہ لفظ فرمایا یا یہ یعنی دونوں ایک ہی ہیں یعنی دو چیزیں ہیں کہ ان پر مسلمان بندہ محافظت نہیں کرتا بجائے لَا يَخْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ کے لَا يَحْفِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ کے اور اسی طرح سے ابو داؤد کی روایت میں ہے ان کے قول کے پیچھے وَالْفُ وَخُمْسُ مَائَةٍ فِي الْمِيزَانِ کے اس طرح ہے کہ فرمایا اور تکبیر کہے چونتیس مرتبہ جس وقت اپنے سونے کی جگہ پر آئے اور تینتیس مرتبہ حمد کرے اور تسبیح کرے ۳۳ مرتبہ اور مصابیح کے اکثر نسخوں میں عبد اللہ بن عمر ہے یعنی یہ اور فائدہ ذکر کیا گیا ہے کہ مؤلف نے عبد اللہ بن عمر و بن العاص سے یہ حدیث نقل کی ہے اور مصابیح کے اکثر نسخوں میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے۔

تشریح ﴿﴾ پس حدیث پاک میں لفظ کون تم میں سے آیا ہے الخ یہ شرط محذوف کا جواب ہے اور استفہام میں ایک طرح کا انکار ہے جب اس نے دونوں چیزوں کی محافظت کی ایک دن رات میں اڑھائی ہزار نیکیاں حاصل ہوئیں تو اس سے برائیاں معاف کی جاتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ پس کون تم میں سے دن رات میں نیکیوں سے زیادہ برائیاں کرتا ہے کہ ان سے معاف نہ ہوں پس تمہیں کیا ہے کہ تم ان پر محافظت نہ کرو حاصل یہ کہ نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہوتی ہیں ان سے گناہ جھڑ جاتے ہیں نیکیوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے درجے بلند ہوتے ہیں تمہیں چاہیے کہ ان پر محافظت کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ جب اتنا ثواب ہوتا ہے تو ہم ان پر محافظت کیوں نہ کریں گویا کہ انہوں نے ان کے ترک کو بعید جانا۔ پس حضور ﷺ نے ان کے استبعاد یعنی بعید جانے کو رد کیا۔ شیطان نماز میں وسوسے ڈالتا ہے یہاں تک کہ نماز کے بعد ذکر سے غافل کر دیتا ہے اور ذکر سے غافل کر کے سلائے رکھتا ہے۔

صبح و شام کے وقت مذکورہ دُعا پڑھنے کی فضیلت

۲۵/۲۲۸۱ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَنَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ بَاحِدٍ مِنْ خَلْقِكَ لِمَنْكَ وَحَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ آذَى شُكْرُ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي فَقَدْ آذَى شُكْرَ لَيْلِهِ۔ (رواہ ابو داؤد)

اخرجہ ابو داؤد فی السنن ۳۱۶/۴ حدیث رقم ۵۰۷۳۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن غنام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کسی کے وقت کہے اے

الہی! جو چیز مجھ کو صبح کے وقت نعمت میں سے یعنی دینی اور دنیاوی اور ظاہری اور باطنی یا تیری کسی مخلوق کی طرف سے حاصل ہوئی۔ پس تیری ہی طرف سے ہے۔ تو تھا ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پس تیرے ہی لیے تعریف ہے اور تیرے لیے شکر ہے پس جو شخص یہ دُعا صبح کے وقت پڑھے پس تحقیق اس نے اس دن کا شکر ادا کیا اور جو شخص اسی کی طرح (یعنی یہی دُعا) شام کے وقت پڑھے پس تحقیق اس نے رات کا شکر ادا کیا۔ اس کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص شام کے وقت یہ دُعا پڑھے تو لفظ صبح کے بجائے لفظ اسی کہے اور روایات میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار تیری نعمتیں میرے پاس بہت زیادہ ہیں اس کا شکر کیسے ادا کروں؟ حکم ہوا کہ اے داؤد! جب تو نے جان لیا کہ جو نعمتیں تیرے پاس ہیں سب میری ہی طرف سے ہیں تحقیق تو نے ان کا شکر ادا کیا۔

بستر پر سوتے وقت کی دُعا

۲۶/۲۲۸۲ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاسِهِ أَلَهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ اخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ۔

(رواہ ابوداؤد و الترمذی وابن ماجہ و رواہ مسلم مع اختلاف یسیر)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۲۰۸۴/۴ حديث رقم (۶۱-۲۷۱۳)۔ و ابوداؤد فی السنن ۳۱۲/۴ حديث رقم ۵۰۵۱۔ و الترمذی ۱۳۸/۵ حديث رقم ۵۰۵۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے وہ کہتے تھے جب آپ سونے کے لیے آتے تو کہتے اے الہی! اے آسمانوں کے پروردگار اور اے زمین کے پروردگار اور اے ہر چیز کے پروردگار اور اے دانے کے اور گٹھلی کے پھاڑنے والے۔ یعنی ان کو پھاڑ کر زراعت اور کھجور کا درخت نکالنے والے اے توریت انجیل اور قرآن کے اتارنے والے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ برے کی برائی سے تو اس کی پیشانی کے بال پکڑنے والا ہے یعنی تیرے قبضہ قدرت میں ہے یعنی تو ہی پہلے ہے یعنی قدیم ہے بلا ابتداء کے پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے اور تو ہی آخر ہے یعنی بغیر انتہا کے باقی ہے پس تیرے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے اور تو ظاہر ہے یعنی باعتبار افعال و صفات کے۔ پس تیرے اوپر کوئی نہیں ہے یعنی تیرے ظہور کے اوپر کوئی چیز تجھ سے ظاہر نہیں ہے اور تو پوشیدہ ہے یعنی باعتبار ذات کے۔ پس کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اور مجھ سے قرض یعنی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کر دیجئے اور مجھ کو فقر سے غنی کر دے یعنی مخلوق کے محتاج ہونے سے یا دل کی محتاجی سے اس کو ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ اور اس کو مسلم نے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ ﷺ بچھونے کی طرف یعنی بستر پر لیٹنے کے

لئے تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے اور حصین میں ہے کہ یہ دعا لیت کر پڑھنی چاہیے۔

سوتے وقت آپ ﷺ کا معمول مبارک

۲۷/۲۲۸۳ وَعَنْ أَبِي أَزْهَرَ الْأَنْمَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي لِلَّهِ أَلْهِمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَاحْسَأْ شَيْطَانِي وَفُكْ رَهَائِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّبِيِّ الْأَعْلَى۔

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۱۳/۴ حدیث رقم ۵۰۵۴۔

ترجمہ: حضرت ابو ازہر انماري سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جس وقت اپنی خوابگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تو کہتے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سوتا ہوں۔ میں نے اپنی کرۃ اللہ کا نام لے کر رکھی۔ اے الہی! تو میرے لیے میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے شیطان کو دور کر دے اور میرے گردی کو چھڑا دے اور مجھ کو مجلس میں یعنی ملائکہ مقربین اور انبیاء کی مجلس میں بلند کر۔ ۷۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ سوتے وقت مذکورہ دعا پڑھا کرتے تھے اور گردی کا لفظ حدیث میں آیا ہے اور گردی سے مراد نفس ہے یعنی میرے نفس کو بندوں کے حقوق سے اور اپنے عقاب سے نجات دیدے اور میرے گناہ بخش دے۔

سوتے وقت آپ ﷺ کی جامع دعا

۲۸/۲۲۸۴ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَأَوَانِي وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَافْضَلْ وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَلْهِمَّ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ وَآلَهُ كُلِّ شَيْءٍ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ (رواہ ابو داؤد)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۱۳/۴ حدیث رقم ۵۰۵۸۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ جب اپنی خوابگاہ کی طرف رات کے وقت تشریف لے جاتے تو فرماتے سب تعریف خدا کے لیے ہے جس نے مجھ کو کفایت کیا یعنی مخلوق سے بے پروا کیا اور مجھ کو رہنے کے لئے مکان دیا وہ سردی اور گرمی کو دور کرتا ہے پس اس نے بہت دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہر حال اے اللہ ہر چیز کے پروردگار اور اس کے مالک اور ہر چیز کے معبود میں تیرے ساتھ یعنی تجھ سے آگ سے پناہ مانگتا ہوں یعنی ان چیزوں سے جو عذاب و دوزخ کا باعث ہیں۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ سوتے وقت بڑی جامع دعا فرمایا کرتے تھے جو اوپر متن حدیث میں مذکور ہے۔

۲۹/۲۲۸۵ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ شَكَاهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا

اَنَامُ اللَّيْلِ مِنَ الْاَرَقِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَكْتَ وَرَبَّ الْأَرْضَيْنِ وَمَا أَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَصَلَّتْ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَقْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ نَسَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

(رواہ الترمذی وقال هذا احديث ليس اسناده بالقوى والحكيم بن ظهير الراوى قد ترك حديثه بعض اهل الحديث)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۹۹/۵ حديث رقم ۳۵۸۹۔

ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے شکایت کی پس عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں تو رات کو بے خوابی کی وجہ سے سو نہیں سکتا۔ پس نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تو اپنے سونے کی جگہ کی طرف جائے پس تو کہہ اے الہی! سات آسمانوں کے اور اس چیز کے جو سایہ کیے ہوئے ہیں آسمان پر پروردگار اور اسے زمینوں کے پروردگار اور اس چیز کے کہ جس کو زمینیں اٹھا رہی ہیں یعنی مخلوقات اور اے شیطانوں کے پروردگار اور ان کے کہ جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا ہے۔ یعنی جن و انس ہو میرے لیے پناہ دینے والا اپنی مخلوقات کی سب سے برائی سے اس سے کوئی مجھ پر کوئی زیادتی کرے ان میں سے یا ظلم کرے تیرا پناہ چاہنے والا غالب ہے اور تیری تعریف بہت بڑی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر تو ہی ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا اور کہا ہے کہ اس حدیث کی اسناد قوی نہیں ہے اور حکیم بن ظہیر اس حدیث کے راوی ہیں تحقیق اس کی حدیث بعض محدثین نے چھوڑ دی ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی شخص نے اپنی بے خوابی کی شکایت کی۔ اس پر آپ ﷺ نے اس شخص کو مذکورہ دعا پڑھنے کا حکم صادر فرمایا حکم ساتھ خ کے زیر کے ساتھ ہے اور کاف کے ہے اور اصل نسخہ سید کے میں لیے ہے اور حاشیہ پر لکھا ہے کہ صواب حکم ہے اور حسن حصین میں ہے کہ یہ روایت کی طبرانی نے اوسط میں اور ابن ابی شیبہ نے۔ لیکن ان کی روایت میں بجائے اجمعین کے جمیعاً ہے اور یغی کے یطفی ہے اور بجائے جل نساؤک سے آخر تک وتبارک اسمک ہے پس اسی لفظ پر یہ دعا پوری ہو جاتی ہے۔

الفصل الثالث:

آپ ﷺ صحابہ رضی اللہ عنہم کو صبح کے وقت مذکورہ دعا تلقین کیا کرتے تھے

۳۰/۲۲۸۶ عَنْ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتَحَهُ وَنَصَرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَمِنْ شَرِّ مَا بَعْدَهُ ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مَعْلُ ذَلِكَ۔ (رواہ ابو داود)

اخرجه ابو داود ۳۲۲/۴ حديث رقم ۵۰۸۴۔

ترجمہ: حضرت ابو مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی صبح کرے پس چاہیے کہ وہ کہے ہم نے اور ملک نے خالص اللہ کے واسطے صبح کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے الہی! تحقیق میں تجھ سے اس دن کی کٹکٹ سے بھلائی مانگتا ہوں یعنی میں مقصود اور اس کی مدد کو پہنچوں۔ یعنی اس دن میں میری

مدد کر۔ نفس اور شیطان اور دشمنوں پر غالب رہوں اور اس دن کا نور مانگتا ہوں یعنی علم و عمل کی اس میں توفیق ہو اور اس دن کی برکت مانگتا ہوں یعنی اس دن رزق حلال طیب ہاتھ لگے اور اس کی ہدایت یعنی عمل اور اعتقاد حق پر رہوں اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس دن میں ہو اور اس چیز کی برائی سے جو اس کے پیچھے ہو پھر جب کہ شام کرے پس چاہئے کہ اسی کے مانند کہے۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿۳۱﴾ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ کو مذکورہ دعا تلقین کیا کرتے تھے کہ جو شخص صبح کرے اس کو چاہیے کہ مذکورہ دعا پڑھے اور شام کو بھی یہ دعا پڑھے۔ تو بجائے أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ کے اَمْسَيْنَا اور اَمْسَى الْمَلِكُ پڑھے اور هَذَا الْيَوْمُ کی جگہ هَذِهِ اللَّيْلَةُ اور مذکورہ ضمیروں کی جگہ مَوْنُتُ ضَمِيرٍ پڑھے یعنی ہ کی جگہ ہا پڑھے۔

انسان کو عافیت مانگنی چاہیے

۳۱/۲۲۸۷ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي يَابَتِ أَسْمَعَكَ تَقُولُ كُلَّ عِدَاةِ اللَّهِ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَكْرِهَاهَا فَلَنَا حِينَ تَصْبِحُ وَلَنَا حِينَ تَمُوسُ فَقَالَ يَا بَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِمْ فَلَنَا أَحَبُّ أَنْ أَسْتَنْ بِسُنَّتِهِ۔ (رواہ ابو داؤد)

اس حوالہ ابو داؤد فی السنن ۳۲۴/۴ حدیث رقم ۵۰۹۰۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے واسطے کہا۔ اے میرے باپ میں نے تم کو کہتے ہوئے سنا کہ تم ہر روز کہتے ہو۔ اے الہی! مجھ کو میرے بدن میں عافیت دے۔ اے الہی! مجھ کو میری شنوائی (یعنی میری سماعت) میں عافیت دے۔ اے الہی! مجھ کو میری بینائی میں مدد دے۔ کوئی معبود نہیں ہے مگر تو ہی ہے تم اس کو تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھتے ہو۔ پس اس نے کہا اے میرے بیٹے میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے کہ وہ ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتے۔ پس میں پسند کرتا ہوں کہ حضور ﷺ کی سنت کی پیروی کروں۔ اس کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿۳۲﴾ اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعا اور اعمال خیر کے کرنے میں اصل مقصود حضور ﷺ کے امرا و ان کی سنت کی اتباع کا بجالانا ہے نہ کہ عمل کی جزاء اور دعا کی قبولیت۔

صبح کے وقت کی دعا

۳۲/۲۲۸۸ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْكَبِيرُ لِلَّهِ وَالْعَظَمَةُ لِلَّهِ وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا لِلَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ هَذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَأَوْسَطَهُ نَجَاحًا وَآخِرَهُ فَلَاحًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

ذِكْرُهُ النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ بِرِوَايَةِ ابْنِ السِّنِّي -

اخرجه النووي في الاذكار ص ۱۵۵ الحديث رقم ۱۹۲ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ۲۳ الحديث ۳۸۔
 حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب صبح کرتے تھے تو کہتے کہ میں نے اور ملک نے اللہ کے واسطے صبح کی اور تمام تعریفیں خدا کے واسطے ہیں اور ذات کی بزرگی اور صفات کی بزرگی خدا کے لیے ہے اور مخلوقات اور حکم اور رات اور دن اور جورات میں آرام پکڑتے ہیں اور دن میں آرام پکڑتے ہیں۔ سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور مخلوق و ملک اس کے ہیں۔ اے الہی! اس دن کے پہلے جھے کو نیکی کا سبب بنا دے۔ یعنی تیری طاعت میں خرچ کریں اور اس دن کے درمیان کو حاجات کے برآمد کا سبب بنا دے اور اس دن کے آخر کو نجات کا سبب بنا دے۔ اے سب رحم کرنے والوں میں سے بہت رحم کرنے والے! علامہ نووی نے یہ حدیث کتاب الاذکار میں ابن سنی کی روایت کے ساتھ نقل کی ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بھی صبح کے وقت کی دعا کا بیان ہے کہ حضور ﷺ نے اس دعا کو لفظ ارحم الراحمین پر اس لیے ختم کیا۔ کہ اس سے دعا جلد قبول ہوتی ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے اور حاکم نے مستدرک میں ابوامامہ سے بطریق مرفوع روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اس پر متعین ہے وہ کہتا ہے ارحم الراحمین۔ پس جو شخص اس کو تین مرتبہ کہتا ہے تو اس کو فرشتہ کہتا ہے کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے۔

آپ ﷺ بعض وقت میں یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے

۳۳/۲۲۸۹ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ (رواه احمد والدارمی)

اخرجه الدارمی فی السنن ۳۷۸/۲ حدیث رقم ۲۶۸۸۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی ازہر سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جس وقت صبح کرتے تھے تو کہتے تھے ہم نے صبح کی دین اسلام کے اوپر اور کلمہ توحید پر وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اپنے نبی یعنی محمد ﷺ کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جو باطل دین سے بیزار ہو کر دین حق کی جانب متوجہ تھے اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ احمد اور دارمی نے نقل کی۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے اپنے نبی کے دین پر..... اس لفظ کا ظاہر یہ ہے کہ حضور ﷺ مخلوق کی طرف مبعوث تھے اور اپنی طرف بھی یا امت کی تعلیم کے لیے فرمایا۔

بَابُ الدَّعَوَاتِ فِي الْأَوْقَاتِ

مختلف اوقات کی دُعاؤں کا بیان

فائدہ: جواز کارشمار علیہ السلام سے کسی وقت یا کسی حال میں وارد ہوئے ہیں مسنون ہیں ہر کسی کو ان کا بجالانا اگرچہ ایک بار ہو حضور ﷺ کی اتباع کے واسطے ضروری ہیں۔

الفصل الاول:

جماع کے وقت کی دُعا

۲۲۹۰/۱ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا فَإِنَّهُ أَنْ يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَكِنْ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا. (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۳۵/۶۔ حدیث رقم ۳۲۷۱۔ ومسلم فی صحیحہ ۱۰۵۸/۲۔ حدیث رقم (۱۱۶)۔
۱۲۳۴) واخرجه ابوداؤد فی السنن ۲۴۹/۲ حدیث رقم ۲۱۶۱ والترمذی ۲۷۷/۲ حدیث رقم ۹۸۱۔ وابن ماجہ ۶۱۸/۱ حدیث رقم ۱۹۱۹ والدارمی ۱۹۵/۲ حدیث رقم ۲۲۱۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی یا لونڈی سے محبت کرنے کا ارادہ کرے تو وہ کہے: اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ اے الہی! تو ہم کو شیطان سے اور شیطان کو اس اولاد سے دور رکھ کہ جو تو ہم کو نصیب کرے۔ پس تحقیق شان یہ ہے اگر مقدر میں ہو تو اس جماع سے مرد و عورت کو فرزند دے دیا جائے گا۔ شیطان اس کو کبھی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیوی سے ہم بستری کے وقت دُعا پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے اور اس دُعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اکثر لوگ یہ پڑھتے اور اولاد ان کی شیطان کے تصرف سے محفوظ نہیں رہتی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ضرر کرنے سے مراد یہ ہے کہ شیطان اس کو کافر نہیں کرتا۔ پس اس میں خاتمہ بالخیر ہونے کی طرف اشارہ ہے یا یہ معنی ہیں کہ شیطان آسیب اور قلع وغیرہ سے ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی یا پھر ہاتھ پاؤں ٹیڑھے کرنے سے اور اس کی مانند اور علامہ جوزی نے کہا ہے کہ شیطان ان کے دین پر مسلط نہیں ہو سکتا اور مضرت اس کے بیٹے کے حق میں ظاہر نہیں ہوتی بہ نسبت اس کے غیر کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ضرر پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ شیطان اس کو انگلی زور سے نہیں مارتا۔

فکر و غم کی شدت کے وقت مذکورہ دُعا پڑھنی چاہیے

۲۲۹۱/۲ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۴۵/۱۱۔ حدیث رقم ۶۳۴۵۔ ومسلم فی صحیحہ ۲۰۹۲/۴۔ حدیث رقم (۸۳)۔

۲۷۳۰۔ والترمذی فی السنن ۱۵۹/۵۔ حدیث رقم ۳۴۹۶۔ وابن ماجہ ۱۲۷۸/۲۔ حدیث رقم ۳۸۸۳۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فکرو غم کی شدت کے وقت ارشاد فرمایا: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بزرگ و پروردگار ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو بڑے عرش کا پروردگار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ آسمان وزمین اور بڑے عرش کا پروردگار ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فکرو غم کی شدت کے وقت مذکورہ دعا پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے نجات مانگے۔

غصے کو دور کرنے کا وظیفہ

۳/۲۲۹۲ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّتْ وَجْهَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا عَلِمُ كَلِمَةً تَوْفَّاهَا لَدَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ مِنَ الْغَضَبِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ الْآ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَسْتُ بِمَحْنُونٍ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۱۸/۱۰۔ حدیث رقم ۶۱۱۵۔ واخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۰۱۵/۴۔ حدیث رقم (۱۹)۔

۲۶۱۰۔ وابوداؤد ۲۴۸/۴۔ حدیث رقم ۴۷۸۰۔ والترمذی فی السنن ۱۶۷/۵۔ حدیث رقم ۳۵۱۶۔ وأحمد المسند ۲۴۰/۵۔

ترجمہ: حضرت سلیمان بن صرد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا دو شخصوں نے آپس میں نبی کریم ﷺ کے نزدیک ایک دوسرے کو برا بھلا کہا اور ہم نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ان میں سے غصے میں بھرا ہوا اپنے ساتھی کو بہت برا کہتا تھا۔ تحقیق اس کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا تھا پس نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تحقیق میں البتہ ایک کلمہ جانتا ہوں۔ اگر اس کو کہے تو اس سے غصہ جاتا رہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی شیطاں مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ پس صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس شخص کو کہا کہ کیا تو وہ چیز نہیں سنتا جو نبی کریم ﷺ نے بیان فرمائی؟ اس نے کہا میں دیوانہ نہیں ہوں۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ مذکورہ حدیث اس آیت سے نکالی گئی ہے: ﴿وَمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (خم السجدة: ۳۶) اور میں دیوانہ نہیں ہوں۔ اس شخص کے علم میں یہ بات آئی کہ یہ کلمات تو اس شخص کو پڑھنے کے لئے بتائے جاتے ہیں جو دیوانہ ہو گیا ہو اور میں تو دیوانہ نہیں ہوں اس لئے مجھے ان کلمات کے پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اسی بناء پر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو نبی کریم ﷺ کی تعلیم کی جانب متوجہ کیا تو اس نے یہ جواب دیا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں۔ حالانکہ وہ یہ نہ سمجھا کہ غصہ بھی شیطاں کے بہکانے سے ہوتا ہے اور اس کو یہ مفید ہے اور

علامہ طیبیؒ نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ شخص منافق ہو یا بد خوگنواروں میں سے ہو۔

شیطان سے پناہ مانگو

۴/۲۲۹۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الذِّبْيَةِ فَاسْتَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهْيَ الْجِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۵۰۱۶۔ حدیث رقم ۳۳۰۳۔ ومسلم فی صحیحہ ۲۰۹۲/۴۔ حدیث رقم (۸۲)۔ (۲۷۲۹)۔
واخرجه ابوداؤد ۳۲۷/۴۔ حدیث رقم ۵۱۰۲۔ والترمذی فی السنن ۱۷۱/۵۔ حدیث رقم ۳۵۲۴۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم مرغوں کی آواز سنو۔ پس اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ اس لیے تحقیق وہ فرشتے کو دیکھتے ہیں اور جب تم گدھے کی آواز سنو۔ پس تم اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگو۔ اس لیے تحقیق وہ شیطان کو دیکھتا ہے اس کو بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جب مرغ بولتا ہے تو فرشتے کو دیکھ کر آواز دیتا ہے اس وقت تم دعا کہو تاکہ وہ آمین کہے اور تمہارے لیے بخشش مانگے اور گدھے کی آواز سن کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اس لیے کہ وہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نیکیوں کے آنے کے وقت رحمت اور برکت اترتی ہے اور ترقی ہے پس اس وقت دعا کرنی مستحب ہے اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے غضب و عذاب کافروں پر نازل ہوتا ہے پس کفار کے پاس گزرتے وقت پناہ مانگنا مستحب ہے اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ان کفار کا شر پہنچے۔

سفر کے وقت آپ ﷺ کی دعا

۵/۲۲۹۴ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى السَّفَرِ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِلْنَا بُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْتَظَرِ وَسُوْرِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَادَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ اَيُّوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۷۸/۲۔ حدیث رقم (۴۲۵)۔ (۱۳۴۲)۔ وابدؤد فی السنن ۳۴۱/۳۔ حدیث رقم ۲۶۰۲۔
ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ جب سفر کے لئے نکلتے اور اپنے اونٹ پر سوار ہو جاتے تو اللہ اکبر تین بار کہتے پھر یہ آیت پڑھتے۔ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ جس نے یہ سواری ہمارے لئے مطیع کر دی ہے اور ہم اس کے واسطے طاقت رکھنے والے نہیں ہیں اور ہم اپنے پروردگار کی طرف پھرنے والے ہیں اور اے الہی! تحقیق ہم تجھ سے اس سفر

میں ایسی نیکی، تقویٰ اور عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے۔ یعنی اے الہی! تو اس کو قبول کر لے ہم پر ہمارا سفر آسان کر دے اور ہمارے واسطے لپیٹ دے یعنی اس کی درازگی کو دور کر دے۔ اے الہی! تو ہی ہے سفر میں تمہاری برائی کرنے والا اور اہل میں خبر گیری کرنے والا۔ اے الہی! تحقیق میں سفر کی مشقت سے اور بری حالت کے دیکھنے سے یعنی اہل و مال میں نقصان دیکھنے سے پناہ مانگتا ہوں اور غمگین اور بری حالت سے پناہ مانگتا ہوں اور مال اور اہل اور اولاد میں برائی کے آنے سے پناہ مانگتا ہوں یعنی اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ سفر سے لوٹ کر آؤں تو اپنے اہل و مال میں نقصان دیکھوں اور رنج اٹھاؤں جب آپ ﷺ سفر سے واپس تشریف لاتے تو اس دعا میں ان الفاظ کے ساتھ اضافہ فرماتے کہ ہم سفر سے سلامتی کے ساتھ اپنے ہم وطنوں کی طرف پھرنے والے ہیں تو بہ کرنے والے ہیں اور بندگی کرنے والے ہیں اپنے پروردگار کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ سفر کے وقت مذکورہ دعا پڑھا کرتے تھے اور بہت سی چیزوں سے خصوصاً سفر کی مشقت سے اور بری چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔

حضور ﷺ سفر کی مشقتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے

۶/۲۲۹۵ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَفَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحُورِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۷۹/۲ حدیث رقم (۴۲۶-۱۳۴۳)۔ والترمذی فی السنن ۱۶۱۱/۵ حدیث رقم ۳۵۰۲۔ وابن ماجہ ۱۲۷۹/۲ حدیث رقم ۳۸۸۸۔ والدارمی فی السنن ۳۷۳/۲ حدیث رقم ۲۶۷۲۔ واحمد فی المسند ۸۲/۵۔

ترجمہ: عبد الرحمن بن سرجؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب سفر کرتے تھے تو سفر کی مشقت سے اور بری حالت کے لوٹنے سے اور زیادتی کے بعد نقصان سے یعنی اعمال صالح اور اہل و مال میں نقصان سے اور مظلوم کی بددعا سے اور اہل و مال کی بری حالت دیکھنے سے پناہ مانگتے تھے۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ مظلوم کی بددعا سے پناہ مانگنی چاہیے حقیقت میں آپ ﷺ ظلم سے پناہ مانگتے تھے کہ میں بھولے سے یا جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہ کروں تاکہ مظلوم مجھ پر بددعا نہ کرے۔

مکان میں داخل ہوتے وقت کی دعا

۷/۲۲۹۶ وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَزَلَ مِنْزِلًا فَقَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۰۸۰/۴ حدیث رقم (۵۴-۲۷۰۸)۔ وابوداؤد فی السنن ۱۳/۴ حدیث رقم ۳۴۹۹۔ والترمذی فی السنن ۱۵۹/۵ حدیث رقم ۳۴۹۹۔ وابن ماجہ ۱۱۷۴/۲ حدیث رقم ۳۵۴۷۔ والدارمی ۳۷۵/۲ حدیث رقم ۲۶۸۰۔ واحمد فی المسند ۲۹۰/۲۔

ترجمہ: حضرت خولہ بنت حکیمؓ کی بیٹی سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے فرمایا کرتے تھے جو کسی مکان

میں اترے یعنی سفر میں ہو یا حضر میں پھر وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کلموں یعنی اسماء و صفات کے ساتھ اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی پناہ مانگتا ہوں اس کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی یہاں تک کہ وہ اس منزل سے کوچ کرے۔ اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿۸﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب کوئی شخص مکان میں اترے تو مذکورہ دُعا پڑھے جب تک وہ اس منزل میں رہے گا اس کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی۔

بچھو کے ڈسنے کی دُعا

۸/۲۲۹۷ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغْتَنِي لَبَاحَةً قَالَ أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أُمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۰۸۱/۴ حدیث رقم (۹۰-۲۷۰)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول! میں نے ایک بچھو سے ایذا پائی کہ اس نے مجھ کو گزشتہ رات میں کاٹا ہے۔ فرمایا خبردار ہو جاؤ۔ اگر تو اس وقت جب تو نے شام کی کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے کلموں کے ساتھ اس چیز کی برائی سے کہ جو اس نے پیدا کی پناہ مانگتا ہوں تو تجھ کو کوئی چیز ضرر نہ پہنچا سکتی۔ اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿۹﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی شخص کو رات کے وقت ایذا دے تو اس کو چاہیے کہ مذکورہ دُعا پڑھے اس کی برکت سے اس کو کوئی چیز تکلیف نہ دے سکے گی اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے جو شخص اس کو شام کے وقت تین مرتبہ پڑھے اُس پر زہر بھی اثر نہیں کرتا یعنی اس رات میں کسی جانور کا زہر بھی اس پر اثر نہیں کرتا اور ایک روایت میں صبح کے وقت پڑھنے کا بھی آیا ہے۔ پس ایسا ہی فائدہ صبح کے وقت پڑھنے کا ہوتا ہے فرمایا دن کے وقت موذی چیز کے ضرر سے حفاظت ہوتی ہے اور معقل بن یسار صحابی سے منقول ہے جو لوگ مذکورہ بالا دُعا یعنی: اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ پڑھتے ہیں ان کا شمار متقین میں ہوتا ہے اس لئے اُن پر ستر ہزار فرشتے بخشش کی دُعا کرتے ہیں اور اگر وہ مرتا ہے تو شہید مرتا ہے۔

سفر کی حالت میں سحری کے وقت اللہ عز و جل کی تعریف کرنا

۹/۲۲۹۸ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَاسْتَحْوَا يَقُولُ سَمِعَ سَامِعُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلَاغِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبِنَا وَأَفْضَلُ عَلَيْنَا عَائِدًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۰۸۶/۴ حدیث رقم (۶۸-۲۷۱۸)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سفر میں ہوتے تھے اور سحری کا وقت ہوتا تھا تو فرماتے

کہ سننے والے نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کو سن لیا جو میں نے کی اور اس کی نعمت کی خوبی کے اقرار کو جو میں نے کیا سن لیا۔ اے ہمارے رب! ہماری نگہبانی فرما اور ہم پر احسان فرما۔ ہم کلام الہی کے ساتھ آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ سفر کی حالت میں سحری کے وقت خدا کی تعریف کیا کرتے تھے اور اس کی نعمتوں کا اقرار کرتے اور اللہ کی مہربانیوں کا سوال کرتے اور اللہ تعالیٰ کی آگ سے پناہ مانگتے تھے۔

جہاد یا عمرہ سے واپس لوٹتے وقت کی دُعا

۱۰/۲۲۹۹ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اتَّبِعُوا تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶۱۸/۳ حدیث رقم ۱۷۹۷۔ و مسلم فی صحیحہ ۹۸۰/۲ حدیث رقم (۴۲۸-۱۳۴۴)۔

وابوداؤد فی السنن ۸۸/۳ حدیث رقم ۲۷۷۰۔ و الترمذی ۲۱۳/۲ حدیث رقم ۹۵۷۔ واحمد فی المسند ۵۰/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جس وقت جہاد سے یا حج سے یا عمرہ سے لوٹتے تو ہر بلند جگہ پر تین مرتبہ تکبیریں کہتے پھر کہتے کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہم وطن کی طرف پھرنے والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ اپنے پروردگار کے واسطے تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کیا ہے یعنی دین کو غالب کیا اور اپنے بندے کی مدد کی یعنی حضور ﷺ کی اور کفار کے گروہوں کو تنہا شکست دی۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ جب جنگ سے واپس لوٹتے تو مذکورہ دُعا پڑھا کرتے تھے اور غزوہ خندق کے موقع پر دس ہزار یا بارہ ہزار کفار قرظہ اور نصیر کے یہود کے علاوہ جمع ہو کر مدینہ پر چڑھ آئے تھے اور نبی کریم ﷺ سے لڑائی کا ارادہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو اور ملائکہ کے لشکر کو ان پر متعین کر دیا اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔

مشرکین کے خلاف بدُعا

۱۱/۲۳۰۰ اَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمَشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُمَّ مَنِّزِلِ الْكِتَابِ سَرِيعِ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ۔

(متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۰۶/۶۔ حدیث رقم ۲۹۳۳۔ و مسلم فی صحیحہ ۱۳۶۳/۳ حدیث رقم (۲۱-۱۷۴۲)۔

وابوداؤد فی السنن ۴۲/۳ حدیث رقم ۲۶۳۱۔ وابن ماجہ فی السنن ۹۳۵/۲ حدیث رقم ۲۷۹۶۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جنگ احزاب کے دن مشرکوں کے خلاف بددعا کی۔ پس کہا اے الہی! کتاب اتارنے والے حساب کے لینے میں جلدی کرنے والے یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدھے دن میں حساب لے لے گا۔ اے الہی! کافروں کے گردہ کو ٹھکست دے دے۔ اے الہی! ان کو ٹھکست دے اور ان کو ہلا دے۔ یعنی ان کو مقابلے میں ثابت قدم نہ رکھ۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے جنگ احزاب کے موقع پر کافروں اور مشرکوں کے خلاف بددعا کی۔

۱۲/۲۳۰۱ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي فَقَرَبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوُطْبَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أَتَى بِنَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إَصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى وَيُلْقِي رِوَايَةً فَجَعَلَ يُلْقِي النَّوَى عَلَى ظَهْرِ إَصْبَعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى ثُمَّ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ فَقَالَ أَبِي وَآخَذَ بِلِحَامٍ دَأْبَتِهِ أَدْعُ اللَّهُ لَنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَارْحَمَهُمْ۔ (رواه مسلم)

احمرحہ مسلم فی صحیحہ ۱۶۱۵/۳۔ حدیث رقم (۱۴۶-۲۰۴۲) وابوداؤد فی السنن ۳۳۸۱۳ حدیث رقم ۳۷۲۹۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ میرے باپ کے پاس بطور مہمان کے تشریف لائے۔ پس ہم نبی کریم ﷺ کے پاس کھانا اور ایک مالیدہ جیسی چیز لے کر گئے۔ پھر آپ ﷺ نے اس میں سے کھایا پھر خشک کھجور لائی گئی۔ پھر حضور ﷺ ان کھاتے اور کھلی دونوں انگلیوں کے درمیان میں ڈالتے اور اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو اکٹھا کرتے پھر آپ ﷺ کے پاس پانی لایا گیا اور آپ ﷺ نے پیا۔ پھر میرے باپ نے اس حال میں کہ حضور ﷺ کے جانور کی لگام پکڑے ہوئے تھے کہنے لگے اے اللہ کے رسول! میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ پس حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے الہی! تو برکت دے ان کے لیے اس چیز میں کہ جو تو نے ان کو روزی دی ہے اور ان کی بخشش فرما اور ان پر رحم کر دے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ دونوں انگلیوں کے درمیان گھلیاں ڈالتے تھے اور دوسری روایت میں ہے کہ دونوں انگلیوں کی پیٹھ پر ڈالتے تھے ان میں تطبیق اس طرح سے ہے کہ کبھی اس طرح ڈالتے ہو گئے اور کبھی اس طرح ڈالتے ہو گئے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ اکابر اور مہمان کی سواری کی رکاب اور لگام کا پکڑنا ازراہ تواضع اور خاطر داری کے لیے اور اسی طرح دروازے تک مہمان کے ساتھ جانا مسنون ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضیافت کرنے والے کے لیے مسنون ہے کہ مہمان سے دُعا کا مطالبہ کرے اور یہ بھی مسنون ہے کہ ضیافت کرنے والے کے لیے دُعا کرے۔

الفصل الثانی

چاند دیکھتے وقت کی دُعا

۱۳/۲۳۰۲ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهَيْلَالَ قَالَ اللَّهُمَّ اهْلُهُ

عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ۔ (رواه الترمذی وقال هذا حديث حسن غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۶۷/۵۔ حدیث رقم ۳۵۱۵۔ والدارمی ۷/۲۔ حدیث رقم ۱۶۸۷۔ واحمد فی المسند ۱۶۲/۱۔

ترجمہ: حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جس وقت چاند کو دیکھتے تو کہتے اے الہی! تو چاند کو

ہم پر امن و ایمان اور سلامتی کے اور سلام کے ساتھ نکال اور (چاند کو کہتے ہیں کہ) میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس کو امام

ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ جب چاند دیکھتے تو یہ مذکورہ دُعا پڑھتے تھے۔ ہلال پہلی

اور دوسری اور تیسری رات کے چاند کو کہتے ہیں اس کے بعد قمر کہلاتا ہے پس جب حضور ﷺ چاند دیکھتے تو دُعا مذکورہ پڑھتے اس کا

حاصل یہ ہے کہ اے الہی! اس مہینے میں ہم با امن و ایمان اور سلامتی کے ساتھ رہیں۔ تمام آفات سے محفوظ اور اسلام کے احکام

پر مستقیم رہیں اور اس کے بعد چاند کو خطاب کر کے فرماتے کہ میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے اس حدیث میں چاند اور سورج کے پوجنے

والوں کے لیے رد موجود ہے جو چاند اور سورج کو رب سمجھتے ہیں۔

مصیبت زدہ کو دیکھ کر مذکورہ دُعا پڑھنی چاہیے

۱۴/۲۳۰۳ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ

رَأَى مُتَبَلِّغًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَالَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا إِلَّا لَمْ

يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ كَانِيًا مَا كَانَ۔ (رواه الترمذی ورواه ابن ماجہ عن ابن عمرو قال الترمذی هذا حديث غریب

وعمر بن دینار الراوی لیس بالقوی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۵۷/۵۔ حدیث رقم ۳۴۹۲۔

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے دونوں نے کہا کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص

ایسا نہیں ہے کہ بتلائے بلا کو دیکھے پھر وہ کہے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ کو اس چیز سے بچایا کہ اس نے

مجھ کو اس کے ساتھ گرفتار کر دیا اور بہتوں پر مجھ کو عزت بخشی دنیا کی بزرگی ان کو بخشی مگر اس کو آزمائش نہیں پہنچتی۔ اس کو امام

ترمذی نے اور ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور عمرو بن دینار

راوی قوی نہیں ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص بتلائے بلا کو دیکھے تو یہ دُعا پڑھے: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي..... تفضیلاً

کے لفظ تک پڑھتا ہے تو وہ اس بلا میں گرفتار نہیں ہوتا اور بلا عام ہے خواہ بدنی ہو برص کی طرح اور جزام اور اندھے ہونے کے اور

ان کے علاوہ اور خواہ بلائے دنیوی ہو۔ مال و جاہ کے حاصل کرنے کی طرح اور خواہ وہ بلائے دینی ہو فسق اور ظلم کی طرح بدعت اور کفر کی طرح غرضیکہ ہر طرح کے مبتلائے بلا کو دیکھ کر یہ دُعا پڑھے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص مبتلائے بیماری کو دیکھے تو چپکے سے اس دُعا کو پڑھے اور آرزو نہ ہو۔ یعنی پریشان نہ ہو اگر گناہ میں یا دنیا میں کسی کو مبتلا دیکھے تو پکار کر پڑھے تاکہ وہ باز رہے اور اگر دیکھے کہ پکار کر پڑھنے میں فساد ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر چپکے سے پڑھے۔

بازار میں داخل ہونے کی دُعا

۱۵/۲۳۰۴ اَوْعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمُحَى عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ (رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حديث غریب وفي شرح السنة من قال فی سوق جامع بیاع فیہ بدل من دخل السوق)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۵۵/۵ حدیث رقم ۳۴۸۸۔ وابن ماجہ ۷۵۲/۲ حدیث رقم ۷۲۳۵۔

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہو اور وہ کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے لیے تعریف ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے مرے گانہیں اسی کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اس کے لیے دس لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور اس سے دس لاکھ برائیاں دور کرتا ہے اور اس کے لیے دس لاکھ درجے بلند کرتا ہے اور اس کے لیے بہشت میں گھر بناتا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور ابن ماجہ اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ حدیث غریب ہے اور شرح السنۃ میں ہے کہ جو شخص من دخل السوق (جو شخص بازار میں پہنچ کر) کے بدلے من قال فی سوق جامع بیاع فیہ (جو شخص بازار میں جہاں چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے یہ دُعا پڑھے) اس کی اکثر چیزیں بکتی ہیں۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بازار میں داخل ہونے کی دُعا کا ذکر ہے جو شخص مذکورہ دُعا پڑھے گا اس کو دس لاکھ نیکیاں ملیں گی اور دس لاکھ برائیاں دور ہوں گی اور دس لاکھ درجے بلند ہوں گے اور جنت میں اس کا گھر بنے گا اتنے ثواب کا سبب یہ ہے کہ بازار غفلت اور جھوٹی قسموں کی جگہ ہے اور شیطانوں کی بادشاہت کی جگہ ہے۔ ایسے مقامات پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا بڑا ثواب ملتا ہے۔

جنت کا داخلہ پوری نعمت ہے

۱۶/۲۳۰۵ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فَقَالَ آتَى شَيْءُ تَمَامِ النِّعْمَةِ قَالَ دَعْوَةُ أَرْجُو بِهَا خَيْرًا فَقَالَ إِنْ مِنْ تَمَامِ النِّعْمَةِ دُخُولُ الْجَنَّةِ

وَالْقَوْرَ مِنَ النَّارِ وَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَقَالَ قَدْ اسْتَجِيبَ لَكَ قَسْلٌ وَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَهُوَ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الصَّبْرَ فَقَالَ سَنَلْتُ اللّٰهَ الْبَلَاءَ قَسْلُهُ الْعَافِيَةُ۔

(رواہ الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۰۲/۵ حدیث رقم ۳۵۹۵۔

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے سنا وہ کہتا ہے اے الہی! تحقیق میں تجھ سے پوری نعمت مانگتا ہوں۔ پس فرمایا پوری نعمت کیا چیز ہے؟ پس اس شخص نے کہا میں اس دعا کے ساتھ بہت زیادہ مال کی امید رکھتا ہوں۔ تحقیق پوری نعمت جنت میں داخل ہونا ہے اور دوزخ سے نجات پانا ہے اور حضور ﷺ نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ اے صاحب بزرگی اور بخشش فرمانے والے! آپ ﷺ نے فرمایا تحقیق تیری دعا قبول کی گئی اور نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے اے الہی! تحقیق میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں پس آپ ﷺ نے کہا تو نے اللہ سے بلا مانگی۔ پس اس سے عافیت مانگ۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ شخص دنیا کی نعمت کو پوری سمجھ کر اس کی دعا مانگ رہا تھا حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فانی ہے پوری نعمت جنت میں داخل ہونا ہے اور دوزخ سے نجات پانا ہے اور تو نے بلا مانگی۔ یعنی اس لیے کہ صبر بلا پر ہوتا ہے پس عافیت مانگو۔ کہ وہ نسب بلا اور آفتوں سے محفوظ رکھے گا کہ بلا بری چیز ہے نہیں مانگی چاہیے اور اگر بلا نازل ہو جائے تو صبر کرے۔

مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا

۲۳۰۶/۷ اَوْعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا فَكَثُرَ فِيهِ لَعْنَةٌ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ اِلَّا غَفَرْتَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ۔ (رواہ الترمذی والبیہقی فی الدعوات الکبیر)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۵۸/۵ حدیث رقم ۳۴۹۴۔ واحمد فی المسند ۴۵۰/۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ایک جگہ پر بیٹھا ہو اور اس میں بے فائدہ باتیں بہت زیادہ ہوں پھر وہ اٹھنے سے پہلے کہے اے الہی! تو پاک ہے اور تیری پاکی تیری تعریف کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا سوا کوئی معبود نہیں ہے میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں مگر یہ کہ اس کے لیے بخشش کی جاتی ہے جو اس مجلس میں ہو۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور بیہقی نے دعوت کبیر میں۔

تشریح: اس حدیث پاک میں مجلس سے اٹھتے وقت کے آداب بیان کیے گئے ہیں جو شخص مجلس میں بیٹھے اور اس میں بے فائدہ باتیں ہو رہی ہوں اور اگر اٹھتے وقت مذکورہ دعا پڑھ لگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمادیتے ہیں حدیث میں لفظ سے مراد یہاں وہ کلام ہے کہ جس سے وہ گناہ گار ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ لفظ کے معنی ہے بے فائدہ کلام اور اس دعا کو کفارۃ المجلس کہتے ہیں۔

سواری پر سوار ہوتے وقت کی دُعا

۱۸/۲۳۰۷ اَوْعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ إِتَى بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرَّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَلَمَّا أَكْبَرُ ثَلَاثًا سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ صَحِكَ فَقِيلَ مِنْ أَبِي شَيْءٍ صَحِكتَ يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ صَحِكَ فَقُلْتُ مِنْ أَبِي شَيْءٍ صَحِكتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنْ رَبَّنَا لَيُعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَقُولُ اللَّهُ يَعْلمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي۔ (رواه احمد والترمذی وابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۳۴/۳ حدیث رقم ۲۶۰۲۔ والترمذی ۱۶۴/۵ حدیث رقم ۳۵۱۱۔ واحمد فی المسند ۹۷/۱۔
ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس جانور حاضر کیا گیا کہ وہ اس پر سوار ہو جائیں جب انہوں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو بسم اللہ کہا۔ پس جب کہ اس کی پیٹھ پر چڑھ گئے تو الحمد للہ کہا۔ یعنی سواری کی نعمتوں اور اس کے علاوہ کی بھی نعمتوں پر اللہ کا شکر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات ہے کہ اس نے اس جانور کو ہمارے واسطے تابعدار کیا اور ہم اس کے واسطے طاقت رکھنے والے نہ تھے اور تحقیق ہم اپنے پروردگار کی طرف پھیرنے والے ہیں پھر تین بار الحمد للہ کہا اور تین مرتبہ اللہ اکبر کہا تو پاک ہے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے پس میرے لیے بخشش کر دے۔ پس تحقیق تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کہ اے امیر المؤمنین آپ کس بات پر بیٹھے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ میں نے کیا۔ پھر میں نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ کس چیز سے بیٹھے؟ فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے پس جب وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار! میرے واسطے میرے گناہ بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہ نہیں بخشتا۔ اس کو امام احمد اور ترمذی اور ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے جب کوئی شخص سواری پر سوار ہو تو مذکورہ دُعا پڑھے اور حضور ﷺ اللہ کے راضی ہونے سے بیٹھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی پیروی کی وجہ سے بیٹھے۔

مسافر کو رخصت کرنا مسنون عمل ہے

۱۹/۲۳۰۸ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَدَّعَ رَجُلًا أَخَذَ بِيَدِهِ فَلَا يَدْعُهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدْعُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ اسْتَودِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَّا تَنَاقُوسُ عَمَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ وَخَوَاتِيمُ عَمَلِكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُودَاؤُدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِي رِوَايَتِهِمَا لَمْ يَذْكُرُوا الْآخِرَ عَمَلِكَ۔

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۳۴/۳ حدیث رقم ۲۶۰۰۔ والترمذی ۱۶۲/۵ حدیث رقم ۳۵۰۵۔ وابن ماجہ ۹۴۳/۲ حدیث

رقم ۲۸۲۶۔ واحمد فی المسند ۷/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جس وقت کسی شخص کو رخصت کرتے تھے تو یعنی مسافر کا ہاتھ پکڑتے تھے پس اس کے ہاتھ کو نہ چھوڑتے تھے یہاں تک کہ وہ شخص نبی کریم ﷺ کے ہاتھ کو چھوڑتا یعنی یہ حسن خلق اور حضور ﷺ کے تواضع کی وجہ سے تھا اور فرماتے تھے کہ میں نے اللہ کو تیرا دین اور تیری امانت سونپی یعنی میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لئے حفاظت دین اور تیری امانت اور تیرا آخری عمل یعنی خاتمہ بخیر طلب کرتا ہوں اور ایک روایت میں خواتیم عملک کے بجائے آخر عملک کے الفاظ ہیں یعنی تیرے آخری عمل بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں مطلب وہی تھا جو پہلے جملے کا تھا۔ اس کو امام ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور ابوداؤد اور ابن ماجہ کی روایت میں آخر میں عملک کا لفظ نہیں ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ امانت سے مراد اموال ہیں کہ جو وہ لوگوں کے ساتھ لین دین کرتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ امانت سے مراد اہل واولاد ہیں کہ جو گھر میں چھوڑ کر چل بسا۔

مسافر کو الوداع کرنے کا طریقہ

۲۰/۲۳۰۹ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطَمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَّا تَنَكُّمُ وَخَوَاتِيمُ أَعْمَالِكُمْ۔ (رواہ ابو داود)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۳۴/۳ حدیث رقم ۲۶۰۱۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ خطمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جس وقت لشکر کو رخصت کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو فرماتے میں نے اللہ تعالیٰ کو تمہارا دین تمہاری امانت اور تمہارے آخری اعمال سونپے۔ اس کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ آپ ﷺ جب کسی مسافر یا لشکر کو الوداع کرتے تو مذکورہ الفاظ پڑھ کر اس کے لیے دعا فرماتے اور اس کو رخصت کرتے اور اس کو اللہ کے سپرد کرتے۔

اپنے اکابرین سے دُعا کروانے کا ثبوت

۲۱/۲۳۱۰ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَرَوْدُنِي فَقَالَ زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى قَالَ زِدْنِي قَالَ وَعَفَّرَ ذَنْبَكَ قَالَ زِدْنِي بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ وَيَسِّرْ لَكَ الْغَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ۔ (رواہ الترمذی وقال هذا حديث حسن غريب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۶۳/۵ حدیث رقم ۳۵۰۷۔ والدارمی ۳۷۲/۲ حدیث رقم ۲۶۷۱۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول ﷺ تمہیں میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں پس مجھ کو تحفہ دیجئے یعنی میرے لئے دُعا کیجئے کہ اس کی برکت میرے سفر میں توشے کی طرح ہو۔ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ کو تقویٰ کا توشہ دے یعنی پرہیزگاری نصیب کرے کہ وہ آخرت کا توشہ ہے اس

نے کہا کہ میرے لیے زیادہ دُعا کرو۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تیرے گناہ بخشے اس نے کہا کہ میرے لیے اور زیادہ دُعا کیجئے۔ میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دین و دنیا کی خیر میں تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں سے دُعا کروانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جیسے ایک صحابی نے سفر پر جاتے ہوئے آپ ﷺ سے دُعا کروائی اور آپ ﷺ نے اس کے دین و دنیا کی بھلائی کی دُعا فرمائی۔

مسافر کو نصیحت کرنا مسنون ہے

۲۳/۲۳۱۱ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسَافِرَ فَأَوْصِنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْوِينِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُمَّ اطْوِلْهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ۔ (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۶۳/۵ حدیث رقم ۳۵۰۸۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں پس مجھ کو نصیحت فرما دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے اوپر خدا کا تقویٰ لازم کرو اور ہر بلند جگہ پر اللہ اکبر کہو پس جب اس شخص نے پشت پھیری تو آپ ﷺ نے اس کے لیے دُعا کی اے الہی! تو اس کے لیے سفر کی دوری کو لپیٹ دے یعنی لمبی مسافت کو نزدیک کر دینے کی وجہ سے سفر کی مشقت کو دور کر دے اور اس پر سفر آسان کر دے یعنی سفر کے تمام امور اس پر آسان کر دے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے مسافر کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اپنے اوپر تقویٰ کو لازم کرلو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور شرک اور گناہ کو ترک کر دو اور مشتبہات کو اور ان چیزوں کو جو حاجت سے زیادہ ہوں اور غفلت کو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے خوف کے ور خدا کے علاوہ پر اعتماد کرنے کو ترک کر دو۔

تکلیف دینے والی چیزوں سے پناہ مانگنا

۲۳/۲۳۱۲ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَفَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلَ قَالَ يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكَ وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ وَمِنْ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ (رواه ابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۳۴/۳ حدیث رقم ۲۶۰۳۔ واحمد فی المسند ۱۳۲/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رات آتی تو آپ ﷺ ارشاد فرماتے۔ اے زمین تیرا پروردگار اور میرا پروردگار اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تیری برائی سے پناہ مانگتا ہوں یعنی جو کہ تیری ذات میں برائی ہے مثل خسف وغیرہ یا اس چیز کی برائی سے جو تجھ میں ہے یعنی پانی یا کوئی ایسی بوٹی جو زمین سے پیدا ہو اور ہلاک کر دے میں اس سے بھی پناہ مانگتا

ہوں اور اس چیز کی برائی سے کہ تجھ میں یعنی زہریلے جانور اور ہلاک کرنے والی چیزیں اور اس چیز کی برائی سے کہ جو تجھ پر چلتی پھرتی ہیں یعنی حشرات الارض اور حیوانات کہ ضرر پہنچاتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے شیر کالے سانپ، ہر طرح کے سانپ، بچھو اور شہر میں رہنے والوں کی برائی سے یعنی آدمیوں کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد جن ہیں کہ ہر شہر ہر زمین میں رہتے ہیں اور جننے والے کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے کہ جنا گیا یعنی ابلیس کے شر سے اور اس کی اولاد سے یا ہر جننے والی کے شر سے اور اس کی اولاد سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ تکلیف دینے والی چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ مثلاً سانپ، بچھو اور زہریلے جانور وغیرہ جو ہلاکت کا باعث ہو سکتے ہیں۔

جہاد کے موقع پر آپ ﷺ کی دُعا

۲۳/۲۳۱۳ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَصِدِيْ وَنَصِيْرِيْ بِكَ اَحْوَلُ وَبِكَ اَصْوَلُ وَبِكَ اَقَاتِلُ - (رواہ الترمذی و ابو داود)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۲/۳ حدیث رقم ۲۶۲۲۔ واحمد فی المسند ۱۸۴۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب جہاد کرتے تھے تو کہتے تھے اے الہی! تو معتمد علیہ میرا ہے یعنی تجھ پر میرا ہر امر میں بھروسہ ہے اور تو میرا پروردگار ہے تیری قوت کے ساتھ میں کفار کے مکر کو دفع کرنے کا حیلہ کرتا ہوں اور تیری قوت کے ساتھ دین کے دشمنوں پر حملہ کرتا ہوں اور تیری مدد کے ساتھ دشمنان دین سے لڑتا ہوں۔ اس کو امام ترمذی اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں جہاد کے موقع پر آپ ﷺ جو دُعا فرمایا کرتے تھے اس کا ذکر ہے۔

دشمن سے خوف کے وقت کی دُعا

۲۵/۲۳۱۴ وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ - (رواہ احمد و ابو داود)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۸۹/۲ حدیث رقم ۱۵۷۳۔ واحمد فی المسند ۴۱۴/۴۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ کو جس وقت کسی قوم سے اندیشہ ہوتا تو کہتے اے الہی! تحقیق ہم تجھ کو کفار کے مقابل کرتے ہیں یعنی تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ تو ان کے شر کو ہم سے دفع کر دے اور ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہو جا اور ہم تیرے ساتھ ان کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ حصن حصین میں لکھا ہے کہ جو شخص دشمن سے ڈرے یا اور کسی سے تو سورۃ قریش کا پڑھنا ہر برائی سے امان

ہے اور یہ مجرب عمل ہے۔

گھر سے نکلتے وقت کی مسنون دُعا

۲۶/۲۳۱۵ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَلْهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نُضِلَّ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نُجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَةَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرَفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُضِلَّ أَوْ أُضِلَّ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ۔

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۲۵/۴ حدیث رقم ۵۰۹۵۔ والترمذی ۱۵۴/۵ حدیث رقم ۳۴۸۷۔ وابن ماجہ ۱۲۷۸/۲

حدیث رقم ۳۸۸۴۔ واحمد فی المسند ۳۰۶/۶۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ جس وقت اپنے گھر سے نکلتے تو کہتے میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نکلتا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ اے الہی! تحقیق ہم پناہ مانگتے ہیں تیرے ساتھ اس سے کہ ہم پھلسیں یعنی بغیر قصد کے گناہ کریں یا گمراہ ہو جائیں۔ یعنی قصداً گناہ کریں یا ظلم کریں یا ظلم کیے جائیں یا ہم جہالت برتیں یا ہم پر جہالت کی جائے۔ اس کو امام احمد ترمذی اور نسائی نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو داؤد کی روایت میں ہے اور ابن ماجہ کی روایت میں یوں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم ﷺ جب بھی میرے گھر سے نکلتے تو آسمان کی جانب نگاہ اٹھاتے اور فرماتے اے الہی! تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ کہ میں گمراہ کیا جاؤں یعنی کوئی مجھے گمراہ کر دے یا ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں یا جہالت کروں یا جہالت مجھ پر کی جائے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ جب گھر سے نکلتے تو مذکورہ دُعا پڑھا کرتے تھے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ کا یہ معمول مبارک تھا۔

گھر سے نکلتے وقت جامع دُعا

۲۷/۲۳۱۶ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يُقَالُ لَهُ حَنِيدٌ مُهْدِيٌّ وَكُفَيْتَ وَوُقِيتَ فَيَسْتَنَحِي لَهُ الشَّيْطَانُ وَيَقُولُ شَيْطَانُ آخِرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ۔

(رواہ ابو داؤد وروی الترمذی الی قولہ له الشیطان)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۲۵/۴ حدیث رقم ۵۰۹۵۔ والترمذی ۱۵۴/۵ حدیث رقم ۳۴۸۶۔ وابن ماجہ ۱۲۷۸/۲

حدیث رقم ۳۸۸۶۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے پھر وہ کہے میں

اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ کی مدد کے سوا میں گناہوں سے نہیں رک سکتا اور عبادت پر قوت نہیں رکھ سکتا۔ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندے! تجھے راہِ راست دکھائی گئی اور تو جمعِ مہمات میں کفایت کیا گیا اور تو سب برائیوں سے محفوظ رہا۔ پس شیطان اس سے کنارے ہو جاتا ہے (یعنی ایک طرف ہو جاتا ہے) اور دوسرا شیطان کہتا ہے یعنی اس شیطان کی تسلی کے لیے کہ تجھ کو اس شخص پر تسلط اور تعرض کیسے میسر ہوگا کہ تحقیق وہ ہدایت کیا گیا اور کفایت کیا گیا اور سب برائیوں سے محفوظ رہا اس کو ابوداؤدؒ نے نقل کیا ہے اس کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے لفظ: لَہُ الشَّیْطَانُ تک ابنِ سنی کی کتاب میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔

تشریح ﴿۱﴾ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز منع کرتی ہے اس دُعا کے پڑھنے سے جس وقت تم میں سے اس پر امرِ مشیت تنگ ہو جس وقت وہ گھر پر ہو۔

﴿۲﴾ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی نَفْسِیْ وَمَالِیْ وَدِیْنِیْ اللّٰهُمَّ رَضْنِیْ بِقَضَائِکَ وَبَارِکْ لِیْ فِیْمَا قَدَرْتَ لِیْ حَتّٰی لَا اَحْبَ تَعْجِیْلُ مَا اَخَّرْتَ وَلَا تَاْخِیْرُ مَا عَجَّلْتَ۔ یہ روایت کتاب الاذکار امام نووی کی ہے اور ابن ماجہ میں ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلے پس وہ کہے: اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِحَقِّ مَمَشَیْ هَذَا فَاِنِّیْ لَمْ اَخْرَجْ کَثِیْرًا وَلَا بِطَرٍّ وَلَا رِبَآءٍ وَلَا سَمْعَةً وَخَرَجْتَ اتِّقَاءَ سَخَطِکَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِکَ فَاَسْئَلُکَ اَنْ تَعِیْذَنِیْ مِنَ النَّارِ وَاَنْ تَغْفِرَ لِیْ ذُنُوْبِیْ فَانْهَ لَا یَغْفِرَ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ۔ اس دُعا کے پڑھنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ بذاتِ خود متوجہ ہوتا ہے اور اس کے لیے ستر ہزار فرشتے دُعا کرتے ہیں۔

اس حدیث پاک میں گھر سے نکلتے وقت کی دُعا کا ذکر ہے۔ راہِ راست دکھایا گیا یعنی تو نے جو خدا کا نام لیا اور اس پر توکل کیا اور لا حولِ پڑھی یعنی اپنے کو عاجز جانا اور تو نے راہِ راست پائی اس لیے کہ راہِ راست یہی ہے کہ بندہ یا دِالہی میں رہے اور اپنے کام اس کے سپرد کرے۔

گھر میں داخل ہونے کی دُعا

۲۸/۲۳۱۷ وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ۔ (رواہ ابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۳۴۵۱۴ حدیث رقم ۳۴۸۶۔

ترجمہ: حضرت ابو مالک اشجری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو پس چاہیے کہ وہ کہے: الہی! تحقیق میں تجھ سے داخل ہونے کی بھلائی مانگتا ہوں یعنی آنا اور نکلتا بھلائی کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم داخل ہوتے ہیں اور اللہ ہمارا رب ہے۔ ہم نے اسی پر بھروسہ کیا پھر اپنے اہل کو سلام کرے۔ اس کو ابوداؤدؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ○ حصن حصین میں یہ دُعا ابوداؤد سے نقل کیا گئی ہے اس میں وَلَجْنَا کے لفظ کے بعد بسم اللہ خر جانا بھی ہے پھر اس میں بھی یعنی ابوداؤد میں جو دیکھا اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے پس مؤلف مشکوٰۃ یا اس کا کتاب اس جملے کو لکھنا بھول گئے ہونگے۔ پھر اپنے اہل کو سلام کرے۔ علماء نے لکھا ہے اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی ملائکہ کی نیت کے ساتھ سلام کرے۔ وہاں اس طرح لکھا ہوا ہے: السلام علی عباد اللہ الصالحین۔ مؤلف۔

نکاح کے وقت مبارکباد دینا مسنون ہے

۲۹/۲۳۱۸ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَا الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ

لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَمَا وَجَمَعَ بَيْنُكُمَا فِي خَيْرٍ۔ (رواہ احمد والترمذی وابوداؤد وابن ماجہ)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۲۴۱۲ حدیث رقم ۲۱۳۰۔ والترمذی ۲۷۶۱/۲ حدیث رقم ۱۰۹۷۔ والدارمی ۱۸۰/۲

حدیث رقم ۲۱۷۳۔ وابن ماجہ ۶۱۴/۱ حدیث رقم ۱۹۰۵۔

ترجمہ ○ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جس وقت کسی آدمی کو نکاح کے وقت دُعا دیتے یعنی دُعا کا ارادہ کرتے تو کہتے: اللہ تعالیٰ تیرے واسطے برکت دے اور تم دونوں کو برکت دے یعنی میاں بیوی کو یعنی تم پر رحمت ہو اور رزق اور اولاد بہت ہو اور اللہ تمہارے درمیان بھلائی کو جمع کرے یعنی طاعت کرتے رہو اور صحت اور عافیت سے رہو اور آپس میں اچھا سلوک کرو اور تمہاری اولاد نیک ہو۔ اس کو امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ○ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ کے عمل کا بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کسی کو نکاح کے وقت مبارک بار دیتے تو مذکورہ الفاظ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو خیر و برکت سے نوازے صحت اور عافیت سے رہو۔ آپس میں اتحاد و اتفاق سے زندگی بسر کرو۔

اپنے اہل والوں کے لیے خیر و برکت کی دُعا کرنا

۳۰/۲۳۱۹ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ

أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ

شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاِذَا اشْتَرَى بَعِيْرًا فَلْيَاْخُذْ بِذُرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ وَفِيْ رِوَايَةٍ فِی

الْمَرْءِ وَالْخَادِمِ ثُمَّ لِيَاْخُذْ بِسَیْتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَکَةِ۔ (رواہ ابوداؤد وابن ماجہ)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۲۴۸۲ حدیث رقم ۲۱۶۰۔ وابن ماجہ ۶۱۷/۱ حدیث رقم ۱۹۱۸۔

ترجمہ ○ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے اپنے باپ یعنی شعیب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا اور انہوں نے اپنے دادا یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اور عبداللہ نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی کسی عورت سے نکاح کرے یا بردہ (غلام) خریدے پس اس کو چاہیے کہ وہ کہے اے الہی!! تحقیق میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں یعنی اس کی ذات کی بھلائی کا اور اس چیز کی بھلائی کا جس کو تو نے اس میں پیدا کیا یعنی اچھے اخلاق اور میں

تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے کہ جو تو نے پیدا کی یعنی برے اخلاق و افعال اور جب اونٹ خریدے تو اس کی کوبان کی بلندی کو پکڑے اور کہے اسی طرح یعنی مذکورہ دُعا پڑھے اور ایک روایت میں عورت اور بردے (یعنی غلام) کے بارے میں یوں آیا ہے پھر اس کو چاہیے کہ عورت کی پیشانی کو پکڑے اور برکت کے لیے دُعا کرے۔ اس کو ابوداؤد نے نقل کیا اور ابن ماجہ نے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ برکت کے لیے دُعا کرے یعنی اوپر کی دُعا پڑھے یہ دُعا ہمیں حصن حصین سے معلوم ہوتی ہے اور علامہ جزریؒ نے کہا ہے اگر وہ جانور خریدے تو اسی طرح پڑھے۔

غمرہ کی دُعا

۳۱/۲۳۲۰ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاؤُ الْمَكْرُوبِ اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْا فَلَا تَكْلِيْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرَفَةً عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ۔ (رواہ ابوداؤد)

اخر جہ ابوداؤد ۳۲۴/۴۔ حدیث رقم ۵۰۹۰۔

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے غمرہ آدمی کی دُعا یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے غم جاتا رہتا ہے اے الہی! تیری رحمت کا امیدوار ہوں پس مجھ کو لمحہ کے لئے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اس لیے کہ وہ میرا بڑا دشمن ہے اور میری حاجت کو پورا کر دے اور میرے کام کو درست کر دے۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ غمرہ شخص یہ مذکورہ دُعا کرے اور کہے الہی میری حاجت کو پورا کر دے اور میرے تمام کاموں کو درست کر دے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔

قرض کی ادائیگی کی دُعا

۳۲/۲۳۲۱ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ هُمُومٌ لِّرَّ مَتْنِيْ وَذِيُوْنٌ يَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَقْلًا اَعْلَمَكَ كَلَامًا اِذَا قُلْتَهُ اَذْهَبَ اللّٰهُ هَمَّكَ وَقَضَىٰ عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ قُلْتُ بَلَىٰ قَالَ قُلْ اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَلْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَخْلِ وَالْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلِيَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَاَذْهَبَ اللّٰهُ هَمِّيْ وَقَضَىٰ عَنِّيْ دَيْنِيْ۔

(رواہ ابوداؤد)

اخر جہ ابوداؤد فی السنن ۹۳/۲ حدیث رقم ۱۵۵۵۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے فکریں لاحق ہیں اور میرے ذمے قرض ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تجھ کو ایسا کلام نہ سنا دوں کہ جس وقت تو اس کو کہے اللہ تعالیٰ تیری فکر دور کر دے اور تجھ سے تیرا قرض ادا کر دے۔ میں نے کہا ضرور بتائیں۔ فرمایا جس وقت تو صبح کرے اور جس وقت شام

کرے تو یہ کہہ اے الہی! تحقیق میں فکر و غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں عاجزی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں بخیل اور نامردی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں غلبہ دین سے یعنی اس کی کثرت سے اور لوگوں کے غلبہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس شخص نے کہا میں نے یہ کام کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے میری فکر دور کر دی اور میرا قرضہ ادا کر دیا۔ اس کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ❁ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ صحابی نے کہا ہے کہ مقرر (دوبارہ) بتلائیے۔ علامہ طیبیؒ نے کہا ہے ظاہر یہ ہے کہ ابوسعید نے اس شخص سے رفاہیت نہیں کی بلکہ اس کا حال دیکھا اور اس کو بیان کیا جیسا کہ پہلی کلام دلالت کرتی ہے مگر یہ کہ تاویل کی جائے اور کہا جائے کہ اس کی تقدیر یہ ہے ابوسعید نے کہا میرے واسطے اس شخص نے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے کہا اور عاجزی سے یعنی ادائے اطاعت اور عبادت سے اور مصیبت کے تحمل سے عاجز ہوں اس سے پناہ ہے اور بخل یہ ہے کہ ادائے زکوٰۃ کو کفار اور واجبات مالہ کو ترک کرے اور مسائل کو پھیر دے اور مہمان کی ضیافت اور اس کے سلام اور اس کے جواب کو ترک کر دے اور جس علم و مسئلہ کی احتیاج ہو اور یہ جانتا ہو اور پھر سکھائے اور بتائے نہیں دونوں کو ترک کر دے نبی کریم ﷺ کے نام سننے کے وقت اور نامردی ہے اور مراد یہ ہے کہ جہاد کے وقت کافروں سے ڈر کر مقابلہ نہ کر سکے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وقت جرأت نہ کرنا بھی ان میں داخل ہے اور رزق کے معاملے میں دل سے اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کرنا وہ بھی اس میں داخل ہے۔

ادائیگی قرض کے لیے دعا

۳۳/۲۳۲۲ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَاءَهُ مُكَاتِبٌ فَقَالَ إِنِّي عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِيتِي قَالَ أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمْنِيَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ كَبِيرٍ ذُنْبًا أَذَاهُ اللَّهُ عَنْكَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاعْغِثْنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ (رواه الترمذی و البیہقی فی الدعوات الکبیر)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۲۰/۱۵ حدیث رقم ۳۶۳۴۔

ترجمہ حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک مکاتب آیا پس اس نے کہا کہ تحقیق میں اپنا بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز ہوں یعنی مال کتابت کے ادا کا وقت پہنچ گیا ہے اور میرے پاس مال نہیں ہے پس مال اور دعا کے ساتھ میری مدد کیجیے فرمایا کہ کیا میں تجھ کو وہ کلمات سکھلا دوں جو مجھ کو پیغمبر ﷺ نے سکھائے کہ اگر تجھ پر بڑے پہاڑ کے برابر قرض ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو تیرے ذمے سے ادا کر دے گا۔ تو کہہ اے الہی! مجھ کو اپنے حلال کے ساتھ حرام سے کفایت کر یعنی رزق حلال پہنچا کہ اس کی وجہ سے حرام سے بے پرواہ ہو جاؤں اور مجھ کو بے پرواہ کر ان چیزوں سے جو تیرے سوا ہیں۔ اس کو امام ترمذیؒ نے اور بیہقی نے دعوات کبیر میں نقل کیا ہے۔

تشریح ❁ اس حدیث پاک میں ادائیگی قرض کے لیے دُعا بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اس دُعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کو ادا کر دے گا اگرچہ وہ پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ مالک اس کو لکھوائے کہ جب تو اتنے روپے ادا کر دے گا تو اس وقت تو آزاد ہے اور بدل کتاب اس مال کو کہتے ہیں کہ اس مکاتب غلام نے اپنے ذمے پر ادا کرنا

اس کا قبول کر لیا۔ تو جب ادا کرے گا اس وقت آزاد ہوگا۔

ہم جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث: اِذَا سَمِعْتُمْ نَبَاحَ الْكَلْبِ فِي بَابِ تَغْطِيَةِ الْاَوَانِي فِي ذِكْرِ كَرِيں گے۔ ان شاء اللہ۔

الفصل الثالث:

مجلس سے اُٹھتے وقت کی دُعا

۳۳/۲۳۲۳ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْ صَلَّى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَمَسَّاهُ عَنْ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ إِنَّ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِشَرٍّ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ (رواه النسائي)

اخرجه النسائي في السنن حديث رقم ۷۷/۶۔ واحمد في المسند۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ جب ایک جگہ پر بیٹھے یا نماز پڑھتے یعنی مجلس سے اُٹھتے وقت اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد چند کلمے پڑھتے۔ میں نے ان سے پوچھا یعنی ان کا فائدہ پوچھا پس فرمایا اگر نیک کلام کیا جائے یعنی ان کلموں سے پہلے تو یہ کلمے ان پر میسر ہو گئے یعنی نیک کلام پر قیامت تک۔ یعنی وہ کلام محفوظ ہوگا۔ اس کا ثواب محفوظ رہے گا۔ ضائع نہیں ہوگا۔ اگر برا کلام کیا جائے۔ یعنی ان کلموں سے پہلے اگر گناہ کا کلام کیا جائے گا تو یہ کلمے اس کی بخشش کا سبب ہو جائیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں: اے الہی! تو پاک ہے اور ہم تیری پاکی کے ساتھ تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اس کو امام نسائی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ کا معمول مبارک بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ جب مجلس سے اُٹھتے تو یہ مذکورہ دُعا پڑھتے تاکہ مجلس میں اگر کوئی گناہ وغیرہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے معاف فرمادے۔

چاند دیکھنے کی دُعا

۳۵/۲۳۲۴ وَعَنْ قَتَادَةَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهَلَالَ قَالَ هَلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ هَلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ هَلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ اَمْتُتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرٍ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا۔ (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود في السنن ۳۲۶/۴۔ حديث رقم ۵۰۹۲۔

ترجمہ: حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ ان کو یہ بات پہنچی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب نئے چاند کو دیکھتے تو کہتے کہ بھلائی کا چاند ہے ہدایت کا چاند ہے بھلائی کا چاند ہے ہدایت کا چاند ہے میں ایمان لایا اس ذات کے ساتھ جس نے تجھ کو (یعنی چاند کو) پیدا کیا یعنی یہ بھی تین بار کہتے پھر کہتے سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لئے ہیں کہ جو اس مہینے کو لے گیا اور اس مہینے کو لایا یعنی گزشتہ ماہ اور آئندہ کا نام لیتے۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے آپ ﷺ جب چاند دیکھتے تو مذکورہ دُعا پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ کہتے: هَلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ۔ جیسا کہ داری کی روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے اور ہدایت اور بھلائی کا چاند ہے یہ بمعنی دُعا کے ہے یعنی اس چاند میں ہدایت اور بھلائی ہو یا نیک فال کے طور پر خبر ہے۔

غم و فکر کے وقت کی دُعا

۳۶/۲۳۲۵ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَثُرَ هَمُّهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ وَفِي قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضِيَ حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَلْهَمْتَ عِبَادَكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتُ بِهِ فِي مَكْنُونِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَجِلَاءَ هَمِّي وَعَيْمِي مَا قَالَهَا عَبْدٌ قَطُّ إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ بِهِ فَرَحًا۔ (رواہ رزین)

رواہ رزین۔

ترجمہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص کو بہت زیادہ فکر لاحق ہو۔ پس چاہیے کہ وہ کہے اے الہی! تحقیق میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں اور میں تیرے قبضے میں ہوں یعنی تیرے ملک و تصرف میں ہوں۔ میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی حرکت و قوت نہیں ہے سوائے تیری مدد کے ساتھ جو کہ میرے حق میں جاری ہے یعنی تیرے حکم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے جو کہے اور چاہے وہ ہی ہوگا۔ تیری قضا یعنی فیصلہ میرے امر میں عدل ہے میں ہر نام کے ساتھ تجھ سے وسیلہ مانگتا ہوں۔ وہ تیرے واسطے ہیں تو نے اس کے ساتھ اپنی ذات کا نام رکھا تو نے اس کو اپنی کتاب میں اتار دیا تو نے وہ نام اپنی مخلوق کو سکھایا یعنی انبیاء علیہم السلام کو الہام کیا۔ کتاب میں ذکر کرنے کے بغیر یا تو نے اس کو غیب کے پردے کے بیچ اپنے نزدیک کسی کو اختیار کیا۔ اس کی اطلاع سوائے تیرے کسی کو نہیں ہے یہ کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کی روشنی اور میرے غم کا دور کرنے والا اور خوف اور غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا اس کو کوئی بندہ کبھی بھی نہیں کہتا مگر اللہ تعالیٰ اس کا غم دور کر دیتا ہے اور غم کی جگہ بدل دیتا ہے اور خوشی کو لے آتا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس آدمی کو فکر و پریشانی لاحق ہو وہ یہ مذکورہ دُعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا غم دور کر دے گا۔

بلندی پر چڑھتے اور اترتے وقت کی دُعا کا ذکر

۳۷/۲۳۲۶ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا أَنْزَلْنَا سَبَّحْنَا۔

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۳۵/۴۔ حدیث رقم ۲۹۹۳۔ والدارمی فی السنن ۳۷۳/۲۔ حدیث رقم ۲۶۷۴۔ واحمد

فی المسند ۳۳۳/۳۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب ہم بلند جگہ پر چڑھتے تو ہمیں اللہ اکبر کہتے اور جب اترتے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم بلندی پر چڑھیں تو ہمیں اللہ اکبر کہنا چاہیے اور جب اتریں تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔

پریشانی کے وقت کی دُعا

۳۸/۲۳۲۷ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَرِهَ أَمْرٌ يَقُولُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ (رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب ولیس بمحفوظ)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۰۱/۵ حدیث رقم ۳۵۹۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق جب نبی کریم ﷺ کو کوئی امر غمگین کرتا تو کہتے اے زندہ (مخلوق کو) قائم رکھنے والے میں تیری رحمت کی فریادری کرتا ہوں۔ اس کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے محفوظ نہیں ہے۔

تشریح: اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے غم کو دور کرنے کے لیے مذکورہ دُعا پڑھنی چاہیے اور یہ حاکم اور ابن کثیر نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور حاکم اور نسائی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: ویسکود وھو ساجد یا حی یا قیوم یعنی سجدے کی حالت میں بار بار کہتے۔

خوف کے وقت کی دُعا

۳۹/۲۳۲۸ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُولُ وَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ قَالَ نَعَمْ اَللّٰهُمَّ اسْتَرْعُوْرَاتَنَا وَاٰمِنْ رَّوْعَاتِنَا قَالَ فَضَرَبَ اللَّهُ وَجْهَهُ اَعْدَانِهِ بِالرَّيْحِ وَهَزَمَ اللَّهُ بِالرَّيْحِ۔ (رواه احمد)

اخرجه احمد فی المسند ۳/۳۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے خندق کے دن عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! یعنی کوئی ایسی چیز ہے یعنی ذکر و دُعا کہ ہم اس کو پڑھیں۔ یعنی تاکہ فتح ہو کیوں کہ ہمارے دل گردن کو پہنچ گئے ہیں۔ یعنی نہایت دشواری اور محنت لاحق ہوتی ہے۔ فرمایا ہاں وہ کلمات یہ ہے۔ اے الہی! ہمارے عیب ڈھانک اور ہم کو ڈر سے امن میں رکھ۔ ابوسعید رضی اللہ عنہ نے کہا ہے پس اللہ نے ان کے دشمنوں کے منہ ہوا کے ساتھ مارے اور ان کو ہوا کے ذریعہ شکست دی۔ اس کو امام احمدؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ صحابہؓ نے جنگ خندق کے موقع پر عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم بہت پریشان ہیں ہمارے دل حلقوں تک پہنچ چکے ہیں اور ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہم دشمن پر فتح پالیں۔

خندق کے دن کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر تیز ہوا مسلط کر دی کہ ان کی ہانڈیاں الٹ دیں اور ان کے خیمے اکھڑ گئے اور کفار کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا کر تباہ و برباد کر دیا۔

بازار میں داخل ہونے کی دُعا

۳۰/۲۳۲۹ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَصِيبَ فِيْهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً - (رواه البيهقي في الدعوات الكبير)

رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر -

ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب بازار میں تشریف لاتے تو فرماتے میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آیا ہوں اے الہی! تحقیق میں تجھ سے اس بازار کی بھلائی مانگتا ہوں۔ یعنی رزق حلال میسر ہو اور اس میں نفع اور برکت ہو اور اس چیز کی بھلائی مانگتا ہوں جو اس میں ہے یعنی لوگ اور میں تیرے ساتھ اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے کہ جو اس میں ہے پناہ مانگتا ہوں یعنی عقدین فاسدہ اور نقصان سے اور مفسد لوگوں سے اے الہی! تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ اس بات سے کہ میں نقصان کے معاملہ کو پہنچوں۔ یہ حدیث بیہقی نے دعوات کبیر میں نقل کی ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بازار میں داخل ہونے کی دُعا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ جب بازار میں تشریف لے جاتے تو فرماتے میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں اور اس سے رزق حلال اور نفع اور برکت کا سوال کرتا ہوں۔

بَابُ الْاِسْتِعَاذَةِ

پناہ مانگنے کا بیان

الفصل الاول:

آزمائش سے پناہ مانگنا

۱/۲۳۴۰ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۱۳/۱۱ - حدیث رقم ۶۶۱۶ - ومسلم فی صحیحہ ۲۰۸۰/۴ حدیث رقم (۵۳)۔

(۲۷۰۷) - واحمد فی المسند ۲۴۶/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بلا کی مشقت سے اور بد بختی کے پہنچنے سے

اور بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ اس کو امام بخاری اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔
 تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور ﷺ آزمائش سے پناہ مانگتے تھے۔ بلا اس حالت کو کہتے ہیں کہ امتحان لیا جائے اور فتنے میں ڈالا جائے۔ اس میں آدمی دشواریوں میں مبتلا ہو اور جہد کے معنی ہیں نہایت مشقت پس اس سے مراد مصیبتیں ہیں کہ جو آدمی کو دین و دنیا میں پہنچیں اور اس کے دفع کرنے سے اور ان کے واقع ہونے سے صبر نہ کرنے پر عاجز ہو۔

اور بری تقدیر سے مراد وہ چیز ہے جو آدمی کے حق میں بری ہو اور دشمنوں کے خوش ہونے سے یعنی دین و دنیا کی مصیبت ہم کو نہ پہنچے کہ جس سے دشمن خوش ہوں۔ لہذا یہ دعا سب مطالب کو جامع ہے۔

اندیشہ اور غم سے نجات کے لیے جامع دعا

۲/۲۳۳۱ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۷۸/۱۱ - حدیث رقم ۶۳۶۹ - وابوداؤد فی السنن ۹۰/۲ حدیث رقم ۱۰۴۱ - والترمذی ۱۷۲/۵ حدیث رقم ۳۵۰۱ - واحمد فی المسند ۲۲۶/۳

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فرماتے تھے اے الہی! تحقیق میں تیرے خوف سے اور غم سے اور عاجز ہونے سے اور سستی سے اور نامردی سے اور بخلی سے اور دین کے بوجھ سے اور لوگوں (یعنی ظالموں) کے غلبہ سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اللہ کے خوف اور غم سے اور سستی اور بخلی سے اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبہ سے نجات مانگی ہے۔

جامع دعا

۳/۲۳۳۲ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْتَمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغَنِيِّ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الْغُلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِي كَمَا يَنْقَى الْقَوْبُ الْآبِضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۸۱/۱۱ - حدیث رقم ۶۲۷۵ - ومسلم فی صحیحہ ۲۰۷۸/۴ حدیث رقم (۵۸۹ - ۴۹) -

والترمذی فی السنن ۱۸۶/۵ حدیث رقم ۳۵۶۰ - واحمد فی المسند ۱۸۵/۲

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فرماتے تھے اے الہی! تحقیق میں سستی سے یعنی طاعت میں

سستی سے اور بڑھاپے سے یعنی بڑھاپے کی وجہ سے بے حواس ہو جانے سے اور اعضاء کے ناکارہ ہونے سے اور قرض سے اور گناہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے الہی! تحقیق میں تیرے آگ کے عذاب سے اور قبر کے فتنہ سے اور قبر کے عذاب سے اور دولت کے فتنہ کی برائی سے اور فقر کی فتنہ کی برائی سے اور کالے دجال کے فتنے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے الہی! میرے گناہوں کو برف والے پانی کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ دھو دے یعنی مجھ کو گناہوں سے پاک کر دے طرح کی مغفرتوں کے ساتھ پاک کر دے جیسے کہ یہ چیزیں میل سے پاک کرتی ہیں اور میرے دل کو برے اخلاق سے پاک کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے اور میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جیسے کہ تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ کی ایک جامع دُعا کا بیان ہے جس میں آگ کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے یعنی میں پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں دوزخیوں میں سے نہ ہو جاؤں اس لیے کہ وہ کفار ہیں۔

اس لیے کہ عذاب کافروں کو ہی ہوگا اور موحدین کا اکرام کیا جائے گا اور آگ کے عذاب سے پاک کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو آگ کے فتنہ سے محفوظ دما مومن رکھے گا۔ مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آگ اور قبر کے عذاب کا باعث ہوں یعنی گناہ اور فتنہ قبر سے مراد ہے مگر وکیل کے جواب میں متحیر ہونا اور عذاب قبر سے مراد یہ ہے کہ لوہے کے گرزوں سے مارنا اور اس کو عذاب ہونا جو جواب نہ دے سکے گا اور قبر سے مراد برزخ ہے خواہ قبر ہو یا اور کچھ اور دولت کا فتنہ ہے تکبر اور سرکشی کرنا اور مال حرام کو حاصل کرنا ہے اور اس کو گناہ میں خرچ کرنا اور مال و جاہ کے ساتھ فخر کرنا ہے اور فقر کا فتنہ اغنیاء پر حسد کرنا ہے اور ان کے مالوں میں طمع کرنا ہے اور اس چیز پر راضی نہ ہونا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ان تمام چیزوں سے امن میں رکھا۔ لیکن امت کی تعلیم کے لئے ان سے پناہ مانگی ہے۔

دُنیا اور برزخ میں لاحق ہونے والی پریشانیوں سے پناہ مانگنا

۳/۲۳۳۳۔ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبَخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّهَا أَنْتَ وَلَيْسَ وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۰۸۸/۴ حدیث رقم (۷۳-۲۷۲۲)۔

ترجمہ: حضرت زید بن ارقمؓ روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فرماتے تھے اے الہی! تحقیق میں طاعت سے عاجز ہونے سے۔ یعنی قدرت نہ رکھنے سے۔ اطاعت پر اور سستی سے یعنی اچھے کاموں میں اور نامردی سے اور بخلی سے اور بڑھاپے سے یعنی اعضاء کے ناکارہ ہونے سے اور بڑھاپے کی وجہ سے غمی اور عذاب قبر سے یعنی قبر کی تنگی سے اور وحشت سے اور گرزوں کی مار سے اور بھجھوؤں کے ڈنک مارنے سے اور سانپوں کے ڈسنے سے اور ان کی مانند چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے الہی! میرے نفس کو پرہیزگاری عطا کر اور اس کو پاک کر۔ تو بہترین ہے ان کے لیے جنہوں نے اس کو پاک کیا

تو اس کا کار ساز ہے اور اس کا مالک ہے۔ اے الہی! تحقیق میں اس علم سے کہ جو نفع نہ دے اور اس دل سے کہ جو نہ ڈرے یا اللہ کے ذکر سے تسکین نہ پائے اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو یعنی حریص ہو تسکین پائے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر قناعت نہ کرے اور اس دُعا سے کہ اس کے واسطے نہ قبول کی جائے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔

تشریح ﴿ اس حدیث میں آپ ﷺ نے دنیا اور برزخ میں انسان کو جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں ان سے پناہ مانگی ہے اور غیر نافع علم سے بھی آپ ﷺ نے پناہ مانگی ہے یعنی اس علم سے کہ میں اس پر عمل نہ کروں اور نہ اس کو لوگوں کو سکھاؤں اور وہ علم اخلاق اور افعال کو بھی درست نہ کرے یا اس سے مراد وہ علم ہے کہ جس سے دین میں کوئی فائدہ نہ ہو یا اس علم سے مراد وہ علم ہے کہ اس کے سیکھنے میں کوئی اذن شرعی نہ ہو اور ابوطالب مکی نے کہا ہے کہ حضور ﷺ نے علم کی ایک قسم کا حکم بتا دیا جیسے کہ شرک سے پناہ مانگی اور نفاق اور برے اخلاق سے اور جو علم تقویٰ کا باعث نہ ہو تو وہ دنیا کے ابواب میں سے ایک باب ہے اور ہوا یعنی خواہش نفسانی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔

اچانک آنے والے عذاب اور غضبِ خداوندی سے پناہ مانگنا

۵/۲۳۳۲ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِعْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۰۹۷/۴ حدیث رقم (۹۶-۲۷۳۹)۔ وابوداؤد فی السنن ۹۱/۲ حدیث رقم ۱۵۴۵۔
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی دُعاؤں میں سے یہ دُعا بھی تھی کہ اے الہی! تحقیق میں تیری رحمت کے جاتے رہنے سے اور تیری عافیت کے بدلنے سے۔ یعنی مثلاً صحت کے بدلے بیماری ہو اور غنا کے بدلے فقر ہو اور تیرے اچانک عذاب سے اور تیرے تمام غضبوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے اچانک عذاب کے آنے اور غضبِ خداوندی سے پناہ مانگی ہے اور حدیث پاک میں نعمت سے مراد ایمان اور اسلام اور نیکیاں اور عرفان ہے۔

۶/۲۳۳۵ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۰۸۵/۴ حدیث رقم (۹۵-۲۷۱۶)۔ وابوداؤد فی السنن ۹۲/۲ حدیث رقم ۱۵۵۰۔
واحمد فی المسند ۱۳۹/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فرماتے تھے اے الہی! تحقیق میں تجھ سے اس کام کی برائی سے جو میں نے کیا اور اس کام کی برائی سے کہ جو میں نے نہیں کیا پناہ مانگتا ہوں۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں برے کاموں سے پناہ مانگی گئی ہے یعنی جو برے کام کر چکا ہوں ان کی برائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی ان پر عذاب نہ ہو اور بخشے جائیں اور جو کام میں نے نہیں کیے ان کی برائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں یعنی

آئندہ ایسا کوئی کام نہ کروں جو تیری ناراضگی کا باعث ہو۔ یا برے کاموں کے ترک کو اپنی خوبی نہ جانوں بلکہ اسے صرف تیرا فضل سمجھوں۔

آپ ﷺ کی ایک جامع دُعا کا بیان

۷/۲۳۳۶ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ أَسَلْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ انْتَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مِنْ أَنْ تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۱۶۱/۱۔ حدیث رقم ۶۳۱۷۔ مسلم ۲۰۸۶/۴۔ حدیث رقم (۶۷-۲۷۱۷)۔ والدارمی فی السنن ۴۱۵/۱۔ حدیث رقم ۱۴۸۶۔ واحمد فی المسند ۹۵/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ فرماتے تھے۔ اے الہی! تیرے واسطے میں نے فرمانبرداری کی اور تیرے ساتھ میں ایمان لایا اور تجھی پر میں نے توکل کیا اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا یعنی گناہوں سے تیری اطاعت کی طرف میں نے رجوع کیا اور تیری مدد کے ساتھ میں (کافروں سے) لڑتا ہوں۔ اے الہی! تحقیق میں تیری عزت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس سے کہ تو مجھ کو گمراہ کرے تو ایسا زندہ ہے جس کو موت نہ آئے گی اور جن اور انسان مر جائیں گے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں ایک جامع دُعا کا ذکر ہے جس کے الفاظ اوپر متن حدیث میں مذکور ہیں۔

الفصل الثانی:

چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا بیان

۸/۲۳۳۷ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ۔

(رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ و رواہ الترمذی عن عبد اللہ بن عمرو و النسائی عنہما)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۸۱/۵۔ حدیث رقم ۳۵۴۹۔ وابن ماجہ فی السنن ۱۲۶۱/۲۔ حدیث رقم ۳۸۳۷۔ واحمد فی المسند ۱۶۷/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے اے الہی! تحقیق میں چار چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے کہ نفع نہ دے اور اس دل سے کہ عاجزی نہ کرے اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دُعا سے کہ قبول نہ کی جائے۔ اس کو امام احمد اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے اس روایت کو عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے اور نسائی نے ابو ہریرہ اور عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے چار چیزوں سے پناہ مانگی ہے: ﴿غیر نافع علم﴾۔ ﴿ایسی دعا جو مقبول

نہ ہو۔ ۳) ایسا نفس جو سیر نہ ہو۔ ۴) اور ایسا دل جس میں خشوع نہ ہو۔

پانچ چیزوں سے پناہ پکڑنے کا بیان

۹/۲۳۳۸ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصُّدُورِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔ (رواه ابو داود والنسائي)

اخرجه ابو داؤد ۹۰/۲ حدیث رقم ۱۵۴۰۔ وابن ماجہ ۱۲۶۳/۲ حدیث رقم ۳۸۴۴۔ واحمد فی المسند ۲۲/۱۔
ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ پانچ چیزوں سے یعنی نامردی اور بخلی سے اور عمر کی برائی سے یعنی اتنی عمر ہو کہ قوی اور حواس میں فرق آ جائے اور طاعت کی قوت نہ رہے اور سینہ کے فتنے سے یعنی سینے میں برے اخلاق اور برے عقائد جگہ پکڑیں یا حق بات کو قبول نہ کرے اور آزمائشوں کا تحمل نہ ہو اور عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اس کو ابو داؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ پانچ چیزوں سے پناہ پکڑتے تھے: ۱) نامردی، ۲) بخلی، ۳) عمر کی برائی سے، ۴) سینہ کے فتنے سے، ۵) اور قبر کے عذاب سے۔

ذلت اور محتاجگی سے پناہ مانگنے کا بیان

۱۰/۲۳۳۹ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ۔ (رواه ابو داود والنسائي)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۹۱/۲ حدیث رقم ۱۵۴۴۔ ابن ماجہ ۱۲۶۳/۲ حدیث رقم ۳۸۴۲۔ واحمد فی المسند ۳۰۵/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کہتے تھے اے الہی! تجھ میں محتاجگی سے، کمی سے، ذلت سے پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں۔ اس کو ابو داؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ ان مذکورہ چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اور محتاجگی سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے۔ محتاجگی سے مراد دل کی محتاجگی ہے یعنی دل مال کے جمع کرنے پر حریص ہو۔ یا مال کی محتاجگی مراد ہے کہ اس میں صبر نہ ہو۔ پس حقیقت میں محتاجگی کے فتنہ سے پناہ مانگی اور کمی سے نیکوں کی کمی مراد ہے نہ کہ مال کی کمی۔ اس لیے کہ حضور ﷺ نے مال کی کمی کو اختیار کیا تھا اور کثرت مال کو مکروہ سمجھتے تھے یا کمی سے مراد وہ مال کی کمی ہے کہ جو قوت لایموت کو کفایت نہ کرے اور عبادت کے کرنے میں حرج ہو اور بعضوں نے کہا کہ صبر کی کمی مراد ہے اور ذلت سے مراد گناہوں کی وجہ سے جو ذلت ہو وہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گنہگار ذلیل ہوتا ہے یا انبیاء کی نظر میں مسکین کی وجہ سے ذلیل ہونا مراد ہے۔

نفاق اور برے اخلاق سے پناہ مانگنے کی دُعا

۱۱/۲۳۳۰ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ

وَسُوءِ الْآخِلَاقِ - (رواه ابو داود والنسائی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۹۱/۲ حدیث رقم ۱۵۴۶ - والنسائی ۲۶۴/۸ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کہتے تھے اے الہی! تحقیق میں تیرے خلاف سے اور نفاق سے اور برے اخلاق سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کو ابو داؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں شقاق کا لفظ آیا ہے یعنی حق سے مخالفت کا اور بعضوں نے کہا کہ شقاق سے مراد آپس میں عداوت ہے اور نفاق سے تمام نفاق کی اقسام مراد ہیں خواہ عقیدہ میں نفاق ہو یا عمل میں یعنی دل میں کفر رکھنا اور اسلام کا ظاہر کرنا اور ظاہر کرنا کسی کے خلاف اس چیز کے دل میں ہو اور بہت جھوٹ بولنا اور امانت میں خیانت کرنا اور وعدے کے خلاف کرنا وغیرہ ذلک۔

بھوک اور خیانت سے پناہ مانگنے کا بیان

۱۲/۲۳۳۱ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَنْسُ

الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَاةِ فَإِنَّهَا يَنْسِتُ الْبَطْلَانَةُ - (رواه ابو داود والنسائی وابن ماجہ)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۹۱/۲ حدیث رقم ۱۵۴۷ - وابن ماجہ ۱۱۱۳/۲ حدیث رقم ۳۳۵۴ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ کہتے تھے اے الہی! تحقیق میں تجھ سے بھوک سے پناہ مانگتا ہوں۔ پس تحقیق وہ بدترین ہم خواب ہے اور تیرے ساتھ خیانت سے پناہ مانگتا ہوں پس تحقیق وہ دل کی بری خلعت ہے اس کو ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بھوک سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اس سے آدمی کے بدن قوی و حواس میں اور حضوری و عبادت کرنے میں فتور آتا ہے۔ پس بھوک بہت بری ہے جو ضرر کا باعث ہو اور جو بھوک ریاضت کے لیے بطور اعتدال کے ہو اور موافق حال کے ہو بری نہیں ہے بلکہ وہ باطن کی صفائی اور دل کی نورانیت اور بچاروں کے لئے بدن کی صحت و سلامتی ہے اور خیانت سے مراد اللہ اور رسول ﷺ کی نافرمانی کرنا ہے اور لوگوں کے مالوں میں اور رازوں میں خیانت کرنا ہے۔ چنانچہ اس پر یہ آیت دلالت کرتی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الانفال: ۲۷)

کوڑھ اور جذام اور دیوانگی سے پناہ مانگنے کا بیان

۱۳/۲۳۳۲ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ

وَالْجَذَامِ وَالْجُنُونِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ - (رواه ابو داود والنسائی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۹۳/۲ حدیث رقم ۱۵۵۴۔ واحمد فی المسند ۱۹۲/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فرماتے اور کہتے تھے اے الہی! تحقیق میں تیرے ساتھ کوڑھ اور جذام سے اور دیوانگی سے اور بری بیماریوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کو ابو داؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں بیماریوں سے پناہ مانگی ہے اس کو تعیم بعد تخصیص کہتے ہیں یعنی پہلے خاص بری بیماریوں سے پناہ مانگی۔ پھر عام بیماریوں سے مثلاً استسقاء اور دق وغیرہ سے پناہ اس لیے مانگی کہ اکثر لوگ گھن جھاتے ہیں اور ہیئت متغیر ہو جاتی ہے اور آدمی آدمیت سے نکل جاتا ہے اور یہ بیماریاں ہمیشہ رہتی ہیں۔ بخلاف اور بیماریوں کے مثلاً بخار اور درد وغیرہا ان میں یہ حال نہیں ہوتا اور رنج کم ہوتا ہے اور ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اور ابن ملک نے کہا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جو مرض ایسا ہو کہ لوگ اس مرض والے سے احتراز کرتے ہیں اور اس سے متشع نہیں ہوتے اور نہ وہ ان سے متشع ہوتا ہے اور اس مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق سے عاجز ہو تو اس سے پناہ مانگی مستحب ہے کوڑا اور جذام بالطبع نہیں ہیں یعنی کسی کو لگتے نہیں مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کوڑی یا جذامی سے بدن لگانے سے یعنی جذامی کی پیپ لگ کر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ (معاذ اللہ)

برے عملوں اور اخلاقِ سیئہ سے پناہ مانگنے کا بیان

۱۴/۲۳۴۳ وَعَنْ فَطِيْمَةَ بِنِ مَالِكٍ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ

مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ - (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۵۷۵/۵ الحدیث رقم ۳۵۹۱۔

ترجمہ: حضرت فطیمہ بن مالک رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کہتے تھے اے الہی! تحقیق میں بد اخلاق سے اور برے عملوں سے اور بری خواہشوں سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں برے اخلاق سے اور برے اعمال سے اور بری خواہش جو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ مگر اس برائی کو کہتے ہیں کہ جس کی بھلائی شریعت سے معلوم نہ ہو اور اس کی برائی شروع سے معلوم ہو اور اخلاق سے مراد باطن کے اعمال ہیں حاصل یہ کہ دل کے برے اعمال سے پناہ مانگی گئی ہے جیسے حسد و کینہ وغیرہ اور برے اعمال سے میں پناہ مانگتا ہوں مراد ظاہر کے برے افعال ہیں اور بری خواہشات سے مراد برے عقیدے ہیں۔

جامع دعا

۱۵/۲۳۴۳ وَعَنْ شُعْبَةَ بْنِ شَكْلٍ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلِّمْنِي تَعْوِذًا اتَّعَوَّذُ بِهِ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِیْ وَشَرِّ بَصَرِیْ وَشَرِّ لِسَانِیْ وَشَرِّ قَلْبِیْ وَشَرِّ مَنِّیْ۔

(رواه ابو داؤد و الترمذی و النسائی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۹۲/۲ حدیث رقم ۱۵۵۱۔ واحمد فی المسند ۴۲۹/۳۔

ترجمہ: حضرت فتیر بن شغل بن حمید سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ اے اللہ کے نبی! مجھے ایک تعویذ سکھائیے یعنی ایسی دعا سکھائیے کہ اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کروں۔ فرمایا کہ ہواے الہی! تحقیق میں تیرے ساتھ اپنی بری شوائی سے پناہ مانگتا ہوں یعنی برا کلام نہ سنوں اور اپنی بینائی کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں یعنی بری چیز اس سے نہ دیکھوں اور اپنی زبان کی برائی یعنی برے کلام اور بے فائدہ بات سے اور اپنے دل کی برائی سے یعنی برے عقیدے اور حسد و کینہ وغیرہ دل میں نہ رکھوں اور برے کام پر مصمم (یعنی مضبوط ارادہ نہ کروں) اور اپنی مٹی کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں یعنی زنا میں صرف نہ ہواور شہوت کی نظر سے کسی کو نہ دیکھوں۔ اس کو ابوداؤد و ترمذی اور نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں ایک جامع دُعا کا بیان میں ہے جس میں آپ ﷺ نے بہت سی چیزوں سے پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔

زہریلے جانوروں اور اچانک ہلاک کر دینے والی چیزوں سے پناہ پکڑنا

۱۶/۲۳۳۵ وَعَنْ أَبِي الْيَسْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَذْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرْدِيِّ وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُذْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدَيْغًا۔

(رواہ ابوداؤد والنسائی وزاد فی رواۃ احرى والغم)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۹۲/۲ حدیث رقم ۱۵۵۲۔ واحمد فی المسند ۴۲۶/۳۔

ترجمہ: حضرت ابو یسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ دُعا مانگا کرتے تھے کہ اے الہی! تحقیق میں تجھ سے مکان کے گرنے سے پناہ مانگتا ہوں یعنی مجھ پر دیوار یا مکان نہ گر پڑے کہ ہلاک ہو جاؤں اور میں تجھ سے بلند جگہ سے گرنے سے پناہ مانگتا ہوں اور ڈوبنے سے اور جلنے سے اور بہت زیادہ بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں اور میں تیرے ساتھ اس سے کہ شیطان مجھ کو مرنے کے وقت حیران کرے پناہ مانگتا ہوں۔ مرنے کے وقت یعنی دوسو سے ڈالے اور دین کو تباہ کر دے اس سے پناہ مانگتا ہوں اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ راستے میں پشت دکھا کر مروں یعنی جہاد میں کفار سے بھاگ کر اور میں تجھ سے سانپ، بچھو اور ان کی مانند زہریلے جانور کے کاٹنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کو ابوداؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے اور نسائی نے ایک روایت میں غم کا لفظ زیادہ کیا ہے یعنی میں تیرے ساتھ غم سے پناہ مانگتا ہوں۔

تشریح: اس حدیث پاک میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جو انسان کو اچانک ہلاک کر دیتی ہیں تو آپ ﷺ نے ان سے بھی پناہ مانگی ہے اگر کوئی کہے ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان شہادت کا درجہ پالیتا ہے پھر آپ ﷺ نے ان سے پناہ کیوں مانگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے اوقات میں انسان کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے انسان صبر نہیں کر سکتا۔ مبادا انسان اس کو بہکا کر اس کا دین تباہ نہ کر دے۔ اس لیے ان سے پناہ مانگی گئی ہے اور بہت زیادہ بڑھاپے سے کہ حواس اور قوی میں فرق آ جاتا ہے اور آدمی بیہودہ کاموں میں لگ جاتا ہے اور عبادت میں فتور آ جاتا ہے اس سے بھی آپ ﷺ نے پناہ مانگی ہے اور یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کو یاد کرتا ہے اس سے محفوظ رہتا ہے۔

لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے پناہ طلب کرنا

۲۳۳۶/۷ اَوْ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى طَمَعٍ -

(رواہ احمد البیہقی فی الدعوات الکبیر)

اخرجه احمد فی المسند ۲۳۲/۵ -

ترجمہ: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے طمع کے ساتھ پناہ پکڑو کہ وہ تم کو طمع تک پہنچادے۔ اس کو احمد اور تہذیبی نے دعوات کبیر میں نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں طمع کا لفظ آیا ہے جس کے معنی امید کے ہیں یعنی لوگوں سے مال کی امید رکھنا اور طمع اصل میں تلوار کے زنگ لگنے کو کہتے ہیں اور یہاں غیب مراد ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے طمع سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھ کو اس حالت کی طرف پہنچادے کہ جو میری زندگی کو معیوب بنادے اور اہل دنیا کے سامنے تواضع کرنا اور سفلوں یعنی کمینوں کے آگے ذلیل ہونا اور ریاکاری کرنا اور سرمایہ داروں کی فضول میں تعریف کرنا اور ان کی چالپوسی کرنا اسی طرح اور دوسری چیزیں جو طمع کے وقت لاحق ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہا کہ طمع دین کے فساد کا باعث ہے اور ورع یعنی تقویٰ دین کی اصلاح کا باعث ہے اور شیخ علی متقی نے کہا ہے کہ طمع اس کو کہتے ہیں کہ اس مال کی امید رکھے کہ جس کے حاصل ہونے میں شک ہو اور اگر یقین ہو جیسے کسی پر حق ہو یا سچا وعدہ یا کسی سے راسخ محبت ہو اس سے توقع رکھنے کو طمع نہیں کہتے۔

چاند کے غروب ہونے سے پناہ پکڑنا

۱۸/۲۳۳۷ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اسْتَعِذِي بِاللَّهِ مِنْ

شَرِّ هَذَا فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْفَاسِقُ إِذَا وَقَبَ - (رواہ الترمذی)

اخرجه احمد فی المسند ۲۱۵/۶ - والترمذی فی السنن ۴۲۱/۵ حدیث رقم ۳۳۶۶ -

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ نے چاند کی طرف دیکھا پس فرمایا اے عائشہ! میں اللہ تعالیٰ سے اس کی (یعنی چاند کی) برائی سے پناہ پکڑتا ہوں۔ پس تحقیق یہ فاسق ہے اندھیرا کرنے والا ہے جب بے نور ہو جائے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: قرآن شریف میں آیا ہے: ﴿غَاسِقٌ إِذَا وَقَبَ﴾ اس کو حضور ﷺ نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد چاند ہے جب کہ اس کو گہن لگ جائے۔ پس اس سے پناہ مانگنے کا سبب یہ ہے کہ اس کا گہنا خدا تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اور بلاؤں آزمائشوں کے اترنے پر دلالت کرتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس وقت حضور ﷺ خوف اور کاہنے کی حالت میں اٹھ کھڑے ہوتے لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ بلاؤں کے اترنے سے مراد وہ بلائیں اور مصیبتیں نہیں جو نجوم یا باطل عقیدہ لوگ کسوف و خسوف کے سلسلے میں ثابت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اہل اسلام کے نزدیک معتبر نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ عبرت کا وقت ہوتا ہے کہ جب چاند نورانیت کے باوجود گہنا گیا اور اس کا نور جاتا رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے

نور ایمان اور عمل بھی جاتا رہے اور اکثر مفسروں نے ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ رات کی برائی سے جب تاریک ہو جائے۔

مختصر اور جامع دُعا کا بیان

۱۹/۲۳۳۸ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيْ يَا حُصَيْنُ كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ إِلَهًا قَالَ أَبِي سَبْعَةً سِتًّا فِي الْأَرْضِ وَوَاحِدَةً فِي السَّمَاءِ قَالَ فَأَيُّهُمْ تَعْبُدُ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ قَالَ الْإِدْيُ فِي السَّمَاءِ قَالَ يَا حُصَيْنُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَا نِكَ قَالَ فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي الْكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَعَدْتَنِي فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِلَهْمُنِي رُشْدِي وَأَعِزَّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي -

(رواہ الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴۸۵۱۵ حدیث رقم ۳۴۸۳۔

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ کے (مشرف باسلام ہونے سے قبل) فرمایا: اے حصین! کتنے معبودوں کی آج کے دن بندگی کرتا ہے۔ میرے باپ نے کہا سات معبودوں کی چھ زمین میں یعنی یغوث اور یعوق اور نسر اور لات اور منات اور عززی (بتوں کے نام ہیں) اور ایک آسمان میں کہ جو سب کا خالق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پس تو کس کو ان میں سے امید و ڈر کے شمار کرتا ہے یعنی کس سے بھلائی کی امید رکھتا ہے اور ڈرتا ہے؟ حصین رضی اللہ عنہ نے کہا جو آسمان میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حصین! خبردار ہو اگر تو اسلام لاتا تو میں تجھ کو دو کلمے سکھاتا کہ تجھ کو دین میں فائدہ دیتے۔ عمران نے کہا ہے۔ جب حصین مسلمان ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! مجھ کو وہ دو کلمے سکھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے الہی! میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور میرے نفس کی برائی سے مجھ کو پناہ دے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں جو خداؤں کا ذکر آیا ہے اس نے کہا چھ خدازمین میں اور ایک آسمان میں ہے۔ یہ اس نے اپنے گمان کے مطابق کہا ورنہ اللہ کے لیے ایک مکان مقرر نہیں ہے یا یہ معنی ہے کہ وہ جو آسمان میں ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔

تعویذ کا ثبوت نابالغ بچے کے لیے

۲۰/۲۳۳۹ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ - (رواہ ابو داود و الترمذی و هذا اللفظ)

اخرجه ابو داود فی السنن ۲۱۹۱۴ حدیث رقم ۳۸۹۳۔ و الترمذی فی السنن ۵۰۶۱۵ حدیث رقم ۳۵۲۸۔ و احمد فی

المسند ۱۸۱/۲۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ یعنی شعیب رضی اللہ عنہ سے اور وہ اپنے دادا یعنی عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے پس چاہیے کہ وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ساتھ اس کے غضب سے اور اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کی برائی سے اور شیطانوں کے دوسے سے اور اس سے کہ میرے شیطان میرے پاس حاضر ہوں پناہ مانگتا ہوں۔ پس ان کلمات کو کہنے والے کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد اللہ رضی اللہ عنہ یہ کلمات اس کو سکھاتے جو ان کی اولاد میں بائع ہوتا اور نابالغ ہوتا تو یہ کلمات کاغذ پر لکھ کر اس کو اُس کی گردن میں (بطور تعویذ) لٹکاتے۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور یہ لفظ ترمذی کے ہیں۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیند میں ڈرنا شیطان کے تصرف سے ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تعویذ کا گلے میں لٹکانا جائز ہے اور بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ لیکن مختار یہ ہے کہ منکوں وغیرہ کا لٹکانا حرام ہے اور مکروہ ہے اور اگر قرآن کی آیت یا اسمائے الہی لکھ کر لٹکا دیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

جنت کا سوال کرنا اور آگ سے پناہ مانگنا

۲۱/۲۳۵۰ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ الْجَنَّةُ أَلَهُمْ أَذْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ النَّارُ أَلَهُمْ أَجْرُهُ مِنَ النَّارِ۔

(رواہ الترمذی والنسائی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۶۰۳/۴ حدیث رقم ۲۵۷۲۔ والنسائی فی السنن ۲۷۹/۸ حدیث رقم ۵۵۲۱۔ واحمد فی

المسند ۲۰۸/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے۔ تین بار یعنی یوں کہے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ یا کہے: اَللّٰهُمَّ اِذْخِلْهُ الْجَنَّةَ یا کوئی خاتون اس مضمون کو کہے تو جنت کہتی ہے اے الہی! تو اس کو جنت میں داخل کر اور جو شخص آگ سے تین بار پناہ مانگے۔ تو یوں کہے: اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ اور زبان سے اس مضمون کو کہے تو آگ کہتی ہے اے الہی! تو اس کو آگ سے محفوظ رکھ۔ اس کو امام ترمذی اور نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ مجلس میں اس کو تین بار کہے یا کئی مجالس میں گڑگڑا کر کہے۔

الفصل الثالث:

جادو وغیرہ سے بچنے کی دُعا

۲۲/۲۳۵۱ وَعَنِ الْقَعْقَاعِ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ قَالَ لَوْلَا كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَّ لَجَعَلْتَنِي يَهُودَ حِمَارًا فَقِيلَ لَهُ مَا هُنَّ قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يَجَاوِزُهَا بَرٌّ وَلَا

فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ - (رواہ مالک)

اخرجه مالک فی الموطأ ۹۵۱/۲ حدیث رقم ۱۲ من کتاب السفر۔

ترجمہ: حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کعب احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں یہ کلمے نہ کہتا تو البتہ یہود مجھ کو گدھا بنا لیتے۔ پس ان سے کہا گیا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ کعب نے کہا میں اللہ کی ذات سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیز اس سے بڑی نہیں ہے اور اللہ کے کلموں سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کوئی نیک اور بد تجاوز نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جو کچھ کہ میں ان ناموں سے جانتا ہوں اور جو کچھ کہ نہیں جانتا۔ اس چیز کی برائی سے جس کو اس نے پیدا کیا اور پرانگندہ کیا اور برابر کیا۔ یعنی مناسب الاعضاء کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کو امام مالکؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں اسمائے حسنیٰ کی برکات بیان کی گئی ہیں اور کہتے ہیں کہ کعب الاحبار یہودیوں میں بڑے دانشمند تھے اور حضور ﷺ کے زمانے میں تھے لیکن حضور ﷺ کو دیکھا نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایمان لائے وہ کہتے تھے کہ ایمان لانے کی وجہ سے یہود مجھ سے بغض رکھتے تھے اگر میں یہ دُعا نہ کرتا تو سحر کر کے مجھ گدھے بنا دیتے اور گدھا کرنے سے مراد کہ مجھے بیوقوف ذلیل، مسلوب العقل گدھے کی طرح کر دیتے اور اللہ کے کلموں سے مراد قرآن ہے۔ پس تجاوز نہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے ثواب و عذاب سے کوئی خارج نہیں ہے یعنی جس سے ثواب یا عذاب کا وعدہ کیا ہے یا اور چیزوں کا قرآن میں وعدہ کیا ہے بلاشبہ ہوتا ہے اور یا اللہ کے کلموں سے مراد صفات الہی یا علوم الہی میں ان سے بھی کوئی چیز باہر نہیں ہے یعنی اللہ سب کو محیط گھیرے ہوئے ہے۔

فرض نماز کے بعد وظیفہ پڑھنے کا ذکر

۲۳/۲۳۵۲ وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ لَكُنْتُ أَقُولُهُنَّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخَذْتُ هَذَا قُلْتُ عَنْكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُهُنَّ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ۔

(رواہ النسائی والترمذی الا انه لم يذكر فی دبر الصلوة وروی احمد لفظ الحديث وعنده فی دبر كل صلاة)

اخرجه ابو داؤد فی المسند ۳۲۵/۵۔ حدیث رقم ۵۰۹۰۔ والنسائی ۲۶۲/۸۔ حدیث رقم ۵۴۶۵۔ واحمد فی المسند ۳۶/۵۔
ترجمہ: ابو بکرہ کے بیٹے مسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میرا باپ ہر نماز کے بعد (یعنی فرض نماز کے بعد یا پیچھے) کہتا تھا کہ اے الہی! تحقیق میں تیرے ساتھ کفر سے فقر سے یعنی فقر قلبی کے فتنہ سے۔ کہہ رہا ہوں کہ صبری ہے اور کفرانِ نعمت اور ان کی طرح سے اور عذابِ قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ پس میں یہ کلمے کہتا تھا۔ میرے باپ نے کہا اے میرے بیٹے تو نے یہ کلمے کس سے سیکھے؟ میں نے کہا آپ سے۔ کہا کہ تحقیق نبی کریم ﷺ ان کلموں کو نماز کے بعد کہتے تھے۔ اس کو نسائی اور ترمذی نے نقل کیا ہے مگر ترمذی نے لفظ دُبْر الصَّلَاة کا ذکر نہیں کیا اور احمدؒ نے لفظ حدیث کے نقل کیے ہیں یعنی باپ اور بیٹے کے ذکر کرنے کے بغیر اور احمدؒ کے نزدیک لفظ فی دُبْر کُلِّ الصَّلَاة یعنی لفظ کُل کا اس میں اضافہ ہے۔
تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد مذکورہ دُعا پڑھنی چاہیے۔

کفر اور قرض سے پناہ مانگو

۲۳/۲۳۵۳ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالَّذِينَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّعِدِلْ الْكُفْرَ بِالَّذِينَ قَالَ نَعَمْ وَلِي رِوَايَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ قَالَ رَجُلٌ وَيَعِدُ لَأَنْ قَالَ نَعَمْ - (رواه النسائي)

اخرجه النسائي في السنن ۲۶۷/۸ حديث رقم ۵۴۸۵ - واحمد في المسند ۳۸/۳

ترجمہ: حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ ارشاد فرماتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کفر سے اور دین (قرض) سے پناہ مانگتا ہوں۔ پس ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے کفر کو دین کے ساتھ برابر کر دیا۔ فرمایا کہ ہاں اور ایک روایت میں آیا ہے اے الہی! تحقیق میں تیرے ساتھ کفر کرنے سے اور فقر سے پناہ مانگتا ہوں اور ایک شخص نے کہا کہ اس میں کفر اور فقر برابر کئے جاتے ہیں فرمایا کہ ہاں۔ اس کو نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں کفر اور قرض سے پناہ مانگنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کفر اور دین کو برابر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ آدمی دین (قرض) کے سبب جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے اور یہ صفات کافروں اور منافقوں میں سے ہیں اور کفر و فقر کو اس کے برابر کیا کہ فقر کی وجہ سے آدمی بے صبری کرتا ہے اور ایسے کلام کرتا ہے جو کفر کا باعث بن جاتے ہیں۔

بَابُ جَامِعِ الدُّعَا

جامع دُعاؤں کا بیان

فائدہ: یعنی اس باب میں ایسی دُعاؤں کا بیان ہے کہ جن کے الفاظ تھوڑے ہیں اور معانی بہت زیادہ ہیں یا جامع ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایسی دُعاں ہیں جو مقاصد و مطالب جمع کرنے والی ہیں۔

الفصل الاول:

جامع دُعا

۱/۲۳۵۴ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَأَسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَائِي وَعَمْدِي وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۹۶/۱۱۔ حدیث رقم ۶۳۹۸۔ ومسلم فی صحیحہ ۲۰۸۷/۴ حدیث رقم (۷۰)۔
 (۲۷۱۹) واحمد فی المسند ۴۱۷/۴۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ تحقیق وہ یہ دعا مانگتے تھے: اے الہی! میرے لیے میری خطا کو اور میری نادانی کو یعنی جن چیزوں کا جاننا یا عمل کرنا مجھ پر ضروری تھا اور میں نے نہیں جانا ان کو اس کو بخش دے اور میری زیادتی میرے کام میں اور وہ گناہ کہ جن کو تو خوب جانتا ہے ان کو مجھ سے یعنی مجھے ان کا علم نہیں ہے جیسا کہ تجھے ہے۔ اے الہی! میرے قصد کرنے اور میری ہنسی کو بخش اور میرے نادانستہ اور جان بوجھ کر کرنے کو بخش دے۔ اے الہی! میرے لیے میرے گناہ کہ جو میں نے پہلے کئے اور وہ گناہ کہ جو (بالفرض والتقدير) اس کے بعد ہوں گے اور وہ گناہ جو میں نے چھپ کر کئے ہیں اور وہ گناہ جن کو میں نے اعلانیہ کیا ہے اور وہ گناہ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے بخش دے تو جس کو چاہے اپنی رحمت سے توفیق میں آگے کر دے اور جس کو چاہے اپنی قوت سے پیچھے ڈال دے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں ایک جامع دُعا کا بیان ہے یہ سب میرے پاس ہیں یہ حضور ﷺ نے ازراہ تواضع اور کسر نفسی اور زاری کے جناب کبریائی میں کہا، ورنہ حضور ﷺ سب گناہوں سے پاک تھے اور حقیقت میں یہ امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ یوں بخشش مانگا کریں۔

دین و دنیا کی اصلاح کی دُعا

۲/۲۳۵۵ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي
 الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ
 الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۲۰۸۷/۴ حدیث رقم (۲۷۲۱/۷۱)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فرماتے تھے: اے الہی! میرے لیے میرا دین درست کر دے جو کہ میرے کام کا بچاؤ ہے یعنی نفس اور مال اور آبرو دین سے محفوظ رہتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے نجات پاتا ہے اور میرے لیے میری دنیا کو درست کر دے کہ اس میں میری زندگی گزرتی ہے اور میرے لیے میری آخرت کو درست کر دے کہ اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے اور میرے لیے ہر نیکی میں زندگی کو زیادتی کا سبب بنادے کہ زیادہ دیر تک زندہ رہوں اور بہت زیادہ نیک کام کروں اور موت کو ہر برائی سے میرے لیے راحت کا سبب بنا۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی درستی قوت کے حاصل ہونے کے ساتھ ہوتی ہے اور آخرت کی درستی اس چیز کی توفیق ہونے سے ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے عذاب سے نجات ہو اور اس جہاں کی سعادتوں تک پہنچنے کا باعث ہو اور اخیر جملے کا حاصل یہ ہے کہ میری موت کلمہ شہادت کہتے ہوئے اور اچھے اعتقاد میں اور توبہ کرتے ہوئے آئے تاکہ دنیا کی مشقت سے خلاصی ہو جائے اور عقبیٰ میں راحت حاصل ہو جائے۔

ہدایت اور تقویٰ مانگنا

۳/۲۳۵۶ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْتَقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۲۰۸۷/۴ حدیث رقم (۷۲-۲۷۲۱)۔ والترمذی فی السنن ۴۸۸/۵ حدیث رقم ۳۴۸۹۔ وابن ماجہ ۱۲۶۰/۲ حدیث رقم ۳۸۳۲ واحمد فی المسند ۴۱۱/۱۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے وہ کہتے تھے کہ اے الہی! تحقیق میں تجھ سے ہدایت اور تقویٰ کا اور نفس کو حرام و مکروہ چیزوں سے (ظاہر و باطن کی) بے پروائی سے باز رکھنے کا سوال کرتا ہوں۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور تقویٰ مانگا کرتے تھے اور حرام اور مکروہ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ ظاہری اور باطنی استغنائیت کا سوال کیا کرتے تھے۔

افعال و گفتار کی درستگی کا سوال کرنا

۴/۲۳۵۷ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسِدِّدْنِي وَادْكُرْ بِالْهُدَى هَذَا بَيْتَكَ الطَّرِيقَ وَالسَّدَادَ سَدَادَ السَّهْمِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۲۰۹۰/۴ حدیث رقم (۷۸-۲۷۲۵) وأبو داؤد فی السنن ۱۳۰/۴ حدیث رقم ۴۲۲۵۔ ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ آپ ﷺ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ اے الہی! مجھ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما یعنی مجھ کو سیدھی راہ دکھا یعنی افعال و گفتار سیدھی کر دے اور مجھے سیدھا کر دے (آپ ﷺ نے فرمایا) جب تم اللہ سے ہدایت طلب کرو تو سیدھا راستہ طلب کرو تو تیر کی طرح درستی کا تصور کرو۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اپنے افعال و گفتار کی درستی کا سوال کرو اور ہدایت کو طلب کرو یعنی جب ہدایت طلب کرو تو یہ خیال کرو کہ مجھے رہنمائی حاصل ہو۔ اس شخص کی رہنمائی کی طرح کہ وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے درست راستے کا سوال کرے تو یہ سوال کرے کہ یا اللہ مجھے اس طرح ہدایت دے کہ جو مجھے راہ راست پر لے آئے جس طرح تیر سیدھا ہوتا ہے۔

آپ ﷺ نئے مسلمان کو مذکورہ کلمات سکھایا کرتے تھے

۵/۲۳۵۸ وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْأَقْوَامِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۲۰۹۰/۴ حدیث رقم (۷۸-۲۷۲۵)۔

ترجمہ: حضرت ابوالک اشجی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تو اس کو نبی کریم ﷺ نماز سکھاتے تھے پھر اس کو حکم کرتے کہ ان کلمات کے ساتھ دعا کر کہ اے الہی! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر یعنی میرے عیبوں کو ڈھانکنے کے ساتھ اور مجھ کو ہدایت کر اور مجھ کو عافیت سے رکھ اور مجھ کو (حلال) روزی عطا فرما۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی نیا مسلمان ہوتا تو اس کو مذکورہ کلمات سکھایا کرتے تھے۔

دین و دنیا کی نعمتوں کا سوال

۶/۲۳۵۹ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۹۱/۱۱۔ حدیث رقم ۶۳۸۹۔ ومسلم فی صحیحہ ۲۰۷۱/۴۔ حدیث رقم (۲۷)۔
۲۶۹۰۔ والترمذی فی السنن ۴۸۷/۵۔ حدیث رقم ۳۴۸۷۔ واحمد فی المسند ۲۰۸/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی اے الہی! ہم کو دنیا میں نیکی عطا فرما یعنی نعمتیں اور اچھی حالت عطا فرما اور آخرت میں یعنی موت کے بعد نیکی یعنی اچھے مراتب اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے جس میں دین و دنیا کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ آپ ﷺ یہ دعا اکثر اس لیے کرتے تھے کیونکہ یہ بہت جامع دعا ہے دین و دنیا کے تمام مقاصد کو شامل ہے۔

اگر کوئی طالب صادق بوقت حضور اور مناجات کے خلوت میں بیٹھ کر پڑھے (باطن کی صفائی کے ساتھ) دنیا و آخرت کی حسنت اور ظاہر و باطن کو تصور کر کے دعا کرے۔ تو دیکھے کہ کیا کچھ ذوق و جمیع اور نورانیت و سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔

الفصل الثانی:

اللہ تعالیٰ سے کفار پر فتح کا سوال کرنا

۷/۲۳۶۰ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو يَقُولُ رَبِّ اَعِنِّي وَلَا تَعِنْ عَلَيَّ وَاَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَاْمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاِهْدِنِي الْهَدٰى لِيْ وَاَنْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَاكِرًا لِّكَ ذَاكِرًا لِّكَ رَاہِبًا لِّكَ مَطْوَعًا لِّكَ مُجْتَبٰ اِلَيْكَ اَوَاہًا مُبِيًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ وَاَجِبْ دَعْوَتِيْ وَكَبِّ حُجَّتِيْ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَاِهْدِ قَلْبِيْ وَاَسْلُلْ سَخِيْمَةً صَدْرِيْ۔ (رواه الترمذی و ابو داود وابن ماجہ)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۱۷۵/۲۔ حدیث رقم ۱۵۱۰۔ والترمذی فی السنن ۵۱۷/۵۔ حدیث رقم ۳۵۵۱۔ وابن ماجہ

۱۲۵۹/۲ حدیث رقم ۳۸۳۰۔ واحمد فی المسند ۲۲۷/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اُدعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے رب! میری دستگیری فرما یعنی مجھے اپنے ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما اور مجھ پر ان کو غالب نہ کر کہ وہ مجھ کو تیری اطاعت سے روکیں۔ خواہ شیاطین ہوں خواہ نفس خواہ کفار اور مجھ کو (کفار پر) فتح عطا فرما اور (کفار کو) مجھ پر فتح عطا نہ فرما۔ مجھے کفار پر غالب کر اور ان کو مجھ پر غالب نہ کر اور میرے واسطے مکر کر اور میرے ضرر پر مکر نہ کر اور مجھ کو سیدھا راستہ دکھا اور میرے واسطے سیدھی راہ چلنا آسان کر دے اور ان لوگوں کے خلاف میری مدد کر جنہوں نے مجھ پر زیادتی کی۔ اے میرے رب! مجھ کو اپنے واسطے شکر کرنے والا بنا۔ یعنی اپنے واسطے ہر وقت ذکر کرنے والا بنائے یعنی ہر حال میں اپنے واسطے ڈرنے والا اپنے واسطے بہت زیادہ فرمانبردار اپنے واسطے عاجزی کرنے والا اپنے طرف یعنی بہت زیادہ آہ و زاری کرنے والا یعنی رجوع کرنے والا بنا اے میرے پروردگار میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہ کو دھو دے اور میری دُعا کو قبول کر اور میری دلیل (میرے دشمنوں پر دنیا و آخرت میں) ثابت رکھ اور میری زبان کو درست کر جو سوائے حق اور حق کے کچھ نہ بولے اور میرے دل کو سیدھی راہ دکھا اور میرے سینے کی سیاہی نکال دے۔ اس کو امام ترمذیؒ اور ابوداؤد اور ابن ماجہؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حدیث پاک میں جو مکر کا لفظ آیا ہے ”مکر کر“ یعنی دشمنوں پر مدد کرنے کے واسطے مکر کے معنی فریب کے ہیں اور خدا کے مکر سے مراد دین کے دشمنوں پر بلا کا پہنچنا ہے۔ جس جگہ سے ان کو گمان بھی نہ ہو اور سینہ کی سیاہی سے مراد کینہ اور حسد اور بغض اور ان کے علاوہ اور اخلاقِ بد ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو

۸/۲۳۶۱ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ سَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ۔

(رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب اسناداً)

ترجمہ: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ منبر پر کھڑے ہوئے پھر روئے اور فرمایا اللہ سے بخشش اور عافیت مانگو اس لیے کہ کسی کو یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ اس کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور ابن ماجہؒ نے کہا اور امام ترمذیؒ نے کہا ہے کہ یہ حدیث باعتبار سند کے حسن غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں عافیت مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ حضور ﷺ جانتے تھے کہ امتِ فتنوں میں اور غلبہ شہوت اور حرص میں گرفتار ہوگی اس لیے روئے اور حکم فرمایا کہ بخشش اور عافیت طلب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان بلیات سے بچالے اور عافیت کے معنی دین میں فتنہ سے سلامتی اور بدن میں بری بیماریوں اور سخت رنج سے نجات ہے۔

سب سے بہتر دُعا عافیت مانگنا ہے

۹/۲۳۶۲ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ آتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ آتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ.

(رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حديث حسن غريب اسنادا)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴۹۹/۵ حدیث رقم ۳۵۱۲۔ وابن ماجہ ۱۲۶۵/۲ حدیث رقم ۳۸۴۸۔ واحمد فی المسند ۱۲۷/۳۔
ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول! کوئی دُعا بہتر ہے؟ فرمایا اپنے رب سے عافیت مانگ یعنی دین اور بدن میں اور معافات میں سلامتی یعنی اللہ تعالیٰ تجھ کو لوگوں سے عافیت میں رکھے ان کو تجھ سے دنیا میں اور آخرت میں عافیت میں رکھے۔ پھر وہ شخص نبی کریم ﷺ کے پاس دوسرے دن آیا پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول! کوئی دُعا بہتر ہے؟ پس فرمایا اسی کی مانند یعنی جو پہلے دن فرمایا تھا۔ پھر وہ تیسرے دن آیا پس فرمایا اسی کی مانند یعنی جو پہلے دن فرمایا تھا یعنی فرمایا جس وقت تو عافیت اور دنیا اور آخرت میں معافات دیا جائے۔ پس تحقیق تو نے چھٹکارا پایا اور مقصد کو پہنچا۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور ابن ماجہ نے اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث سند کے اعتبار سے غریب ہے۔

تشریح: ﴿﴾ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین دُعا عافیت مانگنا ہے یعنی دین میں سلامتی اور بدن میں معافات مانگو یعنی اللہ تعالیٰ تجھے عافیت میں رکھے۔ صحابیؓ کے پوچھنے پر بھی آپ ﷺ نے عافیت مانگنے پر ہی زور دیا جس سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے محبت کا سوال کرنا

۱۰/۲۳۶۳ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ الْخَطَمِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَايِهِ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ اَللّٰهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِيْ فِيمَا تُحِبُّ اَللّٰهُمَّ مَا رَزَيْتَ عَنِّيْ مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قَرًا لِيْ فِيمَا تُحِبُّ۔ (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴۸۸/۵ حدیث رقم ۳۴۹۱۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن یزید خطمیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ وہ اپنی دُعا میں کہتے تھے اے الہی! مجھے اپنی دوستی نصیب کر اور اس شخص کی دوستی کہ جو مجھ کو نفع دے اور اس کی دوستی جو تیرے نزدیک ہے اے الہی! تو نے مجھے جو کچھ اس چیز میں سے جس کو میں پسند کرتا ہوں عطا کیا ہے اس کو میرے لئے اس چیز میں طاقت کا ذریعہ بنا جسے تو پسند کرتا ہے یعنی جو نعمتیں تو نے مال و عافیت اور نعمت دنیویہ میں سے دی ہیں ان کو طاقت اور شکر کا ذریعہ بنا جس کو

تیری راہ میں خرچ کروں اور تیری رضا مندی میں خرچ کروں۔ اے الہی! تو نے مجھے ان چیزوں میں سے جن کو میں پسند نہیں کرتا جو کچھ نہیں دیا بس اس کو میری فراغت کا سبب بنادے جس کو تو پسند کرتا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک کے آخر میں بیان کیا گیا ہے جو تو نے مجھے مال وغیرہ نہیں دیا اپنی عبادت میں مشغول رکھ تاکہ تیری عبادت کی مشغولیت میں کوئی چیز مانع نہ ہو۔ دونوں جملوں کا حاصل یہ ہے اگر دنیا کی نعمت دے تو اس کے شکر کی توفیق دے تاکہ شکر کرنے والے اغنیاء میں سے ہو جاؤں اور اگر تو مجھ کو نہ دے تو اس سے میرے دل کو فارغ رکھ کہ دل اس میں نہ لگا رہے اور عبادت میں مشغول رہوں اور جزع فزع نہ کروں تاکہ فقرائے صابر میں سے شمار کیا جاؤں۔

ایک جامع دُعا

۱۱/۲۳۶۳ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الدُّعَاةِ لِأَصْحَابِهِ اَللّٰهُمَّ اَقْسَمُ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَمِنْ مَعَا صِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبْلُغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنْ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاسْمَاعِنَا وَابْصَارِنَا وَقُوَاتِنَا مَا اَخْيَرْتَنَا وَاجْعَلْ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ لَارْنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا۔

(رواہ الترمذی وقال حدیث حسن غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴۹۳/۵ حدیث رقم ۳۵۰۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب کسی مجلس سے اٹھتے تھے یہاں تک کہ یہ دعائیں اپنے صحابہ کے لئے مانگتے تھے یعنی اس لیے کہ وہ اس میں داخل ہیں یا ان کی تعلیم کے لیے۔ اے الہی! ہمارے لیے اپنا خوف نصیب کر اس قدر کہ تو اس کی وجہ سے ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے یعنی اس ڈر کے سبب سے تیرے گناہوں سے بچیں اور ہمیں اپنی طاعت نصیب فرما۔ اس قدر کہ تو ہم کو اس کی وجہ سے اپنی بہشت میں پہنچائے اور یقین سے نصیب اچھے کر اس قدر کہ جس کی وجہ سے ہم پر دنیا کی مصیبتیں ٹل جائیں اور بہرہ مند کر ہم کو ہماری سماعتوں کے ساتھ بہرہ مند فرما اور ہماری بے تابیوں کو ہماری قوت کے ساتھ بہرہ مند فرما جب تک کہ تو ہم کو زندہ رکھے اور بہرہ مندی کو ہمارا وارث بنا یعنی اخیر عمر تک اس کو باقی رکھ۔ یعنی تمام عمر اعضاء اور ہمارے حواس کو سلامت رکھ۔ ہمارے کینہ و انتقال میں اس شخص کو مشغول کر جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے یعنی ہم کو ظالموں پر بدلہ لینے پر قادر کر دے۔ یا ہماری طرف سے بدلہ لے اور ہم کو فتح دے اس سے جو ہم سے دشمنی رکھے دشمن دینی ہو یا دنیوی اور ہماری مصیبت ہمارے دین میں شمار نہ کر یعنی ایسی چیزوں میں مبتلا نہ کر جو دین کے نقصان کا باعث ہوں اور دنیا کو ہمارے لئے بہت بڑا اندیشہ نہ کرو اور نہ ہمارے علم کو مطمع نظر بنا اور ہم پر اس کو مسلط نہ کر کہ جو ہم پر رحم نہ کرے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ کی ایک جامع دُعا کا ذکر ہے۔ حدیث میں الفاظ آئے کہ اے اللہ! ہمیں

یقین نصیب فرمائی اپنی ذات اور صفات پر یقین نصیب فرما اور نبی کریم ﷺ کے ایمان پر ایسا یقین نصیب فرما کہ دنیا کی سختیاں آسان ہو جائیں مثلاً جس کو اللہ کے رازق ہونے کا یقین ہو جائے گا۔ وہ ہرگز فکر مند نہیں ہوگا اور اس پر بھروسہ کرے گا یا جو شخص یقین کرے گا کہ آخرت کی مصیبتیں سخت ہیں اور یہاں کی مصیبتیں ناپائیدار ہیں اس کو یہاں کی مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ پس ایسا یقین عطا فرما اور دنیا کو ہمارے لئے فکروں کا مرکز نہ بنائے ہم دنیاوی تدابیر میں مشغول و مصروف نہ رہیں اور تدبیریں نہ لگے رہیں بلکہ فکر و اندیشہ امور آخرت کا بہت زیادہ رکھیں اور فکر معاش تھوڑا رکھنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔

علم کی زیادتی کا سوال کرنا

۱۲/۲۳۶۵ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ -

(رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب اسناداً)

اخرجه الترمذی فی السنن ۵۴۰۱۵ حدیث رقم ۳۵۹۹۔ وابن ماجہ ۹۲/۱ حدیث رقم ۲۵۱۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کہتے تھے اے الہی! مجھ کو نفع دے۔ اس چیز کے ساتھ کہ جو تو نے مجھ کو سکھائی یعنی علم پر عمل نصیب ہو اور مجھ کو وہ چیزیں سکھا جو مجھ کو نفع دیں اور میرے علم (یعنی علم دین) میں اضافہ فرما۔ تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں اور میں دوزخیوں کے حال سے پناہ مانگتا ہوں یعنی دنیا میں کفر و فتنے سے اور آخرت میں عذاب سے بچوں۔ اس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ اور امام ترمذی نے کہا کہ حدیث غریب ہے باعتبار سند کے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے الہی! میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ سے آگ والوں کی حالت سے پناہ مانگتا ہوں۔

وحی کی کیفیت کا بیان

۱۳/۲۳۶۶ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سَمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ دَوًى كَدَوِي النَّحْلِ فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمَكُنَّا سَاعَةً فُسِّرَى عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَآكِرْ مَنَا وَلَا تُهِنَّا وَاعْظِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَآرِضْنَا وَارْضَ عَنَّا ثُمَّ قَالَ أُنْزِلْ عَلَيَّ عَشْرَ آيَاتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَرَأَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى خَتَمَ عَشَرَ آيَاتٍ -

(رواہ احمد و الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۳۰۵۰۵ حدیث رقم ۳۱۷۳۔ واحمد فی المسند ۳۴/۱۔

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت وحی نازل ہوتی تھی تو ان پر وحی اترتی تھی حضور ﷺ کے منہ کے پاس سے شہد کی مکھی کی آواز کی طرح سنی جاتی پس ایک دن ان پر وحی اتاری مگر ہم ایک ساعت ٹھہرے۔ یعنی

منتظر رہے۔ پس سختی جو جی کے اترنے کی وجہ سے وارد ہوئی تھی رفع ہو گئی پس وہ حالت حضور ﷺ سے دور کی گئی تو حضور ﷺ قبلے کے سامنے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے الہی! ہم پر دنیا و آخرت کی نعمتوں میں اضافہ فرما اور ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کمی نہ فرما مسلمانوں کو کم نہ کر اور دنیا میں حاجت روائی کے ساتھ ہمارا اکرام فرما اور عقبیٰ میں منازل کے بلند کرنے میں ہمیں ذلیل نہ فرما یعنی مذکورہ چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اور ہم کو دنیا و آخرت کی خیر دے اور ہم کو محروم نہ کر اور ہم کو برگزیدہ فرما۔ یعنی اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ اور ہم پر ہمارے علاوہ کو اپنی لطف و عنایت کے ساتھ برگزیدہ نہ فرما اور دشمنانِ دین کو ہم پر غالب نہ فرما اور ہم کو (اپنی رضا پر صبر اور شکر کی توفیق دینے سے) راضی فرما اور تو ہم سے (تھوڑی سے فرمانبرداری سے) راضی ہو جا۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ابھی دس آیتیں اُتاریں گئیں اور جو شخص ان کو برپا رکھے ان کو پڑھا کرے یعنی ان پر عمل کرتا رہے گا۔ تو وہ بہشت میں نیکیوں کے ساتھ داخل ہوگا۔ پھر حضور ﷺ نے یہ آیتیں پڑھیں تحقیق مومنوں نے فلاح پائی یہاں تک کہ دس آیتیں ختم فرمائیں۔ اس کو امام احمدؒ اور ترمذیؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں شہد کی مکھی کی آواز کی طرح کا جو ذکر ہے یہ آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی تھی کہ وہ نبی کریم ﷺ کی طرف وحی پہنچاتے تھے تو وہ صحابہ کے سمجھ میں نہیں آتی تھی جیسے کوئی مکھی کی آواز سنتا ہے اور اس سے کچھ سمجھتا نہیں ہے اور وہ دس آیتیں یہ ہیں:

قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكوة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايماهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاوَلَيْكَ هم العادون والذين هم لامانتهم وعهد هم راعون - والذين هم على صلاتهم يحافظون اوَلَيْكَ هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون -

یعنی کامیاب ہوئے وہ مومن کہ جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں یعنی دل سے اور بدن سے اور وہ مومن کے بے فائدہ چیزوں سے خواہ کہنے کی ہوں یا کرنے کی ہوں اعراض کرتے ہیں اور وہ مومن کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ مومن کہ جو اپنے بستروں کو محفوظ رکھتے ہیں یعنی حرام کاری سے مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے صحبت کرتے ہیں۔ پس وہ ملامت نہیں کیے گئے ہیں۔ پس جو شخص اس کے علاوہ یعنی اغلام کرے یا ہاتھ وغیرہ سے منی گراے یا متعہ کرے تو وہ حد حلال سے تجاوز کرنے والے ہیں اور حرام میں پڑنے والے ہیں اور وہ مومن کہ جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی محافظت کرتے ہیں اور مومن کہ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں یعنی شرائط و آداب سے ادا کرتے ہیں وہی لوگ وارث ہیں جو جنت فردوس کے وراثت ہو گئے وہ جنتوں میں سے اعلیٰ جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

الفصل الثالث:

بینائی کی محرومی پر صبر کرنے سے جنت کا وعدہ

۱۳/۲۳۶۷ عَنْ عُمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا صَبِرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادْعُ

اللَّهُ أَنْ يُعَافِيَنِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَادْعُهُ قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي لِيَقْضِيَ لِي فِي حَاجَتِي هَذِهِ اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ۔

(رواہ الترمذی وقال هذا حديث حسن صحيح غريب)

اخرجه ابن ماجه فى السنن ۴۴۱/۱ حديث رقم ۱۳۸۵۔ واحمد فى المسند ۱۳۸/۴۔

ترجمہ: حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق ایک شخص کم سوچہ یا اندھا نبی کریم ﷺ کے پاس آیا۔ پس اس نے عرض کیا (اے اللہ کے رسول!) اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو عافیت دے یعنی آنکھ کے خلل سے محفوظ رکھے۔ فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں۔ اگر چاہے تو صبر و رضا سے کام لے پس تیرے لیے صبر کرنا بہتر ہے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کیجئے پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا۔ پس آپ ﷺ نے اس کو حکم کیا کہ آداب اور سنتوں کے ساتھ اچھی طرح وضو کرے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے دو رکعت نماز پڑھنے کا اور اس دعا کے ساتھ دعا مانگنے کا حکم دیا: اے الہی! تحقیق میں تجھ سے اپنے مقصود کا سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی ﷺ کے ساتھ وسیلہ پکڑتے ہوئے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ محمد ﷺ رحمت والے نبی ہیں۔ پس اے نبی! اس آپ کے وسیلے کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میری حاجت روائی کے لئے حکم کرے۔ اے الہی! نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے جو شخص اندھے پن پر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ صبر کرنا اس لیے بہتر ہے کہ اس کا ثواب بہشت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میں اپنے بندہ کو دونوں آنکھوں کے ساتھ مبتلا کرتا ہوں اور بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے عوض اس کو بہشت دیتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ سے محبت کا سوال کرنا

۱۵/۲۳۶۸ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُلْغِيَنَّ حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَمَالِي وَأَهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَعْبَدَ الْبَشَرِ۔ (رواہ الترمذی وقال هذا حديث حسن غريب)

اخرجه الترمذی فى السنن ۴۸۸/۵ حديث رقم ۳۴۹۰۔

ترجمہ: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی دعواؤں میں سے یہ تھی کہ اے الہی! تحقیق میں تجھ سے تیری محبت کا اور اس شخص کی دوستی کا جو تجھ کو دوست رکھے اور ایسے عمل کا جو تیری دوستی تک پہنچائے سوال کرتا ہوں۔ اے الہی! اپنی دوستی و محبت کو میری طرف جان کی محبت سے اور میرے اہل و عیال کی محبت سے اور میرے مال اور ٹھنڈے پانی کی محبت سے محبوب کر دے۔ راوی نے کہا کہ آپ ﷺ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے

در آنحالیکہ ان کے بارے میں بات کرتے تو کہتے تھے داؤد علیہ السلام اپنے زمانے کے عابد آدمیوں میں سے تھے۔ اس کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام بڑے عابد تھے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا سوال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ تیری دوستی مجھے ٹھنڈے پانی اور اہل و عیال سے اور مال سے بھی زیادہ محبوب ہے۔

جامع دُعا

۱۶/۲۳۶۹ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ صَلَاةً فَأَوْجَزَ فِيهَا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ لَقَدْ خَفَفْتَ وَأَوْجَزْتَ الصَّلَاةَ فَقَالَ أَمَا عَلَيَّ ذَلِكَ لَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هُوَ أَبِي غَيْرٍ أَنَّهُ كُنِيَ عَنْ نَفْسِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَهُ الْقَوْمَ اَللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقَدْ رَتَكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْسَنُ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَكَّلِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَلَاةَ خَيْرًا لِي اَللَّهُمَّ وَاسْأَلْكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَاسْأَلْكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْقَضَبِ وَاسْأَلْكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَاسْأَلْكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَاسْأَلْكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقُطُ وَاسْأَلْكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَاسْأَلْكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاسْأَلْكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فَتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اَللَّهُمَّ زَيِّنَا بِرَبِّنَا الْإِيمَانَ وَاجْعَلْنَا هَذَاهُ مَهْلِكِينَ - (سنن نسائي)

اخرجه النسائي في السنن ۵۴۱۳ حديث رقم ۱۳۰۵ - واحمد في المسند ۲۶۶۱/۴

ترجمہ: حضرت عطاء بن سائبؒ سے روایت ہے انہوں نے اپنے باپ سے نقل کی ہے کہتے ہیں کہ ہم کو عمار بن یاسرؓ نے نماز پڑھائی پس اس میں کوتاہی کی یعنی لمبی قراءت اور تسبیحات وغیرہ زیادہ نہ پڑھیں پس ان کو بعض لوگوں نے کہا تحقیق تم نے ہلکی نماز پڑھی اور نماز کو مختصر کر دیا۔ پس عمارؓ نے کہا۔ اے فلاں مجھ کو یہ تخفیف معز نہیں ہے۔ البتہ تحقیق میں نے اس نماز میں یعنی اس کے قعدے میں سجدے میں کئی دُعائیں مانگیں کہ میں نے ان کو نبی کریم ﷺ سے سنا ہے پس جناب عمارؓ گھرے ہوئے ان کے ساتھ قوم سے ایک شخص کھڑا ہوا وہ میرا باپ (عطاء) تھا۔ راوی نے کہا ہے کہ وہ شخص میرا باپ (سائب) تھا اس نے اپنے نفس سے کنایہ کیا ہے یعنی شخص نے اپنے کو کہا اور یوں نہ کہا کہ میں نے عمارؓ کے ساتھ کیا پس اس شخص نے عمارؓ سے دُعا کا حال پوچھا۔ پس اس نے دُعا بتادی۔ پھر وہ شخص آیا اور دُعا کے ساتھ قوم کو خبر دی وہ یہ ہے: اے الہی! بحق اپنے جاننے کے غیب کو اور بحق اپنی مخلوق پر قدرت کے مجھ کو زندہ رکھ جب تو زندگی کو میرے لیے بہتر جانے یعنی جب تک بھلائی برائی پر غالب رہے تو زندگی بہتر ہے اور مجھ کو مار جب کہ تو مرے کو میرے لیے بہتر جانے یعنی جب برائی بھلائی پر غالب نہ آ جائے اور ظاہری و باطنی فتنے ظاہر ہوں تو اس وقت مرنا بہتر ہے اور اے الہی! میں تجھ سے تیرا ظاہر و باطن میں ڈر مانگتا ہوں اور خوشی میں اور خشگی (یعنی پریشانی) میں کلمہ حق کا کہنا مانگتا ہوں اور میں تجھ سے فقر اور دولت کی

حالت میں میانہ روی مانگتا ہوں یعنی بہت زیادہ فقیر نہ ہو جاؤں اور رنج اٹھاؤں اور یا نہایت مالدار ہو جاؤں کہ اسراف کروں اور میں تجھ سے جنت کی نعمتیں مانگتا ہوں جو ختم نہ ہوں اور میں تجھ سے آنکھ کی ٹھنڈک مانگتا ہوں۔ جو ختم نہ ہو اور میں تجھ سے قضاء کے بعد رضا مانگتا ہوں اور میں تجھ سے مرنے کے بعد والی زندگی کی ٹھنڈک مانگتا ہوں۔ یعنی ہمیشہ کی راحت کا سوال کرتا ہوں۔ قرض کے بعد رضا مانگتا ہوں اور میں تیرے چہرے کے دیدار کی لذت مانگتا ہوں اور تیرے ملنے کے شوق کی طرف سخت حالت کے بغیر جو کہ ضرر پہنچائے اور نہ فتنے میں گمراہ کرے۔ اے الہی! ہم کو ایمان کی زینت کے ساتھ زینت دے کہ ایمان پر ثابت رہیں اور بہت زیادہ نیکیاں کریں اور ہم کو راہ راست دکھانے والے کی طرح راہ راست چلنے والے کی طرح کر دے۔ اس کو نسا ئی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿۱﴾ اس حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ حق کا بول مانگتا ہوں خواہ مخلوق مجھ سے راضی ہو یا نہ ہو اپنی خوشی و تنگی میں حق بات کہوں عوام کی طرح نہ ہو جاؤں کہ پریشانی کے وقت برا بولتے ہیں اور خوشی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آنکھ کی ٹھنڈک ہے یعنی جن چیزوں سے کامل لذت پاتا ہے طاعات و عبادات میں یا اولاد کا باقی رہنا مانگتا ہوں یا اس سے مراد ہے نماز پر بیٹھنے کی کرنا یا دونوں جہانوں کی بھلائی مراد ہے اور سختی کی حالت کے علاوہ یا تو شوق کے ساتھ متعلق ہے یعنی تیرے ملنے کا ایسا شوق چاہتا ہوں کہ میرے سلوک میں نقصان نہ کہ راہِ ادب کے راستے پر میری استقامت میں اور احکام کی رعایت پر کبھی شوق ایسا ہوتا ہے کہ غلبہ حال کے وقت نقصان کرتا ہے اور یہی مراد اس جملے سے ہے کہ فرمایا: وَلَا فَتْنَةً مَّضْلُومَةٍ۔ یعنی ایسا شوق چاہتا ہوں کہ گمراہ کرنے والی آرائش میں نہ ڈالے اور یا اچنی کے ساتھ متعلق ہو جو کہ اوپر مذکورہ سب کو شامل ہو یعنی مجھ کو زندہ رکھ ان مذکورہ نعمتوں کے ساتھ کہ کسی بلا میں گرفتار نہ ہوں کہ اس میں صبر اور شکر نہ کروں اور راہِ راست پر چلنے والے یعنی جیسے دوسروں کو اچھی راہ بتائیں تو خود بھی اس پر عمل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ خود راہِ فصیحت و دیگرے راہِ فصیحت۔

فجر کی نماز کے بعد کی دُعا

۷۲۳/۲۳۷۰ اَوْعَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبْرِ الْفَجْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ

عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا۔ (رواہ احمد وابن ماجہ والبیہقی فی الدعوات الکبیر)

اخرجه ابن ماجه فی السنن ۲۹۸/۱ حدیث رقم ۹۲۴۔ واحمد فی المسند ۲۹۴/۱۶۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فجر کی نماز کے بعد کہتے تھے کہ اے الہی! تحقیق میں تجھ سے نفع دینے والا علم مقبول عمل اور پاکیزہ رزق مانگتا ہوں۔ اس کو امام احمد، ابن ماجہ اور بیہقی نے دعوات کبیر میں نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿۲﴾ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ کی اس دُعا کا بیان ہے جو آپ ﷺ کثر فجر کی نماز کے بعد مانگا کرتے تھے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا خاص وظیفہ

۱۸/۲۳۷۱ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دُعَاءُ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدْعُهُ اَللّٰهُمَّ

اجْعَلْنِيْ اَعْظَمَ شُكْرَكَ وَاَكْثَرَ ذِكْرَكَ وَاَتْبَعَ نَصْحَكَ وَاَحْفَظْ وَصِيَّتَكَ۔ (رواہ الترمذی)

اخرجه احمد فی المسند ۳۱۱/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے ایک دعا یاد کی ہے کہ میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں اے الہی! مجھے ایسا بنا دے کہ تیرا زیادہ شکر ادا کروں اور تیرا ذکر بہت زیادہ کروں اور تیری نصیحت کی پیروی کروں اور میں تیری وصیت کو یاد رکھوں۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حدیث مذکورہ میں جو نصیحت کے الفاظ آئے ہیں اس سے مراد بندوں کے حقوق ہیں اور وصیت سے مراد اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں یعنی تو نے جو لوگوں کے حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے ان کی محافظت کروں یعنی ادا کرتا ہوں۔

جسمانی و روحانی صحت کا سوال کرنا

۱۹/۲۳۷۲ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَى بِالْقَدَرِ۔

اخرجه البزار ذكره في كنز العمال ۱۸۳/۲ الحديث رقم ۳۶۵۰۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کہتے تھے اے الہی! میں تجھ سے بری بیماریوں سے بدن کی تندرستی صحت یا احوال صحت اور افعال اور اعمال اور حرام سے بچنا اور امانت میں خیانت نہ کروں۔ لوگوں کے اموال میں یا شریعت کے تمام حقوق میں اور اچھا اخلاق ہونا اور تقدیر سے راضی ہونے کا سوال کرتا ہوں۔

تشریح: مذکورہ حدیث میں ایک دعا کا ذکر ہے جس میں نبی کریم ﷺ دعا مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے اے الہی! میں بدن کی تندرستی مانگتا ہوں اور حرام سے پناہ مانگتا ہوں اور امانت میں خیانت سے پناہ مانگتا ہوں اور اچھے اخلاق اور تیری رضا مندی کا سوال کرتا ہوں۔

نفاق، ریاکاری، جھوٹ وغیرہ سے پناہ مانگنا

۲۰/۲۳۷۳ وَعَنْ أُمِّ مَعْبِدٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكُذْبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ (رواهما البيهقي في الدعوات الكبير)

اخرجه الخطيب ذكره في كنز العمال ۱۸۴/۲ الحديث رقم ۳۶۶۰۔

ترجمہ: ام معبد رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ فرماتے تھے اے الہی! میرے دل کو نفاق سے اور میرے عمل کو ریا سے اور میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھ کو خیانت سے یعنی نظر حرام سے پاک کر دے۔ پس تحقیق تو آنکھوں کی خیانت جانتا ہے اور اس چیز کو کہ جس کو دل چھپاتے ہیں یعنی خواہش اور گناہ۔ یہ دونوں حدیثیں بیہقی نے دعوات کبیر میں نقل کی ہیں۔

تشریح ﴿ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حَائِنَةُ الْأَعْيُن کی تفسیر میں منقول ہے مثلاً ایک جماعت مردوں کی بیٹی تھی اچانک عورت ان کے آگے سے گزری۔ سب لوگوں نے ان کو شرم کی وجہ سے نہ دیکھا جب سب لوگوں نے نظر نیچی کر لی اور ایک شخص نے ان میں سے آنکھ اٹھائی اور چوری سے اس کو دیکھا۔

صحابی کی دُعا، حضور ﷺ کا دُنیا و آخرت کی عافیت مانگنے کی نصیحت کرنا

۲۱/۲۳۷۴ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتْ قَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كُنْتَ تَدْعُو اللَّهَ بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتُ مُعَافِيًا بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجَّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تُطِيقُهُ وَلَا تَسْتَطِيعُهُ أَفَلَا قُلْتَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ عَذَابَ النَّارِ قَالَ قَدْ دَعَا اللَّهُ بِهِ فَشَفَاهُ اللَّهُ -

اخرجه مسلم في صحيحه ۲۰۶۸/۴ حديث رقم (۲۳ - ۲۶۸۸) - والترمذي في السنن ۴۸۷/۵ حديث رقم ۳۴۸۷ - واحمد في المسند ۱۰۷/۳ -

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں میں سے ایک شخص کی عیادت کی کہ وہ پرندے کے بچے کی طرح خفیف ہو گیا تھا پس اس کو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگتا تھا کسی چیز کے ساتھ یا یہ کہا کرتا تو اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز مانگتا تھا؟ کہا کہ ہاں مانگتا تھا۔ اے الہی! اگر تو آخرت میں مجھے عذاب دینے والا ہے تو اس عذاب کو دنیا میں دینے میں جلدی کر۔ پس نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تو نے عجیب دُعا مانگی تو اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتا۔ یعنی دنیا میں اور تو اس کے عذاب کو دور نہیں کر سکا گا۔ پس تم نے کیوں نہ کہا۔ کہ اے الہی! ہم کو دنیا میں بھلائی دے یعنی عافیت اور آخرت میں بھی بھلائی یعنی تقصیرات سے درگزر کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ روایت کرنے والے نے کہا ہے کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگی پس اللہ تعالیٰ نے اس کو شخص کو شفا دے دی۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے صحابی کو دنیا و آخرت کی عافیت اور بھلائیاں مانگنے کی نصیحت کی ہے کیونکہ وہ بیمار تھے اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ والی دُعا پڑھا کر دو۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بیمار کو شفا دے دی۔

بلاؤں میں گرفتار ہو جانا اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے مترادف ہے

۲۲/۲۳۷۵ وَعَنْ حَذِيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَّبِعِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يَذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ -

(رواه الترمذی وابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب)

جہ الترمذی فی السنن ۴۵۳/۴ حدیث رقم ۲۲۵۴ - واحمد فی المسند ۴۰۵/۵ والبیہقی فی شعب الایمان -

ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے لائق نہیں ہے یہ کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ مومن کس طرح اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے؟ فرمایا بلاؤں میں گرفتار ہو جائے اور اس کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور ابن ماجہ نے اور بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص بلاؤں میں گرفتار ہو جائے اور اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو گویا کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کر رہا ہے مثلاً ایک شخص حساب نہیں جانتا ہے اور وہ امور حساب کو اپنے سر لے لے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو اس باب میں اس لیے لائے ہیں کہ جس چیز کا تحمل نہ ہو اس کی دُعا بھی نہ مانگے جیسا کہ اوپر کی حدیث میں گزرا ہے۔

ظاہر و باطن کی بہتری کے لیے دُعا مانگنا

۲۳/۲۳۷۶ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ سِرِّي خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تَوْلَى النَّاسَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الصَّالِ وَلَا الْمُضِلِّ - (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۵۳۴/۵ حدیث رقم ۳۵۸۶۔

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے سکھایا کہ اے الہی! میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنادے اور میرے ظاہر کو شائستہ کر دے اے الہی! تحقیق میں تجھ سے اس چیز کی بہتری کا سوال کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کو اہل سے اور مال سے اور اولاد سے کہ نہ گمراہ ہوں اور نہ گمراہ کریں۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا۔

تشریح: اس حدیث پاک میں آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مذکورہ دُعا سکھائی کہ کہو۔ اے الہی! میرے ظاہر کو شائستہ کر دے اور میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دے۔

کِتَابُ الْمَنَاسِكِ

یہ کتاب افعالِ حج کے بیان میں ہے

فائدہ: حج ۹ ہجری یا پانچ یا چھ ہجری میں فرض ہوا۔ پھر آپ ﷺ نے افعالِ حج کی تعلیم میں مشغولیت کی وجہ سے اور اسبابِ سفر حج کی تیاری کی وجہ سے اور نوے سال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاجیوں کا امیر مقرر کر کے مکہ کی جانب بھیجا تاکہ لوگوں کو حج کروائیں پھر دسویں سال حضور ﷺ خود حج کے لیے تشریف لے گئے۔

فائدہ: حج عمر میں ایک بار فرض ہے۔ فی الفور۔ پس اس کا منکر کافر ہے اور اس کا تارک باوجود قدرت کے فاسق اور گنہگار ہوتا ہے۔

حج کی شرائط!

- ① اسلام ہے یعنی مسلمان پر فرض ہے نہ کہ کافر پر۔
- ② حریت ہے یعنی آزاد پر ہے نہ کہ غلام پر۔
- ③ عقل ہے یعنی ہوشیار پر ہے، بیہوش اور دیوانے پر نہیں ہے۔
- ④ بلوغ پر ہے یعنی بالغ پر ہے نہ کہ لڑکے پر۔
- ⑤ اور صحت پر ہے یعنی تندرست پر ہے نہ کہ بیمار پر اور زار اور راہ کی قدرت پر اور سواری پر یعنی جو راستہ کے خرچ اور سواری پر قادر ہے اس پر فرض ہے اور خرچ اس قدر ہو کہ آنے جانے پر کفایت کرے۔

اور ضروریاتِ اصلیہ پر زائد ہو اور اس کے عیال کے لئے نفقہ لوٹنے تک کے لیے کافی ہو اور اکثر لوگ امن و سلامتی کے ساتھ پہنچ جاتے ہوں۔ تو فرض ہے اور اگر اکثر لوگ راستے میں ہلاک ہو جاتے ہوں۔ ڈوبنے وغیرہ کے باعث ہے یا لٹ جاتے ہوں تو حج فرض نہیں ہے اور اگر کبھی کبھی اس کا اتفاق ہوتا ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے جیسے اس زمانہ میں لوگوں کا حال ہے۔ اکثر تو سلامت واپس لوٹ آتے ہیں اور اکثر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ حج کی آٹھویں شرط یہ ہے عورت کے لیے خاوند یا محرم کا ہمراہ ہونا ضروری ہے اگر اس کے اور مکہ کے درمیان تین دن کی مسافت ہو۔ اگر خاوند یا محرم عورت کے ساتھ نہ ہو تو عورت حج کو نہ جائے اور محرم کے لیے شرط ہے عاقل و بالغ ہونا اور نہ مجوسی ہونا فاسق ہو اور اس کا نفقہ اس عورت پر ہے اور عورت فرض حج محرم کے

ساتھ خاندان کے اذن کے بغیر بھی کر سکتی ہے اگر غلام یا لڑکا احرام باندھے پھر لڑکا یا غلام آزاد ہو جائے اور فرض حج پورا کرے تو فرض ادا نہیں ہوگا پھر اگر لڑکا فرض حج کے لئے از سر نو احرام باندھے تو صحیح ہوگا۔ بخلاف غلام کے اس کا فرض حج کے لیے احرام درست نہیں ہے۔

اور حج کے فرائض یہ ہیں:

① احرام اور وقوف عرفہ اور طواف الزیارہ اور اس کو طواف الافاضۃ اور طواف الرکن بھی کہتے ہیں۔ احرام شرط ہے اور باقی دونوں رکن۔

اور حج کے واجبات یہ ہیں:

- ① وقوف مزدلفہ۔
- ② صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا اور رمی جمار اور طواف الصدر کہ اس کو طواف الوداع بھی کہتے ہیں یہ آفاقی (یعنی غیر مکی) کے لیے ہے اور حلق یا بال کتروائے اور ہر چیز کہ اس کے ترک کی وجہ سے دم واجب ہو یعنی جانور ذبح کرنا اور ان کے علاوہ وہ سنتیں اور آداب ہیں۔

الفصل الاول:

حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے

۱/۲۳۷۷ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوْا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوْ جَبْتُ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَقَدْ عَوْهُ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۷۵/۲ حدیث رقم (۴۱۲ - ۱۳۳۷)۔ والنسائی فی السنن ۱۱۰/۵ حدیث رقم ۲۶۱۹۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے خطبہ دیا۔ پس فرمایا اے آدمیو! تم پر حج فرض کیا گیا ہے پس حج کرو۔ پھر ایک شخص نے کہا ہم ہر سال حج کریں۔ پس حضور ﷺ خاموش رہے یہاں تک کہ اس شخص نے یہ بات تین بار کہی۔ پھر فرمایا اگر میں ہاں کہتا تو (مبادا) ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم طاقت نہ رکھتے۔ پھر فرمایا مجھ کو چھوڑ دو۔ جب تک کہ میں تم کو نہ چھوڑوں۔ پس وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے یعنی یہود و نصاریٰ کثرت سوال کی وجہ سے اور اپنے انبیاء کے اوپر اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے جیسے بنی اسرائیل کی قوم سے منقول ہے پس جس وقت میں تم کو کسی چیز سے منع کروں پس تم اس کو چھوڑ دو۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ✽ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ جب حضور ﷺ نے حج کا حکم کیا

تو ایک شخص نے یعنی اقرع بن حابس صحابی نے عرض کیا کہ کیا ہم ہر سال حج کیا کریں؟ وہ سمجھے کہ جیسے اور عبادات نماز، روزہ اور زکوٰۃ عمر میں مکرر ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی ہوگا۔ لیکن حضور ﷺ کو ان کا سوال ناگوار معلوم ہوا۔ اس لیے تنبیہاں چپ رہے جواب نہ دیا اور انہوں نے کئی بار سوال کیا۔ آخر جواب دیا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا یعنی اس لیے خدا کے حکم کے بغیر کہتا۔ میں خدا کے حکم کے بغیر نہیں بولتا ہوں اور تم سے پھر نہ ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو اور مجھ سے فعل کی تعداد کے بارے میں مت پوچھو کہ کتنا ہے اور کیسا ہے کہ جب تک میں تمہارے لیے بیان نہ کروں کہ کتنا ہے اور کیسا ہے۔ حاصل یہ کہ جو کچھ میں کہوں وہ کرو۔ اگر مطلق حکم کروں بلا قید عدد کے اسی طرح بجالاؤ۔ اگر یہ بیان کروں کہ اتنی بار کرو اسی طرح کرو اس لیے کہ مجھے شریعت کو بیان کرنے کے لیے اور احکامات کو پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے جو کچھ ہے میں تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں تمہارے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس چیز کی کہ تم طاقت رکھو۔ یہ احکامات کو بجالانے کے لیے تاکید اور مبالغہ ہے یعنی خدا اور رسول ﷺ کے احکام بجالاؤ۔ جہاں تک تم طاقت رکھو یا رفع حرج پر اشارہ ہے مثلاً نماز کی بعض شرائط اور ارکان کے ادا کرنے سے عاجز ہو تو جس قدر ہو سکے اسی قدر ادا کرو۔

۲/۲۳۷۸ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَيَلَّيْ ثُمَّ مَاذَا قَالَ؟ قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۷۷/۱۔ حدیث رقم ۲۶۔ و مسلم فی صحیحہ ۸۸/۱ حدیث رقم (۱۳۵-۸۳)۔ والترمذی فی السنن ۱۵۹/۴ حدیث رقم ۱۶۵۸۔ والنسائی ۱۱۳/۵ حدیث رقم ۲۶۲۴۔ والدارمی ۲۱۴/۲ حدیث رقم ۲۳۹۳۔ واحمد فی المسند ۳۷۲/۶۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کونسا عمل بہتر ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ فرمایا پھر کونسا؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ کہا گیا کہ پھر کونسا؟ فرمایا مقبول حج۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: افضل الاعمال کے بارے میں حدیثیں مختلف آئی ہیں یعنی کسی حدیث میں کسی عمل کو افضل کہا گیا اور کسی حدیث میں کسی عمل کو افضل فرمایا گیا ہے۔ ان میں وجہ تطبیق یہ ہے کہ یہ اختلاف بحیثیت حیثیات اور مقامات اور سالکین کے تفاوت کی وجہ سے ہے اس کا بیان مفصل کتاب الصلوٰۃ میں ہو چکا ہے۔

دوران حج معصیت سے پرہیز کرے

۳/۲۳۷۹ وَاعْنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۸۲/۳۔ حدیث رقم ۱۵۲۱۔ و مسلم فی صحیحہ ۹۸۳/۲ حدیث رقم (۴۳۸-۱۳۵۰)۔ مذی فی السنن ۱۷۶/۳ حدیث رقم ۸۱۱۔ والنسائی ۱۱۴/۵ حدیث رقم ۲۶۲۷۔ والدارمی ۴۹/۲ حدیث رقم ۷۰۱۔ وابن ماجہ ۹۶۴/۲ حدیث رقم ۲۸۸۹۔ واحمد فی المسند ۴۹۴/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے واسطے حج کرے۔ پس وہ اپنی عورت سے صحبت نہ کرے اور نہ فسق کرے۔ پھر وہ اس دن کی طرح ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنما ہے۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ جو شخص دورانِ حج معصیت سے پرہیز کرے اور اللہ کی رضا کے لیے حج کرے کہ دنیا کو دکھانے اور سنانے کے لیے اور دوسرے مقاصد کے لیے نہ کرے اور جان لینا چاہیے کہ جو شخص بقصد حج اور تجارت کے جائے تو اس کو ثواب تو ہوتا ہے لیکن اسکے بہ نسبت کم جو فقط حج ہی کو جائے۔

رفق کے معنی جماع کرنے کے ہیں اور فحش کلام کرنا اور عورتوں سے جماع کے بارے میں بات کرنا اور فسق نہ کرے یعنی گناہ کبیرہ نہ کرے اور صغائر پر اصرار نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَتَّبِعْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (الحجرات: ۱۱) حاصل یہ ہے کہ جو شخص خالص اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرے اور اس میں جماع اور بدکلامی نہ کرے اور گناہ کے کام نہ کرے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا۔

ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کفارہ ہے

۳/۲۳۸۰ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ (متفق عليه)

اندرجہ البخاری فی صحیحہ ۵۹۷/۳۔ حدیث رقم ۱۷۷۳۔ و مسلم فی صحیحہ ۹۸۳/۲ حدیث رقم (۴۳۷-۱۳۴۹)۔ والترمذی فی السنن ۲۷۲/۳ حدیث رقم و ابن ماجہ ۹۶۴/۲ حدیث رقم ۲۸۸۸۔ و مالک فی الموطأ ۳۴۶/۱ حدیث رقم ۶۵ من کتاب الحج۔ و احمد فی المسند ۲۴۶/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کے لیے کفارہ ہے جو ان دونوں کے درمیان میں ہوئے ہیں۔ یعنی صغیرہ گناہ۔ اور مقبول حج کا بدلہ صرف بہشت ہے۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص عمرہ کرے گا تو دوسرے عمرے تک اس کے لیے یہ کفارہ ہو جائے گا۔ دوسرے عمرے تک جو صغیرہ گناہ ہونگے اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں گے اور حج مقبول کا بدلہ بہشت ہی ہے۔

رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت

۵/۲۳۸۱ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

(متفق عليه)

اندرجہ البخاری فی صحیحہ ۶۰۳/۳۔ حدیث رقم ۱۷۸۲۔ و مسلم فی صحیحہ ۹۱۷/۲ حدیث رقم (۲۲۱-۱۲۵۶)۔ والنسائی ۱۳۰/۴ حدیث رقم۔ و ابن ماجہ ۹۹۶/۲ حدیث رقم ۲۹۹۴۔ والدارمی ۷۳/۲ حدیث رقم ۱۸۵۹۔

واحد فی المسند ۲۲۹/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تحقیق رمضان میں عمرہ کرنا (ثواب میں) حج کے برابر ہوتا ہے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: تَعْدِلُ کا معنی ہے برابر۔ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو حج کے برابر ثواب ملے گا۔

نابالغ کو نفلی حج کا ثواب ملتا ہے

۶/۲۳۸۲ وَعَنْهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَجُلًا بِالرُّوحَاءِ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلْهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ - (رواد مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۹۷۴/۲ حدیث رقم (۴۰۹-۱۳۳۶)۔ وابن ماجہ ۹۷۱/۲ حدیث رقم ۲۹۱۰۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ نے ایک قافلے سے (مقام) روعاء میں ملاقات کی۔ پس فرمایا کوئی قوم ہو؟ قافلہ والوں نے کہا: ہم مسلمان ہیں۔ پھر قافلہ والوں نے پوچھا کہ تم کون ہو۔ فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پس حضور ﷺ کی طرف ایک عورت نے لڑکے کو بلند کیا یعنی آپ ﷺ کو کجاوے سے اونچا کر کے دکھایا پھر کہا اس کے واسطے حج (کا ثواب) ہے؟ فرمایا ہاں اور تیرے واسطے بھی ثواب ہے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں نابالغ کے حج کے ثواب کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے مذکورہ حدیث میں جو واقعہ ہے۔ یہ روعاء مقام پر پیش آیا۔ روعاء ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے چھتیس کوس کی مسافت پر ہے اور فرمایا ہاں! یہ الفاظ متن میں مذکور ہیں اس کا مطلب یہ کہ اس کے لیے نفلی حج کا ثواب ہے اور تجھ کو بھی ثواب ہوگا۔ توجج کے افعال بتائے گی یعنی تعلیم کرے گی۔ کیونکہ تو اس کی خبر گیری کرنے والی ہے اور اس کے حج کا باعث ہے اور اگر لڑکا لڑکپن میں حج کرے تو فرض حج اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوتا۔ اگر بالغ ہونے کے بعد حج کی فرضیت کے شرائط پائی جائیں توجج کرے اور اس طرح اگر غلام حج کرے تو اس کے ذمے سے بھی حج ساقط نہیں ہوتا آزاد ہونے کے بعد حج کرے اور اگر فقیر حج کرے تو فرض ہی ادا ہوتا ہے، غنی ہونے کے بعد پھر اس پر حج کرنا واجب نہیں ہے۔

دوسرے کی طرف سے حج کرنے کا مسئلہ

۷/۲۳۸۳ وَعَنْهُ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَنَعَمٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَرِيبَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَنْبِتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحيحه ۳۷۸/۳۔ حدیث رقم ۱۵۱۳۔ ومسلم فی صحيحه ۹۷۴/۲ حدیث رقم (۴۰۸-۱۳۳۵)۔ وابوداؤد

فی السنن ۴۰۰/۲ حدیث رقم ۱۸۰۹۔ والترمذی فی السنن ۲۶۷/۳ حدیث رقم ۹۲۸۔ والنسائی ۱۱۸/۵ حدیث رقم ۲۶۴۱

وابن ماجہ ۹۷۰/۲ حدیث رقم ۲۹۰۷۔ والدارمی ۶۱/۲ حدیث رقم ۱۸۳۱۔ ومالك فی الموطأ ۳۵۹/۹ حدیث رقم ۹۷۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ قبیلہ شعم کی ایک عورت نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! تحقیق اللہ کے فریضہ نے جو اس کے بندوں پر لازم ہے میرے والد کو بڑا بوڑھا پایا ہے جو سواری پر ٹھیک سے بیٹھ نہیں سکتا۔ کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا کہ ہاں حج کرو اور یہ سوال وجوب حَجَّةِ الْوِدَاع کے موقع پر تھا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں دوسرے کی طرف سے حج کرنے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے اور مذکورہ مسئلے کا حاصل کلام یہ تھا کہ میرے بوڑھے باپ پر حج فرض ہے اس وجہ سے کہ وہ بڑھاپے میں مسلمان ہوا ہے اور اس کے پاس مال بھی ہے یا مال اس کے ہاتھ لگا ہے اور وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتا۔ کیا میں اس کی طرف سے نیابت حج کر سکتی ہوں۔ فرمایا ہاں جان لینا چاہیے کہ حج کرنا غیر کی طرف سے ہے۔ اگر فرض ہو تو جائز ہے والدین کی طرف سے حج کرنا بغیر امر اور وصیت کے بھی اور اگر نفل حج ہو تو باوجود قدرت مطلق کے حج کرنا جائز ہے۔

فقہی روایت کے موافق یہ حدیث اس پر محمول ہوگی کہ باپ نے اجازت و خرچ دیا ہوگا۔ چنانچہ یہ تقریر حضرت شیخ کی تقریر سے سمجھی جاتی ہے کہ وہ تقریر حدیث ابی رزین کی شرح میں لکھی ہوئی ہے اور بعض حضرات کے نزدیک اس تاویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ حدیث اس کی دلیل ہے۔

حج بدل کا مسئلہ

۸/۲۳۸۳ وَ عَنْهُ قَالَ آتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَ إِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاصِيَةً قَالَ نَعَمْ فَاقْضِ دَيْنَ اللَّهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی المسند ۴۸۴/۱۱ - حدیث رقم ۶۶۹۹ - واحمد فی المسند ۳۱۰/۱ -

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا کہ میری بہن نے نذر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی اور وہ مر گئی۔ پس نبی کریم ﷺ نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا کیا تو اس کو ادا کرتا؟ کہا کہ ہاں (فرمایا) پس اللہ کا دین بھی ادا کرو۔ پس وہ ادا کرنے کے زیادہ لائق ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں اس بات پر دلیل موجود ہے کہ اس شخص کو اپنی بہن سے کچھ مال بطور وراثت سے ملا ہوگا۔ تو حضور ﷺ نے حقوق اللہ کو حقوق العباد پر قیاس کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وراثت کے لیے درست ہے کہ مورث کی طرف سے حج کروائے یا خود حج کرے۔

عورت کے ساتھ سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے

۹/۲۳۸۵ وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُنَّ امْرَأَةٌ مَعَها مُحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ اُكْسِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجْتُ امْرَأَتِي حَاجَةً قَالَ اذْهَبْ

فَاحْجُجْ مَعَ امْرِئِكَ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۴۲/۶۔ حدیث رقم ۳۰۰۶۔ ومسلم فی صحیحہ ۹۷۸/۲ حدیث رقم (۴۲۴۔ ۱۳۴۱)۔

۲۵۱۴: اخرجه البخاری فی صحیحہ ۷۵/۶۔ حدیث رقم ۲۸۷۵۔ وابن ماجہ فی السنن ۹۶۸/۲ حدیث رقم ۲۹۰۱۔

واحمد فی المسند ۶۷/۶۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے یعنی اجنبی مرد و عورت تنہا ایک مکان میں جمع نہ ہوں اور عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے پس ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ میرا نام فلاں جہاد جو درپیش ہے اور وہاں لشکر جانا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ میں ان کے ساتھ بھی جاؤں اور میری بیوی نے حج کا ارادہ بھی کیا ہے (یعنی میں کیا کروں آیا جہاد کے لیے جاؤں یا بیوی کو اکیلا حج کے لیے جانے دوں یا بیوی کے ساتھ جاؤں اور جہاد میں نہ جاؤں)۔ فرمایا اپنی عورت کے ساتھ حج کرو فرمایا کہ غازی بہت ہیں تیری بیوی کے ساتھ تیرے علاوہ کوئی محرم نہیں ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ سفر میں محرم کا ہونا کتنا ضروری ہے اجنبی مرد و عورت کو تنہا ایک مکان میں جمع ہونا اور عورت کو سفر کرنا سفر کی حد تک یعنی تین منزل تک بغیر محرم یا خاوند کے درست نہیں ہے حتیٰ کہ سفر حج میں بھی عورت کے ساتھ محرم ہونا شرط ہے۔ حج کے وجوب کی شرط یہ ہے کہ عورت پر جب حج فرض ہوتا ہے تو اس کے ساتھ محرم یا خاوند بھی ہو اور محرم سے مراد وہ ہے جس سے قرابت کی وجہ سے یا دودھ کے تعلق کی وجہ سے یا سرال کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ عاقل و بالغ ہو مجوسی اور فاسق نہ ہو۔

عورتوں کا جہاد حج ہے

۲۳۸۶/۱۰/۱۰۷ عَائِشَةُ قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُ كُنَّ الْحَجَّ۔

(متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۶۶/۲۔ حدیث رقم ۱۰۸۸۔ ومسلم ۹۷۵/۲ حدیث رقم (۴۱۳۔ ۱۳۳۸)۔ والترمذی

فی السنن ۲۷۲/۳ حدیث رقم ۱۱۶۹۔ وابن ماجہ ۹۶۸/۲ حدیث رقم ۲۸۹۸۔ والدارمی ۳۷۴/۲ حدیث رقم

۲۶۷۸۔ ومالك فی الموطأ ۱۷۹/۲ حدیث رقم ۳۷ من کتاب الاستئذان۔ احمد فی المسند ۱۳/۲۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے جہاد کرنے کی اجازت مانگی۔ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تمہارا جہاد حج ہے یعنی تم پر جہاد نہیں ہے اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں کا جہاد حج ہے یعنی ان پر جہاد فرض نہیں ہے بلکہ اگر وہ استطاعت رکھیں تو حج کریں۔

عورت کو بغیر محرم سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے

۱۱/۲۳۸۷ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۶۶/۲۔ حدیث رقم ۱۰۸۸۔ ومسلم ۹۷۵/۲ حدیث رقم (۴۱۳۔ ۱۳۳۸)۔ والترمذی فی السنن ۲۷۲/۳ حدیث رقم ۱۱۶۹۔ وابن ماجہ ۹۶۸/۲ حدیث رقم ۲۸۹۸۔ والدارمی ۳۷۴/۲ حدیث رقم ۲۶۷۸۔ ومالك فی الموطأ ۱۷۹/۲ حدیث رقم ۳۷ من كتاب الاستذکار۔ احمد فی المسند ۱۳/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کوئی عورت ایک دن اور ایک رات کی مسافت کی بقدر سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرم ہو۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں عورتوں کو اکیلے سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ہدایہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ عورتوں کو اس جگہ کی طرف نکلنا مباح ہے کہ جو حد سفر سے کم ہو۔ کہ حد سفر میں تین منزل ہے اور اس سے معلوم ہوا ہے کہ بغیر محرم کے بھی عورت کو سفر کی اجازت ہے۔ صحیحین کی روایت میں بھی آیا ہے کہ عورت دو گنا سفر نہ کرے۔ مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا خاوند یا محرم ہو۔ پس ظاہری طور پر فقہاء کے اقوال کا اختلاف ان روایات سے معلوم ہوتا ہے جواب یہ ہے کہ حدیث میں جو مطلق آیا ہے کہ عورت سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرم ہو۔ اس کو فقہانے تین دن پر محمول کیا ہے۔ اس لیے کہ سفر شرعی تین دن سے کم نہیں ہوتا اور حدیثوں میں جو ایک یا دو دن کے سفر سے منع آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ منزل آدھے دن سے زیادہ کی ہو اور جہاں دو دن کے سفر سے منع آیا ہے تو مراد یہ ہے کہ تمام دن چلے اور جہاں ایک دن ایک رات سے منع آیا ہے تو مراد یہ ہے کہ شب و روز چلے تو یہ ایک یا دو دن کا سفر بھی تین دن کے برابر ہو جائے گا۔

مواقت حج

۱۲/۲۳۸۸ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَالْأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَالْأَهْلَ نَجْدَ قُرْنِ الْمَنَازِلِ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ فَهِنَّ لَهُنَّ وَلَمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهَلَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يَهْلُونُ مِنْهَا۔

(متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۸۷/۳۔ حدیث رقم ۱۵۲۶۔ ومسلم فی صحیحہ ۸۳۸/۲ حدیث رقم (۱۱۔ ۱۱۸)۔ وابوداؤد فی السنن ۳۵۳/۲ حدیث رقم ۱۷۳۸۔ والنسائی ۱۲۶/۵ حدیث رقم ۲۶۵۸۔ والدارمی فی السنن ۴۷/۲ حدیث رقم ۱۷۹۲۔ واحمد فی المسند ۳۳۲/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے احرام باندھنے کی جگہ معین کی۔ اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ کو اور شام والوں کے حجتہ کو اور نجدیوں کے لیے قرن منازل کو اور یمن والوں کے لیے یلملم کو بطور میقات معین

کیا۔ پس یہ تمام جگہیں احرام باندھنے کی ہیں ان شہروالوں کے لیے جو کہ مذکور ہوئے ہیں اور ان کے لیے بھی جو ان مقامات سے گزریں ان کے علاوہ یعنی مثلاً ہندوستان والے جب یمن کے راستے پر پہنچے تو یلملم سے احرام باندھیں اور اسی طرح دوسرے شہروالوں کا حال ہے کہ جب احرام کی جگہ پر آئیں تو وہیں احرام باندھیں یہ جگہیں احرام باندھنے کی ہیں۔ پس جو شخص حج اور عمرے کا ارادہ کرے تو جو شخص ان مواضع کے اندر رہے والا ہے پس اس کے احرام کی جگہ اپنے سے ہے اور اسی طرح یہاں تک کہ اہل مکہ مکہ سے احرام باندھیں۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں حج کے موافقت کا بیان کیا گیا ہے۔ ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے۔ جو مدینہ سے چھ کوس کے فاصلے پر ہے اور مکہ سے دس منزل کے فاصلے پر ہے اور نجد اصل میں بلند منزل کو کہتے ہیں اور اب تہامہ سے لے کر زمین عراق تک عرب کے شہروں کا نام ہے اور قرن منازل ایک جگہ کا نام ہے جو طائف کے قریب ہے۔ اور یلملم ایک پہاڑ ہے جو مکہ سے دو منزل کے فاصلے پر ہے اور یہ احرام کی جگہیں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی احرام کی جگہ سے گزر جائے حج اور عمرہ کے ارادہ کے بغیر تو اس کے لیے مکہ میں داخل ہونے کے واسطے احرام باندھنا لازم نہیں ہے جیسا کہ امام شافعی کا مذہب ہے اور حنفی مذہب میں مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا جائز نہیں ہے اگرچہ وہ حج اور عمرہ کا ارادہ رکھتا ہو۔ انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا ہے لایجاوز حد المیقات الاحرما۔ یہ حدیث مطلق ہے اس میں حج و عمرے کے ارادے کی قید نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ احرام اس بزرگ مکان کے واسطے سے ہے پس اس میں تا جراور عمرہ کرنے والا برابر ہیں اور جو میقات کے اندر ہے یعنی احرام کی جگہوں میں ہے ان کو اپنی حاجت کے لئے بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہونا جائز ہے اس لیے کہ ان کو اکثر مکہ میں آنا پڑتا ہے۔ اگر ہر بار احرام واجب ہو تو حرج ہے پس ان کا حکم اس معاملے میں اہل مکہ کا سا ہے۔ یعنی جیسے اہل مکہ کے لیے درست ہے کہ اگر کسی کام کے لیے مکہ سے نکلیں اور پھر مکہ میں داخل ہوں تو بغیر احرام کے چلے آئیں ویسے ہی ان کے لئے بھی درست ہے۔ کذا فی الہدایہ۔

اور جو شخص اندر رہنے والا ہو یعنی جو شخص ان احرام کی جگہوں کے اندر رہتا ہوں تو اس کی احرام کی جگہ حرم کی حد تک ہے اس کو میقات پر جانا ضروری نہیں ہے اگرچہ میقات کے قریب ہو اور جو ان احرام باندھنے کی جگہوں میں رہتے ہوں ان کا حکم اس سے معلوم نہیں ہوتا۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ ان کا حکم اندروالوں کا سا ہے اور اسی طرح یعنی جس قدر مکہ کے نزدیک ہوتا چلائے جائے اور احرام کی جگہ کے اندر ہو۔ پس احرام باندھنے کی جگہ اس کی وہیں سے ہے جہاں وہ رہتا ہو آخر مل تک اور اہل مکہ یعنی اہل حرم حج کا احرام مکہ سے باندھیں اور اس حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ حج اور عمرہ میں احرام باندھنے کی جگہ ہے اور مذہب یہ ہے کہ عمرہ کرنے والا اصل کی طرف نکلے اس لیے کہ حضرت محمد ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو عمرہ کے احرام کے لئے تنعیم کی طرف نکلنے کا حکم فرمایا جو کہ حل میں ہے۔ پس یہ حدیث حج کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی یہ حکم مکہ کے حج کرنے والے کے لیے ہے کہ وہاں سے احرام باندھے اور عمرہ کرنے والا حل میں آکر باندھے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے:

میقات احرام کا بیان

۱۳/۲۳۸۹ وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقِ الْأَخَرِ الْجُحْفَةُ وَمَهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عَرْقٍ وَمَهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ وَمَهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمُ۔

(رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۸۴۱/۲ حدیث رقم (۱۸-۱۱۸۳)۔ والنسائی فی السنن ۱۲۲/۵ حدیث رقم ۲۶۵۱۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مدینہ والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ذی الحلیفہ ہے اور دوسرا راستہ جھہ ہے اور عراق والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ذات عرق ہے جو ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے دو منزل کے فاصلے پر ہے اور نجد والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ قرن ہے اور یمن والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ یلملم ہے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مدینے سے مکہ آنے کے لیے دو راستے ہیں ایک راستے میں ذی الحلیفہ آتا ہے اور دوسرے راستے میں جھہ آتا ہے جو کہ احرام باندھنے کی جگہ ہے یعنی مدینہ والوں کی دوسری راہ میں جھہ ملتا ہے اگر اس راستے سے آئیں تو وہاں سے احرام باندھیں۔ جان لینا چاہیے کہ مدینہ والوں کے لیے مکہ آنے کے لیے دو راستے تھے اور اب ایک ہی راستہ ہے جس میں ذی الحلیفہ آتا ہے اور پھر جھہ آتا ہے پس اس صورت میں مدینہ والوں کے لیے دو میقاتیں ہوئیں۔ پس وہ وہاں سے احرام باندھیں یعنی ذی الحلیفہ سے اور جھہ سے باندھنا بھی جائز ہے۔

آپ ﷺ کے عمروں کا بیان

۱۳/۲۳۹۰ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلَّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَاجَتِهِ عُمَرَةً مِنَ الْحَدِيثَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةً مَعَ حَاجَتِهِ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۳۹/۷۔ حدیث رقم ۴۱۴۸ و مسلم فی صحیحہ ۹۱۶/۲ حدیث رقم (۲۱۷-۱۲۵۳)۔

وابوداؤد فی السنن ۵۰۶/۲ حدیث رقم ۱۹۹۴۔ والترمذی ۱۷۹/۳ حدیث رقم ۸۱۵۔ والدارمی ۴۶/۲ حدیث رقم

۱۷۸۷۔ واحمد فی المسند ۱۳۴/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے چار عمرے کیے۔ سب ذی قعدہ میں تھے مگر وہ عمرہ جو حج کے ساتھ کیا تھا وہ ذی الحجہ کے مہینے میں تھا اور ان چار عمروں کا بیان یہ ہے کہ ایک عمرہ حدیبیہ سے ذیقعدہ کے مہینے میں اور دوسرا عمرہ اس سے اگلے برس میں وہ بھی ذیقعدہ میں ہوا اور تیسرا عمرہ ہجرانہ سے ہوا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں غزوہ حنین کی غنیمت بانٹی گئی۔ یہ عمرہ بھی ذیقعدہ کے مہینے میں ہوا اور چوتھا عمرہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کے ساتھ تھا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ کے عمروں کا بیان ہے کہ آپ ﷺ نے چار عمرے کیے۔ حدیبیہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حدیبیہ ایک گاؤں کا نام ہے جو مکہ سے نو میل کے فاصلے پر ہے اور اس کا اکثر حصہ حرم میں ہے اور کچھ حل میں ہے اور بیان مجمل عمرہ حدیبیہ کا یہ ہے کہ حضور ﷺ مدینے سے چھ ہجری میں ذیقعدہ کی پہلی تاریخ کو پیر کے دن عمرے کے قصد سے چودہ سو یا اس سے زائد آدمیوں کے ہمراہ مکہ تشریف لے گئے۔ جب حدیبیہ میں پہنچے تو قریش جمع ہو کر آئے اور حضور ﷺ کو مکہ آنے سے منع کیا اور عہد کیا کہ آئندہ سال آنا اور عمرہ کر لینا اور حضور ﷺ صلح کر کے واپس لوٹ آئے تو حقیقت میں یہ عمرہ نہ ہوا لیکن عمرے کا ثواب ملنے کی وجہ سے پہلا عمرہ شمار کیا گیا اور احصار کا حکم یہیں سے مشروع ہوا اور آئندہ سال مکہ اسی عمرے کی قضاء کو گئے اور تین روز وہاں رہے چوتھے روز وہاں سے روانہ ہوئے یہ دوسرا عمرہ ہوا اس عمرے کو عمرہ القضاء کہتے ہیں چنانچہ یہ نام حدیثوں میں بھی آیا ہے اور یہ حنفیوں کا موید مذہب ہے کہ محرم احصار کی وجہ سے احرام سے نکل آئے اور اس کی قضا واجب ہوتی ہے اور شافعیہ کے نزدیک اس کی قضا نہیں ہے اور تیسرا عمرہ حضور ﷺ نے حمرانہ سے ادا کیا جہاں جنگ حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا گیا۔

اس اجمال کا بیان یہ ہے کہ حمرانہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے نو میل کے فاصلے پر ہے آٹھویں سال ہجری میں فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا اور وہاں سے بے شمار مال غنیمت کا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ حضور ﷺ پندرہ یا سولہ دن حمرانہ میں رونق افروز رہے اور مال غنیمت تقسیم کیا۔ ان میں ایک روز رات کو بعد از نماز عشاء کے سوار ہو کر مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ کیا اور اسی رات لوٹ آئے اور صبح کی نماز حمرانہ میں ادا کی اور چوتھا عمرہ آپ ﷺ نے حج کے ساتھ کیا یہ عمرہ ذی الحجہ میں ہوا اور باقی ذیقعدہ میں ہوئے۔ آپ ﷺ نے یہی چاروں عمرے کیے ہیں جن کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے اور حج اسلام ایک ہی تھا اور ایام جاہلیت میں قریش حج کرتے تھے اور آپ ﷺ بھی کرتے تھے لیکن ان کی کئی علماء کو معلوم نہیں ہے کہ کتنے کیے واللہ اعلم اور آپ ﷺ کے حج اور عمرے کا مفصل بیان آئے گا اور اس کا مجمل بیان یہ ہے کہ حج وقوف عرفات ہے اور بیت اللہ کا طواف ہے اور صفا اور مروہ کے مابین سعی ہوتی ہے اور عمرہ میں طواف اور سعی ہوتی ہے اور احرام دونوں میں شرط ہے حج میں بھی اور عمرے میں بھی اور حج فرض بھی ہوتا ہے اور نفل بھی اور عمرہ سنت و نفل ہے مگر کوئی شخص نذرمان لے تو اس کا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔

آپ ﷺ کے عمروں کا ذکر

۱۵/۲۳۹۱ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ

يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ۔

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶۰۰۱۳۔ حدیث رقم ۱۷۸۱۔

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ذیقعدہ کے مہینے میں عمرے کیے۔ حج سے پہلے دوسرا عمرہ کیا ہے۔

تشریح ﴿ گزشتہ حدیث پاک سے معلوم ہوا ہے کہ حضور ﷺ نے حج سے پہلے تین عمرے کئے ہیں اور اس حدیث میں آیا ہے کہ حج سے پہلے دو عمرے کیے ہیں پس ان دونوں حدیثوں میں تطبیق یہ ہے کہ ظاہر میں صلح حدیبیہ میں حضور ﷺ نے

عمرہ نہیں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم حلال ہو جاؤ تو عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگرچہ ظاہر میں عمرے کے افعال نہیں کئے پس جس روایت میں دو عمروں کا ذکر آیا ہے اور جس روایت میں آیا ہے آپ ﷺ نے حج سے پہلے تین عمرے کیے ہیں۔ ایک عمرے سے مراد عمرے کا ثواب ہے۔ اس اعتبار سے تین عمرے ہوئے۔ مولانا۔

الفصل الثانی:

حج سال میں ایک مرتبہ فرض ہے

۱۶/۲۳۹۲ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ قَدَامَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ فَقَالَ آفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ قُلْتُمْ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَوْ وَجِبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا وَالْحَجَّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ۔

(زواہ احمد والنسائی والدارمی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۴۴۱۲ حدیث رقم ۱۷۲۱۔ والنسائی ۱۱/۵ حدیث رقم ۲۶۲۰۔ وابن ماجہ ۹۶۳/۲ حدیث

رقم ۲۸۸۶۔ والدارمی ۴۶/۲ حدیث رقم ۱۷۸۸۔ واحمد فی المسند ۲۵۵/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے لوگو! تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے پس اقرع بن حابس کھڑے ہوئے پس کہا کہ ہر سال حج فرض ہے اے اللہ کے رسول ﷺ؟ فرمایا اگر میں اس حج کے لیے ہاں کہہ دیتا یعنی حج واجب ہونے کے واسطے تو البتہ واجب ہو جاتا اور ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور اگر فرض ہو جاتا تو تم اس کو نہ کر سکتے اور نہ تم طاقت رکھتے لہذا حج ایک ہی بار فرض ہے اور جو ایک مرتبہ سے زیادہ کرے پس وہ نفل ہے۔ اس کو امام احمد اور نسائی اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے جو زادِ راہ اور سفر کی طاقت رکھتا ہوں۔ ہر سال حج فرض نہیں ہے۔

حج کی فرضیت کے لیے شرائط

۱۷/۲۳۹۳ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تَبْلُغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔

(زواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب وفی اسنادہ مقال وھلال بن عبد اللہ مجهول والحارث یضعف فی الحدیث)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۷۶/۳ حدیث رقم ۸۱۲۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سواری اور توشہ کا مالک ہو کہ اس کو بیت

اللہ تک پہنچا دے اور اس نے حج نہ کیا۔ پس اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے اور یہ جو کچھ مذکورہ ہوا ہے زادِ راہ اور سواری کا یہ بطور شرط کے ہے اور اسی عبادت کے ترک پر وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ بابرکت و برتر نے فرمایا کہ اللہ کے واسطے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا واجب ہے اس پر کہ اس کی طرف طاقت رکھے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند میں گفتگو ہے اور بلال بن عبد اللہ مجہول ہیں اور حارث حدیث میں خفیف شمار ہوتا ہے۔

تشریح ☞ اس حدیث میں حج کی فرضیت کی شرائط بیان کی گئی ہیں کہ آدمی کے پاس اتنا تو شہ ہو کہ راہ میں آتے جاتے کفایت کرے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس قدر دے کر جائے کہ واپس آنے تک کافی ہو جائے پس جس کے پاس اتنا خرچ ہو اور سواری ہو اگرچہ کرایہ کی ہو اور وہ پھر حج نہ کرے تو مرتا ہے اس حالت میں کہ وہ یہودی اور نصرانی ہوتا ہے یعنی کفر میں ان کی طرح ہوتا ہے اگر اس کی فرضیت کا منکر ہو تو ترک کرے اور بغیر انکار کے نہ کرے۔ تو گناہ میں ان کی طرح ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا یہ ازراہ تغلیظ و تشدید کے فرمایا غرضیکہ بہر نوع اس کا ترک کرنا ایسا گناہ ہے کہ جس کو حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہودی اور نصرانی ہو کر مرتا ہے۔ العیاذ باللہ منہ اور لفظ سبیلہ کے بعد باقی آیت یہ ہے: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ یعنی اور جو کوئی کفر کرے اور خدا تعالیٰ کی کفرانِ نعمت کرے یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ بجالائے۔ پس اللہ تعالیٰ عالم کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی طاعت کریں یا نہ کریں اس کو نفع اور نقصان نہیں ہوتا، فائدہ اور نقصان ان ہی کو ہے پھر ظاہر یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تمام آیت پڑھی ہوگی۔ راوی نے لفظ سبیلہ ہی تک پڑھی اس لیے کہ پورا استدلال ساری آیت سے حاصل ہوتا ہے واللہ اعلم۔

استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے پر وعید

۱۸/۲۳۹۴ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَيْرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ۔

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۴۸/۲ حدیث رقم ۱۷۲۹۔ واحمد فی المسند ۳۱۲/۱۔

ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: صیرورت اسلام میں نہیں ہے اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ☞ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس نے استطاعت کے باوجود حج نہ کیا۔ تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ صیرورت اس کو کہتے ہیں جس نے کبھی حج نہ کیا ہو۔ یعنی جس نے واجب ہونے کے بعد حج نہ کیا ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ علامہ طبریؒ نے کہا ہے کہ حدیث کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو حج کی طاقت رکھے اور حج نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے اور اس سے مراد تغلیظ ہے یا یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل مسلمان نہیں ہوتا اور بعضوں نے کہا ہے۔ صیرورت کے معنی ترک نکاح کے اور ترک حج کے ہیں یعنی نکاح کا ترک کرنا اور حج ترک کرنا اسلام میں نہیں ہے بلکہ رہبانیت ہے۔ حاصل یہ کہ مسلمانوں کو نکاح اور حج نہیں چھوڑنا چاہیے۔

ارادہ حج کی تکمیل جلدی ہونی چاہیے

۹/۲۳۹۵ اور عن ابن عباس قال قال رسول الله من اراد الحج فليعجل - (رواه ابو داود و الدارمی)

اخرجه ابو داود في السنن ۳۵۰/۱۲ حديث رقم ۱۷۳۲ و ابن ماجه ۹۶۲/۲ حديث رقم ۲۸۸۳ و الدارمی ۴۵/۲ حديث رقم ۱۷۸۴ و احمد في المسند ۲/۱۴۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حج کا ارادہ کرے پس چاہیے کہ جلدی کرے۔ اس کو ابو داؤد اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص حج کرنے پر قادر ہو پس اس کو چاہیے کہ جلدی کرے اور فرصت کو غنیمت جانے اس لیے کہ اس کی تاخیر میں بہت سی آفتیں ہیں اور ہمارے مذہب کی صحیح روایت اور امام مالک اور احمد سے یہ ہے کہ حج علی الفور واجب ہے یعنی جب حج فرض ہو جائے اور جانے کا موسم آ جائے۔

اور قافلہ بہم پہنچے اگر قافلہ کی ضرورت ہو۔ تو اس سال حج کرے۔ دوسرے سال تک تاخیر نہ کرے اگر کئی سال تک تاخیر کرے گا تو فاسق ہوگا اور اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر اگر اسباب جاتا رہے تو فرض اس کے ذمے رہے گا اور امام محمد اور شافعی کے نزدیک واجب علی التراخی ہے یعنی اخیر عمر تک جائز ہے جیسے کہ نماز کی تاخیر آخری وقت تک جائز ہے۔ مگر جب حج کے فوت ہونے کا گمان ہو تو تاخیر نہ کرے۔ اگر کوئی شخص حج فرض ہونے کے بعد مر گیا اور اس نے حج نہ کیا تو وہ تمام کے نزدیک گنہگار مر اور ہمارے علماء نے لکھا ہے اگر وہ حج نہ کرے اور اس کا مال تلف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال قرض لے۔ اگر چہ اس کے ادا پر وہ قادر نہ ہو اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرض کی عدم ادائیگی کی وجہ سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ بشرطیکہ وہ ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو کہ جب قادر ہوگا تو ادا کرونگا۔ فی المرقاة والمناسک و درمختار۔

حج قرآن کرو

۲۰/۲۳۹۶ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوا ابْنَ الْحَجِّ وَالْقُمْرَةَ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ حَبْتَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ - (رواه الترمذی والنسائی ورواه احمد وابن ماجه عن عمر الى قوله) حَبْتَ الْحَدِيدِ۔

اخرجه الترمذی في السنن ۱۷۵/۳ حديث رقم ۸۱۰ و النسائی ۱۱۵/۵ حديث رقم ۲۶۳۰۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کو پے درپے کرو۔ پس تحقیق ان دونوں میں سے ہر ایک فقر اور گناہوں کو دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کا سونے کا اور روپے کا میل دور کرتی ہے اور حج مقبول کے واسطے ثواب بہشت ہے۔ یہ ترمذی اور نسائی نے اور احمد اور ابن ماجہ نے حَبْتَ الْحَدِيدِ تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں حج قرآن کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ حج قرآن کرو اس میں حج اور عمرہ دونوں ہوتے

ہیں۔ چنانچہ اس کا بیان آگے آئے گا۔ مراد یہ ہے کہ تم نے عمرہ کیا ہو تو پھر حج کرو اور اگر حج کیا ہو تو پھر عمرہ کرو اور فقر سے مراد فقر ظاہر یا فقر باطن ہے یعنی مالدار ہو جاتا ہے یا غنی ہو جاتا ہے۔

حج کن چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے

۲۱/۲۳۹۷ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ قَالَ الرِّادُّ وَالرَّاحِلَةُ۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۷۷/۳ حدیث رقم ۸۱۳۔ وابن ماجہ ۹۶۷/۲ حدیث رقم ۲۸۹۷۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! حج کو کوئی چیز واجب کرتی ہے؟ فرمایا: توشہ اور سواری۔ اس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں حج کے واجب ہونے کی شرائط کا بیان ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حج کے واجب ہونے کی شرط یہ ہے توشہ یعنی خرچ اس قدر ہو کہ آنے جانے کے لیے اور اہل و عیال کے لیے کفایت کرے اور سواری کی اس پر سواری ہو جائے اور حج کے واجب ہونے کی شرطیں ان شاء اللہ آگے بیان ہوں گی، یہاں خاص پران و دشواری کو اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اصل ہیں اور اس حدیث میں امام مالک پر رد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حج اس پر بھی واجب ہوتا ہے جو پیادہ پا چلے پر قادر ہو اور تجارت یا کمانے پر قدرت رکھتا ہو۔

حاجی کی صفات کا بیان

۲۲/۲۳۹۸ وَعَنْهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الْحَاجُّ قَالَ الشَّعِثُ النَّفِلُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ الْحَجِّ أَفْضَلُ قَالَ الْعَجُّ وَالنَّعْجُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ قَالَ رَادٌّ وَرَاحِلَةٌ۔ (رواہ فی شرح السنۃ وروی ابن ماجہ فی سننہ الا انہ لم يذكر الفصل الاخير)

اخرجه ابن ماجہ فی السنن ۹۶۷/۲ حدیث رقم ۲۸۹۶۔ والبیہقی فی شرح السنۃ ۱۴۱/۷ حدیث رقم ۱۸۴۷۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ حاجی کی صفت کیا ہے؟ فرمایا سرغبار آلودہ پراگندہ بال، پسینے اور میل کی وجہ سے بو آتی ہو۔ یعنی زینت کو چھوڑنے والا ہو۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول! حج میں کون سی چیزیں (حج کے ارکان کے بعد) بہت زیادہ ثواب رکھتی ہیں۔ فرمایا: تلبیہ کہنے کے ساتھ آواز کا بلند کرنا اور قربانی یا ہدی کا خون بہانا۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول وہ راستہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں حج کی آیت میں آیا ہے: مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ اسْبِيلًا۔ تو سبیل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: توشہ اور سواری مراد ہے۔ اس کو شرح السنۃ میں نقل کیا گیا ہے اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے مگر اخیر کی عبارت ذکر نہیں کی یعنی مقام آخر جو آخر ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں حاجی کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ حاجی دوران حج تمام زینت کے کاموں کو چھوڑ دیتا

ہے بلند آواز سے تلبیہ کہتا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور پھر اس کا ہدی وغیرہ کا خون بہانا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔

حج بدل کا ثبوت

۲۳/۲۳۹۹ وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ۔

(رواہ الترمذی و ابو داؤد والنسائی وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۰۲/۲ حدیث رقم ۱۸۱۰۔ والترمذی ۲۶۹/۳ حدیث رقم ۹۳۰۔ والنسائی ۱۱۱/۵ حدیث

رقم ۲۵۲۱۔ وابن ماجہ ۹۷۰/۲ حدیث رقم ۲۹۰۶ واحمد فی المسند ۱۰/۴۔

ترجمہ: حضرت ابی رزین عقیلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آیا پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول! تحقیق میرا باپ بہت بوڑھا ہے۔ حج و عمرہ کے لئے سوار ہونے کی طاقت نہیں رکھتا یعنی حج اور عمرے کے افعال نہیں کر سکتا اور نہ سوار ہو کر ان کے لیے جا سکتا ہے۔ فرمایا اپنے باپ کی طرف سے حج کرو اور عمرہ کرو۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کی تشریح پہلے گزر چکی ہے اس میں آپ ﷺ نے حج بدل کی اجازت دی ہے اور اس شخص کو اپنے باپ کی طرف سے حج کرنے کی اجازت دی ہے۔

حج بدل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنا حج کرے

۲۳/۲۴۰۰ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شَبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شَبْرُمَةُ قَالَ أَخِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ أَحَبَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شَبْرُمَةَ۔ (رواہ الشافعی و ابو داؤد وابن ماجہ)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۰۳/۲ حدیث رقم ۱۸۱۱۔ وابن ماجہ ۹۶۹/۲ حدیث رقم ۲۹۰۳۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ نے ایک شخص سے سنا کہ وہ شبرمہ کی طرف سے لبیک کہہ رہا ہے: آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے یا کہا کہ میرا قریبی ہے۔ فرمایا کیا تو اپنی طرف سے حج کر چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پہلے تو اپنی طرف سے حج کر پھر شبرمہ کی طرف سے کرنا۔ اس کو امام شافعی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے یہی مذہب امام شافعی اور امام احمد کا ہے کہ جب تک اپنا فرض حج ادا نہ کرے اس وقت تک کسی کی طرف سے حج کرنا درست نہیں ہے۔ امام مالک اور امام اعظم کے نزدیک غیر کی طرف سے حج کرنا درست ہے اگرچہ اس نے اپنا حج نہ کیا ہو۔ لیکن اولیٰ یہ ہے کہ پہلے آپ حج کرے پھر دوسرے کی طرف سے حج کرے پس

ان کے نزدیک یہ امر استحباب کے لیے ہے اور یہ بات بہتر ہے واجب نہیں ہے اور بہتر جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف یا منسوخ ہے اس لیے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔

اہل مشرق کی میقات

۲۵/۲۳۰۱ عَنْهُ قَالَ وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ - (رواہ الترمذی و ابو داؤد)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۵۵/۲ حدیث رقم ۱۷۴۰۔ و الترمذی فی السنن ۱۹۳/۳ حدیث رقم ۸۳۲۔
ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے مشرق والوں کے لئے عقیق بطور میقات متعین کر دی۔
اس کو امام ترمذی نے اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: عقیق ایک جگہ کا نام ہے جو کہ ذات عرق کے محاذ میں واقع ہے اور مشرق والوں سے وہ لوگ مراد ہیں۔ کہ ان کے گھر حرم سے باہر مشرق کی جانب مکہ میں ہے اور وہی عراقی کہلاتے ہیں۔ جو کہ اگلی حدیث میں مذکور ہیں پس مشرق والوں کے لیے احرام کی جگہیں دو ہیں ایک تو عقیق اور دوسری ذات عرق اور جو کوئی ان دونوں جگہوں میں سے جس جگہ سے بھی گزرے وہیں سے احرام باندھے۔

احرام کی جگہ کا تعین

۲۶/۲۳۰۲ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِزْقٍ -

(رواہ ابو داؤد والنسائی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۵۴/۲ حدیث رقم ۱۷۳۹۔ والنسائی ۱۲۵/۵ حدیث رقم ۲۶۵۶۔
ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے عراق والوں کے لیے احرام کی جگہ ذات عرق متعین فرمائی۔
اس کو ابو داؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے عراق والوں کے احرام باندھنے کی جگہ یعنی میقات کا تعین فرما دیا جو کہ ذات عرق ہے۔

حج انسان کے گناہوں کے بخشے کا ذریعہ ہے

۲۷/۲۳۰۳ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهْلًا بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ -

(رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۳۵۵/۲ حدیث رقم ۱۷۴۱۔ و ابن ماجہ ۹۹۹/۲ حدیث رقم ۳۰۰۱ و احمد فی المسند ۲۹۹/۶۔
ترجمہ: ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص حج یا عمرے کا احرام بیت

المقدس سے مسجد الحرام تک باندھے۔ اس کے واسطے گناہ بخشے جاتے ہیں جو اس نے پہلے کئے ہیں اور وہ گناہ جو بعد میں کرے گا یا فرمایا کہ اس کے لیے بہشت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کو ابوداؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے اگلے اور بعد والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے حدیث میں لفظ وتوبلج کے لیے ہے اور اَوْ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ میں راوی کا شک ہے اور جب آدمی بیت المقدس سے مکہ کی طرف آتا ہے تو راستے میں مدینہ مطہرہ سے ملتا ہے۔ پس وہ اول اوسط اور آخر میں افضل مقامات سے مشرف ہوتا ہے اس سبب سے عظیم ثواب پاتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس حدیث میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ احرام کی جگہ جتنی دور ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ انتہی اور جاننا چاہیے کہ احرام کی موافقت سے تقدیم موافقت سے احرام کی تقدیم یعنی احرام کی جگہوں سے احرام باندھنا اور اپنے گھر سے احرام باندھ کر جانا ہمارے نزدیک افضل ہے اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے اور یہ جب ہے کہ ممنوعات احرام سے بچ سکے اور اگر یہ جانے کہ ممنوعات سے نہیں بچ سکے گا تو میقات سے احرام باندھنا افضل ہے اور حج کے مہینوں سے پہلے ہمارے نزدیک احرام باندھنا مکروہ ہے بلکہ یہی مسلک امام مالک اور احمد کا ہے اور امام شافعی سے ایک روایت تو یہ ہے کہ اس کا احرام ہی درست نہیں ہوتا۔

اور مشہور روایت ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ حج کا احرام بدل کر عمرے کا ہو جاتا ہے۔

الفصل الثالث:

سفر کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا توکل کے منافی نہیں ہے

۲۸/۲۴۰۴ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحْجُونَ فَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَاذًا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۸۳/۳۔ حدیث رقم ۱۵۲۳۔ وابوداؤد فی السنن ۳۴۹/۲ حدیث رقم ۱۷۳۰۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یمن والے حج کرتے تھے اور توشہ نہیں لیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم توکل کرنے والے ہیں پس جب مکہ میں آئے تو لوگوں سے مانگتے پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو سوال کرنے کے بجائے توشہ اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس لیے کہ بہترین توشہ پرہیزگاری ہے یعنی یہ سفر آخرت کا توشہ ہے اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ حدیث پاک میں ترغیب دی گئی ہے کہ سفر کے لیے توشہ تیار کرو۔ کہ جس طرح یمن کے لوگوں نے توکل کو توشہ خیال کیا تھا اگرچہ حقیقت میں وہ توکل نہ تھا پس فرمایا کہ تقویٰ بہتر ہے اس سے اس کو توشہ ٹھہراؤ اور آیت اور حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسباب رکھنا توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ کالمیلین کے نزدیک بھی افضل ہے اور جو دلی ارادہ کرے۔ محض توکل کا یعنی اسباب کے بغیر اس کو بھی کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ مضبوط ہو کر صبر کر سکے۔

عورتوں کا جہاد

۲۹/۲۳۰۵ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ۔

اخرجه ابن ماجہ ۹۶۸/۲ حدیث رقم ۲۹۰۱۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! عورتوں پر جہاد ہے؟ فرمایا کہ عورتوں پر ایسا جہاد ہے کہ اس میں لڑائی نہیں ہے کہ وہ حج و عمرہ کریں۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کے جہاد کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ عورتوں کا جہاد حج و عمرہ ہے۔ کیونکہ حج و عمرے میں لڑائی تو نہیں ہوتی۔ لیکن سفر کی مشقت اور مفارقت گھر کے لوگوں سے ضرور ہوتی ہے اور وطن سے جدائی ہوتی ہے جیسے کہ جہاد میں۔ پس وہ عورتوں کے حق میں بمنزلہ جہاد کے ہیں۔

وسعت کے باوجود حج نہ کرنے پر وعید

۳۰/۲۳۰۶ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَاسٍ فَمَا تَوَلَّى يَحْجَّ فَلَيْمَتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا۔

اخرجه الدارمی فی السنن ۴۵۱۲ حدیث رقم ۱۷۸۵۔

ترجمہ: حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص کہ جس کو ظاہری حاجت نے سواری نے اور توشہ کے نہ ہونے نے یا ظالم بادشاہ نے یا قید کرنے والے مرض نے حج سے نہ روکا ہو۔ پس وہ مر گیا اور اس نے حج نہ کیا۔ پس اگر وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے اور اگر چاہے نصرانی ہو کر مرے اس کو دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ حدیث میں ظالم بادشاہ کے بارے میں آیا ہے کہ یعنی راستہ میں ظالم بادشاہ سے اپنے مال و جان کے تلف پر ڈرتا ہے تو اس پر حج فرض نہیں اور اس طرح بیماری ہو کہ سفر نہ کر سکے۔ تو وہ مانع حج ہے پس اندھے اور فالج زدہ پر حج فرض نہیں ہے۔ ساری حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جس کے پاس سواری اور راستے کا خرچ ہو اور کوئی ظالم بادشاہ اور بیماری بھی مانع نہ ہو اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے اور اس کا بیان اوپر گزر چکا ہے۔

حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں

۳۱/۲۳۰۷ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحَاجُّ وَالْعُمْرُ فَقَدْ دَعَا

أَجَابَهُمْ وَإِنْ اسْتَغْفَرُوا غُفِرَ لَهُمْ۔ (رواہ ابن ماجہ)

اخرجه ابن ماجہ فی السنن ۹۶۶/۲ حدیث رقم ۲۸۹۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پیغمبر ﷺ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور اگر بخشش چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اگر بخشش مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔

۳۲/۲۳۰۸ وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَلِلَّهِ ثَلَاثَةُ أَلْغَازِي وَالْحَاجُّ

وَالْمُعْتِمِرُ۔ (رواہ النسائی والبیہقی فی شعب الایمان)

اخرجه ابن ماجہ فی السنن ۹۶۶/۲ حدیث رقم ۲۸۹۳۔ والبیہقی فی شعب الایمان۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا فرماتے ہیں کہ اللہ کے تین مہمان ہیں: ۱) جہاد کرنے والا۔ ۲) حج کرنے والا۔ ۳) عمرہ کرنے والا۔ اس کو امام نسائی و بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ پہلے بیان ہو چکا۔

حاجی سے سلام و مصافحہ کا ثبوت

۳۳/۲۳۰۹ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيتُ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ

وَصَافِحْهُ وَامْرَأَةً أَنْ يَسْتَغْفِرَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ۔ (رواہ احمد)

اخرجه احمد فی المسند ۶۹۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تو حاجی سے ملاقات کرے۔ یعنی جو کہ حج کر چکے ہیں پس تو اس کو سلام کر اور اس سے مصافحہ کر اور اس سے کہہ کہ تیرے لئے (اللہ سے) بخشش طلب کرنے اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو۔ اس لیے کہ تحقیق وہ بخشا گیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حاجی کے گھر میں داخل ہونے سے قبل اس کو سلام و مصافحہ کرنا چاہیے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے کی قید اس لیے لگائی کہ وہ ابھی تک خدا کے راستے میں ہے اور اپنے اہل و عیال میں مشغول نہیں ہوا۔ گناہوں سے پاک ہے۔ اس کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے اور عمرہ کرنے والا اور جہاد کرنے والا اور طالب علم بھی حج کرنے والے کے حکم میں ہیں یعنی جب یہ گھر کو آئیں تو ان سے بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام و مصافحہ کرنا چاہیے اور بخشش کی دعا کروانی چاہیے کہ وہ بھی مغفور ہیں۔

حج و عمرہ کرنے والے کو جہاد کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے

۳۳/۲۳۱۰ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِي طَرِيقِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ الْغَازِي وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ - (رواه البيهقي في شعب الایمان)

اخرجه البيهقي في شعب الایمان ۴۸۴/۳ - حديث رقم ۴۱۰۰ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج، عمرے یا جہاد کے ارادے سے نکلا پھر اس کی راہ میں مر گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہاد کرنے والے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھتا ہے۔ اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حج و عمرہ کرنے والے کو جہاد کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے یعنی وہ ان ہی کے حکم میں ہے اور وہ شخص علم دین کی طلب کے لیے نکلا تھا اور پھر مر گیا یعنی اس کے لئے عالموں کا سارا ثواب لکھا جاتا ہے۔

بَابُ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ

احرام باندھنے اور لبیک کے کہنے کا بیان

فائدہ: احرام کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ کئی چیزیں احرام باندھنے والے کو اپنے اوپر حرام کرنی ہوتی ہیں چنانچہ ان کا بیان ان شاء اللہ آگے ہوگا۔

لَيْسَ لَكَ اللَّهُمَّ لَيْسَ لَكَ شَرِيكَ لَكَ لَيْسَ لَكَ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ -

الفصل الاول:

احرام کی حالت میں خوشبو لگانے کا مسئلہ

۱/۲۳۱۱ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحُلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْضِ الطِّيبِ فِي مِسْكِ مِفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ - (متفق عليه)

اخرجه البخاري في صحيحه ۳۹۶/۳ - حديث رقم ۱۵۳۹ مسلم في صحيحه ۸۴۷/۲ - حديث رقم (۳۷ - ۱۱۸۹) -
وابوداؤد في السنن ۳۵۸/۲ - حديث رقم ۱۷۴۵ - والترمذی ۲۵۹/۳ - حديث رقم ۹۱۷ - والنسائي ۱۳۷/۵ - حديث رقم ۲۶۹۳ - وابن ماجه ۹۷۶/۲ - حديث رقم ۲۹۲۶ - ومالك في الموطأ ۳۲۸/۱۳۲۸ - حديث رقم ۱۷ - من كتاب الحج، في السنن ۵۱/۲ - حديث رقم ۱۸۳ - واحمد في المسند ۹۸/۶ -

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کے احرام کو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتی تھی اور آپ ﷺ کے احرام سے نکلنے کے لیے طواف کعبہ سے پہلے خوشبو لگاتی تھی کہ اس میں مشک ہوتا تھا۔ گویا کہ میں رسول کریم ﷺ کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھتی ہوں اور اس حال میں آپ ﷺ محرم ہوتے گویا کہ وہ چمک میری آنکھوں کے سامنے پھرتی ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: روایت مذکورہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب حضور ﷺ احرام کا ارادہ کرتے تو میں حضور ﷺ کے خوشبو لگاتی تھی اور خوشبو ایسی ہوتی تھی کہ اس میں مشک بھی ہوتا تھا تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر احرام سے پہلے خوشبو لگائے اور اس کا اثر احرام کے بعد باقی رہے تو کچھ مضرت نہیں ہے اس لیے کہ احرام کے ممنوعات سے ہے خوشبو کا احرام باندھنے کے بعد استعمال کرنا نہ کے پہلے۔ پس امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد کا مسلک تو یہی ہے اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک مکروہ ہے احرام سے پہلے ایسی خوشبو لگانا کہ اس کا اثر احرام باندھنے کے بعد اور ان کے احرام سے نکلنے پر باقی رہے۔

اصل مسئلہ یہ ہے کہ عید کے دن مزدلفہ سے منیٰ کو آتے ہیں جمرہ عقبہ کے رمی کے بعد احرام سے نکل آتے ہیں اور سب کچھ حلال ہو جاتا ہے مگر عورت حلال نہیں ہوتی یہاں تک کہ مکہ کو آتے ہیں اور طواف افاضہ کرتے ہیں پھر عورت حلال ہو جاتی ہے پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ جب حضور ﷺ احرام سے نکلے تو جب بھی میں حضور ﷺ کے طواف کرنے سے پہلے خوشبو لگاتی۔

بلند آواز سے تلبیہ کہنا

۲/۲۳۱۲ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْلُ مُلْبِدًا يَقُولُ لَيْتَكَ اللَّهُمَّ لَيْتَكَ لَيْتَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْتَكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ۔

(متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۰۸/۳ حدیث رقم ۱۵۴۰۔ و مسلم فی صحیحہ ۸۴۲/۲ حدیث رقم (۲۱۔ ۱۱۸۴)۔
وابوداؤد ۳۶۰/۲ حدیث رقم ۱۷۷۴۔ وابن ماجہ ۱۰۱۳/۲ حدیث رقم ۳۰۴۷۔ والدارمی ۵۳/۲ حدیث رقم ۱۸۰۸۔
واحمد فی المسند ۱۳۱/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا کہ بلند آواز میں کہتے تھے کہ اے الہی! میں حاضر ہوں تیری خدمت میں اے الہی! میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ تحقیق سب تعریف، نعمت اور بادشاہت تیرے واسطے ہے۔ ان کلمات پر زیادتی نہیں کرتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بلند آواز سے تلبیہ کہتے تھے اور تلبیہ کیے ہوئے ہوتے تھے تلبیہ یہ ہے کہ محرم اپنے سر میں گوندا یا خطمی یا مہندی یا کچھ اور چیز ڈالے تال بال آپس میں مل جائیں اور ان میں غبار نہ بیٹھے اور جوؤں

سے محفوظ رہیں اور لفظ والملك کا عطف ہے الحمد پر اس لیے لفظ والملك پر عطف کرنا مستحب ہے اور لبیک کہنے میں اختلاف کیا گیا ہے اور ہمارے لیے صحت احرام کے لیے سنت ہے اور امام مالکؒ نے کہا ہے کہ واجب نہیں ہے لیکن اس کے ترک کرنے سے دم لازم آتا ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک سنت ہے۔ اس کے دم کرنے سے دم نہیں آتا یعنی اکثر اسی قدر کہتے تھے ورنہ اور الفاظ ان کے علاوہ روایت کیے گئے ہیں۔ پھر ان الفاظ میں کمی کرنا مکروہ ہے اور زیادتی کرنا مکروہ نہیں ہے۔ بلکہ مستحب ہے اور تمام علماء کے نزدیک بلند آواز سے تلبیہ کہنا مستحب ہے۔

۳/۲۳۱۳ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ادْخَلَ رَجُلُهُ فِي الْغُرُزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ

قَائِمَةً أَهْلًا مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۶۹/۶۔ حدیث رقم ۲۸۶۵۔ ومسلم فی صحیحہ ۸۴۵/۲ حدیث رقم (۲۷-۱۱۸۷)۔
وابوداؤد فی السنن ۳۷۵/۲ حدیث رقم ۱۷۷۳ والنسائی ۱۶۲/۵ حدیث رقم ۲۷۵۷۔ وابن ماجہ ۹۷۳/۲ حدیث رقم ۲۹۱۶۔ والدارمی ۹۸/۲ حدیث رقم ۱۹۲۹۔ ومالك فی الموطأ ۳۳۲/۱ حدیث رقم ۲۹ من کتاب الحج۔ واحمد فی

المسند ۱۸/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے جب آپ ﷺ اپنا پاؤں رکاب میں داخل کرتے تو آپ ﷺ کو اونٹنی اٹھاتی اس حال میں کہ آپ ﷺ مسجد ذی الحلیفہ کے پاس احرام باندھتے اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حضور ﷺ ظہر کی نماز پڑھ کر مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا کی جو کہ اہل مدینہ کی میقات ہے اور رات وہاں گزاری اور صبح کو احرام باندھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھنے کے بعد اور اس کے کھڑے ہونے سے پہلے لبیک کہی اور روایت میں آیا ہے کہ بیدار جو کہ ایک بلند جگہ کا نام ہے وہاں پہنچ کر لبیک کہی۔ پس امام شافعیؒ نے تو اول روایت پر عمل کیا ہے کہ اونٹ پر بیٹھ کر لبیک کہے اور امام اعظمؒ اور امام مالکؒ اور احمدؒ نے دوسری روایت پر عمل کیا ہے کہ ان کے نزدیک مستحب یہ ہے احرام کی دور کتیتیں پڑھنے کے بعد احرام کی نیت کرے اور اس حال میں لبیک کہے کہ بیٹھا ہو۔ چنانچہ ہدایہ میں لکھا ہے کہ اگر اونٹ پر بیٹھ کر لبیک کہے تو درست ہے لیکن نماز کے بعد افضل ہے اور ان روایات میں یوں تطبیق دی گئی ہے کہ حضور ﷺ نے مصلے پر لبیک کہی پھر جب اونٹ پر سوار ہوئے تب بھی کہی۔ جب بیدار مقام پر پہنچے تو بھی کہی۔ چنانچہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تکرار لبیک حالتوں اور زمانوں اور مکانوں کے تغیر کے ساتھ درست ہے پس جس راوی نے جہاں سے لبیک کہتے ہوئے سنا وہ سمجھا کہ یہیں سے لبیک کہنی شروع کی اور اس توجیہ کی مؤید روایت حضرت ابن عباسؓ کی ہے کہ حضرت شیخؓ کے ترجمہ میں ذکر کی گئی ہے۔

بلند آواز سے تلبیہ کہنے کا ثبوت

۳/۲۳۱۴ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْرُخُ بِالنَّحْجِ صَرَاحًا۔

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۱۴/۲ حدیث رقم (۲۱۱-۱۲۴۷)۔ واحمد فی المسند ۵/۳۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ نکلے اس حال میں کہ ہم حج کے ساتھ

چلاتے تھے ساتھ حج کے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ حج کے لیے نکلے تو چلاتے تھے یعنی بلند آواز سے تلبیہ کہتے تھے اور شاید کہ حج کا اقتصار اس لیے کیا ہے کہ وہ اصل اور مقصود اعظم ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ راوی کا حال ہے اور جو کہ اس کے موافق تھے اور حضور ﷺ کا حال مسکوت عنہ ہے کہ دوسری روایت سے واضح ہوگا۔ پس یہ روایت آئندہ روایات کے منافی نہیں ہے۔

بلند آواز سے تلبیہ کہنا

۵/۲۳۱۵ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ وَانْتَهَمَ لِيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ۔

(رواہ البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۲۱۱۳ حدیث رقم ۱۵۶۲۔ وخرجه مسلم فی صحیحہ ۸۷۳۱۲ حدیث رقم (۱۱۸)۔

(۱۲۱۱) وخرجه ابوداؤد ۳۸۱۱۲ حدیث رقم ۱۷۷۹ وابن ماجہ ۹۹۸۱۲ حدیث رقم ۳۰۰۰۔ ومالك فی الموطأ

۳۳۵۱۱ حدیث رقم ۳۶ من کتاب الحج۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں ابوطحہ کی سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور تحقیق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یعنی اکثر صحابہ دونوں کے ساتھ (یعنی حج و عمرہ کے ساتھ) چلاتے تھے۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بلند آواز سے صحابہ کرام تلبیہ پڑھا کرتے تھے اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن افضل ہے اور قرآن کے معنی آگے معلوم ہونگے ان شاء اللہ تعالیٰ اور یہی ہمارا مذہب ہے اس لیے کہ صحابہ کرام حضور ﷺ کے ساتھ تھے اور وہ نبی کریم ﷺ کی مخالفت کیسے کر سکتے تھے۔ حضور ﷺ نے قرآن کیا ہوگا تو حضور ﷺ کی اتباع کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی قرآن کیا۔

حج کرنے والوں کی اقسام

۶/۲۳۱۶ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ وَأَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَعَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحْلُوا حَتَّى تَكُنْ يَوْمَ النَّحْرِ۔

(متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۳۹۱۳۔ حدیث رقم ۱۶۹۱۔ ومسلم فی صحیحہ ۹۰۱۱۲ حدیث رقم (۱۷۴)۔ (۱۲۲۷)

وابوداؤد فی السنن ۳۹۷۱۲ حدیث رقم ۱۸۰۵ والنسائی ۱۵۱۱۵ حدیث رقم ۲۷۳۲۔ واحمد فی المسند ۱۳۹۱۲۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر نکلے تو ہم میں سے بعض وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے محض عمرے کا احرام باندھا اور بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا اور

بعض ہم میں وہ لوگ تھے جنہوں نے محض حج کا احرام باندھا اور نبی کریم ﷺ نے حج کا احرام باندھا۔ پس جس نے عمرے کا احرام باندھا وہ حلال ہو گیا اور جس نے حج کا احرام باندھا اور یا حج اور عمرے کو جمع کیا پس وہ نحر کے دن تک حلال نہیں ہوا۔ اس کو بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿حج کرنے والے تین قسم پر ہیں ایک تو مفرد اور مفرد وہ ہے کہ وہ حج کا احرام باندھے اور دوسرا قارن اور قارن وہ ہے کہ وہ حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھے اور تیسرا متمتع، متمتع وہ ہے کہ اول عمرے کا احرام میقات سے حج کے مہینوں میں باندھے اور عمرے کے افعال بجالائے پھر اگر ہدی کا جانور ساتھ لایا ہے تو احرام باندھ کر رکھے اور اگر ہدی نہیں لایا تو احرام سے نکل آئے اور مکہ میں بیٹھا رہے جب حج کے ایام آئیں تو حج کا احرام حرم میں باندھے اور حج کرے چنانچہ ان احکام کا بیان ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آئے گا اور حضور ﷺ کے حج کے بارے میں حدیثیں مختلف آئی ہیں۔

بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ قارن تھے اور بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ متمتع تھے پس ان میں سے ہے اور اکثر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ قارن تھے اور بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ متمتع تھے پس ان میں تطبیق یوں دی گئی ہے کہ بعضوں نے حضور ﷺ سے فقط لبیک بحجۃ ہی سنا اور لفظ و عمرہ کا نہیں سنا۔ انہوں نے کہا حضور ﷺ مفرد تھے اور بعضوں نے لبیک بعمرہ سنا۔

انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ متمتع تھے اور احتمال یہ ہے کہ حضور ﷺ کبھی لبیک بحجۃ اور کبھی لبیک بعمرہ اور کبھی لبیک عمرہ فرماتے۔ پس جس نے جو کچھ سنا وہ روایت کیا قرآن اور تمتع کے افعال آپس میں مشابہ ہیں بعض صحابہ نے جانا کہ حضور ﷺ نے قرآن کیا ہے وہی نقل کر دیا اور بعضوں نے جانا کہ تمتع کیا ہے وہی نقل کیا ہے اور یا تمتع سے مراد تمتع لغوی ہے یعنی نفع اٹھانا اور وہ قرآن میں موجود ہے اور قارن عمرے کے ساتھ ساتھ حج سے بھی منتفع ہوتا ہے۔ واللہ اعلم اور جس نے عمرے کا احرام باندھا یعنی حج سے پہلے پس وہ حلال ہو گیا یعنی وہ طواف کرنے کے بعد اور سعی کرنے کے بعد اور حلق یعنی سرمندانے کے بعد عمرے کے احرام سے نکل آیا۔ پس اس کو تمام احرام کے منوعات حلال ہو گئے پھر حج کا اور جس نے حج یا حج و عمرے کا احرام باندھا وہ احرام سے نہیں نکلا۔ یہاں تک کہ نحر کا دن آجائے۔ پس نحر کے دن حجرۃ العقبہ کی رمی کرنے کے بعد اور حلق کے بعد احرام سے حلال ہو جائے گا پھر اس کو تمام منوعات احرام درست ہو جائیں گے سوائے عورتوں سے مباشرت کے کہ وہ طواف رکن کے بعد درست ہوتی ہے۔

فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ.....

حج کو عمرے کے ساتھ داخل کرنا

۷/۲۳۱۷ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ بَدَأَ أَهْلًا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَ بِالْحَجِّ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۳۹/۳۔ حدیث رقم ۱۶۹۱۔ و مسلم فی صحیحہ ۹۰۱/۲۔ حدیث رقم (۱۷۴)۔ (۱۲۲۷)۔
وابوداؤد فی السنن ۳۹۷/۲۔ حدیث رقم ۱۸۰۵ والنسائی ۱۵۱/۵۔ حدیث رقم ۲۷۳۲۔ واحمد فی المسند ۱۳۹/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمتع کیا پہلے عمرہ کا احرام باندھا پھر حج کا احرام باندھا تمتع کیا یعنی فائدہ اٹھایا نبی کریم ﷺ حجۃ الوداع میں عمرے کا احرام باندھا اور پھر حج کا احرام باندھا۔ یعنی حج کو عمرے میں داخل کیا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا کہ آپ ﷺ نے حجۃ الوداع میں پہلے عمرے کا احرام باندھا اور پھر حج کا احرام باندھا۔ اس لحاظ سے آپ ﷺ نے فائدہ اٹھایا اس لیے کہ آپ ﷺ نے حج و عمرہ کو ملا دیا تو اس لحاظ سے قارن ہوئے۔

الفصل الثانی:

احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے

۸/۲۳۱۸ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِأَهْلَالِهِ وَاعْتَسَلَ۔

(رواہ الترمذی والدارمی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۹۲/۳ حدیث رقم ۸۳۰ والدارمی فی السنن ۴۸/۲ حدیث رقم ۱۷۹۴۔

ترجمہ: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے احرام کے لیے سلے ہوئے کپڑے اتارے اور غسل کیا۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ جب احرام باندھتے تو سلے ہوئے کپڑے اتارتے اور غسل فرماتے اور لنگی باندھتے اور حالت احرام میں چادر اوڑھتے اور احرام کے لیے غسل کرنا افضل ہے اور وضو کرنا بھی کافی ہے۔

تلبید کرنے کی اجازت ہے

۹/۲۳۱۹ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَدَ رَأْسَهُ بِالْفُغْلِ۔ (رواہ ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۳۶۰/۲ حدیث رقم ۱۷۴۸۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے سر کے بال ایسی چیزوں کے ساتھ جماتے کہ جن سے سرد ہو یا جاتا ہے۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے تلبید کا ثبوت ملتا ہے کہ تلبید کرنے کی اجازت ہے۔ تلبید کہتے ہیں گوند یا عطسی وغیرہ سے بال جمالینا تاکہ غبار وغیرہ سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ اس کا بیان اوپر ہو چکا ہے۔

بلند آواز سے تلبیہ کہنا

۱۰/۲۳۲۰ وَعَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّابُنِي جَبْرِيلُ

فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْأَهْلَالِ أَوِ التَّلْبِيَةِ۔

(رواہ مالک و الترمذی و ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۰۵۱۲ حدیث رقم ۱۸۱۴۔ و الترمذی فی السنن ۱۹۱۱۳ حدیث رقم ۸۲۹ و النسائی فی السنن ۱۶۲۱۵ حدیث رقم ۲۷۵۳۔ و ابن ماجہ ۹۷۵۱۲ حدیث رقم ۲۹۲۲۔ و الدارمی ۵۳۱۲ حدیث رقم ۱۸۰۹۔ و مالک فی الموطأ ۳۳۴۱۱ حدیث رقم ۳۴ من کتاب الحج۔ و احمد فی المسند ۵۵۱۴۔

ترجمہ: حضرت غلام بن سائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے مجھے حکم دیا۔ کہ میں اپنے دوستوں کو حکم کروں کہ وہ اپنی آوازیں اہلال کے ساتھ یا تلبیہ کے ساتھ بلند کریں۔ اس کو امام ترمذی اور ابو داؤد و النسائی اور ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں آپ ﷺ کا ارشاد گرامی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ بلند آواز سے تلبیہ کہتے تھے لفظ اور راوی کا شک ہے کہ بالاہلال کہا یا بالتلبیہ کہا دونوں کے معنی ایک ہیں۔ لبیک کہنا اور پکار کر لبیک کہنا مرد کو مستحب ہے۔ لیکن اتنا نہ چلائے کہ نفس کو تکلیف ہو اور عورت چپکے سے اس طرح کہے کہ خود ہی سنے دوسرے کو آواز نہ آئے۔

لبیک کہنے والے کی عظمت

۱۱/۲۳۳۱ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَبَّى إِلَّا لَبَّى مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَذْرُوءٍ حَتَّى تَنْقُطَ الْأَرْضُ مِنْ هَهْنَا وَهَهْنَا۔

(رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

اخرجه الترمذی فی السنن ۱۸۹۱۳ ح ۱۲۸۔ و ابن ماجہ ۹۷۴۱۲ حدیث رقم ۲۹۲۱۔

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ لبیک کہتا ہو۔ مگر لبیک کہتے ہیں جو اس کے داہنی طرف ہیں اور جو اس کے بائیں طرف ہیں پھر یا درخت یا ڈھیلے سے یہاں تک کہ زمین اس طرف سے یعنی دائیں اور بائیں طرف سے ختم ہو جائے۔ اس کو ابن ماجہ اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں لبیک کہنے والے کی عظمت شان بیان کی گئی ہے یعنی جو کوئی لبیک کہتا ہے تو زمین کی سب چیزیں اس کی موافقت کرتی ہیں یعنی وہ بھی لبیک کہتی ہیں۔

احرام باندھنے کے بعد آپ ﷺ کا معمول مبارک

۱۲/۲۳۳۲ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهْلًا بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدُكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ۔ (متفق عليه ولفظه لمسلم)

اخرجه البخاری فی صحیحہ حدیث رقم ۱۵۴۹۔ و مسلم فی صحیحہ ۸۴۲۱۲ حدیث رقم (۱۹-۱۱۸۴)۔ و ابو داؤد فی السنن ۴۰۴۱۲ حدیث رقم ۱۸۱۲۔ و الترمذی ۱۸۸۱۳ حدیث رقم ۸۲۶ و النسائی ۱۶۱۵۰ حدیث رقم ۲۷۵۰ و ابن ماجہ

۹۷۴/۲ حدیث رقم ۲۹۱۸۔ ومالك في الموطأ ۳۳۱/۱ حدیث رقم ۲۸ من كتاب الحج۔ واحمد في المسند ۳/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کو ذی الحلیفہ میں دو رکعتیں پڑھتے تھے جس وقت کہ حضور ﷺ کو ذی الحلیفہ کے پاس کھڑی اونٹنی اٹھاتی تھی آپ ﷺ ان کلمات کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے یعنی مشہور لفظ لبیک کے ساتھ اور تلبیہ میں اضافہ کرے یہ کہ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ اے الہی میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں اور نیک بختی حاصل کرتا ہوں تیری خدمت اور بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں اور تیری طرف رغبت ہے اور عمل تیرے ہی لیے ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے اور اس کے لیے الفاظ مسلم کے ہیں۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ کو ذی الحلیفہ میں دو رکعتیں پڑھتے تھے جو کہ احرام کی سنتیں ہیں۔ تو ان میں سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص پڑھتے اور احرام کی نیت کرتے اور ان کے بعد لبیک کہتے۔ پھر جب کہ اونٹنی حضور ﷺ کو سوار کر کے مسجد ذی الحلیفہ کے پاس کھڑی ہوتی تو لبیک کے مشہور کہتے اور ان میں کچھ الفاظ زیادہ کہتے۔

اللہ تعالیٰ سے خوشنودی مانگنا اور معافی طلب کرنا

۱۳/۲۲۲۳ وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَعَ مِنْ تَلْبِيسِهِ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعْفَاهُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ۔ (رواه الشافعي)

اخرجه الامام الشافعي۔

ترجمہ: حضرت عمارہ بن خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ یعنی خزیمہ سے نقل کیا ہے۔ اس نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے یہ کہ جب حضور ﷺ لبیک کہنے سے فارغ ہوتے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے ساتھ آگ سے خوشنودی جنت اور معافی طلب کرتے۔ اس کو امام شافعی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ہمارے علماء نے کہا کہ نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنا مستحب ہے جب کہ لبیک کہنے سے فارغ ہو اور آواز پست کرے درود بھیجتے ہیں بہ نسبت لبیک کہنے سے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی اور جنت مانگنے اور اللہ تعالیٰ سے آگ سے پناہ مانگنے اور اپنے لیے جو چاہے دعا کرے اور اسی حالت میں کسی کو سلام علیک کہنا مکروہ ہے لیکن اگر کوئی سلام کرے تو اس کو جواب دینا جائز ہے پھر ایک مرتبہ لبیک کہنا ہمارے نزدیک شرط ہے اور ایک بار سے زیادہ سنت ہے یہاں تک کہ اس کو چھوڑنے پر گناہ لازم آتا ہے۔

الفصل الثالث:

آپ ﷺ کا حج کے لیے اعلان کرنا

۱۳/۲۲۲۳ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ارَادَ الْحَجَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا فَلَمَّا أَتَى الْبَيْدَاءَ أَخْرَمَ۔ (رواه البخاری)

اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۸۴۳/۲ حدیث رقم (۲۲-۱۱۸۵)۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے جب حج کا ارادہ کیا تو لوگوں کو خبردار کر دیا۔ پس لوگ جمع ہوئے اور میدان بیداء میں آئے اور احرام باندھا۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے جب حج کا ارادہ کیا تو لوگوں کو خبردار کر دیا کہ حضور ﷺ حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو بہت زیادہ مخلوق مدینہ منورہ میں جمع ہو گئی۔ پس جب بیداء مقام پر تشریف لائے جو کہ ایک میدان کا نام ہے۔ ذی الحلیفہ کے قریب ہے تو احرام باندھا۔ یعنی اپنے احرام کو بلیک کہہ کر ظاہر کیا۔ اس لیے کہ ثابت ہے کہ حضور ﷺ نے ابتداء مسجد ذی الحلیفہ میں احرام کی دو رکعتیں پڑھنے کے بعد احرام باندھا۔

مشرکوں کا تلبیہ پڑھنا

۱۵/۲۳۲۵ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ لَيْتَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَلَكُمْ قَدْ قَدِ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ۔

(رواہ مسلم)

اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۸۴۳/۲ حدیث رقم (۲۲-۱۱۸۵)۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مشرک کہتے تھے ہم تیری خدمت میں حاضر ہیں۔ تیرے واسطے کوئی شریک نہیں ہے۔ پس نبی کریم ﷺ فرماتے تھے کہ تم پر افسوس ہے پس معنی میں اتنا ہی کہو۔ اس سے زیادہ نہ کہو۔ مگر وہ مشرک اس سے زیادہ کہتے تھے مگر وہ بس شریک کہ ملک تیرے لیے ہے اور تو اس کا مالک کا یعنی بت کا اور مشرک کہتے تھے اور وہ شریک یعنی بت تیرا مالک نہیں ہے ان کلمات کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کہتے تھے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ مشرک بھی حج اور عمرہ اور طواف وغیرہ خانہ کعبہ کے گرد کرتے تھے اور ہمیشہ اس کی تعظیم کرتے لیکن شرک کی وجہ سے اس طرح بلیک کہتے: لَيْتَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ۔ حق تعالیٰ سے شرک کی نفی کرے اور بتوں کا استثناء کرے کہ وہ خدا کے شریک ہیں لیکن اس کے مملوک ہیں جب وہ یہاں تک پہنچے: لَيْتَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، تو حضور ﷺ فرماتے ہیں اس قدر کہو کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس سے زیادہ نہ کہو۔ یعنی إِلَّا شَرِيكًا حقیقت میں یہ ان کا کہنا ان کے کمال حق پر دلالت کرتا ہے کہ مملوک مالک کا شریک کیسے ہو سکتا ہے۔

بَابُ قِصَّةِ حَجَّةِ الْوُدَاعِ

یہ باب حجۃ الوداع کے قصے کے بیان میں ہے

فائدہ: وداع واؤ کے زبر کے ساتھ رخصت کرنے کے معنی میں ہے اور حجۃ الوداع اس حج کو کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے

دسویں سال حج فرض ہونے کے بعد حج کیا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اس میں حضور ﷺ نے لوگوں کو شریعت کے احکام کی تعلیم کی اور ان کو رخصت کیا اور اپنی رحلت کی خبر دی اور ان کو ادائے رسالت پر اور احکام کے پہنچانے پر گواہ بنایا اور یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جامع تراحدیث اس میں ڈیزھ سوفقہ کے مسائل ہیں اور اگر کوئی غور کرے تو اس سے زیادہ بھی نکل سکتے ہیں۔

الفصل الاول:

حجۃ الوداع کا ذکر

۱/۲۳۲۵ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَتَ بِالْمَدِينَةِ ثَمَنَ سِتِينَ لَمْ يَحْجْ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرًا كَثِيرًا فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ قَوْلَ ذَاتِ أَسْمَاءَ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَفْرِئِي بِثَوْبٍ وَآخِرِمِي فَصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقُصُوءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْتِ أَهَلَ بِالتَّوْحِيدِ لَيْلِكَ اللَّهُمَّ لَيْلِكَ لَيْلِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْلِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَطَافَ سَبْعًا فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الرُّكَعَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّافَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّافَا قَرَأَ إِنَّ الصَّافَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أَبَدًا يَمَّا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ قَبْدًا بِالصَّافَا فَرَفَى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهُ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْعَزَ وَعُدَّهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ وَمَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى انْصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ سَعَى حَتَّى إِذَا صَبَعْنَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّافَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ نَادَى وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ تَحْتَهُ فَقَالَ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسْقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جَعْنَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْإِعْمَانُ هَذَا أَمْ لَا بَيْدَ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلْتَ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَا بَلَّ لَا بَلَّ لَا بَلَّ أَبَدٌ وَقَدْ مَ عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ بَيْدُنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَاذَا قُلْتَ حِينَ قُرِئَتْ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُهِلُّ بِمَا اُهِلُّ بِهِ
رَسُولُكَ قَالَ فَاِنَّ مَعِيَ الْهُدٰى فَلَا تَحِلُّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهُدٰى الَّذِىْ قَدِمَ بِهِ عَلٰى مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِىْ
اَتٰى بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَرُوا اِلَّا النَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمَنْ كَانَ مَعَ هٰذِىْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِىَةِ تَوَجَّهُوا اِلٰى مِنٰى فَاَقْبَلُوا بِاَلْحَجِّ وَرَكِبَ النَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلًا حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ
وَاَمَرَ بِقَيْتِهِ مِنْ شَعْرِ تَضْرِبَ لَهُ بَنِمْرَةً فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشْكُ قُرَيْشٌ اِلَّا اَنَّهُ
وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاجَاَزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَتّٰى اَتٰى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقَبَةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بَنِمْرَةً فَنَزَلَ بِهَا حَتّٰى اِذَا رَاَعَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ
فَرَحِلَتْ لَهُ فَاتٰى بَطْنَ الْوَادِىْ فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَامْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ
هٰذَا فِى شَهْرِكُمْ هٰذَا فِى بَلَدِكُمْ هٰذَا اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِىْ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ
الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَاِنَّ اَوَّلَ دَمٍ اَضَعُ مِنْ دِمَانِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا فِى بَنِي
سَعْدٍ فَقَتَلَهُ هٰذِىلُ وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَاَوَّلُ رَبَا اَضَعُ مِنْ رَبَانَا رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَاِنَّهُ
مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِى النِّسَاءِ فَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوهُنَّ بِاَمَانٍ اَللّٰهُ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ
وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ اَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَاِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاُضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَلَهُنَّ
عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَصِلُوْا بَعْدَهُ اِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ
وَاَنْتُمْ تَسْتَلُوْنَ عَنِّىْ فَمَا اَنْتُمْ قَائِلُوْنَ قَالُوا نَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَاَذِيْتُ وَنَصَحْتُ فَقَالَ بِاصْبِرِ السَّبَابَةَ
يَرْفَعُهَا اِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُحُهَا اِلَى النَّاسِ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَذَّنَ بِلَالٍ ثُمَّ اَقَامَ
فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ حَتّٰى اَتٰى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ
الْقَصْوَاءِ اِلَى الصَّخْرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمَشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى غَرَبَتِ
الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيْلًا حَتّٰى غَابَ الْقُرْصُ وَارْدَتِ اُسَامَةُ وَدَفَعَ حَتّٰى اَتٰى الْمُرْدَلَةَ فَصَلَّى بِهَا
الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِاَذَانٍ وَاحِدٍ وَاَقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى
الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِاَذَانٍ وَاَقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اَتٰى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
فَدَعَا وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى اَسْفَرَ جِدًّا قَدَفَعَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَارْدَتِ
الْفُضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ حَتّٰى اَتٰى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيْلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطٰى الَّتِىْ تَخْرُجُ عَلَى
الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى حَتّٰى اَتٰى الْجَمْرَةَ الَّتِىْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يَكْبِرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا

مِنْ خَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَخَرَّ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَذْنَةً بِيَدِهِ ثُمَّ
أَعْطَى عَلِيًّا فَخَرَّ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدِيهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَذْنَةٍ بِضَعَةً فَعَمِلَتْ فِي قَدْرِ قَطِيعَتْ فَأَكَلَا
مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَاضَ إِلَى النَّبِيِّ فَصَلَّى بِمَكَّةَ
الْظُّهْرَ فَأَتَى عَلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْرٍ فَقَالَ انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ
النَّاسُ عَلَى سِقَاتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَا وَلَوْ ذَلُّوا فَشَرِبَ مِنْهُ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۸۸۶/۲ حدیث رقم (۱۴۷-۱۲۱۸)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ مدینہ میں نو برس ٹھہرے رہے حج نہیں کیا لیکن عمرہ کیا جیسا کہ
گزارا پھر لوگوں کو دسویں سال حضور ﷺ کے حکم سے خبر دی گئی کہ آپ ﷺ حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پس مدینہ میں بہت
زیادہ آدمی آئے پس ہم حضور ﷺ کے ساتھ ظہر و عصر کے مابین نکلے یعنی جبکہ پانچ دن ذیقعدہ میں سے باقی رہ گئے تھے۔
یہاں تک کہ ہم ذوالحلیفہ میں پہنچے۔ پس اسماء بنت عمیسؓ نے محمد بن ابی بکرؓ کو جنم دیا تو اسماءؓ نے کسی کو نبی کریم ﷺ کی
خدمت میں بھیجا یعنی کہ میں احرام کے بارے میں کیا کروں؟ یعنی احرام باندھوں یا نہیں اور باندھوں تو کیونکر باندھوں؟
فرمایا غسل کرو اور کپڑے کی لنگوٹ اور احرام باندھو۔ پس نبی کریم ﷺ نے مسجد ذی الحلیفہ میں نماز پڑھی اور پھر اپنی اونٹنی
قصواء پر سوار ہوئے جو کہ حضور ﷺ کی اونٹنی کا نام ہے۔ یہاں تک کہ جب میدان بیداء پر حضور ﷺ کی اونٹنی کھڑی ہوئی۔ تو
آپ ﷺ نے آواز بلند تولید پڑھا یعنی اے الہی! میں تیری خدمت میں حاضر ہوں اے الہی میں تیری خدمت میں حاضر
ہوں تیری خدمت میں حاضر ہوں تیرے لیے کوئی شریک نہیں ہے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ تحقیق نعت، تعریف و
بادشاہت تیرے ہی لئے ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اس سے پہلے حج کی نیت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی
ہم (حج کے مہینوں میں) عمرے کو جانتے تھے یہاں تک کہ جب ہم خانہ کعبہ کے نزدیک آئے تو حضور ﷺ نے حجر اسود کو
بوسہ دیا۔ یعنی اس پر ہاتھ رکھا اور بوسہ دیا پھر تین بار جلدی اور اکڑ کر خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا اور چار بار آہستہ پھر مقام
ابراہیم کے پاس تشریف لائے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا تم مقام ابراہیم کو یعنی اس کے حوالی کو جائے نماز بناؤ۔
پھر مقام ابراہیم کو حضور ﷺ نے اپنے درمیان اور خانہ کعبہ کے درمیان شمار کیا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے
دو رکعتوں میں قل هو اللہ احد اور قل یا ایہا الکافرون پڑھی۔ پھر حجر اسود کی طرف لوٹے پس اس کو بوسہ دیا پھر مسجد کے
دروازے سے لکے یعنی باب الصفا سے صفا پہاڑ کی طرف نکلے۔ پس جب صفا پہاڑ کے قریب ہوئے تو یہ آیت تلاوت
فرمائی۔ تحقیق صفاء اور مردہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یعنی اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے اور حضور ﷺ نے
ارشاد فرمایا میں شروع کرتا ہوں اس چیز کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اس چیز کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ نے سب سے
پہلے ذکر صفا کا کیا اور پھر مروہ کا کیا۔ اس طرح میں بھی پہلے صفا پر چڑھتا ہوں اور پھر مروہ پر چڑھوں گا۔ پس صفا کے ساتھ
شروع کیا پس اس پر چڑھے یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو دیکھا پھر بیت اللہ کے سامنے ہوئے پس پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
بیان کی۔ یعنی لا الہ الا اللہ کہا اور اس کی بڑائی بیان کی یعنی اللہ اکبر کہا اور کہا کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ ایک ہے اس کا کوئی
شریک نہیں ہے اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی معبود نہیں مگر اللہ ایک

ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کیا یعنی اسلام کا بول بالا کرنے کا وعدہ کیا اور بندے کی مدد کی۔ یعنی حضور ﷺ اور کافروں کے گروہ کو شکست دی۔ تبہا یعنی خندق کی لڑائی میں پھر اس کے درمیان دعا کی۔ اس طرح تین بار کہا۔ یعنی ذکر کیا اور دعا کی اور پھر ذکر کیا اور دعا کی اس طرح تین مرتبہ کیا اور صفا سے اترے اور مروہ پہاڑ کی طرف چلے۔ یہاں تک کہ حضور ﷺ کے قدم مبارک نشیبی میدان کی طرف پہنچے یعنی میدان کی بلندی سے پستی کی طرف آئے پھر دوڑے یہاں تک کہ جب چڑھنے لگے۔ تو حضور ﷺ کے دونوں قدم یعنی نشیبی سے بلندی مروہ پر چڑھنے لگے۔ آہستہ چلے یعنی دوڑنا بند کر دیا یہاں تک کہ مروہ پر آئے پھر مروہ پر بھی ایسا ہی کیا جو صفا پر کیا تھا۔ یہاں تک جب آخری چکر مروہ پر ہوا۔ تو پکارا اس حالت میں کہ آپ ﷺ مروہ پر تھے اور لوگ پہاڑ کے نیچے تھے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر میں اپنے معاملے کے بارے میں پہلے جانتا ہوتا جو کہ میں نے بعد میں جانا تو میں اپنے ساتھ ہدی نہ لاتا اور میں حج کو عمرہ بنا دیتا۔ پس جو شخص تم میں سے ایسا ہو کہ اس کے پاس ہدی نہ ہو پس چاہیے کہ حلال ہو جائے یعنی حج کے احرام سے باہر ہو جائے اور حج کو عمرہ بنا ڈالے۔ پس سراقہ بن مالک بن جشم کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ کیا اسی سال ہمارے لیے ہے یا یہ ہمیشہ ہمارے لیے ہے۔ پس نبی کریم ﷺ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور فرمایا کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے۔ دوسرے فرمایا یعنی یہ حکم خاص اسی برس میں نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ یعنی حج کے مہینوں ہمیشہ کے لئے عمرہ کرنا جائز ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے اکثر اونٹ نبی کریم ﷺ کے لیے لے کر آئے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن کے حاکم بن کر گئے تھے پھر حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کیا تم پر احرام باندھتے وقت حج لازم تھا؟ جب تو نے حج کی نیت کی تھی تو کیا کہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے الہی میں احرام باندھتا ہوں اسی چیز کے ساتھ کہ جس کے ساتھ تیرے رسول ﷺ نے احرام باندھا تھا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ ہدی ہے میں احرام سے نکل نہیں سکتا۔ یعنی جب تم نے نیت کی ہے۔ تو میں حج و عمرے کا احرام باندھ رہے ہوں اور میرے ساتھ ہدی احرام سے میں نہیں نکل سکتا ہے۔ یہاں تک کہ عمرے اور حج سے فارغ نہ ہو جاؤں۔ پس تم بھی احرام سے نہ نکلو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پس یہ تمام اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لائے تھے اور وہ اونٹ جن کو پیغمبر ﷺ لے کر آئے تھے ان کی تعداد سو (۱۰۰) تھی تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا پس سب لوگ حلال ہوئے اور اپنے بال کتروائے یعنی جن کے ساتھ ہدی نہ تھی اور وہ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد عمرے کے احرام سے نکل آئے۔ مگر نبی کریم ﷺ اور وہ لوگ کہ جن کے ساتھ ہدی تھی وہ حلال نہ ہوئے پس جب کہ ترویہ کا دن آیا یعنی ذی الحجہ کی آخوں تاریخ تو منی کی طرف متوجہ ہونے کا ارادہ فرمایا پس صحابہ رضی اللہ عنہم نے حج کا احرام باندھا۔ یعنی وہ لوگ جو عمرے کے احرام سے نکل آئے تھے اپنے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اور نبی کریم ﷺ ہمارے ہوئے یعنی جب آفتاب طلوع ہوا اور منی میں پہنچے پس منی میں نماز پڑھی۔ یعنی مسجد خیف میں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء اور فجر تک ٹھہرے رہے یعنی نماز فجر ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرے رہے یہاں تک سورج نکل آیا اور آپ ﷺ نے خیمے لگانے کا حکم کیا جو بالوں کا بنا ہوا تھا کہ حضور ﷺ کے لیے وادی نمرہ میں خیمہ کھڑا کیا جائے پھر نبی کریم ﷺ منی سے عرفات کی طرف چلے اور قریش گمان نہیں کرتے تھے مگر یہ کہ حضور ﷺ حج کے لیے مشر حرام کے پاس ٹھہرے ہو گئے جیسے کہ قریش زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے پس نبی کریم ﷺ مردلفہ سے گزرے یہاں تک کہ میدان عرفات میں آئے پس خیمہ جو کہ وادی نمرہ میں کھڑا کیا گیا تھا آپ ﷺ اس میں اترے اور اس میں ٹھہرے یہاں

تک کہ جب دو پہر ڈھلی۔ قصوا کو لانے کا حکم کیا جو کہ حضور ﷺ کی اونٹنی کا نام تھا۔ پس حضور ﷺ کے لیے زین کسی گنی گنی پھر حضور ﷺ کی اونٹنی پر سوار ہو کر وادی نمرہ میں تشریف لائے پھر لوگوں کو خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا تمہارے خون اور تمہارے مال یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ کرو اور کسی کا مال چوری و غابازی سے نہ کھاؤ تمہارے اس دن یعنی عرفہ کی حرمت کی طرح اور تمہارے اس مہینے یعنی ذی الحجہ کی حرمت کی طرح اور تمہارے اس شہر یعنی مکہ کی حرمت کی طرح تم پر حرام قرار دیئے ہیں یعنی جسے تم حرام جانتے ہو کسی کا مال لینے سے اور اس دن میں خون کرنے سے اور اس مہینے میں اور اس شہر میں۔ اس طرح سے ہمیشہ اور ہر جگہ خون کرنا اور ناحق مال لینا۔ آپس میں حرام ہے خبردار امر جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے اور پست و پامال ہے یعنی باطل و موقوف ہے یعنی جو کچھ کسی نے کہا اسلام سے پہلے میں نے معاف کر دیا اور جو جاہلیت کی رسمیں تھیں موقوف کر دیں اور جاہلیت کے خون موقوف کر دیئے یعنی نہ اس میں قصاص ہے اور نہ دیت اور نہ کفارہ اور تحقیق سب سے پہلا خون میں اپنے خونوں میں سے معاف کرتا ہوں وہ خون ابن ربیعہ بن حارث کا ہے اور وہ بنی سعد کے ہاں دودھ پیتا تھا۔ اس کو ہذیل نے قتل کیا تھا اور جاہلیت کے سود کو موقوف کیا گیا اور سب سے پہلا سود اپنے سودوں میں حضرت عباس بن عبدالمطلب کا ہے تحقیق وہ بالکل موقوف کر دیا گیا۔ پھر عورتوں کے حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ پس تحقیق تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ لیا۔ یعنی اس کے عہد کے ساتھ لیا ہے ان کے حقوق کی رعایت میں اور تم نے ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے حکم کے ساتھ حلال کیا۔ فافکحوا ہے اور تمہارا ان پر حق ہے کہ وہ تمہارے بچھونوں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں کہ تم جس کو ناپسند سمجھتے ہو۔ یعنی تمہاری مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ خواہ مرد ہو یا عورت۔ پس اگر یہ کام کریں یعنی آنے کی اجازت دیں پس ان کو سختی کے بغیر مارو اور ان کا حق تم پر بھی ان کی روزی یعنی کھانا پینا اور اسی کے حکم میں داخل ہے اپنے مکان اور ان کا کپڑا اپنے وسعت کے مطابق دو اور تحقیق میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے جب تک اس کو مضبوط سے تھامے رکھو گے اور اس پر عمل کرتے رہو گے۔ اگر تم چنگل ماروں گے اس چیز کے ساتھ جو کتاب اللہ میں ہے اور تم سے میرے بارے میں دین کے احکامات کو پہنچانے اور نہ پہنچانے سے متعلق پوچھا جائے گا۔ پس تم کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں گے کہ تحقیق آپ نے پیغمبری پہنچادی اور آپ نے امانت ادا کر دی اور آپ نے خیر خواہی کی پھر حضور ﷺ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اس کو لوگوں کی طرف جھکایا اور تین مرتبہ فرمایا اے الہی گواہ رہ گواہ رہ۔ یعنی اپنے بندوں کے اقرار پر گواہ رہو پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی پھر تکبیر کہی پھر نماز پڑھی۔ پھر تکبیر کہی پھر عصر کی نماز پڑھی اور ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھا یعنی نہ سنت اور نہ نفل۔ پھر سوار ہوئے یہاں تک کہ میدان عرفات میں موقف کی جگہ تشریف لائے۔ پس اپنی قصواء اونٹنی کا پیٹ پھروں کی طرف کیا اور جبل مشاقہ کو اپنے آگے کیا۔ جو کہ ایک جگہ کا نام ہے اور قبلے کے سامنے ہوئے پس مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہوا اور زردی جاتی رہی۔ یہاں تک کہ آفتاب غائب ہوا اسامہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے سوار کیا اور جلدی چلے یہاں تک کہ مزدلفہ میں آئے پھر اس میں ایک اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھیں اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی نہ سنت اور نہ نفل پھر لیٹے رہے یہاں تک فجر طلوع ہوئی پھر فجر کی نماز پڑھی۔ اس وقت کہ ان کے واسطے فجر اذان اور تکبیر کے ساتھ ظاہر ہوئی پھر اونٹنی پر سوار ہوئے یہاں تک مشر حرام پر آئے۔ پس آپ ﷺ قبلہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور تکبیر

کہی اور لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی۔ یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ..... پس آپ ﷺ مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح خوب روشن ہوگئی پھر آفتاب کے نکلنے سے پہلے چلے اور فضل بن عباسؓ کو پیچھے سوار کیا اور وادی حمر میں پہنچے۔ پس سواری کو تھوڑی سی حرکت دی۔ پھر درمیان کے راستے میں سے جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے یہاں تک کہ جمرہ کے پاس آئے جو کہ ایک درخت کے پاس ہے پس اس پر خذف کی کنکریوں کی طرح سات کنکریاں پھینکیں یعنی جو انگلیوں میں رکھ کر پھینکتے ہیں۔ ان کی مقدار کو بیان کرنا مقصود ہے وہ باقلا کے دانے کے برابر تھیں ان کنکریوں میں سے ہر کنکری کے ساتھ بکیر کہتے تھے۔ حضور ﷺ نے کنکریاں وادی کے اندر سے ماریں۔ پھر قربانی کی جگہ کی طرف لوٹ گئے جو کہ منیٰ میں ہے۔ پس حضور ﷺ نے تربیہ (۶۳) اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کئے ماقی یعنی سینتیس حضرت علی نے ذبح کئے اور حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی ہدیٰ میں شریک کیا پھر حضور ﷺ نے ہراونٹ میں سے ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لیا پھر یہ ٹکڑے ایک ہانڈی میں ڈالے گئے پس ٹکڑے پکائے گئے پس دونوں صاحبوں نے اس قربانی کے گوشت میں سے کھایا اور دونوں نے اس کا شور بہ پایا۔ پھر نبی کریم ﷺ سوار ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف چلے اور طواف کیا پس مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی پھر عبدالمطلب کی اولاد کے پاس آئے یعنی اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کے پاس تشریف لائے کہ وہ زمزم کا پلاتے تھے اور اولاد عبدالمطلب سے زمزم کا پانی کھنچواتے تھے اس لیے کہ یہ بہت ثواب کی بات ہے اگر مجھے خوف نہ ہوتا اس کا کہ لوگ تم پر غلبہ کریں گے۔ تمہارے پانی پلانے پر تو البتہ میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا۔ یعنی خوف صرف اس بات کا ہے کہ لوگ مجھے کھینچتا ہوا دیکھ کر میری اتباع کریں گے۔ اور از دحام (بھیر) کریں گے اور یہ منصب تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ اگر اس کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ کھینچتا تو اولاد عبدالمطلب نے آپ ﷺ کو ڈول دیا حضور ﷺ نے اس سے پیسا اور اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں حجۃ الوداع کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ حج کے موقع پر بہت زیادہ آدمی جمع تھے بعضوں نے کہا کہ اس حج میں حضور ﷺ کے ساتھ نوے ہزار آدمی جمع ہوئے اور بعض حضرات نے کہا ایک سو تیس ہزار آدمی تھے اور سب سے پہلے اسماء جعفر بن ابی طالب نے نکاح کیا۔ پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا اور پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تو جب حضور ﷺ حج کو تشریف لائے تو اسماء رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکرؓ کے نکاح میں تھیں اور ان سے محمد بن ابوبکر پیدا ہوئے اور انہوں نے غسل کیا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ غسل کرنا نفاس والی عورت کے لیے مسنون ہے اور یہ غسل نفاث صفائی کے لیے ہے نہ کہ طہارت کے لیے اور اسی لیے نفاس والی عورت کو احرام کے لیے تیمم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے تقسیم کرنا نہیں آیا اور حائض کا بھی یہی حکم ہے اور احرام باندھ یعنی احرام کی نیت کر اور لبیک کہہ اس سے معلوم ہوا کہ احرام نفاس والی عورت کے لیے درست ہے اور اس پر علماء کا اجماع ہے اور نماز پڑھی۔ یعنی دو رکعتیں سنت احرام کی پڑھیں اور زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ اگر میقات میں ہو تو مسجد میں دو رکعات ادا کرے اور اگر کوئی دوسری جگہ مسجد کے علاوہ ہو تو وہاں پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور اوقات مکروہیہ میں نماز نہ پڑھے اور علماء فرماتے ہیں کہ تحیۃ المسجد بھی فرض نماز کی طرح ہے فرض نماز اس کے قائم مقام ہو جاتی ہے اور ہم عمرہ کو نہیں جانتے تھے یہ پہلے جملے کی تاکید ہے زمانہ جاہلیت میں یہ معمول تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو بڑا گناہ جانتے تھے اب حضور ﷺ نے اس کا رد کر دیا اور آپ ﷺ نے حج کے

مہینوں میں عمرہ کرنے کا حکم فرمایا چنانچہ اس کا بیان آگے آئے گا اور جس وقت کہ ہم آئے یعنی اول ذی طوی میں اترے اور رات کو وہیں رہے۔ پھر چوتھی ذی الحجہ کو نہائے اور مکہ میں داخل ہوئے اور باب السلام کی طرف سے قصد کیا اور تحیۃ المسجد نماز نہیں پڑھی۔ اس لیے کہ وہاں کا تحیہ طواف ہے اور پھر خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں جلدی چلے۔ سات مرتبہ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ پس تین بار چکر لگانے میں جلدی کی کندھے ہلا کر جیسے پہلوان چلتے ہیں اور چار مرتبہ اپنی چال چلے اور جلدی چلے اور جلدی چلے کا سبب یہ تھا جب آپ ﷺ عمرۃ القضاء کے لیے مکہ میں آئے تو مشرکوں نے کہا کہ ان کو مدینہ کی گرمی نے ست کر دیا ہے تو آپ ﷺ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ اس طرح چل کر قوت کا اظہار کرو۔ پھر علت کے دور ہونے کے بعد بھی وہی حکم باقی رہا اور اس حدیث میں اضطباع کا ذکر نہیں ہے اور وہ بھی طواف کے وقت مسنون ہے چنانچہ اور حدیثوں میں مذکور ہے اور اضطباع اسے کہتے ہیں کہ چار درائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیتے ہیں وہ بھی قوت کے اظہار کے لیے ہے اور پھر مقام ابراہیم کی طرف آگے بڑھے یعنی طواف کرنے کے بعد اور مقام ابراہیم ایک پتھر کا نام ہے کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ کو بنایا تھا۔ اس پر ان کے پاؤں کا نشان ہے اور مقام ابراہیم کے معنی ہیں کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور اب وہ خانہ کعبہ کے آگے ایک حجرے میں رکھا ہے پس اس کے پیچھے کھڑے ہو کر حضور ﷺ نے دو رکعتیں پڑھیں اور اس جگہ کھڑے ہو کر یہ نماز پڑھنا افضل ہے اور جائز ہے ہر جگہ حرم پاک میں خواہ مسجد حرام میں پڑھے اور خواہ مسجد سے باہر پڑھے اور ہر طواف کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا واجب ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک سنت ہیں اور قل ھو اللہ احد اور قل یا ایہا الکافرون ظاہر ایہ معلوم ہوتا ہے کہ قل ھو اللہ پہلی رکعت میں پڑھے اور قل یا ایہا الکافرون دوسری رکعت میں پس سورت کی تقدیم و تاخیر یعنی متاخر سورت مقدم پر لازم آئی۔ علماء کرام نے اس کی توجیہ یہ لکھی ہے کہ واد مطلق جمع کے لیے ہے یعنی دونوں رکعتوں میں دونوں سورتیں پڑھے۔ تقدیم و تاخیر کچھ نہیں ہے پس مذکورہ اشکال لازم نہیں آتا اور علامہ طیبیؒ نے کہا ہے کہ راز کی بات اس میں یہ ہے کہ قل ھو اللہ احد توحید کے اثبات کے لیے ہے اور قل یا ایہا الکفر ون بیزاری شرک کے لیے ہے۔

تولہذا توحید کو مقدم کیا۔ اس اہتمام شان کی خاطر اور بعض روایتوں میں تقدیم قل یا ایہا الکافرون کی بھی آتی ہے۔

اور پھر صفا کی طرف تشریف لے گئے یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو دیکھا اور اس زمانے میں خانہ کعبہ صفا سے دکھائی دیتا تھا اور اب مسجد الحرام کی عمارت سے چھپ گیا ہے لیکن حجر اسود حرم کے بعض دروازوں کے محاذ سے معلوم ہوتا ہے اور جو صفا پر کہا تھا یعنی جیسے ذکر اور دعا صفا پر کی تھی ویسے ہی مروہ پر کی اور صفا و مروہ کے درمیان سات مرتبہ سعی فرمائی۔ پس ابتداء صفا سے ہوئی اور ختم مروہ پر کی اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے اور اس کی اصل یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن دنوں چھوٹے تھے ان کی والدہ حضرت ہاجرہؑ پانی کی تلاش کو گئیں جب نشیب میں پہنچی تو حضرت اسماعیلؑ ان کی نظر سے غائب ہو گئے وہ صفا اور مروہ پر چڑھ کر ان کو دیکھتی تھیں تو یہ انکی سنت ہے حضور ﷺ بھی ان کی یہ سنت بجالاتے اور اب مٹی بھر گئی ہے صفا اور مروہ کے درمیان وہ پستی باقی نہیں رہی اور اب وہاں نشان بنا دیے ہیں سنت کی بجا آوری کے لیے وہاں دوڑتے ہیں اور اگر میں اپنے امر کو پہلے جان لیتا۔ اس کلام کی شرح طویل ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضور ﷺ جب مکہ پہنچے اور عمرہ ادا کر چکے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم فرمایا جو ہدی لے کر نہیں آیا وہ عمرہ کرے اور احرام کھول دے اور حج عمرہ کے ساتھ کرے اور اس کے بعد ایام حج میں احرام باندھے اور حج کرے اور جو کوئی ہدی کا جانور ساتھ لایا ہے تو وہ عمرہ کرے اور اپنے احرام پر رہے حج تک یعنی عمرہ کرنے

کے بعد حج کے احرام سے نہ نکلے اور نبی کریم ﷺ ہدیٰ ساتھ لے آئے تھے اس لیے احرام باندھے رکھا۔ یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گراں گزری۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم احرام سے نکلیں اور آپ ﷺ احرام باندھ رکھیں اور ان کی متابعت کو چھوڑ دیں اور دوسرے اس لیے کہ ہمارے درمیان اور عرفہ کے درمیان صرف پانچ دن ہیں پس مناسب نہیں ہے کہ ہم احرام سے نکلیں اور عورتوں کے پاس جائیں اور ہمارے ستروں سے منی ٹپکتی ہو اور پھر عرفہ میں جائیں اور حج کریں اور تیسرے یہ کہ زمانہ جاہلیت میں حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا نہایت برا تھا پس حضور ﷺ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ میں کیا کروں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس طرح ہے اگر میں یہ بات پہلے جان لیتا کہ تمہارا احرام سے نکلنا دشوار ہوگا تو میں ہدیٰ ساتھ نہ لاتا اور احرام سے نکل آتا اور فسخ حج عمرہ کے ساتھ کرتا اور میں نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس طرح ہوگا۔ علامہ نوویؒ نے کہا ہے کہ علماء نے اختلاف کیا اس فسخ حج کو عمرے کے ساتھ کرنے پر کہ آیا یہ خاص صحابہؓ کے لئے تھا یا اوروں کے لئے بھی جائز ہے تو امام احمدؒ نے کہا اور اہل ظاہر کی ایک جماعت سے یہ منقول ہے کہ حکم صرف صحابہؓ کے لیے نہیں تھا بلکہ اب بھی یہ حکم باقی ہے قیامت تک رہے گا۔

تو اس شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ حج کا احرام باندھے اور ہدیٰ اس کے ساتھ ہو۔ حج کے احرام کو فسخ کرنا عمرے کے ساتھ درست نہیں ہے اور عمرے کے اعمال کر کے حلال ہو جانا اور امام مالکؒ اور شافعیؒ اور ابو حنیفہؒ اور جمہور علماء نے سلف و خلف سے منقول ہے کہ یہ عمل خاص صحابہ کرام ہی کے لیے تھا صرف اسی سال تا کہ اس چیز کی مخالفت ہو جائے جس کو اہل جاہلیت حرام جانتے تھے یعنی عمرے کو حج کے مہینوں میں اور اس حدیث پر امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ نے عمل کیا ہے کہ جو کوئی عمرے کا احرام باندھے اور ہدیٰ ساتھ نہ لائے تو وہ احرام سے نکل آئے اور جو شخص عمرے کا احرام باندھے اور ہدیٰ ساتھ نہ لایا ہو۔ تو وہ احرام سے نہ نکلے یہاں تک کہ نحر کے دن ہدیٰ ذبح کی جائے اور امام مالکؒ اور امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ محض عمرے کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد عمرے کے احرام سے حلال ہو جائے اگرچہ ہدیٰ ساتھ لایا ہو۔ حدیث پاک میں لفظ آیا ہے کہ کتر اوئے بال یعنی بالوں کا منڈانا احرام سے نکلنے کے بعد افضل ہے اور اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بال کتر اوئے تا کہ باقی بال حج میں منڈوائیں اور منی کی طرف متوجہ ہوئے اور آٹھویں کو منی میں جانا اور وہاں رات گزارنا ہمارے نزدیک واجب نہیں ہے بلکہ مسنون ہے اور لفظ نمرہ نون کے زبر کے ساتھ اور میم کے زیر کے ساتھ ہے جو کہ ایک پہاڑ کا نام ہے عرفات کے قریب ہے حرم کی زمین وہاں تک ہے اور عرفات حل میں ہے اور قریش گمان کرتے تھے..... یعنی قریش گمان کرتے تھے کہ حضور ﷺ شعر حرام کے پاس ٹھہریں گے۔ شعر ایک پہاڑ کا نام ہے جو کہ مزدلفہ میں ہے جیسا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں ٹھہرتے تھے اور اس موقف کو جس کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ قریش کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اہل حرم اللہ کی ہے اور عرفات میں نہیں جاتے تھے بخلاف تمام عربوں کے وقوف عرفہ کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ مزدلفہ میں ٹھہریں گے۔ تو حضور ﷺ وہاں نہ ٹھہرے اور عرفات میں پہنچ گئے اور خطبہ فرمایا۔ یعنی دو خطبے پڑھے اول میں حج کے احکام بیان کئے اور کثرت ذکر دعا کی جانب رغبت دلائی اور دوسرا خطبہ پہلے کی نسبت چھوٹا تھا اس میں محض دعا تھی اور ابن ربیعہ بن حارث الخ حضور ﷺ کے چچا تھے۔ عبدالمطلب کے بیٹے تھے ان کے بیٹے کا نام ربیعہ تھا اور ربیعہ کے بیٹے کا نام ایاس تھا اور حضور ﷺ کے چچا کے پوتے تھے ان کے خون لینے کا حضور ﷺ کو حق تھا تو حضور ﷺ نے معاف فرمایا دیا اور عباسؓ بن عبدالمطلب حضور ﷺ کے چچا تھے ایام جاہلیت میں سود کھاتے تھے اور لوگوں کے ذمے بہت زیادہ سود تھا وہ بھی حضور ﷺ نے معاف فرمادیا۔

پھر عصر کی نماز پڑھی..... یعنی حضور ﷺ نے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ میدان عرفات میں وقوف کرنے کے لیے کہ دونوں نمازیں ملا کر پڑھ لیتے ہیں اور ان کے درمیان میں سنتیں اور نوافل نہ پڑھے تاکہ جمع باطل نہ ہو جائے اس لیے کہ پے در پے پڑھنا ان نمازوں کا واجب ہے اور آفتاب غائب ہوا یہ تاکید اور بیان غروب کا ہے تاکہ کوئی گمان نہ کرے کہ غروب سے مراد قریب غروب کے ہیں اور یہاں تک کہ مزدلفہ میں آئے جو میدان عرفات اور منی کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے وہاں رات کو قیام کرنا ہمارے نزدیک سنت ہے اور امام احمد اور شافعی کے نزدیک واجب ہے تو حضور ﷺ نے وہاں پہنچ کر نماز پڑھی ایک اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ جیسے کہ ظہر اور عصر عرفات میں پڑھی تھیں اور یہی تینوں اماموں کا مذہب ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک اذان کے ساتھ اور ایک تکبیر کے ہیں اس لیے کہ عشاء یہاں اپنے وقت پر نہیں ہے۔ پس علیحدہ تکبیر کی ضرورت اعلام کی زیادتی کے لئے نہیں ہے اور عرفہ میں اپنے وقت پر نہیں ہوتی ہے تو زیادتی اعلام کی احتیاج ہے اور صحیح مسلم میں اس کو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اس کو تحسین و صحیح کہا ہے اور مشعر الحرام مزدلفہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے یعنی وہاں کا ٹھہرنا ہمارے نزدیک واجب ہے اور مشعر مزدلفہ اور منی کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ جب حضور ﷺ یہاں پہنچے تو سواری کو حرکت دی یعنی جلدی ہانکی۔ تھوڑی سی دور۔ یعنی اس وادی کی مسافت کی بقدر اور جلدی چلنے کا سبب یہ تھا کہ آپ ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس جگہ پر کسی قوم پر عذاب نازل ہوا ہوتا تو اس جگہ سے آپ ﷺ بطور عبرت کے جلدی گزرتے پس مشعر میں اصحاب فیل ہلاک ہوئے تھے وہاں سے جلدی گزرے اور بعضوں نے کہا وہاں نصاریٰ یا مشرکین ٹھہرا کرتے تھے ان کی مخالفت کے لیے جلدی چلے پس ہر ایک کے لیے مستحب ہے کہ اس جگہ سے جلدی چلے۔ حضور ﷺ کی پیروی کے لیے اور پھر بیچ کی راہ چلے یعنی جس راستے سے جاتے ہوئے تشریف لے گئے تھے وہ راستہ اور تھا اور یہ دوسرا راستہ تھا اور اس کو طریق صب کہتے ہیں اور اس کو طریق مازین بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں پہاڑوں کے نام ہیں اور یہ راستہ حجرہ کبریٰ میں جا کر نکلتا ہے اور یہاں تک کہ اس حجرہ کے پاس آئے جو درخت کے نیچے ہے مراد وہی حجرۃ العقبہ میں جا کر نکلتا ہے ہے جو کہ مذکورہ ہوا ہے اور حجرہ مناروں کو کہتے ہیں وہاں کئی منارے ہیں کہ ان پر سنگریزے مارے جاتی ہیں ان کا مفصل بیان آگے آئے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور شریک کیا..... یعنی حضور ﷺ نے ان کو کچھ اونٹ دیے تاکہ وہ اپنی طرف سے ذبح کریں یا تو ماہی اونٹوں میں سے دیے یا دوسرے دیے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت سے کھانا مستحب ہے اور خانہ کعبہ کی طرف چلے اور طواف کیا اس طواف کو طواف افاضہ کہتے ہیں اور طواف رکن بھی کہتے ہیں یہ بھی ایک حج کا رکن ہے اور اس پر حج پورا ہو جاتا ہے اور یہ طواف نحر کے روز افضل ہے اور بعد میں بھی جائز ہے اور مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی اور ابن عمرؓ سے ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ حضور ﷺ نے ظہر کی نماز منی میں پڑھی، دونوں میں وجہ تطبیق یہ ہے کہ حضور ﷺ نے ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی اور منی میں نوافل پڑھے ہوں اس کو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے گمان کیا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھی یا یوں کہا جائے گا کہ دونوں روایتیں جب متعارض ہوئیں تو دونوں ساقط ہو گئیں پھر اس کو ترجیح دی گئی کہ حضور ﷺ نے ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی اس لیے کہ وہاں نماز پڑھنا افضل ہے واللہ اعلم بالصواب: (ع)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حج کا واقعہ/ احرام باندھنے کا طریقہ

۲/۲۳۲۶ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَهْدِ فَلْيَحِلِّ وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَاهْدَى فَلْيَهْلُ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا وَفِي رِوَايَةٍ فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ بِنَحْرِ هَذِيهِ وَمَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ فَلْيَتِمَّ حَجَّهُ قَالَتْ فَحَضْتُ وَلَمْ أَطْفُ بِالنَّبِيِّ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَلَمْ أَهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطُ وَأَهْلُ بِالْحَجِّ وَأَتْرُكُ الْعُمْرَةَ فَقَعَلْتُ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي بَعَثَ مَعِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمَرَتِي مِنَ النَّعِيمِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالنَّبِيِّ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۱۹/۱ حدیث رقم ۳۱۹ - ومسلم ۸۷۰/۲ حدیث رقم (۱۲۱۱/۱۱۱) - واخرجه ابو داؤد

فی السنن ۳۸۱/۲ حدیث رقم ۱۷۸۱ - والنسائی فی السنن ۱۶۵/۵ حدیث رقم ۲۷۶۴ - واحمد فی المسند ۱۷۷/۶ -

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ حجۃ الوداع میں نکلے۔ پس بعض لوگ ہم میں سے وہ تھے جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا فقط اور بعض ہم میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا تھا۔ پس جب ہم مکہ میں آئے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے فقط عمرے کا احرام باندھا ہے اور ہدیٰ ساتھ نہیں لایا پس اس کو چاہیے کہ حلال ہو جائے یعنی سر منڈائے یا بال کتر اڈانے کے ساتھ احرام سے نکل آئے اور جس نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور ہدیٰ بھی ساتھ لایا ہے پس اس کو چاہیے کہ عمرے کے ساتھ حج کا بھی احرام باندھے یعنی حج کو عمرے کے ساتھ داخل کرے پس قارن ہو جائے پھر احرام سے نہ نکلے۔ یہاں تک کہ دونوں سے حلال ہو۔ یعنی حج اور عمرے کے افعال پورے کرے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ حلال نہ ہو جب تک اپنی ہدیٰ کو ذبح نہ کر لے۔ یعنی عید کے دن اور جس نے حج کا احرام باندھا ہے چاہے وہ ہدیٰ ساتھ لایا ہو۔ حج کے ساتھ عمرے کا احرام باندھا ہو یا نہ باندھا ہو۔ پس اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حج پورا کرے مگر جس شخص کو حج کے ساتھ عمرہ کرنے کا حکم کیا گیا ہو وہ پورا نہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حاضر ہوئی اور میں نے عمرے کی وجہ سے خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں صفا اور مروہ میں گئی تھی۔ اس لیے کہ سعی طواف سے قبل درست نہیں ہے۔ ورنہ حیض کی حالت میں سعی منع نہیں ہے پس میں حیض کی حالت میں بیتلاری۔ یہاں تک کہ عرفہ کا دن آ گیا اور میں نے عمرے کے علاوہ احرام نہیں باندھا تھا۔ پس مجھ کو نبی کریم ﷺ نے حکم فرمایا یہ کہ میں اپنا سر کھولوں اور میں کٹکھی کروں یعنی میں عمرے کے احرام سے نکلوں اور ان چیزوں کو مباح کروں جو احرام کی وجہ سے مجھ پر حرام ہوئی تھیں اور حج کا احرام باندھوں اور میں عمرے کو چھوڑ دوں پھر جب فارغ ہو

جاؤں حج سے تو عمرے کے احرام کی قضا کروں پس میں نے یہ کام کیا یہاں تک کہ میں نے اپنا حج ادا کیا تو میرے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبدالرحمن رضی اللہ عنہ (میرے بھائی) کو اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے عمرے کے بدلے تنعم سے عمرہ کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان شخصوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا کہ جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ یعنی عمرے کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ پھر احرام سے نکلے اور پھر اس کے بعد اور طواف کیا پھر منی سے مکہ کی طرف تشریف لے آئے اور یہ طواف حج کے لیے کیا۔ اس کو طواف افاضہ کہتے ہیں اور جن شخصوں نے حج اور عمرے کو جمع کیا تھا۔ پس اس کے علاوہ انہوں نے ایک طواف نہیں کیا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ تنعم ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے تین کوس دور ہے یعنی حرم سے باہر ہے یعنی حل میں ہے اور عمرے میں احرام شرط ہے کہ حل سے باندھا جائے خواہ احرام باندھنے والا مکی ہو یا غیر مکی اور حج کا احرام مکی حرم سے باندھے اور غیر مکی حل سے اور جن شخصوں نے حج اور عمرے کو جمع کیا تھا یعنی ابتداً ایک کو دوسرے میں داخل کیا انہوں نے قربانی کے دن ایک ہی طواف کیا ہے اور یہی امام شافعی کا مذہب ہے اور ہمارے لیے قارن کو دو طواف کرنے لازمی ہیں ایک طواف عمرے کے لیے جب کہ مکہ میں داخل ہو اور دوسرا طواف وقوف عرفہ کے بعد حج کے لیے۔ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ قارن تھے اور جب کہ مکہ میں تشریف لائے تو طواف کیا اور دوسرا طواف الزیادۃ وقوف کے بعد کیا اور دارقطنی کی ایک روایت ہے اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ قارن دو طواف کرے اور صفا اور مروہ کی دوبار سعی کرے اور حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے بھی اس طرح منقول ہے کہ قارن دو طواف کرے اور دومرتبہ سعی کرے۔

حدیث مذکورہ میں حضور ﷺ کے متمتع اور قارن ہونے کا ذکر

۳/۲۳۲۷ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَسَاقَ مَعَهُ الْهُدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ أَهْلًا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرَمٌ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطْلُبْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيَقْصِرْ وَلْيَحِلِّ ثُمَّ لِيَهْلُ بِالْحَجِّ وَلِيَهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَأَنْصَرَفَ فَاتَى الصَّفَاءَ وَالْمَرْوَةَ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرَمٌ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَنَحَرَ هَذِيئَةَ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَمٌ مِنْهُ وَقَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَاقَ الْهُدْيَ مِنَ النَّاسِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۳۹۳ حدیث رقم ۱۶۹۱۔ و مسلم فی صحیحہ ۹۰۱/۲ حدیث رقم (۱۷۴-۱۲۲۷)۔

وابوداؤد فی السنن ۳۹۷/۲ حدیث رقم ۱۸۰۵ والنسائی ۱۵۱/۵ حدیث رقم ۲۷۳۲ واحمد فی المسند ۱۳۹/۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے حجۃ الوداع میں عمرے کے ساتھ حج میں فائدہ اٹھایا۔ یعنی سب سے پہلے عمرے کا احرام باندھا اور پھر حج کا اور پھر اپنے ساتھ ذی الحلیفہ سے ہدی لے کر چلے جو کہ ایک جگہ کا نام ہے۔ حضور ﷺ نے وہاں سے احرام باندھا تھا اور شروع فرمایا پھر احرام باندھا عمرے کا اور پھر حج کا احرام باندھا۔ پس لوگوں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ عمرے کو حج کے ساتھ کر کے متنع کیا۔ یعنی عمرے کے ساتھ ملایا۔ پس بعض لوگوں میں یہ بھی تھے کہ جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا ان میں بعض ہدی لائے تھے اور بعض ان میں وہ تھے کہ وہ ہدی نہیں لائے تھے۔ پس جب کہ نبی کریم ﷺ مکہ میں تشریف لائے تو لوگوں کے لیے حکم فرمایا یعنی عمرہ کرنے والوں کے لیے جو تم میں سے ہدی لے کر آیا ہے پس وہ حلال نہ ہو کسی چیز سے اور وہ بازر ہے۔ یعنی احرام سے نہ نکلے یہاں تک کہ حج کر لے اور جو شخص تم میں سے ہدی لے کر نہ آیا ہو وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ یعنی عمرے کا طواف کرے اور صفا اور مروہ کی سعی کرے اور بال کتروائے اس کو چاہیے کہ وہ عمرے کے احرام سے نکلے یعنی جو چیزیں منع تھیں احرام میں اب وہ مباح ہو گئیں پھر حرم کی زمین سے حج کا احرام باندھے اور یوم نحر کو ہدی ذبح کرے احرام کرے حج کے ساتھ یعنی حرم کی زمین سے اور ہدی ذبح کرے یعنی نحر کے دن رمی جبار کے بعد سر منڈانے سے پہلے کہ متنع کے لیے شکرگزاری کے لیے واجب ہے۔ اس نعمت کی کہ حج اور عمرہ کو ادا کرنے کی توفیق ہوئی پس جو شخص ہدی نہ پائے پس چاہیے کہ حج کے ایام میں تین دن روزے رکھے یعنی حج کے مہینوں میں احرام کے بعد نحر کے دن سے پہلے تین روزے رکھے اور افضل یہ ہے کہ ساتویں، آٹھویں، نویں کو رکھے اور سات دن جب کہ اپنے اہل والوں کی طرف پھرے یعنی لوٹے۔ یعنی صبح کے افعال سے فارغ ہو جائے اگرچہ مکہ میں ہوں پھر حضور ﷺ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جب کہ مکہ میں آئے یعنی عمرے کا طواف کیا اور لہیک کہنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا پھر تین مرتبہ طواف میں جلدی جلدی اکڑ کر چلے اور چار مرتبہ اپنی چال چلے۔ یعنی ایک بار جو خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ اس کو شوط کہتے ہیں پس سات شوط بطور مذکور ہے اور سات شوط کا ایک طواف ہوتا ہے۔ پھر مقام ابراہیم کے نزدیک دو رکعت نماز پڑھی۔ اس وقت اس نے اپنا طواف پورا کیا پھر سلام پھیرا۔ یعنی صلوٰۃ الطواف پڑھی کہ وہ ہمارے نزدیک واجب ہے پھر خانہ کعبہ سے اور صفا پر آئے آپ نے خانہ کعبہ کے گرد سات چکر لگائے پھر کسی چیز سے حلال نہ ہوئے کہ بازر ہے تھے اس چیز سے یعنی احرام سے نہ نکلے۔ یہاں تک کہ اپنا حج پورا کیا اور اپنی ہدی قربانی کے دن یعنی دس ذی الحجہ کو ذبح کی۔ پس اب حلق کے ساتھ حلال ہوئے ہر چیز سے سوائے جماع کے اور منی سے چل کر مکہ میں آئے پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا یعنی طواف افاضہ پھر ہر چیز سے حلال ہو گئے کہ روکا ہوا تھا اپنے آپ کو اس چیز سے یعنی اب جماع کرنا بھی حلال ہو گیا اور اس چیز کی طرح کیا۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس شخص کی طرح کیا جو نبی کریم ﷺ کی طرح ہدی لے کر آیا تھا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ متنع تھے اور درست بات یہ ہے کہ آپ ﷺ قارن تھے اس کی تاویل یہ ہے کہ متنع سے مراد متنع لغوی ہے یعنی نفع اٹھانا اور وہ قرآن میں موجود ہے کہ قارن عمرے کے ساتھ حج کر کے متنع ہوتا ہے۔

حج کے مہینوں میں عمرے کا جواز

۴/۲۳۲۸ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ عُمْرَةٌ أُسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهُدَى فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۹۱۱/۲ حديث رقم (۲۰۳-۱۲۴۱)۔ والنسائي في السنن ۱۸۱/۵ حديث رقم ۲۸۱۵۔
والدارمي ۷۲/۲ حديث رقم ۱۸۵۶۔ واحمد في المسند ۲۳۶/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ عمرہ ہے ہم نے اس کے ساتھ فائدہ اٹھایا پس وہ شخص جس کے پاس ہدی نہ ہو اس کو چاہیے کہ حلال ہو جائے اس لیے کہ عمرہ کرنا حج کے مہینوں میں قیامت کے دن تک داخل ہوا ہے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے اور یہ بات دوسری فصل سے خالی ہے۔

تشریح: اس حدیث میں تمتع کا ذکر آیا ہے اور یہاں تمتع سے مراد تمتع لغوی ہے یعنی فائدہ اٹھانا اور باقی شرح اس

حدیث کی اوپر بیان ہو چکی ہے۔

الفصل الثالث:

احرام کی تبدیلی کا حکم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تامل

۵/۲۳۲۹ وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي نَاسٍ مَعِيَ قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحَدَّثَهُ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرْنَا أَنْ نَحِلَّ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَلُّوا وَأَصْبَحُوا الْيَسَاءَ قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْرِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُمْ لَهُمْ فَقُلْنَا لِمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خُمْسُ أَمَرْنَا أَنْ نَقْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقَطُّرُ مَذَاكِرُنَا الْمُنَى قَالَ يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ يُحَرِّمُ كُهَا قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتَقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصَدَّكُمْ وَأَبْرَكُمْ وَلَوْ لَا هَذَا لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ لَهُ أَشَى الْهُدَى فَحَلُّوا فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلَيَّ مِنْ سَعَاتِهِ فَقَالَ بِمَ أَهَلَّلْتَ قَالَ بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهْدِ وَأَمْكُثْ حَرَامًا قَالَ وَأَهْدِي لَهُ عَلَيَّ هَدِيًّا فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشَمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا بَدَ قَالَ لَا بَدَ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۸۸۳/۲ حديث رقم (۱۴۱-۱۲۱۶)۔ والنسائي في السنن ۱۷۸/۵ حديث رقم ۲۸۰۵۔ وابن ماجه ۹۹۲/۲ حديث رقم ۲۹۸۰۔ واحمد في المسند ۱۷۵/۴۔

ترجمہ: حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، میرے ساتھ سننے میں بہت سے آدمی شریک تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے یعنی نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ نے حج کا خالص تر یعنی صرف حج کا بغیر عمرے کے احرام باندھا۔ عطاءؓ نے کہا کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ذی الحجہ کی چوتھی تاریخ کی صبح کو تشریف لائے۔ پس ہم کو حکم کیا کہ حلال ہو جائیں۔ عطاءؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ حلال ہو جاؤ اور عورتوں کے پاس جاؤ یعنی ان سے محبت بھی کرو۔ عطاءؓ فرماتے ہیں کہ محبت کرنی ان پر واجب نہیں ہے لیکن عورتیں ان کے لیے حلال ہیں امر و جوب کے لیے تھا اور محبت کرنے کا حکم اباحت کے لیے ہے ہم نے بطور تعجب کے کہا جب کہ ہمارے درمیان اور عرفہ کے درمیان پانچ راتیں تھیں ہم کو حکم کیا کہ ہم اپنی بیویوں سے محبت کریں پھر میدانِ عرفات میں حاضر ہوں۔ اس حالت میں کہ ہمارے عضو مخصوص منی کو پڑکا ہے ہوں۔ یعنی جماع کے قریب ہوئے ہوں اور اس کو جاہلیت میں عیب شمار کرتے تھے اور حج میں باعث نقصان سمجھتے تھے عطاءؓ نے کہا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا گویا کہ میں ان کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھ رہا ہوں اور وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ ہلاتے تھے۔ پس جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ ہمارے درمیان خطبہ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہاری نسبت خدا سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں اور تم میں سے زیادہ سچا ہوں۔ اور تم میں سے زیادہ نیک ہوں اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی البتہ میں حلال ہو جاتا جیسے کہ تم حلال ہوئے اور اگر میں اپنے کام کو پہلے سے جانتا ہوتا اس چیز کو جو میں نے بعد میں جانا تو میں ہدی کو نہ لاتا یعنی اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا احرام سے نکلنا ایسا شاق ہوگا تو میں ہدی ساتھ نہ لاتا اور میں بھی احرام سے نکل آتا۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا حلال ہو جاؤ تو پھر ہم حلال ہوئے اور ہم نے سنا اور طاعت کی۔ عطاءؓ کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے کام سے آئے جو یمن کے قاضی بن کر گئے تھے وہاں سے آئے پس حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کس چیز کے ساتھ تم نے احرام باندھا۔ کہا اس چیز کے ساتھ احرام باندھا جس کے ساتھ نبی کریم ﷺ نے احرام باندھا تو حضور ﷺ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ یومِ نحر کو ہدی ذبح کرنا جو کہ قارن کے لیے واجب ہے اور حالت احرام میں ٹھہرے رہو۔ اب جیسے کہ میں نے کہا ہے جابر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ حضور ﷺ کے لیے ہدی لے کر آئے یا اپنے لئے ہدی لے کر آئے پس سراقہ بن مالک بن جشم یعنی مالک کے بیٹے سراقہ نے کہا اے اللہ کے رسول! کیا اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ یعنی عمرے کا جائز ہونا حج کے مہینوں میں اسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں! بلکہ ہمیشہ کے لئے ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حج کے متعلق اتنی صاف بات کہ ہم نے حج کا احرام باندھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے گمان کے مطابق کہی اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں گزر چکا ہے کہ بعضوں نے عمرے کا احرام باندھا اور بعضوں نے حج و عمرہ کا اور بعضوں نے محض حج کا یا صحابہ سے مراد اکثر صحابہ یا بعض صحابہؓ یا وہ صحابہ مراد ہیں جو ہدی ساتھ نہیں لائے تھے اور یہ ظاہر تر ہے اور جابر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا یعنی ستر کے پٹنے کو تشبیہ دی۔ ہاتھ کے پٹنے کے ساتھ کہ اس طرح پٹتے جائیں کہ اہل عرب کی عادت ہے کہ کلام کرنے میں اعضاء کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں۔

احرام کی تبدیلی کے حکم پر لوگوں کا متردّد ہونا

۶/۲۳۳۰ وَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا رُبْعَ مَضِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ لَدْخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضَبَانٌ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ قَالَ أَوْ مَا شَعَرْتُ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ لَوْ أَنِّي اسْتَفْقَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سَفَتُ الْهَدْيَ مَعِيَ حَتَّى اسْتَرَيْتُهُ ثُمَّ أَحَلَّ كَمَا حَلُّوا۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۸۷۹/۲ حدیث رقم (۱۳۰-۱۲۱۱)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ اذی الحجہ کی چوتھی تاریخ کو میرے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ غصے میں تھے۔ پس میں نے کہا اے اللہ کر رسول! کس چیز نے آپ ﷺ کو غصے میں مبتلا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے فرمایا کیا تو نہیں جانتی کہ تحقیق میں نے لوگوں میں سے بعضوں کو ایک کام کا کہ عمرے کے ساتھ حج کرنے کا حکم کیا پھر وہ تردد کرتے ہیں اور اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا اس چیز کا جو میں نے بعد میں جانی تو میں اپنی ہدی اپنے ساتھ نہ لاتا۔ یہاں تک کہ میں اس کو مکہ سے یارستے سے خریدتا پھر حلال ہو جاتا جس طرح لوگ حلال ہوئے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے احرام کی تبدیلی کے حکم پر تردد کا اظہار کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تردد کا اظہار اس لیے کر رہے تھے کہ سنت رسول کی متابعت چھوٹ جائے گی۔ کیونکہ حضور ﷺ تو ہدی ساتھ لے کر آئے تھے اس لیے آپ ﷺ نے احرام نہیں کھولا اور جو لوگ ہدی ساتھ نہیں لائے تھے ان کو حکم ہوا کہ وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور وہ حج اور عمرے کو ساتھ نہ ملائیں۔

بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَالطَّوَافِ

یہ باب مکہ میں داخل ہونے اور طواف کرنے کے بیان میں ہے

فائدہ: اس باب میں مکہ میں داخل ہونے کی کیفیت بیان کی ہے کہ کس طرف سے داخل ہوئے اور کس طرف سے نکلے اور کس وقت آئے اور طواف کی کیفیت ذکر کی ہے اور حجر اسود کو بوسہ دینا وغیرہ ذلک۔ اور مکہ کے معنی ہلاک اور نقصان کرنے کے ہیں اور اس شہر اشرف کو مکہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کو ہلاک اور کم کر دیتا ہے۔ اس میں ظلم اور کج روی کرنے والے کو ہلاک کرتا ہے۔

الفصل الاول:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دخول مکہ کے وقت معمول

۱/۲۳۳۱ عَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ وَيُصَلِّيَ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَإِذَا نَفَرَ مِنْهَا مَرَّ بِذِي طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۳۵/۳ حدیث رقم ۱۷۷۳ - ومسلم فی صحیحہ ۹۱۹/۲ حدیث رقم (۲۲۶ - ۱۲۵۹) - وابوداؤد فی السنن ۴۳۵/۲ - حدیث رقم ۱۸۶۵ والنسائی فی السنن ۱۹۹/۵ حدیث رقم ۲۸۶۲ - والدارمی ۹۷/۲ حدیث رقم ۱۹۲۷ - ومالك فی الموطأ ۳۲۴/۱ حدیث رقم ۲۰ من کتاب الحج -

ترجمہ: حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق ابن عمر رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ مگر یہ کہ ذی طوی میں رات گزارتے، یہاں تک صبح کرتے اور نہاتے اور نماز پڑھتے دن کے وقت مکہ میں داخل ہوتے اور جس وقت مکہ سے نکلتے تو ذی طوی میں رات گزارتے اس میں صبح تک رہتے اور ذکر کرتے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوی میں رات گزارا کرتے تھے اور صبح تک وہیں رہتے تھے اور یہ جگہ مکہ کے قریب ہے اور حرم کے اندر ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آتے تو رات کو ذی طوی میں استراحت کے لیے ٹھہرتے پھر صبح نہاتے اور نماز پڑھتے نماز سے مراد اول نماز ہے کہ وہاں کے جانے کے لیے پڑھتے تھے اور پھر جب مکہ سے واپس لوٹتے تو پھر بھی ذی طوی میں رہتے یہاں تک کہ اسباب اور اصحاب اکٹھے ہو جاتے اور ابن ملک نے کہا ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دن کے وقت مکہ میں آنا مستحب ہے تاکہ خانہ کعبہ کو دیکھے اور دعا کرے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دخول مکہ کا ذکر

۲/۲۳۳۲ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۳۷/۳ - حدیث رقم ۱۵۷۷ - ومسلم فی صحیحہ ۹۱۸/۲ حدیث رقم (۲۲۴ - ۱۲۵۸) - وابوداؤد فی السنن ۴۳۷/۲ حدیث رقم ۱۸۶۹ - والترمذی فی السنن ۲۰۹/۳ حدیث رقم ۸۵۳ - والنسائی ۲۰۰/۵ حدیث رقم ۲۸۶۵ - وابن ماجہ ۹۸۱/۲ حدیث رقم ۲۹۴۰ واحمد فی المسند ۴۰/۶ -

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لائے بلندی کی طرف سے اور نشیب کی طرف سے داخل ہوئے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ کے دخول مکہ اور خروج مکہ کا ذکر ہے۔ آپ ﷺ مکہ میں بلندی کی طرف سے داخل ہوئے ذی طوی میں اور مکہ کا جنت المعلیٰ قبرستان بھی ادھر ہی ہے اور نشیب دوسری جانب میں ہے ان دونوں روایتوں میں کوئی منافات نہیں ہے اس لیے کہ نشیب کی طرف سے جو نکل کر مدینہ کی طرف آتے ہیں تو ذی طوی پر گزر رہا ہوتا ہے اور وہاں رات کو رہتے ہیں اور صبح کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مولانا۔

طواف کرنے کے لیے پاکی شرط ہے

۳/۲۳۳۳ وَعَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوْفَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۹۶۷/۳۔ حدیث رقم ۱۶۱۴۔ ومسلم فی صحیحہ ۹۰۶/۲۔ حدیث رقم (۱۹۰-۱۲۳۵)۔
ترجمہ: عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ نے حج کیا۔ پس مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ تحقیق شریعت میں پہلی چیز جو آپ ﷺ نے کی وہ یہ تھی کہ آپ ﷺ مکہ میں آئے تو وضو کیا اور پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ یعنی عمرے کا طواف کیا (اس لیے کہ حضور ﷺ قارن تھے یا متمتع تھے) پھر عمرہ نہ ہوا پھر (آپ ﷺ کے بعد) حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حج کیا تو انہوں نے بھی خانہ کعبہ کے طواف سے حج کے مناسک کی ابتداء کی پھر عمرہ نہ ہوا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کی طرح کیا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے وضو کیا اس لیے کہ پہلے ہی گزر چکا ہے کہ حضور ﷺ ذی طوی میں غسل کرتے تھے اور جمہور کے نزدیک طہارت صحت طواف کے لیے شرط ہے اور ہمارے نزدیک واجب ہے اور عمرہ نہ ہوا اور آپ کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مکہ میں آنے کے بعد عمرہ کیا اور لیکن جو ہدی لائے تھے وہ احرام باندھے رہے اور جو نہ لائے وہ احرام سے نہ نکلے پس عمرے کے نہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ حج کو فسخ کر کے یعنی موقوف کر کے عمرہ نہیں کیا اور احرام سے باہر نہیں آئے بلکہ احرام پر رہے اس لیے کہ قارن تھے نحر کے دن احرام سے نکلے اور راوی نے یہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ان لوگوں کا رد ہو جائے جو گمان کرتے تھے کہ آپ ﷺ نے حج کو فسخ کر کے عمرہ کیا ہے یا مراد ہے تمام حضرات نے صرف عمرہ حج کے بعد نہیں کیا بلکہ اسی عمرہ پر اکتفاء کیا ہے جو حج کے ساتھ ملا ہوا تھا۔

طواف کی کیفیت کا ذکر

۴/۲۳۳۴ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ مَعِيَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۷۷۱/۳۔ حدیث رقم ۱۶۱۶۔ ومسلم فی صحیحہ ۹۲۰/۲۔ حدیث رقم (۲۳۱-۱۲۶۱)۔
وابوداؤد فی السنن ۴۴۹/۲۔ حدیث رقم ۱۸۹۳۔ والنسائی فی السنن ۲۲۹/۵۔ حدیث رقم ۲۹۴۱۔ واحمد فی المسند

۱۲۵۱۲

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب حج یا عمرے کا طواف کرتے تو آپ ﷺ تین شوط (چکروں) میں جلدی کرتے اور چار مرتبہ یعنی چکروں میں اپنی چال پر چلتے۔ پھر طواف کی دو رکعتیں پڑھتے پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں طواف کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد پھرے تو اس کو شوط کہتے ہیں اور سات شوط کا ایک طواف ہوتا ہے۔ تو طواف کرتے وقت تین بار یعنی تین چکروں میں حضور ﷺ جلدی چلتے تھے یعنی قدم پاس پاس رکھتے جلد جلد چلتے اور دوڑتے اور اچھلتے نہ تھے اور بقیہ چار مرتبہ اپنی چال پر چلتے تھے۔

طواف میں چلنے کی کیفیت کا بیان

۵/۲۳۳۵ وَعَنْهُ قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۷۷/۳۔ حدیث رقم ۱۶۴۴۔ و مسلم فی صحیحہ ۹۲۰/۲۔ حدیث رقم (۲۳۰-۱۲۶۱)۔
والترمذی فی السنن ۲۱۲/۳۔ حدیث رقم ۸۵۷۔ و مالک فی الموطأ ۳۶۵/۱۔ حدیث رقم ۱۰۸ من کتاب الحج۔ والدارمی فی السنن ۶۴/۲۔ حدیث رقم ۱۸۴۱۔ و احمد فی المسند ۴۰/۲۔

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے طواف کے دوران حجر اسود سے حجر اسود تک تین چکروں میں جلدی چلے اور بقیہ چار چکروں میں اپنی موافق چال چلے اور بطن میل میں دوڑتے تھے جس وقت صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ طواف کے تین چکروں میں جلدی چلتے تھے اور باقی چار چکروں میں اپنی چال پر چلتے تھے سعی کرنے کے معنی صفا اور مروہ کے درمیان سات مرتبہ چکر لگانا ہے۔ یہ ہمارے نزدیک واجب ہیں اور امام شافعی کے نزدیک رکن ہے۔ بطن میل ایک جگہ کا نام ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان ہے اس کے سروں پر پہنچانے کے لئے نشان بنادیئے گئے ہیں۔ اس میں تمام علماء کے نزدیک سعی کرنے کے وقت جلدی چلنا سنت ہے۔

آپ ﷺ کا حجر اسود کو بوسہ دینا

۶/۲۳۳۶ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ آتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ قَرْمَلًا ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۲۰/۲۔ حدیث رقم (۲۳۲-۱۲۶۱)۔ والترمذی فی السنن ۲۱۱/۳۔ حدیث رقم ۸۵۶۔
والنسائی ۲۲۸/۵۔ حدیث رقم ۲۹۳۹۔ والدارمی ۶۴/۲۔ حدیث رقم ۱۸۴۰۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ جب مکہ میں تشریف لائے تو حجر اسود کے پاس آئے

پس اس کو بوسہ دیا پھر اپنے دائیں ہاتھ چلے۔ پس باز وہاں کر جلدی چلے۔ یعنی جیسے کہ پہلوان چلتے ہیں تین مرتبہ اور بقیہ چار چکروں میں اپنی چال پر چلے۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ مکہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے حجر اسود کے پاس آئے اس کو بوسہ دیا پھر اپنے دائیں طرف بازو ہلا کر چلے یعنی جیسے کہ پہلوان چلتے ہیں تین مرتبہ اور چار مرتبہ اپنی درمیان چال چلے۔

آپ ﷺ کا حجر اسود کو بوسہ دینے کا ذکر

۷/۲۳۳۷ وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ إِسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيَقْبِلُهُ۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۷۵۱۳۔ حدیث رقم ۱۶۱۱۔ والترمذی فی السنن ۲۱۵۰۳ حدیث رقم ۸۶۱۔ والنسائی حدیث رقم ۲۳۱۱۵۔

ترجمہ: حضرت زبیر بن عربیؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمرؓ سے حجر اسود کو بوسہ دینے کے بارے میں پوچھا۔ پس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو اس کو ہاتھ لگاتے اور بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں آپ ﷺ کے حجر اسود کو بوسہ دینے کا ذکر ہے۔ آپ ﷺ پہلے اس کو ہاتھ لگاتے اور پھر بوسہ دیتے۔

آپ ﷺ خانہ کعبہ کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے مگر دور کنوں کو

۸/۲۳۳۸ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانَيْنِ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۷۳۱۳۔ حدیث رقم ۱۶۰۹۔ ومسلم فی صحیحہ ۹۲۵۰۲ حدیث رقم (۲۴۷)۔ (۱۲۶۹)۔ والترمذی فی السنن ۲۱۳۱۳ حدیث رقم ۸۵۸۔ واحمد فی المسند ۱۱۴۱۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو خانہ کعبہ کو ہاتھ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا مگر دو رکنوں کو جو یمن کی جانب ہیں۔ اس کو بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے

تشریح ﴿ خانہ کعبہ کے چار رکن ہیں یعنی چار کونے ہیں ایک رکن تو وہ ہے کہ جس میں حجر اسود ہے اور دوسرا اس کے سامنے ہے رکن یمانی حقیقت میں یہی ہے تغلیباً دونوں کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ دور کن اور ہیں ایک رکن عراقی ہے اور دوسرا شامی ہے۔ مگر دونوں کو شامی کہتے ہیں اور جس رکن میں حجر اسود ہے اس کو دوہری فضیلت ہے ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے اور دوسرے یہ کہ اس میں حجر اسود ہے اور رکن یمانی کو صرف ایک ہی فضیلت حاصل ہے کہ وہ صرف حضرت ابراہیم علیہ

الصلوة والسلام کا بنایا ہوا ہے۔

الغرض کے یہ دونوں شامیوں پر فضیلت رکھتے ہیں اس سبب سے یہ استلام کے ساتھ خاص کئے گئے ہیں اور استلام کے معنی ہیں لمس کرنا۔ یعنی چھونا یا تو ہاتھ وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے یا بوسہ لینے کے ساتھ ہوتا ہے یا دونوں کے پس رکن اسود بہر کیف افضل ہے اس لیے کہ اس کو بوسہ دیتے ہیں یا ہاتھ لگا کر اشارہ کر کے چومتے ہیں اور رکن یمانی کو فقط ہاتھ ہی سے چھوتے ہیں اور دو رکن جو شامیوں کے ہیں ان کو نہ ہاتھ لگاتے ہیں اور نہ ہی بوسہ دیتے ہیں۔

آپ ﷺ مہجن کے ساتھ بوسہ دیتے تھے

۹/۲۳۳۹ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعْضِ الرُّكْنِ بِمُحَجَّجٍ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۷۲/۳ - حدیث رقم ۱۶۰۷ - و مسلم فی صحیحہ ۹۲۶/۲ حدیث رقم (۲۲۳ - ۱۲۷۲)۔
وابوداؤد ۴۴۱/۲ حدیث رقم ۱۸۷۷ - والنسائی ۱۲۳۳/۵ حدیث رقم ۲۹۵۴ - وابن ماجہ ۹۸۳/۲ رقم ۲۹۴۸۔
ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حجۃ الوداع میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا اور حجر اسود کو مہجن کے ساتھ بوسہ دیتے تھے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا یہ تو آپ ﷺ کی خصوصیت ہوگی یا کسی عذر کی وجہ سے کیا ہوگا۔ ہمارے نزدیک پیادہ پا طواف کرنا واجب ہے۔ اور علامہ طیبی شافعی نے کہا ہے کہ اگرچہ پیادہ پا طواف کرنا افضل ہے لیکن حضور ﷺ نے سوار ہو کر اس لیے کیا تا کہ سولوگ دیکھیں حضور ﷺ کو اور ایک اشکال اور وارد ہوتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ بلاشبہ حضور ﷺ نے رمل کیا ہے یعنی حجۃ الوداع میں کندھے ہلا کر جلدی چلے اور اس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا۔ جواب یہ ہے کہ پیادہ پا طواف کرنا قدم میں تھا اور سوار ہو کر طواف کرنا طواف افاضہ میں تھا قرآنی کے دن اس کو طواف الرکن بھی کہتے ہیں جو کہ فرض ہوتا ہے تا کہ لوگ طواف کے افعال سیکھ لیں اور مہجن اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کا سراخمدار ہو۔ اس لکڑی سے حضور ﷺ اشارہ کرتے تھے اور پھر اس کو چومتے تھے۔

آپ ﷺ نے بیت اللہ کا طواف اونٹ پر سوار ہو کر کیا

۱۰/۲۳۴۰ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعْضِ كَلَمَاتِ آتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۹۰/۳ - حدیث رقم ۱۶۱۳ - والترمذی فی السنن ۲۱۸۱/۳ حدیث رقم ۸۶۵ - والنسائی فی السنن ۲۳۳/۵ - حدیث رقم ۲۹۵۵ - والدارمی ۶۵/۲ حدیث رقم ۱۸۴۵۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے خانہ کعبہ کا طواف اونٹ پر سوار ہو کر کیا۔ جب حجر

اسود کے پاس آتے تو اس کی طرف ایک چیز (یعنی لکڑی) کے ساتھ اشارہ کرتے جو آپ ﷺ کے ہاتھ مبارک میں تھی اور اللہ اکبر کہتے۔ اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حضور ﷺ بھڑکی وجہ سے اس طرح اشارہ کرتے ہوں گے اس لیے کہ ہمارے مذہب میں یہ ہے اگر کوئی شخص بوسہ لینے سے یا ہاتھ لگانے سے عاجز ہو تو اشارہ کرے وگرنہ اشارہ نہ کرے۔

خمدار لکڑی کے سرے کو آپ ﷺ بوسہ دیتے تھے

۱۱/۲۳۳۱ وَأَعْنُ أَبِي الطُّفَيْلِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِصْحَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِصْحَنَ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۲۷/۲ حدیث رقم (۲۵۷-۱۲۷۵)۔ واخرجه ابن ماجہ ۹۸۳/۲ حدیث رقم ۲۹۴۹۔
ترجمہ: حضرت ابو طفیلؒ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ خانہ کعبہ کا طواف سوار ہو کر کرتے تھے اور خمدار لکڑی کے ساتھ حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے تھے جو آپ ﷺ کے پاس تھی اور آپ ﷺ اس لکڑی کو بوسہ دیتے تھے۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہاتھ لگا کر چومتے تھے۔ پس ان میں تطبیق یوں دی جائے گی۔ کہ کسی طواف میں بوسہ دیا ہو اور کسی میں ہاتھ لگا کر چوما ہو اور کسی میں بھیڑ کی وجہ سے اشارہ کیا ہو یا یہ کہ ہر شوط کے بعد بوسہ دینا ہے کسی شوط کے بعد بوسہ دیتے ہو ننگے اور کسی کے بعد ہاتھ لگا کر چومتے ہو ننگے اور کسی کے بعد ازدحام کی وجہ سے اشارہ کرتے ہو ننگے۔

۱۲/۲۳۳۲ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفِ طَمَنُتٍ قَدْ خَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ لَعَلَّكَ نَفَسْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۰۰/۱۔ حدیث رقم ۲۹۴۔ ومسلم فی صحیحہ ۸۷۳/۲ حدیث رقم (۱۲۰-۱۲۱)۔
وابوداؤد فی السنن ۳۸۲/۲ حدیث رقم ۱۷۸۲۔ والنسائی ۱۵۶/۵ حدیث رقم ۲۷۴۱۔ وابن ماجہ ۹۸۸/۲ حدیث رقم ۲۹۶۳۔ والدارمی ۶۶/۲ حدیث رقم ۱۸۴۶۔ ومالك فی الموطأ ۴۱۱/۱۔ حدیث رقم ۲۲۴۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ نکلے۔ تو صرف تلبیہ یعنی لبیک کہتے تھے اور بعضوں نے کہا کہ ہم سوائے حج کے اور کسی چیز کا قصد نہیں کرتے تھے۔ یعنی مقصود اصل حج تھا نہ عمرہ۔ پس عمرے کا ذکر نہ کرتے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نیت میں بھی نہ تھا پس جب کہ ہم سرف میں پہنچے تو میں حائضہ ہوئی۔ پس نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو میں رو رہی تھی یعنی اس گمان کے مطابق کہ حیض حج سے باز رکھے گا پس حضور ﷺ نے فرمایا شاید کہ تم حائضہ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں! فرمایا یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے مقدر میں کر دی ہے پس تو خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ ہر وہ عمل کر جو حاجی کرتے ہیں اور یہاں تک کہ تو پاک ہو جائے۔ اس کو بخاریؒ اور مسلمؒ نے کیا ہے۔

تشریح ﴿۱﴾ حدیث مذکورہ میں جو سرف کا لفظ آیا ہے سرف ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے چھ (۶) میل کے فاصلے پر ہے اور سوائے اس کے کہ تو حافظہ ہونے کی حالت میں طواف نہ کر اور اس طرح سعی بھی نہ کر اس لیے کہ سعی طواف کے بغیر درست نہیں ہے اور یہاں تک کہ حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کرے تو طواف وسعی کرے اور یہ حدیث پہلے قول کے منافی ہے یعنی میں نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ اے الہی کچھ نہیں بنتی مگر یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول کہ ہم ذکر نہیں کرتے تھے مگر حج کا اس سے مراد یہ ہے کہ اس سفر میں ہمارا مقصد اصلی حج تھا اور حج کی تین اقسام ہیں جو کہ قرآن متبع اور افراد ہیں پس بعض ہم سے افراد کرنے والے تھے اور بعض تمتع کرنے والے تھے اور بعض قرآن کرنے والے تھے اور میں نے تمتع کا قصد کیا تھا پس میں نے عمرہ کیا پھر جب کہ مجھ کو حیض کا عذر لاحق ہوا اور عرفہ کے دن تک باقی رہا اور وقف حج تک مجھے حضور ﷺ نے موقوف رکھنے کا حکم فرمایا اور باقی افعال حج کرنے کی اجازت دے دی۔

مشرک کو خانہ کعبہ کے طواف کرنے کی ممانعت

۱۳/۲۳۳۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي الْحَجَّةِ النَّبِيُّ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ أَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ إِلَّا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۷۷/۱ - حدیث رقم ۳۶۹ - و مسلم فی صحیحہ ۹۸۲/۲ حدیث رقم (۴۳۵ - ۱۳۴۷) - و ابو داؤد فی السنن ۴۸۳/۲ حدیث رقم ۱۹۴۶ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے پہلے جس حج میں نبی کریم ﷺ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا اس حج میں میں بھی تھا قربانی کے دن ایک جماعت کو حکم کیا کہ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ خبردار ہو جاؤ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی خانہ کعبہ کا نکاح طواف کرے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿۲﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حج فرض ہوا تو حضور ﷺ اپنی دینی مشغولیت کی وجہ سے حج کو نہ جاسکے تو حضرت ابو بکر صدیق کو حاحیوں کے قافلے کا امیر بنا کر بھیجا اور اس جماعت کو حکم کیا کہ وہاں پہنچ کر اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور حج کرنا صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے یہ بات اس آیت کی وجہ سے ارشاد فرمائی: اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا۔

اور یہ اعلان کہ کوئی خانہ کعبہ کا ننگے ہونے کی حالت میں طواف نہ کرے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی کہ وہ ننگے طواف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کپڑوں میں خدا کی عبادت نہیں کریں گے جس میں ہم گناہ کیا کرتے تھے اس سے آپ ﷺ نے منع فرمادیا۔

الفصل الثانی:

خانہ کعبہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی چاہیے

۱۲/۲۳۳۴ عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ سِئِلَ جَابِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ (رواه الترمذی و ابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۴۳۷/۲ حدیث رقم ۱۸۷۰۔ والترمذی ۲۱۰/۳ حدیث رقم ۸۵۵۔ والنسائی ۲۱۲/۵ حدیث رقم ۲۸۹۵۔

ترجمہ: حضرت مہاجر مکیؓ سے روایت ہے کہ جابرؓ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو خانہ کعبہ کو دیکھے اور دعا کے لئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یعنی یہ مشروع ہے یا نہیں؟ پس جابرؓ نے کہا ہم نے نبی کریمؐ کے ساتھ حج کیا ہم خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا کرنے کے لئے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اس کو امام ترمذیؒ اور ابوداؤدؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: خانہ کعبہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ امام ابوحنیفہؒ اور شافعیؒ اور مالکؒ کا مذہب یہ ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے اور امام احمدؒ کے نزدیک ہاتھ اٹھائے اور دعا کرے طیبیؒ ملا علی قاریؒ نے مرقات میں امام ابوحنیفہؒ کا مذہب اور امام شافعیؒ کا مذہب اس کے خلاف نقل کیا ہے کہ ہاتھ اٹھائے۔

ملا علی قاریؒ نے مناسک میں اس کو مکروہ لکھا ہے اور بعض حضرات سے اس کا جواز نقل کیا ہے اور ہدایہ اور درمختار سے بھی عدم رفع ہی معلوم ہوتا ہے۔

خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھانا

۱۵/۲۳۳۵ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَّاهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ وَيَدْعُو۔

اخرجه مسلم فی صحيحه ۱۴۰۵/۳ حدیث رقم (۸۴۔ ۱۷۸۰)۔ و ابوداؤد فی السنن ۴۳۸/۲ حدیث رقم ۱۸۷۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ مکہ میں داخل ہوئے پھر حجر اسود کی طرف متوجہ ہوئے پھر اس کو بوسہ دیا پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا پھر صفا کے پاس آئے یعنی طواف کی نماز کے بعد۔ پس اس پر چڑھے یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھائے پھر اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا یعنی تکبیر و تہلیل کرتے تھے جس وقت چاہتے تھے اور دعا مانگتی۔ اس کو ابوداؤدؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور یہ جو عوام کرتے ہیں تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں جیسے کہ نماز میں اٹھاتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

طواف نماز کی طرح ہے

۱۶/۲۳۳۶ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّوْفُ حَوْلَ النَّبِيِّ مِثْلَ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ۔

(رواہ الترمذی والنسائی والدارمی و ذکر الترمذی جماعة وقفوه علی ابن عباس)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۹۳/۳ حدیث رقم ۹۔ والنسائی ۲۲۲/۵ حدیث رقم ۲۹۲۲۔ والدارمی ۶۶/۲ حدیث رقم ۱۸۴۷۔ واحمد فی المسند ۳۷۷/۵۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا نماز کی طرح ہے مگر تحقیق تم اس میں بولتے ہو پس جو کوئی اس میں بولے اس کو چاہیے کہ نیکی ہی بولے۔ اس کو امام ترمذی اور نسائی اور دارمی نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے ایک جماعت کا ذکر کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اس پر موقوف کی ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے طواف ثواب میں نماز کی طرح ہے لیکن فرق یہ ہے کہ طواف میں کلام کرتے ہو اور کلام مفسد نہیں ہے جیسے نماز میں مفسد ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ کلام اور جو چیزیں کہ وہ کلام کے حکم میں اور نماز کے منافی ہیں لیکن کھانا اور پینا اور تمام افعال کثیرہ مفسد طواف نہیں ہیں اور حضور ﷺ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طواف میں قبلے کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے اور اصل طواف کے وقت بھی شرط نہیں ہے اور دوسری شرطیں نماز کی یعنی طہارت ھقیقہ اور حکمیہ اور ستر کا ڈھکنا معتبر ہے۔ امام شافعی کے نزدیک نماز کی طرح ہے یعنی جس طرح یہ چیزیں نماز میں شرط ہیں ویسے ہی طواف میں بھی شرط ہیں اور ہمارے نزدیک واجب ہیں اس لیے کہ مثل نماز ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بعینہ نماز ہو جائے اور طواف نماز کی طرح کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز طواف سے افضل ہے۔

حجر اسود جنت کا پتھر ہے

۱۷/۲۳۳۷ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ

بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ۔ (رواہ احمد و الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۲۶/۳ حدیث رقم ۸۷۷۔ واحمد فی المسند ۳۰۷/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود بہشت سے اتر آیا ہے اور وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا اور اس کو بنی آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ اس کو امام احمد اور ترمذی اور کہا ہے کہ یہ حدیث اور صحیح ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں حجر اسود کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ پتھر جنت سے آیا تھا اور دودھ کی طرح سفید تھا اور لوگوں نے ہاتھ لگا لگا کر اپنے گناہوں کی وجہ سے سیاہ کر دیا لہذا دیکھنا چاہیے کہ جب پتھر پر گناہوں کا اثر ہو گیا ہے تو لوگوں کے دلوں کا گناہوں کی وجہ سے کیا حال ہوگا معاذ اللہ منہ۔

حجر اسود قیامت کے دن گواہی دے گا

۱۸/۲۳۳۸ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجَرِ وَاللَّهُ لَيُبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ

عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يُنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّهِ - (رواه الترمذی وابن ماجہ والدارمی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۹۴۱/۲ حدیث رقم ۹۶۱ - وابن ماجہ ۹۸۲/۲ حدیث رقم ۲۹۴۴ - والدارمی ۶۳/۲ حدیث

رقم ۱۸۳۹ -

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے حجر اسود کے حق میں فرمایا کہ اللہ کی قسم! البتہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا اس کے واسطے دو آنکھیں ہوں گی ان کے ساتھ دیکھے گا ایک زبان ہوگی اس کے ساتھ وہ بولے گا اور اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس شخص نے حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیا ہوگا۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں حجر اسود کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ حجر اسود قیامت کے دن اللہ کی قسم بوسہ دینے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ جس نے ایمان اور صدق اور یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس کو بوسہ دیا ہوگا اس کے لیے گواہی دے گا کہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا اور یہ حدیث بھی ظاہر پر محمول ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ بینائی کے پیدا کرنے پر قادر ہے اور جمادات کو قوت گویائی بھی دے سکتا ہے۔

حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یا قوت ہیں

۱۹/۲۳۳۹ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ

يَاقُوتَانِ مِنَ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْمَسْ نُورُهُمَا لَأَضَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -

(رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی سنن ۲۹۲/۳ حدیث رقم ۹۵۹ - والنسائی فی ۲۲۱/۵ الحدیث رقم ۲۹۱۹ - واحمد فی المسند ۳۱۲ -

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تحقیق حجر اسود اور مقام ابراہیم بہشت کے یا قوتوں میں سے یا قوت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے نور کو دور کر دیا ہے اور اگر ان کا نور دور نہ کرتا تو البتہ یہ دونوں ہر اس چیز کو جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے روشن کر دیتے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یا قوت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے نور کو دور کر دیا شاید کہ ان کے نوروں کو دور کرنے میں یہ حکمت ہے تاکہ ایمان بالغیب رہے۔

طواف کرتے ہوئے واجبات و سنن و آداب کا لحاظ کرنا ضروری ہے

۲۰/۲۳۵۰ وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ أَفْعَلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أَسْبَغًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعَبْتِي رَقِيبَةً وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَكُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ

(رواہ الترمذی)

اخرجه الترمذی فی سننہ ۲۹۲/۳ حدیث رقم ۹۵۹۔ والنسائی فی ۲۲۱/۵ الحدیث رقم ۲۹۱۹۔ واحمد فی المسند ۳۱۲۔

ترجمہ: حضرت عبید اللہ بن عمیرؓ سے روایت ہے کہ ابن عمرؓ لوگوں کے اوپر رکنوں کے ہاتھ لگانے پر غلبہ کرتے تھے رکنوں کے معنی حجر اسود اور رکن یمانی کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب رسول میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اس پر یعنی ہر ایک پر ان دونوں رکنوں سے غلبہ کرتے ہو۔ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ اگر میں غلبہ کروں تو میرا انکار نہ کرو۔ اس لیے کہ تحقیق میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تحقیق ان دونوں رکنوں کو ہاتھ لگانا گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور میں نے سنا ہے کہ حضور ﷺ فرماتے تھے جو کوئی خانہ کعبہ کا طواف سات مرتبہ کرے اور اس کی محافظت کرے۔ یعنی واجبات و سنن و آداب اس کے بجالائے تو اس کو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا تو میں نے سنا حضور ﷺ کو فرماتے تھے جب کوئی طواف میں قدم رکھتا ہے اور اٹھاتا ہے دوسری مرتبہ یعنی طواف میں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے گناہ دور کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے ابن عمرؓ لوگوں پر غلبہ کرتے یعنی لوگوں کو چیر پھاڑ کر وہاں ہاتھ لگانے کے لیے پہنچتے لیکن اس طرح کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہوتی ہو چنانچہ اگر کوئی شخص لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے ان کو گراتے ہوئے ان دونوں رکنوں تک پہنچے اور لوگوں کو تکلیف محسوس ہو تو وہ گنہگار ہوگا تو ایسی صورت میں چاہیے کہ دور سے ہاتھ سے اشارہ کرے۔ چنانچہ اس کا بیان اوپر ہو چکا ہے اور سات بار اس میں تین احتمال ہیں ایک تو یہ کہ سات چکر لگائے یعنی سات بار خانہ کعبہ کے گرد چکر لگائے کہ سات شوط ایک طواف ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ سات طواف کرے اور تیسرے یہ کہ سات روز تک طواف کرے۔

دونوں رکنوں کے درمیان پڑھنے والی دُعا

۲۱/۲۳۵۱ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ

رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتَيْنَاكَ بِنَارٍ - (رواہ ابو داؤد)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۴۸/۲ الحدیث رقم ۱۸۹۲۔ واحمد فی المسند ۴۱۱/۳

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن سائبؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا کہ دونوں رکنوں کے درمیان

یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان فرماتے تھے۔ اے ہمارے رب ہم کو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔
تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ دونوں رکنوں کے درمیان یہ مذکورہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

سعی کی اہمیت

۲۲/۲۳۵۲ وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَخْبَرَنِي بِنْتُ أَبِي نُجْرَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ دَارَ
أَبِي حُسَيْنٍ نَظَرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرَأَيْتُهُ يَسْعَى
وَأَنَّ مَنَزْرَةً لِيَدُورُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اسْعُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ۔

(رواہ فی شرح السنۃ وروی احمد مع اختلاف)

اخرجه الدارقطني ۲۵۶/۲ من كتاب الحج الحديث رقم ۸۷ من باب المواقيت والبغوى فى شرح السنن ۱۴۰/۷ الحديث رقم ۱۹۲۱۔ واحمد فى المسند ۴۲۱/۶۔

ترجمہ: شبیبہ کی بیٹی صفیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہتی ہیں کہ مجھ کو ابونجران کی بیٹی نے خبر دی کہ میں قریش کی عورتوں کے ساتھ آل ابی حسین کے گھر گئی تاکہ ہم نبی کریم ﷺ کی طرف دیکھیں اور وہ صفا اور مروہ کے درمیان پھرتے ہیں تاکہ ان کے جمال و کمال سے مشرف ہو جائیں اور ان کے عمل و برکت سے مستفید ہو جائیں۔ پس میں نے ان کو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے دیکھا اس حال میں کہ تحقیق ان کا تہہ بدن ان کے پاؤں کے گرد زیادہ دوڑنے کی وجہ سے پھر رہا تھا اور میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ سعی کرو۔ پس تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی فرض کر دی ہے۔ اس کو شرح السنۃ میں نقل کیا گیا ہے اور امام احمد نے اس کو اختلاف کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

تشریح: حدیث مذکورہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم پر سعی کرنا فرض ہے امام شافعی تو اس کے معنی یہ لیتے ہیں کہ ان کے نزدیک صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا فرض ہے جو سعی نہ کرے اس کا حج باطل ہوتا ہے اور امام اعظم رحمہ اللہ ”سعی کرنا فرض ہے“ کے معنی یہ لیتے ہیں کہ ان کے نزدیک سعی کرنا واجب ہے اس کے ترک سے دم واجب ہوتا ہے یعنی ذنبہ وغیرہ ذبح کرنا لازم آتا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے اونٹ پر سوار ہو کر سعی فرمائی

۲۳/۲۳۵۳ وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرٍ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ۔ (رواہ فی شرح السنۃ)

اخرجه الترمذی فى السنن ۲۴۷/۳ الحديث رقم ۹۰۳۔ والنسائی ۲۷۰/۵ الحديث رقم ۳۰۶۱۔ وابن ماجه ۱۰۰۹/۲ الحديث رقم ۳۰۳۵۔ واحمد فى المسند ۴۱۳/۳۔

ترجمہ: حضرت قدامتہ بن عبد اللہ بن عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو صفا اور مروہ کے درمیان

اونٹ پر سعی کرتے دیکھا۔ وہ نہ مارتے تھے اور نہ ہانکتے تھے اور نہ ہی کہتے تھے کہ ایک طرف ہو جاؤ۔ ایک طرف ہو جاؤ۔ اس کو شرح السنہ میں نقل کیا گیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے اونٹ پر بیٹھ کر سعی فرمائی یعنی حضور ﷺ نے سعی سوار ہو کر فرمائی اور بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیدل چل کر کی ان میں یوں تطبیق دی جائے گی کہ کسی سعی کرنے میں پیادہ پا تھے اور کسی میں اُمت کی تعلیم کی خاطر ہی ان کو ہانکتے تھے یا کسی عذر کی وجہ سے سوار تھے اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پیادہ پا سعی کرنے کی قدرت شرط کے ساتھ واجب ہے پس بغیر عذر کے ترک کرے تو دم آتا ہے اور نہ مارتے تھے یعنی لوگوں کو نہ مارتے تھے اور نہ ہی ان کو ہانکتے تھے اور نہ ہی کہتے تھے ایک طرف ہو جاؤ۔ جیسا کہ بادشاہوں اور ظالموں کی عادت ہوتی ہے اور اس سے مقصود لوگوں پر طعن ہوتا ہے کہ یہ حرکت کرتے رہیں۔

اضطباع کا طریقہ

۲۳/۲۳۵۲ وَعَنْ يَعْلَى ابْنِ أُمَيَّةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا بَبُرْدٍ أَخْضَرَ۔ (رواه الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ و الدارمی)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۴۴۳/۲ الحدیث رقم ۱۸۸۳۔ و الترمذی فی ۲۱۴/۳۔ الحدیث رقم ۸۵۹۔ و ابن ماجہ ۹۸۴/۲ الحدیث رقم ۲۹۵۴۔ و الدارمی فی سننہ ۶۵/۲ الحدیث رقم ۱۸۴۳۔ و احمد فی المسند ۲۲۴/۴۔
ترجمہ: حضرت یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تحقیق آپ ﷺ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اس حال میں کہ آپ ﷺ سبز چادر کے ساتھ یعنی سبز خطو کی چادر کے ساتھ اضطباع کرنے والے تھے۔ اس کو امام ترمذی، ابوداؤد و ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں اضطباع کے بارے بیان کیا گیا ہے کہ اضطباع کس کو کہتے ہیں۔ اضطباع کہتے ہیں چادر کو داہنی بٹل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالے جس طرح ہانکے اوڑھتے ہیں اور اس قسم کے اوڑھنے کا سبب اوپر مذکور ہو چکا ہے۔

اضطباع کرنا سنت ہے

۲۵/۲۳۵۵ وَأَعْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ فَلَاثًا وَجَعَلُوا أَرْدِيَّتَهُمْ تَحْتَ أَبْطَهِمْ ثُمَّ قَدَّ فَوْهًا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى۔ (رواه ابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۴۴۴/۲ الحدیث رقم ۱۸۸۴۔ و احمد فی المسند ۳۰۶/۱۔
ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ اور ان کے صحابہؓ نے جعرانہ سے عمرہ کیا جو ایک جگہ کا نام ہے کہ سے آٹھ کوس کے فاصلے پر ہے پس تین مرتبہ جلدی چلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اور اپنی چادروں کو اپنی بغلوں کے نیچے کیا پھر ان کو اپنے بائیں کندھوں پر ڈالا۔ اس کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں اضطباع کے بارے میں بتایا گیا ہے یعنی اضطباع کیا جو کہ اوپر مذکور ہو چکا ہے اور اضطباع ہمارے نزدیک سارے طواف میں سنت ہے بخلاف رمل کے یعنی جلدی چلنا دو تین شرطوں کے ساتھ ہے اور اضطباع سوائے طواف کے مستحب نہیں ہے اور جو عوام احرام کی ابتداء سے اضطباع کرتے ہیں حج اور عمرہ میں اس کی پھ اصل نہیں ہے بلکہ حالت نماز میں مکروہ ہے۔

الفصل الثالث:

رکن یمانی اور حجر اسود کو ہاتھ لگانا

۲۶/۲۳۵۶ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْنَا اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الِیْمَانِیَّ وَالْحَجَرِ فِی شِدْقٍ وَلَا رَحَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا (متفق علیہ) وَفِی رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ نَافِعٌ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْنَاهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ۔

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۷۱/۳۔ الحدیث رقم ۱۶۰۶۔ ومسلم فی ۹۲۴/۲ الحدیث رقم (۲۴۵-۱۲۶۸)۔ والنسائی فی ۲۳۲/۵ الحدیث رقم ۲۹۵۲۔ والدارمی فی ۶۳/۲ الحدیث رقم ۱۸۳۸۔ اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۹۲۴/۲ الحدیث رقم (۲۴۶-۱۲۶۸)۔ وابوداؤد فی ۴۴۰/۲ الحدیث رقم ۱۸۷۶۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم نے ان دونوں رکنوں کو بھڑ میں بھی ہاتھ لگانا نہیں چھوڑا جب سے میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا ہے کہ ان دونوں رکنوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت میں یوں ہے کہ نافع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنا ہاتھ حجر اسود کو لگاتے دیکھا پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور فرماتے کہ میں نے نہیں چھوڑا جب سے میں نے حضور ﷺ کو ہاتھ لگاتے دیکھا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کریم ﷺ کو حجر اسود کو ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھا اس وقت سے میں نے حجر اسود کو ہاتھ لگانا نہیں چھوڑا۔

عذر کی وجہ سے سوار ہو کر طواف کرنے کی اجازت ہے

۲۷/۲۳۵۷ وَعَنِ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكُوْتُ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّي اشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي اِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مُسْطُورٍ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۹۰/۳۔ الحدیث رقم ۱۶۳۳۔ ومسلم فی ۹۲۷/۲ الحدیث رقم (۲۵۸-۱۲۷۶)۔ وابوداؤد فی السنن ۴۴۳/۲ الحدیث رقم ۱۸۸۲۔ وابن ماجہ فی ۹۸۷/۲ الحدیث رقم ۲۹۶۱۔ والنسائی فی ۲۳۲/۵ الحدیث رقم ۲۹۲۶۔ ومالك فی الموطأ ۳۷۰/۱ الحدیث رقم ۱۲۳ من كتاب الحج۔

ترجمہ: حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کی طرف شکایت کی کہ تحقیق میں بیمار ہوں

یعنی پیدل چل کر طواف نہیں کر سکتی۔ پس فرمایا کہ لوگوں سے پرے پرے (یعنی دور ہو کر طواف کرو اس حال میں کہ تم سوار ہو۔ پس میں نے طواف کیا اور رسول اللہ ﷺ نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ کے پہلو میں یعنی خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ متصل نماز پڑھتے تھے اور نماز میں ﴿وَ الطَّوْرُ وَ كِتَابُ مَسْطُورٍ﴾ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ کعبہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے یعنی سورۃ طور ایک رکعت میں پڑھی جیسا کہ عادت شریفہ تھی یا دونوں رکعتوں میں پڑھی اور اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ عذر کی وجہ سے سوار ہو کر طواف کرنا جائز ہے اور بلا عذر جائز نہیں ہے اس لیے کہ پیادہ پا طواف کرنا واجب ہے۔

حجر اسود کا بوسہ لینا نبی کریم ﷺ کی سنت ہے

۲۸/۲۳۵۸ وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يَقْبَلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْ لَا إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۶۲/۳۔ الحدیث رقم ۶۲۵/۲۔ ومسلم فی ۹۲۵/۲ الحدیث رقم (۲۵۱-۱۲۷)۔
وابوداؤد فی ۴۳۸/۲ الحدیث رقم ۱۷۷۳۔ والترمذی فی ۲۱۴/۳ الحدیث رقم ۰۸۶۰ والنسائی فی ۲۲۷/۵ الحدیث رقم ۲۹۳۷ وابن ماجہ فی ۹۸۱/۲ الحدیث رقم ۲۹۴۳۔ ومالك فی الموطأ ۳۶۷/۱ الحدیث رقم ۱۱۵ من کتاب الحج۔ واحمد فی المسند ۵۴/۱۔

ترجمہ: حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا وہ کہتے تھے کہ تحقیق میں البتہ جانتا ہوں کہ تحقیق تو پتھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تکلیف اور اگر میں نے نبی کریم ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لیے کہا تھا تا کہ بعض نو مسلم اس کے چومنے کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ پتھر بذاتہ کچھ نفع اور ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ بلکہ اللہ کے رسول ﷺ کے حکم کی بجا آوری کی وجہ سے نفع ہوتا ہے کہ اس کے چومنے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے۔

رکن یمانی پر ستر فرشتے متعین کیے گئے ہیں

۲۹/۲۳۵۹ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجِلَّ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا يَمْنِي الرُّكْنَ الْيَمَانِي فَمَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آذَيْنَاكَ الْبُغْيَاءَ قَالُوا آمِينَ۔ (رواه ابن ماجہ)

اخرجه ابن ماجہ فی سننہ ۹۸۵/۲ الحدیث رقم ۲۹۵۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رکن یمانی پر ستر فرشتے متعین ہیں۔ پس جو شخص کہے کہ اے الہی تحقیق میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور دنیا و آخرت میں عافیت مانگتا ہوں اے

ہمارے رب ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی نصیب فرما اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا تو وہ فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ مذکورہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب رکن یمانی کی یہ فضیلت ہے تو رکن اسود کی اس سے بھی زیادہ ہو گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فضیلت اور خاصیت رکن یمانی ہی کے لیے ہو اور رکن اسود کے لیے اس سے زیادہ فضیلتیں ہوں، اس میں کوئی منافات نہیں ہے اور اس حدیث میں جو کہ پہلے گزری ہے کہ حضور ﷺ دونوں رکنوں کے درمیان رہنا پڑھتے تھے اس لیے کہ جب رکن یمانی کی طرف پہنچے اور چلتے وقت یہ دعاء شروع کی اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان واقع ہو گئی ہے اس لیے کہ دعا کے لیے ٹھہرنا طواف میں تو درست نہیں ہے جیسے کہ جاہل عوام کرتے ہیں۔

طواف کی فضیلت

۳۰/۲۳۶۰ وَعَنْ أَنَسٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَافَ بِالنَّيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمَ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدِ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مُحِيتٌ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ خَاصٌّ فِي الرَّحْمَةِ بِرَجُلَيْهِ كَخَائِضِ الْمَاءِ بِرَجُلَيْهِ۔

اخرجه ابن ماجہ فی سننہ ۹۸۶/۲ الحیث رقم ۲۹۵۷۔

تشریح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص خانہ کعبہ کا طواف سات بار کرے اور کلام نہ کرے مگر سبحان اللہ اور الحمد للہ اور لا الہ الا اللہ اکبر اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے اس سے دس برائیاں دور کی جاتی ہیں اور اس کے واسطے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے واسطے دس درجے بلند کیے جاتے ہیں اور جو شخص طواف کرے اور اس میں کلام کرے وہ اس حالت میں ہے یعنی حالت طواف میں وہ دریائے رحمت میں اپنے دونوں پاؤں کے ساتھ اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح اپنے پاؤں کے ساتھ کوئی شخص پانی میں داخل ہوتا ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص طواف کے دوران کلمات مذکورہ پڑھے اور اس کلام کو دوبارہ لائے تاکہ پہلے کے ثواب کا بیان کریں اور بغیر تکلف کے ظاہری معنی یہ ہیں۔ کہ ان کلمات کے مانند اور افکار کے مانند کلام کرے۔ واللہ اعلم۔

بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

وقوف عرفات کا بیان

فائدہ: عرفہ مکان مخصوص کا نام ہے اور زمان کے معنی میں بھی آتا ہے اور نو ذی الحجہ کو عرفہ کا دن بھی کہتے ہیں اور عرفات جمع

کے لفظ کے ساتھ فقط مکان کے معنی ہی میں آتا ہے اور جمع باعتبار جوانب و اطراف کے ہے اور عرفہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس مکان میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا جنت سے اترنے کے بعد آپس میں تعارف ہوا تھا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے افعال تعلیم کرتے تھے اور کہتے تھے عرفہ یعنی تو نے پہچانا وہ کہتے تھے عرفہ میں نے پہچانا اور وقوف عرفہ حج کا دونوں رکنوں میں سے رکن اعظم ہے۔

الفصل الاول:

عرفات کے دن تکبیر و تہلیل کہنا

۱/۲۳۶۱ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا عَادِيَانِ مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَهْلُ مِنَّا الْمِهْلُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيَكْبُرُ الْمَكْبَرُ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۱۰/۳۔ الحدیث رقم ۱۶۵۹۔ ومسلم فی صحیحہ ۹۳۳/۲ الحدیث رقم (۱۲۸۵۰/۲۷۴) ومالك فی ۳۳۷/۱ الحدیث رقم ۴۳ من كتاب الحج۔ واحمد فی المسند ۱۱۰/۳۔

ترجمہ: محمد بن ابی بکر نخعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس حال میں کہ دونوں صبح کے وقت منی سے عرفات کی طرف جاتے تھے کہ تم اس دن یعنی عرفہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کیا افعال کرتے تھے؟ پس انس رضی اللہ عنہ نے لبیک کہا۔ ہم میں سے لبیک کہنے والا لبیک کہتا تھا پس انکار نہ کیا جاتا تھا اس پر اور تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا تھا ہم میں سے پس اس پر بھی انکار نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: علامہ طبریؒ نے کہا کہ اس دن تکبیر کہنا حاجیوں کے لئے اذکار کی مانند ہے۔ لیکن سنت نہیں ہے بلکہ ان کے لیے لبیک کہنا سنت ہے جب تک حجرۃ العتقی کی رمی نہ کر لیں اور عرفہ کی صبح کو تکبیر کہنا نمازوں کے پیچھے واجب ہے حاجیوں اور غیر حاجیوں کے لیے یعنی آخر ایام تشریق تک یعنی تیرہویں ذی الحجہ کی عصر تک اور ہر فرض پڑھنے والے پر نماز کے بعد تکبیر کہنا واجب ہے۔ فتویٰ اسی پر ہے۔

وقوف کے مقامات کا ذکر

۲/۲۳۶۲ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحَرْتُ هَهُنَا وَمَنَى كُلُّهَا مَنَحَرٌ فَاَنْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هَهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هَهُنَا وَجَمْعُ كُلِّهَا مَوْقِفٌ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۸۹۳/۲ الحدیث رقم (۱۶۴۹-۱۲۱۸)۔ وابوداؤد السنن ۴۷۸/۲ الحدیث رقم ۱۹۳۶۔ ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں نے اس جگہ اور منی کے مقام پر نحر کیا۔ تمام جگہ نحر کرنے کی ہے پس نحر کرو اپنے ڈیروں پر اور میں نے وقوف کیا ہے اس جگہ پر ویسے تمام جگہ وقوف کرنے کی ہے اور میں

نے اس جگہ وقوف کیا ہے اور مزدلفہ تمام جگہ وقوف کرنے کی ہے۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں جائے وقوف کے بارے میں بیان کیا گیا ہے منیٰ کے مقام پر آپ ﷺ نے معین جگہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں نے یہاں نحر کیا ہے اور منیٰ میں ہر جگہ نحر کرنا درست ہے اور اسی طرح عرفات میں اپنے جائے وقوف کی طرح اشارہ فرمایا ہے کہ میں نے تو یہاں وقوف کیا ہے اور تمام عرفات میں سوائے بطن عرفہ کے وقوف درست ہے اور مزدلفہ میں اس کو جمع بھی کہتے ہیں اپنے وقوف کی جگہ ہے اور منیٰ میں جس جگہ آپ ﷺ نے نحر کیا تھا اور وہ جگہ معلوم و معروف ہے اس کو محزا النبی کہتے ہیں آپ ﷺ نے مشعر الحرام کے قریب کسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے تو یہاں وقوف کیا ہے اور تمام مزدلفہ میں وقوف کرنا درست ہے سوائے وادی محسر کے اور اس میں شک نہیں ہے کہ حضور ﷺ کے وقوف کرنے کی جگہ افضل ہے۔

عرفہ کے دن کی فضیلت

۳/۲۳۶۳ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ نَوْمٌ يَبْهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۹۸۲/۲ الحديث رقم (۴۳۶ - ۱۳۴۸)۔ والنسائی فی ۲۵۱/۵ الحديث رقم ۳۰۰۳۔ وابن

ماجہ ۱۰۰۳/۲ الحديث رقم ۳۰۱۴۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں از روئے آزاد کرنے کے سوائے عرفہ کا دن کہ اللہ تعالیٰ اس میں بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اس دن سب دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے اور تحقیق اللہ تعالیٰ رحمت و مغفرت کے ساتھ نزدیک ہوتا ہے پھر حاجیوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں یعنی جو کچھ چاہتے ہیں وہی دوں گا۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن اپنے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ تمام دنوں کی بہ نسبت اللہ تعالیٰ اس دن زیادہ آزادی فرماتا ہے یعنی آگ سے خلاصی عطا فرمادیتا ہے اور پھر فرشتوں کے سامنے حاجیوں کے بارے میں فخر کرتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ جو چاہتے ہیں وہی ان کو دوں گا۔

الفصل الثانی:

موقف عرفات کا ذکر

۴/۲۳۶۴ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ خَالٍ لَهُ يَزِيدُ ابْنُ شَيْبَانَ قَالَ كُنَّا فِي مَوْقِفٍ لَنَا بِعَرَفَةَ يَبَاعِدُهُ عَمْرٌ وَمِنْ مَوْقِفِ الْإِمَامِ جَدًّا فَاتَانَا ابْنُ مَرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ يَقُولُ لَكُمْ قِفُوا عَلَى مَشَا عِرْكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

(رواہ الترمذی و ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ)

اخرجه ابو داؤد فی سننه ۴۶۹/۲ الحديث رقم ۱۹۱۹۔ والترمذی فی ۲۳۰/۳ الحديث رقم ۸۸۳ [والنسائی فی ۲۵۵/۵

الحديث رقم ۳۰۱۴]۔ وابن ماجه فی ۱۰۰۱/۲ الحديث رقم ۳۰۱۱۔ واحمد فی المسند ۱۳۷/۴۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن عبد اللہ بن صفوان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے ماموں سے نقل کیا ہے اس کو یزید بن شیبان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کہتے ہیں کہ ہم میدان عرفات میں اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر تھے۔ عمرو اس ٹھہرنے کی جگہ کو امام سے بہت دور بیان کرتا تھا۔ ہمارے پاس مربع انصاری کے بیٹے آئے پھر کہا کہ میں نبی کریم ﷺ کا تمہاری طرف اپنی ہوں۔ حضور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں اپنی عبادت کی جگہ پر ٹھہرو۔ پس تحقیق تم اوپر میراث کے ہو۔ یعنی متابعت کے لحاظ سے اپنے باپ کی میراث یعنی ابراہیم علیہ السلام کی میراث پر ہوں۔ اس کو امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ عرب کی ہر قوم و قبیلہ پہلے زمانے میں عرفات کے مقام پر ایک موقف معین پر ٹھہرا کرتا تھا اور قبیلہ یزید بن شیبان آپ ﷺ کے موقف سے بہت دور تھا۔ امام کے موقف سے رسول اللہ ﷺ کا موقف اس سے عبارت ہے پس انہوں نے چاہا کہ حضور ﷺ سے عرض کریں کہ ہم آپ ﷺ کے پاس کھڑے ہوں تو آپ ﷺ نے ایک صحابی ابن مربع ان کا نام تھا ان کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے ہی قدیمی موقف پر ٹھہرے رہو جو کہ تمہارے باپ دادا سے چلا آتا ہے۔ اپنے مشاعر پر ہی رہو۔ وہاں سے منتقل نہ ہو کیونکہ عرفات کا میدان تمام ہی موقف ہے امام سے دوری اور نزدیکی میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بات ان کی تسلی کے لیے کہلا بھیجی تاکہ آپس میں خلاف و نزاع واقع نہ ہو۔

موقفوں کا بیان

۵/۲۳۶۵ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْفِقٌ وَكُلُّ مَنَى مَنَحَرٌ وَكُلُّ الْمَزْدَلِفَةِ مَوْفِقٌ وَكُلُّ فِجَاجٍ مَنَكَّةٌ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ۔ (رواہ ابو داؤد والدارمی)

اخرجه ابو داؤد فی سننه ۴۷۸/۲ الحديث رقم ۱۹۳۷۔ وابن ماجه ۱۰۱۳/۲ الحديث رقم ۳۰۴۸۔ والدارمی ۷۹/۲

الحديث رقم ۱۸۷۹۔ واحمد فی المسند ۳۲۶/۳۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا عرفہ کا میدان ٹھہرنے کی جگہ ہے اور جو جگہ منی میں ہے ذبح کرنے کی ہے اور جو جگہ مزدلفہ میں ہے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور تمام راہیں مکہ کی راہیں ہیں اور ذبح کرنے کی جگہیں ہیں اس کو ابو داؤد اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حدیث پاک میں یہ بیان کیا ہے مکہ میں جانے کے لیے جو بھی راستہ اختیار کریں وہی درست ہے اور مکہ میں جس جگہ ہدی ذبح کریں درست ہے اس لیے کہ اس کو حرم میں ذبح کرنا چاہیے اور مکہ مکرمہ حرم میں واقع ہے لیکن منی میں ذبح کرنے کی عادت ہے قربانی کے دن یعنی دسویں ذی الحجہ کو منی میں ٹھہرتے ہیں وہاں ذبح کرتے ہیں اور مقصود اصل جواز ہے ورنہ حضور ﷺ کے وقوف کی جگہ اور ذبح کی جگہ دوسری راہ سے افضل ہے۔

سواری پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا جائز ہے

۶/۲۳۶۶ وَعَنْ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ

فَأَنِمَّا فِي الرِّكَابَيْنِ - (رواه ابوداؤد)

اخرجه ابوداؤد فی ۴۶۹۱۲ الحديث رقم ۱۹۱۷ - واحمد فی المسند ۳۰۱۵۔

ترجمہ: حضرت خالد بن ہودہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ عرفہ کے دن لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے یعنی میدان عرفات میں اونٹ پر دونوں رکابوں پر کھڑے ہو خطبہ دے رہے تھے۔ اس کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: آپ ﷺ نے بلند ہونے کے لیے رکابوں پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ دور اور نزدیک والے سب سنیں اور متبع ہو جائیں۔

بہترین دُعا عرفہ کے دن کی دُعا ہے

۷/۲۳۶۷ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - (رواه الترمذی وروی مالک عن طلحة ابن عبید اللہ الی قولہ لا شریک لہ)

اخرجه الترمذی فی سننه ۵۳۴۱۵ الحديث رقم ۳۵۸۵۔

ترجمہ: عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے اپنے باپ یعنی شعیب سے انہوں نے اپنے دادا سے یعنی عبد اللہ بن عمرو سے نقل کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا دعاؤں میں سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے یعنی میدان عرفات میں یا ہر جگہ اور بہترین اس چیز کی کہ جو میں نے یا دوسرے نبیوں نے مجھ سے پہلے کی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور مالک نے طلحہ بن عبید سے لا شریک لہ تک نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے یعنی وہ دعا جو میدان عرفات میں کی جائے۔

عرفہ کے دن شیطان کی رسوائی

۸/۲۳۶۸ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرْبُزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا رَأَى الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلَا أَذْخَرُ وَلَا أَحَقَرُ وَلَا أَغْضَطُ مِنْهُ فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا يَرَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِلَّا مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ فَقِيلَ مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ؟ قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ رَأَى

جَبْرِئِلَ يَرْعَى الْمَلَائِكَةَ. (رواہ مالک مرسلًا وفی شرح السنۃ بلفظ المعصیح)

اخرجه مالک فی ۴۲۲/۱ الحدیث رقم ۲۴۵ من کتاب الحج والبعوی فی شرح السنۃ ۱۵۸/۷ الحدیث رقم ۱۹۳۰۔
ترجمہ: حضرت جبریل بن عبد اللہ بن کریم علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو عرفہ کے دن کے برابر کسی اور دن نہیں دیکھا گیا کہ جس میں وہ بہت ذلیل اور راندہ ہوا اور بہت حقیر ہوا اور اپنے سے بہت غصے ہوا یعنی شیطان کو ہمیشہ نیکیاں دیکھ کر غصہ آتا ہے اور خوار ہوتا ہے اور عرفہ کے دن خاص طور پر سب دنوں سے زیادہ خوار و غضبناک ہوتا ہے اس وجہ سے کہ وہ ہر خاص و عام پر رحمت کو اترتا ہوا دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑے گناہوں کو معاف کر دینا اور بدر کے دن اس کو دیکھا گیا ہے کہ اس کی خواری عرفہ کے دن کی طرح تھی کیونکہ اسی دن مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی اور ان کو عزت ملی اور شوکت اسلام حاصل ہوئی پس تحقیق شیطان نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کی صفوں کو ترتیب دے رہے ہیں یعنی مشرکین سے لڑائی کرنے کے لیے صفوں کو ترتیب دے رہے ہیں۔ اس کو امام مالکؒ نے بطریق ارسال نقل کیا ہے اور شرح السنۃ میں یہ حدیث لفظ مصاح کے ساتھ روایت کی ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان عرفہ کے دن مسلمانوں پر خدا کی رحمت کو اترتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس دن بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے اور ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اس طرح بدر کے دن بھی اس کا یہی حال ہوا تھا کہ مسلمانوں کی عزت اور شوکت اسلام دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا اور نہایت ذلیل و خوار ہوا۔

عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یعنی حاجیوں پر فخر کرتا ہے

۹/۲۳۶۹ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَاْمِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْفًا غَيْرًا صَاحِبِينَ مِنْ كُلِّ لَفْجٍ عَمِيقٍ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبِّ فُلَانٌ كَانَ يَرْهَقُ وَفُلَانٌ وَفُلَانَةٌ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ عَتِيقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ۔

اخرجه البغوی فی شرح السنۃ ۱۵۹/۷ الحدیث رقم ۱۹۳۱۔

ترجمہ: حضرت جابر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت عرفہ کا دن ہوتا ہے تحقیق اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف (اپنی رحمت و احسان و کرم کے ساتھ) نزول فرماتا ہے پھر حاجیوں کے ساتھ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندوں کی طرف دیکھو کہ میرے پاس پرانگندہ بال اور گرد آلود ہونے کی حالت میں دور سے آئے ہیں یعنی لبیک و ذکر کے ساتھ کہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ تحقیق میں نے ان کو بخش دیا ہے ان کو فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار فلاں شخص گناہ کرتا ہے اور فلاں شخص اور فلاں عورت گناہ کرتی ہے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق میں نے ان کو بھی بخش دیا ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ نے لوگوں کو آگ سے آزاد کیا ہو سوائے عرفہ کے دن کے۔ اس کو شرح السنۃ میں نقل کیا گیا ہے۔

تشریح ﴿۱﴾ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھے دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور بخشش مانگ رہے ہیں اور میں نے ان کو بخش دیا ہے اور گناہ گاروں کو بھی آگ سے نجات دے دی ہے۔

الفصل الثالث:

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ کو وقف عرفہ کا حکم فرمایا

۱۰/۲۳۷۰ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمَزْدَلِفَةِ وَكَانَ يُسْمَوْنَ الْحُمْسَ فَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهٗ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ بِهَا ثُمَّ يُفِضُ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۸۶۱۸۔ الحدیث رقم ۴۵۲۰۔ ومسلم فی ۸۹۳۱۲ الحدیث رقم (۱۵۱-۱۲۱۹)۔ وابوداؤد

فی ۴۶۶۱۲ الحدیث رقم ۱۹۱۰۔ والترمذی فی ۲۳۱۱۳ الحدیث رقم ۸۸۴۔ والنسائی ۲۵۴۱۵ الحدیث رقم ۳۰۱۲۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرمایا کہ قریش اور ان کے تابعین مزدلفہ میں کھڑے ہوتے تھے اور قریش خمس نام رکھتے جاتے تھے یعنی شجاع اور تمام عرب میدان عرفہ میں ٹھہرا کرتے تھے پس جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو حکم فرمایا یہ کہ عرفات میں آئیں اور اس میں ٹھہریں اور پھر وہاں سے لوٹیں پس اللہ تعالیٰ کے اس قول کے یہی معنی ہیں۔ پھر اس جگہ سے جہاں سے لوگ پھرتے ہیں۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿۲﴾ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میدان عرفہ میں وقف کریں اور پھر وہاں سے لوٹیں۔

آپ ﷺ کی دعا اُمت کے حق میں قبول ہونے پر شیطان کا وایلا کرنا

۱۱/۲۳۷۱ وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ مَرْدَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَاجْتَبَىٰ إِلَيْهِ قَدْ غَفَرَتْ لَهُمْ مَا خَلَا الْمَطَالِمَ فَإِنِّي أَخِذْتُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ قَالَ أَيْ رَبِّ إِنْ هُنَّ أُعْطِيَتِ الْمَظْلُومُ مِنَ الْجَنَّةِ وَغَفَرَتْ لِلطَّالِمِ فَلَمْ يُجِبْ عَشِيَّتَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمَزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَاجْتَبَىٰ إِلَيْهِ مَا سَأَلَ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُؤُ بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا فَمَا الَّذِي أَضْحَكَكَ اللَّهُ سَنَكَ قَالَ إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اسْتَجَابَ دُعَائِي وَغَفَرَ لَأُمَّتِي أَخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَخْفُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالْبُيُوتِ فَاضْحَكُنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ۔ (رواه ابن ماجه روى البيهقي في كتاب البعث والنشور نحوه)

اخرجه ابن ماجه فی ۱۰۰۲۱۲ الحدیث رقم ۳۰۱۳۔ واحمد فی المسند ۱۴/۴۔

ترجمہ: حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی اُمت کے واسطے عرفہ کی شام کو بخشش کی دعا مانگی۔ پس آپ ﷺ کی دعا قبول کی گئی اور فرمایا کہ تحقیق میں نے سوائے بندوں کے حقوق کے ان کو بخش دیا ہے۔ پس تحقیق میں مظلوم کے واسطے ظالم سے حق لوٹا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اے میرے رب اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت کی نعمتوں میں سے نوازا اس کے حق کے بدلے جو ظالم نے لیا ہے اور ظالم کو بخش دے پس عرفہ کی شام کو قبول نہ کی گئی پھر جب حضور ﷺ نے مزدلفہ میں صبح کی پھر دعا مانگی پس دعا قبول کی گئی اس چیز کی جو مانگی تھی پس راوی نے کہا کہ حضور ﷺ نے یا راوی نے کہا کہ مسکرائے پس حضور ﷺ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں کہ یہ وقت ہنسنے کا وقت نہیں تھا۔ یعنی مقتضائے حال اس ساعت کا نہیں ہے کہ تم ہنسو۔ پس کس چیز نے آپ ﷺ کو ہنسیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے دانتوں کو ہنسائے یعنی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تحقیق خدا نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق خدا کے دشمن ابلیس نے جب یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے اور میری اُمت کو بخش دیا ہے پس اپنے سر پر مٹی ڈالنی شروع کی اور ہلاکت اور وکیل کے ساتھ پکارنا شروع کر دیا تو کہنے لگا بِالْوَيْلِ وَالْوَيْلِ پس مجھے اس کے اضطراب نے ہنسیا۔ اس کو ابن ماجہ نے اور بیہقی نے کتاب البعث والنشور میں اس کی مانند نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت عام ہے کہ حق تعالیٰ اپنے حقوق کو بھی بندوں کے حقوق بھی بخش دیں گے لیکن یہ قید لگانے کے قابل ہے کہ جو حضور ﷺ کے ساتھ اس سال حج میں تھے ان کے لیے یہ بات ہے یا اس کے حق میں ہے کہ جس کا حج مقبول ہو۔ کہ فسق و فجور حج میں نہ واقع ہو یا اس ظالم پر محمول ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے لیکن ادائے حقوق سے عاجز ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ جَانَا چاہیے کہ نبی کریم ﷺ کی شفاعت ہر مسلمان کو پہنچے گی خواہ صالح ہو یا گنہگار ہو۔ پس اللہ تعالیٰ شفاعت کی وجہ سے جنت میں ان کے درجات بلند کر دے گا اور اکثر گنہگاروں کو بخش دے گا پھر ان کو جنت میں داخل کرے گا اور جو لوگ دوزخ میں ہونگے پس حضور ﷺ کی شفاعت کا اثر ان کے حق میں یہ ہوگا کہ عذاب کم ہو جائے گا اور اس کی مدت کم ہو جائے گی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی مغفرت ان شاء اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خواہ صالح ہو خواہ فاجر ہو پس صالح کے تو درجے جنت میں بلند ہونگے اس چیز سے زیادہ کہ وہ عمل کی وجہ سے اس کا مستحق تھا اور فاجر کو بغیر عذاب کے جنت میں داخل کرے گا یا اس کی عذاب کی مدت کم کر دے گا پس یہ بھی مغفرت کی ایک قسم ہے۔ مولانا ولی اللہ۔

بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ

عرفات اور مزدلفہ سے واپسی کا بیان

الفصل الاول:

آپ ﷺ میدان عرفات سے کس طرح لوٹے تھے

۱/۲۳۷۱ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سِئِلَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقُ فَإِذَا وَجَدَ فُجُوءَ نَصٍّ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی ۵۱۸/۳، الحديث رقم ۱۶۶۶ - ومسلم فی صحيحه ۹۳۶/۲ الحديث رقم (۲۸۳ - ۱۲۸۶) - والنسائي فی سننه ۲۵۸/۵ الحديث رقم ۳۰۲۳ - والدارمي فی ۸۰/۲ الحديث رقم ۱۸۸۰ - ومالك فی الموطأ ۳۹۲/۱ الحديث رقم ۱۷۶ - واحمد فی المسند ۲۱۰/۵ -

ترجمہ: حضرت ہشام بن عمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے نقل کی ہے یعنی عروہ رضی اللہ عنہ سے عروہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم ﷺ حجۃ الوداع میں کس طرح چلتے تھے جس وقت میدان عرفات سے لوٹے؟ فرمایا کہ تیز چلتے تھے پس جب کشادہ راستہ پاتے تو اپنی سواری دوڑاتے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم ﷺ حجۃ الوداع میں کس طرح چلتے تھے؟ فرمایا: جب لوٹتے تھے تو تیز چلتے تھے اور راستے کو کشادہ پاتے تو اپنی سواری دوڑاتے۔

اونٹوں کو تیز چلنے کے لیے مارنا منع ہے

۲/۲۳۷۲ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا لِلْإِبِلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبَرَّ لَيْسَ بِالْإِيصَاعِ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحيحه ۵۲۳/۳ - الحديث رقم ۱۶۷۱ -

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ عرفہ کے دن میدان عرفات سے منی کی طرف لوٹے۔ پس حضور ﷺ نے اپنے پیچھے زجر شدید یعنی بلند آواز کے ساتھ جانوروں کا ہانکنا بلند آواز کے ساتھ اور اونٹوں کو مارنا سنا۔ پس آپ ﷺ نے اپنے کوڑے کے ساتھ لوگوں کی طرف اشارہ کیا یعنی تاکہ وہ حضور ﷺ کی طرف متوجہ ہوں اور حضور ﷺ کی بات سنیں اور فرمایا اے لوگو! تمہارے لیے آرام سے چلنا لازم ہے اس لیے کہ تحقیق دوڑانا نیکی نہیں

ہے۔ اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ نیکی فقط دوڑانے میں ہی نہیں ہے بلکہ حج کے افعال ادا کرنے اور منوعات سے پرہیز کرنے میں ہے۔ حاصل یہ ہے نیکیوں کی طرف جلدی کرنا بہت خوب ہے لیکن اس طرح سے نہیں کہ جو مکروہات کی طرف پہنچے اور اس پر گناہ مرتب ہوں۔ پس اس حدیث میں اور پہلی حدیث میں منافات نہ ہوئی۔

آپ ﷺ ہمیشہ لبیک کہتے رہے

۳/۲۳۷۳ وَعَنْهُ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ رَذِفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ ارْتَدَفَ الْفُضْلُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَى فَكَلَاهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبِسِي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۳۲/۳۔ الحدیث رقم ۱۶۸۶-۱۶۸۷۔ ومسلم فی صحیحہ ۹۳۱/۲ الحدیث رقم (۲۶۶-۱۲۸۰)۔ والترمذی فی سننہ ۲۶۰/۳ الحدیث رقم ۹۱۸۔ والنسائی فی ۲۷۶/۵ الحدیث رقم ۳۰۸۱۔ وابن ماجہ ۱۰۱۱/۲ الحدیث رقم ۳۰۴۰۔ والدارمی فی ۸۷/۲ الحدیث رقم ۱۹۰۴۔ واحمد فی المسند ۱۱۴/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ اُسامہ بن زیدؓ نبی کریم ﷺ کے پیچھے عرفہ سے مزدلفہ تک سوار تھے پھر فضل کو مزدلفہ سے منیٰ تک پیچھے بٹھایا۔ پس دونوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ ہمیشہ لبیک کہتے رہے یہاں تک کہ حجرۃ العقبہ پر کنکریاں پھینکیں یعنی نحر کے دن جب حجرۃ العقبہ پر کنکریاں پھینکیں تو لبیک کہنا موقوف کیا۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ حجرۃ العقبہ پر کنکریاں پھینکنے کے وقت تک لبیک کہتے

رہے۔

مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو مزدلفہ میں جمع کرنا

۴/۲۳۷۴ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِاقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى آثَرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۲۳/۳۔ الحدیث رقم ۱۶۷۳۔ وابوداؤد فی سننہ ۴۷۴/۲ الحدیث رقم ۱۹۲۶۔ واحمد فی المسند ۵۶/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھی۔ یعنی عشاء کے وقت میں دونوں اکٹھی پڑھیں ان میں سے ہر ایک کے لیے تکبیر کہی یعنی مغرب کے لیے علیحدہ تکبیر کہی اور عشاء کے لیے الگ تکبیر کہی اور ان دونوں کے درمیان اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے پیچھے نفل نہ پڑھے۔ اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا

ہے۔

تشریح ﴿ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے ان نمازوں کے بعد جو نفل پڑھنے کی نفی کی ہے تو اس سے سنتوں اور وتروں کی نماز ان دونوں کے بعد لازم نہیں آتی۔ باب قصۃ حجة الوداع میں جو بڑی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے گزری اور اس میں جو یہ جملہ وَلَمْ یُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا۔ اس کی شرح میں ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے جب مغرب وعشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھ چکے تو مغرب اور عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھے۔

مغرب اور عشاء کی نمازوں کو مزدلفہ میں جمع کرنا

۵/۲۳۷۵ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۳۰/۳۔ الحدیث رقم ۱۶۸۲۔ و مسلم فی ۹۳۸/۲ الحدیث رقم (۲۹۲۔ ۱۲۸۹)۔
وابوداؤد فی سننہ ۴۷۷/۲ الحدیث رقم ۱۹۳۶۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو نماز اپنے وقت میں ادا کرتے ہی دیکھا سوائے دو نمازوں کے مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں یعنی مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھی اور فجر کی نماز اس دن یعنی مزدلفہ میں فجر کے دن اس کے وقت سے پہلے پڑھی۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دو نمازوں کے علاوہ اور نماز ظہر اور عصر کی بھی آپ ﷺ نے عرفات میں جمع کی ہیں کہ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی۔ اس کا ذکر یہاں نہیں کیا اس لیے کہ ہر کوئی دن کے ہونے کی وجہ سے جانتا ہے اس کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وقت سے پہلے مراد یہ ہے کہ معمولی وقت سے پہلے تاریکی میں کہ اجالے میں پڑھتے تھے نہ یہ کہ فجر سے پہلے پڑھی۔ اس لیے کہ فجر کی نماز وقت سے پہلے پڑھنا تمام علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔

مزدلفہ کی رات ضعیفوں کو پہلے بھیج دینا

۶/۲۳۷۶ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آتَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ۔

(متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۲۶/۳۔ الحدیث رقم ۱۶۷۸۔ و مسلم فی ۹۴۱/۲ الحدیث رقم (۳۰۱۔ ۱۲۹۳)۔
وابوداؤد فی السنن ۴۷۹/۲ الحدیث رقم ۱۹۳۹۔ و الترمذی فی ۲۴۰/۳ الحدیث رقم ۸۹۳۔ والنسائی ۲۶۱/۵ الحدیث رقم ۳۰۳۲۔ واحمد فی المسند ۳۴۴/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں ان شخصوں میں سے تھا کہ جنہیں نبی کریم ﷺ نے مزدلفہ کی رات میں اپنے ضعیفوں کے معاملے میں آگے بھیجا۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں یہ بیان یا ہے کہ آپ ﷺ نے ضعیفوں کو پہلے روانہ کر دیتے تھے کہ ضعیفوں سے مراد عورتیں

اور بچے ہیں ان کو منیٰ کی جانب حضور ﷺ نے پہلے روانہ کر دیا تھا۔ ان میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے اور آپ ﷺ صبح کے روشن ہونے کے بعد اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے سوار ہوئے سنت یہی ہے اور حضور ﷺ نے اہل والوں کو بھیج دیا تاکہ ازدحام سے بچ جائیں اور روایت میں ہے چنانچہ وہ آگے آتی ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے ان لوگوں کو روانہ کیا اور فرمایا کہ حجرۃ العقبہ کی رمی نہ کرنا اگر آفتاب کے نکلنے کے بعد امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے اور بعض روایتوں میں مطلق آیا ہے کہ جاؤ اور حجرۃ العقبہ کی رمی کرو اور اس پر امام شافعیؒ اور امام احمدؒ نے عمل کیا ہے ان کے نزدیک آدھی رات کے بعد رمی جمار جائز ہے۔

رمی جمار کے لیے کنکریاں مزدلفہ کے راستے سے اٹھائیں

۷/۲۳۷۷ وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَةِ عَرَفَةَ وَعَدَاةَ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَهُوَ كَأَنَّ نَافَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مَنَى قَالَ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجُمُرَةُ وَقَالَ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجُمُرَةَ۔

اخرجه مسلم في صحيحه ۹۳/۱۲ الحديث رقم (۲۶۸) - (۱۲۸۲) - والنسائي في ۲۶۸/۵ - الحديث رقم ۳۰۵۵۔

ترجمہ: حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پیچھے سوار تھے یعنی جب کہ مزدلفہ سے منیٰ کو چلے۔ کہ حضور ﷺ نے عرفہ کی شام کو اور مزدلفہ کی صبح کو لوگوں کو فرمایا کہ جس وقت کہ لوٹیں اور اپنی سواروں کو ہانکا اور فرمایا تم کو کنکریاں کا اٹھانا لازم ہے یعنی اس میدان سے مارنے والی کنکریاں کی طرح حجرہ پر ماری جائیں یعنی مناروں پر اور فضل نے کہا ہے رسول خدا ﷺ ہمیشہ لبیک کہتے رہے یہاں تک کہ کنکریاں حجرہ کو ماریں یعنی حجرۃ العقبہ کو جب پہلی کنکری ماری تو لبیک کہنا بند کر دی۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے عرفہ کی شام کو یعنی جب کہ عرفات کے میدان سے مزدلفہ کو چلے اور اس وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے ساتھ سوار تھے اور مزدلفہ کی صبح کو یعنی جب کہ مزدلفہ سے منیٰ کو آئے تھے اور اس وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے ساتھ سوار تھے اور محسر منیٰ سے ہے اور وہ مزدلفہ کے آخر میں منیٰ کے قریب ایک جگہ ہے اور خذف کہتے ہیں چھوٹی کنکری کو یا کھجور کی گٹھلی کو جسے شہادت کی دونوں انگلیوں کے درمیان رکھ کر پھینکتے ہیں اور مراد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں پٹنے کے دانے کے برابر ہوتی ہیں یہاں سے اٹھالو اور کنکریاں جس جگہ سے بھی اٹھائیں جائز ہے۔ مگر وہ کنکریاں مناروں پر ایک دفعہ ماری جائیں۔ پھر ان کو نہ اٹھائے اور اگر ان میں سے بھی اٹھائے تو جائز ہے لیکن خلاف اولیٰ ہے اور شرح نقایہ میں لکھا ہے کہ ان کنکریوں سے رمی کرنی کفایت تو کرتی ہے لیکن یہ فعل برا ہے اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ سات کنکریاں اٹھائے۔ حجرۃ العقبہ کی رمی کے لیے یا ستر کنکریاں اٹھائے کہ سات کنکریاں تو آج کام آئیں گی اور تریسٹھ اور دونوں کے لیے رکھے۔

میدانِ محسر میں آپ ﷺ اونٹنی تیز چلایا کرتے تھے

۸/۲۳۷۸ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقَاضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسَّرٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى النُّعْدِ وَقَالَ لِعَلِيٍّ لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ غَايِمٍ هَذَا لَمْ أَجِدْ هَذَا النُّعْدِ فِي الصَّحَابَةِ إِلَّا فِي جَمَاعِ التِّرْمِذِيِّ مَعَ تَقْدِيمٍ وَتَاخِيرٍ۔

اخرجه ابو داؤد فی سننہ ۴۸۲۱۲ الحدیث رقم ۱۹۴۴۔ والترمذی فی ۲۳۴۱۳ الحدیث رقم ۸۸۶۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ نبی کریم ﷺ مردلفہ سے چلے اور ان پر چلنے میں تسکین تھی اور لوگوں کو حکم کیا آہستہ چلنے کے ساتھ اور اپنی اونٹنی میدانِ محسر میں جلدی چلائی اور لوگوں کو حدف کی کنکریاں (یعنی چنے کے برابر) مارنے کا حکم دیا اور حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا: شاید میں تم کو اس سال کے بعد نہ دیکھوں گا۔ صاحب مشکوٰۃ نے کہا ہے کہ میں نے یہ حدیث صحیحین (یعنی بخاری و مسلم) میں نہیں پائی مگر جامع ترمذی میں تقدیم و تاخیر کے ساتھ پائی ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا یعنی میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا لہذا مجھ سے دین کے احکام اور حج کے احکام معلوم کر لو۔ اس سبب سے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ کہ حضور ﷺ نے اس حج کے موقع پر احکامات کی تعلیم دی اور اپنے صحابہ کو الوداع کیا اور آئندہ سال یعنی ہجرت کے گیارہویں سال ربیع الاول کو حضور ﷺ کا انتقال ہوا۔ صاحب مشکوٰۃ نے کہا ہے میں نے یہ حدیث بخاری و مسلم میں نہیں پائی مگر جامع ترمذی (اور ابو داؤد ۱۲) میں تقدیم و تاخیر کے ساتھ پائی یعنی صاحب مصابح اس کو پہلی فصل میں لائے ہیں تو یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ حدیث صحیحین کی ہے پس ان کو چاہیے تھا کہ یہ حدیث پہلی فصل میں نہ لاتے دوسری فصل میں لاتے اور تقدیم و تاخیر کی وجہ سے اعتراض پھر بھی باقی رہتا ہے۔

الفصل الثانی:

آفتاب کو پگڑیوں کے ساتھ تشبیہ دینا

۹/۲۳۷۹ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَذْفَعُونَ مِنْ عَرَفَةَ حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حِينَ تَكُونُ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِي وُجُوهِهِمْ وَإِنَّا لَا نَذْفَعُ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَنَذْفَعُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ هَدَيْنَا مُخَالَفَ لِهَذِي عِبَادَةِ الْأَوَّلَانِ وَالشُّرْكِ۔ (رواه البيهقي في شعب الایمان وقال خطبنا وساقه ونحوه)

اخرجه الحاكم فی المستدرک ۲۷۷/۲۔

ترجمہ: حضرت محمد بن قیس بن مخرمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے خطبہ دیا پس فرمایا کہ تحقیق اہل

جاہلیت عرفات سے اس وقت واپس آئے تھے گویا کہ آفتاب ایسا ہو گیا جیسا کہ مردوں کی پگڑیاں ان کے چہروں کے اوپر اور تحقیق ہم عرفات سے نہیں چلیں گے یہاں تک کہ آفات غروب ہو اور ہم مزدلفہ سے آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے چلتے۔ ہمارا طریقہ بت پوچنے والوں اور شرک کرنے والوں کے طریقے سے مختلف ہے۔

تشریح ﴿مردوں کی پگڑی یعنی جس طرح پگڑی کا کچھ حصہ بل دینے سے اندر ہو جاتا ہے اور کچھ حصہ باہر رہتا ہے اس طرح سورج کا بھی کچھ حصہ ڈوب گیا اور کچھ باہر تھا۔

اور اس طرح مزدلفہ سے بھی اس وقت چلے جب آدھا سورج طلوع تھا اور آدھا نہیں یعنی سورج نکل رہا تھا۔ اور اصل نسخہ میں رواہ کے بعد سفیدی چھوٹی ہوتی ہے اور ایک صحیح نسخہ میں حاشیے پر لکھا ہے کہ (رواہ البیہقی فی شعب الايمان وقال خطبنا وساقه ونحوه)۔

رات میں رمی جائز نہیں

۱۰/۲۳۸۰ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ اُغْلِمَةً بَنَى عَبْدُ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمْرَاتٍ فَجَعَلَ يُلْطَحُ اَفْحَاذًا وَيَقُوْلُ اُبَيِّنِي لَا تَرْمُوا الْجُمُرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ۔

(رواہ ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ)

اخرجه ابوداؤد فی سننه ۴۸۰/۲ الحديث رقم ۱۹۴۰۔ والنسائی فی ۲۷۰/۵ الحديث رقم ۳۰۶۴۔ وابن ماجہ ۱۰۰۷/۲ الحديث رقم ۳۰۲۵۔ واحمد فی المسند ۳۲۶/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہمیں مزدلفہ کی رات میں روانہ کیا اور عبدالمطلب کے خاندان کے ہم کئی بچے تھے اور گدھے ہماری سواری تھے۔ حضور اکرم ﷺ ہماری رانوں پر ہاتھ مارتے اور فرماتے تھے میرے چھوٹے بچو! جب تک سورج نہ نکلے تم منارے پر کنکریاں نہ پھینکنا۔ (ابوداؤد نسائی ابن ماجہ)

تشریح ﴿یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رات میں رمی جائز نہیں یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور اکثر علماء کا مسلک ہے۔

جبکہ امام شافعی کے نزدیک آدمی رات کے بعد رمی جائز ہے نیز طلوع فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اگرچہ تمام علماء کے نزدیک جائز ہے لیکن امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کراہت کے ساتھ جواز کے قائل ہیں۔ حنفی مسلک کے مطابق طلوع آفتاب کے بعد رمی مستحب ہے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی مستدل حدیث اور اس کی تاویل

۱۱/۲۳۸۱ اَوَعَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ اَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجُمُرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَاَقَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا۔

(رواہ ابوداؤد)

اخرجه ابو داؤد فی ۴۸۱/۲ الحدیث رقم ۱۹۴۲۔

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بقر عید کی رات میں مزدلفہ بھیج دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے نماز فجر سے پہلے جمرہ عقبہ پر کنکریاں ماریں پھر وہاں سے آئیں اور طواف افاضہ کیا اور یہ وہ دن تھا جس میں آپ ﷺ ان کے پاس تھے یعنی یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی باری کا دن تھا۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں ان کے رات کے بھیجنے کی طرف اور رات میں رمی کرنے کے سبب کی طرف اور دن کے وقت طواف افاضہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ بخلاف اور عورتوں کے کہ انہوں نے آئندہ رات طواف افاضہ کیا اور امام شافعی نے اس حدیث سے فجر سے پہلے رمی جمرہ کرنے کے بارے میں دلیل پکڑی ہے۔ اگرچہ افضل فجر کے بعد ہے اور دوسروں نے کہا یہ رخصت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو تھی اور رمی دن کے وقت فجر سے پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کی وجہ سے درست نہیں ہے اور ممکن ہے کہ فجر کی نماز سے مراد وقت فجر ہو۔

مقیم یا عمرہ کرنے والا حجر اسود کو بوسہ دے

۲/۲۳۸۲ او عن ابن عباس قال یلکب المقیم أو الممتعمر حتی تستلم الحجر۔

(رواہ ابو داؤد وقال وروی ابو قحافہ علی ابن عباس)

اخرجه ابو داؤد فی سننہ ۴۰۶/۲ الحدیث رقم ۱۸۱۷۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں کہ مقیم یا عمرہ کرنے والا لبیک کہے یہاں تک کہ حجر اسود کو بوسہ دے۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے یعنی مرفوع اور ابو داؤد نے کہا ہے کہ جو روایت کی گئی ہے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے۔

تشریح: مقیم آدمی جو کہ عمرہ کرنے والوں میں سے مکہ کا رہنے والا ہو اور عمرہ کرنے والا جو کہ باہر سے آیا ہو اور عمرہ کرے۔ پس اتنوع کے لیے آتا ہے یہاں تک کہ بوسہ دے۔ مقصود یہ ہے کہ عمرے میں حجر اسود کو چومتے وقت لبیک موقوف کرے جیسے کہ حج میں جمرہ عقبہ کی رمی کے وقت موقوف کرتے ہیں۔

الفصل الثالث:

عرفات سے واپسی کا ذکر

۱۳/۲۳۸۳ عن یعقوب بن عاصم بن عروہ أنه سمع الشريد يقول أقضت مع رسول الله صلى الله

عليه وسلم فما مشيت قدما في الأرض حتى أتيت جمعا۔ (رواہ ابو داؤد)

اخرجه احمد فی المسند ۳۸۹/۴۔

ترجمہ: یعقوب بن عاصم بن عروہ تابعی سے روایت ہے کہ انہوں نے شریذ صحابی سے سنا کہ میں عرفات سے واپسی میں آپ ﷺ کے ساتھ تھا۔ پس آپ ﷺ کے پاؤں زمین پر نہ لگے یہاں تک کہ آپ ﷺ مزدلفہ میں آئے۔ اس کو ابو داؤد

نے نقل کیا ہے

تشریح: اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ ﷺ تمام راستے سوار ہو کر چلے پیادہ پا نہیں چلے نہ یہ کہ بالکل زمین پر اترے اس لیے کہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حضور ﷺ پہاڑ کے درے کی طرف تشریف لے گئے اور پیشاب کیا پھر وضو فرمایا اور اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! نماز کا وقت آ گیا ہے فرمایا نماز آگے ہے یعنی مزدلفہ میں پڑھیں گے۔

ظہر وعصر کی نماز جمع کرنا آپ ﷺ کی سنت ہے

۴/۲۳۸۴ اَوْ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوْسُفَ عَامَ نَزْلِ بَابِ الزُّبَيْرِ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ كَيْفَ نَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ سَالِمٌ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السَّنَةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّنَةِ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَفْعَلُ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَالِمٌ وَهَلْ يَتَّبِعُونَ ذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۱۳/۳۔ الحدیث رقم ۱۶۶۲۔

ترجمہ: حضرت ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ مجھ کو سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حجج یوسف نے اس سال مکہ میں عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، مکہ میں آ کر عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ہم کس طرح عرفہ کے دن ظہر میں؟ یعنی ظہر وعصر کی نماز وقوف سے پہلے پڑھیں یا درمیان میں یا پیچھے؟ پس سالم نے کہا اگر تو سنت کا ارادہ کرتا ہے تو ظہر وعصر عرفہ کے دن صبح سویرے پڑھ۔ پس عبد اللہ بن عمر نے کہا کہ سالم نے سچ کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سنت طریقہ ادا کرنے کے لیے ظہر وعصر کو جمع کرتے تھے۔ ابن شہاب نے کہا کہ میں نے سالم سے پوچھا کہ نبی کریم ﷺ نے اسی طرح کیا تھا؟ پس سالم نے کہا اس طرح نماز پڑھ اس معاملے میں ہم نبی کریم ﷺ کے طریقے کی اتباع کرتے ہیں۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حجج یوسف مشہور ظالم بادشاہ ہے جس نے ایک لاکھ اور بیس ہزار آدمی باندھ کر قتل کیے وہ عبد الملک بن مروان کی طرف سے مکہ میں عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر چڑھائی کر کے آیا تھا اور اس کے بعد ان کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان نے اسی سال حجج یوسف کو حایوں کا امیر بنا کر بھیجا اور اس کو حکم کیا حج کے تمام افعال میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال و احوال کی پیروی کرنا اور ان سے مسائل حج پوچھتے رہنا اور ان کی مخالفت نہ کرنا پس اس حالت میں ان سے یہ مسئلہ مذکورہ بھی پوچھا۔

بَابُ رَمِيِّ الْجِمَارِ

مناروں پر کنکریاں پھینکنے کا بیان

فائدہ: جمار اصل میں سنگریزوں کو کہتے ہیں اور جمار حج ان سنگریزوں کا نام ہے جو مناروں پر مارے جاتے ہیں اور جن

مناروں پر وہ نگریزے مارے جاتے ہیں ان پر جمار کے پھینکنے کی وجہ سے جمرات کہتے ہیں اور جمرات تین ہیں۔ جمرہ اولیٰ اور جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ۔ عید کے دن تو فقط جمرہ العقی پر ہی کنکریاں مارتے ہیں اور گیارہوں اور بارہویں اور تیرہویں ذی الحجہ کو تینوں پر کنکریاں مارتے ہیں اور ان پر کنکریاں مارنا واجب ہیں۔

الفصل الاول:

حج کرنے سے پہلے حج کے احکامات سیکھنے ضروری ہیں

۱/۲۳۸۵ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَأْسِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لِنَاخِدُوا مِنَّا سِغْكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۴۳/۲ الحدیث رقم (۳۱۰-۱۲۹۷)۔ و ابو داؤد فی سننہ ۴۹۵۱/۲ الحدیث رقم ۱۹۷۰۔
ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی سواری پر سوار ہو کر قربانی کے دن کنکریاں مارتے دیکھا اور آپ ﷺ ارشاد فرماتے تھے کہ افعال حج سیکھو۔ اس لیے کہ تحقیق میں نہیں جانتا۔ شاید میں اس حج کے بعد (آئندہ) حج نہ کر سکوں۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام شافعیؒ نے کہا ہے کہ قربانی کے دن جمرہ عقبہ کی رمی منیٰ میں سوار ہو کر کرے اور جو شخص منیٰ میں پیادہ یعنی پیدل پہنچے اس کو چاہیے کہ جمرہ عقبہ کی رمی پیدل چل کر کرے اور گیارہویں بارہویں کو پیدل چل کر رمی کرے اور تیرہویں تاریخ کو سوار ہو کر اور ہدایہ میں لکھا ہے کہ وہ رمی جس کے بعد میں رمی ہو۔ جیسے کہ جمرہ اولیٰ اور جمرہ وسطیٰ کی اس میں افضل ہے کہ پیادہ پا کرے۔ اس لیے کہ اس کے بعد کھڑا رہنا ہے اور دعا کرنا اور پیادہ پا حالت عاجزی کے قریب تر ہے اور جو کچھ کہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور ﷺ نے جمرہ عقبہ کی رمی قربانی کے دن سوار ہو کر کی اور دوسرے دنوں میں سب جمرات پر پیادہ رمی کی۔

کنکریاں پھینکنے کا طریقہ

۲/۲۳۸۶ وَعَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِطْلٍ حَصَى الْخَذَفِ۔

(رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۴۴/۲ الحدیث رقم (۳۱۳-۱۲۹۹)۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو خذف کی کنکریوں کی طرح یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ساتھ مناروں کو مارتے ہوئے دیکھا۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں کنکریاں پھینکنے کا طریقہ مختلف لکھا ہے۔ لیکن صحیح تریہ ہے کہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے سروں کو پکڑ کر یعنی چنگلی میں رکھ کر پھینکے اور معمول بھی اسی طرح ہے۔

چاشت کے وقت کنکریاں مارنا

۳/۲۳۸۷ وَعَنْهُ قَالَ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدُ ذَلِكَ لَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۷۹/۳۔ تعلیقاً۔ و اخرجہ مسلم فی ۹۴۵/۲ الحديث رقم (۳۱۴۔ ۱۲۹۹)۔ و ابوداؤد فی سننہ ۴۹۶/۲ الحديث رقم ۱۹۷۱۔ و الترمذی فی ۲۴۱/۳ الحديث رقم ۸۹۴۔ و النسائی فی ۲۷۰/۵ الحديث رقم ۳۰۶۳۔ و ابن ماجہ فی ۱۰۱۴/۲ الحديث رقم ۳۰۵۳۔ و الدارمی ۸۵/۲ الحديث رقم ۱۸۹۶۔ و احمد فی المسند ۳۱۹/۳۔
ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے قربانی کے دن چاشت کے وقت جس وقت دوپہر ڈھلی مناروں پر کنکریاں ماریں۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر مناروں پر کنکریاں ڈال دے پھینکے نہیں تو کافی ہے لیکن برا ہے بخلاف رکھ دینے کے یہ کافی بھی نہیں ہے۔ اور ضحوة آفتاب کے زوال سے پہلے تک کے وقت کو کہتے ہیں اور قربانی کے دن کے بعد یعنی ایام شریق جو کہ تیرہویں تک ہے زوال کے بعد رمی کرتے تھے۔ ابن ہمام نے کہا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ رمی کا وقت عید الضحیٰ کے دوسرے دن یعنی گیارہویں تاریخ کو زوال کے بعد ہوتا ہے اور اسی طرح تیسرے دن۔ پھر اگر مکہ کو جائے تو تیرہویں کی فجر سے پہلے چلا جائے اور اگر فجر ہونے کے بعد جائے تو رمی ضروری ہے اور اس دن زوال سے پہلے بھی رمی جائز ہے۔

اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں پھینکنا

۴/۲۳۸۸ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنْهُ عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يَكْبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ -

(متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۸۰/۳۔ الحديث رقم ۱۷۴۹۔ و مسلم فی صحیحہ ۹۴۲/۲ الحديث رقم (۳۰۵)۔ ۱۲۹۶)۔ و ابوداؤد فی السنن ۴۹۷/۲ الحديث رقم ۱۹۷۴۔ و الترمذی ۲۴۵/۳ الحديث رقم ۹۰۱۔ و النسائی فی ۲۷۴/۵ الحديث رقم ۳۰۷۲۔ و ابن ماجہ فی ۱۰۰۸/۲ الحديث رقم ۳۰۳۰۔ و احمد فی المسند ۴۵۸/۱۔
ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جمرہ کبریٰ کی طرف پہنچے۔ یعنی جمرۃ العقبہ کے پس خانہ کعبہ اپنے بائیں طرف کیا اور منیٰ کو اپنے دائیں طرف اور اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں پھینکتے تھے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسی طرح سے انہوں نے کنکریاں پھینکیں جن پر (یعنی حضور ﷺ پر) سورۃ بقرہ اتاری گئی۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جمرات کی رمی کرتے وقت خانہ کعبہ کو اپنے بائیں طرف کرنا اور منیٰ

کو دائیں طرف کرنا مستحب ہے کہ قبلہ رو کھڑا ہو اور نبیؐ نے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے تھے: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم اجعلہ حجاً مبروراً ذنباً مغفوراً وعملاً مشکوراً اور سورۃ بقرہ کو خاص اس لیے ذکر کیا ہے۔

کنکریاں پھینکنے کا طریقہ

۵/۲۳۸۹ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْتِحْمَارُ تَوُّ وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوُّ وَالسَّغْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوُّ وَالطَّوَافُ تَوُّ وَإِذَا اسْتَحْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَحْمِرْ بِتَوٍّ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۴۵/۲ الحدیث رقم (۳۱۵-۱۳۰۰)۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ استحماق ہے یعنی تین ڈھیلے کے ساتھ اور طاق عدد کنکریاں پھینکے یعنی سات کنکریاں پھینکے صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے اور خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا بھی طاق ہے یعنی سات بار چکر لگائے اور جس وقت تم میں سے کوئی دھونی لے تو اس کو چاہیے کہ طاق مرتبہ لے۔ یعنی تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ سات سات کنکریاں پھینکنا جرات پر واجب ہے اور سات مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے اور سات مرتبہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا جمہور علماء کے نزدیک فرض ہے اور ہمارے نزدیک پہلے چار چکر لگانا فرض باقی واجب ہیں۔

الفصل الثانی:

حضور ﷺ نے اونٹنی پر سوار ہو کر (جرمۃ العقبہ کی) رمی فرمائی

۶/۲۳۹۰ وَعَنْ قَدَامَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ وَلَيْسَ قِيلُ إِلَيْكَ إِلَيْكَ۔

(رواه الشافعی والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۴۷/۳ الحدیث رقم ۹۰۳۔ والنسائی فی ۲۷۰/۵ الحدیث رقم ۳۰۶۲۔ وابن ماجہ ۱۰۰۹/۲

الحدیث رقم ۳۰۳۵۔ والدارمی ۸۷/۲ الحدیث رقم ۱۹۰۱۔ واحمد فی المسند ۴۱۲/۳-۴۱۳۔

ترجمہ: قدامہ بن عبد اللہ بن عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو قربانی کے دن صہباء اونٹنی پر سوار ہو کر جرمۃ العقبہ پر کنکریاں پھینکتے ہوئے دیکھا۔ اونٹنی پر سوار ہو کر اس جگہ نہ مارنا تھا اور نہ ہانکنا تھا اور نہ یہ کہنا کہ ایک طرف ہو جاؤ۔ اس کو امام شافعی، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: صہباء اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ اس کی سفیدی سری کے ساتھ ملی ہوئی ہو اس طرح کہ بالوں کی نوکیں سرخ ہوں۔ الحاصل یہ کہ جیسے امیروں کے آگے چوکیدار اور نقیب اہتمام کرنے کے لیے چلتے ہیں اسی طرح حضور ﷺ کے آگے چلنے کا

معمول نہ تھا۔

۷/۲۳۹۱ وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِاقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ۔ (رواه الترمذی والدارمی وقال الترمذی هذا حديث حسن صحيح)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۴۷/۲ الحديث رقم ۱۸۸۸۔ والترمذی فی ۲۴۶/۲ الحديث رقم ۹۰۲۔ والدارمی فی ۷۱/۲ الحديث رقم ۱۸۵۳۔ واحمد فی المسند ۱۳۹/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مناروں کا مارنا اور صفا و مروہ کی رمی کرنا اللہ کی یاد کو قائم کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ ترمذی، دارمی اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر ایسے افعال ہیں کہ ان کا عبادت ہونا معلوم نہیں ہوتا لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لئے اور سعی کے دوران ماثورہ دعائیں پڑھنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔

منیٰ کی جگہ سب لوگوں کے لیے برابر ہے

۸/۲۳۹۲ وَعَنْهَا قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَبْنِي لَكَ بِنَاءً يَظْلُكَ بِمَنَى قَالَ لَا مَنَى مَنَاحُ مَنْ سَبَقَ۔

(رواه الترمذی وابن ماجہ والدارمی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۵۲۱/۲ الحديث رقم ۲۰۱۹۔ وابن ماجہ فی ۱۰۰۰/۲ الحديث رقم ۳۰۰۷۔ والدارمی ۱۰۰/۲ الحديث رقم ۱۹۳۷۔ واحمد فی المسند۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول! کیا ہم آپ ﷺ کے عمارت نہ بنادیں کہ جس سے آپ ﷺ سایہ حاصل کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ منیٰ اس شخص کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے جو پہلے پہنچے۔ اس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ خصوصیت اس میں سبقت کے ساتھ ہے نہ کہ مکان بنانے کے ساتھ یعنی منیٰ ایسی جگہ ہے کہ اس میں کسی کے لیے خصوصیت نہیں ہے جو منیٰ میں پہلے پہنچ جائے اس کا مستحق وہی ہے۔

الفصل الثالث:

ابن عمر رضی اللہ عنہما کے وقوف کا ذکر

۹/۲۳۹۳ عَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجُمُرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَقُوفًا طَوِيلًا يَكْبِرُ اللَّهُ وَيُسَبِّحُهُ وَيُحَمِّدُهُ وَيَدْعُو اللَّهَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَ جُمُرَةِ الْعَقَبَةِ۔ (مالك الموطأ)

اخرجه مالك فی الموطأ ۴۰۷/۱ الحديث رقم ۲۱۲ من كتاب الحج۔

ترجمہ: حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق ابن عمر رضی اللہ عنہما لمبا ٹھہرنے سے یعنی زیادہ دیر ٹھہرنے سے پہلے دو مناروں کے پاس ٹھہرتے اور اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمد للہ کہتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اور جمرۃ العقبہ کے نزدیک نہ

ٹھہرتے۔ اس کو امام مالکؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں دو مناروں سے مراد جمرہ اولیٰ اور وسطیٰ ہے۔ ابن عمرؓ جب رمی کر کے فارغ ہو جائے وہاں ٹھہر کر دعا وغیرہ کر کے دعا و آہ وزاری اور قیام کرنا مسنون ہے اور علماء نے لکھا ہے سورۃ بقرہ پڑھنے کی بقدر کھڑے رہنا چاہیے اور بعض اہل اللہ اتنا کھڑے رہتے ہیں کہ ان کے پاؤں پر درم آ جاتے ہیں اور دعا کے لیے جمرۃ العقبہ کے نزدیک نہیں ٹھہرتے تھے اور اس سے دعا بالکل ترک کرنا لازم نہیں آتا اور باب یوم النحر میں آئے گا کہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو اسی طرح دیکھا ہے۔

بَابُ الْهَدْيِ

یہ باب ہدی کے بیان میں ہے

فائدہ: ہدی زبر اور دال کے سکون کے ساتھ ان چار پایوں کا نام ہے کہ جو حرم میں ثواب کے لئے ذبح کئے جاتے ہیں خواہ بکری، دنبہ، بھیڑ ہو خواہ بیل، بھییس، داؤٹ ہو جو کہ قربانی میں شرط ہے۔ تو ان میں بکری اور اس کی طرح جانور کفایت کر جاتے ہیں یعنی کافی ہیں۔ مگر حالت جنابت میں طواف التزیارۃ کرے۔ یا حیض کی حالت میں جماع کرے یا وقوف عرفہ کے بعد سر منڈانے سے پہلے جماع کرے تو اس سے یہ کفایت نہیں کرتے مگر بدنہ یعنی اونٹ یا گائیں اور ہدی دو قسم پر ہے: واجب اور تطوع یعنی نفل پھر واجب ہدی کی کئی قسمیں ہیں: ۱۔ ہدی قرآن۔ ۲۔ ہدی تہنہ ۳۔ ہدی جنایات اور نذر کی ہدی اور ہدی احصار۔ اور ہدی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ بندہ ہدی بطور ہدیہ اللہ کے دربار میں بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرتا ہے۔

الفصل الاول:

ہدی کو قلاوہ پہنانا جائز ہے

۱/۲۳۹۳ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَسَلَّتِ الدَّمَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَا حِلَّتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَ بِالْحَجِّ - (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۱۲/۲ الحدیث رقم (۲۰۵ - ۱۲۴۳)۔ و ابوداؤد فی السنن ۳۶۲/۲ الحدیث رقم ۱۷۵۲۔
و الترمذی فی ۲۴۹/۳ الحدیث رقم ۹۰۶ والنسائی فی ۱۷۰/۵ الحدیث رقم ۲۷۷۴۔ والدارمی فی ۹۱/۲ الحدیث رقم ۱۹۱۲۔ واحمد فی المسند ۲۱۶/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ظہر کی نماز ذی الحلیفہ میں پڑھی۔ پھر اونٹنی منگوائی پھر اونٹنی کے داہنی کوہان کے کنارے میں رخم کیا اور خون صاف کر دیا اور گلے میں دو جوتیوں کا ہار ڈالا پھر اپنی اونٹنی پر

سوار ہوئے جس کا نام قصوا تھا پس جب اونٹنی نے آپ ﷺ کو اٹھایا اور بیدار مقام پر پہنچی تو آپ ﷺ نے حج کے لیے تلبیہ پڑھا۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ✽ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی کریم ﷺ حج کے لیے چلے اور ذی الحلیفہ میں پہنچے جو کہ اہل مدینہ کی میقات ہے تو ظہر کی نماز پڑھی پھر اپنی اونٹنی منگوائی کہ جس کو بطور ہدی کے لے کر چلے تھے پس اس کی کوہان کے داہنی جانب نیزہ مارا اور خون صاف کر کے ہدی کی علامت کے لئے دو جوتیوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا تا کہ لوگ اس نشانی سے معلوم کر لیں کہ ہدی ہے اس سے کوئی تعرض نہ کریں اگر راستہ بھول جائے تو لوگ پہنچا دیں اور اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ جس اونٹنی پر یہ علامت نہ دیکھتے تو اس کو لوٹ لیتے اور جس پر یہ علامت دیکھتے تو اس کو چھوڑ دیتے پھر شارع علیہ السلام نے مذکورہ اعراض کی وجہ سے اس کو درست رکھا اور جمہور ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اشعار کرنا یعنی زخمی کرنا مسنون ہے لیکن بکری، بھیڑ، ذنب وغیرہ میں اشعار نہ کرے اس لیے کہ کمزور ہیں اور تقلید کافی ہے اور امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ہار ڈالنا مستحب ہے اور اشعار مطلقاً مکروہ ہے اور علماء نے اس کی تاویل کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہؒ نے اپنے زمانے کے اشعار کو مکروہ کہا ہے کہ اس وقت رگ کو بہت زیادہ زخمی کر دیتے تھے کہ زخم کے سرایت کرنے کا خوف ہوتا تھا اصل اشعار کو مکروہ نہیں سمجھتے تھے اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز ذی الحلیفہ میں پڑھی اور باب صلوة السفر میں بخاری اور مسلم میں حدیث گزری ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھی اور عصر ذی الحلیفہ میں پڑھی۔ ان میں تطبیق یوں دی جائے گی کہ ابن عباسؓ نے حضور ﷺ کے ساتھ ظہر کی نماز مدینہ میں نہیں پڑھی حضور ﷺ کو نفل پڑھتے دیکھ کر گمان کیا کہ آپ ﷺ نے ظہر کی نماز ذی الحلیفہ میں پڑھی اور حج اور عمرے کے لیے لیک کہی۔ اس لیے کہ صحیحین میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ حج اور عمرے کے ساتھ لیک کہتے تھے پس راوی نے فقط حج ہی کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ وہ اصل ہے یا یہ کہ عمرے کا ذکر نہ سنا ہوگا۔

ہدی کے گلے میں ہار ڈالنا جائز ہے

۲/۲۳۹۵ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقُلْتُهَا۔ (متفق علیہ)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۵۸/۲ الحدیث رقم (۳۶۷ - ۱۳۲۱)۔ وابن ماجہ فی السنن ۱۰۳۴/۲ الحدیث رقم

۳۰۹۶۔ واحمد فی المسند ۴۲/۶۔

ترجمہ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف بکریاں بطور ہدی بھیجیں۔

پھر ان کے گلے میں ہار ڈالا۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ✽ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ طبریؒ نے کہا ہے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اشعار کرنا مکروہ ہے اور ان کو ہار ڈالنا مسنون ہے امام مالکؒ کا اس میں اختلاف ہے۔

ہدی دینے کا جواز

۳/۲۳۹۶ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ بَقْرَةً يَوْمَ النَّحْرِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۵۶/۲ الحدیث رقم (۳۵۶-۱۳۱۹)۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ایک گائے قربانی کے دن ذبح کی۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو ہدی دینا درست ہے جیسے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے گائے ذبح کی۔

۴/۲۳۹۷ وَعَنْهُ قَالَ نَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بَقْرَةً فِي حَجَّتِهِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۵۶/۲ الحدیث رقم (۳۵۷-۱۳۱۹)۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اوپر والی حدیث اس بات پر محمول ہے کہ حضور ﷺ نے اپنی بیویوں کے اذن سے قربانی کی ہوگی۔ اس لیے کہ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ علامہ طبری اور مشہور ائمہ کے نزدیک یہی ہے کہ گائے سات آدمیوں کی طرف سے کرنی جائز ہے اور امام مالکؒ کے نزدیک ایک گائے یا ایک گائے بکری وغیرہ تمام گھروالوں کی طرف سے کافی ہے یہ حدیث دلیل ہے اس بات پر کہ اگر سات سے زیادہ کی طرف سے کی ہوگی اور دوسروں کے نزدیک یہ حدیث محمول ہے کہ سات کی طرف سے ہوگی۔

بدنوں کو ہار پہنانا جائز ہے

۵/۲۳۹۸ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ فَلَانَةَ بُذِنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا

وَأَهْدَاهَا فَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أَحِلَّ لَهَا - (متفق عليه)

اخرجه البعاری فی صحیحہ ۵۴۲/۳ الحدیث رقم ۱۶۹۶ - ومسلم فی صحیحہ ۹۵۹/۲ الحدیث رقم (۳۶۹)۔

(۱۳۲۱) والنسائی ۱۷۵/۵ الحدیث رقم ۲۷۹۳ - ومالک فی الموطأ ۳۴۰/۱ الحدیث رقم ۵۱ من کتاب الحج۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے لیے اونٹوں کے اپنے ہاتھ سے ہار بنے اور ان کے گلے میں ڈالے اور ان کو زخمی کیا یعنی ان کے گھانوں کو داغا اور ان کو ہدی بنا کر خانہ کعبہ کی طرف بھیجا۔ یعنی جب نوے سال حج فرض ہوا تو حضور ﷺ نے ابو بکر صدیقؓ کو حاجیوں کا امیر بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ ہدی کے اونٹ بھیجے۔ پس حضور ﷺ کوئی چیز حرام نہ ہوئی جو چیز حلال کی گئی تھی۔ اس کو بخاری اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ پر احرام کے احکام جاری نہ ہوئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

نے یہ بات اس لیے کہی ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جو کوئی مکہ کی طرف ہدی لے کر جائے یا بھیجے اس پر وہ چیزیں حرام ہوتی ہیں جو محرم پر حرام ہوتی ہے جب تک کہ ہدی حرم میں پہنچ جائے اور ذبح کر دی جائے۔ اس حدیث کو بیان کر کرے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو رد کرنا مقصود تھا۔

۶/۲۳۹۹ وَ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ فَلَا تَذْهَبُ مِنْ عَهْنٍ كَانَ عِنْدِي ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۴۵/۳۔ الحدیث رقم ۱۷۰۰۔ ومسلم ۹۵۹/۲ الحدیث رقم (۳۶۹-۱۳۲۱)۔
ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے میں نے اونٹوں کے ہار علوف کے بٹے جو میرے پاس تھا پھر اونٹوں کو ہدی بنا کر میرے باپ (ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) کے ساتھ بھیجا۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔
تشریح: اس حدیث کا خلاصہ معلوم ہو چکا۔

مطلق ہدی پر سوار ہونا ممنوع نہیں ہے

۷/۲۵۰۰ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بُدْنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بُدْنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا وَيَلْكَ فِي الْغَائِيَةِ أَوْ الْغَالِقَةِ - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۳۶/۳۔ الحدیث رقم ۱۶۸۹۔ ومسلم فی ۹۶۰/۲ الحدیث رقم (۳۷۱-۱۳۲۲)۔
وابوداؤد فی السنن ۳۶۷/۲ الحدیث رقم ۱۷۶۰ والترمذی فی ۲۵۴/۳ الحدیث رقم ۹۱۱ والنسائی فی ۱۷۶/۵ الحدیث رقم ۲۷۹۹۔ ومالك فی الموطأ ۳۷۷/۱ الحدیث رقم ۱۳۹ من كتاب الحج واحمد فی المسند ۵۰۵/۲۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا اونٹ کو ہانکتا ہے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ ہدی ہے یعنی میں کیسے اس پر سوار ہوں وہ یہ سمجھا کہ مطلقاً ہدی پر سوار ہونا درست نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ سوار ہو جاؤ اس نے کہا کہ یہ ہدی ہے فرمایا سوار ہو جاؤ میں تجھ کو کہتا ہوں اور پھر تو غدر کرتا ہے یہ بات دوسری یا تیسری مرتبہ فرمائی۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ مطلقاً ہدی پر سوار ہونا ممنوع نہیں ہے بلکہ ہدی پر سوار ہونے کی اجازت

ہے۔

ہدی پر سوار ہونے کا مسئلہ

۸/۲۵۰۱ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سَيْلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا الْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۶۱/۲ الحدیث رقم (۳۷۵-۱۳۲۴)۔ وابوداؤد فی السنن ۳۶۷/۲ الحدیث رقم ۱۷۶۱ والنسائی ۱۷۷/۵ الحدیث رقم ۲۸۰۲۔

ترجمہ: حضرت ابو زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ان سے ہدی پر سوار

ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ فرماتے اس پر اچھی طرح سوار ہو یعنی اس طرح سوار ہو کہ اس کو ضرر نہ پہنچے اور جس وقت تو اس کی طرف مضطر ہو یہاں تک کہ دوسری سواری نہ ملے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدی پر سوار ہونے کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ ہدی پر سوار ہونا درست ہے یا نہیں۔ بعض تو کہتے ہیں اگر ضرر نہ کرے تو سوار ہو جاؤ اور خفیہ کہتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو سوار ہو جاؤ اور اگر ضرورت نہ پڑے تو سوار نہ ہو۔ تو جن روایتوں میں مطلقاً سوار ہونے کا حکم آیا ہے تو وہ ضرورت پر محمول ہیں۔

قریب المرگ ہدی کا مسئلہ

۹/۲۵۰۲ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ عَشَرَ بُذْنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمَرَهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أَبْدُعُ عَلَىٰ مِنْهَا قَالَ انْحَرُهَا ثُمَّ اصْبِغْ نَعْلَيْهَا فِي دِمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلَىٰ صَفْحَتَيْهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ رُقُقَتِكَ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۹۶۲/۲ الحديث رقم (۳۷۷ - ۱۳۲۵)۔ وابوداؤد فی السنن ۳۶۸/۲ الحديث رقم ۱۷۶۳۔
واحمد فی المسند ۲۱۷/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص (ناجیہ سلمیٰ) کے ساتھ سولہ اونٹ (بطور ہدی کے) بھیجے۔ یعنی وہ گنہگاری کرتا ہوا لے جائے اور مکہ پہنچ کر ذبح کرے۔ پس اس نے کہا اے اللہ کے رسول! کہ میں اس اونٹ کو کیا کروں جو ان میں سے تمکاؤٹ کی وجہ سے یا دبلا پن کی وجہ سے قریب المرگ ہو کر چل نہ سکے۔ فرمایا اس کو ذبح کرو اور اس کی دونوں پاؤں پٹھین کو اس کے خون میں رنگ دو۔ یعنی وہ جو تیاں جو بطور ہار کے گلے میں ڈالی تھیں پر پھر تو ان پاؤں کو اس کے کوہان کے کناروں پر رکھ دے اور تو اور تیرے دوست اس میں سے نہ کھائیں۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں جو تیوں کو اونٹ کے خون میں رنگ کر اس کے کوہان پر نشان لگانے کے لئے آپ ﷺ نے اس لیے فرمایا تا کہ راستے میں چلنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہدی ہے پس اس میں سے فقیر لوگ کھائیں نہ کہ اغنیاء کہ اغنیاء کا کھانا حرام ہے اور تو اس میں سے نہ کھا۔ برابر ہے کہ فقیر ہو یا غنی ان کو مطلقاً منع اس لیے کیا کہ کہیں فقر کا بہانہ کر کے اپنے کھانے کے لیے ذبح نہ کر ڈالیں اور اگر کوئی کہے جب اس کو کوئی نہ کھائے گا قافلہ میں سے تو یوں ہی ضائع ہوگا۔ جواب یہ کہ جنگل کے رہنے والے ان کے پیچھے منتفع ہوں گے اور کبھی دوسرے قافلے والے آئیں گے اور وہ فائدہ اٹھائیں گے اس سے راستے میں جو ہدی ہلاک ہونے لگے اور اس کو ذبح کرے اس کا وہی حکم ہے جو اوپر مذکور ہو چکا ہے اس کا کھانا اغنیاء اور دوسرے قافلے والوں کے لیے درست نہیں ہے لیکن اس میں تفصیل ہے چنانچہ وہ ملتقی الاخر اور درمختار میں مذکور ہے کہ ہدی جو ہلاک ہو نے لگے یا عیب دار ہو تو دوسری ہدی اس کے قائم مقام کرے اور اس کو جو چاہے کرے اور اگر نفل ہدی ہلاک ہونے لگے تو اس کو ذبح کر دے اور جو تی اس کے خون میں رنگ کر اس کی گردن پر چھاپ لگا دے اور اس سے نہ کھائے اور نہ ہی غنی کھائے انتہی اور جو

ہدی جا کر ذبح کی جائے اس کا حکم اس فصل کے اخیر میں مذکور ہو چکا ہے کہ نقلی ہدی اور متعہ اور قرآن اور قربانی میں سے کھانا مستحب ہے اور ان کے علاوہ درست نہیں ہے اور ثار حسین کو اس حدیث کی شرح میں بھول ہوئی ہے کہ لکھا ہے کہ یہ حکم اس ہدی کا ہے کہ جس کو بطور نذر اپنے اوپر واجب کیا ہو اور جبکہ نقل ہو تو کھانا اس کا درست ہے انتہی۔ تو انہوں نے راستے کی ہدی کو وہاں کی ہدی پر قیاس کیا ہے اور یہ متون کے خلاف ہے۔ واللہ اعلم۔

۱۰/۲۵۰۳ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۵۵/۲ الحدیث رقم (۳۵۰-۱۳۱۸)۔ وابوداؤد فی السنن ۲۳۹/۳ الحدیث رقم ۲۸۰۹۔
والترمذی فی السنن ۲۴۸/۳ الحدیث رقم ۹۰۴ وابن ماجہ ۱۰۴۷/۲ الحدیث رقم ۳۱۳۲۔ ومالك فی الموطأ ۴۸۶/۴
الحدیث رقم ۹ من کتاب الضحایا۔ واحمد فی المسند ۲۹۳/۳۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حدیبیہ کے سال نبی کریم ﷺ کے ساتھ اونٹ اور گائے سات آدمیوں کی طرف سے خرچ کیے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور اکثر اہل علم کے لیے دلیل ہے کہ سات کا ایک اونٹ اور گائے میں میں شریک ہونا جائز ہے جب کہ سب کی نیت ثواب کی ہو۔ خواہ ثواب ایک طرح کا ہو۔ جیسے ایک کو ہدی منظور ہو اور دوسرے کو بھی ہدی یا ثواب مختلف ہو جیسے کہ بعض ہدی کا ارادہ کریں اور بعض لوگ قربانی کا اور امام شافعیؒ کے نزدیک اگر بعض لوگ ثواب کا ارادہ کریں اور بعض گوشت کا تو بھی جائز ہے اور امام مالکؒ کے نزدیک جائز نہیں ہے اس میں شریک ہونا مطلقاً واجب نہیں ہے اور بکری میں شریک ہونا جائز نہیں ہے بالاجماع۔

نحر کرنے کا طریقہ

۱۱/۲۵۰۴ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ آتَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ ابْعَثْهَا قِيَا مَا مَقِيَدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۴۶/۳ الحدیث رقم ۱۷۱۳۔ ومسلم فی صحیحہ ۹۵۶/۲ الحدیث رقم (۳۵۸-۱۳۲۰)
وابوداؤد فی السنن ۳۷۱/۲ الحدیث رقم ۱۷۶۸۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے پاس آئے کہ جس نے اپنا اونٹ نحر کرنے کے لئے بٹھایا تھا۔ اس کو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: تم اس کو کھڑا کرو اور (اس کا بایاں) پاؤں باندھو اور محمد ﷺ کے طریقہ کو پکڑو۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ حدیث پاک میں نحر کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ نحر اونٹ کے سینے میں نیزہ مارنے کو کہتے ہیں اور ذبح چھری وغیرہ سے گائے وغیرہ کا گلا کاٹنے کو کہتے ہیں۔ پس اونٹ میں نحر سنت ہے اور گائے بکری وغیرہ میں ذبح سنت ہے اور اونٹ کے نحر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے بایاں زانوں رسی سے باندھے اور اس کے سینے پر نیزہ مارے تاکہ خون



جاری ہو جائے اور گر پڑے اور ابن ہمامؒ نے لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کھڑا کر کے خر کرنا افضل ہے اور اگر کھڑا نہ کر سکے تو بیٹھا کر خر کرنا، لٹا کر کرنے سے افضل ہے اور گائے، بکری وغیرہ کو بائیں پہلو پر لٹا کر پاؤں رکھ کر ذبح کرے۔

گوشت، جھول وغیرہ اور چمڑہ کو صدقہ کرنا چاہیے

۱۲/۲۵۰۵ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ عَلَى بُذْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَاءَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نَعْطِيهِ مِنْ عَيْنِدَنَا۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۵۶/۳۔ الحدیث رقم ۱۷۱۶۔ وخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۵۴/۲ الحدیث رقم (۳۴۸)۔
۱۳۱۷)۔ وابوداؤد فی السنن ۳۷۱/۲ الحدیث رقم ۱۷۶۹ والدارمی ۱۰۱/۲ الحدیث رقم ۱۹۴۰۔ وابن ماجہ ۱۰۳۵/۲ الحدیث رقم ۳۰۹۹۔

ترجمہ: حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم ﷺ نے اپنے اونٹوں کی خبر گیری کرنے کا حکم دیا اور یہ کہ ان کے گوشت پوست (چمڑا) اور جھولیں کو صدقہ کروں اور ان میں سے قصاب کو نہ دوں یعنی ان کی مزدوری ان میں سے نہ دوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ہم اس کو مزدوری اپنے پاس سے دیں گے۔ اس کو امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اونٹوں سے مراد وہ اونٹ ہیں جن کو حضور ﷺ مکہ کی طرف جیتے الوداع کے موقع پر بطور ہدی کے لے گئے تھے ان کی تعداد سو تھی جیسے کہ اوپر گزرا ہے اور ہدی کی جھول، مہار اور کھال وغیرہ کو اللہ کے لیے دے دیا۔ قصاب کو ہدی کا گوشت یا اس کا چمڑا مزدوری کے طور پر نہ دے اور احساناً دے تو جائز ہے بالا جماع اور کھال کو بیچ کر اس کی قیمت اللہ کے راستے میں دے دے تو جائز ہے اور ہدی کا دودھ نہ دو ہے بلکہ اس کی چھاتی پر ٹھنڈا پانی چھڑک دے تاکہ دودھ منقطع ہو جائے اور اگر دوہے تو اللہ کے لیے صدقہ کر دے۔

قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنا جائز ہے

۱۳/۲۵۰۶ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لَحْمٍ بَذْنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَوَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَكَانَ لَنَا وَتَزَوَّدْنَا۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۵۷/۳ الحدیث رقم ۱۷۱۹۔ و مسلم فی ۵۶۲/۳ الحدیث رقم (۳۰)۔ (۱۹۷۲)۔ واحمد فی المسند ۳۸۸/۳۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہتے ہیں ہم قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے پھر نبی کریم ﷺ نے رخصت دے دی پس فرمایا کھاؤ اور توشہ کر رکھو یعنی تین دن کے بعد بھی پس ہم نے کھایا اور توشہ کیا۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ ابتدائے اسلام میں لوگوں کو گوشت کی احتیاج بہت زیادہ تھی۔ حضور ﷺ نے حکم فرمایا کہ قربانی کا گوشت تین دن کے بعد تک جمع کر کے نہ رکھا کرو بلکہ اللہ کے لیے دے دیا کرو۔ اس کے بعد ضرورت نہ رہی اور قربانی کرنا سب کے

لیے میسر ہو گیا۔ تو نبی کریم ﷺ نے اجازت فرمادی کہ اگر تین دن کے بعد بھی جمع کر کے رکھ لو تو اجازت ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور شنیٰ نے کہا کہ نقلی ہدیٰ متعہ قرآن اور قربانی کے جانور کا گوشت کھانا مستحب ہے۔ ان کے علاوہ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ کفارات میں سے ہوتی ہیں۔

الفصل الثانی:

۱۳/۲۵۰۷ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَىٰ عَامَ الْحَدِيثِ فِي هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ ذَهَبٍ يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ حدیبیہ کے سال اپنے ساتھ ہدایا کے اونٹ لے کر گئے۔ ابو جہل کے اونٹ کے ناک میں چاندی کی ایک تھنی تھی اور ایک روایت میں آیا ہے کہ سونے کی تھی۔ اس کا مقصد مشرکین کو غصے میں مبتلا کرنا تھا۔ مشرکوں کو غصے میں ڈالتے تھے اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ حضور ﷺ ۶ ہجری کو عمرے کے لئے تشریف لے گئے۔ مشرکوں نے حدیبیہ مقام پر روک لیا اور مکہ میں نہ آنے دیا۔ چنانچہ یہ قصہ مشہور ہے پس اس سفر میں جو اونٹ حضور ﷺ بطور ہدیٰ ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے ان میں ایک اونٹ ابو جہل کا بھی تھا کہ بدر کی لڑائی میں غنیمت میں آیا تھا اس کو حضور ﷺ اس لیے لے گئے تھے تاکہ مشرکین دیکھ کر غمگین ہو جائیں اور جلیں کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا ہے اور ذبح کیا گیا۔ تو لہذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کو غمگین کرنا اور غصے میں ڈالنا مستحب ہے۔

ذبح ہونے والی ہدی کا حکم

۱۵/۲۵۰۸ وَعَنْ نَاجِيَةِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطَبَ مِنَ الْبُذْنِ قَالَ انْحَرُهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دِمَهِهَا ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا فَيَا كَلُّوْهَا۔

(رواہ مالک و الترمذی و ابن ماجہ و رواہ ابو داود و الدارمی عن ناجیۃ الاسلمی)

اخرجه الترمذی فی ۲۵۳/۳ الحدیث رقم ۹۱۰ و ابن ماجہ ۱۰۳۶/۲ الحدیث رقم ۳۱۰۶۔ و مالک فی الموطأ ۳۸۰/۱ الحدیث رقم ۱۴۸ من کتاب الحج۔ و احمد فی المسند ۳۳۴/۴۔

تشریح ﴿﴾ حضرت ناجیہ خزاعیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! میں ہدی کے جانوروں میں سے اس جانور کے ساتھ کیا کروں جو مرنے کے قریب ہو؟ فرمایا کہ اس کو ذبح کر دو پھر اس کی پاپوش کو اس کے خون سے رنگ دو یعنی جو کہ اس کا ہار ہے اس کو خون میں رنگ کر اس کی گردن پر چھاپ دو پھر اس ہدی کو لوگوں کے درمیان چھوڑ دو یعنی فقراء کو اس کے کھانے سے منع نہ کرو تاکہ وہ اس سے کھالیں۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ہدی کے گوشت کو فقراء کھا سکتے ہیں جیسا کہ پہلی فصل میں اس کا مفصل بیان ہو چکا ہے اور ناجیہ اسلمی سے ظاہر یہ ہے کہ اختلاف نسبت میں ہے اور ذات ایک ہے اس لیے کہ ناجیہ صحابہ میں سے ایک

ہیں۔ پس بعضوں نے اسلمی کہا اور بعضوں نے خزامی اور یہ دونوں نام ان کے قبیلے کے ہیں۔

قربانی کے دن کی فضیلت

۲۵۰۹/۱۶ اَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَكْثَرَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمَ الْقَرَىٰ قَالَ تَوَرَّ وَهُوَ الْيَوْمُ الْغَائِبِيُّ قَالَ وَقَرَّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ خَمْسُ أَوْ سِتٌّ فَطَفِقْنَ يَزِدْنَ إِلَيْهِ بَائِسِينَ يَبْدَأُ قَالَ فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قَالَ فَتَكَلَّمَكُمْ بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ أَفْهَمَهَا فَقُلْتُ مَا قَالَ قَالَ مَنْ شَاءَ افْتَطَحَ - (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داود في السنن ۳۶۹۲ الحديث رقم ۱۷۶۵۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن قرط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے فرمایا دنوں میں بڑا دن اللہ کے نزدیک قربانی کا دن ہے تو (جو کہ اس حدیث کا راوی ہے) نے کہا کہ اس کے بعد قر کا دن ہے اور وہ دوسرا دن ہے یعنی گیارہویں تاریخ کا دن ہے۔ راوی نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کے نزدیک پانچ یا چھ اونٹ قریب کیے گئے۔ پس اونٹوں نے حضور ﷺ کے قریب ہونا شروع کیا تا کہ کسی کو ان میں پہلے ذبح کریں۔ راوی نے کہا۔ جب جانوروں کی گردنیں زمین پر گر گئیں تو حضور ﷺ نے آہستہ سے کچھ فرمایا کہ میں سمجھ نہ سکا۔ پھر میں نے اس شخص کو کہا جو میرے پاس تھا کہ حضور ﷺ نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے اس ہدی میں سے کاٹ کر لے جائے۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حدیث میں آیا ہے کہ قربانی کا دن بہت بڑا دن ہے علامہ طبریؒ نے کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ باقی دنوں سے قربانی کا دن افضل ہے اس لیے کہ ذی الحجہ کے پہلے دس دنوں کو تمام دنوں کے مقابلے میں افضل کہا گیا ہے۔ اتنی اس سے مراد رمضان کا یا ذوالحجہ کا عشرہ ہے پھر بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایام میں سے افضل ذی الحجہ کا عشرہ ہے۔ پس حاصل یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کا حرام مہینوں میں افضل ہے اور عشرہ رمضان کا مطلقاً افضل ہے اور یہ بعید نہیں ہے کہ کہا جائے کہ افضلیت باعتبار حیثیت کے مختلف ہے یعنی رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں اور عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اور اخیر عشرہ میں اعتکاف ہوتا ہے تو اس جہت سے تو عشرہ اخیر رمضان کا افضل ہے اور عشرہ ذی الحجہ میں افعال حج اور قربانی ہوتی ہے اس جہت سے وہ افضل ہے اور پھر قربانی کا دن یعنی عید کا دوسرا دن۔ یہ نام اس لیے ہوا ہے کہ لوگ اس دن منی میں ادائے مناسک میں رنج اٹھانے کے بعد قرار و آرام پکڑتے ہیں اور صبح حدیث میں یہ آیا ہے کہ عرفہ افضل دن ہے۔ پس یہاں بھی وہی مراد ہے کہ تمام ایام سے افضل قربانی کا دن ہے۔ تا کہ کسی کو ان میں پہلے ذبح کریں اس لیے کہ اونٹ حضور ﷺ کے دست مبارک کی برکت کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور یہ حضور ﷺ کا معجزہ تھا۔

الفصل الثالث:

قربانی کے گوشت کا مسئلہ

۱۷/۲۵۱۰ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَشْجَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَلَيْلِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِيَ قَالَ كُلُّوْا وَأَطْعِمُوْا وَأَذْخِرُوْا وَأَتَجِرُوْا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جُهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تَعِينُوْا فِيهِمْ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۲۴۱۰۔ الحدیث رقم ۵۵۶۹۔ ومسلم فی صحیحہ ۱۵۶۳/۳ الحدیث رقم (۳۴۔ ۱۹۷۴)۔
ترجمہ: حضرت سلمہ بن اشجع سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص تم میں سے قربانی کرے۔ پس وہ تیسرے دن کے بعد صبح نہ کرے اس حال میں اس کے گھر میں کچھ قربانی کا گوشت ہو۔ پس جب اگلا سال آیا تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اے اللہ کے رسول! ہم ایسا ہی کریں جیسا کہ ہم نے گزشتہ سال کیا تھا۔ یعنی قربانی کا گوشت تین دن کے بعد نہ رکھیں؟ فرمایا کھاؤ اور کھلاؤ اور ذخیرہ کرو۔ تحقیق اس سال لوگوں پر محنت و مشقت و تنگدستی تھی پس میں نے چاہا جمع کرنے سے منع کروں یہ کہ تم ان کی مدد کرو۔ اب ضرورت نہیں رہی اگر رکھو گے تو اجازت ہے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سال مدینہ منورہ میں قحط شدید ہو گیا تھا کہ مدینہ باہر کے رہنے والوں سے بھر گیا تھا۔ اس وقت حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جتنا گوشت لوگوں کے پاس ہے تقسیم کر دیں جمع نہ رکھیں۔ آئندہ سال جب ضرورت نہ رہی تو رکھنے کی اجازت دے دی۔

۱۸/۲۵۱۱ وَعَنْ نَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا نَهَيِّنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيْلٍ لِكَيْ تَسَعَّكُمْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَأَذْخِرُوا أَلَا وَإِنَّ هَلِيهِ الْيَوْمَ الْيَوْمَ أَكُلِي وَشُرِبِي وَذَكَرَ اللَّهُ۔ (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۲۴۳/۳ الحدیث رقم ۲۸۱۳۔ وابن ماجہ مختصراً فی ۱۰۵۵/۲ الحدیث رقم ۳۱۶۰۔ والدارمی ۱۰۸/۲ الحدیث رقم ۱۹۵۸۔

ترجمہ: حضرت نیشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تحقیق ہم تم کو قربانی کے گوشت یا ہڈی کے گوشت کو تین دن سے زیادہ کھانے سے منع کرتے تھے تاکہ تم کو وسعت ہو یعنی تمہارے فقراء کو بھی پہنچے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وسعت کر دی ہے پس کھاؤ اور ذخیرہ کرو اور ثواب طلب کرو۔ یعنی تصدق کرنے کے ساتھ خبردار رہو اور تحقیق یہ دن یعنی منیٰ کے چاروں دن کھانے پینے اور اللہ کی یاد کے ہیں۔ پس روزہ ان دنوں میں حرام ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے کے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس

قول کے مطابق: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾۔

بَابُ الْحَلْقِ

سرمنڈانے کا بیان

یہ باب سرمنڈانے کے بیان میں ہے یعنی اس باب میں سرمنڈانے اور بال کتروانے کا ذکر ہے اور مؤلف نے افضل بیان کے ساتھ اکتفا کیا ہے کہ احرام سے نکلے تو سرمنڈانا بال کتروانے سے افضل ہے اور اس کے آگے حضور ﷺ کے سوائے حج اور عمرے کے سرمنڈوانے کے بارے میں تفصیل ذکر ہوگی ان شاء اللہ۔

الفصل الاول:

سرمنڈانا افضل ہے

۱/۲۵۱۲ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ وَالْأَسْ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۰۹/۸، الحدیث رقم ۴۴۱۱۔ ومسلم فی صحیحہ ۹۴۵/۲ الحدیث رقم ۳۱۶۔
(۱۳۰۱) وابوداؤد فی السنن ۵۰۰/۲ الحدیث رقم ۱۹۸۰ واحمد فی المسند ۱۲۸/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے اپنا سر حجۃ الوداع میں منڈایا اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے سر منڈایا اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے بال کتروائے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور ﷺ کی متابعت کی وجہ سے اور فضیلت حاصل کرنے کے لیے سرمنڈایا اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے جواز پر عمل کر کے بال کترائے اور صحیحین وغیرہ میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے عمرۃ القضاء میں بال کتروائے۔ پس دونوں چیزیں حضور ﷺ سے ثابت ہیں لیکن سرمنڈانا افضل ہے۔

۲/۲۵۱۳ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ إِنِّي قَصَرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمَشْقَصٍ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۶۱/۳۔ الحدیث رقم ۱۷۳۰۔ ومسلم فی صحیحہ ۹۱۳/۲ الحدیث رقم (۲۰۹-۱۲۴۶)
واخرجه ابوداؤد فی ۳۹۶/۲ الحدیث رقم ۱۸۰۲ والنسائی فی ۲۴۴/۵ الحدیث رقم ۲۹۸۷۔ واحمد فی المسند ۹۶/۴۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے معاویہ نے فرمایا کہ میں نے مروہ کے قریب تیر کی پیکان سے نبی کریم ﷺ کے بال کترے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: بعض لوگوں نے کہا ہے مشقص بڑی قینچی کو کہتے ہیں اور یہ معنی مناسب تر اور ظاہر تر ہیں اور ثابت ہوا ہے کہ

حضور ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر بال نہیں کتروائے بلکہ سرمنڈوانیا تھا۔ پس معاویہ رضی اللہ عنہ کا تیر کی پیکان سے نبی کریم ﷺ کے بال کا ثنا عمرۃ القضاء کے موقع پر تھا۔

”مروہ کے قریب“ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ عمرۃ القضاء کے موقع پر تھا۔ اگر حج کے موقع پر ہوتا تو بال کتروانے کا ذکر منیٰ کے قریب کرتے۔

سرمنڈانے والوں کے لیے اللہ کے رسول ﷺ نے رحمت کی دُعا فرمائی

۳/۲۵۱۴ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اَللّٰهُمَّ ارْحِمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحِمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۶۱۳ الحدیث رقم ۱۷۲۷۔ ومسلم فی صحیحہ ۹۴۵/۲ الحدیث رقم (۳۱۷-۱۳۰۱) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا: اے الہی! سرمنڈانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اور کتروانے والوں کے لیے بھی رحمت کی دعا کیجئے اے اللہ کے رسول! فرمایا: اے الہی! سرمنڈانے والوں پر بھی رحم کر۔ صحابہ نے عرض کیا بالوں کے کتروانے والوں کے لیے بھی رحمت کی دعا کر دیجئے اے اللہ کے رسول! حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اور کتروانے والوں پر بھی رحم فرما۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ آپ ﷺ سرمنڈانے والوں کے لیے رحمت کی دعا فرمائی اور صحابہ کے اصرار پر کتروانے والوں کے لیے بھی رحمت کی دعا کی۔

۳/۲۵۱۵ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُصَنِّ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَاَ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً وَاحِدَةً۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۴۶/۲ الحدیث رقم (۳۲۱-۱۳۰۳)۔ ترجمہ: حضرت یحییٰ بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے اپنی دادی سے کہ جن کی کنیت ام المصنین ہے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم ﷺ کو سرمنڈانے والوں کے لئے دعا کرتے ہوئے سنا۔ آپ ﷺ نے سرمنڈانے والوں کے لئے تین مرتبہ اور کتروانے والوں کے لئے ایک مرتبہ دعا فرمائی۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیحین کی روایت جو اوپر مذکور ہو چکی ہے کہ حضور ﷺ نے سرمنڈانے والوں کے لیے دو بار دُعا فرمائی اور تیسری مرتبہ کتروانے والے لوگوں کے لیے دعا فرمائی۔ اور صحیحین کی ایک روایت میں آیا ہے کہ چوتھی مرتبہ حضور ﷺ نے کتروانے والوں کے لیے دعا کی ہے اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تین مرتبہ سرمنڈانے والوں کے لیے دعا کی اور ایک مرتبہ کتروانے والوں کے لیے دعا فرمائی۔ خواہ تیسری مرتبہ کو شریک کر لیا خواہ چوتھی مرتبہ علیحدہ ان کے لیے دعا کی۔ وجہ تطبیق ان میں یہ ہے کہ یہ دعا کئی مجلسوں میں کی ہو۔ کسی میں دو مرتبہ سرمنڈانے والوں کے لیے دعا کی ہو اور

تیسری مرتبہ کتروانے والوں کے لیے دعا کی ہو اور کسی مجلس میں تین مرتبہ سرمنڈانے والوں کے لیے کی ہو اور چوتھی مرتبہ کتروانے والوں کے لیے کی ہو۔ یا یہ کہ جس راوی نے جو سنا اس نے وہی روایت کر دیا۔

۲۵۱۶/۵ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنَى فَاتَى الْجُمُرَةَ فَرَمَا هَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَى وَنَحَرَ نُسُكَهُ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَاقِ وَنَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ فَقَالَ إِحْلِقْ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ أَفْسِمُهُ بَيْنَ النَّاسِ - (متفق عليه)

اخرجه مسلم في صحيحه ۹۴۸/۲ الحديث رقم (۳۲۶-۱۳۰۵) - وابوداؤد في السنن ۵۰۰/۲ الحديث رقم ۱۹۸۱ - والترمذي في السنن ۲۵۵/۳ الحديث رقم ۹۱۲ - واخرجه احمد في المسند ۱۳۷/۳ -

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم ﷺ منیٰ میں آئے پھر حجرۃ العقبہ کے پاس تشریف لائے۔ پس اس کو کنگریاں ماریں۔ پھر اپنے مکان میں تشریف لائے کہ جو منیٰ میں تھا اور اپنی ہدیٰ ذبح کی۔ پھر مونڈنے والے کو بلایا۔ اس کا نام معمر بن عبد اللہ تھا اور اپنے سر کی داہنی جانب سر مونڈنے والے کے آگے کی پھر حضور ﷺ کا سر مونڈا۔ پھر حضور ﷺ نے ابو طلحہ انصاریؓ کو بلایا اور منڈے ہوئے بال ان کو دیے اور پھر اپنے سر کی بائیں طرف آگے کی اور فرمایا مونڈ پس اس نے سر مونڈا۔ پس منڈے ہوئے بال آپ ﷺ نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیے اور فرمایا کہ بالوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ دائیں طرف سے مونڈنے کی ابتداء کرنا سنت ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دائیں طرف سر منڈانے والے کا اعتبار ہے اور بعض نے کہا کہ دائیں طرف سے سر مونڈنے والے کا معتبر ہے۔

نحر کے دن خوشبو کا استعمال

۲۵۱۷/۶ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يُطَوَّفَ بِأُيُوتٍ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری في صحيحه ۳۹۶/۳ - حديث رقم ۱۵۳۹ - ومسلم في ۸۴۹/۲ حديث رقم (۴۶-۱۱۹۱) - وابوداؤد في السنن ۳۵۸/۲ الحديث رقم ۱۷۴۵ - والترمذي في ۲۵۹/۳ حديث رقم ۹۱۷ - والنسائي في ۱۳۷/۵ الحديث رقم ۲۶۸۵ - وابن ماجه في ۹۷۶/۲ حديث رقم ۲۹۲۶ - ومالك في الموطأ ۳۲۸/۱ الحديث رقم ۱۷ من كتاب الحج - واحمد في المسند ۱۸۶/۶ -

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کو احرام باندھنے سے پہلے یعنی حج یا عمرے کا احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتی تھی یا عمرے کا دونوں کا قربانی کے دن خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے پہلے یعنی سر منڈانے کے بعد اور کپڑے پہننے کے وقت خوشبو لگاتی تھی کہ اس میں مشک ہوتا تھا۔ اس کو بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: علماء نے لکھا ہے احرام کو خوشبو لگانا اولیٰ ہے اس میں مشک گلاب ہے اور نحر کے دن احرام سے نکل آتے ہیں اور سوائے عورتوں کے سب چیزیں حلال ہو جاتی ہیں اور طواف کے بعد عورت بھی حلال ہو جاتی ہے یعنی اس سے جماع کرنا بھی

حلال ہو جاتا ہے۔

۲۵۱۸/۷ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمَنَى۔

اخرجه مسلم فی صحيحه ۹۵۰/۲ الحديث رقم (۳۳۵-۱۳۰۸)۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن (رمی اور ذبح کرنے کے بعد) مکہ میں تشریف لائے اور چاشت کے وقت فرض طواف کیا پھر اسی روز واپس لوٹے اور منیٰ میں ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حجتہ الوداع کے باب میں حضرت جابرؓ سے حدیث گزری ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ حضور ﷺ نے ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی اور مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ منیٰ میں پڑھی وجہ تطبیق ان دونوں میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے فائدے میں ذکر دی گئی ہے جو چاہے وہاں سے دیکھ لے۔

الفصل الثانی:

عورت کو سرمنڈوانا ممنوع ہے

۲۵۱۹/۸ وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ قَالَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا۔

(رواہ الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۷۵/۳ الحديث رقم ۹۱۴۔

ترجمہ: حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے دونوں نے کہا کہ حضور ﷺ نے عورت کو سرمنڈوانے سے منع فرمایا ہے۔ اس کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت کو سرمنڈوانا ممنوع ہے یعنی جب عورتیں احرام سے نکلیں تو ان پر سرمنڈوانا واجب نہیں ہے بلکہ حرام ہے اور ان پر بالوں کا کتر وانا واجب ہے بخلاف مردوں کے ایک چیز ان میں سے واجب ہے لیکن سرمنڈوانا افضل ہے پھر ہمارے نزدیک کتر وانے والے کے لیے واجب ہے ایک انگشت کی بقدر سر کے بالوں کے چوتھائی سے اور تمام سر سے کتر وانا مستحب ہے اور منڈانے میں چوتھائی سر کا منڈانا واجب ہے اور سارے سر کا افضل ہے بہتر مذہب تو یہ ہے جو کہ ابن ہمام نے اختیار کیا ہے اور امام مالکؒ نے اختیار کیا ہے کہ سارے سر کا منڈانا اور کتر وانا واجب ہے اور صواب یہی ہے۔ یہ باب تیسری فصل سے خالی ہے۔

۲۵۲۰/۹ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحُلُقُ إِنَّمَا عَلَى

النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ۔ (رواہ ابو داؤد والترمذی والدارمی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۵۰۲/۲ الحديث رقم ۱۹۸۵۔ والدارمی فی ۸۹/۲ الحديث رقم ۱۹۰۶۔ والدارقطنی فی

۲۷۱/۲ الحديث رقم ۱۶۵ من کتاب الحج۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: عورتوں کے لئے سرمنڈوانا لازم نہیں

بلکہ انہیں تو فقط اپنے بال کتروانے چاہئیں۔ (ابوداؤد ترمذی واری)

الفصل الاول:

افعال حج میں تقدیم و تاخیر سے کوئی گناہ نہیں ہے

۱/۲۵۲۱ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمَنْىَ لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ لِحَجَّاءَ هَذَا رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ إِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ لِحَجَّاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَتَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ إِرْمِ وَلَا حَرَجَ لِمَا سِئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَدِمَ وَلَا أَخَّرَ إِلَّا قَالَ الْفَعْلُ وَلَا حَرَجَ (متفق عليه وفي رواية لمسلم) آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ إِرْمِ وَلَا حَرَجَ وَآتَاهُ آخَرُ فَقَالَ أَقْضَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ إِرْمِ وَلَا حَرَجَ۔

اخرجه البخاری فی ۵۶۹۳ الحدیث رقم ۱۷۳۶۔ ومسلم فی ۹۴۸/۲ الحدیث رقم (۳۲۷-۱۳۰۶)۔ وابدوداؤد فی السنن ۵۱۶/۲ الحدیث رقم ۲۰۱۴۔ والترمذی فی ۲۵۸/۳ الحدیث رقم ۹۱۶۔ وابن ماجہ فی ۱۰۱۴/۲ الحدیث رقم ۳۰۵۱ مالک فی الموطأ ۴۲۱/۱ الحدیث رقم ۲۴۲۔ واحمد فی المسند ۱۵۹/۲۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ حجۃ الوداع میں منیٰ کے مقام پر لوگوں کے لیے ٹھہرے اس لیے تو وہ آپ ﷺ سے مسائل پوچھتے تھے پس حضور ﷺ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا تھا میں نے اپنا سر ذبح کرنے سے پہلے منڈایا۔ پس فرمایا کہ ذبح کر لے اب کوئی گناہ نہیں ہے پھر ایک اور شخص آیا اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا تھا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے نحر کیا فرمایا اب کنکریاں پھینکو اور کوئی گناہ نہیں ہے پس نبی کریم ﷺ سے کسی چیز کی تقدیم یا تاخیر کے بارے میں سوال کیا، مگر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے اور مسلم کی ایک روایت میں آیا کہ حضور ﷺ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے کنکریاں پھینکنے سے پہلے سر منڈایا فرمایا پھینکو کوئی گناہ نہیں ہے اور ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے کنکریاں پھینکنے سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ فرمایا اب کنکریاں پھینک لے کوئی گناہ نہیں ہے۔

تشریح: نحر کے دن چار چیزیں اس ترتیب سے کرنی چاہئیں کہ پہلے منیٰ میں پہنچ کر جمرۃ العقبہ کی رمی کرے جو کہ ایک منارے کا نام ہے سات کنکریاں مارے پھر جانور کو ذبح کرے پھر سر منڈائے پھر مکہ میں جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ یہ ترتیب اکثر علماء کے نزدیک اس حدیث کی وجہ سے سنت ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بھی ان ہی میں سے ہیں۔ پس دم نہیں کرتے یعنی جانور ذبح کرنا ان کے نزدیک اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے واجب نہیں ہے اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہ ترتیب واجب ہے اور امام اعظم اور امام مالک ان میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حرج کے نہ ہونے سے مراد جہل و نسیان کی وجہ سے گناہ کا نہ ہونا ہے جس واجب ہے یعنی ان میں سے اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے تو ایک بکری یا اس کے مانند ذبح کرے اور علامہ طبری نے کہا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کے مثل روایت کی ہے اور دم واجب کیا پس اگر وہ یہ معنی نہ سمجھتے تو ذ:

کیوں واجب کرتے۔ واللہ اعلم۔

۲/۲۵۲۲ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْئَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَنْى فَيَقُولُ لَا حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۵۹۱۳ الحدیث رقم ۱۷۳۵۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سے نحر کے دن منیٰ میں سوال کیا گیا، فرماتے ہیں کوئی گناہ نہیں پس آپ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے کنکریاں شام ہونے کے بعد ماری ہیں۔ پس فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اگر دیگر ائمہ کرام رحمہم اللہ کے نزدیک قربانی کے دن غروب آفتاب تک کنکریاں مارنے میں تاخیر کرے تو دم لازم آجاتا ہے اور شام سے پیچھے ان کے نزدیک عصر کے بعد ہے اور ہمارے مذہب میں تفصیل ہے کہ کنکریاں مارنے کے لیے قربانی کے دن فجر کے طلوع ہونے کے بعد جواز کا وقت ہے اساء کے ساتھ یعنی جائز ہے لیکن برا ہے اور طلوع آفتاب کے بعد زوال تک مسنون ہے اور مابعد زوال کے غروب تک بغیر برا ہونے کے وقت جواز کا ہے اور رات کو مارنا بھی جائز ہے لیکن برا ہونے کے ساتھ کیونکہ اساء اس صورت میں ہے کہ بغیر عذر کے رات تک تاخیر کرے پس اگر چہ وہ اپنے اور ان کی طرح کے لوگ رات کو کنکریاں ماریں تو ان کے حق میں برا نہیں ہے چنانچہ اس حدیث میں جو فرمایا ہے تو وہ شخص چرواہا یا اس کے مانند ہوگا فرمایا کہ گناہ نہیں ہے اس لیے کہ معذور تھا اور ابن ہمام نے کہا ہے کہ صبح تک رمی میں بلا عذر تاخیر کرے امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک رمی کو صبح تک بلا عذر مؤخر کرے تو اس پر دم لازم آتا ہے بخلاف صاحبین کے پھر وقت مسنون دونوں کے نزدیک قربانی کے دن زوال کے بعد غروب آفتاب تک اور غروب کے فجر طلوع ہونے تک وقت مکروہ ہے اور جب طلوع ہو تو ادا کا وقت فوت ہو گیا اور صاحبین کے نزدیک باقی ہے اور قضاء کا وقت اتفاقاً باقی ہے اور جب چوتھے دن کا آفتاب غروب ہو جائے یعنی تیرہویں کا تو ادا کا وقت اور قضاء کا وقت سب ائمہ کرام کے نزدیک فوت ہو جاتا ہے۔

الفصل الثانی:

افعال حج میں تقدیم و تاخیر معاف ہے

۳/۲۵۲۳ وَعَنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَقْضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحِلِّقَ قَالَ إِحْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ ذَبَعْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ إِرْمِ وَلَا حَرَجَ۔ (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۵۸۱۳ الحدیث رقم ۹۱۶۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول! تحقیق میں نے سر منڈانے سے قبل طواف افاضہ کیا ہے۔ آپ ﷺ نے اس کو فرمایا سر منڈالے یا کتر والے اور کوئی گناہ نہیں ہے اور ایک اور شخص آیا اس نے کہا کہ میں نے کنکریاں پھینکنے سے قبل ذبح کیا ہے۔ فرمایا کنکریاں پھینکو اور کوئی گناہ نہیں ہے اور

امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ افعال حج میں اگر تقدیم و تاخیر ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔

الفصل الثالث:

۴/۵۵۳ ر وَعَنْ أَسَمَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمِنْ قَائِلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ أَخَرْتُ شَيْئًا أَوْ قَدْ مَتُّ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عَرَضَ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَلِذَلِكَ أَلَذُّ حَرَجٍ وَهَلَكَ. (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داؤد فی ۵۱۷/۲ الحدیث رقم ۲۰۱۵۔

ترجمہ: حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلا۔ پس لوگ حضور ﷺ کے پاس آئے پس بعض کہنے والوں میں سے کسی نے کہا اے اللہ کے رسول! میں نے طواف کرنے سے پہلے صفا و مروہ میں چکر لگایا میں نے ایک چیز بعد میں کی یا ایک چیز پہلے کی۔ پس حضور ﷺ فرماتے تھے کہ کوئی گناہ نہیں ہے لیکن گناہ اس شخص کو ہے کہ وہ کسی مسلمان کی آبروریزی کرے اس حال میں کہ وہ شخص ظالم ہے پس یہ شخص ظالم ہے گنہگار ہے اور ہلاک ہوا۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے صفا اور مروہ میں چکر لگایا ہے اگر احرام باندھے طواف قدوم یا نفلی طواف سے قبل سعی کر لی تو درست نہیں یعنی طواف افاضہ سے قبل سعی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ سعدی احرام کے باندھتے اور طواف قدوم کے بعد ہو حدیث کا مطلب یہ ہے افعال منیٰ میں تقدیم و تاخیر سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ اس شخص پر ہے کہ کوئی ناحق کسی کی ازراہ ظلم آبروریزی کرے یعنی اہانت یا غیبت وغیرہ کرے اس سے وہ شخص خارج ہو جاتا ہے جو کسی کی دین کے لیے آبروریزی کرے وہ گنہگار نہیں ہے۔

﴿﴿﴿ بَابُ خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ وَرَمِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالتَّوْدِيعِ ﴳ﴾﴾﴾

قربانی کے دن خطبہ کا بیان، ایام تشریق میں رمی کرنا اور طواف وداع کے بیان میں

الفصل الاول:

منیٰ کے مقام پر خطبہ

۱/۵۵۵ ر عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ الرِّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثُ مَتَوَالِيَاتٍ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ وَقَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ الْيَسَّ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ الْيَسَّ الْبَلَدَةُ قُلْنَا بَلَى قَالَ قَاتَى يَوْمَ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ الْيَسَّ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَاسْتَلْقُون رَبَّكُمْ فَسَالِكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ إِلَّا فَلَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ الْآهْلُ بَلَّغَتْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَلَلَّهُمْ أَشْهَدُ فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قُرْبَ مَبْلَغِ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

(متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۷۳/۳۔ الحدیث رقم ۱۷۴۱۔ ومسلم فی ۱۳۰۷/۳ الحدیث رقم (۳۱-۱۶۷۹) وابن

ماجہ فی السنن ۸۵/۱ الحدیث رقم ۲۳۳۔ والدارمی ۹۳/۲ الحدیث رقم ۱۹۱۶۔ واحمد فی المسند ۴۰/۵۔

ترجمہ: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ہم کو قربانی کے دن خطبہ دیا۔ فرمایا: تحقیق زمانہ اپنی وضع کی طرح اللہ تعالیٰ کے آسمان وزمین کو پیدا کر کے دن سے پھر گیا ہے یعنی سال بارہ مہینے کا ہو گیا ان میں سے چار مہینے باحرمت ہیں تین تو بے درپے ذیقعدہ ذی الحجہ اور محرم اور رجب مضر کا کہ جب وہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہو اور حضور ﷺ نے فرمایا کونسا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے پھر سکوت فرمایا یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ اس کا نام ذی الحجہ کے علاوہ رکھیں گے پھر فرمایا گیا ذی الحجہ نہیں ہے ہم نے کہا ذی الحجہ مقرر ہے۔ فرمایا تو کوئی بستی ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) زیادہ جانتے ہیں۔ پھر سکوت فرمایا یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ اس کے نام کے علاوہ نام رکھیں گے فرمایا کہ کیا بلدہ نہیں ہے جو مکہ کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ بلدہ مقرر ہے۔ فرمایا کہ یہ کونسا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں پھر سکوت کیا یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ نام رکھیں گے۔ پھر فرمایا: کیا یہ نحر کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا ہاں! یوم نحر ہے۔ تحقیق تمہارا خون تمہارے اموال اور تمہاری عزت تم پر اس دن کے حرام ہونے کی طرح۔ تمہاری اس بستی کے حرام ہونے کی طرح اور تمہارے اس مہینے کے حرام ہونے کی طرح حرام ہیں اور البتہ تم اپنے پروردگار سے ملو گے پس تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا پس خبردار میری وفات کے بعد گمراہ ہو کر پھر نہ جانا کہ بعض تمہارا بعض کی گردن مارے خبردار کیا میں نے احکام الہی تم تک پہنچا دیئے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہاں پہنچا دیئے حضور ﷺ نے کہا اے الہی تو ان کے اقرار پر گواہ رہ تا کہ قیامت کے دن مگر نہ ہوں پس چاہیے کہ حاضر غائب کو پہنچا دے پس بعض زیادہ پہنچائیں گے جو کہ زیادہ سننے والے ہیں۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: امام شافعیؒ کے نزدیک اول ایام نحر میں خطبہ مستحب ہے اور ہمارے نزدیک نحر کے دوسرے دن خطبہ مستحب ہے۔ چنانچہ صحیح حدیثوں میں دوسرے دن کی قید آتی ہے وہ ہمارے مذہب کی مؤید ہیں پس یہ خطبہ مذکورہ بطور نصیحت کے ہوگا اور خطبہ معروفہ دوسرے دن نحر کے ہوگا واللہ اعلم۔

اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کو پیدا کیا اور پیدائش سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے: ﴿وَإِنَّ

اثنًا عَشَرَ شَهْرًا جملہ متنافہ ہے یعنی پہلے جملے کے واسطے علیحدہ ہے اور چار مہینے باحرمت ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ۔ جمہور نے کہا ہے کہ قتال کی حرمت ان میں منسوخ ہے اور مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں ظلم سے مراد معاصی کا ارتکاب ہے یعنی ان مبارک مہینوں میں گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے خسارہ مت کرو۔ جس طرح حرم میں اور احرام کی حالت میں گناہ کا ارتکاب کرنا برا ہے اسی طرح ان مبارک مہینوں میں بھی گناہ کا ارتکاب کرنا برا ہے۔ جمہور علماء کے قول کی مؤید یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شوال اور ذی القعدہ کے مہینے میں طائف کو گھیرا اور قبیلہ ہوازن کے خلاف لڑائی کی اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان مہینوں کی حرمت اب بھی باقی ہے اور مضر قبیلہ کا نام ہے جو عرب میں رجب کے مہینے کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے اس رجب کی ان کی طرف نسبت کی گئی اور کہا گیا رجب مضر اور حضور ﷺ نے مہینوں کے بارے میں اس لیے پوچھا تا کہ لوگوں کے دلوں میں مہینوں کی حرمت اور شہر کی حرمت اور دن کی حرمت قرار پکڑے اس لیے ان کو بیان کرنا ضروری تھا پھر لوگوں نے جو جواب میں کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ﷺ خوب جانتے ہیں ازراہ ادب کہا اور تا کہ معلوم کریں کہ اس سوال سے کیا غرض ہے اور ایک روایت میں کفار اعداء کے بدلے آیا ہے یعنی اعمال میں کافروں کے مشابہ نہ ہو جاؤ کہ بعض بعض کو قتل کرنے لگے۔

٢/٢٥٢ وَعَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَى أَرْمِي الْجَمَارَ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ إِمَامَكَ فَأَرْمِهِ فَأَعُدْتُ عَلَيْهِ

الْمَسْأَلَةُ فَقَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمِينًا - (رواه البخاري)

عرجہ البخاری فی صحیحہ ۵۷۹/۳ الحدیث رقم ۱۷۴۶۔ وابوداؤد فی السنن ۴۹۶/۲ الحدیث رقم ۱۹۷۲۔

ترجمہ: حضرت ویرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ میں مناروں پر کس وقت کنکریاں پھینکوں یعنی گیارہویں یا بارہویں ذی الحجہ کو؟ فرمایا جس وقت تیرا امام پھینکتے یعنی تو بھی اس کی رمی میں پیروی کر۔ وہ بہ نسبت تیرے رمی کے وقت کو زیادہ جانتا ہے۔ پھر میں نے مسئلہ عرض کیا یعنی میں نے رمی کے وقت کی تحقیق طلب کی۔ پس فرمایا کہ ہم رمی کے وقت کا انتظار کرتے تھے جس وقت دو پہر ڈھلتی ہے ہم رمی کرتے یعنی کنکریاں پھینکتے تھے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا۔

تشریح: اس حدیث میں کنکریاں پھینکنے کے وقت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ امام کی پیروی کرو وہ تم سے بہتر جانتا ہے اور فرمایا کہ ہم اس وقت کنکریاں پھینکتے تھے جب دو پہر ڈھلتی تھی۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا کنکریاں مارنے کا طریقہ

۳/۲۵۲۷ وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي جُمْرَةَ الدَّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يَكْبُرُ عَلَىٰ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّىٰ يُسَهِّلَ لِقَبْلِهِ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَىٰ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يَكْبُرُ كُلَّمَا رَمَىٰ بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَأْخُذُ بِذَاتِ الشِّمَالِ فَيُسَهِّلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا ثُمَّ يَرْمِي جُمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يَكْبُرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ (رواه البخاری)

عرجہ البخاری فی صحیحہ ۵۸۲/۳۔ الحدیث رقم ۱۷۵۲۔

ترجمہ: حضرت سالم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ وہ منارے کے نزدیک سات کنکریاں پھینکتے تھے اور وہ ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے تھے پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ نرم زمین پر آتے پھر قبلے کے سامنے دیر تک سورۃ بقرہ پڑھنے کی بقدر کھڑے رہتے اور دعا مانگتے اور ہاتھ اٹھاتے پھر سات کنکریاں اللہ اکبر کہہ کر درمیانی برجی پر پھینکتے۔ جب کنکری پھینکتے تو پھر بائیں طرف چلتے یہاں تک کہ نرم زمین پر آتے اور قبلے کے سامنے کھڑے ہوتے۔ پھر دعا مانگتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے اور دیر تک کھڑے رہتے اور پھر جمرہ عقبہ پر نالے کے اندر سے سات کنکریاں پھینکتے۔ ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے تھے اور اس کے نزدیک نہ ٹھہرتے پھر لوٹتے اور کہتے کہ اس طرح سے میں نے نبی کریم ﷺ کو کرتے دیکھا ہے۔

تشریح: ترتیب مذکور سے رمی کرنا ہمارے نزدیک سنت ہے لیکن احتیاط کا تقاضا اس میں یہ ہے کہ اس کو ترک نہ کرے اسی لیے کہ یہ امام شافعیؒ کے نزدیک واجب ہے پھر پے در پے رمی کرنا سنت ہے اور امام مالکؒ کے مذہب کے مطابق نالے کے اندر سے مارنا واجب ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے اگر جمرہ عقبہ پر کنکریاں اوپر کی جانب سے ماری جائیں تو کافی ہیں لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ اور پہلے دو مناروں کے پاس ٹھہرنا اور دعا کرنا ثابت ہے اور تیسرے منارے کے پاس ٹھہرنا ثابت نہیں ہے۔ اور اسکی حکمت معلوم نہیں ہے اگرچہ بعضوں نے لکھا ہے۔

منیٰ میں رات ٹھہرنے کا حکم

۴/۲۵۲۸ وَعَنِ ابْنِ اَعْمَرَ قَالَ اسْتَاذَنَ الْعَبَّاسُ بَنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لِكَيْلِي مَنَى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۹۰/۳۔ الحدیث رقم ۱۷۴۵۔ ومسلم فی صحیحہ ۹۵۳/۲ الحدیث رقم (۳۴۶)۔
۱۳۱۵) وابوداؤد فی السنن ۴۹۱/۲ الحدیث رقم ۱۹۵۹ وابن ماجہ فی ۱۰۱۹/۲ الحدیث رقم ۳۰۶۵۔ والدارمی فی ۱۰۲/۲ الحدیث رقم ۱۹۴۳ واحمد فی المسند ۱۹/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عبدالمطلب کے بیٹے عباس رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے رات کو مکہ میں رہنے اور منیٰ کی راتوں میں سبیل زمزم کی خدمت کے لیے اجازت طلب کی۔ پس حضور ﷺ نے ان کو اجازت دے دی۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا ہے کہ زمزم کا پانی پینا طواف افاضہ کے بعد مستحب ہے پس اس زمانے میں کتنے حوض آب زمزم سے بھرے رہتے تھے نہ کہ کنوئیں پر از دھام کی وجہ سے کوئی نہ پی سکتے تو ان حوضوں میں سے پانی پیے اور اس کے داروغہ عباس رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب تھے۔ جو حضور ﷺ کے چچا تھے اور ان کے کئی نائب تھے جو پلایا کرتے تھے پس جن راتوں کو منیٰ میں رہتے حضور ﷺ سے اجازت مانگی کہ اگر اجازت ہو تو میں پانی پلانے کی خدمت کے لیے مکہ میں رہوں حضور ﷺ نے ان کو اجازت دے دی اور جمہور علماء کے نزدیک معلوم راتوں میں منیٰ میں رہنا واجب ہے اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک سنت ہے اور ایک روایت امام شافعی اور احمد سے بھی یہی ہے اور معتبر رات کے رہنے میں اکثر رات ہے۔ یعنی آدھی رات سے زیادہ اور ایسا ہی حکم اس جگہ کا ہے کہ رات کا قیام مستحب ہے لیلۃ القدر وغیرہ کی طرح کہ اکثر رات کا قیام کرنا مستحب ہے اور جو حضرات سنت کہتے ہیں وہاں رات رہنے کی دلیل ان کی یہی حدیث ہے کہ اگر واجب ہوتا تو حضور ﷺ مکہ میں رات رہنے کی اجازت کیوں دیتے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ جائز ہے جو پانی پلانے میں مشغول ہو۔ عباس رضی اللہ عنہ کی طرح اور اگر اس کو شدید عذر ہو تو پھر بھی رات کو منیٰ میں رہنا ترک کر سکتا ہے اتنی۔ پس اشارہ کیا ہے اس طرف کہ سنت کا ترک کرنا جائز نہیں ہے مگر عذر کے ساتھ اور عذر کی وجہ سے برائی دور ہو جاتی ہے۔

آب زمزم پلانا ثواب ہے

۵/۲۵۲۹ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَانْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ اسْقِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ قَالَ اسْقِنِي فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ اْعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنْ تَغْلَبُوا تَنَزَّلْتُ حَتَّى أَصَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ

إلى عَاتِقِهِ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۹۱/۳ - الحدیث رقم ۱۶۳۵ -

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ مکہ کی سبیل کی طرف تشریف لائے پس زمزم کا پانی مانگا پس عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا: اے فضل! تو اپنی ماں کے پاس جا اور نبی کریم ﷺ کے لیے پانی لے کر آ۔ یعنی وہ پانی مستعمل نہ ہو۔ پس حضور ﷺ نے فرمایا مجھ کو اس میں سے پلا۔ پس حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول! لوگ اپنے ہاتھ اس میں ڈالتے ہیں۔ فرمایا مجھ کو اسی میں سے پلا پس حضور ﷺ نے اس پانی میں سے پیا پھر زمزم کے کنویں کے پاس آئے اور لوگ یعنی اولاد عبدالمطلب لوگوں کو پانی پلاتے تھے اور پلانے میں محنت کرتے تھے پھر فرمایا کام کیے جاؤ تم ایک نیک کام کے اوپر ہو فرمایا اگر مجھے خوف نہ ہوتا لوگ غلبہ کریں گے یعنی لوگ میری اتباع سنت سے پانی کھینچنے میں تم پر غالب آ جائیں گے اور تم لوگوں کو پانی کھینچنے نہیں دیں گے اور یہ کام تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے گا یعنی میں اترتا اپنی اونٹنی پر سے کہ حضور ﷺ سوار تھے اس پر تاکہ لوگ دیکھیں اور احکام سیکھیں یہاں تک میں اس پر رتی رکھتا اور اپنے کندھے کی طرف اشارہ فرمایا۔

تشریح: حدیث میں لفظ آیا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یعنی گمان یہ ہے اکثر لوگوں کے ہاتھ صاف نہیں ہوتے اور وہ اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس لیے آپ ﷺ کے لیے الگ رکھے ہوئے پانی میں سے مانگا حضور ﷺ نے فرمایا کوئی مضائقہ نہیں ہے اسی میں سے پلاؤ پس اس میں سے پیا اور اس کے موافق وہ روایت ہے کہ حضور ﷺ بطور تبرک کے لوگوں کے وضو سے بقیہ پانی کو پینا پسند کرتے تھے اور انس رضی اللہ عنہ سے بطریق مرفوع منقول ہے۔ یہ تو واضح سے ہے کہ یہ آدمی اپنے چھوٹے بھائی سے پیئے اور حدیث سورالمؤمنین غیر معروف ہے اور روایت سے معلوم ہوا ہے نہ حضور ﷺ پانی کھینچنے اور پینے کے لیے نہیں اترے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ جب طواف افاضہ کر چکے تو زمزم سے ڈول کھینچا آپ ﷺ کے ساتھ کسی نے نہیں کھینچا۔ پس پیا پھر کنویں میں ڈالا۔ پس وجہ تطبیق ان میں یہ ہے کہ اول حضور ﷺ بھیز کودیکھ کر نہ اترے ہوئے پھر دوبارہ تشریف لائے اور پانی کھینچا اور پیا۔

۶/۲۵۳۰ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَفَعَهُ

رَفْعَةً بِالْمَحْضَبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ لَطَافَةً بِهِ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۸۵/۳ - الحدیث رقم ۱۷۵۶ - والدارمی فی السنن ۷۷/۲ الحدیث رقم ۱۸۷۳ -

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں پھر تھوڑی دیر کے لئے محصب میں سو گئے پھر سوار ہو کر خانہ کعبہ کی طرف تشریف لائے اور اس کا طواف (طواف وداع) کیا۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ محصب اصل میں اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں سنگریزے بہت زیادہ ہوں اور اب ایک جگہ کا نام ہے جو منی کے متصل ہے اور اس کو اطلح اور بطحاء اور خیف بنی کنانہ بھی کہتے ہیں اس لیے راوی نے کہا کہ حضور ﷺ نے محصب میں نماز پڑھی اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اطلح میں نماز پڑھی اور محصب میں اترنا تیرہویں ذی الحجہ کو منی

سے نکلنے کے بعد تھا۔

۲۵۳۱/۷ وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُقَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَيْنَ صَلَّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمَنْى قَالَ فَآتَيْنَ صَلَّيَ الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفَرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ أَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ أُمْرَاؤُكَ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخارى فى صحيحه ۵۰۷/۳۔ الحديث رقم ۱۷۶۳۔ ومسلم فى صحيحه ۹۵۰/۲ الحديث رقم (۳۳۶)۔
وابوداؤد فى السنن ۴۶۷/۲ الحديث رقم ۱۹۱۲ والترمذى فى ۲۹۶/۳ الحديث رقم ۹۶۴۔ والنسائى فى ۲۴۹/۵ الحديث رقم ۲۹۹۷۔

ترجمہ: حضرت عبدالعزیز بن رفیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھ کو اس چیز کی خبر دو کہ جو آپ نے جانی کہ پیغمبر ﷺ نے ظہر کی نماز آٹھویں تاریخ ذی الحجہ کو کہاں پڑھی؟ انس رضی اللہ عنہ نے کہا منیٰ میں عبدالعزیز نے کہا یعنی منیٰ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ ﷺ نے فجر کے دن نماز کہاں پڑھی؟ تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابح میں نماز پڑھی پھر انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو ایسا کر جیسا کہ تیرے سردار کرتے ہیں۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے اسی طرح کیا اور تو اس طرح کر جس طرح امراء کرتے ہیں ان کی مخالفت نہ کر کہ وہ فقہ انگیزی کا باعث ہو اور یہ امر کوئی ضروری بھی نہیں ہے اور پہلی حدیث سے یہ معلوم ہوا ہے کہ حضور ﷺ نے ظہر کی نماز محصب میں پڑھی اور اس میں ظہر کی نماز سے یعنی اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ظہر کی نماز منیٰ میں پڑھی یا محصب میں اسی کو ابح بھی کہتے ہیں پس دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں رہا۔

۸/۲۵۳۲ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ۔

اخرجه البخارى فى صحيحه ۵۹۱/۳۔ الحديث رقم ۱۷۶۵۔ ومسلم فى ۹۵۱/۲ الحديث رقم (۳۳۹)۔ (۱۳۱۱)۔
وابوداؤد فى السنن ۵۱۳/۲ الحديث رقم ۲۰۰۸ والترمذى ۲۶۴/۳ الحديث رقم ۹۲۳۔ وابن ماجه ۱۰۱۹/۲ الحديث رقم ۳۰۶۷ واحمد فى المسند ۲۳۰/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ابح میں اترنا سنت نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ اس لیے اترتے تھے کہ اس میں اترنا نکلنے کے لئے بہت آسان تھا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ✽ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ابح میں حضور ﷺ اس لیے اترتے تھے تا کہ اسباب وہاں چھوڑ جائیں اور مکہ میں جا کر طواف الوداع کریں وہاں سے نکل کر مدینہ کو آنے لگیں تو نکلنا آسان ہو اور جان لینا چاہیے کہ اختلاف اس میں ہے محصب یعنی محصب میں اترنا سنت ہے یا نہیں؟ بعض نے کہا وہ حج کی سنتوں میں سے ہے اور افعال حج کے تتمہ میں سے ہے۔ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے اس لیے کہ حضور ﷺ نے منیٰ میں فرمایا ہم ان شاء اللہ حنیف بنی کنانہ میں کل اترنے والے ہیں کہ وہاں مشرکوں نے آپس میں عہد کیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ بنی ہاشم کے ساتھ اور بنی عبدالمطلب کے ساتھ مخالفت اور نکاح اور خرید و فروخت اور ملاقات نہیں کریں گے یہاں تک کہ محمد ﷺ کو ہمارے سپرد نہیں کر دیں گے پس حضور ﷺ نے چاہا کہ اسلام نشانیوں کو اس مکان میں ظاہر کریں کہ جہاں کافروں نے نشانیاں ظاہر کی تھیں اور خدا تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کریں اور طبرانی میں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو اس کا حکم کرتے تھے اور ہدایہ میں لکھا ہے کہ صحیح ترین یہ ہے کہ حضور ﷺ کا محب میں اترنا اس قصد سے تھا کہ مشرکوں کو باری تعالیٰ کی قدرت دکھائیں اس لیے وہاں اترنا سنت ہے انتہی اور بعض لوگوں نے کہا کہ سنت نہیں ہے بلکہ ایک اتفاقی امر تھا کہ ابورافع آنحضرت ﷺ کے سامان کا نگہبان تھا وہاں اترے اور آپ ﷺ کا وہاں خیمہ کھڑا کیا، محب اتفاق اپنی رائے کے مطابق حضور ﷺ کا امر نہیں تھا یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے۔ جاننا چاہیے کہ جب حضور ﷺ وہاں اترے اگرچہ بطریق اتفاق کے تھا تو وہاں اترنا اچھا ہے صحابہ اور خلفائے راشدین بھی اس پر عمل کرتے تھے اور اگر نہ اترتے تو کچھ لازم نہیں آتا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے عمرۃ القضاء کا بیان

۹/۲۵۳۳ وَعَنْهَا قَالَتْ أَحْرَمْتُ مِنَ التَّعِيمِ بِعُمْرَةٍ لَدَى خَلْتٍ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِي وَانْتَقَرَتْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ حَتَّى قَرَعْتُ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ فَخَرَجَ لَمَرًا بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَذَا الْحَدِيثُ مَا وَجَدْتُهُ بِرِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ بَلْ بِرِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ فِي آخِرِهِ۔

اخرجه ابوداؤد فی السنن ۵۱۲/۲ الحديث رقم ۲۰۰۵۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے تنعم سے عمرے کا احرام باندھا۔ پس میں مکہ میں داخل ہوئی اور میں نے اپنا عمرہ ادا کیا یعنی جو کہ حیض کی وجہ سے رہ گیا تھا اس کی قضا کی جیسا کہ حجۃ الوداع کے باب میں آیا ہے اور رسول خدا ﷺ نے ابٹح میں میرا انتظار کیا یہاں تک کہ میں فارغ ہوئی پھر لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم فرمایا، پھر حضور ﷺ ابٹح سے نکلے اور خانہ کعبہ کے پاس آئے پھر فجر کی نماز سے پہلے طواف (الوداع) کیا پھر مدینے کی طرف نکلے۔ مؤلف نے کہا ہے یہ حدیث میں نے بخاری اور مسلم کے علاوہ نہیں پائی بلکہ ابوداؤد نے اس روایت کو آخر میں تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو پھر مدینہ کی طرف نکلے احتمال ہے کہ نماز فجر سے پہلے نکلے ہوں یا نماز کے بعد اور تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ یعنی ابوداؤد کی روایت میں اور مصابیح کی روایت میں تھوڑا سا اختلاف ہے پس اس میں صاحب مصابیح پر اعتراضات ہیں کہ حدیث فصل اول میں ذکر کی ہے اور ابوداؤد نے مخالفت کی ہے۔ واللہ اعلم۔

طواف وداع آفاقی کے لیے ضروری ہے

۱۰/۲۵۳۳ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خِفَفَ عَنِ الْحَائِضِ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۸۵/۳۔ الحديث رقم ۱۷۵۵۔ ومسلم فی ۹۶۳/۲ الحديث رقم (۳۷۹-۱۳۲۷)۔ و ابوداؤد فی السنن ۵۱۰/۲ الحديث رقم ۲۰۰۲ وابن ماجہ ۱۰۲۰/۲ الحديث ۳۰۷۰۔ والدارمی ۹۹/۲ الحديث رقم

۱۹۳۲- واحمد فی المسند ۲۲۲/۱-

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ لوگ (حج کرنے کے بعد) ہر طرف پھرتے تھے پھر اپنے ملک کی طرف چلے جاتے تھے خواہ طواف کرتے نہ کرتے یعنی اس کے مقید نہیں تھے کہ مکہ میں آئیں اور طواف وداع کریں پس نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی نہ نکلے یعنی آفاقی یہاں تک کہ اس کا آخری وقت خانہ کعبہ میں ہو یعنی طواف کرے مگر حائضہ سے اور نفاس والی عورت سے طواف وداع موقوف کر دیا گیا ہے۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس طواف کو طواف وداع بھی کہتے ہیں اور طواف صدر بھی۔ یہ طواف واجب ہے اور کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ اس کے بعد جتنی دیر مرضی ٹھہرے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ نکلنے وقت کرے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہؒ سے منقول ہے اگر کوئی شخص طواف وداع کرے اور اقامت کرے تو میرے نزدیک مجبوتر ہے یعنی بہت پسندیدہ ہے یہاں تک کہ دوسرا طواف کرے اور یہ طواف اہل مکہ پر نہیں ہے اور نہ ان پر جو میقات کے اندر رہتے ہیں اور نہ اس پر ہے جو مکہ کے اندر قیام پذیر ہو گیا ہو اور پھر اس کا نکلنا منظور ہو اور اس طرح حج فوت کرنے والے پر بھی نہیں ہے اور نہ عمرہ کرنے والے پر ہے اور اس طرح طواف میں رمل یعنی اکڑ کر چلنا بھی نہیں ہے اور نہ اس کے بعد سعی ہے۔

حائضہ کے لیے طواف وداع کی ضرورت نہیں ہے

۱۱/۲۵۳۵ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفَرِ فَقَالَتْ مَا أَرَانِي إِلَّا حَابِسَتْكُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَرِي حَلَفْتُ يَوْمَ النَّحْرِ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْفَرِي - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۹۵/۳۔ الحدیث رقم ۱۷۷۱۔ و مسلم فی ۹۶۵/۲ الحدیث رقم (۳۸۷۔ ۱۲۱۱) وابن

ماجہ فی السنن ۱۰۲۱/۲ الحدیث رقم ۳۰۷۲۔ واحمد فی المسند ۸۵/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نفر کے دن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حیض والی ہوئیں پس کہنے لگیں کہ میں اپنے کو نہیں گمان کرتی کہ تم لوگوں کو مدینہ سے کوچ کرنے سے روکوں گی۔ اس لیے کہ میں حائضہ ہوگی ہوں اور میں نے طواف وداع نہیں کیا ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرے اور زخمی کرے کیا اس نے قربانی کے دن طواف زیارت کیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا پھر چلو (اب رکنے کی ضرورت نہیں ہے)۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حدیث میں جو آیا ہے کہ روز نفر کی رات سے۔ اس سے مراد وہ رات ہے کہ جس میں حضور ﷺ محصب میں رہے تھے یعنی تیرہویں کی رات اور وہ رات باب الحج میں سابق دن کے ساتھ نہ کہ آئندہ کے ساتھ منسوب ہے یعنی روز نفر کی رات تیرہویں کی ہے اور حضرت صفیہؓ نے یہ گمان کیا تھا کہ طواف وداع الزیارة کی طرح ہے اس کو ترک کرنا جائز نہیں ہے عذر کی وجہ سے جائز ہے اس لیے فرمایا ہلاک کرے اصل میں یہ بددعا ہے لیکن یہاں بددعا کا ارادہ نہیں ہے بلکہ عربوں کی عادت ہے کہ ایسے کلمات ازراہ پیار کے بولتے ہیں پس چل یعنی مدینہ کی طرف بغیر طواف وداع کے اس لیے کہ اس کا وجوب عذر کی وجہ سے ساقط ہے اور طواف الزیارة کر چکی ہے اور اگر نہ کر چکی ہوتی تو ٹھہرنا پڑتا۔

الفصل الثانی:

حج اکبر کے دن کا ذکر

۲۵۳۶/۱۲ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَّا لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ إِلَّا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيَسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَفِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرُضَى بِهِ۔ (رواه ابن ماجه والترمذی وصححه)

اخرجه الترمذی فی السنن ۴۰۱/۴ الحدیث رقم ۲۱۵۹۔ وابن ماجه فی ۱۰۱۵/۲ الحدیث رقم ۳۰۵۵۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن اخوص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے حجۃ الوداع کے موقع پر سنا فرماتے تھے یہ کونسا دن ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ دن حج اکبر کا ہے پس تحقیق تمہارے خون اور تمہارے مال اور آبرو تمہارے درمیان حرام کی گئیں ہیں۔ تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح خبردار کوئی ظلم کرنے والا ظلم نہیں کرتا۔ مگر اپنی جان پر جو کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے اس کا وبال اس پر پڑتا ہے وہ اس کے آنے کی وجہ سے ماخوذ ہوتا ہے پکڑا نہیں جاتا خبردار رہو شیطان ناامید ہوا اس سے کہ تمہارے شہر مکہ میں اس کی عبادت کی جائے لیکن شیطان کی فرمانبرداری ان چیزوں میں ہو گی کہ جن کو تم اپنے عملوں سے حقیر جانو گے پس وہ اس کے ساتھ خوش ہوگا یعنی گناہوں کے حقیر جاننے کی وجہ سے۔ اس کو ابن ماجہ اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔

تشریح: اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ حج اکبر کا دن ہے کہ حج اکبر مطلق حج کا نام ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے: **وَإِذْ أَنْزَلْنَا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ**۔ علامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ وہ عید کا دن ہے اس لیے کہ اس دن حج تمام ہوتا ہے اور اس میں حج کے بڑے بڑے افعال ہوتے ہیں اور صراحتاً بھی کہا گیا ہے کہ حضور ﷺ قربانی کے دن حجۃ الوداع میں جمرات کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یہ دن حج اکبر کا ہے اور حج کی صفت اکبر اس لیے فرمائی کہ عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور اوپر کی حدیث میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا جواب تھا۔ اللہ ورسولہ اعلم اور اس میں یہ جواب مذکور ہوا ہے کہ دن حج اکبر کا ہے شاید یہ کہ بعضوں نے یہ جواب دیا ہے اور بعضوں نے وہ جواب دیا ہو۔

اور تحقیق خون تمہارے یعنی جیسا اس دن اور اس شہر میں آپس میں ایک دوسرے کا خون کرنے اور مال لینے کو اور بے آبروئی کرنے کو حرام و برا سمجھتے ہو۔ اسی طرح سے یہ اعمال ہر جگہ اور ہر وقت برے ہیں اور کوئی ظلم کرنے والا اپنے بیٹے پر ظلم نہیں کرتا۔ ظاہر تر یہ ہے کہ نفی ہے کہ کوئی ظلم کرنے والا ظلم نہیں کرتا نہ بیٹا اپنے باپ پر اور نہ ہی باپ اپنے بیٹے پر یعنی کوئی کسی کے ظلم کرنے پر ماخوذ نہیں۔ پس یہ اللہ تعالیٰ کے قول کے موافق ہے: **وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ**۔ یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا اور خاص یہ دونوں ذکر کیے گئے ہیں اس لیے کہ یہ رشتے میں زیادہ قریب ہیں پس جب کہ آپس میں

ماخوذ نہیں ہیں تو ان کے علاوہ بطریق اولیٰ ماخوذ نہیں ہوئے۔ تو گویا پہلے جملے کی تاکید ہے اور عبادت کیا جائے یعنی فرمانبرداری کی جائے خدا تعالیٰ کے علاوہ یعنی کوئی شخص شیطان کے بہکانے سے مکہ میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کرے گا اور مراد یہ ہے کہ کفار مکہ میں جملے کے لیے قتل کے لیے اور لوٹنے وغیرہ کے لئے خفیہ طور پر جاتے ہیں۔

اور صغائر کے حقیر جاننے سے مراد یہ ہے کہ گناہ کرتے ہو اور ان کو حقیر جانتے ہو۔ ان عملوں میں شیطان کی فرمانبرداری کی ہے شیطان اس سے راضی ہوتا ہے اور وہ عمل باعث فتنہ و فساد کے ہوتے ہیں۔

قوله لا یجنى جان على نفسه : کو شارحین نے ان کے لفظ کے بغیر نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ نفی نہی کے ہے یعنی کوئی اپنے نفس پر ظلم نہ کرے مراد یہ ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اس لیے کہ جو کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق کر دیتا ہے، جن ایک روایت میں یہ جملہ ان الفاظ میں آیا ہے: لا یجنى الا على نفسه لیکن اس عاجز نے جو ابن ماجہ میں دیکھا تو لفظ الاموجود ہے اور مولانا صاحب زاد اللہ شرفا کے نسخہ میں لفظ الا کا ہے اس لیے ترجمہ اس کے موافق ہو گیا ہے۔

منیٰ میں آپ ﷺ نے سوار ہو کر خطبہ دیا

۱۳/۲۵۳۷ رافع بن عمرو المزنی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس بمنی حین ارتفع الضحی علی بغلہ شہباء وعلی یعبّر عنہ والناس بین قائم وقاعد۔ (رواہ ابو داود)

اخرجه ابو داود فی السنن ۴۸۹/۲ الحدیث رقم ۱۹۵۶۔

ترجمہ: حضرت رافع بن عمرو المزنی سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو منیٰ میں لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت کہ چاشت کا وقت بلند ہوا۔ یعنی فجر کے دن اول وقت فجر کے سوار ہو کر۔ اس کے بالوں کے سرے سرخ تھے اور اندر سے سفید اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی طرف سے لوگوں کو بیان کرتے تھے یعنی جو لوگ کہ دور تھے ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھاتے جو کچھ حضور ﷺ فرماتے تھے اور بعض لوگ کھڑے تھے اور بعض بیٹھے تھے۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ ﷺ فجر پر سوار ہو کر منیٰ میں خطبہ دے رہے تھے۔ مجمع زیادہ تھا لوگ کچھ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ کھڑے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو بتا رہے تھے جو آپ ﷺ سے دور تھے۔

۱۴/۲۵۳۸ وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ۔ (رواہ الترمذی و ابو داود وابن ماجہ)

اخرجه ابو داود فی السنن ۵۰۹/۲ الحدیث رقم ۲۰۰۰۔ و الترمذی فی ۲۶۲/۳ حدیث رقم ۹۲۰۔ وابن ماجہ فی ۱۰۱۷/۲ الحدیث رقم ۳۰۵۹۔ واحمد فی المسند ۳۰۹/۱۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قربانی کے دن رات تک طواف زیارۃ کو مقرر کیا۔ یہ حدیث ترمذی ابو داؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ طواف زیارت کو مؤخر کرنا یا تو سب کے لیے یا عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اس لیے کہ ثابت ہوا ہے کہ حضور ﷺ نے طواف الزیارة کیا ہے قربانی کے دن پھر مکہ میں نماز پڑھی یا منیٰ میں نماز پڑھی۔ طیبیؒ نے کہا ہے کہ اول وقت اس کا امام شافعیؒ کے نزدیک عید کی آدھی رات کے بعد ہے اور دن کے نزدیک عید کے دن کی فجر طلوع ہو نے تک ہے اور اس کے آخری وقت جب بھی طواف کرے جائز ہے اتھی لیکن امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک واجب ہے کہ ایام نحر کے ہوں اگر ان سے تاخیر کرے گا تو دم یعنی جانور کا ذبح کرنا لازم آئے گا۔

۵/۲۵۳۹ اَوْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمِلْ فِي السَّجْعِ الَّذِي الْفَاضَ فِيهِ۔

(رواہ ابو داؤد وابن ماجہ)

ترجمہ ابو داؤد فی السنن ۵۰۹/۲ الحدیث رقم ۲۰۰۱۔ وابن ماجہ فی ۱۰۱۷/۲ الحدیث رقم ۳۰۶۰۔
ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے طواف زیارت میں رمل نہیں کیا۔ اس کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ رمل اس کو کہتے ہیں کہ چھاتی نکال کر کندھے کو حرکت دیتے ہوئے جلدی چلنا۔ پس یہ کام حضور ﷺ کے لئے طواف زیارت میں فرض تھا لیکن اس لیے نہیں کیا کیونکہ طواف قدم میں کر چکے تھے۔
مُسْتَبَدَلَةٌ: یعنی طواف زیارت بغیر سعی اور رمل کے کرے اگر اس طواف سے پہلے سعی و رمل کر چکا ہے اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں کی ہیں تو طواف الزیارة کرے۔

۱۶/۲۵۴۰ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ

كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ۔ (رواہ فی شرح السنة وقال اسنادہ ضعیف وفی رواية احمد والنسائی عن ابن عباس قال اذا رمى

الحمرة فقد حل اكل شيء الا النساء)

ترجمہ ابو داؤد فی السنن ۴۹۹/۳ الحدیث رقم ۱۹۷۸۔ والدارقطنی فی ۲۷۶/۲ الحدیث رقم ۱۸۵ من باب المواقیب۔
واحمد فی المسند ۱۴۳/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمرۃ العقبہ پر کنکریاں مارے اور سر منڈوائے اور بال کتروائے تو اس کے لیے ہر چیز سوائے عورتوں کے حلال ہوگئی۔ یعنی عورتوں سے صحبت کرنا ابھی حلال نہیں ہوا۔ یہ طواف زیارة کے بعد حلال ہوں گی۔ یہ صاحب مصابیح نے شرح السنۃ میں نقل کیا ہے اور کہا کہ اس کی اسناد ضعیف ہیں اور احمد کی روایت میں ہے اور نسائی نے ابن عباسؓ سے یوں کہا ہے کہ جس وقت کہ جمرہ پر یعنی جمرۃ العقبہ پر کنکریاں مارے۔ پس تحقیق اس کے لیے ہر چیز سوائے عورتوں کے حلال ہوگئی۔

تشریح ﴿ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے سر منڈانے اور بال کتروانے کے بعد ہر چیز حلال ہو جاتی ہے مگر عورتیں حلال نہیں ہوتیں۔

کنکریاں مارنے کے اوقات

۱۷/۲۵۳۱. وَعَنْهَا قَالَتْ أَقَا صَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْى فَمَكَتْ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَجِّ حَصِيَّاتٍ يَكْبُرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ يَرْمِي الثَّالِثَةَ فَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۹۷/۲ الحديث رقم ۱۹۷۳۔ والدارقطنی فی ۲۷۴/۲ الحديث رقم ۱۷۹ من باب المواقيت۔ واحمد فی المسند ۹۰/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے نحر کے دن آخر میں طوافِ افاضہ کیا یعنی عید قربان کے آخری روز میں اس وقت کہ ظہر کی نماز پڑھی پھر منیٰ کی طرف تشریق کے دن کی راتوں میں ٹھہرے یعنی گیارہویں بارہویں تیرہویں ذی الحجہ کو ہر جمرہ کو کنکریاں مارتے تھے جس وقت دو پہر ڈھل جاتی یعنی سات کنکریاں مناروں کو بکسیر کے ساتھ مارتے اور پہلے مینار کے پاس ٹھہرتے اور دوسرے یعنی وسطی کے پاس اور ٹھہرتا لمبا کرتے اذکار کے لیے اور طرح طرح کی دعاؤں کے ساتھ اور عرض حاجات کے ساتھ آہ و زاری کرتے اور تیسرے منار کو مارتے اور اس کے پاس نہ ٹھہرتے۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ حضور ﷺ نے ظہر کی نماز قربانی کے دن مکہ میں پڑھی اور ظہر کے بعد طواف کیا اور اس کے پاس دعا کے لیے نہ ٹھہرتے تھے۔

۱۸/۲۵۳۲. وَعَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ الْبَيْتُوتَةَ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمَى يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُوهُ فِي أَحَدِهِمَا. (رواه مالك والترمذی والنسائی وقال الترمذی هذا حديث صحيح)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۹۷/۲ الحديث رقم ۱۹۷۵۔ والترمذی فی ۲۸۹/۳ احديث ۹۵۵۔ والنسائی ۲۷۳/۵ الحديث رقم ۳۰۶۹۔ وابن ماجه فی ۱۰۱/۲ الحديث رقم ۳۰۳۷۔ ومالك فی الموطأ ۴۰۸/۱ الحديث رقم ۲۱۸ من كتاب الحج۔ واحمد فی المسند ۴۵۰/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو البداح بن عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اونٹوں کے چرانے والوں کو منیٰ میں شبِ باشی یعنی رات گزارنے کو ترک کرنے پر اجازت مرحمت فرمائی اور جمرہ العقہ کو نحر کے دن کنکریاں ماریں پھر دو دن کے مارنے کو قربانی کے دن کے بعد جمع کیا۔ پس ماریں دونوں دن کا مارنا ان دونوں میں سے ایک میں۔ اس کو امام مالک اور ترمذی اور نسائی اور کہا ہے امام ترمذی نے یہ حدیث صحیح ہے۔

تشریح: علامہ طیبی نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چرانے والوں کو اجازت دے دی کہ ایام تشریق کی راتوں میں منیٰ میں نہ رہیں۔ اس لیے کہ وہ جانوروں کو چرانے میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کو اجازت دی کہ وہ عید کے دن جمرہ العقہ

پر نکلیاں ماریں فقط عید کے دوسرے دن نہ ماریں بلکہ تیسرے دن میں دونوں دنوں کی قضاء اور اداء اور ائمہ کرام رحمہم اللہ کے نزدیک تقدیم رمی جائز نہیں ہے دوسرے دن عید کے یعنی تیسرے دن بھی بارہویں کی رمی بھی کرے تو درست نہیں ہے اور تاخیر درست ہے کہ دوسرے دن کے بدلے تیسرے دن میں مارے۔

بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ

یہ باب ان چیزوں کے بیان میں ہے جن سے محرم پرہیز کرے

فائدہ: اس بات میں ان چیزوں کا بیان کیا گیا ہے جن کا کرنا محرم کے لیے حرام ہے خواہ ان سے دم واجب ہو یا صدقہ دینا یا کچھ واجب نہ ہو اور ان کا بیان ہے کہ محرم ان کا کرنا مباح ہے اور اس میں صدقہ یہ ہے کہ آدی ایک صاع یعنی دو سیر گیہوں یا ایک صاع یا تھوڑی سی غیر معین چیز دے۔

الفصل الاول:

محرم کن کن چیزوں سے پرہیز کرے؟

۱/۲۵۳۳ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الْقِيَابِ فَقَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَّ وَلَا الْعَمَانِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْخِصْفَاتِ إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَلَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الْقِيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ - (متفق عليه وزاد البخاری فی رواية) وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُقَارِيزَ -

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۰۱/۳۔ الحدیث رقم ۱۵۴۲۔ ومسلم فی ۸۳۴/۲ الحدیث رقم (۱۱۷۷)۔ وابوداؤد فی السنن ۴۱۰/۲ الحدیث رقم ۱۸۲۳ والترمذی فی ۱۹۴/۳ الحدیث رقم ۸۳۳۔ والنسائی فی ۱۲۹/۵ الحدیث رقم ۲۶۶۷۔ وابن ماجہ ۹۷۷/۲ الحدیث رقم ۲۹۲۹۔ والدارمی فی ۴۹/۲ الحدیث رقم ۱۷۹۸۔ ومالك فی الموطأ ۳۲۴/۱ الحدیث رقم ۸ من کتاب الحج واحمد فی المسند ۳۲/۲۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محرم کپڑوں کی کوئی قسم پہنے اور کیا نہ پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کرتے پہنو اور پگڑیاں نہ باندھو اور نہ پانجامے اور بارانیاں اوڑھو اور موزے نہ پہنو۔ مگر وہ شخص کہ جو جوتے نہ پائے۔ پس وہ موزے پہنے اور چاہے کہ وہ موزے دونوں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ ڈالے اور نہ ان کپڑوں کو پہنو جن کو زعفران لگی ہو اور نہ وہ کپڑا پہنو جن کو درس لگی ہوئی ہو۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کی ہے اور امام بخاری نے اور ایک روایت میں زیادہ کیا ہے اور احرام والی عورت نقاب ڈالے اور دستانے نہ پہنے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کرتوں کے پہننے سے مراد یہ ہے اور پانجاموں کے پہننے سے یہ ہے کہ جس طرح پہننے کا معمول ہے کہ کرتے کو گلے میں پہنتے ہیں اور پانجامہ کو پاؤں میں پہنتے ہیں پس اس طرح پہننا منع ہے اگر

ان کو چادر کی طرح بدن پر ڈال لے تو منع نہیں ہے اس لیے کہ اس صورت میں یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کرتا پہنا ہے اور پانجامہ پہنا ہے اور نہ ہی بارالی اس سے مراد ہے کہ اس چیز نہ پہنے کہ سر کو ڈھانپ لے۔ خواہ ٹوپی ہو خواہ بارالی خواہ کوئی اور چیز ہو۔ مگر جو ایسی چیز ہو۔ کہ عرف میں اس کو پہننا اور اوڑھنا نہ کہتے ہوں۔ کوٹنڈھے کے رکھ لینے کی طرح اور گٹھری کے اٹھانے لینے پر کوئی مضائقہ نہیں ہے اور ٹخنے سے مراد اس جگہ پر ہڈی ہے حنفی مذہب کے نزدیک جو پاؤں کے نیچے کی جانب درمیان میں ہوتی ہے اور امام شافعی کے نزدیک یہی ٹخنا ہے جس کا وضو میں دھونا فرض ہے اور علماء نے اختلاف کیا ہے کہ جس کے پاس جو تانہ اور وہ موزہ پہن لے تو کیا اس پر فدیہ واجب ہوتا ہے یا نہیں پس امام مالکؒ اور شافعیؒ نے کہا اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور امام ابوحنیفہؒ اور ان کے علماء نے کہا ہے کہ اس پر فدیہ ہے جیسے جب سر منڈانے کی ضرورت پڑے تو سر منڈوائے اور فدیہ دے اور ورس ایک خاص قسم کی گھاس ہے جو زرد رنگ کی ہے اور زعفران کے مشابہ ہے اور اور ورس کے رنگ سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے ان میں اور نہ نقاب ڈالے..... کا مطلب یہ ہے یعنی منہ کو برقع اور نقاب سے نہ ڈھانپے اور منہ پر کوئی چیز ایسی ڈالے کہ وہ الگ رہے تو یہ جائز ہے اور مرد کو منہ ڈھانکنا حرام ہے عورت کی طرح ہمارے نزدیک اور یہی امام مالکؒ اور احمدؒ نے کہا ہے۔ ایک روایت میں اور امام شافعیؒ کا اس میں اختلاف ہے اور ہودج اگر سر کو لگے تو اس میں بیٹھنا منع ہے اور اگر نہیں لگتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس طرح خانہ کعبہ کا پردہ اور خیمہ سر کو لگے تو ان کے نیچے کھڑا ہونا منع ہے ورنہ نہیں ہے۔

محرم کے لیے رخصت کا ذکر

۲/۲۵۴۳ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدِ

الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَيْسَ خُفَّيْنِ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَيْسَ سَرَاوِيلَ - (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۷/۴۔ الحدیث رقم ۱۸۴۱۔ ومسلم فی صحیحہ ۸۳۵/۲ الحدیث رقم ۱۱۷۸/۴۔

وابوداؤد فی السنن ۴۱۳/۲ الحدیث رقم ۱۸۲۹۔ والنسائی فی ۱۳۲/۵ الحدیث رقم ۱۶۷۱۔ وابن ماجہ فی ۹۷۷/۲

الحدیث رقم ۲۹۳۱ والداری فی ۵۰/۲ الحدیث رقم ۱۷۹۹۔ واحمد فی المسند ۲۱۵/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے کہ جس وقت محرم جو تے نہ پائے تو وہ موزے پہن لے اور جس وقت تہہ بند نہ پائے تو پانجامہ پہن لے۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا

ہے۔

تشریح: ✽ اس حدیث پاک میں محرم کے لیے سہولت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ موزے پہنے یعنی ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ

کر۔ جیسا کہ اوپر کی حدیث میں گزر چکا ہے اور جس صورت میں تہہ بند نہ ہو اور ازار پہن لے تو اس پر امام شافعیؒ کے نزدیک فدیہ نہیں ہے اور امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک ہے کہ وہ پانجامہ کو پھاڑ کر تہہ بند بنا لے اور اگر بغیر پھاڑے پہنے گا تو دم آئے گا۔ یعنی اس کو جانور ذبح کرنا پڑے گا۔

محرم کو خوشبو لگانا منع ہے

۳/۲۵۳۵ وَعَنْ يَعْلَى ابْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُتَضَمِّنٌ بِالْخُلُوقِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَهَلِدِهِ عَلَى فَقَالَ أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَأَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمُرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ.

(متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۹۳/۳۔ الحدیث رقم ۱۵۳۶۔ ومسلم فی ۸۳۶/۲ الحدیث رقم (۶۔ ۱۱۸۰)۔ وابوداؤد فی السنن ۴۰۷/۲ الحدیث رقم ۱۸۱۹۔

ترجمہ: یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے پاس جعرانہ میں تھے۔ کہ اچانک ایک گنوار شخص یعنی دیہاتی آیا کہ اس پر کرتہ تھا اور وہ شخص خلوک میں لتھڑا ہوا تھا جو ایک قسم کی خوشبو ہے زعفران وغیرہ سے بنتی ہے پس اس نے کہا اے اللہ کے رسول تحقیق میں نے عمرے کا احرام باندھا تھا اس حال میں کہ یہ کرتہ میرے بدن پر تھا۔ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خوشبو کو تین مرتبہ دھو ڈال اور کرتے کو اتار دے پھر اپنے عمرے کے احرام میں اس طرح کر جس طرح تو اپنے حج کے احرام میں کرتا ہے۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں محرم کے پرہیز کا بیان کیا گیا ہے کہ محرم کو چاہیے کہ وہ ایک منزل دور ہے اور نبی کریم ﷺ نے عمرے کا احرام وہاں سے باندھا تھا اور دھونے کا اس لیے حکم فرمایا ہے کہ زعفران کا مردوں کو استعمال کرنا حرام ہے اور تین مرتبہ دھونے کا حکم اس لیے فرمایا ہے کہ خوب اچھی طرح خوشبو زائل ہو جائے ورنہ واجب توففظ اصل خلوک کا جدا کرنا ہی ہے جس طرح بھی ہو اور پھر ان کا مطلب یہ ہے تو عمرے کے احرام میں اس طرح پرہیز کر جس طرح حج کے احرام میں کرتا ہے اور محرم اگر بغیر خوشبو کے سرمہ لگائے گا زینت کے لیے تو مکروہ ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو مکروہ نہیں اور پھر جان لینا چاہیے کہ جو چیزیں احرام میں حرام ہیں اگر قصد ان کا مرتکب ہوگا تو تمام علماء کے نزدیک اس میں فدیہ واجب ہوگا اور اگر بھول کر مرتکب ہوگا تو امام شافعیؒ ثوریؒ احمد و اسحاقؒ کے نزدیک اس پر فدیہ لازم نہیں ہوگا۔

اور امام اعظم ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک واجب ہوگا۔

محرم آدمی نکاح نہ کرے اور نہ کسی کا نکاح کرائے

۳/۲۵۳۶ وَعَنْ عُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ.

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۱۰۳۰/۲ الحدیث رقم (۴۱۔ ۱۴۰۹)۔ وابوداؤد فی السنن ۴۲۱/۲ الحدیث رقم ۱۸۴۱۔

والترمذی فی ۱۹۹/۳ الحدیث رقم ۸۴۰ والنسائی فی ۱۹۲/۵ الحدیث رقم ۲۸۴۴۔ وابن ماجہ ۶۳۲/۱ الحدیث رقم

۱۹۶۶۔ والدارمی ۱۸۹/۲ الحدیث رقم ۲۱۹۸۔ ومالک فی الموطأ ۳۴۸/۱ الحدیث رقم ۷۰ من کتاب الحج۔ واحمد

فی المسند ۵۷/۱۔

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ محرم کے لیے درست نہیں ہے کہ نکاح کرے اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ محرم کسی کا نکاح کرائے یعنی بولایت یا بوکالت کسی کا بھی نکاح نہ کرائے اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ محرم مکتی کرے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: امام شافعیؒ اور جمہور علماء کے نزدیک پہلی دونوں نہیں تحریمی ہیں اور تیسری بھی پس ان کے نزدیک درست نہیں ہے اپنا نکاح کرنا اور دوسرے کا نکاح کرنا بھی درست نہیں ہے اور امام اعظمؒ کے نزدیک تینوں نہیں تحریمی ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور ﷺ نے حالت احرام میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔

۵/۲۵۴۷ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۱۴۔ الحدیث رقم ۱۸۳۷۔ ومسلم فی صحیحہ ۱۰۳۱/۲ الحدیث رقم (۴۶)۔ (۱۴۱۰)

وابوداؤد فی السنن ۴۲۳/۲ الحدیث رقم ۱۸۴۴۔ والترمذی فی ۲۰۱/۳ الحدیث رقم ۸۴۲۔ والنسائی فی ۱۹۱/۵

الحدیث رقم ۲۸۴۰۔ وابن ماجہ فی ۶۳۲/۱ الحدیث رقم ۱۹۶۵۔ والدارمی فی ۵۸/۲ الحدیث رقم ۱۸۲۲۔ واحمد

فی المسند ۲۶۶/۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے حالت احرام میں نکاح کیا۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حالت احرام میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ اس حال میں کہ آپ ﷺ عمرہ القضاء کا احرام باندھے ہوئے تھے۔

حالت احرام میں ہم بستر ہونا ممنوع ہے

۶/۲۵۴۸ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِ ابْنِ أُخْتِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ (رواه مسلم) قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ تَزَوُّجَهَا حَلَالًا وَظَهَرَ أَمْرُ تَزَوُّجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ بِسَرَفٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ۔

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۱۰۳۲/۲ الحدیث رقم (۴۸)۔ (۱۴۱۱)۔ وابوداؤد فی السنن ۴۲۲/۲ الحدیث رقم ۱۸۴۳۔

والترمذی فی ۲۰۳/۳ الحدیث رقم ۸۴۵ وابن ماجہ فی ۶۳۲/۱ الحدیث رقم ۱۹۶۴۔ واحمد فی المسند ۳۳۵/۶۔

ترجمہ: اصم بن یزید جو کہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں انہوں نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اس حال میں کہ وہ احرام میں تھے اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔ شیخ امام محی السنۃؒ نے کہا ہے کہ اکثر تینوں امام اور ان کے تابعین کے نزدیک یہ ہے کہ حضور ﷺ نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے حالت احرام کے بغیر نکاح کیا اور ان کے نکاح کا امر اس وقت ظاہر ہوا کہ وہ حالت احرام میں تھے پھر ان کے ساتھ ہم بستر ہوئے۔ یعنی ان کے ساتھ حالت احرام کے بغیر مقام سرف میں مکہ کے راستے میں صحبت کی۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حالت احرام میں صرف نکاح کیا اور

ان سے صحبت مقام سرف میں ہوئی۔ سرف ایک جگہ کا نام ہے جو کہ مکہ کے راستے میں ہے مکہ سے دس میل کے فاصلے پر ہے اور عجیب اتفاق یہ بھی ہے کہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی وفات بھی مقام سرف میں ہوئی تھی اور یہ جان لینا چاہیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اور یزید بن اسلم کی حدیث کی دونوں متعارض ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان کا نکاح حالت احرام کے علاوہ ہوا ہے پس ہمارے علماء نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کو یزید کی حدیث پر ترجیح دی ہے اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یزید سے حفظ وثقتہ میں افضل و اکمل ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ باقی رہی بات کہ عثمان کی حدیث میں بھی وارد ہوئی ہے اپنے نکاح کرنے اور غیر کے نکاح کرنے سے اس کی تاویل کی گئی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنا نکاح کرنا اور غیر کا نکاح کرنا محرم کی شان نہیں ہے اس لیے کہ یہ عبادت میں مشغول ہے نہ یہ کہ تحریم مراد ہے چنانچہ اس حدیث کے فائدہ میں اس کا بیان گزر چکا ہے اور جو شافعیہ نے محمول کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کو اس پر حضور ﷺ کا نکاح حالت احرام ظاہر ہوا ہے اس اعتبار سے کہ حضور ﷺ نے نکاح کیا اس حال میں کہ آپ ﷺ محرم تھے پس یہ تکلف ہے۔

حالت احرام میں سردھونا جائز ہے

۲۵۳۹/۷ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْرِمٌ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۵۰۱۴۔ الحدیث رقم ۱۸۴۰۔ و مسلم فی ۸۶۴۱۲ الحدیث رقم (۹۱-۱۲۰۵)۔ و ابوداؤد فی السنن ۴۲۰۱۲ الحدیث رقم ۱۸۴۰ والنسائی فی ۱۲۸۱۵ الحدیث رقم ۲۶۶۵۔ وابن ماجہ ۹۷۸۱۲ الحدیث رقم ۲۹۴۳۔ و احمد فی المسند ۴۱۸۱۵۔

ترجمہ: حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ حالت احرام میں اپنا سر دھوتے تھے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ محرم کے لیے سردھونا بغیر اختلاف کے جائز ہے۔ اس شرط پر کہ بال نہ ٹوٹنے پائے اور اگر وہ عظمیٰ سے سردھوئے تو امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس پر دم لازم آتا ہے اور امام مالک کے نزدیک اس لیے کہ یہ خوشبو کی قسم سے ہے اور اگر صابن یا بیری کے پتے سے یا ان کی طرح چیزوں سے سردھوئے تو اس پر تمام حضرات کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔

۲۵۵۰/۸ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْرِمٌ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۲۱۴ الحدیث رقم ۱۸۳۵۔ و مسلم فی صحیحہ ۸۶۲۱۲ الحدیث رقم (۸۷-۱۲۰۲)۔ و ابوداؤد فی السنن ۴۱۸۱۲ الحدیث رقم ۱۸۳۵ والترمذی فی ۱۹۸۱۳ الحدیث رقم ۸۳۹۔ والنسائی فی ۱۹۳۱۵ الحدیث رقم ۲۸۴۵ وابن ماجہ فی ۱۰۲۹۱۲ الحدیث رقم ۳۰۸۱۔ والدارمی فی ۵۷۱۲ الحدیث رقم ۱۸۱۹ و احمد فی المسند ۲۱۵۱۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حالت احرام میں بھری ہوئی سیکنی کھنچوائی۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک حالت احرام میں سیکنی لگوانا جائز ہے بشرطیکہ بال نہوٹے پائیں۔

احرام کی حالت میں آنکھوں پر لپ کرنے کی اجازت ہے

۹/۲۵۵۱ وَعَنْ عُثْمَانَ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحَرِّمٌ ضَمَدَهُمَا بِالصَّبْرِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۸۶۳/۲ الحدیث رقم (۸۹-۱۲۰۴)۔ وابوداؤد فی السنن ۴۱۹/۲ الحدیث رقم ۱۸۳۸۔
والترمذی فی ۲۸۷/۳ والحدیث رقم ۹۵۲۔ والنسائی فی السنن ۱۴۳/۵ الحدیث رقم ۲۷۱۱۔ والدارمی ۹۸/۲
الحدیث رقم ۱۹۳۰۔

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کے حق میں بیان کیا کہ جب اس کی آنکھیں دھیں یا ضعف بصارت ہو اس حال میں کہ وہ محرم ہو تو وہ ان کو ایلوے کے ساتھ لپ کرے۔ اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ محرم کی آنکھوں پر لپ کرنے کی اجازت ہے۔ تاج المصادر میں تسمید کے معنی لپ کرنے کے ہیں اور دوسرے علماء آنکھوں کے اندر بطور سرمہ لگانے کے لکھتے ہیں اور علامہ طیبی نے کہا ہے کہ تسمید اصل میں زخم پر پی باندھنے کو کہتے ہیں اور زخم پر دوا لگانے کو بھی کہتے ہیں اگرچہ باندھنا نہ جائے پھر جان لینا چاہیے کہ اگر محرم سرمہ لگائے اس طرح کہ اس میں خوشبو ہو تو اس پر صدقہ لازم ہوگا اگر بہت زیادہ خوشبو ہو تو اس پر دم آئے گا اور اگر ایسا سرمہ لگائے کہ اس میں خوشبو نہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں ہے اور اس پر کچھ لازم نہ ہوگا اور اگر کوئی محرم سر اور منہ کے سوا کسی اور عضو پر پی باندھے تو اس پر کچھ لازم نہیں آئے گا لیکن مکروہ ہے اور اگر چوتھائی سریام نہ کا حصہ ڈھانکے گا تو اس پر دم لازم ہوگا اور اگر چوتھائی سریام نہ سے کم ڈھانکے گا تو اس پر صدقہ آئے گا۔

احرام کی حالت میں سورج کی گرمی سے سایہ کرنا جائز ہے

۱۰/۲۵۵۲ وَعَنْ أُمِّ الْخَضِیْنِ قَالَتْ رَأَيْتُ أَسَامَةَ وَبِلَالَ وَأَحَدَهُمَا إِخَذَ بِخَطَامِ نَاقَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافِعٌ قَوْبَهُ يَسْتَرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۴۴/۲ الحدیث رقم (۳۱۲-۱۲۹۸)۔ وابوداؤد فی السنن ۴۱۶/۲ الحدیث رقم ۱۸۴۳۔
النسائی فی ۲۶۹/۵ الحدیث رقم ۳۰۶۰۔

ترجمہ: حضرت ام حنین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے اسامہ اور بلال رضی اللہ عنہما کو دیکھا اس حال میں کہ ان میں سے ایک حضور ﷺ کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے اور دوسرے یعنی اسامہ رضی اللہ عنہ اپنا کپڑا اٹھائے ہوئے (آپ ﷺ کے اوپر) سورج کی گرمی سے سایہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے جمرۃ العقبہ کو نکلتے ماریں۔ اس کو امام

مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صحابی رسول حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہ آپ ﷺ پر سایہ کرتے تھے یعنی کپڑا آپ ﷺ کے سر مبارک سے اونچا تھا سر کو نہیں لگتا تھا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ تاج کی طرح اٹھا ہوا تھا لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محرم کو سایہ کی اجازت ہے بشرطیکہ سایہ کرنے والی چیز سر کو نہ لگے اور یہی اکثر علماء کا قول ہے اور امام مالکؒ اور احمدؒ نے اس کو مکروہ کہا ہے۔

مجبوری کی بنا پر سر منڈانا جائز ہے

۲۵۵۳/۱۱ اَوْ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحَدِيثَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قَدِيرٍ وَالْقَمَلُ تَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَتَوَذِّبُكَ هُوَ أَمَّاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَأَطِيعِمُ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ أَصْعٍ أَوْ صَمٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَوْ انْسُكُ نَيْسِكَةً (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۱۲/۴۔ الحدیث رقم ۱۸۱۴۔ و مسلم فی ۸۶۱/۲ الحدیث رقم (۸۳-۱۲۰۱)۔ والترمذی فی السنن ۲۸۸/۳ الحدیث رقم ۹۵۳۔ و مالک فی الموطأ ۴۱۷/۱ الحدیث رقم ۳۸ من کتاب الحج واحمد فی المسند ۲۴۱/۱۔
ترجمہ: کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ان پر گزر ہوا اور وہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حدیبیہ میں تھے اور کعب رضی اللہ عنہ محرم تھے اور وہ ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہے تھے اور جوئیں ان کے منہ یعنی چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ پس حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا جوئیں تجھے ایذا دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اپنا سر منڈا لو اور ایک فرق کے برابر کھانا چھ مسکینوں کو کھلا دو اور فرق تین صاع کا ہوتا ہے یا تین دن روزے رکھ یا جانور ذبح کر جو ذبح کرنے کے لائق ہو۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حضرت کعبؓ انصاری اصحاب شجرہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ نہایت سبق آموز ہے۔ ان کے پاس ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے اور عبادہ بن صامت ان کے دوست تھے۔ ایک روز عبادہ رضی اللہ عنہ کعب کے پاس آئے دیکھا کہ کعب بت کی پوجا کر کے گھر سے نکلے تھے اور عبادہ رضی اللہ عنہ گھر میں گئے اور بت کو توڑ ڈالا۔ جب کعب رضی اللہ عنہ گھر میں آئے تو دیکھا کہ بت ٹوٹا ہوا پڑا ہے غصے میں آئے اور یہ چاہا کہ عبادہ کو برا کہیں۔ پھر سوچا اور دل میں کہا کہ اگر اس بت کے اندر کوئی طاقت ہوتی تو اپنے آپ کو بچا لیتا۔ یہ سوچ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے تو یوں دیتا ہے۔ بہر حال اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں کسی عذر مثلاً جوئیں زخم یا درد کی وجہ سے اپنا سر منڈوائے تو اسے اختیار ہے کہ جزاء کے طور پر چھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا چاہے تو تین روزے رکھے اور چاہے تو جانور ذبح کر لے۔

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفَدِّ يَهُ مِنْ صِهَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ ”یعنی اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو (اور وہ اپنا سر حلق کر وادے) تو وہ فدیہ کے طور پر یا تو روزے رکھے یا صدقہ دے یا جانور کی قربانی کرے۔“

الفصل الثانی:

عورت کے محظوراتِ احرام

۱۲/۲۵۵۳ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقَفَازِينَ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرَسَ وَالزَّعْفَرَانَ مِنَ الْيَابِ وَلُتْلِسَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنَ الْوَانِ الْيَابِ مَعْصِفٍ أَوْ خَزٍّ أَوْ حُلًى أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قِمِيصٍ أَوْ خُفٍّ۔ (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۱۲/۲ الحدیث رقم ۱۸۲۷۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے سنا کہ آپ ﷺ عورتوں کو احرام کی حالت میں دستانے پہننے اور نقاب کے ڈالنے سے منع فرماتے تھے یعنی اس طرح کے نقاب سے جو منہ کو لگے اور اس کپڑے کے پہننے سے کہ جس کو ورس اور زعفران لگی ہو اور چاہے کہ اس کے بعد (یعنی احرام سے نکلنے کے بعد) وہ کپڑوں کی اقسام سے پہنے جو بھی قسم ہو۔ کسی ہو یا حر ہو یا زچور ہو یا پانجامہ ہو یا کرتہ ہو یا موزہ۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں عورت کے احرام کے ممنوعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کا مطلب ہے۔ یعنی احرام سے نکلنے کے بعد پہنے۔ حضرت شیخ نے تو یہ معنی لکھے ہیں اور ملا علی قاریؒ نے یہ معنی لکھے ہیں کہ اس کے بعد جو چیز ذکر کی گئی۔ کہ سوائے مذکورہ چیزوں کے جو چاہے کپڑے پہننے اور یہ بھی لکھا ہے کہ حدیث کا ظاہر سے فرق معلوم ہوتا ہے زعفرانی کپڑے اور کسم سے رنگے ہوئے کپڑوں کے مابین اور ہمارے مذہب میں دونوں منع ہیں۔ خزانة الاكمل ولو الجعی اور فقہ کی دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر محرم کسب کا یا زعفران کا یا ورس کا چمکتا ہوا کپڑا پہنے ایک دن یا زیادہ تو اس پر دم لازم آتا ہے اور اگر ایک دن سے کم پہنے تو صدقہ دینا لازم آتا ہے پس مناسب ہے کہ اس حدیث کو کسم سے رنگے ہوئے کپڑے پر محمول کیا جائے کہ جن میں خوشبو نہ ہو اور علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ زیور کا کپڑوں کے ساتھ مجاز ذکر کیا گیا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا احرام کی حالت میں منہ کھولنے کا طریقہ

۱۳/۲۵۵۵ وَأَعْنِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرَّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٍ فَإِذَا جَاوَزُوا بِنَا سَدَّ لْتُ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُوا كَشَفْنَاهُ۔

(رواه ابو داود والابن ماجہ معناه)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۱۶/۲ الحدیث رقم ۱۸۳۳۔ وابن ماجہ ۹۷۹/۲ الحدیث رقم ۲۹۳۵۔ واحمد فی المسند ۳۰/۶۔ ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم حالت احرام میں (سفر کے دوران) نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے اور (حالت حرام کے باعث ہمارے چہرے کھلے ہوئے تھے) اور قافلے ہمارے قریب سے گزرتے تھے جب کوئی قافلہ ہمارے پاس سے گزرتا تو ہم میں ہر عورت اپنی چادر (پردے کی غرض سے) اپنے سر پر (اس طرح) ڈالتی کہ وہ چادر ان

کے منہ کے ساتھ نہ لگتی۔ اس کو ابوداؤد اور ابن ماجہ نے اس معنی میں ذکر کیا ہے۔
 تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ جب کوئی قافلہ ہمارے پاس سے گزرتا تو سر اور منہ کو ڈھانک لیتی تھیں اور جب گزر جاتا تو پردہ ہٹا لیتی تھیں۔

احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال ممنوع ہے

۱۳/۲۵۵۶ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْهَبُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقْتَتِ
 يَعْنِي غَيْرَ الْمُطَيَّبِ۔ (رواہ الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۹۴/۳ الحدیث رقم ۹۶۲۔ وابن ماجہ فی ۱۰۳۰/۲ الحدیث رقم ۳۰۸۳۔ واحمد فی المسند ۱۴۵/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ احرام کی حالت میں بغیر خوشبو کے زیتون کا تیل استعمال کرتے تھے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: مقتت اس تیل کو کہتے ہیں کہ خوشبودار پھول ڈال کر اس کو پکالیا جائے تاکہ تیل خوشبودار ہو جائے یا اس میں خوشبودار تیل ملا لیا جائے۔ پھر جان لینا چاہیے کہ محرم اگر سارے عضو پر خوشبو والا تیل لگائے یا اس کی طرح نفثہ کا تیل اور گلاب کا اور موتیا وغیرہ کا تیل لگائے تو اس پر دم یعنی جانور ذبح کرنا لازم آتا ہے بالاتفاق اور اگر زیتون کا تیل لگائے یا تلوں کا تیل کہ اس میں خوشبو نہ ملی ہو اور بہت زیادہ لگائے تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر دم لازم آئے گا اور صاحبین کے نزدیک صدقہ دینا ہوگا۔ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب یہ دونوں تیل خوشبو سے بالکل خالی ہوں اور ان کو کسی خوشبودار پھول کے بغیر پکایا گیا نہ ہو کیونکہ اگر زیتون کا یا تلوں کے تیل میں خوشبو ہوگی یا اس میں کسی خوشبودار پھول کو ڈال کر پکایا گیا ہوگا تو اس صورت میں تمام ائمہ کرام رحمہم اللہ کے نزدیک اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے دم واجب ہوگا اور یہی اختلاف اس صورت میں ہے کہ تیل بہت زیادہ لگائے۔ اگر زیتون کا یا تلوں کا تیل کم لگائے تو اس پر بالاتفاق صدقہ دینا لازم آئے گا۔ پھر یہ دم وغیرہ دونوں تیلوں سے اس وقت دینا لازم آتا ہے کہ ان کو بطور خوشبو لگانے کے استعمال کرے اور اگر ان کو بطور دوا کے استعمال کرے تو اس پر بالا جماع کچھ نہیں آئے گا۔ بخلاف مشک کے استعمال کرنے ان کے استعمال سے بہر نوع دم لازم آتا ہے۔ خواہ بطور خوشبو کے استعمال کرنے کے ہو اور خواہ بطور دوا کے ہو۔

الفصل الثالث:

سلا ہوا کپڑا پہننا محرم کے لیے منع ہے

۱۵/۲۵۵۷ وَعَنِ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ الْفَرَّاقَالَ أَلْفِي عَلَى ثَوْبًا يَأْنَفُ قَالَ لَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنَسًا فَقَالَ تَلْفِي
 عَلَى هَذَا وَقَدْ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبِسَهُ الْمُحْرِمُ۔ (رواہ ابو داود)

اخر جہ ابو داؤد فی السنن ۴۱۳/۲ الحدیث رقم ۱۸۲۸۔

ترجمہ: حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سردی محسوس کی اور کہا کہ اے نافع! مجھ پر کپڑا ڈال دو۔ پس میں نے ان پر بارانی ڈال دی پس فرمایا تو مجھ پر یہ ڈالتا ہے؟ حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے محرم کو برساتی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے لئے سلا ہوا کپڑا پہننا اس طرح استعمال کرنا جس طرح انسان کا معمول ہوتا ہے منع ہے ورنہ صرف برساتی کو بدن پر ڈال لینا منع نہیں ہے چنانچہ اس کا بیان اوپر ہو چکا ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے منع کیا ہے۔ پس یا تو مذہب ان کا یہی ہوگا کہ مطلق سلعے ہوئے کپڑے کے استعمال سے پرہیز کرتے ہوئے یا اس لیے منع کیا کہ نافع رضی اللہ عنہ نے ان کا سر ڈھا تک دیا ہوگا۔

حالت احرام میں سیٹگی لگوانا جائز ہے

۱۶/۲۵۵۸ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْرِمٌ يَلْبَسِي جَمَلِي مِنْ طَرَفِي مَكَّةَ فِي وَسْطِ رَأْسِهِ۔ (متفق علیہ)

اخر جہ البخاری فی صحیحہ ۵۰/۴۔ الحدیث رقم ۱۸۳۶۔ ومسلم فی صحیحہ ۸۶۲/۲ الحدیث رقم ۱۸۳۶۔ ومسلم

فی صحیحہ ۸۶۲/۲ الحدیث رقم (۸۸-۱۲۰۳)۔ والنسائی فی السنن ۱۹۴/۵ الحدیث رقم ۲۸۵۰۔ والدارمی ۵۷/۲

الحدیث رقم ۱۸۲۰۔ ومالك في الموطأ ۳۴۹/۱ الحدیث رقم ۴۷ من كتاب الحج۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مالک جو بحینہ کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے سر کے درمیان میں مکہ کے راستے میں لمبی جمل کے مقام پر احرام کی حالت میں سیٹگوئی کھنچوائی۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: مالک عبداللہ کے والد کا نام ہے اور بحینہ ان کی والدہ کا نام ہے۔ گویا ابن بحینہ عبداللہ کی دوسری صفت ہے۔ اس لیے مالک کے لفظ کو تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ابن بحینہ میں الف لکھا جاتا ہے اور بحینہ عبداللہ کی والدہ تھیں اور مالک کی بیوی اور سر میں بچھنے لگوانے سے بال ضرور ٹوٹے ہوئے۔ پس یہ حالت ضرورت پر محمول ہے اور اگر محرم ایسی جگہ پر بچھنے لگوائے جہاں بال نہ ہوں تو پھر اس پر فدیہ لازم نہیں ہوتا۔

مَنْبِتُكَ: اگر کوئی محرم چوتھائی حصے سے کم بال منڈوائے یا سیٹگی لگوانے کی وجہ سے اس کے سر کے چوتھائی حصے کے بال ٹوٹ جائیں تو اس پر صدقہ واجب ہوگا۔ یعنی وہ جزاء کے طور پر یا تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا اسے نصف صاع گندم دیدے۔ اگر کوئی شخص حالت احرام میں بلا عذر چوتھائی حصے سے زائد سر منڈوائے یا سیٹگی لگوائے اور اس کی وجہ سے چوتھائی سر سے زیادہ بال ٹوٹ جائیں تو اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ اس کو جزاء کے طور پر ایک بکری یا اس کی طرح کا کوئی جانور ذبح کرنا پڑے گا اور اگر عذر کی وجہ سے چوتھائی سر سے زیادہ منڈائے یا عارضہ کی وجہ سے بچھنے لگوائے اور اس قدر بال ٹوٹیں تو محرم کو تین چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہے بکری ذبح کرے یا چھ مسکینوں کو تین صاع گیہوں دے ہر مسکین کو دو دوسیر یا تین روزے رکھے۔ متصل رکھے یا متفرق اور اگر چھمنوں کی جگہ سے چھمنوں کے لیے بال منڈائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک دم

لازم آتا ہے اور صاحبین کے نزدیک صدقہ لازم آتا ہے اور کچھوں کی جگہ سے گردن کے دونوں کنارے اور گردی مراد ہے اور اگر ساری گردن منڈائے تو بالاتفاق دم آتا ہے اور اگر پوری سے کم منڈائے گا تو صرف صدقہ آتا ہے اور خود سے بال ٹونیس تو کچھ لازم نہیں آتا۔ مناسک ملاعلی۔

احرام کی حالت میں کچھنے لگوانا

۱۷/۲۵۵۹ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ

وَجَعَلَ كَأَنَّهُ - (رواه ابو داود والنسائی)

اخرجه ابو داود فی السنن ۴۱۸/۲ الحدیث رقم ۱۸۳۷۔ والنسائی فی ۱۹۴/۵ الحدیث رقم ۲۸۴۹۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے درود کی وجہ سے اپنے پیر کی پشت پر احرام کی حالت میں ابھری ہوئی سیکنی کھنچوائی۔ اس کو ابو داود اور نسائی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پیر کی پشت پر سیکنی لگوانے سے بالوں کے ٹوٹنے کا کوئی احتمال ہی نہیں۔ اور عذر بھی فی الحال موجود تھا۔

حدیث مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے بغیر احرام کی حالت کے نکاح فرمایا

۱۸/۲۵۶۰ وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ خَلَّالٌ وَبَنَى بِهَا

وَهُوَ خَلَّالٌ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا - (رواه احمد والترمذی وقال هذا حديث حسن)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۰۰/۳ الحدیث رقم ۸۴۱۔ والدارمی فی ۵۹/۲ الحدیث رقم ۱۸۲۵ واحمد فی المسند ۳۳۳/۶۔

ترجمہ: ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے اس وقت نکاح کیا جب کہ آپ ﷺ بغیر احرام کے تھے اور ان کے ساتھ شب زفاف گزاری اس وقت بھی آپ ﷺ احرام کی حالت میں نہ تھے اور میں حضور ﷺ اور میمونہ رضی اللہ عنہا کے درمیان پیغام پہنچانے والا تھا۔ اس کو امام احمد اور ترمذی کے نقل کیا ہے اور امام ربیع نے کہا ہے

کہ یہ حدیث حسن ہے۔

تشریح: اوپر کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی گزری ہے کہ حضور ﷺ نے حالت احرام میں حضور ﷺ سے نکاح کیا اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بغیر حالت احرام میں کیا ہے۔ جان لینا چاہیے کہ وہ حدیث بخاری اور مسلم میں آتی ہے اور یہ دونوں میں سے ایک میں بھی نہیں ہے پس یہ حدیث اس درجے کو نہیں پہنچی ہے۔

بَابُ الْمَحْرَمِ يَجْتَنِبُ الصَّيْدَ

محرم کے لئے شکار کی ممانعت کا بیان

فائدہ: محرم آدمی کا شکار اور دوسرے کی رہنمائی کرنی، شکار کرنے کے لیے حرام ہے تمام علماء کے نزدیک اور اگر ان افعال میں سے کچھ بھی کرے گا تو اس پر بدلہ لازم ہوگا۔ یعنی شکار کی قیمت دو عادل آدمیوں کے فیصلہ کے ساتھ لازم ہوگی۔ اس جگہ کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا جس جگہ شکار کیا ہے یا اس جگہ کی قریب کے مقام کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔

اور شکار کی جگہ اس کی قیمت نہ ہو پھر اگر وہ چاہے۔ اس کی قیمت کے ساتھ ہدی خریدے اگر اس میں آ سکے۔ پس اس کو حرم میں ذبح کرے اور اگر چاہے تو اس کی قیمت سے خریدے اور ہر فقیر کو آدھا صاع دے اگر گیہوں ہو اور اگر کھجور یا جو ہو تو ایک صاع دے۔ یعنی چار چار سیر دے اس سے کم نہ دے اور اگر چاہے تو ہر فقیر کے کھانے کے بدلے روزے رکھے۔ ایک ایک روزہ اگر فقیر کے کھانے سے تھوڑا سا بیخ جائے تو اس کو اللہ کے لیے دے دے یا اس کے بدلے ایک روزہ رکھے اور قصد شکار کرنے والا اور بھول کر کرنے والا برابر ہے اور اگر شکار کو زخمی کرے یا اس کا عضو کاٹے یا اس کا بال اکھاڑے تو اس چیز کا بدلہ دے کیونکہ اس کی قیمت ناقص ہوگئی ہے۔

اور اگر اس کے پر اکھیرے یا ہاتھ پاؤں اس کے کاٹے۔ پس وہ ایسا ہو جائے وہ اپنے آپ کو بلی وغیرہ سے بچانہ سکے تو اس پر پوری قیمت ہے اور اگر اس کا دودھ دو ہے، پس اس کے دودھ کی قیمت دے اور اسی طرح اگر انڈا توڑا تو اس کی قیمت دے اور محرم کے شکار کے کھانے کے بارے میں تفصیل ہے۔ اگر محرم خود شکار کرے یا کوئی اور محرم شکار کرے تو اس کو کھانا بلا اتفاق حرام ہے اور اگر محرم شکار اپنے لیے یا محرم کے لیے اس کی اجازت سے یا اس کی اجازت کے بغیر شکار کرے اس میں کئی مذہب اور اقوال علماء ہیں۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کا مذہب جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان میں ہیں اور بعض تابعین رضی اللہ عنہم کا یہ ہے کہ محرم پر شکار کا کھانا حرام ہے مطلقاً اور ان کی دلیل صعب بن جنامہ کی حدیث ہے اور امام شافعیؒ اور احمدؒ کا مذہب یہ ہے کہ اگر محرم آپ شکار کرے یا کوئی دوسرا اس کی اجازت کے ساتھ یا اس کی اجازت کے بغیر اس کے لیے شکار کرے تو حرام ہے اور اگر غیر محرم شکار کرے اپنے لیے اور کچھ اس محرم کے لیے بطور ہدیہ کے بھیجے تو حلال ہے اور امام ابوحنیفہؒ کا مذہب اور علماء کا یہ ہے کہ محرم کو شکار کا گوشت کھانا حلال ہے جب تک وہ خود شکار نہ کرے اور اس کے کرنے کا حکم نہ کرے اور راستہ نہ بتائے اور اس کی طرف اشارہ نہ کرے اور شکار کرنے پر مدد نہ کرے اگرچہ اس کے لیے شکار کیا جائے چنانچہ ابوقادہ کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے اور شکار سے مراد اصل خلقت کے اعتبار سے حیوان وحشی ہے کہ پیدائش و نسل اس کی جنگل میں ہو۔ پس محرم کو بکری، دنبہ، بھیڑ، گائے، اونٹ، مرغ اور بلی گھر کی پلی ہوئی کو ذبح کرنا جائز ہے اور محرم اگر کبوتر کو ذبح کرے گا تو اس پر بدلہ آئے گا اور پلے ہوئے ہرن کے اور دریائی جانور کا شکار کرنا۔ محرم وغیرہ محرم کو حلال ہے خواہ اس کو کھاتے ہوں یا نہ کھاتے ہوں اس آیت شریفہ کی وجہ سے: اَحْلَلْ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ پھر محرم پر بالاتفاق جنگل کے جانوروں کا شکار کرنا حرام ہے جو کہ کھائے جاتے ہیں۔ ان کو صاحب بدائع دو قسم پر تقسیم

کیا ہے ایک تو وہ طبعاً ایدہ دیتے ہیں اور ابتدا کرتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اگر شیر چیتے اور بھیڑے اور ان کی طرح پس محرم کو قتل کرنا جائز ہے اور اس پر کچھ نہیں آتا اور ایک وہ ہیں جو ایداء کے ساتھ ابتداء نہیں کرتے جیسے چرغ وغیرہ پس محرم کے لیے ان جانوروں کو مارنا جائز ہے اگر اس کو ایداء پہنچائیں اور اس پر کچھ نہیں آئے گا اور اگر وہ ایداء نہ پہنچائیں تو محرم کو ابتداء مارنا مباح نہیں ہے اگر ابتداء مارے گا تو اس پر بدلہ لازم آئے گا۔

الفصل الاول:

احرام کی حالت میں گور خر کا ہدیہ قبول نہ کرنا

۱/۲۵۶۱ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جُثَامَةَ أَنَّهُ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَشَيْئًا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرْمٌ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۱/۴۔ الحدیث رقم ۱۸۲۵۔ ومسلم فی ۸۵۰/۲ الحدیث رقم (۵۰-۱۱۹۳)۔ والترمذی فی السنن ۲۰۶/۳ الحدیث رقم ۸۴۹۔ والنسائی فی ۱۸۳/۵ الحدیث رقم ۲۸۱۹۔ وابن ماجہ فی ۱۰۳۲/۲ الحدیث رقم ۳۰۹۰۔ والدارمی فی ۶۰/۲ الحدیث رقم ۱۸۳۰۔ ومالك فی الموطأ ۳۵۳/۱ الحدیث رقم ۸۳ من کتاب الحج۔ واحمد فی المسند ۳۷/۴۔

ترجمہ: حضرت صعب بن جثامہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کے پاس بطریق تحفہ گور خر بھیجا حالانکہ اس وقت آپ ﷺ مقام ابواء یا ودان میں تھے۔ پس نبی کریم ﷺ نے ان پر پھیر دیا۔ پس جب کہ حضور ﷺ نے وہ چیز دیکھی کہ جو اس کے چہرے پر تھی یعنی قبول نہ کرنے کی وجہ سے آپ ﷺ نے ناخوشی اور غم کو محسوس کیا۔ ارشاد فرمایا ہم نے واپس نہیں کیا مگر یہ کہ ہم احرام کی حالت میں تھے۔ اس کو بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں دو لفظ آتے ہیں ابواء اور ودان یہ جگہوں کے نام ہیں جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہیں اور ظاہر یہ حدیث ان کی دلیل ہے جو مطلقاً محرم کو شکار کا گوشت کھانے کو حرام کہتے ہیں اور ہمارا مذہب حضرت عمرؓ ابو ہریرہؓ طلحہ بن عبد اللہؓ اور عائشہؓ رضی اللہ عنہم کی طرح ہے پس ہمارے نزدیک یہ ہے کہ انہوں نے گور خر زندہ شکار کر کے بھیجا تھا ان کا لینا درست نہیں ہے اس لیے لوٹا دیا لیکن ایک روایت میں آیا ہے کہ گور خر کا گوشت بھیجا اور ایک روایت میں آیا ہے گور خر کی ران بھیجی اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کا ٹکڑا بھیجا ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی اس کا گوشت مراد ہے جواب یہ ہے کہ اولاً زندہ گور خر بھیجا ہو گا وہ نہ لیا۔ پھر ران بھیجی اور گور خر اس کو بعضوں نے گوشت مراد لیا اور بعض نے ٹکڑا اور ہماری بڑی دلیل یہ حدیث ہے کہ حضور ﷺ کے پاس عرج کے مقام پر احرام کی حالت میں گور خر لایا گیا۔ حضور ﷺ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم کیا کہ اس کو اپنوں میں بانٹ دو اور شافعیہؒ کہتے ہیں کہ اس گمان کے مطابق کہ میرے لیے شکار کیا گیا ہے۔

حنفیہ کا استدلال

۲۵۶۲/۲ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَخَلَّفَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ قَرَأُوا حِمَارًا وَخَشِيًّا قِيلَ أَنْ يَرَاهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رَأَاهُ أَبُو قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ فَسَأَلَ لَهُمْ أَنْ يَنَالُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَتَنَاولَهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَعَقَرَهُ ثُمَّ أَكَلَ فَأَكَلُوا قَدِمُوا فَلَمَّا أَذْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا مَعَنَا رَجُلُهُ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَهَا (متفق عليه وفي رواية: لَهَا قَالُوا أَتَوَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِنَكُمْ أَحَدٌ أَمْرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا).

اخرجه البخارى فى صحيحه ۲۹/۴ - الحديث رقم ۱۸۲۴ - ومسلم فى صحيحه ۵۱/۲ الحديث رقم (۵۶ - ۱۱۹۶) - وابوداؤد فى السنن ۴۲۸/۲ الحديث رقم ۱۸۵۲ - والترمذى فى ۲۰۴/۳ الحديث رقم ۸۴۷ - والنسائى فى ۱۸۲/۵ الحديث رقم ۲۸۱۶ وابن ماجه فى ۱۰۳۳/۲ الحديث رقم ۳۰۹۲ - ومالك فى الموطأ ۳۵۰/۱ الحديث رقم ۷۶ من كتاب الحج.

ترجمہ: حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ (حدیہ کے سال) نکلے پس وہ اپنے بعض دوستوں سے پیچھے رہ گئے اور ان کے دوست محرم تھے اور ابو قتادہ غیر محرم تھے پس ان کے دوستوں نے گور خر کو ان کے دیکھنے سے پہلے دیکھا پس جب ان کے دوستوں نے دیکھا تو چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس کو ابو قتادہ نے دیکھا پس وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے پھر اپنے دوستوں سے اپنا کوڑا مانگا مگر انہوں نے کوڑا دینے سے انکار کر دیا پھر ابو قتادہ نے کوڑا لیا یعنی گھوڑے سے اتر کر پھر گور خر پر حملہ کیا پس اس کو مارا اور کھایا اور ساتھ والوں نے بھی کھایا پھر اس کی وجہ سے پریشان ہوئے کہ محرم کو مطلقاً شکار درست نہیں ہے پس جب حضور ﷺ سے ملاقات ہوئی تو اس کا حکم پوچھا کہ آیا اس کا کھانا ہمارے لیے درست تھا یا نہیں؟ فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا پاؤں ہے پس اس کو نبی کریم ﷺ نے لیا اور کھایا۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے اور ایک روایت ان دونوں میں سے یہ ہے کہ جب وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہؓ کو حکم کیا تھا کہ گور خر پر حملہ کرے یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کھاؤ جو اس کے گوشت میں سے باقی ہے۔

تشریح: حدیث پاک میں جو بیان ہوا ہے کہ اس کو کھایا اور ایک صحیح روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور ﷺ نے اس کو نہیں کھایا۔ ان میں تطبیق یوں دی جائے گی کہ اولاً حضور ﷺ نے نہیں کھایا ہوگا اس خوف سے کہ کسی محرم نے حکم کیا ہوگا یا مدد کی ہوگی پس جب یہ امر محقق ہو گیا تو نوش فرمایا اور صریح حکم کیا تھا یا دلالت بھی کی یعنی اس کی طرف راستہ بتایا تھا اور دلالت اور اشارہ میں فرق یہ ہے کہ دلالت زبان سے ہوتی ہے اور اشارہ ہاتھ سے ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ دلالت غائب میں ہوتی ہے اور اشارہ حاضر میں مجرم کو دلالت کرنا حرام ہے حلال میں اور حرام میں اور غیر محرم کو حرم میں حرام ہے۔ نہ کہ حلال میں اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ محرم کو شکار کا گوشت کھانا مباح ہے اگر خود شکار نہ کیا ہو اور دلالت اور اشارہ اور مدد

نذکی ہو اور اس میں رو ہے ان حضرات کا جو شکار کے گوشت کو مطلقاً کھانا منع کرتے ہیں۔

احرام کی حالت میں مذکورہ جانوروں کو مارنا گناہ نہیں ہے

۳/۲۵۶۳ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الْفَأَرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْعُقُورُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۵۵/۶۔ الحدیث رقم ۳۳۱۵۔ ومسلم فی ۸۵۷/۲ الحدیث رقم (۷۲۔ ۱۱۹۹)۔

وابوداؤد فی السنن ۴۲۴/۲ الحدیث رقم ۱۸۴۶۔ والنسائی فی ۱۸۷/۵ الحدیث رقم ۲۸۲۸۔ وابن ماجہ ۱۰۳۱/۲۔

الحدیث رقم ۳۰۸۸۔ ومالك فی الموطأ ۳۵۶/۱ الحدیث رقم ۸۹ من کتاب الحج واحمد فی المسند ۸/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا پانچ جانوں کو حرم میں احرام کی حالت میں مارنا گناہ نہیں ہے چوہا، چیل، کچھو اور کانٹے والا کتا۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئے سے مراد الغراب الا بقیہ سیاہ و سفید کو ہے کہ جو اکثر مردار اور نجاست کو کھاتا ہے جیسا کہ آئندہ روایت میں آیا ہے اور اس سے بھی قتل کھانے والا کو اٹکل گیا کہ اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور اس کی چونچ اور پاؤں کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ کانٹے والے کتے کے حکم میں وہ تمام درندے شامل ہیں جو حملہ کرتے ہیں۔ ایسے تمام جانوروں کو حالت احرام میں حرم میں مارنا جائز ہے۔

موذی جانوروں کو مارنے کا حکم

۴/۲۵۶۴ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأَرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَاةُ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۵۵/۶۔ الحدیث رقم ۳۳۱۴۔ ومسلم فی ۸۵۶/۲ الحدیث رقم (۶۶۔ ۱۱۹۸)۔

والترمذی فی السنن ۱۹۷/۳ الحدیث رقم ۸۳۷۔ والنسائی فی ۱۸۸/۵ الحدیث رقم ۲۸۲۹۔ وابن ماجہ فی ۳۱/۲۔

الحدیث رقم ۳۰۸۷۔ واحمد فی المسند ۱۶۴/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ پانچ موزی جانور حل میں بھی مارے جائیں اور حرم میں بھی مارے جائیں یعنی مارنے والا بغیر احرام کے: دیا احرام باندھے ہوئے ہو۔ سانپ، سیاہ و سفید کو، چوہا، کانٹے والا کتا اور چیل۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کتے کا مارنا حرام ہے جس میں منفعت ہو اور ایسے ہی اس کتے کا مارنا جس میں نہ نفع اور نہ نقصان ہو اور ان جانوروں کا مارنا جن کا ذکر متن حدیث میں گزر چکا ہے۔ صرف ان ہی پر حصر نہیں ہے بلکہ یہی حکم سب موزی جانوروں کا ہے چوہا کی طرح اور بچھو اور پسو اور چھڑی اور کھٹل وغیرہ اور اگر جوئیں ماری جائیں تو پھر حسب توفیق صدقہ دینا واجب ہوگا۔

الفصل الثانی:

محرم کو شکار کرنے کا ممانعت

۵/۲۵۶۵ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الْأَحْرَامِ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ۔ (رواه ابو داود والترمذی والنسائی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۲۷/۲ الحدیث رقم ۱۸۵۱۔ والترمذی فی ۱۰۳/۳ الحدیث رقم ۸۴۶۔ والنسائی فی ۱۸۷/۵ الحدیث رقم ۲۷۲۸۔ والدارقطنی فی ۲۹۰/۲ الحدیث رقم ۲۴۳ من باب المواقیب۔ واحمد فی المسند ۳۶۲/۳۔
ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حالت احرام میں شکار کا گوشت تمہارے لئے حلال ہے بشرطیکہ تم نے وہ شکار نہ کیا ہو یا وہ شکار تمہارے لیے نہ کیا گیا ہو۔ اس کو ابو داؤد اور نسائی اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم حالت احرام میں شکار کرو گے یا تمہارے لیے شکار کیا جائے گا۔ اگر شکار کرنے والا محرم نہ ہو تو اس شکار کا گوشت کھانا تمہارے لئے درست نہ ہوگا۔ اس حدیث سے امام مالک اور امام شافعی نے دلیل پکڑی ہے اس سے کہ اس شکار کا گوشت حرام ہے جس کو غیر محرم نے احرام والے کے واسطے شکار کیا ہو اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ معنی لیے ہیں کہ اگر بطریق تھک کے تمہاری طرف بھیجا گیا ہو تو اس کا گوشت حرام ہوگا اور اگر گوشت بھیجے تو حرام نہیں ہوگا اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر تمہارے حکم سے شکار کیا جائے تو اس کا کھانا درست نہیں ہے۔
پس اس شکار کا گوشت حرام نہیں ہوگا جس کو غیر محرم احرام والے کے لیے اس کے امر کے بغیر یا دلالت کے بغیر یا اشارے کے بغیر ذبح کرے۔

الجراد بمعنی مڈی

۶/۲۵۶۶ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ۔

(رواه ابو داود والترمذی)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۲۹/۲ الحدیث رقم ۱۸۵۳۔ والترمذی فی ۲۰۷/۳ الحدیث رقم ۸۵۰۔ وابن ماجہ فی ۱۰۷/۲ الحدیث رقم ۳۲۲۲۔ واحمد فی المسند ۳۰۶/۲۔
ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ مڈی دریا کے شکار سے ہے۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: ہمارے علماء نے کہا ہے کہ مڈی کو دریا کا شکار اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دریا کے شکار کے مشابہ ہے اس بات میں کہ ذبح کے بغیر درست ہے پس محرم کو مڈی کا مارنا جائز نہیں ہے اور اس کے مارنے کی وجہ سے اس پر صدقہ دینا لازم آئے گا۔ یعنی اللہ کے لیے جو چاہے دے اور ہدایہ میں لکھا ہے کہ مڈی جنگل کے شکار میں سے ہے۔ ابن ہمام نے کہا ہے کہ اکثر علماء کا یہی

مذہب ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کڑی کا شکار کرنا محرم کے لیے جائز ہے۔ اس لیے کہ یہ دریا کے شکار کی طرح ہے اور دریا کا شکار محرم کے لیے حلال ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مطابق کہ: اَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

حملہ کرنے والے درندے کو مار ڈالنے کا حکم

۷/۲۵۶۷ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبْعَ الْعَادِيَّ۔

(رواہ الترمذی و ابو داؤد ابن ماجہ)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۲۵۱۲ الحدیث رقم ۱۸۴۸۔ والترمذی فی السنن ۱۹۸۱۳ وابن ماجہ فی السنن ۱۰۳۲۱۷

الحدیث رقم ۳۰۸۹۔ واحمد فی المسند ۳/۳۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا محرم حملہ کرنے والے درندے کو مار ڈالے۔ اس کو امام ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔
تشریح: اس حدیث پاک میں محرم کے لئے حملہ کرنے والے درندے کو مار ڈالنے کا حکم ہے۔

چرغ کے شکار کا حکم

۸/۲۵۶۸ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ أَصِيدُ هِيَ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَيُّ كُلٍ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ۔

(رواہ الترمذی والنسائی والشافعی وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح)

اخرجه الترمذی فی السنن ۲۲۲۱۴ الحدیث رقم ۱۷۹۱۔ والنسائی فی ۲۰۰۱۷ الحدیث رقم ۴۳۲۳۔ والدارقطنی فی

۲۴۶۱۲ الحدیث رقم ۴۵ من باب الموافیت واحمد فی المسند ۳۱۸/۳۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عمارؓ سے روایت ہے کہ میں نے جابر بن عبد اللہؓ سے چرغ جانور کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کا شکار ہے؟ پس انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پس میں نے کہا کیا کھایا جائے؟ فرمایا کہ ہاں! پھر میں نے کہا کہ تم نے پیغمبر ﷺ سے سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس کو امام ترمذی اور نسائی اور امام شافعی نے اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تشریح: یہ حدیث چرغ کے شکار کے بارے میں ہے کہ اس کا شکار کھانا محرم کے لیے حرام ہے یا حلال۔ چرغ کے گوشت کا کھانا امام شافعیؒ کے نزدیک مذکورہ بالا حدیث کی وجہ سے درست ہے اور امام مالکؒ اور امام اعظمؒ کے نزدیک اس حدیث کی وجہ سے جو آئندہ آنے والی ہے درست نہیں ہے۔

چرغ کے شکار کرنے پر جزا

۹/۲۵۶۹ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبُعِ قَالَ هُوَ صَيْدٌ وَيَجْعَلُ فِيهِ كَبْشًا إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ (رواه ابو داود وابن ماجه والدارمی)

اخرجه ابو داود فی السنن ۱۵۸/۴ الحدیث رقم ۳۸۰۱۔ وابن ماجه فی ۱۰۷۸/۲ فی الحدیث رقم ۳۲۳۶۔ والدارمی فی ۱۰۲/۲ الحدیث رقم ۱۹۴۱۔ والدارقطنی فی ۲۴۶/۲ الحدیث رقم ۴۸ من باب المواقیف۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے چرغ جانور کے بارے میں پوچھا فرمایا کہ وہ شکار ہے اور جس وقت محرم اس کو پینچے تو اس کے بدلے ذنبہ یا مینڈھا (راہ خدا میں) قربان کرے۔ اس کو ابو داؤد اور ابن ماجہ اور دارمی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر محرم نے احرام کی حالت میں چرغ کا شکار کیا تو اس کے بدلے ایک ذنبہ مینڈھا اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا۔

چرغ اور بھیڑیے کا مسئلہ

۱۰/۲۵۷۰ وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ قَالَ أَوْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الذِّئْبِ قَالَ أَوْ يَأْكُلُ الذِّئْبُ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ۔

(رواه الترمذی وقال ليس اسنادہ بالقوی)

اخرجه الترمذی فی ۲۲۲/۴ الحدیث رقم ۱۷۹۲۔ وابن ماجه فی ۱۰۷۷/۲ الحدیث رقم ۳۲۳۵۔ (۱) الحدیث رقم ((النصب لست آكله ولا احرمه)) وليس ((الضبع)) اخرجه البخاری فی ۶۶۲/۹ الحدیث رقم ۵۵۳۶۔ ومسلم فی ۵۴۲/۳ الحدیث رقم (۴۰-۱۹۴۳)۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ترجمہ: حضرت خزیمہ بن جزی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے چرغ کے کھانے کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کیا چرغ کو کوئی کھاتا ہے؟ یعنی کسی کو کھانا نہیں چاہیے اور میں نے حضور ﷺ سے بھیڑیے کے کھانے کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا کیا ایسا شخص جس میں بھلائی یعنی ایمان ہو بھیڑیے کو کھاتا ہے؟ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کی اسناد قوی نہیں ہے۔

تشریح: یہ حدیث نفس مضمون میں صحیح ہے اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور ابن ماجہ کی روایت نے اس کو تقویت دی ہے اس کے لفظ یہ ہیں: ومن يأكل الضبع۔ اور یہ حدیث اس کی مؤید ہے کہ حضور ﷺ نے ہر ذی ناب کے کھانے سے یعنی کچیلوں والے جانوروں سے منع فرمایا ہے اور یہ ذی ناب درندہ ہے پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تحریم اور اباحت کے دلیلوں کے تعارض کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے۔

الفصل الثالث:

محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کا حکم

۱۱/۲۵۷۱ اَوْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حَرُمٌ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْقِظَ طَلْحَةُ وَافَقَ مَنْ أَكَلَهُ قَالَ فَأَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۸۵۵، ۲ الحديث رقم (۱۱۹۷-۵۶)۔ والنسائي في السنن ۱۸۲/۵ الحديث رقم ۲۸۱۷۔ والدارمي في ۶۰/۲ الحديث رقم ۱۸۲۹۔ واحمد في المسند ۱۶۱/۱۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عثمان تیمیؓ سے روایت ہے کہ ہم طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ تھے اس حال میں کہ ہم محرم تھے پس ان کے لئے ایک پرندہ بطور ہدیہ کے بھیجا اور طلحہ سوئے ہوئے تھے پس ہم میں سے بعض آدمیوں نے کھایا یعنی اس لیے کہ محرم کے لیے کھانا جائز ہے محرم کو شکار کا گوشت کھانا اگر حکم نہ کیا ہو اور بعضوں نے ہم میں سے پرہیز کیا یعنی اس گمان پر کہ محرم کو اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ حضرت طلحہؓ جاگے تو کھانے والوں کی موافقت کی پس طلحہؓ نے کہا ہم نے اس کے مثل نبی کریم ﷺ کے ساتھ کھایا۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا ہے کہ موافقت کی یعنی قول و فعل کے ساتھ یعنی یا تو زبانی کہا کہ اچھا کیا یا آپ نے بھی باقی رکھا ہوا کھایا اور جانور سے مراد ہے کہ وہ جانور بڑا تھا کہ جماعت کو کافی ہو گیا۔

بَابُ الْإِحْصَارِ وَفَوْتِ الْحَجِّ

یہ باب محرم کے روکنے اور حج کے فوت ہو جانے کے بارے میں ہے

فائدہ: محرم کے روکنے سے مراد یہ ہے کہ جب محرم کو حج سے بیماری یا دشمن یا پیسوں کا خرچ ہو جانا روک دے یا محرم عورت کا خاوند راتے میں مر جائے اس کو چاہیے کہ وہ ایک بکری بھیجے کہ وہ اس کی طرف سے حرم میں وقت معین میں ذبح کی جائے اور جانور کے ذبح ہونے کے بعد سر منڈوانے اور بال کتروانے کے بغیر احرام سے نکل جائے اور قارن ہو تو دو جانور بھیجے اور تینوں اماموں کے نزدیک رکنا دشمن کی وجہ سے ہوتا ہے پس مریض ان کے نزدیک احرام پر باقی رہتا ہے اگر عذر جاتا رہا اور حج فوت ہو جائے تو عمرے کے افعال کے بعد احرام سے نکلے اور حج کے فوت ہونے یعنی احرام باندھے ہوئے تھا اور وفوت عرفہ پانا وقوف کی عدت میں کہ وہ وقت عرفہ کے زوال کے بعد قربانی کے دن طلوع فجر تک ہے اگرچہ ایک ساعت ہو اور یہاں ایک عجیب مسئلہ ہے اگر کوئی شخص وہاں اخیر رات کو پہنچے اور عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو اور اگر اس کو خوف ہو کہ اگر وہ عرفات کو جائے گا تو عشاء کی نماز فوت ہو جائے گی اور اگر عشاء میں مشغول ہو گا تو وقوف عرفہ فوت ہو جائے گا۔ تو بعضوں نے کہا ہے کہ عشاء کی نماز میں مشغول ہو

ہائے اگرچہ وقوف عرفہ فوت ہو جائے اور بعضوں نے کہا ہے کہ نماز چھوڑے اور عرفہ کی طرف چلا جائے۔
مسئلہ: درمختار میں لکھا ہے اگر عشاء کا اور وقوف کا وقت تنگ ہو اور وقوف کا تو نماز چھوڑ دے اور عرفات کی طرف
چلا جائے۔

الفصل الاول:

احصار کا حکم

۱/۲۵۷۲ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدْ أُخْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ

وَنَحَرَ هَذِيهٖ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا۔ (رواہ البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴/۴۔ الحدیث رقم ۱۸۰۹۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کو روک لیا گیا پس آپ ﷺ نے اپنا سر منڈوا لیا اور اپنی
عورتوں سے یعنی کامل حلال ہونے کے بعد صحبت کی اور اپنی ہدی ذبح کی اور اگلے سال عمرہ کیا۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ
نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ احرام باندھ کر مکہ کو چلے تھے حدیبیہ کے مقام پر مشرکین
نے روک لیا حضور ﷺ احرام سے نکل آئے اور جامعہ نساءہ میں واو مطلق جمع کے لیے ہے یعنی ترتیب وغیرہ سے منڈانا
مذکور نہیں اور صحیحین میں ہے کہ حضور ﷺ اور ان کے اصحاب حدیبیہ کے مقام پر احرام سے نکلے۔ جب کہ ان کو مشرکین نے روکا
اور حضور ﷺ عمرے کا احرام باندھے ہوئے تھے پس آپ ﷺ نے نحر کیا یعنی ہدی ذبح کی اور اپنا سر منڈا لیا اور پھر اپنے اصحاب
سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور نحر کرو۔ پھر سر منڈاؤ اور ہدایہ میں ہے کہ پھر احرام سے نکلے۔ ابن ہمامؒ نے فرمایا کہ اس قید نے یہ
فائدہ دیا ہے کہ محصر ہدی کے ذبح ہونے سے پہلے احرام سے نہیں نکلتا پس اگر مجھے یعنی رکنے والے نے ہدی بھیجی اور کہلا بھیجا کہ
فلانے دن ذبح کرنا اور اس نے گمان کیا کہ روز موعود میں ذبح کی گئی اسے کوئی چیز ممنوع احرام کی گئی اور معلوم ہوا کہ اس نے اس
وقت ذبح نہیں کی تھی تو اس پر بدلہ لازم ہوگا یعنی جانور ذبح کرنا وغیرہ ذلک اور اسی طرح اگر حل میں ذبح کی اس گمان پر کہ یہ حرم
ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک کہ ہدی کو ذبح کرنا جہاں روکا جائے جائز ہے۔

اور امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں کہ محصر ہدی کو حرم میں ذبح کرے اور باقی بدایا میں دونوں کا اتفاق ہے کہ حرم ہی میں ذبح
کئے جائیں اور جو حضرات رکنے کی جگہ پر ذبح کرنے کو کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور ﷺ اور صحابہ نے حدیبیہ کے مقام پر
ہدی ذبح کی باوجود کہ وہ حل کی زمین ہے اور حنیفہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہدی کا حرم میں پہنچنا حرم میں ممکن نہ تھا۔ پس ضرورت کی
وجہ سے وہاں ذبح کی اور بعض کہتے ہیں کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ حل میں ہے اور کچھ حصہ حرم میں ہے پس شاید کہ حرم میں ذبح کی ہوگی
اور اگلے سال یعنی ہجری کے ساتویں سال میں اس سے معلوم ہوا ہے اگر کوئی محصر ہو یعنی عمرہ یا حج کرنے سے رک جائے تو اس کی
قضا کرے۔ ہمارے نزدیک اس کی قضاء واجب ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک اس پر قضا نہیں ہے اور اگلے سال کے عمرے کا

نام عمرہ القضاء ہونا ہمارے مذہب میں موید ہے۔

حدیبیہ کا واقعہ

۲/۲۵۷۳ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَتَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا يَاهُ وَحَلَّقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابَهُ۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحيحه ۴/۴۔ الحديث رقم ۱۸۱۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلے پس کفار قریش نے خانہ کعبہ کے پیچھے ہمیں روک لیا تو نبی کریم ﷺ نے اپنی ہڈی کے جانور ذبح کیے اور سر منڈایا اور آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بال کتروائے۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ کے بعض اصحاب نے بال کتروائے اور بعضوں نے سر منڈوائے اور ہدایہ میں لکھا ہے کہ محصر پر بال کتروانا یا منڈوانا لازم نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمدؒ کے نزدیک اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک یہ ہے یہ کرنا چاہے ان میں سے ایک چیز کو بال منڈوانے اور کتروانے میں سے کسی ایک کو اختیار نہیں کرے گا تب بھی احرام سے نکل جائے گا اور اس پر کچھ لازم نہیں آئے گا۔

۳/۲۵۷۴ وَعَنِ الْمُسَوِّرِ بْنِ مَعْرُومَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحيحه ۱۰/۴۔ الحديث رقم ۱۸۱۱۔ واحمد فی المسند ۳۲۷/۴۔

ترجمہ: حضرت مسور بن مخرمہؓ سے روایت ہے کہ تحقیق آپ ﷺ نے سر منڈوانے سے پہلے نحر کیا۔ اور اپنے صحابہ کو سر منڈوانے سے پہلے یعنی نحر کرنے کا حکم کیا۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ بالکل واضح ہے کہ آپ ﷺ نے سر منڈوانے سے پہلے نحر کیا اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی یہی حکم دیا۔

احصار کی وجہ سے حج کی قضا کرے

۴/۲۵۷۵ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ قَالَ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ حُسِنَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحْجَّ عَامًا قَابِلًا قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَذَا۔ (رواه البخاری)

اخرجه النسائي فی السنن ۱۶۹/۵۔ الحديث رقم ۲۷۶۹۔

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا نبی کریم ﷺ کی سنت یعنی ان کا قول تم کو کافی نہیں ہے کہ تم

میں سے کسی کو حج کرنے سے روک لیا جائے یعنی حج کے بڑے رکن سے کوئی عذر مانع ہو جیسے کہ وقوف عرفہ ہے اور طواف اور سعی سے مانع نہ ہو خانہ کعبہ کا طواف کرے اور صفا اور مروہ کی سعی کرے پھر ہر چیز سے حلال ہو جائے یہاں تک کہ اگلے سال حج کرے پھر ہدی ذبح کرے یا اگر ہدی نہ پائے تو روزہ رکھے۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جان لینا چاہیے کہ جس شخص کا حج فوت ہو جائے اگر وہ مفرد ہو تو اس پر حج کی آئندہ سال قضاء ہے اور نہ ہی اس پر عمرہ ہے اور نہ ہی دم ہے یعنی جانور ذبح کرنا بخلاف مہصر کے کہ اگر راستے میں حج کرنے سے روکا جائے تو حرم میں ہدی بھیجے وہاں ذبح ہو تو احرام سے نکل جائے اور آئندہ سال حج کی قضاء کرے اور اگر مفرد ہے تو عمرہ کرے اور اگر قارن ہے تو دو عمرے کرے اور اگر وہاں پہنچ کر یعنی وقوف عرفہ سے عذر کی وجہ سے روکا جائے۔ یعنی وقوف عرفہ نہ کر سکے اور اگر طواف اور سعی کر سکتا ہے تو طواف اور سعی کرے یعنی عمرہ کر کے احرام سے نکل آئے اور آئندہ سال حج کی قضا کرے پھر ہدی ذبح کرے یا اگر ہدی نہ پائے تو روزہ رکھے اور اس حدیث میں بھی یہی صورت مذکور ہے اور اگر وہ قارن ہو یعنی حج اور عمرے کی نیت کی ہو تو وہ طواف کرے اور عمرے کے واسطے اور اس کے لیے سعی کرے پھر وہ حج کے فوت ہونے کی وجہ سے دوسرا طواف کرے اور اس کے لیے سعی کرے اور سر منڈوائے یا بال کتروائے اور اس سے دم قرآن باطل ہوگا اگر متمتع ہوگا تو اس کا متمتع باطل ہوگا اور اس سے ساقط ہو جائے گا اور اگر ساتھ ہدی لایا ہو۔ تو اس کو جو چاہے کرے اور ان سب فوت کرنے والوں پر سال قضاء میں حج واجب ہوگا۔

احصار کی وجہ سے احرام کھولنا جائز ہے

۵/۲۵۷۶ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ لَقَالَ لَهَا لَعَلَّكَ ارَدْتِ الْحَجَّ وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً لَقَالَ لَهَا حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقَوْلِي اَللّٰهُمَّ مِجْلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي۔ (متفق علیہ)

امرحہ البخاری فی صحیحہ ۱۳۲/۹۔ الحدیث رقم ۵۰۸۹۔ ومسلم فی ۸۶۷/۲ الحدیث رقم (۱۰۴-۱۲۰۷)۔ والنسائی فی السنن ۶۸/۵ الحدیث رقم ۲۷۶۸۔ واحمد فی المسند ۱۶۴/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کی بیٹی مباحہ کے پاس آئے۔ پس آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ شاید توج کا ارادہ رکھتی ہے؟ اس نے کہا ہاں! لیکن اللہ کی قسم! میں اپنے آپ میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتی میں بیمار ہوں اور اپنے آپ میں بیماری کی وجہ سے ضعف پاتی ہوں میں نہیں جانتی کہ بیماری کی وجہ سے حج پورا کر سکوں گی یا نہیں۔ پس آپ ﷺ نے اس کے لیے فرمایا کہ توج کر یعنی حج کا احرام باندھ اور شرط کر لے اور تو کہہ اے الہی! میرا احرام سے نکلنے کا مکان اس جگہ ہو جہاں تو مجھ کو روکے اس کو بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے یعنی یہ الفاظ کہو۔ اَللّٰهُمَّ مِجْلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صحابیہ کے لیے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ مرض پیدا ہو اور خانہ کعبہ کی طرف نہ چل سکے تو اس جگہ پر احرام سے باہر نکل جائے اور ائمہ ثلاثہ کا کہنا ہے کہ احصار یعنی رکن بیماری کی وجہ سے

نہیں ہوتا وہ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر مرض کی وجہ سے احرام سے باہر نکلنا مباح ہوتا تو اس کو حضور ﷺ شرط کرنے کا حکم نہ کرتے کیونکہ وہ بے فائدہ تھی اور امام اعظمؒ جو کہتے ہیں کہ احصار مرض کی وجہ سے وہ حجاج بن عمرو انصاریؒ والی حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں جو کہ آگے آرہی ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ ابن عمرؓ سے شرط لگانے کے قائل نہ تھے اور کہتے تھے کیا تمہارے نبی کی سنت تمہارے لیے کافی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ شرط کرنے کا فائدہ آیا اس عورت کے حق میں تھا کہ وہ جلدی احرام سے نکل آئے گی اس لیے کہ اگر وہ شرط نہ لگاتی اور دیر کر کے احرام سے نکلتی جب تک ہدی حرم میں نہ پہنچتی اور امام اعظمؒ کا یہی مذہب ہے کہ محصر کے لیے درست نہیں ہے کہ ہدی ذبح ہونے سے پہلے احرام سے نکلے۔ مگر یہ کہ شرط لگانے یعنی اگر یہ شرط لگالے کہ جہاں میں رکوں گا وہاں احرام سے نکل آؤں گا تو محصر رکنے کی وجہ سے ہدی ذبح کرنے کے بغیر حلال ہو جاتا ہے۔

الفصل الثانی:

جانوروں کو بدلنے کا حکم

۶/۲۵۷۷ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْيَ الَّذِي

نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ۔ (رواہ ابو داؤد)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۳۴/۲ الحديث رقم ۱۸۶۴۔

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے اصحاب کو حکم کیا کہ وہ ہدی کے جانوروں کو بدلیں وہ جانور جو حدیبیہ کے سال میں عمرہ القضاء میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس کو ابو داؤد میں نقل کیا گیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ احصار سے پہلے یعنی رکنے کی وجہ سے جو ہدی کے جانور ذبح کئے تھے جب آئندہ سال عمرہ القضاء بجالائیں اور ان کے بدلے جانور ذبح کریں تاکہ ذبح کرنا حرم میں واقع ہو۔ اس لیے کہ احصار کی ہدی حرم کے علاوہ ذبح نہیں کی جاتی۔ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہؒ، مسند کا مذہب ہے اور جس صورت میں حدیبیہ میں ذبح کرنا غیر حرم میں تھا ظاہر ہے اور اگر ہم کہیں کہ حدیبیہ بھی حرم تھا۔ اس لیے کہ اکثر حدیبیہ حرم میں ہے پس ہدی کا بدلنا احتیاط اور غفلت کے حاصل کرنے کے لیے تھا اور امر استحباب کے واسطے ہے اور لفظ رواہ کے بعد مشکوٰۃ کے نسخہ میں سفیدی چھوٹی ہوئی ہے اور ایک نسخہ میں ابو داؤد کا لفظ لاحق کر دیا ہے اور ایک نسخہ میں یہ عبارت زیادہ ہے: وفيه قصة في سنده محمد بن اسحاق۔

احصار دشمن کے علاوہ بھی ممکن ہے

۷/۲۵۷۸ وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو وَالْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُسِرَ أَوْ

عُرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ۔ (رواہ الترمذی و ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی و زاد ابو داؤد فی

رواية اخرى أو مَرَضَ وقال الترمذی هذا حديث حسن وفي المصباح ضعيف)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۴۳۳/۲ الحديث رقم ۱۸۶۲۔ و الترمذی فی ۲۷۷/۳ الحديث رقم ۹۴۰۔ و النسائی فی

١٩٨/٥ الحديث رقم ٢٨٦١- وابن ماجه فى ١٠٢٨/٢ الحديث رقم ٣٠٧٧- والدارقطنى فى ٢٧٧/٢ الحديث رقم ١٩١ من باب الموافقت- واحمد فى المسند ٤٥٠/٣-

ترجمہ: حجاج بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ اس کا پاؤں ٹوٹ جائے یا لنگڑا ہو جائے پس تحقیق حلال ہو گیا یعنی اس کے لئے احرام کا ترک کرنا جائز ہے اور پھر اپنے وطن کی طرف آئے اور اس پر آئندہ سال حج لازم ہے۔ اس کو امام ترمذیؒ اور ابو داؤدؒ اور نسائیؒ اور ابن ماجہؒ اور دارمیؒ نے روایت کیا ہے اور ایک روایت میں ابو داؤدؒ نے زیادہ کہا ہے کہ یا بیمار ہو جائے اور امام ترمذیؒ نے کہا ہے کہ حدیث حسن ہے اور مصابیح نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔

تشریح ﴿۱۰﴾ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جس شخص کو احرام باندھنے کے بعد دشمن کے احصار کے علاوہ کوئی واقعہ پیش آجائے تو اس کے لئے احرام کا ترک کرنا جائز ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ احصار یعنی رکنا بغیر دشمن کے بھی ہوتا ہے جیسا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے اور یہ روایت ضعیف ہے یعنی اس کی سند ضعیف ہے اور اس کی سند ضعیف ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ سند ترمذی وغیرہ کی بھی ضعیف ہو اور تعارض کی وجہ سے ترمذی کے حسن کہنے کی وجہ سے اس روایت کو ترجیح ہوگی اور بغوی کے ضعیف کہنے کی بنا پر نسخہ میں لفظ حسن کے بعد صحیح بھی ہے اور تورپشتی نے کہا ہے کہ اس کو ضعیف کہنا باطل ہے۔

حج کارکن اعظم وقوف عرفہ ہے

٢٥٤٩/٨ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَجَّ عَرَفَةٌ مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةً جَمَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ أَيَّامَ مِنِّي ثَلَاثَةٌ لِمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِيَّامَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِيَّامَ عَلَيْهِ.

(رواه الترمذی و ابوداؤد و النسائی و ابن ماجه و الدارمی و قال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح)

١٠٣/٢ - الحديث رقم ٣٠١٥ واعرجه الدارمي في ٨٢/٢ الحديث رقم ١٨٨٧ - والنسائي في ٢٦٤/٥ الحديث رقم ٣٠٤٤ واحمد في المسند ٣٣٥/٤ -

ترجمہ: عبدالرحمن بن محمد دیلمی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے حج عرفہ ہے یعنی حج کا بڑا رکن ذی الحجہ کی نویں تاریخ وقوف عرفہ ہے کہ جس نے وقوف عرفہ پایا مزدلفہ کی رات میں یعنی ذی الحجہ کی دسویں رات میں فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پس تحقیق اس نے حج پالیا۔ منی کے دن تین ہیں یعنی گیارہویں بارہویں تیرہویں کہ جن کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ان تین دنوں میں منی میں رہتے ہیں اور رمی کرتے ہیں پس جو شخص کہ دو دن میں جلدی کرے پس اس پر گناہ نہیں ہے اور جو شخص کہ تاخیر کرے پس اس پر گناہ نہیں ہے۔ اس کو امام ترمذی اور ابوداؤد اور نسائی اور ابن ماجہ اور دارمی اور امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے حج پایا یعنی حج فوت نہ ہوا اگر دو قوف عرفہ سے پہلے جماع

نہ کیا ہو تو فساد سے امن میں رہے گا اور جس نے وقوف نہ کیا یعنی عرفات میں نہ ٹھہرایا یہاں تک کہ فجر ہوگئی اس پر عمرے کے افعال واجب ہیں۔ پھر احرام سے نکل آئے اور ہمیشہ احرام (آئندہ سال تک) باندھے رہنا حرام ہے۔ اور جو شخص جلدی کرے۔ جو شخص تینوں مناروں پر بارہویں تاریخ کو دو پہر کے بعد کنکریاں مار کر مکہ میں آ گیا۔ اس پر کچھ گناہ نہیں ہے اور اس سے تیرہویں رات کا رہنا ساقط ہو گیا ہے اور تیرہویں تاریخ کو کنکریاں مارنا بھی ساقط ہو گیا اور جو شخص بارہویں تاریخ کو کنکریاں مار کر مناروں پر مٹی میں ہی ٹھہرا رہے یہاں تک کہ تیرہویں تاریخ کو بھی تینوں مناروں پر کنکریاں مارے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی دونوں باتیں جائز ہونے میں برابر ہیں اگرچہ کثرت عبادت کی وجہ سے تاخیر افضل ہے۔

اور یہ بھی آیا ہے کہ اہل جاہلیت دو فریق تھے بعض جلدی کرنے کو گناہ جانتے تھے اور بعض تاخیر کو گناہ سمجھتے تھے پس یہ حکم نازل ہوا کہ تاخیر اور تعیل دونوں برابر ہیں اور کسی میں گناہ نہیں ہے۔

بَابُ حَرَمِ مَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى

حرم مکہ کا بیان اللہ تعالیٰ اس کو آفات سے محفوظ رکھے

فائدہ: حرم کہتے ہیں زمین کے اس حصے کو جو کعبہ اور مکہ کے ارد گرد ہے خانہ کعبہ کی تعظیم کی وجہ سے حرم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معظم و مکرم کیا ہے اور اس کا نام حرم بزرگی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی چیزیں حرام کی ہیں کہ وہ دوسرے مقامات پر حرام نہیں ہیں اور حرم کا ہونے کا سبب بعضوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا تو وہ شیاطین سے ڈرتے تھے کہ وہ مجھ کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا کہ ان کی نگرانی کریں پس جہاں جہاں حرم کی حدیں ہیں وہاں ہر طرف فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ پس جتنی زمین خانہ کعبہ اور فرشتوں کے کھڑے رہنے کی جگہ ہوگی وہ بھی حرم میں داخل ہوگی اور بعضوں نے کہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بناتے وقت حجر اسود کو رکھا تو زمین روشن ہوگئی پس جتنی زمین حجر اسود کی وجہ سے روشن ہوئی وہ حرم ہوئی اور حرم کی حدود کے اوپر ہر طرف علامت کے منارے بنے ہوئے ہیں مگر جہدہ اور بحر انہ کی جانب نہیں ہیں۔

الفصل الاول:

حرم کے احرام کا بیان

۲۵۸۰/ اَعِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ وَإِذَا اسْتَفْرَغْتُمْ فَاَنْفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمُ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ الْقِتَالُ فِيهِ لَا حَدٍ قَلِيلٍ وَلَمْ يَحِلُّ لِي إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعَصَّدُ شَوْكُهُ وَلَا يَنْفَرُ صَيْدُهُ وَلَا يُلْتَقِطُ لُقْطَتُهُ إِلَّا مَنْ

عَرَفَہَا وَلَا يُخْتَلَىٰ خَلَاہَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْحَارَ فَإِنَّهُ لَيَقْبَلُهُمْ وَلَيُؤَيِّدُهُمْ فَقَالَ إِلَّا الْإِذْحَارَ۔ (متفق علیہ) وَلَمْ يَرْوَاهُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَعْصِدُ شَجَرَهَا وَلَا يَنْقِطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا مُنْشِدًا۔

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۶/۴۔ الحدیث رقم ۱۸۴۳۔ ومسلم فی ۹۸۶/۲ الحدیث رقم (۴۴۵۔ ۱۴۵۳)۔ والنسائی فی ۲۰۳/۵ الحدیث رقم ۲۸۷۴۔ وابن ماجہ فی ۱۰۳۸/۲ الحدیث رقم ۲۸۷۴۔ واحمد فی المسند ۲۵۹/۱۔ اخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۸۸/۲ الحدیث رقم (۴۴۷۔ ۱۳۵۵)۔ وابوداؤد فی السنن ۵۱۸/۲ الحدیث رقم ۲۰۱۷۔ واحمد فی المسند ۲۳۸/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا کہ ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت خالص کرنا عمل میں باقی ہے اور جس وقت جہاد کے لیے بلائے جاؤ یعنی امام جہاد کا حکم کرے تو جہاد کے لیے نکلو اور فتح مکہ کے دن فرمایا تحقیق یہ شہر زمین حرم ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اس کی بے حرمتی کو حرام کیا ہے اور اس کی تعظیم ان پر واجب کی ہے اس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے یعنی اس کی حرمت قدیم ہے پس وہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لئے حرام کیا گیا ہے اور تحقیق کسی کے لئے اس میں قتال نہ ہوا ہے اور نہ میرے لیے قتال حلال ہے مگر دن کی ایک گھڑی۔ یعنی فتح مکہ کے دن پس یہ زمین (اس دن کے بعد) اللہ کی عطا کردہ حرمت کے باعث قیامت کے دن (نخجہ اولیٰ پھونکے جانے تک) ہر شخص کے لئے حرام قرار دیا گیا ہے۔ پس اس کا خاردار درخت نہیں کاٹا جائے گا۔ اگرچہ اس سے تکلیف ہو اور اس کے شکار کو بھگایا نہیں جائے گا یعنی معترض شکار کی غرض سے یا جانور کو ستانے کے لئے نہیں بھگائے گا اور اس کے لقمے کو نہ اٹھایا جائے مگر جو شخص اس کی تعریف کرے یعنی اس کو اس کا اٹھانا جائز ہے اور اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ پس ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مگر اذخر (ایک گھاس کا نام ہے) جسے لوہار اور سنار استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ لوہے سونے اور چاندی کے گلانے میں اور ان کے گھروں کے کام آتی ہے یعنی گھروں کی چھتوں کے بنانے کے کام آتی ہے پس فرمایا مگر اذخر یعنی اس کو اکھاڑنا جائز ہے۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ اس کا درخت نہ کاٹا جائے اور یہ اس کی گری چیز (فقط) تلاش کرنے والا اٹھائے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ہجرت نہیں ہے یعنی جب نبی کریم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ہجرت فرض تھی اس شخص پر جو شخص استطاعت رکھتا تھا۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو ہجرت منقطع ہوئی جو کہ فرض تھی اس لیے کہ مکہ دار الحرب رہا۔ پس ہجرت کی وجہ سے وہ درجہ حاصل نہیں ہوا جو مہاجرین کو حاصل ہوا لیکن اجر جہاد کی وجہ سے اور اچھی نیت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور وہ ہجرت کہ جو دین کی محافظت اور احکام اسلام کی خاطر ہو تو وہ قیامت تک باقی رہے گی اور خاردار درخت نہ کاٹا جائے چہ جائیکہ کہ بغیر کانٹے کے درخت ہو تو اس کو کاٹنا بطریق اولیٰ ناجائز ہے اور ہدایہ میں لکھا ہے کہ جو شخص حرم کی گھاس کاٹے یا اس کا درخت جو کہ ملک نہیں ہے اور خورد و ہواس پر اس کی قیمت لازم ہوگی۔ مگر خشک گھاس کے کاٹنے پر قیمت دینا لازم نہیں آتا لیکن اس کا کاٹنا بھی درست نہیں ہے اور حرم کی گھاس چرائی نہ جائے مگر اذخر کہ اس کا کاٹنا اور چرانا جائز

ہے اور کماۃ یعنی کھنسی بھی مستثنیٰ ہے اس لیے کہ نباتات سے نہیں ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک جانوروں کو حرم کی گھاس چرانا جائز ہے۔

اور لفظ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو گری پڑی ملے اور اس کا مالک معلوم نہ ہو تو اس کا حکم غیر حرم کی چیز کے ہے کہ وہ لوگوں کے مجمع میں تعریف کرے اور کہے کہ کسی کی چیز نہیں ملی ہے۔ پھر اگر مالک کے بارے میں معلوم نہ ہو اور یہ فقیر ہو تو اپنے کام میں لے آئے اور اگر غنی ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اس کے بعد اگر مالک آجائے تو اس کو اس کی قیمت دیدے اور حرم کے لفظ میں صرف تعریف ہے جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جب تک مالک نہ ملے اس کو اپنے پاس رکھے اور خرچ نہ کرے اور صدقہ نہ کرے اور اس چیز کو اپنی ملکیت نہ بنائے اور یہ امام شافعیؒ کا مذہب ہے اور اکثر علماء نے حرم کے لفظ اور اس کے علاوہ میں فرق نہیں کیا ہے اور ہمارا مذہب بھی یہی ہے اور ان کی دلیل وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں مطلقاً لفظ کا حکم بیان کیا گیا ہے جن کا بیان ان شاء اللہ باب الملقطہ میں ہوگا اور اس حدیث کے معنی ان کے نزدیک یہ ہیں کہ ایک برس مکمل تعریف کرے جیسا کہ دوسرے مقامات پر کرتے ہیں اور ایام حج کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

بغیر ضرورت کے مکہ مکرمہ میں ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے

۲/۲۵۸۱ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لَاحِدٍ كُمْ أَنْ يَحْمِلَ

بِمَكَّةَ السَّلَاحِ - (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۹۸۹/۲ الحديث رقم (۴۴۹ - ۱۳۵۶)۔

ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا کہ تم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں بغیر ضرورت کے ہتھیار اٹھانا درست نہیں ہے یہ جمہور علماء کا قول ہے اور حسنؒ نے کہا ہے کہ مطلقاً ہتھیار اٹھانا مکہ میں مکروہ ہے یعنی خواہ ضرورت سے ہو اور خواہ بلا ضرورت ہو۔

حرم پاک میں قصاص کا مسئلہ

۳/۲۵۸۲ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ

جَاءَ رَجُلٌ وَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ أَقْتُلْهُ - (متفق علیہ)

اخرجه فی صحيحه ۴/۶ - الحديث رقم ۱۸۴۶ - ومسلم فی ۹۸۹/۲ الحديث رقم (۴۵۰ - ۱۳۵۷)۔ والترمذی فی

۱۷۴/۴ الحديث رقم ۱۶۹۳ - والنسائی فی ۲۰۰/۵ الحديث رقم ۲۸۶۷ - والدارمی ۱۰۱/۲ الحديث رقم ۱۹۴۸ -

ومالك فی الموطأ ۴۲۳/۱ الحديث رقم ۲۴۷ - من كتاب الحج - واحمد فی المسند ۱۶۴/۳ -

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ مکہ میں فتح کے دن داخل ہوئے اور ان کے سر مبارک پر خود تھا۔ پس جب اس کو اتارا تو ایک شخص آیا یعنی فضل بن عبید اور اس نے کہا کہ تحقیق ابن خطل کعبہ کے پردے کو پکڑے

ہوئے ہے۔ فرمایا اس کو مارڈالو۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ علامہ طیبی نے کہا ہے کہ حضور ﷺ جب خود پہنے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے اس سے معلوم ہوا کہ مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا جائز ہے اس شخص کے لیے جو نیک یعنی حج یا عمرے کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور یہ صحیح تر قول امام شافعی کا ہے اور شنی نے کہا ہے کہ ہماری دلیل یہ حدیث ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میقات سے بغیر احرام کے تجاوز نہ کرو اور یہ بھی ہے کہ احرام اس جگہ کی تعظیم کی خاطر ہے پس اس میں حج کرنے والا اور غیر حج کرنے والا برابر ہے اور ان کے علاوہ حضور ﷺ جو بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے دن تو حضور ﷺ کو اس ساعت میں بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہونا حلال ہو گیا تھا جیسا کہ حدیث مبارکہ سے سمجھا جاتا ہے اور اس کو مارڈالو۔ علامہ طیبی نے کہا ہے کہ ابن نطل مرتد ہو گیا تھا اور اس نے ایک مسلمان کو مارڈالا تھا جو اس کا خادم تھا اور اس نے ایک گانے والی لڑکی پال رکھی تھی جو نبی کریم اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی اور اسلامی احکامات کی جو بیان کرتی تھی۔ پس اس کو مارڈالنے کا حکم صادر فرمایا اس سے امام مالک اور امام شافعی یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حدود اور قصاص کا حرم مکہ میں قائم کرنا جائز ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک جائز نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو مرتد ہونے کی وجہ سے مارا اور اگر قتل قصاص ہی کے لیے کیا ہو تو اس کو محمول کریں گے کہ اس کا قتل اس گھڑی مباح ہونے کی وجہ سے ہوا ہوگا۔

دخول مکہ کے وقت آپ ﷺ سیاہ عمامہ باندھے ہوئے تھے

۳/۲۵۸۳ رَوَعَنَ جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ

إِحْرَامٍ - (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۹۹۰/۱۲ الحديث رقم (۴۵۱ - ۱۳۵۸) - والنسائي في السنن ۲۰۱/۱۵ الحديث رقم ۲۸۶۹ -

والدارمي في ۱۰۱/۲ الحديث رقم ۲۸۶۹ - والدارمي في ۱۰۱/۲ الحديث رقم ۱۹۳۹ -

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فتح مکہ کے دن بغیر احرام کے داخل ہوئے اور آپ ﷺ پر سیاہ پگڑی تھی۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ خود پہنے ہوئے ہو گئے اور اس پر عمامہ باندھا ہوا ہوگا اور احرام نہ باندھنے کی تقریر ابھی گزر چکی ہے اور اس حدیث میں یہ دلیل موجود ہے سیاہ رنگ پہننا مستحب ہے جیسا کہ حنفیہ کا مذہب ہے۔

تخریب کعبہ لشکر کا ذکر

۵/۲۵۸۴ رَوَعَنَ عَائِشَةُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوُ جَيْشُ الْكُفَّةِ فَإِذَا كَانُوا بَيْدَاءَ

مِنَ الْأَرْضِ يُخَسِّفُ بَأْوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ يُخَسِّفُ بَأْوَلِهِمْ

وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخَسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يَبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ-

(متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۳۸/۴ الحدیث رقم ۲۱۱۸ کتاب الحج باب هدم الكعبة ومسلم فی صحیحہ ۲۲۱۰/۴ الحدیث رقم (۲۸۸۴/۸) بلفظ مختلف۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ کو خراب کرے گا۔ پس جس وقت ایک زمین میں پہنچے گا تو اپنے اول اور آخر کے ساتھ دھنسا دیا جائے گا۔ یعنی تمام لوگوں کو دھنسا دیا جائے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! کس طرح اپنے اول اور اپنے آخر کے ساتھ دھنسا دیا جائے گا اور ان میں ان کے بازاری لوگ ہونگے اور ان میں وہ شخص بھی ہوگا جو ان میں سے نہیں ہے اور خانہ کعبہ کے خراب کرنے میں شریک نہیں ہے بلکہ کمزور اور ان کے قیدی ہونگے۔ فرمایا ان کو بھی اپنے اول اور اپنے آخر کے ساتھ دھنسا دیا جائے گا پھر ان کو اپنی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور ﷺ نے آخری زمانے کی حالت کی خبر دی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں یہ بادشاہ مصر کا لشکر جس کا نام سفیانی ہوگا اس قسم کا ارادہ کرے گا اور فرمایا کہ دھنسا دیا جائے گا۔ یعنی وہ دھنسائے جائیں گے۔ پس ان میں سے بھی داخل ہونگے۔ اگرچہ قصد ان کا ان جیسا نہیں ہوگا۔ لیکن انہوں نے ان کی بھیڑ بڑھائی ہوگی اور فساد پر ان کی مدد کی ہوگی پھر سب لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ جو اسلام کی نیت رکھتا ہوگا جنت میں داخل ہوگا اور جو کفر کی نیت رکھتا ہوگا دوزخ میں داخل ہوگا۔

خانہ کعبہ کی خرابی حبشی کے ہاتھوں میں ہوگی

۶/۲۵۸۵ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرَبُ الْكُعْبَةُ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی ۴۶۰/۳ الحدیث رقم ۱۵۹۶۔ ومسلم فی ۲۲۲/۴ الحدیث رقم (۵۷-۲۹۰۹) واخرجه النسائي فی السنن ۲۱۶/۵ الحدیث رقم ۲۹۰۴ واحمد فی المسند ۳۱۰/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کو دو چھوٹی اور پتلی پنڈلیوں والا شخص حبشیوں میں سے خراب کرے گا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کی خرابی حبشیوں کے ہاتھوں ہوگی اور یہ مقام عبرت ہے کہ خانہ کعبہ باوجود اس قدر عظمت کے ایک حقیر آدمی کے ہاتھوں خراب ہوگا اور جب خانہ خدا خراب ہوگا تو قیامت قائم ہوگی اور دنیا خراب ہوگی کیونکہ اس عالم کی آبادی اور بقا خانہ مبارک کے وجود کے ساتھ ہے۔

خانہ کعبہ کو خراب کرنے والے شخص کا ذکر

۲۵۸۶/ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَاتَبَنِي بِهِ أَسْوَدُ الْفُحَجِ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا۔

(رواہ البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۶۰۱۳۔ الحدیث رقم ۱۵۹۵۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا کہ فرمایا کہ میں خانہ کعبہ کے خراب کرنے والے کو دیکھتا ہوں وہ ایک شخص ہوگا سیاہ رنگ والا پھڑا ہوگا جو خانہ کعبہ کا ایک ایک پتھر پتھر اکھاڑ دے گا۔ اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اَفْحَج کا لفظ نیم پرحاء کی تقدیم کے ساتھ اس کو کہتے ہیں جس کے بچے ملے ہوئے ہونگے اور ایڑیاں اور پیڈ لیاں دور دور ہوں گی۔

الفصل الثانی:

حرم میں ذخیرہ اندوزی کی ممانعت

۲۵۸۷/ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِيَّةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ

الْحَادِثُ فِيهِ۔ (رواہ ابو داود)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۵۲۲/۲ الحدیث رقم ۲۰۲۰۔

ترجمہ: حضرت یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا حرم میں غلہ کا بند کرنا کجروی ہے۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ غلہ گرانی میں خریدے اس نیت سے کہ جب بہت گراں ہوگا تو بیچوں گا یہ ہر شہر میں حرام ہے لیکن حرم میں احتکار کرنا بہت سخت حرام ہے جیسا کہ فرمایا کجروی ہے یعنی حق سے باطل کی طرف مائل ہونا ہے جو کلام اللہ میں مذکور ہے: وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ تَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ الْهِمِّ۔ ”اور جو شخص حرم میں ظلم و ستم کے ساتھ کجروی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔“

مَنْبِتْلَة: جانوروں اور آدمیوں کی خوارک بند کر کے رکھنا یعنی ذخیرہ کرنا نیت مذکورہ سے اس شہر میں کہ شہر والوں کو ضرر کرے۔

مکہ کی فضیلت

۲۵۸۸/ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَّةَ مَا أُطِيقُ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبُّ إِلَيَّ

وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ۔ (رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب اسناداً)

اخرجه الترمذی فی السنن ۶۷۹/۵ الحدیث رقم ۳۹۲۶۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے مکہ کے لئے ارشاد فرمایا کہ تو خوب شہر ہے اور میرے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے اگر میری قریش قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں نہ رہتا۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح غریب سے ہے۔

تشریح: اس حدیث میں مکہ مکرمہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور یہ جمہور کی دلیل ہے اس بات پر کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے اور امام مالک کے نزدیک مدینہ مکہ سے افضل ہے۔

زمین میں سب سے زیادہ محبوب مقام مکہ ہے

۱۰/۲۵۸۹ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ حَمْرَاءَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى الْحُزُورَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

اخرجه الترمذی فی السنن ۶۷۹/۵ الحدیث رقم ۳۹۲۵۔ وابن ماجہ فی ۱۰۳۷/۲ الحدیث رقم ۳۱۰۸۔ والدارمی فی

۳۱۱/۲ الحدیث رقم ۲۵۱۰۔ واحمد فی المسند ۳۰۵/۴۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عدی بن حمراء سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو حزورہ کے اوپر کھڑے ہوئے دیکھا۔ پس فرمایا اللہ کی قسم! (اے مکہ!) تحقیق تو خدا کی زمین میں سب سے بہتر ہے اور مجھے بہت محبوب ہے۔ مجھے میری قوم تجھ سے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ حزورہ مکہ میں ایک جگہ کا نام ہے کہ مکرمہ میں وہاں کھڑے ہو کر آپ ﷺ نے اہل مکہ کو خطاب کر کے فرمایا: اللہ کی قسم! اور اس حدیث میں دلالت ہے کہ مومن کے لیے مناسب ہے کہ مکہ سے نہ نکلے مگر جب کہ نکالا جائے اس سے حقیقتاً یا حکماً اور حکماً سے مراد ہے دینی و دنیوی ضرورت ہو اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ میں داخل ہونا سعادت ہے اور اس سے نکلنا شقاوت ہے۔ مکہ کی فضیلت کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ ملا علی قاریؒ نے اس حدیث کی شرح میں خوب تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے اور درمختار میں لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی مجاورت مکروہ نہیں ہے اس شخص کے لئے جس کو اپنے نفس پر قابو ہو کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوگا تو وہاں رہے ورنہ وہاں رہائش اختیار نہ کرے۔

حرمت مکہ کا بیان

الفصل الثالث:

۱۱/۲۵۹۰ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ إِنَّدَنِي أَبُي

الْأَمِيرُ أَحَدُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ أَذْنًا وَوَعَاهُ قَلْبِي وَابْصَرْتُهُ عَيْنًا حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمْدُ اللَّهِ وَأَنْتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْصِدُ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذُنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعْبَدُ عَاصِيًا وَلَا قَارًا بِدَمٍ وَلَا قَارًا بِخَوْبَةٍ (متفق عليه وفي البخارى الخبرُة الْحَبَاةُ)

اخرجه البخارى فى صحيحه ۴۱/۴ - الحديث رقم ۱۸۳۲ - ومسلم فى ۹۸۷/۲ الحديث رقم (۴۴۶ - ۱۳۵۴) -

والترمذى ۱۷۳/۳ الحديث رقم ۸۰۹ واحمد فى المسند ۳۸۵/۶ -

ترجمہ: حضرت ابوشریح عدوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمرو بن سعد سے اس وقت جبکہ وہ مکہ کی طرف لشکر بھیج رہے تھے یہ عرض کیا کہ اے میرے سردار! مجھے اجازت دیں میں آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کروں جس کو رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے اگلے روز ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے کانوں نے اس کو سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا اور میری آنکھوں نے اس کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثناء کی پھر فرمایا تحقیق مکہ کو اللہ نے بزرگی دی ہے اور اس کو لوگوں نے بزرگی نہیں دی۔ پس مکہ اس شخص کے واسطے حلال نہیں ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ اس میں خونریزی کرے یعنی اگر چہ قتل کے لائق ہو اور جو قتل کے لائق ہے اس کو ہر جگہ قتل کرنا حرام ہے خواہ حرم میں ہو خواہ غیر حرم میں اور حلال نہیں ہے کہ اس میں درخت کاٹے۔ اگر کوئی مکہ میں قتال کے لئے رسول اللہ ﷺ کے عمل سے رخصت تلاش کرے تو اس کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں دی۔ چنانچہ مجھے بھی صرف ایک ساعت کے لئے اس شہر میں قتال کی اجازت دی گئی تھی۔ آج کے دن اس شہر کی قدر و عظمت گزشتہ روز کی طرح ہی ہے اور چاہیے کہ حاضر غائب کو پہنچائے۔ پس ابوشریح سے کہا گیا کہ عمرو نے تجھ کو کیا جواب دیا؟ ابوشریح نے کہا عمرو نے کہا کہ میں اس حدیث کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں اے ابوشریح! تحقیق حرم گنہگار کو خون کے ساتھ بھاگنے والے کو اور تقصیر کے ساتھ بھاگنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تفسیر: اس حدیث پاک میں حرمت مکہ کا بیان ہے کہ عمرو بن سعید عبد الملک بن مروان کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا۔ پس وہ مکہ کی طرف عبد اللہ بن زبیر کے قتل کے کرنے کے واسطے لشکر بھیجتا تھا۔ اس کو ابوشریح صحابی نے بیان کیا جو کہ مذکور ہوا ہے اور گنہگار خلیفہ کی طرف نکلے۔ یعنی اس کے گمان کے مطابق عبد الملک خلیفہ برحق تھا۔ اس پر عبد اللہ بن زبیر نے خروج کیا اس حال میں کہ وہ خلیفہ باطل تھا اور حرم شریف کی طرف خون کر کے بھاگنے والے کو تقصیر کر کے بھاگنے والے کو بھی پناہ نہیں دیتا۔ یعنی اگر کوئی دین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے اور پھر حرم شریف کی طرف بھاگ کر آجائے۔ اس کا بدلہ اس سے ساقط نہیں ہوگا الحاصل یہ کہ عبد اللہ بن زبیر گنہگار ہے کہ وہ امام کی اطاعت سے نکل گیا ہے اگر حرم سے نکل آئے تو میں اس کو سزا دوں گا اور اگر حرم سے نہیں نکلے گا تو میں حرم میں اس کو مار دوں گا۔

تعظیم مکہ کا بیان

۱۲/۲۵۹۱ اَوَّعَن عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيمِهَا فَإِذَا ضَيَعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا۔ (رواه ابن ماجہ)

اخرجه ابن ماجہ فی السنن ۳۸/۲۔ الحدیث رقم ۳۱۱۰۔

ترجمہ: حضرت عیاش بن ربیعہ مخزومی سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ امت ہمیشہ بھلائی کے ساتھ قائم رہے گی جب تک اس حرمت کی (یعنی مکہ اور اس کے حرم کی) تعظیم کرے گی۔ جیسے تعظیم کا حق ہے اور جس وقت اس تعظیم کو ضائع کریں گے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث کے تحت کچھ حج کے مسائل لکھے جاتے ہیں۔ غنی کا حج فقیر کے حج سے افضل ہے۔ فرض حج والدین کی فرمانبرداری سے اولیٰ ہے۔ بخلاف نفل حج کے کہ اس سے والدین کی فرمانبرداری افضل ہے اور نفل حج سے اور صدقہ میں اختلاف کیا گیا ہے یعنی صدقہ افضل ہے یا حج نفل بزاز یہ میں حج کی افضلیت کو ترجیح ہے اس لیے کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن کی مشقت بھی ہوتی ہے اور وقوف جمعہ کو ستر حجوں پر زیادتی حاصل ہوتی ہے اور اس میں ہر شخص کی بلا واسطہ مغفرت کی جاتی ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ حج سے بڑے گناہ بھی جھڑتے ہیں یا نہیں۔ بعضوں نے تو کہا ہے کہ ہاں جھڑتے ہیں جیسے حربی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے سب گناہ جھڑتے ہیں اور بعضوں نے کہا ہے حقوق اللہ کے متعلق گناہ جھڑتے ہیں اور بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے جیسے دمی مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں نہ کہ حقوق العباد والے کے۔ قاضی عیاض نے کہا کہ اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر کہ بڑے گناہوں کو صرف توبہ ہی ختم کرتی ہے اور اس سے دین کے ساقط ہونے کا کوئی قائل نہیں ہے۔ اگرچہ دین حق تعالیٰ کے متعلق ہو جیسے دین نماز اور زکوٰۃ کے۔ مگر قرض کے ادا کرنے کا گناہ ہے اور نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا اور ان کی مانند ساقط ہو جاتا ہے اور جو کہ گناہ کے جھڑنے کا قائل ہیں۔ ان کی مراد یہی ہے اور خانہ کعبہ میں داخل ہونا مستحب ہے جب کہ اس کو اور دوسرے کو ایذا نہ ہو اور خانہ کعبہ کے غلاف کو خریدنا جائز نہیں ہے اور پردے کا بنی شیبہ ہے بلکہ تو امام سے لیوے یا اس کے نائب سے پیوے اور اس کو پہننا جائز ہے ان کا اگر چہ اجنبی ہو یا خاص ہو اور اگر کہیں سے۔ کوئی قاتل کر کے حرم میں آ بیٹھے۔ تو اس کو قتل نہ کرے جب تک وہاں سے باہر نہ نکلے۔ مگر جب حرم ہی میں قتل کرے۔ تو قاتل کو وہاں مارنا جائز ہے اور اگر خانہ کعبہ میں قتل کرے۔ تو اس کو قتل نہ کیا جائے اور اب زم زم سے استنجاء کرنا مکروہ ہے نہ کہ نہانا اور مکہ مکرمہ مدینہ سے افضل ہے مگر جس قطعہ زمین پر رسول کریم ﷺ کے اعضاء لگے ہوئے ہوں یعنی اس پر وہ فتن کے گئے ہیں وہ مطلقاً افضل ہے حتیٰ کہ کعبہ سے اور عرش اور کرسی سے بھی اور حضور ﷺ کی قبر کی زیارت مستحب ہے بلکہ بعضوں نے کہا ہے کہ واجب ہے اس کے لیے کہ فراغت رکھتا ہو اور اگر حج فرض ہو تو زیارت سے پہلے حج کرے اور اگر حج نفل ہو تو اس کو اختیار ہے چاہے حج سے پہلے کرے چاہے زیارت جب تک کہ مدینہ منورہ کے پاس نہ گزرے اگر مدینہ منورہ کے پاس گزرے تو سب سے پہلے حضور ﷺ کی زیارت کی نیت کرے اور حضور ﷺ کی مسجد کی زیارت کی نیت بھی کرے اس لیے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں نماز پڑھنا ہزار نمازوں سے بہتر ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے علاوہ میں یعنی

اس میں لاکھ نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اور عبادتوں کا بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ یہ مسائل درمختار میں سے لکھے گئے ہیں پھر میں نے چاہا حج کی ترکیب بیان کروں اور اس کے ضروری مسائل لکھوں ایک جگہ پر۔ اگرچہ ترکیب اور اکثر حدیثوں کے مسائل متفرق فائدوں میں لکھے جا چکے ہیں مگر ایک جگہ اکٹھے لکھے میں عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے پس اس عرفہ میں فارسی کا رسالہ حضرت مرشد برحق مولانا محمد الحق صاحب زادہ اللہ شرفا کہ اس میں حج کے ضروری مسائل معتبر کتابوں بہت اچھی ترکیب لکھے ہیں اس عاجز کے ہاتھ لگے۔ اس کو ہندی زبان میں بیان کر کے ایک فعل میں لکھتا ہوں۔

سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی نیت درست کرے اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور ادائے قرض کا ارادہ کرے کچھ نام و نمود کا خیال نہ ہو۔ ورنہ سب محنت برباد ہو جائے گی۔ پھر اگر یہ ہندوستان کا رہنے والا ہے تو جب جہاد میں بیٹھ کر مکہ معظمہ کی طرف جانے لگے تو یللم کہ محاذ سے احرام باندھے اور احرام کا باندھنا چار طرح پر ہے اور فقط حج کے احرام باندھنے کو نضر کہتے ہیں دوسرے یہ کہ عمرے کا احرام باندھے اور پھر مکہ معظمہ میں پہنچ کر عمرے کے افعال ادا کرے حج کے مہینوں میں احرام سے نکل آئے۔ پھر احرام باندھ کر حج ادا کرے اس کو تمتع کو کہتے ہیں۔

تیسرے یہ کہ عمرے کا احرام باندھے حج کے مہینوں کے علاوہ میں اور عمرے کے افعال کر کے احرام سے نکل آئے چوتھے یہ کہ میقات پر یا اس کے محاذی کے قریب پہنچ کر حج اور عمرے کا احرام باندھے۔ اس صورت میں مکہ معظمہ پہنچ کر عمرے کے افعال بجالائے اور احرام سے نہ نکلے۔ جب کہ حج کے ایام آئیں افعال حج کر کے احرام سے نکلے۔ اس کو قرآن کہتے ہیں اور یہ امام اعظمؒ کے نزدیک افراتمتع سے بہتر ہے تو جب احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے مستحب ہے ہاتھ پاؤں اور بغلوں کے بال اور زیر ناف کے بال دور کرے اور لہیں لیوے اور اگر سر منڈانے کی عادت ہو تو سر بھی منڈوائے ورنہ کٹھن کرے اگر بیوی یا لونڈی ساتھ ہو تو صحبت کرے پھر وضو کرے یا نہائے اور نہانا افضل ہے اور لنگی باندھے اور نئی اور سفید چادر اوڑھے اور یہ افضل ہے اور اگر دونوں دھنکی ہوئی ہوں یا ایک کپڑا پہننے سے ستر ڈھنک جائے تو بھی جائز ہے اور خوشبو لگائے اور دو رکعتیں پڑھے پھر اگر قرآن کا ارادہ رکھتا ہو تو یوں کہے: اللھم انی ارید الحج والعمرة فیسره لی و تقبله منی۔ اور اگر تمتع کا ارادہ کرے تو یوں کہے: اللھم انی ارید العمرة فیسرہ ہالی و تقبلها منی۔ اگر افراد کا ارادہ کرے تو یوں کہے: اللھم انی ارید الحج فیسره لی و تقبله منی۔ اگر نیت دل سے ہو تو بھی کافی ہے پھر لبیک کہے۔ پس جب لبیک کہے اور حج یا عمرے کی نیت کرے تو محرم ہوا۔

لبیک اللھم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لہ الملک لا شریک لک ان الفاظ سے کم اور زیادہ کہنا جائز ہے اس کے بعد اکثر اوقات بلند آواز سے لبیک کہتا رہے خصوصاً نماز کے بعد خواہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو اور سحر کے وقت اور قافلہ سے ملنے کے وقت اور بلندی پر چڑھنے کے وقت اور اترتے وقت۔ بلندی سے جنگل میں غریب کہ اس سفر کو نماز کا حکم لاگو ہوتا ہے جیسے کہ نماز میں انتقالات کے وقت تکبیر کہے۔ ایسے ہی اس سفر میں بلندی پر چڑھتے وقت اور بلندی سے اترتے وقت لبیک کو در زبان سے کہے اور جب کہ محرم ہو تو لازم ہے کہ کتنی چیزوں سے پرہیز کرے۔ گرتے کی مانند پہنا ہوا کپڑا پہنے اور انگرکھا اور جاما اور فرغل اور جبہ اور قبا اور پانجامہ اور بارانی اور موزے اور داستانہ اور ٹوپی اور ان کے مانند اور پہننے سے مراد ان کا پہننا جس طرح اس کے پہننے کی عادت ہے اگر عادت کے خلاف پہنے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے مثلاً کرتہ یا پانجامہ بدن پر نہ

پہننے اور اگر ان کو اوڑھ لے یا بطور لنگ کے ان کو باندھے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے اور محرم رنگین کپڑا نہ پہننے کہ وہ خوشبودار رنگ سے رنگا ہوا ہو۔ زعفران اور کیسنی کی طرح لیکن دھلا ہوا ہو اور خوشبو نہ آتی ہو تو درست ہے اور اپنی بیوی سے جماع نہ کرے اور جو چیزیں باعث جماع ہیں وہ بھی نہ کرے مثلاً بوسہ لینے اور شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے سے پرہیز کرے اور بے حیائی کی باتیں نہ کرے اور جماع کا ذکر عورتوں کے روبرو (یعنی سامنے نہ کرے) اور فسق و فجور نہ کرے اور کسی سے جنگ و جدال نہ کرے اور وحشی صحرائی شکار نہ کرے۔ حتیٰ کہ اشارہ بھی نہ کرے اور نہ اس کو بتائے اور نہ ہی شکار کرنے والے کی مدد کرے اور دریائی پھلی وغیرہ کا شکار درست ہے اور خوشبو کا استعمال نہ کرے اور ناخن اور بال اور سر اور ڈاڑھی بلکہ تمام بدن کے بال دور نہ کرے اور نہ منڈائے اور نہ ہی کترائے اور نہ ہی اکھیرے اور سر کے بال داڑھی کو خطمی وغیرہ سے نہ دھوئے اور محرم کو نہانا جائز ہے اور حمام میں داخل ہونا اور گھر کے اور کجاوے کے سایہ میں بیٹھنا اور باندھنا ہمیالی وغیرہ کا کرہ میں اور اپنے دشمن سے لڑنا اور اپنا منہ اور سر کسی چیز سے نہ ڈھانکے اور جون نہ مارے اور کچھ جانوروں کا مارنا حالت احرام میں جائز ہے ان کے مارنے سے دم اور دیت واجب نہیں ہوتی۔ وہ یہ ہیں: کوا، چیل، سانپ، بچھو، چوہا، چچڑی، کچھوا، بھیڑیا، گیدڑ، پروانہ، مکھی، چوئی، گرگٹ، بھڑ، پسو، پٹہ، چھتر، حملہ کرنے والا درندہ اور موزی جانور۔

حج کے فرائض چار ہیں:

① احرام۔ ② وقوف عرفہ کے دن اور اس کا وقت زوال کے بعد عید النضحیٰ کی فجر تک ہے اور ③ تیسرا فرض طواف ال زیارۃ ہے جو کہ عید النضحیٰ کے دن کرنا بہتر ہے اور ایام نحر سے تاخیر کرنے میں دم لازم آتا ہے اور ④ چوتھا فرض ان میں ترتیب قائم کرنا ہے یعنی سب سے پہلے احرام باندھے اور اس کے بعد وقوف عرفہ کرے اور اس کے بعد طواف ال زیارۃ کرے اگر ایک فرض بھی ان میں سے فوت ہو جائے گا۔ تو حج نہیں ہوگا۔

حج کے واجبات!

۱- وقوف مزدلفہ۔ ۲- صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ ۳- اور مناروں پر کنکریاں مارنا۔ ۴- طواف الصدر یعنی طواف الافاضۃ کرنا آفاقی کے لیے یعنی جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو اور سر منڈانا یا بال کترانا اور میقات سے احرام باندھنا اور وقوف عرفات آفتاب کے غروب ہونے تک اور حجر اسود سے طواف شروع کرنا اور بعضوں نے اس کو سنت کہا ہے اور دائیں طرف سے طواف شروع کرنا اور پیدل چل کر طواف کرنا۔ اگر کچھ عذر نہ ہو اور باطہارت طواف کرنا اور طواف میں ستر کا ڈھانکنا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی صفا سے شروع کرنا۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی پیداہ پا کرنی چاہیے اگر عذر نہ ہو اور قارن اور متمتع کا بکری کو ذبح کرنا اور ہر چکر کے بعد دو رکعتیں پڑھنا اور رمی اور حلق اور ذبح کے درمیان ترتیب قائم کرنا اس طرح کہ اولاری کرے پھر ذبح کرے پھر طواف زیارت کرے اور طواف ال زیارۃ ایام نحر میں کرنا اور اس طرح طواف کرنا کہ حطیم طواف کے اندر آ جائے اور طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا اور مکان معین اور زمان معین میں حلق کرنا یعنی حرم میں اور ایام نحر میں اور ممنوعات کا ترک کرنا یعنی جماع وغیرہ کا وقوف عرفہ کے بعد اور جو چیزیں کہ ان کے ترک کرنے سے دم لازم آئے وہ بھی واجب ہیں اور ان کے علاوہ سنتیں ہیں اور آداب اور مستحبات ہیں اور دم جانور ذبح کرنے سے عبارت ہے خواہ اونٹ ہو یا گائے یا بکری۔ بکری

یا بکری کی طرح ہر جگہ کفایت کرتی ہے مگر جب کہ طواف الزیارة حالت جنابت میں کیا ہو یا حیض میں وقوف عرفہ کے بعد سر منڈانے سے جماع کرے پہلے تو ان میں کافی نہیں ہے مگر بدلہ یعنی اونٹ یا گائے اور اپنی ہدی قرآن اور تمتع اور نفل ہدی اور قربانی کے جانور میں سے کھانا مستحب ہے اور ان کے علاوہ میں سے کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر ہدی لانے سے قارن اور تمتع ہدی سے عاجز ہو تو اس پر دس روزے رکھنا لازم ہیں۔

تین روزے نحر کے پہلے دن رکھے اور افضل یہ ہے کہ اخیر روزہ عرفہ کے دن واقع ہو اور سات روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھے جہاں چاہے اور اگر سر منڈانے سے پہلے ہدی پر قادر ہو تو اس پر ہدی ہی لازم ہے اس وقت بدل روزہ نہیں ہوگا اور جس وقت مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کرے تو نہائے اور یہ مستحب ہے اور مکہ معظمہ میں بلندی کی جانب سے داخل ہو اور دن کے وقت مکہ میں جانائے کے جانے سے بہتر ہے اور جب شہر میں داخل ہو تو سامان کے رکھنے کے بعد جہاں رکھنا منظور ہو مسجد الحرام میں جائے اور مستحب اور بہتر یہ ہے کہ مسجد الحرام میں داخل ہونے کے وقت لبیک کہے اور بنی شیبہ کے دروازہ سے داخل ہو اس کو باب السلام بھی کہتے ہیں مسجد میں جائے اس حال میں کہ متواضع اور خشوع کرنے والا اور اپنے کو ذلیل و حقیر جانے کعبہ کی عظمت و بزرگی کا لحاظ کرنے والا اور جب بیت اللہ کو دیکھے تو تکبیر و تہلیل کہے اور جب مسجد الحرام میں ہو تو طواف عمرہ کرے اور طواف قدوم کہ جو کہ قارن اور مفرد وغیرہ کی کے لیے مستحب ہے۔

اس کا طریقہ یہ ہے کہ سے پہلے حجر اسود کی طرف منہ کر کے تکبیر و تہلیل کہے اور حجر اسود کو بوسہ دے اور بوسہ دیتے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے جیسے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھاتے ہیں اور بوسہ دیتے وقت کسی کو ایذا نہ ہو پس اگر ازدحام کی وجہ سے بوسہ نہ دے سکے تو ہاتھ لگا کر چومے اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو لکڑی کو لگا کر چومے اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دونوں ہتھیلیوں سے اشارہ کر کے چومے اور تکبیر و تہلیل و تمجید کہے اور درود شریف پڑھے اور طواف حجر اسود کی جانب سے شروع کرے اور سات بار خانہ کعبہ کے گرد چکر لگائے اور اضطہار کی صورت میں طواف کرے یعنی دائیں بغل کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈالے اور سات بار مع حطیم کے طواف کرے اور پہلے تین چکروں میں رمل بھی کرے یعنی کندھے ہلا کر جلد چلے اور سینہ نکال کر جیسے بانکے چلتے ہیں اور جب حجر اسود کے پاس سے گزرے تو اس طرح کرے جس طرح پہلے کیا تھا یعنی بوسہ وغیرہ دے اور تکبیر وغیرہ پڑھے اور طواف کو حجر اسود پر بوسہ دینے پر کرے اور رکن یمانی کو جو کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے بلکہ ہاتھ ہی لگائے اس کے بعد دو رکعت نماز ادا کرے جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے اور یہ نماز مقام ابراہیم کے نزدیک پڑھے اور اگر ازدحام کی وجہ سے مقام ابراہیم کے قریب جگہ نہ مل سکے تو مسجد میں جہاں چاہے وہاں پڑھے اور نماز کے بعد دعائے گئے جو چاہے اور زمزم کے کنویں پر جا کر پیٹ پھر کر پانی پیئے اور پھر مقام ملتزم پر آئے اور حجر اسود کو بوسہ دے اور تکبیر و تہلیل پڑھے اور پھر درود پڑھے اور بہتر ہے کہ طواف زیارت کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے اور اگر طواف قدوم کے بعد بھی کرے تو جائز ہے پھر مسجد الحرام سے باہر نکل کر صفا کی طرف آئے اور صفا پر اس قدر بلند ہو کہ خانہ کعبہ کی طرف نظر پڑھے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور تکبیر و تہلیل اور حمد اور درود پڑھے اور جو چاہیے دعا کرے پھر اپنی چال سے مروہ کی طرف اترے اور جب وادی کے بطن میں پہنچے تو میل اخضر سے دوسرے میل تک پہنچے اور پھر اپنی چال سے مروہ پر چڑھ جائے اور قبلے کے سامنے کھڑا ہو کر جیسے تکبیر وغیرہ صفا پر تھی ایسے ہی مروہ پر بھی کہے اس طرح سات مرتبہ آمد و رفت کرے۔ صفا سے شروع کرے اور مروہ پر ختم

کرے اور سعی کی شرط یہ ہے کہ طواف کے بعد ہو اور اگر طواف سے پہلے سعی کی تو سعی کا دوبارہ کرنا لازم ہے اور اس سعی کے لیے طہارت لازم ہے اور وقوف عرفہ اور مزدلفہ اور رمی جمار کے لیے طہارت شرط نہیں ہے لیکن اولیٰ ہے اور طواف کے لیے طہارت لازم ضروری ہے اور طواف اور سعی کرتے وقت بات کرنا مکروہ ہے اور جب سعی سے فارغ ہو جائے تو پھر مسجد الحرام میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے اور یہ بہتر ہے واجب نہیں ہے اور اس کے بعد مکہ معظمہ میں ٹھہرا رہے اور نفل طواف جس قدر چاہے کرے اور ذی الحجہ کی ساتویں تاریخ کو مکہ میں بیان ہوتا ہے اور امام خطبہ پڑھتا ہے اس میں حج کے احکام منیٰ کی طرف نکلنے کے بارے میں بیان کئے جاتے ہیں اور وقوف عرفہ کے بارے میں اس کو سننا بہت مفید ہے اور اسی طرح میدان عرفات میں عرفہ کے دن اور گیارہویں تاریخ کو منیٰ میں احکام حج بیان ہوتے ہیں اس کو بھی سنے اور پھر اگر احرام سے نکل آیا ہو تو آٹھویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر طلوع آفتاب کے بعد منیٰ میں جائے اور اگر ظہر کی نماز پڑھ کر آئے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے اور رات منیٰ میں گزارے اور اگر آٹھویں تاریخ کو منیٰ میں نہ آ سکے تو عرفات میں جس جگہ چاہے اترے سوائے بطن عرفہ کے اور جبل عرفات کے نزدیک ٹھہرنا افضل ہے اور اس دن کے بعد غسل کرے جو کہ سنت ہے اور عرفات میں وقوف کرے اس کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ وہ فرض ہے اور امام کا خطبہ سنے اور امام کے ساتھ احرام کی شرط کے ساتھ اور شاہ اور درود شریف عاجزی کے ساتھ اور سورج غروب ہونے کے وقت امام کے ہمراہ مزدلفہ میں آئے اور راستے کے درمیان میں استغفار اور لبیک اور حمد اور دو رکعت بہت زیادہ پڑھتا رہے اور مزدلفہ میں آ کر امام کے ساتھ مغرب اور عشاء کی جمع کرے اور رات کو وہیں قیام کرے کیونکہ رات کو رہنا واجب ہے اور مستحب ہے کہ تمام رات نماز اور تلاوت پاک اور ذکر اور دعائیں مشغول رہے اور پھر فجر کی نماز تاریکی میں ادا کرے اور پھر مزدلفہ میں وقوف کرے جہاں چاہے۔ سوائے وادی محشر کے بلکہ جب اس وادی سے گزرے وہاں سے جلدی گزرے اور فجر کے بعد وقوف کرے روشنی ہونے تک اور روشنی کے بعد آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے منیٰ کی طرف روانہ ہو اور وہاں پہنچ کر حجرۃ العقبہ پر کنکریاں مارے۔

اور جب پہلا سنگریزہ مارے تو لبیک موقوف کرے پھر جانور ذبح کرے اور پھر سر منڈائے یا بال کتروائے اس کے بعد مکہ میں آ کر طواف الزیارة کرے اور اگر پہلے سعی کی ہے پس اس وقت سعی کی حاجت نہیں ہے اور اگر پہلے سعی نہیں کی ہے تو طواف الزیارة کے بعد کرے کہ جس طرح مذکور ہوا ہے اور سر منڈانے کے بعد مستحب ہے کہ ناخن کتروائے اور لبیں لے اور سر منڈانے کے بعد جو چیز حرام ہوئی تھی محرم پر حلال ہو جائے گی مگر جماع اور جو چیزیں جماع کی ہیں وہ طواف الزیارة کے بعد حلال ہوگی اور طواف الزیارة کے بعد منیٰ میں آ کر رات کو قیام کرے پھر ایام منیٰ میں دن کو مکہ میں جا کر طواف اور خانہ کعبہ کی زیارت کرتا رہے اور رات کو منیٰ رہے اور نحر کے دوسرے دن بھی گیارہویں کو تینوں جعرات پر یعنی مناروں پر رمی کرے۔ یعنی پہلا جمرہ جو کہ مسجد خیف کے متصل ہے اس کو جمرہ اولیٰ کہتے ہیں اس پر سات کنکریاں مارے۔ اس کے بعد اس جمرہ پر کہ جو اس کے متصل ہے اس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں اور اس کے بعد جمرہ عقبہ پر سات سات سنگریزے مارے اور ہر سنگریزہ مارنے کے وقت تکبیر کہتا رہے اور اسی طرح تیسرے دن یعنی بارہویں کو تینوں جعرات پر سات سات سنگریزے مارے اور چوتھے دن اگر تیرہویں تاریخ کو وہاں رہے تو اس پر رمی تینوں جعرات کی لازم ہے اور اگر کوچ گیا تو رمی اس سے ساقط ہو جائے گی اور رمی کا وقت گیارہویں بارہویں تاریخ کو زوال کے بعد ہے لیکن تیرہویں اگر زوال سے پہلے اور فجر کے طلوع ہونے کے بعد رمی کرے تو جائز ہے اگرچہ مسنون

زوال کے بعد ہے گیارہویں اور بارہویں تاریخ کو زوال کے بعد رمی کرنی جائز ہے اور مستحب ہے کہ سنگریزے چھوٹے ہوں اور بہت بڑے نہ ہوں اور پاک ہوں اور جمرات کے قریب سے سنگریزے نہ اٹھائے بلکہ مزدلفہ میں یا راستے میں اٹھائے اور چٹکی میں پکڑ کر پھینکے اور رمی کرتے وقت جمرات سے فاصلہ کم از کم پانچ ہاتھ سے کم نہ ہو اور اگر زیادہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے اور جو رمی ہے اس کے بعد بھی رمی ہے یعنی جمرہ وسطیٰ کی رمی اور جمرہ وسطیٰ پیادہ پا کرے اور جوری کے اس کے بعد رمی نہ ہو یعنی جمرہ العقہ کی رمی پیادہ اور سوار اس میں یکساں ہے اور نشیبی نالہ میں کھڑے ہو کر بلندی کی طرف رمی کرے اور اس وقت منیٰ دائیں ہاتھ کی طرف ہو اور خانہ کعبہ بائیں ہاتھ کی طرف ہو اور اگر کنکریاں مناروں سے دور پڑیں تو درست نہیں ہے۔ مناروں پر یا نزدیک پڑھنی چاہیے اور دائیں ہاتھ سے پھینکیں اور ہر کنکری علیحدہ علیحدہ پھینکے اور اگر ایک ہی دفعہ سب کے سب ڈال دیں تو جائز نہیں ہے اور اگر وہ ایک مشت پھینکا تو ایک ہی کنکر شمار ہوگا اور ان افعال کے بعد وادی محصر میں اگر دو ساعت ٹھہرے پھر طواف الصدر کے لیے جائے اور اگر وہاں سے آنا منظور ہو یعنی تہہ ہو اور اگر ملے میں ٹھہرنا منظور ہو تو چلتے وقت یہ طواف کرنا چاہیے اور یہ طواف واجب ہے اور اس طواف میں رمل اور سعی نہیں ہے اور اس کے بعد زمزم کے کنویں کے قریب آ کر پیٹ بھر کر پانی پیئے کئی مرتبہ اور ہر مرتبہ کعبہ کے طرف دیکھے اور آب زمزم منہ اور بدن اور سر پر بھی ملے اور پھر بیت اللہ کی طرف آئے۔ اگر آسانی کے ساتھ اندر داخل ہو سکتا ہے تو اندر داخل ہو جائے اور اگر اندر داخل نہ ہو سکے تو خانہ کعبہ کے آستانہ کو بوسہ دے اور سینہ اور چہرہ ملتزم سے لگائے اور کعبہ کے پردہ کو پکڑ کر گریہ و زاری بہت زیادہ کرے اور اس وقت بھی تکبیر، تہلیل اور اذکار و اشغال اور حمد و ثناء میں مشغول ہو اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے طلب کرے اور اپنا منہ کعبہ کی طرف کر کے الٹے پاؤں مسجد سے باہر نکلے اور جس طرف چاہے روانہ ہو اور عمرہ سنت ہے واجب نہیں ہے اور اس کا وقت تمام سال ہے مگر ایام حج میں مکروہ ہے غیر قارن کے لیے اور حج کے ایام یہ ہیں عرفہ کا دن اور ایام تشریق اور عمرہ کا رکن طواف ہے اور اس میں واجب دو چیزیں ہیں ایک صفا اور مروہ کے درمیان سعی دوسرا سرمنڈانا یا بال کتر وانا۔

عمرے کی شرائط اور آداب اور سنن:

وہی ہیں جو حج کے ہیں اور جنایات کے احکام یہ ہیں:

اگر محرم خوشبو کا استعمال ایک کامل عضو پر کرے یا اپنے سر پر مہندی کا خضاب کرے یا زیت کا استعمال کرے یا تمام دن سیاہ کپڑا پہنے اس طرح کہ اس کے پہننے کی عادت ہے یا پورا دن اپنے سر کو ڈھانکے یا چوتھائی سر کو منڈائے یا اس سے زیادہ یا ایک بال یا زیر ناف کے بال کو یا گردن کے بال کو کاٹے۔ دونوں ہاتھوں کے یا دونوں پاؤں کے یا ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے ناخن تراشے یا طواف قدوم یا طواف صدر جنابت کی حالت میں کرے یا فرض طواف بے وضو کرے یا امام سے پہلے عرفات سے واپس لوٹے۔ یا سعی کو ترک کر دے یا وقوف مزدلفہ ترک کر دے یا ایک روز رمی ترک کر دے یا اول دن کی رمی ترک کر دے یا حرم سے باہر سر منڈائے یا حالت احرام میں بیوی کا بوسہ لے۔ یا اس کو شہوت کے ساتھ چھوئے یا سر منڈانے میں تاخیر کرے یا طواف زیارت کو ایام نحر سے مؤخر کرے یا فضل حج کو دوسرے فعل حج پر مقدم کرے مثلاً ذبح سے پہلے سر منڈائے تو ان تمام مذکورہ صورتوں میں دم واجب ہوتا ہے۔ اگر تلبید کرے یعنی مہندی وغیرہ سے سر کے بال جمائے یا قارن ذبح سے پہلے سر منڈائے تو

اس پر دو دم واجب ہیں اور اگر محرم خوشبو استعمال کرے ایک عضو سے کم یا اپنا سر ڈھانکے یا سلا ہوا کپڑا اپنے ایک دن سے کم پہنے یا چوتھائی سے کم سرمندائے یا پانچ سے کم ناخن تراشے یا متفرق مجلسوں میں پانچ ناخن تراشے یا طواف قدم یا طواف الصدر بے وضو کرے یا تین مناروں سے ایک مینارے کی رمی ترک کر دے نحر کے دن کے بعد یا اپنے کے علاوہ کا سرموندے تو ان تمام صورتوں میں صدقہ واجب ہوتا ہے اور صدقہ آدھا صاع گیہوں ہے اور اگر محرم خوشبو کو استعمال کرے یا سرمندائے یا اپنے عذر کے ساتھ یا بیماری کی وجہ سے سلا ہوا کپڑا پہنے پس ان صورتوں میں محرم پر لازم ہے کہ تینوں چیزوں میں سے ایک چیز کرے بکری ذبح کرے یا چھ سکینوں کو تین صاع گیہوں دے ہر مسکین کو آدھا صاع دے یا متصل تین روزے رکھے یا متفرق اور اگر محرم شکار کرے یا شکار کا بتائے یا اس کی طرف اشارہ کرے تو اس پر بدلہ لازم آتا ہے یعنی دو عادلوں کے تشخیص کے ساتھ بحسب قیمت شکار کی قیمت دے۔ اس جگہ جہاں شکار کیا ہو یا اس کی قریبی جگہ کی قیمت کا حساب ہوگا۔ اگر شکار کی جگہ پر اس کی قیمت کا حساب تو اگر چاہے اس کی قیمت کے ساتھ ہدی خریدے اور اس کو محرم میں ذبح کرے اور اگر چاہے اس کا غلہ خریدے اور ہر فقیر کو آدھا صاع دے۔ اگر گیہوں ہو اور اگر کھجور یا جو ہوں تو ایک ایک صاع یعنی چار چار سیر دے اور اگر چاہے روزہ رکھے۔ اناج کے بدلے ایک ایک روزہ رکھے اور ان تمام جنایات میں قصداً کرنے والا اور بھول کر کرنے والا اور عالم اور جاہل اور رغبت کرنے والا اور جبراً کرنے والا دونوں برابر ہیں اور اگر محرم خالص خوشبو بہت زیادہ لگائے تو دم لازم آتا ہے اور خوشبو سونگھے اور خوشبودار پھول اور خوشبودار میوہ تو محرم پر کچھ واجب نہیں ہے مگر یہ افعال مندرجہ بالا مکروہ ہیں اور جو مارنے پر ایک مٹھی کی طرح کھانا صدقہ کرنا لازم آتا ہے اور یہ اس صورت میں ہے کہ اپنے بدن سے یا سر سے کپڑے سے پکڑ کر مارے اور اگر زمین سے پکڑ کر مارے تو کچھ واجب نہیں ہوتا اور اگر کپڑوں کو دھوپ میں ڈالے اس نیت سے جوئیں مرجائیں بہت زیادہ مرجائیں تو اس پر آدھا صاع گیہوں کا صدقہ کرنا لازم آتا ہے اور اگر آفتاب میں خشک ہونے کے لیے ڈالے اور جوؤں کے مارنے کی نیت نہ ہو اور وہ مرجائیں۔ تو اس پر کچھ لازم نہیں ہوتا الحمد للہ حج کے مسائل پورے ہو چکے ہیں اور اب دعائیں لکھی جاتی ہیں۔

احرام باندھتے وقت کی دُعا:

میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں بے شک تعریف اور نعمت اور سلطنت تیری ہی ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔

مذکورہ دُعا اگر اضافہ کے ساتھ بھی پڑھی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں:

میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں نیک بختی چاہتا ہوں اس حال میں کہ بھلائی تیرے دست قدرت میں ہے اور خستیں تیری ہی جانب سے ہیں اور عمل بھی تیری جناب سے ہے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں مخلوق کے معبود میں حاضر ہوں۔

احرام باندھنے کے بعد کی دُعا:

اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوالی ہوں اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے غصے اور (تیری سلگائی ہوئی) جہنم سے۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے اپنے بال و کھال کو اپنے خون کو عورتوں اور خوشبو سے اور ہر اس چیز سے روک لیا جو تو نے محرم پر

حرام کی میں (اس رک جانے سے) تجھ کریم کی رضا جوئی کا خواستگار ہوا اے اللہ میری مدد فرما عمرہ کی ادائیگی پر / فریضہ حج کی ادائیگی پر اور اس (حج / عمرہ) کو میری جانب سے قبول فرما اور مجھے رکھ دے ان لوگوں کی جماعت میں کہ جن سے تو راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہیں اور تو قبول فرما یقیناً میں نے تیری خاطر اپنے بال ڈھال کو اپنے گوشت پوست اور اپنے خون و ہڈیوں کو روک رکھا۔

حد حرم میں داخل ہوتے وقت:

اے اللہ یہ بلاشبہ تیرا اور تیرے رسول ﷺ کا حرم ہے اے اللہ تو میرے دماغ اور میرے خون و میری ہڈی کو جہنم پر حرم کر دے اور مجھے اس دن کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔

مکہ مکرمہ کو دیکھتے وقت:

اے اللہ میرے لیے سرزمین مکہ کو صبا سکونت بنا دے اور مجھے اس سرزمین میں رزق حلال نصیب فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اے اللہ میں تجھ سے اس بھلائی کا سوالی ہوں جو بھلائی تیرے حبیب ﷺ نے تجھ سے مانگی اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جس سے آپ کی نبی حضرت محمد ﷺ نے پناہ مانگی۔

بیت اللہ کی زیارت کے وقت:

اے اللہ اپنے گھر کے شرف، عظمت، عزت، نیکیوں اور اس کی ہیبت کو بڑھا دے۔

مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت:

میں اللہ عظیم المرتب ذات کے باعزت ہونے اور اس کی ازلی بادشاہت کی شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کے نام سے داخل ہو رہا ہوں اور رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو۔ رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا اے اللہ میرے تمام گناہوں سے، گزر فرمایا اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ تو سراپا سلام ہے اور تیری جانب سے سلامتی ہے اور سلامتی تیرے حضور لوٹتی ہے اے اللہ تو سلامتی کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھ اور ہمیں سلامتی کے گھر (جنت) میں داخل فرما۔ اے ہمارے پروردگار! تو بابرکت اور تو عالی المرتب ذات ہے اے باعزت و باوقار ذات۔

حجر اسود کے قریب پڑھنے کی دعا:

اللہ سب سے بڑا ہے۔

طواف شروع کرتے وقت:

اے اللہ میں تجھ پر ایمان لا کر اور تیری کتاب (قرآن مجید) کی تصدیق کر کے اور تیرے وعدے کو پورا کر کے اور تیرے نبی حضرت محمد ﷺ کی سنت کی پیروی کر کے طواف کر رہا ہوں۔

باب ملتزم کے قریب پڑھنے کی دعا:

اے اللہ یہ گھر اور یہ حرم تیرا ہی ہے اور یہ امن و سکون تجھ ہی سے ہے اور یہ مقام تیری ہی جانب ہے جہنم سے پناہ کا ذریعہ

ہے۔

رکن عراقی کے قریب پڑھنے کی دعا:

اے اللہ میں شرک اور (تیری ذات صفات میں) شک سے اور کفر سے نفاق سے اور بدبختی سے اور برے اخلاق سے لوٹنے کی برائی اہل و مالی اور اولاد کے منظر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

میزاب رحمت کے نزدیک پڑھنے کی دعا:

اے اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا کر اس روز (یعنی روز قیامت) جس روز عرش کے بغیر کوئی سایہ میسر نہ ہوگا اے اللہ مجھے اپنے حبیب ﷺ کے ہاتھوں اس جام کا مشروب پلا کہ اس کے بعد کبھی میری پیاس نہ رہے۔

رکن شامی کے نزدیک پڑھنے کی دعا:

اے اللہ اس صبح کو مقبول صبح بنادے اور اس کوشش کو بلند فرمالے اور گناہ کو بخش دے اور ایسی تجارت جس میں ہرگز خسارہ نہ ہو اور ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے غالب اے بخشنے والے اے رب اب تو بخشش فرما اور تو رحم فرما اور تو درگزر فرما جس کو تو جانتا ہے۔ بے شک تو بہت معزز و مکرم ہے۔

رکن یمانی کے نزدیک پڑھنے کی دعا:

اے اللہ میں کفر اور عذاب قبر سے اور زندگی اور موت کی آزمائش سے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنے کی دعا:

اے ہمارے رب ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ مجھے قناعت عطا کر اس روزی پر جو تو نے مجھے عطا کی اور برکت دے مجھے اس میں ہر حالت میں جو مجھ سے مخفی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے لیے حکومت ہے اور اسی کے لیے خوشی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

دعائے مذکورہ تمام طواف اور ملتزم کے نزدیک بھی پڑھی جاسکتی ہے: اے مضبوط گھر کے رب میری گردن کو جہنم سے چھڑا دے اور مجھے ہر برائی سے مامون رکھ اور مجھے قناعت دے اپنی عطا کردہ روزی میں قناعت دے اور مجھے اس میں مجھے برکت عطا فرما۔

باب ملتزم کی چوکھٹ کے نزدیک خانہ کعبہ کے پردہ کے پکڑنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے: اے پانے والے اے بزرگ و برتر تو ہمیشہ مجھے وہ نعمت عطا کر جس نعمت کے ساتھ تو نے مجھ پر انعام کیا۔ الہی! میں تیرے در پہ کھڑا ہوں اور تیرے چوکھٹ

سے لپٹا ہوا تیری رحمت کا امیدوار ہوں میں تیری گرفت سے ڈرتا ہوں اے اللہ میرے بالوں اور میرے جسم و جان کو آتش پر حرما کر دے۔ اے اللہ جیسے کہ تو نے میرے چہرے کو اپنے غیر کے سامنے مجدہ نہ ہونے سے محفوظ رکھا، میرے چہرے کو اپنے غیر کے علاوہ سوال کرنے سے بھی محفوظ رکھ۔

اے اللہ! اے بیت اللہ کے مالک رب ہماری اور ہمارے باپوں اور ہماری ماؤں کی گردنوں کو آگ سے چھڑا دے۔ اے مہربان و کریم ذات اے بخشندہ والے اے غالب اے جبار ہمارے رب ہم سے ہمارے نیک اعمال قبول فرما اور بے شک تو بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے رجوع فرما ہم پر یہ شک تو بہت زیادہ رجوع کرنے والا اور مہربان ہے۔

مقام ابراہیم کے نزدیک یہ آیت کریمہ پڑھی جائے اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔

طواف کے بعد دو رکعتوں کے اختتام کے بعد یہ دعا پڑھی جائے: اے اللہ بلاشبہ تو میری پوشیدہ و ظاہر باتوں سے خبردار ہے اور تو میری حاجت کو جانتا ہے بس میرے سوال پر عنایت فرما حالانکہ تو خبردار ہے جو کچھ میرے جی میں ہے پس میرے گناہوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے ایمان کا سوالی ہوں اس ایمان کا جو میرے دل کو پختہ کرے اور پختہ یقین کا سوالی ہوں حتیٰ کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے وہی ملتا ہے جو میرے نوشیہ نقدیر میں ہے اس حال میں کہ میں تیری تقسیم پر راضی ہوں۔ اے نہایت مہربان ذات۔

آب زمزم پیتے وقت:

اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا اور کشادہ رزق کا اور ہر بیماری سے صحت یابی کا سوال کرتا ہوں اے اللہ اس (پانی) کو ہر بیماری سے شفا بنادے ہر بیماری سے اور مجھے اخلاص اور یقین عطا فرما اور مجھے دنیا و آخرت میں عافیت فرما۔

صفا پر چڑھتے وقت:

بلاشبہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے حکومت اور اسی کے تعریف مجھے وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے وہ زندہ و جاوید ہے اسے موت نہیں آتی اسی کے دست قدرت میں بھلائی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس نے اپنے وعدے کے پورا کیا اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے لشکر کو غلبہ بخشا اور اس نے (دشمن) کے لشکروں کو شکست خوردہ کیا وہ اکیلا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں خالص اسی کے دین کے لیے اور اگر چہ یہ بات کافروں پر ناگوار گزرے۔

صفا اور مروہ کے درمیان پڑھی جانے والی دعا:

اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما اور درگزر فرما اس چیز سے جو تیرے علم میں ہے بے شک تو نہایت غالب و عزت والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔

عرفہ کے دن میدانِ عرفات میں پڑھی جانے والی دعا:

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ فرشتوں پر ہر وقت قدرت رکھنے والا ہے اے اللہ میرے دل میں، میری سماعت میں اور میری بصارت میں نور کو رکھ دے۔ اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو مجھ پر سہل کر دے اور میں دل کے وسوسوں سے اور طرح طرح کے معاملات سے اور قبر کے فتنے سے تجھ سے پناہ کا طالب ہوں۔ اے اللہ میں دن و رات میں داخل ہونے والے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس شر سے جس سے ہوائیں سرکش ہو جاتیں ہیں اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں کوئی اس کے سوا معبود نہیں وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اے اللہ میری ہدایت کے ساتھ راہنمائی فرما اور مجھے تقویٰ کے ساتھ پاک کر دے اور دنیا و آخرت میں مجھ سے درگزر فرما۔

عرفہ کے دن آپ ﷺ اکثر یہ دعا پڑھا کرتے:

اے اللہ تیرے لیے ایسی ہی تعریفیں ہیں جو تو نے بیان کیں اور تو بہتر ہے اس سے جو ہم کہتے ہیں اے اللہ تیرے لیے ہی ہے میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اور تیرے حضور ہی میرا ٹھکانا ہے اے اللہ میں تجھ سے ایسی بہتری کا سوالی ہوں جس سے ہوا (بادِ صبا) چلتی ہے اور تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے شر سے جس سے ہوا (آندھی) چلتی ہے۔ اے اللہ میری رہنمائی فرما ہدایت کے ساتھ اور مجھے آراستہ کر دے پرہیزگاری کے ساتھ اور مجھ سے دنیا و آخرت میں درگزر فرما اے اللہ میں تجھ سے پاکیزہ و بابرکت روزی کا سوالی ہوں۔

عرفہ کی رات ہزار مرتبہ پڑھے جانے والے دس کلمات:

- پاک ہے وہ ذات کہ اس کا عرش آسمان میں ہے۔
پاک ہے وہ ذات کہ زمین میں اس کے چلنے کی جگہ ہے۔
پاک ہے وہ ذات سمندر میں اس کا راستہ ہے۔
پاک ہے وہ ذات کہ آگ اس کے زیر تسلط ہے۔
پاک ہے وہ ذات کہ جنت میں اس کی رحمت ہے۔
پاک ہے وہ ذات کہ قبر میں اس کا فیصلہ ہے
پاک ہے وہ ذات کہ ہوا میں اس کی روح ہے۔
پاک ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کو بلند کیا۔
پاک ہے وہ ذات کے جس نے زمین کو پست کیا (بچھایا)
پاک ہے وہ ذات نہیں ہے ٹھکانا اور نہ ہی جائے نجات (یعنی نجات کی جگہ) مگر اسی (اللہ) کی طرف۔

جب مدینہ طیبہ نظر آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے:

اے اللہ یہ تیرے رسول ﷺ کا حرم ہے پس اس کو میرے لیے جہنم سے بچاؤ اور عذاب سے امن کا ذریعہ بنا دے اور برے حساب سے امن کا ذریعہ بنا دے۔

مدینہ منورہ کی حد میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے:

اے اللہ یہ تیرے رسول ﷺ کا حرم ہے پس اس کو میرے لیے آگ سے بچاؤ اور عذاب سے امن اور برے حساب سے پاک کر دے۔

روضہ اقدس کے نزدیک یہ کلمات پڑھے جائیں:

سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے رسول ﷺ سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی سلامتی ہو آپ پر اے اولاد آدم (علیہ السلام) کے سردار سلامتی ہو آپ پر اے رسولوں کے سردار اور خاتم النبیین اے تمام جہانوں کے پروردگار کے رسول سلامتی ہو آپ پر اور آپ کے اہل اور آپ کے پاکیزہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر اور آپ کی پاکیزہ ازواج رضی اللہ عنہن پر مومنین کی ماؤں پر اللہ آپ کو بدلہ دے ہماری طرف سے بہتر جزا وہ اللہ نے دی ہے حضور علیہ السلام کو اپنی امت میں سے۔

اور رحمت کاملہ نازل فرما محمد ﷺ پر جب تک تیرا ذکر کرنے والے ذکر کرتے رہیں اور جب تک تجھ سے غفلت کرنے والے غافل رہیں۔

بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى

یہ باب مدینہ کے حرم (مدینہ کے گرد) کے بارے میں ہے اللہ اسکو محفوظ رکھے

فائدہ: بہت سی حدیثیں مدینہ اور اس کے گرد کے بارے میں آئی ہیں اور علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے۔

ہمارے نزدیک اس کے حرم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی تعظیم و تکریم کرے نہ یہ کہ وہ مکہ کی طرح حرم ہے۔ پس ہمارے نزدیک مدینہ اور اس کے ارد گرد کے درخت کاٹنا اور اس میں شکار کرنا حرام نہیں ہے اور تینوں اماموں کے نزدیک یہ چیزیں حرام ہیں وہاں بھی بغیر ضمان کے بدلہ نہیں آتا۔

الفصل الاول:

احترام مدینہ کا بیان

۲۵۹۲/۱ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَمِيرٍ إِلَى تَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا أَوْ أَوَى

مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْطَى بِهَا أَذْنَاؤُهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ (متفق عليه) (وَفِي رَوَايَةٍ لَهُمَا مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ).

اخرجه البخارى فى صحيحه ۸۱/۴ - الحديث رقم ۱۸۷۰ - ومسلم فى صحيحه ۹۹۴/۲ الحديث رقم (۴۶۷ - ۱۳۷۰) وابوداؤد فى السنن ۵۲۹/۲ الحديث رقم ۲۰۳۴ - والترمذى فى ۳۸۱/۴ الحديث رقم ۲۱۲۷ - والدارمى فى ۳۱۷/۲ الحديث رقم ۲۵۲۹ - واحمد فى المسند ۸۱/۱.

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوائے ان باتوں کے یا اس چیز کے کہ جو صحیفہ میں ہے کچھ نہیں لکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صحیفہ میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مدینہ غیر اور ثور کے درمیان حرم ہے پس جو شخص مدینہ میں بدعت پیدا کرے یا وہ چیز کہ جو کتاب و سنت کے مخالف ہو یا بدعتی کو کھانا دے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اس کے فرض قبول نہیں کیے جاتے یعنی اس کے فرائض و نوافل کامل قبول نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کا عہد ایک ہے اس کو شش کو ان کا ادنیٰ حاصل کر سکتا ہے۔ پس جو شخص مسلمانوں کے عہد کو توڑے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سب آدمیوں کی لعنت ہے اس سے فرائض و نوافل قبول نہیں کیے جاتے اور جو شخص ایک قوم سے سوال کرے اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر تو اس پر خدا کی اور فرشتوں کی اور سب آدمیوں کی لعنت ہے۔ اس کے فرض و نوافل قبول نہیں کئے جائیں گے۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے بخاری اور مسلم ہی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کی طرف دعویٰ کرے یعنی یہ کہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور حقیقت میں اس کا بیٹا نہیں ہے یا اپنے کو غیر مالک کی طرف نسبت کرے پس اس پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے اس سے فرائض اور نوافل قبول نہیں کئے جائیں گے۔

تفسیر: حدیث مذکورہ احترام مدینہ کے بارے میں ہے۔ اس چیز کے کہ اس صحیفہ میں آیا ہے کہ لوگوں نے آپس میں یہ کہا ہے کہ حضور ﷺ نے بالخصوص حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحیفہ کے ساتھ یعنی کتاب کے اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ سے سوائے قرآن کے نہیں لکھا اور اس چیز کے کہ جو صحیفہ میں ہے اور صحیفہ سے مراد ورق کاغذ ہے کہ اس میں احکام دیات ہیں اور بعض احکام لکھتے تھے اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کے غلاف میں رہتا تھا اور مدینہ حرم ہے اور بزرگ قدر ہے اور اس میں ایسی چیز کا جو حقارت کا باعث ہو منع ہے اور شافعیہ کے نزدیک مدینہ حرام ہے یعنی بمعنی حرم کے ہے یعنی مدینہ حرم مکہ کی طرح ہے۔ جو چیزیں کہ حرم مکہ میں کرنا حرام ہیں مدینہ میں بھی حرام ہیں۔ اس حرم کی حد غیر اور ثور کی ہے یہ مدینہ مطہرہ کے دونوں طرف دو پہاڑ ہیں اور لفظ حرف کے معنی فرض اور نفل کے ہیں یا تو یہ شفاعت اور لفظ عدل کے معنی ہیں۔ نفل یا فرض اور بعضوں نے کہا ہے کہ شفاعت ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ توبہ ہے اور مسلمانوں کا عہد ایک ہے یعنی ایک یہ بھی حکم لکھا ہوا تھا اس صحیفہ میں کہ مسلمانوں کا عہد و امان ایک شی کی مانند ہے ان کا ادنیٰ آدمی اس کے ساتھ سعی حاصل کر سکتا ہے یعنی اختیار

عہد و امان دینے کا رکھتا ہے اس کے امان دینے سے دوسروں کو سعی کرنی اس کے عہد پورا کرنے میں لازم ہوتی ہے الحاصل یہ کہ کوئی مسلمانوں میں سے اگر چہ حقیر ہو غلام و عورت کے امان دینے کی طرح کسی کافر کو اور اس سے عہد کرے اور اپنی پناہ میں لائے تو جائز نہیں ہے کسی کو اس کا عہد توڑنا جائز نہیں ہے اور جو کوئی مسلمان کے عہد کو توڑے یعنی اس کافر کو قتل کرے یا اس کا مال لے تو اس پر بھی لعنت ہے۔

اور جو شخص کہ موالاۃ یعنی دوستی کرے اس کو جان لینا چاہیے کہ ولا دو قسم پر ہے ایک تو ولا موالاۃ وہ یہ ہے کہ عرب کی عادت تھی کہ آپس میں دوستی رکھتے تھے اور عہد باندھتے تھے اور قسم کھاتے تھے کہ نیک و بد آپس میں شریک و مدد و معاون رہیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے دوست رہیں گے اور دشمن سے دشمنی رکھیں گے اور ایام جاہلیت میں حق و باطل کے امر پر بھی مدد کریں گے اور اسلام میں امر حق ہی پر مدد کرتے تھے اور اکثر اہل عرب میں آ کر صحابہ سے عقد موالاۃ باندھتے تھے اور دوسری قسم ولاء عتاقہ ہے کہ جس نے آزاد کیا ہے اس غلام پر حق و لا ثابت ہوا۔ کہ اس غلام کے غصہ ہونے کے وقت وہ آزاد کرنے والا اس کا وارث ہوتا ہے اور ذوی الفروض سے جو کچھ چچتا ہے وہ لیتا ہے پس احتمال ہے کہ موالاۃ سے مراد یہاں قسم اول ہو۔ پس معنی یہ ہو سکے کہ ایک شخص کے موالی یعنی دوست مذکور ہوں تو انہیں چاہیے کہ دوسری قوم کو موالی ٹھہرائے اپنے موالی کے اذن کے بغیر اس میں ایک طرح کی عہد شکنی اور مسلمانوں کو ایذا دینا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ولاء عتاقہ مراد ہو۔ پس اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ جو شخص اپنی آزادی کی نسبت اپنے آزاد کرنے والے کے علاوہ کی طرف کرے تو مستحق لعنت ہوتا ہے جیسا کہ لعنت کا مستحق ہوتا باپ کے علاوہ کی طرف نسبت کرنے والا لعنت کا مستحق ہوتا یہاں صورت میں قید اذن موالیہ کے بغیر غالب کے ہے کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آزاد غلام اپنے مالک سے اذن چاہتا ہے اس بات کی وہ اذن نہیں دیتا پس اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر مالک اذن دے دے۔ تو نسبت کرنا غیر کی طرف درست ہو اس لیے کہ جو ٹھہ لازم آئے گا اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے سوائے قرآن اور مذکورہ صحیفہ کے کچھ نہیں لکھا۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول سے شیعوں کا افتراء صریح باطل ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ نے خلافت کے ساتھ وصیت کی تھی اور اہل بیت کو راز کی ایسی باتیں بتائیں جو اوروں کو نہیں بتائیں۔ تو یہ سب دعوے باطل ہیں اور اس میں دلیل ہے اس پر کہ علم کا لکھنا مستحب ہے۔

حرمتِ مدینہ کا بیان

۲/۲۵۹۳ وَعَنْ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَّى الْمَدِينَةِ أَنْ يُقَطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَبَدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَنْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَا وَانْهَاجَ وَجْهًا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم في صحيحه ۹۹۲/۲ الحديث رقم (۴۵۹-۱۳۶۳) واحمد في المسند ۱/۱۸۱۔

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق میں مدینہ کے سنگستان

کے دونوں کناروں کے درمیان حرام قرار دیتا ہو کہ اس کے خاردار درخت کاٹے جائیں یا اس کا شکار مارا جائے اور فرمایا مدینہ اس میں رہنے والے مومنوں کے لئے دنیا و آخرت میں بہتر ہے اگر اس کی بھلائی کو جان لیں تو اس کو نہ چھوڑیں اور نہ وہاں سے جائیں اور دنیا کی فراغت کے لیے اس کو کوئی بے رغبتی نہ چھوڑے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اس شخص کو بدلے گا کہ وہ اس سے بہتر ہوگا یعنی مدینہ کو اس کے نہ ہونے سے ضرر نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کے لیے مفید ہوگا یعنی کوئی اس کی سختی اور بھوک پر صبر نہیں کرے گا مگر میں اس کے واسطے شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ فرمایا کہ گواہ ہوگا یعنی اس کی اطاعت کا قیامت کے دن میں گواہ ہوگا۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا درخت نہ کاٹا جائے اس کو ہمارے علماء نے نبی تزیہی پر محمول کیا ہے اور بے رغبتی سے بھی کوئی ضرورت کسی وجہ سے چھوڑ دے گا وہ اس میں داخل نہیں ہے اور اخیر حدیث میں مدینہ کے رہنے والوں کے لیے خاتمہ بالخیر ہونے کی بشارت ہے اور اس پر تنبیہ ہے مومن کو یہ لائق ہے کہ حرمین شریفین میں رہ کر صابر شاکر رہے اور ظاہر کی نعمتوں کی طرف نظر نہ کرے اس لیے کہ اصل نعمت آخرت کی نعمت ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرة۔

مدینہ منورہ کی سکونت کی فضیلت

۳/۲۵۹۳ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى الْإِوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۱۰۰۴/۲ الحديث رقم (۴۸۴ - ۱۳۷۸)۔ ومالك فی الموطأ ۸۸۵/۲ الحديث رقم ۳ من كتاب المدينة۔ واحمد فی المسند ۲۸۸/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص مدینہ کی سختی اور بھوک پر اور محنت پر میری امت میں سے صبر کرے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ کے اندر رہے گا اور اس کی بھوک پیاس اور سختی کو برداشت کرے گا اللہ کے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔

نیک پھل دیکھ آپ ﷺ مدینہ کے لیے دُعا فرماتے

۴/۲۵۹۵ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الْقَمَرَةِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَخَذَهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَأَنَا أَدْعُوكَ لِمَدِينَةٍ بِمَعْلَى مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمَلَفَهُ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ يَدْعُو أَصْفَرَ وَلَيْدٌ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الْقَمَرُ۔ (رواہ مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۱۰۰۰/۲ الحديث رقم (۴۷۳ - ۱۳۷۳) والترمذی فی السنن ۴۷۲/۵ الحديث رقم ۳۴۵۴۔

وابن ماجہ فی ۱۱۰۵/۲ الحدیث رقم ۳۳۲۹۔ والدارمی فی ۱۴۵/۲ الحدیث رقم ۲۰۷۲۔ ومالك فی الموطأ ۸۸۵/۲

الحدیث رقم ۲ من کتاب المدینة، واحمد فی المسند ۳۳۰/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ لوگ جس وقت نیا پھل دیکھتے تو حضور ﷺ کے پاس لے کر آتے تھے تو جس وقت حضور ﷺ لیتے تو کہتے اے الہی ہمارے واسطے ہمارے میوے ہمارے شہر ہمارے صاع اور ہمارے مد میں برکت دے۔ اے الہی تحقیق ابراہیم تیرا بندہ ہے اور تیرا گہرا دوست ہے اور تیرا نبی ہے اور تحقیق میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں اور ابراہیم نے تجھ سے مکہ کے لئے دعا کی تھی جو کہ اس آیت میں مذکور ہے: ﴿فَاجْعَلْ أَفْهَةً مِنَ النَّاسِ﴾ اور میں تجھ سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے واسطے کی تھی اور مثل اس کے اس کی دعا کے ساتھ یعنی اس کی دعا کے دوگنا ہونے کے ساتھ پھر ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اپنے اہل بیت میں سے سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور اس کو پھل دیتے۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ برکت کے معنی زیادہ ہونے کے اور بیشکی کے ہیں پس میوے کی برکت تو ظاہر ہے اور شہر کی برکت یہ ہے کہ شہر میں وسعت ہو اور لوگ بہت زیادہ ہوں تو حضور ﷺ کی دعا قبول ہوئی، مسجد بھی بڑھائی گئی اور شہر بھی بڑھا اور مسلمانوں سے خوب آباد ہوا اور صاع اور مد پیمانوں کے نام ہیں ان کی برکت سے مراد یہ ہے کہ رزق میں فراخی ہو اور حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں اور حبیب کا مرتبہ خلیل سے بڑا ہے لیکن حضور ﷺ نے اپنی اس صفت کو بیان نہیں فرمایا اور اپنے آپ کو صرف بندہ اور نبی کہا۔ تو واضح و اجزی و اکساری کی خاطر ایسا کیا اور حضور ﷺ چھوٹے بچے کو نیا پھل اس لیے دیتے تھے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔

حرمتِ مدینہ کا بیان

۵/۲۵۹۲ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَا زِمْنَهَا أَنْ لَا يَهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا تُخْبَطُ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِحَالٍ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحيحه ۱۰۰۱/۲ الحدیث رقم (۴۷۵ - ۱۳۷۴) واحمد فی المسند۔

ترجمہ: حضرت ابو سعیدؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابراہیم نے مکہ کو بزرگی دی۔ یعنی ظاہری بزرگی۔ پس اس کو حرام گھر جانا یعنی شمار کیا اور تحقیق میں نے مدینہ منورہ کو اس کی دونوں طرفوں کے درمیان بزرگی دی۔ اس کے ساتھ کہ اس میں خونریزی نہ کی جائے اور نہ اس میں لڑائی کے لئے ہتھیار اٹھایا جائے اس کی دونوں طرفوں کے درمیان اور نہ اس میں درخت کو جھاڑا جائے یعنی درخت کے پتے مگر جانوروں کے کھانے کے واسطے اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ علامہ تورپشتی نے کہا کہ حرمتِ المدینہ جو فرمایا اس سے مراد تعظیم ہے نہ کہ حرم کے دوسرے احکام اس سے متعلق ہیں اور اس کی دلیل حضور ﷺ کا قول ہے کہ اس کے درخت کے پتے جانوروں

کے لئے جھاڑنا جائز ہے، حرم مکہ کے جو درخت ہیں ان کے پتے جھاڑنے کی حالت میں درست نہیں ہیں اور مدینہ میں شکار کرنا بعض صحابہ کرامؓ نے حرام جانا ہے اور جمہور صحابہ کرامؓ نے مدینہ منورہ میں پرندوں کا شکار کرنے سے منع نہیں کیا اور ہمیں اس کے بارے میں نبی کریم ﷺ سے کوئی حدیث معلوم نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر اس کو خوب تفصیل سے لکھا ہے جو چاہے ان کی شرح میں دیکھ لے۔

مدینہ منورہ کے درخت کاٹنے کی ممانعت

۶/۲۵۹۷ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَنْحِطُهُ فَنَسَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَيْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ۔ (رواه مسلم)

اخرجه مسلم فی صحیحہ ۹۹۳/۲ الحدیث رقم (۴۶۱-۱۳۶۴) واحمد فی المسند ۱/۱۶۸۔

ترجمہ: حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ اپنے محل کی طرف سوار ہوئے جو کہ عقیق مقام پر واقع تھا پس ایک غلام کو پایا کہ اس کے درخت کاٹتا تھا یا پتے جھاڑتا تھا۔ پس سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے کپڑے چھین لے۔ پس جب سعد رضی اللہ عنہ مدینہ کی طرف آئے تو غلام کے مالک ان کے پاس آئے اور گفتگو کی یہ کہ جو چیز آپؐ نے اس غلام سے لی ہے (یعنی اس کے کپڑے) وہ اس کو واپس کر دیں یا اس کے مالکوں کو واپس کر دیں یعنی اس کے کپڑے پس سعدؓ نے کہا۔ خدا کی پناہ یہ کہ میں لوٹا دوں اس کی طرف اس چیز کو جو مجھے نبی کریم ﷺ نے دلوائی ہے سعدؓ نہ مانے۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں جو سعد رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا ہے اس سے مراد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ عقیق ایک جگہ کا نام ہے جو کہ مدینہ کے قریب ہے اور یا ان پر راوی کا شک ہے کہ ان کے مالکوں نے کہا: علی غلامہم کی بجائے علیہم کہا یعنی ہم کو واپس کر دو جو کچھ ہمارے غلام سے لیا ہے۔ جو شخص کسی کو مدینہ میں شکار کرتا ہو یا درخت کاٹے ہوئے دیکھے اس کے کپڑے چھین لے یہ حدیث منسوخ ہے یا اس کی تاویل کی گئی ہے کہ یہ امر زجر و تنبیہ کے طور پر تھا اور علامہ طبریؒ نے کہا ہے کہ امام مالک اور امام شافعیؒ کا مشہور مذہب ہے کہ مدینہ کے شکار کرنے پر اور اس کے درخت کاٹنے پر بدلہ لازم نہیں آتا بلکہ یہ بدلہ کے لازم آنے کے بغیر حرام ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ بدلہ حرم مکہ کی طرح واجب ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ حرام بھی نہیں ہے۔ اتنی یہ ہمارا مذہب ہے لیکن مکروہ ہے۔

مدینہ منورہ کے لیے برکت کی دُعا

۷/۲۵۹۸ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَعَكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ فَحَبَّتْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ اَللَّهُمَّ حَبِّبْنَا الْمَدِينَةَ كَحَبَّتْ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ

وَصَحَّحَهَا وَبَارَكَ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمَدَّهَا وَانْقَلُ حُمَاَهَا فَجَعَلَهَا بِالْجُحْفَةِ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۹۹/۴۔ الحدیث رقم ۱۸۸۹۔ و مسلم فی صحیحہ ۱۰۰۳/۲ الحدیث رقم (۴۸۰)۔

(۱۳۷۶) و مالک فی الموطأ ۸۹۰/۲ الحدیث رقم ۱۴ من کتاب الجامع۔ و احمد فی المسند ۵۶/۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ بخار میں مبتلا ہو گئے پھر میں نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور میں نے ان کو خبر دی۔ پس فرمایا اے الہی تو مدینہ منورہ کو ہمارا محبوب بنادے جس طرح تو نے مکہ کو ہمارا محبوب بنایا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنادے تو مدینہ کی آب و ہوا کو درست کر اور ہمارے واسطے اس کے صاع اور مد میں برکت ڈال دے اور اس کی تپ (یعنی بخار) کو نکال یعنی تپ کی شدت و کثرت کو نکال کر جھ میں منتقل فرما۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے حالت بخار میں پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے وہ اس وقت بلند آواز کے ساتھ مکہ کا اور اس کی موافق میوا کا ذکر اور مکانات کا اور پہاڑوں کی لطافت کا ذکر کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ حال نبی کریم سے عرض کیا۔ اس پر حضور ﷺ نے مذکورہ دعا مانگی اور جھ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ اور مدینے کے درمیان میں ہے اس زمانہ میں وہاں یہود رہتے تھے اور روایت میں آیا ہے کہ آپ ﷺ کے مدینہ منورہ میں ہجرت سے قبل وہاں بیماری بہت زیادہ تھی پس حضور ﷺ نے حکم فرمایا کہ یہ وہائیں اور بیماریاں کفار کی زمین میں جائیں اور اس حدیث میں کفار کے خلاف امراض اور ہلاکت کی بددعا کرنے اور ان کے شہروں کے خراب ہونے کی بددعا کرنے کی دلیل ہے۔

مدینہ کی وباء کا ذکر

۸/۲۵۹۹ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ

لَابِرَةٌ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى نَزَلَتْ مَهْبِغَةً فَتَأَوَّلَتْهَا أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْبِغَةٍ وَهِيَ

الْجُحْفَةُ۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۴۲۶/۱۲ الحدیث رقم ۷۰۳۹۔ و الترمذی فی السنن ۴۶۹/۴ الحدیث رقم ۲۲۹۰۔ و ابن

ماجہ فی ۱۲۹۳/۲ الحدیث رقم ۳۹۲۴۔ و الدارمی فی ۱۷۴/۲ الحدیث رقم ۲۱۶۱۔ و احمد فی المسند ۱۰۷/۲۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے نبی کریم ﷺ کے خواب دیکھنے کے بارے میں مدینہ کی بابت کہ میں نے ایک کالی عورت پر آگندہ بالوں والی دیکھی مدینہ منورہ سے نکلی۔ یہاں تک کہ وہ مہبغہ میں اتری۔ جو کہ ایک جگہ کا نام ہے پس میں نے اس خواب کی تعبیر یہ ٹھہرائی کہ مدینہ کی وباء مہبغہ کی طرف گئی جو کہ جھ کا نام ہے اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی وباء کالی پر آگندہ بالوں والی عورت کی صورت میں مدینہ

منورہ سے نکل کر مہبغہ مقام پر اتری۔ جو کہ ایک جگہ کا نام ہے یہ آپ ﷺ نے خواب دیکھا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس خواب کی تعبیر یہ ٹھہرائی کہ یہ مدینہ منورہ کی وباء ہے۔

حضور ﷺ کی اہل مدینہ کے بارے میں پیشینگوئی

۹/۲۶۰۰ وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَسُونُ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَيَفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَسُونُ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَيَفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَسُونُ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۹۰۱/۴۔ الحديث رقم ۱۸۷۵۔ ومسلم فی صحیحہ ۱۰۰۹/۲ الحديث رقم (۴۹۷)۔
۱۳۸۸) ومالك فی الموطأ ۸۸۷/۲ الحديث رقم ۷ من كتاب الجامع۔ واحمد فی المسند ۲۲۰/۵۔

ترجمہ: حضرت سفیان بن ابی زہیرؒ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا فرماتے تھے کہ جب یمن فتح کیا جائے گا پس ایک قوم ہوگی جو اپنے اہل والوں کے ساتھ اور اپنے تابعداروں کے ساتھ کوچ کرے گی اور مدینہ ان کے واسطے بہتر ہوگا اگر مدینہ کا بہتر ہونا جان لیں تو وہ اس کو نہ چھوڑیں اور شام فتح کیا جائے گا پھر ایک قوم آہستہ چلے گی۔ وہ اپنے اہل والوں کے ساتھ اپنے تابعداروں کے ساتھ کوچ کرے گی اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جان لیں تو مدینہ کو نہ چھوڑیں اور عراق فتح کیا جائے گا پس ایک قوم آئے گی اور وہ آہستہ رہوگی۔ پس وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور اپنے تابعداروں کے ساتھ کوچ کرے گی اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانیں تو مدینہ کو نہ چھوڑیں۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے یعنی یہ شہر اسلام میں فتح پائیں گے اور لوگ معیشت اور دنیا کے فائدے اور فانی لذتوں کی خاطر اپنے اہل و عیال اور تابعداروں کے ساتھ نکل کر وہاں جا کر رہیں گے اور اگر وہ حقیقت حال اور دین و دنیا کی بھلائی جان لیں تو وہاں سے نہ نکلیں۔

مدینہ منورہ کی دوسری بستیوں پر فضیلت

۱۰/۲۶۰۱ وَأَعْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۸۷/۴۔ الحديث رقم ۱۸۷۱۔ ومسلم فی صحیحہ ۱۰۰۶/۲ الحديث رقم (۴۸۸)۔
۱۳۸۲) والترمذی فی السنن ۶۷۷/۵ الحديث رقم ۳۹۲۰ ومالك فی الموطأ ۸۸۶/۲ الحديث رقم ۵ من كتاب الجامع واحمد فی المسند ۳۸۴/۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؒ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہجرت کرنے کا حکم کیا گیا ہے ایسی بستی کی طرف جو سب بستیوں پر غالب آتی ہے اس کو یثرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ منورہ ہے مدینہ برے آدمیوں کو دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کو دور کرتی ہے۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک میں مدینہ منورہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ مدینہ ایک ایسی بستی ہے جو سب بستیوں پر غالب آتی ہے جو شخص اس میں رہتا ہے غالب ہوتا ہے اور دوسرے شہروں کو فتح کرتا ہے اور یہ عظیم الشان شہر کی خاصیت ہے جو کوئی آتا ہے اکثر شہروں پر غالب آتا ہے پہلے عمالقہ کی قوم آئی اس میں غالب آئی اور اس نے دوسرے شہروں کو فتح کیا۔ اس کے بعد یہود آئے وہ عمالقہ پر غالب ہوئے پھر انصار پہنچے وہ یہود پر غالب ہوئے پھر سید المرسلین اور صحابہ رضی اللہ عنہم آئے اب جس طرح غلبہ حاصل ہوا وہ سب کے سامنے واضح ہے پورے عالم مشرق سے مغرب تک۔ اور اس شہر کا نام پہلے یثرب اور اثر ب تھا جب حضور ﷺ وہاں تشریف لائے تو اس کا نام مدینہ رکھا تمدن اور لوگوں کے اجتماع کی وجہ سے اور آپ نے منع فرمایا کہ اس کو یثرب نہ کہا کریں یا تو اس لیے کہ وہ جاہلیت کا نام تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ معنوی لحاظ سے یہ نام بالکل نامناسب تھا اس لیے کہ اس کے معنی ہلاک و فساد کے ہیں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یثرب ایک بت یا ایک ظالم شخص کا نام تھا اور بخاری نے اپنی تاریخ میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو کوئی ایک مرتبہ یثرب کہے اُسے چاہیے کہ دس مرتبہ مدینہ کہے۔ تاکہ اس کی تلافی و تدارک ہو سکے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ استغفار کرے اور برے آدمیوں سے مراد اہل کفر و شرک ہیں کہ وہاں سے غلبہ اسلام کے بعد نکالے گئے تھے۔

۱۱/۲۶۰۲ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةً۔

اخرجه مسلم فی صحيحه ۱۰۰۷/۲ الحديث رقم (۴۹۱ - ۱۳۸۵) - واحمد فی المسند ۱۰۸/۵۔

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب ﷺ کی زبان مبارک پر مدینہ منورہ کا نام طابہ ظاہر فرمایا تھا اور ایک روایت میں طیبہ آیا ہے بمعنی پاک و خوش یعنی شرک کی نجاستوں سے پاک ہے اور اس کی آب و ہوا سلیم طبیعتوں کے موافق ہے اور اس کے رہنے والے خوش ہیں۔

مدینہ میں رہنا آپ ﷺ کو محبوب تھا

۱۲/۲۶۰۳ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِنِي بَيْعَتِي فَأَبَى فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي حَبْنَهَا وَتَنْصَعُ طَبِيحَهَا۔ (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحيحه ۹۶/۴ - الحديث رقم ۱۸۸۳ - ومسلم فی صحيحه ۱۰۰۶/۲ الحديث رقم (۴۸۹)۔

۱۳۸۳)۔ والنسائی فی السنن ۱۵۱/۷ الحديث رقم ۴۱۸۵ ومالك فی الموطأ ۸۸۶/۲ الحديث رقم ۴ من كتاب

الحامم واحمد فی المسند ۳۰۶/۳۔

ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق ایک اعرابی نے نبی کریم ﷺ سے (آپ ﷺ کی خدمت میں رہنے کی) بیعت کی اور اس اعرابی کو مدینہ میں شدید بخار ہوا۔ اس نے مدینہ میں رہنا ناپسند کیا اور وہاں سے نکلنا چاہا۔

پس وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور اس نے کہا اے محمد ﷺ میری بیعت مجھے لوٹا دو۔ پس نبی کریم ﷺ نے انکار کیا پھر حضور ﷺ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ مجھ کو میری بیعت پر لوٹا دو۔ نبی کریم ﷺ نے انکار کیا پھر وہ حضور ﷺ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ کو میری بیعت پر لوٹا دو۔ حضور ﷺ نے انکار کیا۔ پھر وہ اعرابی مدینہ سے نبی کریم ﷺ کی اجازت کے بغیر نکل گیا۔ نبی کریم ﷺ ارشاد فرمایا یہ مدینہ بھی کی مانند ہے اپنی میل کو دور کرتا ہے اور اپنے اچھے شخص کو خالص کرتا ہے یعنی برے آدمی کو نکال دیتا ہے اور پاک کو پلید سے پاک اور خالص کر دیتا ہے۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ☉ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کو یہ بات بہت پسند تھی کہ لوگ مدینہ میں رہائش پذیر ہوں۔ اس لیے حضور ﷺ نے بیعت کے لوٹانے سے انکار کیا اس لیے کہ جس طرح اسلام کی بیعت کو ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح آپ ﷺ کے ساتھ رہنے کی بیعت کو بھی ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ کا برے آدمیوں کو نکالنا اور اچھوں کو خالص کرنا تو حضور ﷺ کے زمانے میں تھا یا آخری زمانے میں ہوگا جب دجال ملے گا تو مدینے کو ہلایا اور جھاڑا جائے گا۔ ہر کافر و منافق باہر نکلے گا اور دجال کی طرف جائے گا اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہر زمانہ میں ہوگا۔

۱۳/۲۶۰۴ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِينَةَ شَرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ۔ (رواہ مسلم)

اخرجہ مسلم فی صحیحہ ۱۰۰۵۱۲ الحدیث رقم (۴۸۷-۱۳۸۱)۔

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے شریروں کو دور کرے گا۔ جیسے کہ بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ اس کو امام مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ☉ اس حدیث پاک کا خلاصہ بالکل واضح ہے کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک مدینہ اپنے شریروں کو اپنے سے دور نہ کر دے گا۔

مدینہ منورہ میں دجال اور طاعون کا داخلہ ممنوع ہے

۱۳/۲۶۰۵ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَالُ۔ (متفق علیہ)

اخرجہ البخاری فی صحیحہ ۹۵۱۴ الحدیث رقم ۱۸۸۰۔ و مسلم فی ۱۰۰۵۱۲ الحدیث رقم (۴۸۵-۱۳۷۹) والترمذی فی السنن ۴۴۶۱/۴ الحدیث رقم ۲۲۴۲۔ و مالک فی الموطأ ۸۹۲/۲ الحدیث رقم ۱۶ من کتاب العام۔ و احمد فی المسند ۳۹۳/۳۔

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کے دروازوں یا راستوں پر فرشتے نگہبان مقرر ہیں اس میں طاعون کی بیماری اور دجال داخل نہ ہوں گے۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ☉ طاعون ایک وبا کے علاوہ ایک بیماری کا نام بھی ہے اور یہ بیماری حضور ﷺ کی دعا سے مدینہ منورہ میں نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے نبی ﷺ کا صریح معجزہ ہے۔ شیخ ولی اللہ فی المسوی اور حضرت شیخ نے طاعون کا ترجمہ وبا کیا ہے اور لکھا ہے وبا کا داخل نہ ہونا دجال کے نکلنے کے وقت ہوگا یا ہمیشہ سے ہوگا۔

۱۵/۲۶۰۶ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَّطَاهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ نَقَبٌ مِنْ أَنْفَاقِهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا فَيَنْزِلُ السَّحَابُ فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۹۵/۴ الحدیث رقم ۱۸۸۱ - ومسلم فی صحیحہ ۲۶۶۵/۴ الحدیث رقم (۱۲۳) - ۲۹۴۳ - واحمد فی المسند ۱۹۱/۳ -

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کو دجال پامال نہ کرے گا اور مکہ اور مدینہ کے راستوں میں سے کوئی راستہ ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس پر فرشتے صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی نگہبانی کرتے ہیں پس دجال مدینہ سے باہر زمین شور میں اترے گا۔ پس اپنے رہنے والوں کے ساتھ تین مرتبہ بٹے گا۔ اس زلزلے کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق مدینہ سے نکل کر دجال کے پاس چلا جائے گا۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا گیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کے سوا ہر شہر کو دجال پامال کرے گا اس کے راستوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے اس پر فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی نگہبانی کرتے ہیں اور دجال مدینہ سے باہر شور زمین پر اترے گا اور مدینہ اپنے رہنے والوں کے ساتھ تین مرتبہ ہلایا جائے گا۔

مدینہ والوں سے مکرو فریب کرنا ناممکن ہے

۱۶/۲۶۰۷ وَأَوْعَنْ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْفُلُحُ فِي الْمَاءِ - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۹۴/۴ الحدیث رقم ۱۸۷۷ - ومسلم فی صحیحہ ۱۰۰۸/۲ الحدیث رقم (۴۹۴ - ۱۳۸۷) - وابن ماجہ فی السنن ۱۰۳۹/۲ الحدیث رقم ۳۱۱۴ -

ترجمہ: حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ والوں سے کوئی مکر نہیں کرے گا مگر یہ کہ کھل جائے گا جیسا کہ نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: شارح حدیث نے بیان کیا ہے کہ ناپاک یزید کا یہی حال ہوا کہ جو چند دن کے بعد حرہ کے بعد دق اور سل کی بیماری سے ہلاک ہو گیا۔

آپ ﷺ کو مدینہ بہت زیادہ محبوب تھا

۱۷/۲۶۰۸ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدْرَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ ضَعَّ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى ذَاتِهِ حَرَّكَهَا مِنْ حَبِيهَا - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۹۸/۴ الحدیث رقم ۱۸۸۶ - والترمذی فی السنن ۴۶۵/۵ الحدیث رقم ۳۴۴۱ - واحمد فی المسند ۱۵۹/۳ -

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ کہ تحقیق نبی کریم ﷺ جس وقت کسی سفر سے آئے تو مدینہ کے دیواروں کی طرف دیکھتے اپنے اونٹ کو دوڑاتے اور اگر داہ پر ہوتے یعنی گھوڑے پر یا خچر پر یا ان کے مانند پر تو مدینہ کی محبت کی وجہ سے اس کو چلاتے۔ اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ مدینہ منورہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔

أحد پہاڑ سے آپ ﷺ کا اظہار محبت

۱۸/۲۶۰۹ وَأَعْنَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أَحَدٌ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّا إِبْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَيْتَهَا - (متفق عليه)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۰۴/۱۳ الحدیث رقم ۷۳۳۳۔ و مسلم فی صحیحہ ۹۹۳/۲ الحدیث رقم (۴۶۴)۔
۱۳۶۵) وابن ماجہ فی السنن ۱۰۴۰/۲ الحدیث رقم ۳۱۱۵۔ و مالک فی الموطأ ۸۸۹/۲ الحدیث رقم ۱۰ من کتاب الحامم۔ و احمد فی المسند ۱۴۹/۳۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے لیے ایک پہاڑ ظاہر ہوا پس فرمایا یہ پہاڑ ہمیں دوست رکھتا ہے اور ہم اس کو پسند کرتے ہیں اے الہی ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام کیا۔ یعنی اس کا حرام ہونا حرام کیا اور تحقیق میں اس جگہ کو حرام کرتا ہوں جو مدینہ کے سکستان کے دونوں طرف ہے۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا تحقیق یہ ظاہر پر محمول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم اور فہم محبت اور عداوت جمادات میں بھی رکھا ہے جیسے کہ انکے حال کے لائق ہے خصوصاً انکی محبت اور انبیاء اور اولیاء کے ساتھ خصوصاً سید الانبیاء اور سلطان الاولیاء سے کہ محبوب عالم اور عالم کے پروردگار کے محبوب ہیں اور جس کو نور خدا پسند کرتا ہے اسکو سب دوست رکھتے ہیں اسلئے کہ ہر چیز اس کی مخلوق اور تابعدار ہے۔ چنانچہ گھوڑے تھے کار و نا حضور کی مفارقت سے ہے یہ اس دعویٰ کی صریح دلیل ہے اور میں حرام کرتا ہوں یعنی بزرگ کرتا ہوں حرام سے یہ مراد نہیں ہے کہ مکہ کی طرح حرام ہے یعنی اسکے درخت کاٹنے درست نہیں ہیں۔

۱۹/۲۶۱۰ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ - (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۴۴/۳ الحدیث رقم ۱۴۸۲۔ و مسلم فی ۱۰۱۱/۲ الحدیث رقم (۵۰۴)۔ (۱۳۹۳)۔
ترجمہ: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: خلاصہ حدیث اس کا پہلے بیان ہو چکا ہے۔

الفصل الثانی:

حرمت مدینہ کا بیان

۲۰/۲۶۱۱ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَبَهُ نِيبَةً فَجَاءَ مَوْلَاهُ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ مَنْ أَخَذَ أَحَدًا بِصَيْدٍ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً
أَطْعَمْنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ۔ (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۵۳۳/۲ الحدیث رقم ۲۰۳۷۔ واحمد فی المسند ۱۷۰/۱۔

ترجمہ: حضرت سلیمان بن ابی عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک شخص کو پکڑا کہ جو حرم میں شکار کرتا تھا یعنی مدینہ کے گرد۔ وہ حرم کہ جس کو نبی کریم ﷺ نے حرم ٹھہرایا ہے پس سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے پکڑے چھین لیے پس اس کے مالک آئے اور سعد رضی اللہ عنہ سے اس کے مقدمہ کے بارے میں کلام کیا۔ پس سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تحقیق نبی کریم ﷺ نے حرام ٹھہرایا ہے یہ حرم اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی شکار کرنے والے کو اس میں پکڑے پس چاہیے کہ اس کا سامان چھین لے۔ پس میں وہ بخشش تم پر نہیں لوٹاؤں گا جو مجھ کو نبی کریم ﷺ نے دوائی ہے لیکن اگر تم چاہو تو بطور احسان کے تمہیں اس کی قیمت دے دوں۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔
تشریح: اس حدیث پاک کا خلاصہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور اس میں حرمت مدینہ منورہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔

مدینہ کے درخت کاٹنے کی ممانعت

۲۱/۲۷۱۲ عَنْ صَالِحِ مَوْلَى لِسَعْدِ أَنَّ سَعْدًا وَجَدَ عَبِيدًا مِنْ عَبِيدِ الْمَدِينَةِ يَقْطَعُونَ مِنْ شَجَرَةِ الْمَدِينَةِ
فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ وَقَالَ يَغْنَى لِمَوَالِيهِمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ
الْمَدِينَةِ شَيْءٌ وَقَالَ مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلَيْسَ أَخَذَهُ سَلْبَةً۔ (رواه ابو داود)

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۵۳۳/۲ الحدیث رقم ۲۰۳۸۔

ترجمہ: صالح مولى سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو کہ حضرت سعد کے غلام تھے تحقیق سعد رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے غلاموں میں سے کچھ غلام پائے کہ جو مدینہ کے درخت کاٹ رہے تھے۔ پس سعد رضی اللہ عنہ نے ان کا سامان لے لیا اور غلاموں کو کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ منع فرماتے تھے کہ مدینہ کا درخت کاٹا جائے اور فرمایا جو اس میں سے کچھ کاٹے پس اس کا سامان اس شخص کے لیے ہے جو شخص اس کو پکڑے۔ اس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔

تشریح: درست بات یہ ہے: عَنْ صَالِحِ مَوْلَى لِسَعْدِ لَفْظَ عَنْ لَكْنَهُ وَالْوَلَدُ سَعْدٌ يَمْصِفُ كَوَسْبُو هُوَ هَاسِ
اس لیے کہ صالح سعد کا غلام نہیں ہے بلکہ صالح تو امہ کا آزاد کردہ غلام ہے اور صالح نے یہ روایت حضرت سعد کے آزاد کردہ غلام سے روایت کی ہے۔

مقام و ج کی فضیلت و اہمیت

۲۲/۲۷۱۳ وَعَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ صِيدَ رَجُلٌ وَعِصَاهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ
(رواه ابو داود) وَقَالَ مُحْيِي السَّنَةِ وَجَّحَ ذَكَرُوا أَنَّهَا مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهُ بَدَلُ أَهْلِهَا۔

اخرجه ابو داؤد فی السنن ۵۲۸/۲ الحدیث رقم ۲۰۳۲۔ واحمد فی المسند ۱۶۵/۱۔

ترجمہ: حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا وجہ کا شکار اور اس کے کانٹے دار درخت حرام ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے حرام کئے گئے ہیں اس کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے اور محی السنہ نے کہا ہے کہ علماء نے تحقیق کی ہے کہ وجہ طائف کی جانب ایک جگہ ہے اور خطابی نے کہا ہے کہ اندک لفظ انھا کی جگہ ہے۔

تشریح: حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے یا اس کے دوستوں کی وجہ سے یعنی غازیوں کی وجہ سے وجہ کا شکار اور خاردار درخت حرام کئے گئے ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ وجہ کی اہمیت حج کی وجہ سے تھی یعنی اس میں غازیوں کے گھوڑوں کی گھاس وغیرہ محفوظ کی جاتی تھی اس لئے اس میں شکار کے لیے جانا حرام ہے اور اس میں درخت وغیرہ کا کاٹنا بھی حرام ہے یہ حرمت بطریق حرم کے نہ تھی اگر بطریق حرم کے تھی تو ایک وقت کے لیے مخصوص تھی پھر منسوح ہوگئی اور امام شافعیؒ نے کہا ہے کہ اس میں شکار نہ کیا جائے اور نہ اس کا درخت کاٹا جائے لیکن ضمان یعنی بدلے کا ذکر نہیں کیا گیا۔

مدینہ میں مرنے کی فضیلت

۲۳/۲۷۱۴ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلَيْمَتْ بِهَا فَأَنْتَى أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا۔ (رواہ احمد و الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب اسناداً)

اخرجه الترمذی فی السنن ۶۷۶/۵ الحدیث رقم ۳۹۱۷۔ وابن ماجہ فی ۱۰۳۹/۲ الحدیث رقم ۳۱۱۲۔ واحمد فی المسند ۷۴/۲۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ مدینہ میں مرے۔ پس تحقیق میں شفاعت کرونگا اس شخص کے واسطے نقل کیا ہے۔ باس طور پر کہ اگر وہ گنہگار ہوگا تو میں اس کی بخشش کرواؤں گا اور اگر وہ نیک ہے تو میں اس کے درجات بلند کرواؤں گا۔ اس کو احمد اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے سند کے اعتبار سے غریب ہے۔

تشریح: حدیث کے پہلے جملے کے معنی یہ ہیں کہ جو کوئی مدینہ میں سکونت اختیار کرنے پر قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں رہے یہاں تک کہ اس کو موت آجائے پس چاہیے کہ اس میں رہے یہاں تک کہ اس میں مرے تو میں اس کی شفاعت کروں گا اگر وہ گناہ گار ہوگا تو گناہ بخشواؤں گا اور اگر نیک ہوگا تو اس کے درجے بلند کرواؤں گا اور شفاعت سے وہ خاص شفاعت مراد ہے کہ جیسی وہاں کے رہنے والوں کے لیے ہوگی۔ پس اوروں کے لیے نہیں ہوگی۔ حضور ﷺ کی عام شفاعت سب مسلمانوں کے لیے ہوگی پس افضل یہ ہے کہ جس کی عمر بڑی ہو یا کشف وغیرہ سے معلوم ہو۔ کہ موت قریب پہنچ گئی ہے تو وہ مدینہ میں جا رہے تاکہ اس نعمت عظمیٰ کو پہنچے کیا خوب ہے دعا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی ہے: اللھم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اے الہی مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جیسے بے زور و بے پر کو بھی اس نعمت سے مالا مال فرمائے آمین۔

۲۳/۲۷۱۵ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرُ قَرْيَةَ مِنْ قَرَى الْإِسْلَامَ خَرَابَانِ

الْمَدِينَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ۔ (هذا حدیث یث حسن غریب)

اخرجه الترمذی فی السنن ۶۷۶/۵ الحدیث رقم ۳۹۱۹۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اسلام کی بستیوں میں سے آخری بستی جو خراب ہونے والی ہوگی وہ مدینہ کی بستی ہوگی۔ اس کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔
تشریح: حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب سب شہر وغیرہ ویران ہونگے اور مدینہ سب کے بعد ویران ہوگی یہ فضیلت حضور ﷺ کی برکت سے مدینہ منورہ کو حاصل ہوئی ہے۔

۲۵/۲۷۱۲ وَعَنْ جَوْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَيُّ هَؤُلَاءِ

الثَّلَاثَةِ نَزَلَتْ فِيهِ دَارُ هَجْرَتِكَ الْمَدِينَةُ أَوِ الْبُحْرَيْنِ أَوْ قَنِسَرِينَ۔ (رواه الترمذی)

اخرجه الترمذی فی السنن ۶۷۸/۵ الحدیث رقم ۳۹۲۳۔ فی المخطوطة ((هجرة))۔

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے فرمایا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے میرے طرف وحی کی کہ ان تین شہروں میں سے: ۱۔ مدینہ۔ ۲۔ بحرین۔ ۳۔ قنسرین میں سے آپ ﷺ جس شہر میں (سکونت اختیار کرنے کی غرض سے) اتریں گے وہی شہر آپ کے لئے دارالہجرت ہوگا۔ اس کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے۔
تشریح: حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ بحرین دریاے عمان میں ایک جزیرہ ہے اور قنسرین ایک شہر ہے اور حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ ان تینوں جگہوں میں جہاں چاہوں اور تاریخ مدینہ میں لکھا ہے کہ ہجرت سے قبل حضور ﷺ کو ان مذکورہ جگہوں میں رہنے کے بارے میں اختیار دیا گیا تھا پھر آخر میں مدینہ کی جانب ہجرت کرنا متعین ہو گیا۔

الفصل الثالث:

دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا

۲۶/۲۷۱۷ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ

الدَّجَالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ۔ (رواه البخاری)

اخرجه البخاری فی ۹۵/۴ الحدیث رقم ۱۸۷۹۔ واحمد فی المسند ۴۷/۵۔

ترجمہ: حضرت ابو بکرہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے فرمایا کہ دجال کا خوف بھی مدینہ میں داخل نہیں ہوگا اور اس دن مدینہ کے دجال کے خروج کے وقت سات دروازے ہونگے یعنی سات راہیں ہوں گی ہر دروازے پر دو دفرشتے یعنی دائیں بائیں محافظت کے لیے ہوں گے۔ اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حدیث پاک خلاصہ بالکل واضح ہے مدینہ منورہ میں دجال داخل نہیں ہوگا۔

۲۷/۲۷۱۸ وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَلْهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفِي مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ

مِنَ الْبَرَكَةِ۔ (متفق علیہ)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۹۷/۴ الحدیث رقم ۱۸۸۵۔ ومسلم فی صحیحہ ۹۹۴/۲ الحدیث رقم (۴۶۶)۔ (۱۳۶۹)۔

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے فرمایا کہ اے الہی تو مدینہ کو اس برکت

سے دوہری برکت عطا فرما جو تو نے مکہ شہر کو عطا کی ہے۔ اس کو امام بخاریؒ اور مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے آپ ﷺ نے مدینہ منورہ کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اے الہی! مدینہ کو دوہری برکت نصیب فرما جیسا کہ مکہ کو عطا فرمائی ہے۔ یعنی مدینہ کی قوت میں نسبت مکہ مکرمہ کی قوت کے دوہری برکت دے اور یہ مکہ میں حسنت کے زیادہ ہونے کے اعتبار سے اس کے افضل ہونے کے معانی نہیں ہے۔

۲۸/۲۷۱۹ وَعَنْ رَجُلٍ مِّنْ آلِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَنِي مَتَعَمِّدًا كَانَ فِي جَرَارِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَكَنَ الْمَدِينَةَ وَصَبَرَ عَلَى بِلَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَمِينِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

اخرجه البيهقي في شعب الايمان۔

ترجمہ: ایک شخص سے روایت ہے جو کہ خطاب کی اولاد میں سے تھا اس نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے قصد امیری زیارت کی وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا اور میری پناہ میں ہوگا اور جو شخص مدینہ منورہ میں رہا اور اس نے اس کی سختیوں پر صبر کیا تو میں قیامت کے دن اس کے لئے گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا اور جو شخص دونوں حرموں میں سے ایک یعنی مکہ مدینہ میں مرے گا۔ قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ اس والوں میں سے اٹھائے گا۔

تشریح ﴿ اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مدینہ منورہ میں خاص میری زیارت کے لیے ثواب کی خاطر آئے گا نہ کہ تجارت کی غرض سے اور نہ لوگوں کو سنانے اور دکھانے کے لیے الغرض کوئی دنیوی غرض نہ ہوگی۔ محض میری زیارت کے لیے آیا ہے۔

روضہ اطہر کی زیارت کی فضیلت

۲۹/۲۷۲۰ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا مِّنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي۔

(رواہما البيهقي في شعب الايمان)

اخرجه البيهقي في شعب الايمان۔

ترجمہ: حضرت ابن عمرؓ سے مرفوع روایت ہے کہ جس شخص نے حج کیا پھر میرے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی۔ پس وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ بیہقی نے شعب الايمان یہ دونوں حدیثیں نقل کیا ہیں۔

تشریح ﴿ روضہ مبارک کی زیارت کرنے والا آپ ﷺ کی زندگی میں زیارت کرنے والے کی مثل ہے اس لیے کہ حضور ﷺ اپنی قبر میں حیات ہیں اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مناسب تر یہ ہے کہ حج کے بعد زیارت کرے اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے اور ایک روایت میں آیا ہے جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی پس تحقیق اس نے مجھ پر ظلم کیا اور روایت میں آیا ہے کہ جس نے مکہ کی طرف قصد کیا۔ یعنی حج کے لیے پھر میری زیارت کا قصد کیا اور میری مسجد کے مشرف ہونے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے دو حج مبرور یعنی مقبول حج لکھے جاتے ہیں۔ ع جذب القلوب۔

بوجہ روضہ اطہر کے سر زمین مدینہ کی فضیلت

۳۰/۲۷۲۱ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا وَقَبْرُ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ فَاطْلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ مَضَجَعُ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَسَمًا قُلْتُ قَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَرِدْ هَذَا إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِثْلَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ بَقْعَةٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا مِنْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ۔

رواہ مالک مرسلًا

اخرجه مالک فی الموطأ: ۴۶۲/۲ الحدیث رقم ۳۳ من کتاب الجہاد۔

ترجمہ: یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق نبی کریم ﷺ نے ہوئے تھے اور مدینہ منورہ میں ایک قبر کھودی جا رہی تھی۔ پس ایک شخص نے قبر میں جھانکا اور کہا مومن کی خوابگاہ بری ہے یعنی قبر۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بری وہ چیز ہے کہ جو تو نے کہی۔ اس شخص نے کہا کہ میرا ارادہ یہ کہنے کا نہیں تھا بلکہ اس بات سے میری غرض راہ الہی میں شہید ہونے کی فضیلت کو ظاہر کرنا تھا۔ پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (ہاں! بات تو ٹھیک ہے) قتل فی سبیل اللہ کی طرح میرے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ زمین میں کوئی جگہ محبوب تر نہیں ہے میرے نزدیک کہ جس میں میری قبر ہو۔ آپ ﷺ نے تین مرتبہ یہ دعا ارشاد فرمائی۔ مالک نے یہ بات بطریق ارسال کے روایت کی۔

تشریح: ❶ بری ہے..... کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز بری ہے جو تو نے مومن کی قبر کے متعلق کہی ہے کیونکہ مومن کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس نے کہا کہ مطلقاً نہیں کہا ہے کہ قبر بری خوابگاہ ہے بلکہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا گھر میں مرنے سے بہتر ہے حضور ﷺ نے اس بات کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ شہید کی مانند کوئی نہیں ہے اور پھر اس شخص کی فضیلت بیان کی کہ وہ مدینہ میں مرے اور مدینہ میں دفن کیا جائے چاہے وہ شہید ہو یا غیر شہید۔

وادئ عقیق کی فضیلت

۳۱/۲۷۲۲ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِوَادِئِ الْعَقِيقِ يَقُولُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ ابْنٌ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِئِ الْمَبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ وَفِي رِوَايَةٍ وَقُلْ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ۔ (رواہ البخاری)

اخرجه البخاری فی صحیحہ ۳۹۱/۳۔ الحدیث رقم ۱۵۳۴۔ وابوداؤد فی السنن ۳۹۴/۲ الحدیث رقم ۱۸۰۰۔ وابن

ماجہ ۹۹۱/۲ الحدیث رقم ۲۹۷۶۔ واحمد فی المسند ۱/۲۴۱۔ (۱) وہی قراءۃ شاذۃ۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ عمر بن خطابؓ نے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا اور آپ ﷺ وادئ عقیق میں تھے فرمایا میرے پاس آج رات میرے پروردگار کی طرف سے آنے والا آیا، یعنی فرشتہ اور کہنے لگا کہ اس مبارک وادئ میں نماز پڑھو اور وہ عمرہ کہو جو حج کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ عمرہ اور حج کہو۔ یعنی اس میں نماز عمرہ

اور حج کے برابر ہوتی ہے۔ اس کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے۔

تشریح ﴿﴾ اس حدیث پاک میں وادی عقیق کی فضیلت بیان کی گئی ہے وادی عقیق ایک جنگل کا نام ہے اور عمرہ و حج کوہ یعنی وہاں کی نماز کو عمرے کے برابر شمار کرو کہ جو حج میں ہے۔ نماز کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے کہ اس جنگل میں نماز پڑھنا حج اور عمرہ کا حکم رکھتی ہے اور مدینہ منورہ کے مذکورہ فضائل کے علاوہ اور بھی بہت سے فضائل منقول ہیں۔

علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی مٹی کو پاک اور اس شہر کے میوہ جات میں شفا رکھی ہے۔

اکثر حدیثوں میں آیا ہے کہ مدینہ کے غبار میں ہر بیماری سے شفا ہے اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جذام اور برص سے شفا ہے اور حضور ﷺ نے اپنے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم فرمایا کہ بخار کا علاج اس خاک پاک سے کریں اور مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم سے بات متواتر چلی آتی ہے اور اس مٹی کے واسطے بطور دوا کے لے جانے کے لیے آثار وارد ہوئے ہیں اور اکثر علماء نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ شیخ مجد الدین فیروز آبادی فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے میرا غلام ایک مکمل سال سے بخار کی بیماری میں مبتلا تھا میں نے یہ مٹی تھوڑے سے پانی میں ڈالی اور اس غلام کو پلا دی۔ میرے غلام نے اسی دن صحت پائی اور میں نے بھی یعنی حضرت شیخ عبدالحقؒ نے اس معالجہ کا تجربہ کیا ہے کہتے ہیں کہ جن ایام میں میں وہاں قدموں کے مرض میں گرفتار تھا تو طبیبوں کے اتفاق کے مطابق یہ مرض لا علاج تھا۔ تو میں نے خاک پاک سے شفا پائی۔ تھوڑے دنوں میں میں نے اس مرض سے شفا پائی اور مدینہ منورہ کے میووں سے شفا طلب کی۔ صحیحین میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ جو شخص سات عجوہ کھجوریں نہار منہ کھائے اسے کوئی زہر و سحر اثر نہیں کرے گا اور مدینہ منورہ کی فضیلت یہ ہے کہ حضور ﷺ نے لوگوں کو وصیت کی کہ میری امت والوں کے لیے اس شہر کے رہنے والوں کے لیے تعظیم لازم ہے کہ میرے ہمسایوں کی حرمت کی حفاظت کریں اور ان کے حقوق کی رعایت کی حفاظت کریں اور ان میں کمی نہ کریں اور جو کچھ ان سے صادر ہو مواخذہ نہ کریں اور حتی المقدور درگزر کریں جب تک کے حق قائم کریں۔ جو کوئی ان کی حرمت کی حفاظت کرے گا میں اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا اور جو شخص اہل مدینہ کی حرمت کا خیال نہ رکھے گا اس کو طیۃ الخبال سے پلایا جائے گا اور طیۃ الخبال دوزخ میں ایک حوض ہے اس میں دوزخیوں کا پیپ و لہو جمع ہوتا ہے اور روایت میں آیا ہے کہ ایک دن حضور ﷺ نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور دعا کی خدایا جو کوئی میرے ساتھ اور میرے شہر والوں کے ساتھ برائی کا خیال کرے اس کو ہلاک کر دے اور فرمایا آپ ﷺ نے جو کوئی مدینہ والوں کو ڈرائے گا گویا کہ اس نے مجھے ڈرایا اور نسائی شریف میں آیا ہے کہ جس نے ازراہ ظلم کے اہل مدینہ کو ڈرایا اس کو اللہ تعالیٰ ڈرائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی اور روایت میں آیا ہے کہ کوئی عمل اس کا مقبول نہیں ہے نہ فرض اور نہ نفل اور وہاں کے آداب یہ ہیں کہ جس قدر وہاں رہے اس کو غنیمت جانے اور حتی الامکان مسجد میں حاضر رہے اور اس میں اعتکاف کرے اور خیرات کرے اور تمام اوقات کو صرف نماز و روزہ اور درود اور طاعت میں صرف کرے اور اگر مسجد میں ہو تو نظر حجرہ شریف سے نہ پھیرے اور اگر مسجد کے باہر ہو تو قبر شریف پر نظر رکھے اور خضوع اور خشوع سے نظر رکھے۔ اس کا حکم انتخاب کے طور پر خانہ کعبہ کی طرف نظر کرنے کا حکم ہے اور نورانیت اور شہر کے باہر سے روضہ شریف پر نظر کرنے سے اہل ذوق کو جو نورانیت اور سکون حاصل ہوتا ہے اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔

اور ادب وہاں کا یہ ہے کہ جس قدر شب بیداری وہاں ہو سکے کرے، اگرچہ ایک شب کیوں نہ ملے اس ایک رات کی قدر شب قدر سے کم نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے اور چاہیے کہ اس شب میں ایک ہی شب ساری عمر کا ماحصل سمجھتے ہوئے حضور ﷺ پر بکثرت درود پڑھے بلکہ تمام شب اس میں مشغول رہے۔

اور اگر نیند آنے لگے تو حضور ﷺ کا خیال جمال با کمال کا کر کے لذت حاصل کرے اور اس کو دور کر دے جب حضرت کے جمال با کمال کا خیال کرے گا تو نیند کہاں اور غفلت کہاں۔

اور وہاں کے آداب یہ ہیں کہ دل اور زبان اور اعضاء کو مسجد شریف میں داخل ہونے کے وقت ہر بری چیز اور خلاف اولیٰ سے بچائے اور ہمیشہ اس کا تصور رکھے کہ کس عظیم ہستی کے پاس حاضر ہوں اگر کوئی ایسے اوقات میں خلل ہو تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرے اور بقدر ضرورت مختصر کلام پر اکتفاء کرے اور مسجد کے آداب اوپر گزر چکے ہیں اور وہاں تھوک وغیرہ نہ ڈالے اس کو خصوصاً ملحوظ خاطر رکھے اور مسجد میں آنے سے پہلے روضہ شریف اور منبر کے درمیان مصلے پہلے سے نہ بچھوائے بلکہ اگر اس فضیلت کو حاصل کرنے کا شوق ہو تو سب سے پہلے ان پر بیٹھے اور قرآن کے ختم کرنے میں اس مسجد میں جو قرآن کے اترنے کی اور جبرائیل کی جگہ ہے اگرچہ ایک بار ہو کو تا ہی نہ کرے اور اگر ہو سکے تو پڑھے اور مطالعہ کرے یا کسی سے ان کتابوں کو سنے، جس میں حضور ﷺ کے فضائل اور آپ ﷺ کی فضیلتوں کو افضل الصلوٰۃ و اشرف التسلیمات بیان کیا گیا ہو تا کہ عبادت کا شوق پیدا ہو اور حضور ﷺ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو اور حضور ﷺ کی زیارت کے بعد جنت البقیع کی زیارت کرے کہ اس میں صحابہ کی قبریں ہیں اور سید الشہد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضور ﷺ کے چچا کی اور مسجد قبا کی زیارت اور مساجد اور کنوؤں اور حضور ﷺ کے تمام مکانات کی زیارت کرے لیکن اس میں کلام ہے کہ آپ ﷺ کے روضہ مبارک کی زیارت کے بعد ہر روز جنت البقیع کی زیارت کرے یا جمعہ کے دن کرے۔ جیسا کہ اب عادت ہوئی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اور تاج العین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ہر روز کرے اور ہر مرتبہ قبر شریف پر گزرے اگرچہ مسجد سے باہر کھڑا رہے اور حضور ﷺ پر صلوٰۃ و سلام بھیجے اگرچہ کئی بار گزر ہو اور اگر قبر شریف کے سامنے آئے تو زیارت کے آداب بجالائے اور وہاں کے لوگوں کی محبت و تعظیم کو ضرور ملحوظ خاطر رکھے۔ اگرچہ فق و بدعت کے منسوب و مطعون ہو۔ اس لیے کہ ان کو حضور ﷺ کی ہمتا نیگی ہی کافی ہے اگرچہ یہ صرف گناہ و بدعت کے زائل نہیں ہوتا اور حسن خاتمہ اور مغفرت سے محروم نہیں کرتا اور زیارت سے فارغ ہونے کے بعد جب وطن واپس آنے کا ارادہ کرے چاہیے کہ مسجد نبوی سے نماز و دعا کے ساتھ حضور ﷺ کے مصلیٰ کے یا اس کے قریب سے رخصت ہو۔ اس کے بعد قبر مبارک کی زیارت آداب کے ساتھ کرے اور کونین کی سعادت کے حاصل ہونے کی دعا مانگے اور جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور ان عبادات کے قبول ہونے اور اہل و عیال میں سلامتی کے ساتھ پہنچنے کی دعا کرے اور یہ دعا پڑھے:

اللّٰهُمَّ اَنَا نَسْلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبَرْدَ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَحِبُّ وَتَرْضَىٰ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ هَذَا آخِرَ الْعَهْدِ بَنِيكَ وَمَسْجِدَهُ وَحَرَمَهُ وَيَسْرُلِي الْعُودَ اِلَيْهِ۔ وَالْعُكُوفَ لِدَبِهِ وَارْزُقْنِي الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَدِّدْنَا اِلَىٰ اَهْلِنَا سَالِمِينَ غَانِمِينَ اَمِنِينَ اَوْ حُصُولِ مَقْصُودٍ اَوْ قَبُولِ كَيْلِ عِلَامَتٍ فِيْ سَفَرِنَا هَذَا اَوْ رِشَانِ اَمِيْدٍ اَوْ رِيْهِ۔

اے دلم باغست و چشم ابروش ☆ ابرگرید باغ خند و شاد و خوش

اگر اس وقت کسی شخص پر رونے کی کیفیت طاری نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ بہ تکلف اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری کرے ان باتوں کا تصور اپنے ذہن میں لے کر آئے کہ جن کے باعث گریہ وزاری کی کیفیت پیدا ہو۔ بہر کیف اس مقام میں رونا قبولیت کی علامت ہے اور اس کے بعد روتا ہوا ہاں سے غمگین حالت میں لوٹے اور رخصت کے وقت الٹے پاؤں نہ پھرے۔ یہ خالی کعبہ کے ہی لیے ہے اور رخصت کے وقت جس قدر ہوصدقہ کرے اور لوٹنے کے آداب یہ ہیں کہ لوٹتے وقت سفر والے آداب کی رعایت کرے۔ اور جب اپنے شہر میں پہنچے تو یہ دعا پڑھے:

اللہم انی استلک خیرھا وخیر اهلھا وخیر مافیھا۔ واعوذ بک من شرھا وشر اهلھا وشر مافیھا اللہم واجعل لنا بها قراراً ورزقاً حسناً۔

اور جب شہر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے:

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو علی کل شیء قدير۔ انبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون۔ لا الہ الا اللہ وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده واعز جنده فلاشی بعده اور اپنے آنے کی خبر پہنچنے سے پہلے اپنے اہل والوں کو پہنچائے اور اچانک گھر میں نہ آئے اور نہ رات کو آئے بہترین وقت چاشت کا وقت ہے یا رات سے پہلے دن آخر میں اور گھر میں آنے سے پہلے مسجد میں قصد کرے اور دو رکعت نماز پڑھ اگر مکروہ وقت نہ ہو اور دعا کرے اور سلامتی سے پہنچنے کی نعمت کا شکریہ بجالائے اور کہے: الحمد للہ الذی بنعمته وجلالہ تنم الصالحات اور جو کوئی سامنے آئے تو مصافحہ کرے اور گلے ملنا بھی جائز ہے بشرطیکہ ملنے والا امر نہ ہو اور جب گھر میں آئے دو رکعت نماز پڑھے شکر اور دعا اور حمد و ثناء مولیٰ کی بجالائے اور گھر والوں کی خبر پوچھ کر مسجد یا کسی اور جگہ میں گھر کے قریب آ کر بیٹھ تاکہ ملنے کو آئیں۔ پس جو کوئی ملنے آئے تو اس سے تواضع اور خوشی سے پیش آئے اور خصوصاً شہر میں آنے سے پہلے کی دعا کرے خصوصاً حاجی شہر میں پہنچنے سے پہلے مستجاب ہے اور اگر کوئی خلاف شرع چیز دیکھے مثل دف و مزامیر کے تو منع کرے اور خلاصہ آداب اور حج کے تمام افعال کا یہ ہے کہ اس مبارک سفر سے پھرنے کے بعد تجدید توبہ کا قصد کرے اور تقویٰ کو لازم پکڑے اور نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ علماء نے کہا ہے کہ مبرور حج کی علامت یہ ہے کہ جس حالت سے گیا تھا اس سے بہتر ہو کر لوٹے اور اس کی علامت یہ ہے اس کو نبی کریم ﷺ کی اتباع پر حرص ہو اور دنیا اور اس کے اہل کی محبت سے دل سرد ہو سے اور آخرت کی محبت سے سرگرم ہو۔

اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق کے ساتھ دوسری جلد کا کام پورا ہوا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔

تمت بالخیر